
NEW ROYAL PERSIAN ENGLISH DICTIONARY

NATIONAL PRESS
ALLAHABAD




THE NEW ROYAL PERSIAN-ENGLISH DICTIONARY



BY

DR. S. C. PAUL, B. Sc., PH. D.



THIRD EDITION

ALLAHABAD
RAM NARAIN LAL
PUBLISHER AND BOOKSELLER
1932

 [Price Rs. 4-8-0

Publisher's Note

THE sole right of Selling and Publishing the New Royal English-Persian and Persian-English Dictionaries has now been acquired by me with a view to add the said books to the well-known series of Dictionaries published by me and compiled by competent authors.

The reception accorded to the former editions of these Dictionaries, will, it is hoped, be continued as the reprints bear the same characteristics, *viz.*, clearness of arrangement and simplicity of definitions and meanings, which are bound to meet the requirements of students and to receive the approval of scholars. In the Dictionaries of this class, now extant, we generally notice that the definitions and meanings given are rather-more difficult than the words they attempt to explain and this makes confusion worse confounded. Sincere efforts have, indeed, been made in these pages to remove this drawback.

While the quality of the matter here is rich and the quantity full, the price, necessarily a great consideration in our land, is quite low and this factor may contribute not a little to the success of our enterprise.

As for the rest, if it is conceded that we can love our neighbour only when we know him well, then an Anglo-Oriental Dictionary may well be calculated to draw the East and the West yet closer, which, after all, are but geographical names and no entities. It is, indeed, an age when the Schoolmaster is abroad, and, equipped with a Dictionary, his triumph may be complete.

RAM NARAIN LAL

Publisher's Note

In [illegible] policy and Publishing the New [illegible] English-English and [illegible] Dictionaries has [illegible] with a view to [illegible] said books [illegible] well-known series of [illegible] published by [illegible] and compiled by competent authors.

The popularity accorded to the former editions of these Dictionaries, will, it is hoped, be continued as the [illegible] bear the same characteristics, e.g., clearness of arrangement and simplicity of definitions and meanings, which are found to meet the requirements of students and to receive the approval of scholars. In the dictionaries of this class, now existing, generally [illegible] the definitions and meanings given are more difficult than the words they attempt to explain and this makes confusion worse confounded. Sincere efforts have, indeed, been made in these pages to remove this drawback.

While the quality of the matter here is rich and the quantity full, the price necessarily a great consideration in our mind, is quite low and this factor may contribute not a little to the success of our enterprise.

As for the need, it is a [illegible] that we can [illegible] only when we know that well, then an Anglo-[illegible] Dictionary may well be [illegible] to draw the [illegible] and the [illegible] which [illegible] but geographical names and [illegible] indeed, [illegible] the [illegible] compared with a [illegible] his [illegible] may be [illegible]

RAM NARAIN LAL

THE NEW ROYAL
Persian-English Dictionary.

الف

ا alif, the first letter of the Arabic alphabet, in numeration it counts one.

آب *m. n.* (contraet from ابو), a father باپ-پدر

آب *m. n.* water, splendour, dignity, elegance, lustre (in gems) temper (of steed) edge, sharpness (of a sword) the word آب in Persian is used in a great many metaphoric and idiomatic expressions پاني آبرو عزت - فيض - خوبي - رونق - تلوار كي تيزي - چمک *

آب آتشي *f. n.* strong liquor. تيز و تند شراب

آب انار *f. n.* ruddy wine. شراب سرخ

آب انگري *j. n.* intoxicating liquour obtained from the fermented juice of grapes شراب انگوري *

آبا *m. n.* (*pl.* of اب or ابو) fathers. پدران

اِبا *m. n.* denial, *v.* to refuse to deny. انكاركرنا

ابابيل *m. n* a swallow. نام ايک پرند كا

اِباحت *f.* permitting, giving liberty. مباح كرنا حلال كرنا *

آباد *a.* cultivated, pleasant, peopled, populated, full of buildings and inhabitants, used in composition in the sense of city or village as, اكبر آباد the city of Akbar or (as the foreigners would say) Akbarville, the city of Agra. بسا هوا - خرش - خوب - ستائش - آفرين

آبادان synonymous with مزيد آباد - عليه آباد كا

آباداني *f. n* a cultivated, a habitation, populous, pleasant place, cultivation, population, abundance. آباد كي هرئي-خوشناجگه-كثرت

آبادانيدن *v.* to praise, to worship. تعريف كرنا ستائش كرنا - تعظيم كرنا *

آباداني synonymous with آباداني - مزيد عليه آباداني كا *

آباد بيشي *f. n.* first assessment of newly settled or cultivated land. نو آباد زمين كا پهلا خراج يا محصول *

آباد كار *m n* the original or first settler on waste land وه شخص جو ويران زمين ميں پهلے آباد هو

آبار *m n* white lead (pl of بير; a well) سيسه

آبان *m. n.* the eighth month of the Persian year. آتهران مهينه شمسي جسميں آفتاب برج عقرب ميں رهتا هے - تقريباً اگهن *

آبائي *a.* belonging to or descending from one's ancestors, paternal. ابري پدري - ابائي

آب باران *m. n.* rain water. بارش كا پاني

آب باز *m n.* a swimmer. پاني ميں تيرنے والا

آب بازي *f. n.* swimming, play or sport in water. پاني ميں تيرنا

آب بسته *m. n.* ice glass. شيشه - برف

آب بقا *m. n.* water of life, (Fr. Eau-de-vie). آب حيات - شعر و سخن *

آب بردن *id.* to plunder, to deprive of goods or valuables, to bring to ruin, to deprive of beauty or splendour. بے رونق كرنا-بےابرو كرنا

آب بر آتشي زدن *id.* to treat one mildly, to be gentle نرمي كرنا

آب بر روئے كار آوردن *id.* to get credit for one's success كام مين خوبي پيدا كرنا

آب بريسمان بستن *id.* to work without any motive or without any object in view. بيفائده كام كرنا - حد كي تلاش كرنا *

آبپاشي *f. n.* irrigation, sprinkling water on fields, etc., سينچنا - كهيتي كو پاني دينا - پاني كا چهڑكاؤ كرنا *

آبتاب *f. n.* brilliancy, splendour, grandeur. pomp. رونق - چمک

ابتدا *f. n.* beginning, commencement شروع

ابتذال *m. n.* vileness, servitude, meanness carelessness in preserving anything. ذليل كرنا بيهرده خرچ *

ابتر *a.* worthless, wanton, spoiled, disolute. بگڑا هوا - بدچلن - بيخبر آدمي *

ابتسام *m. n.* cheerfulness, a smile مسكرانه اور پهول كا كهلنا هنسنا *

ابتہاج *m. n.* gladness, cheerfulness, alacrity. خوشي - خوش هونا - کهلنا

ابتهال *v.* to lament, to weep. - آه وزاري کرنا - رونا

ابتلا *m. n.* suffering, misfortune, to test. آزمانا - بلا مين ڈالنا

ابتلاع *v.* to swallow, to gulp down. حلق سے نيچے نگلنا

آبتين *m. n.* name of Feredun's father. نام هے فريدوں کے باپ کا

آب جاويدان *m. n.* water of life. آب حيات

آب جاري *m. n.* running water, rivulet, a stream, tears flowing. -بهتا هوا پاني-ندي-آنسو-دهارا

ابجد *m. n.* the alphabet, the first letter counting one, the second two and according to their ancient arrangement. - حروف تهجي الف - بے

ابجد خوان *m. n.* one who is learning his alphabet. الف - ب - پڑهنے والا

آبجو *f. n.* a rivulet, a streamlet. - دريا - ندي دهارا

آب جوش *m. n.* gravy, soup. شوربا

آب جوئي *f. n.* the water of a stream. ندي کا پاني

آب چشم *m. n.* water of the eye, tears. آنسو

آب چشي *f. n.* giving drink to a child for the first time (generally about 6 months of age) preparatory to weaning him. بچے کو دوده چهڑانے کے پيشتر پهلي دفعه پانی دينا

ابحر *f. n.* (*pl* of بحر) a river. دريا

آب حرام *m. n.* forbidden water, *i. e.*, wine; insincere or hypocritical tears. منع کيا هوا پاني يعني شراب - رياکار - مکار

آب حسرت *m. n.* water of desire, wish, desire, appetite, longing. خواهش - مرغي

آب حيات *m. n.* nectar, the water of life, immortality. زندگي کا پاني مراد هے - شعر و معشوق کا منهه

آب حيوان *m. n.* water of life, a fabulous fountain so called. آب حيات نام ايک چشمه کا

آب خانه *m. n.* a reservoir; a cellar; a latrine. حوض - پاخانه

ابخره *m. n.* fever, vapours, exhalations (*pl* of بخار) بخار - بهاپ

آب خست *m. n.* a watermelon or cucumber. خربوزه يا ککڑي

آب خضر *m. n.* water of immortality; inspired knowledge. آبحيات - علم الهي

آبخوره *m. n.* a glass, a cup. - پاني پينے کا برتن گلاس

آب خورد } *m. n.* victuals, food and
آب خود } drink; fortune. آبخورش - ان جل

غصه کو آب خوردن *id.* to suppress one's anger. تهامنا

آب خوره *m. n.* a narrow mouthed vessel for drinking out of; a cup for drinking water. پياله

ابد *m. n.* eternity, without end. هميشگي لا انتها

آبدان *m. n.* a tank, a pot for water. - تالاب پاني کا برتن

إبداع *m. n.* the production of something new. نئي چيز کا پيدا کرنا

ابداء *v.* to create, to show. ظاهر کرنا - پيدا کرنا

ابدال *m. n.* a religious person, devotee, an enthusiast; an apithet assumed by Ahmad, the founder of the late Afghan dynasty. احمد کا لقب - اولياء الله

ابدال *m. n.* change, exchange, substituting one thing for another. بدل اکرنا - تبادله کرنا

آب دار *m. n.* the person intrusted with the charge of water for drinking. *adj.* polished, well-tempered (as steel), of a good water (as gems) a rich man. پاني بهرنے والا نوکر - چمکدار

آبداري *f. n.* polish of gems; sharpness (of a sword, etc); office of آبدار - چمک - صفائي

آب دانه يا آب و دانه *m. n.* food and drink, means of subsistence. خوراک اور پانی يعني خورش - رزق - کهانا پينا

آب درديده داشتن *id.* to be bashful, to be modest. شرم کرنا

آب درديده *id.* to weep, lit. tears in the eyes. رونا - آنکهوں مين آنسو

اب در بغل کردن *id.* to work aimlessly, to work without reason, purpose of motive. بيفائده کام کرنا اور اُس کام کا جو نهوسکے اراده کرنا

اب دزد *m. n.* an earthen vessel with a narrow neck, and having a hole in the bottom, when filled with water and the mouth stopped, no water flows from the hole below till the hand or whatever stopped the mouth, be removed (it is used as an experiment to illustrate the doctrine of the *horror vacui* by the followers of Aristotle. وه رستہ پاني کا جسکے نيچے پوشيده پاني جاري هو - وه برتن پاني کاجسکا منهه تنگ هو اور پيندے ميں اُسکے سوراخ هو - هندي پنچڑره

آب دست *m. n.* washing the hands (particularly after an unclean action); art, workmanship, profession, trade. وضو - کام کي رونق صنعت - کاريگري

آبدستان *m. n.* a pot for washing the hands (particularly after an unclean action) پاخانے کا لوٹا

آب دندان *m. n.* debility, sharpness and polish of the teeth. دانت کي تيزي - چمک - نقاحت - کمزوري

ابر *m. n.* a cloud. بادل

ابرار *m. n.* (*pl.* of ابر), just men, holy, pious, dutiful (to parents). ايماندار پاک - فرط برادر

آبرار *f. n.* victory, superiority. فتح - بڑا مرتبه

آبراز *v.* to show, to manifest, to make known, to come out. باهر آنا - ظاهر کرنا

ابر آزور *m. n.* a cloud without rain. بے مينهه کا بادل

اِبرام *v.* to lengthen, to strengthen, to trouble. تنگ کرنا - طول کرنا - مضبوط کرنا

آبراه *f. n.* a gutter, a flow. موري - سيلاب

ابر آفتاب *id.* a fruitless attempt. کرشش لاحاصل

اِبراء *v.* to be holy, to be disgusted. پاک هونا - بيزار هونا

ابر سياه *m n.* a black cloud. ابر غليظ

سياه بادل a thick cloud. گاڑها بادل

ابرش *m. n.* a piebald horse, in Sikandarnama it means a day سکندر نامه ميں مراد دن سے هے ابلق گهوڑا

ابرص *m. n* a leper, a chameleon, a potted, speckled. کوڑهي - چتکبرا - گرگٹ

ابر قره } ابر کره } *m. n.* name of a city in Persia فارس ميں ايک شهر کا نام

ابر کافور بار *m. n.* white hair. سفيد بالوں سے مرادهے

آب رواں *m. n.* a horse, a very fine kind of muslin, flowing water گهوڑا - ايک قسم کا کپڑا

ابرو *f. n.* the eye brow. بهوں

آبرو *f. n.* honour, character, renown, elegance, the name of a part. تازگي - نيکنامي - مرتبه - عزت

ابرو بهم در کشيدن *id.* to be displeased, to be angry ناخوش هونا - خفا هونا

آب روشني *f n.* splendent, elegance. چمک - رونق

آبرو طاق *m. n.* unparalleled eye-brows يکتا اور بے نظير ابرو

ابرو کشادن *id.* addressing. مخاطب هونا

ابرو ناز کردن *id.* to sport, to blandish, to be amorous. ناز و غمزه کرنا

ابره *f. n* needle, a scorpion's sting. بچهو کا ڈنک - سوئي

ابرهه *m. n.* name of a deputy of Abyssinian king. بادشاه حبشه کے نائب کا نام

آب ريز *m. n.* a watering can. - پاني دينے کا برتن - هزارا

ابريز *m* or *f. n.* pure gold or silver. خالص سونا يا چاندي

آب ريختن *id.* to disgrace. to bring one to shame بے عزت اور ذليل کرنا

ابريسم } ابريشم } *m. n.* sewing silk. ريشم

ابريشمينه *f. n.* a thing made of silk. ريشم کي چيز

ابريق *m. n.* an ewer, a water pot. چهاگل باني کي *adj* bright روشن

ابزار } ابازير } *m. n.* spices, condiments. seasoning. مصالح جو کهانے ميں ڈالے جاتے هيں

آب زر *m. n.* water of gold ; white wine. سونے کا پاني - سفيد شراب

آب زير کسے هشتن *id.* to impose upon another, to deceive, to cheat. دغابازي کرنا - کسي کو فريب دينا

آب زير گاه انداختن *id* fraud, imposture, cheating, roguery. مکاري

آب زلال *m. n.* pure limpid water. صاف شراب

آبسال *m. n* a vineyard, a garden. - انگوري باغ - باغ

آبستن *f. n.* pregnant. حامله هونا

آبستني *f. n.* a pregnant woman, flattery. پيٹ والي عورت - چاپلوسي

آبستني روز *m n* the day on which one is born, the day a child is born, a day of bringing forth a young one روز ولادت - دن جن نے کا

آب سرخ *f n* wine. شراب

آب سياه *m n* a whirlpool, ink, wine, deep water. روشنائي - شراب - گهرا پاني - بهنور

آبشار *m f. n* a water fall, cascade, cataract. جهرنا جهاں سے پاني گرتا هو چشمه کا پهاڑ

آبشخور *f. n.* destiny, a fountain, a tank. قسمت - تالاب - چشمه

آب شدن *id.* to be ashamed, to be abashed. شرمنده هونا

آبشم *m. n.* a cocoon ريشم کے کيڑے کا گهر

آب شناس *m. n.* the lead-man, or person whose occupation is to steer ships, a pilot. مانجهي - ملاح

آب شرر *m. n.* brackish or salt water. کهاري يا نمکين پاني

آبشره *m. n.* water cooled artificially by means of a solution of nitre ; iced sherbet. شررے سے پاني ٹهنڈا کرنا - برف ملا هوا شربت

آب شيراز *f. n.* wine. شراب

اِبط *f. n.* armpit. بغل

ابطال *m. n.* abolition, act of destroying or annihilating, refuting. بطال کرنا

ابطل *comp.* more vain or fruitless, very vain, &c. زیدہ مغرور

ابطاء *v.* to delay. دیر کرنا

آب طرب *f. n.* wine. شراب

ابطال *m. n.* brave men, heroes. - بہادر لوگ - دلاور آدمي

ابعاد *f. n.* (*pl.* of بعد), distances. دوري

آب عشرت *f. n.* wine, *semen genitale* شراب

آبق *m. n.* a runner, a fugitive. بھاگنے والا

ابقا *m. n.* preservation, confirmation, render in permanent, establishment. - مستقل کرنا - ثابت کرنا - باقي رکھنا

ابقو *m. n* saltpetre, nitre. شورہ

ابکار *f. n.* (*pl.* of بکر), virgins. - کواري لڑکي - خالص

آبکار *m. n.* a distiller (particularly of spirituous liquors), a water-carrier, a sprinkler, a drinker of wine, a wine-merchant. - کلال - شراب فروش

آب کش *m. n.* a drawer of water. پاني کھینچنے والا

آب کشي act of drawing or carrying water. پاني کھینچنا یا لیجانا

ابکم *m. n.* a dumb. گرنگا

آب کوثر *m. n.* nectar امرت

آبگذار *f. n.* a ford, a ferry, an express. پایاب

آبگذر *f. n.* a canal, a channel for water. نہر

آب گرم *m. n.* warm water, a hot bath. گرم پاني

آب گوهر *m. n.* water of pearls, pure limpid water, the name of a kind of blindness. چمک - صاف پاني - مرض موتیا بند

آب گال *m. n.* sweat emitting from the cheeks. مراد هے رخسارہ کے پسینے سے

آب گلگوں *m. n.* red wine. شراب سرخ

آب گیر *m. n.* a receptacle for water, a pool, a pond, a ditch, a weaver's brush. - تالاب - گڑھا

آبگینہ *m. n.* a mirror, looking glass, a drinking glass, wine, a diamond, grape wine, heart of a lover, tears. - کانچ - شیشہ - بلور - آنسو - دل عاشق - انگوري شراب

آبگینہ در جام افشاندن *id.* breaking off the wine glass. ساغر شراب کا توڑنا

ابل *m. n* camel. اونٹ شتر

ابلج *adj.* bright, show, a corpse. - مردا - روشن - ظاهر

ابلق *a.* piebald. black and white, party coloured. چتکبرا - سفید - دست و پا گھوڑا

آبلوج *f. n.* sugar candy, white sugar. - قند - سفید شکر

ابلہ *a.* foolish, silly, ignorant, bashful, simple. نادان - سادہ - بیعزت

آبلہ *m. n.* a blister, pimple. پھپھولا - پھنسي

ابلهي *f. n.* folly, silliness. بیوقوفي - احمق پن

ابلیس *m. n.* the devil, satan, a deceiver, a hopeless man. - شیطان - دغاباز - فریب دینے والا - نا امید

آب ماہ *f. n.* moonlight. چاندني

آب مروارید *m. n.* the name of a kind of blindness, *gutta serena*. مرض موتیا بند

آب موغان *m. n.* name of a pass in Shiraz. شیراز میں ایک سیر گاہ کا نام هے

آب معلق *m. n.* sky or heavens, firmament. مراد هے آسمان سے

آب منجمد *f. n.* snow, ice, *m. n.* a glass of crystal. برف - یخ - بلور کا پیالہ

ابن *m. n.* a son, a child. بیٹا - فرزند - پسر

ابنا *m. n.* (*pl.* of ابن) sons, companions, tribes, people. بیٹے - ساتھي - لوگ

ابن السبیل *m. n.* a son of the road, a traveller. مسافر - راهي

ابن العرس *m. n.* a mangoose. نیولا

ابن اللبون *m. n.* young one of camel. اونٹ کا شیر خوار بچہ

ابن الوقت *m. n.* a time-server. وہ شخص جو بمقتضاے وقت کام کرتا هو

ابن آوی *m. n.* a jackal. گیدڑ - شغال

ابنت *f. n.* daughter. دختر - بیٹي

آب نخوردن *id.* not to delay, not to be late, slow, etc. دیر کرنا - توقف کرنا

ابن سیرین *m. n.* name of a pious man who was well-versed in the science of interpretation. نام ایک بزرگ کا جو تعبیر کے علم کو خوب جانتے تھے

ابن صبح *m. n.* sun. آفتاب

آب نقرہ *m. n.* quicksilver, mercury. - سیماب - پارا

آبنوس *m. n* ebony. نام ایک لکڑي سیاہ رنگ کا

آبنوسي made of ebony. آبنوس کي لکڑي کا بنا هوا

آب و آتش *f. n.* wine. شراب

ابو *m. n.* father پدر باپ the word is frequently used as the first member of a man's name or epithet thus, ابوالفضل the name of the secretary to the Emperor Akbar. اکبر بادشاہ کا وزیر

ابواب *m. n.* (*pl.* of باب), chapters, doors. جمع باب کي - کتاب کے حصے - دروازے

ابوالبشر *m. n.* the father of the human race, Adam. حضرت آدم علیہ السلام

ابوت *a* paternal. پدري

ابوجعفر *m. n.* name of Imam Muhammad Baqar نام امام محمد باقر علیہ السلام کا

ابوزید *m. n.* name of a famous chess player who was very wise, eloquent, witty and shrewed. نام ایک مشہور شطرنج باز کا جو بڑا عقلمند اور فصیح اور ظریف اور عیار تھا

ابری *a.* paternal, ancestral. - منسوب طرب اب بمعني باپ کے

ابہام *m.* the thumb, suspicion, ambiguity, *adj.* covered, concealed, unknown. انگوٹھا - پوشیدہ - شک

أبہت *f.* greatness, grandeur, pomp. - بزرگی رونق - شکوہ

ابھي *a* very beautiful. بڑا خوبصورت

ابلار *m. n.* the name of a river in Cashmere کشمیر کي دریا کا نام

ابلاس *v* to be hopeless, to be sad. - نا اُمید ہونا غمگین ہونا

ابلاغ *m. n.* conveying, sending, to arrive. لیجانا - بھیجنا - پہونچنا

ابلام *v.* to test, to examine, to get one to work hard, to show, to economize. آزمایش کرنا - محنت میں ڈالنا - ظاہر کرنا - کفایت کرنا

ابي *a.* disobedient, rebellious. سرکش

آبی *a.* of or belonging to water, moist, humid, acquatic. نمي - گیلاپن

ابیات (*pl.* of بیت), houses, distichs, verses. شعر

آبیاري *f. n.* act of watering plants. پودوں میں پاني دینا

ابیض *a.* white, very splendid, shining. *f. n.* sword, silver. سفید - چمکدار - تلوار

ابیضان *comp. n.* milk and water, old age and youth, two days or 2 months, two white things, two veins in a camel's back. أونٹ کي چھاتي میں دو رگ ہیں - دودھہ اور پاني - دو روز یا دو ماہ - پیري جواني - اصلی معني دو سفید چیز

آبي و آتشي *id.* to be at loggerheads, to be against each other, misunderstanding between two persons, discord. ایک دوسرےسے جھگڑا کرنا - قضیہ کرنا

اتابک *m. n.* a master, a teacher, a title given to king of Shiraz, name of family who occupied the throne of Persia from A. D. 1148 to 1264, Sadi dedicates his Gulistan to a prince of this family. اُستاد - بادشاہان شیراز کا لقب

اسپ - گھوڑا

اَت *m. n* a horse.

آتالیق *m. n* a preceptor, tutor. اُستاد

أتاق *m. n.* a house, a tent خیمہ - مکان

آتان *f. n.* she ass. گدھي

أترقہ *m. n.* an ornament worn in the turban. کلغي

إتباع *v* to obey, to follow, following, obeying. تابع ہونا - پیروي کرنا

اتباع *m. n.* (*pl.* of تبع or تابع) followers, dependants. تابعدار

إتبال *v.* to perish, to make one an enemy, to detest. دشمن بنانا - فاني کرنا

إتجار *v.* to trade, to unite. ملانا - تجارت کرنا

إتحاد *m n.* union, intimate friendship, concord. دوستي - ملاپ

إتحاف *v.* to give as a present, curiosity or memorial تحفہ یا اِنعام دینا

إتخاذ *v.* to catch, to seize, to take. پکڑنا - لینا

اتراب *f. n.* young virgins of the same age. کمسن کنواري عورتین

إتراب *v.* to ruin, to disgrace. خاک میں ملانا

إتراص *v.* to equal, to strengthen, to level. برابر کرنا - مضبوط کرنا

أتراک (*pl.* of ترک) a Tartar or Turcoman. ترک لوگ

إتساع *v.* to be opened, or to be wide *f. n.* cataract (of the eye). کشادہ ہونا - ضعف بصر

إتساق *v.* to put in order, to be finished to be gathered or assembled, to be correct. فراهم ہونا - ترتیب دینا - درست ہونا

إتسام *v.* to mark. نشان کرنا

آتش *f. n.* fire, flame, glory, anger. usage, current, devil, hell, divine wrath, in Sikandarnama it means Romans آگ - شعلہ غصہ - رونق - جہنم - غضب اِلهي - شیطان

آتش افروز *m. n.* kindling fire, fuel. جلتی ہوئي آگ

آتش افشاں کردن *id.* to plunder, to ruin. خاک میں ملانا - تباہ کرنا

آتش انگیز *m. n.* an incendiary, a seditious man, *adj.* kindling, spreading or striving fire. آگ لگانیوالا - باغی آدمي

آتش بار *adj.* flaming, fiery, raining fire, *n.* a fire lock, a tinder-box آتش - برستي ہوئي آگ - بندوق - دیاسلائي

آتشباز *m. n.* a maker of fire works, a pyrotechnist. آتشبازي بنانیوالا

آتشبازي *adj.* pyrotechnics, pyrotechny, the display of fire-works, *n.* fire-works. کیلونے

آتش بیداد *m. n.* sun آتشبازي کے آفتاب

آتش سرد *f. n.* wine, lips of a beautiful woman, gold, silver. - لب معشوق · شراب · چاندي · سونا

آتش طبع *adj.* of a fierce or fiery disposition. تند يا سخت مزاج

آتش فارسي *f. n.* the venereal disease. مرض آتشک

آتش کده *m. n.* a furnace, a grate, chimney, the temple of fireworshippers, name of a recent biographical work in the Persian language. بھاڑ خانه - بھٹي

آتشين يا آتشي *adj.* fiery, hot. سخت

آتش محلول *m. n.* hot water, hot ointment, oil, grease or varnish, sun گرم روغن - سورج

آتش مزاج *m. n.* fiery-tempered. سخت مزاج

اِتصاف *m. n.* description, qualification, excellence, praise. تعريف · صفت · بيان

اِتصال *m. n.* conjunction, adhesion, union, attachment, contiguity, neighbourhood. ملنا - کسي کام کا لگاتار هونا

اِتضاح *v.* to be bright. روشن هونا

اِتعاب *v. t.* to cause grief to, to vex. - رنج دينا ستانا

آتعاب *m. n.* (*pl.* of تعب), grief, sorrow. رنج · غم

اِتفاق *m. n.* equality, friendship, union, concord, similarity of disposition, chance, fortune, accident, lot, opportunity, incident, success. - باهم ملنا اتحاد - ميل نسبت · کاميابي - موقع

اِتفاقاً *adv.* accidentally, by chance. اچانک

اِتفاقي *adj.* accidental, concurring. جو اِتفاق سے هو

اتقا *m.* avoiding, shunning, abstaining (from vice), piety, abstinence گناه سے بچنا پرهيز کرنا

اِتقان *v.* to strengthen, to give stability to. مضبوطي کرنا

آتقيا *m. n.* (*pl.* of تقي), religious men, devotees, the abstemious, those who fear God. جمع تقي بمعني پرهيزگار لوگ

اتکاء *v.* to depend, to rely. تکيه کرنا - بھروسه کرنا

اِتکال *v.* to trust, to depend. بھروسا کرنا

اتکه *m. n.* husband of a nurse. دايا کا شوهر

آتم *adj.* more or most perfect (from تام perfect, complete) کامل · بهت پورا

اِتمام *f. n.* accomplishment, perfection, completion. پورا کرنا - انجام کو پهونچنا

آتمک *f. n.* bread, loaf. روٹي

آتش پا *adj.* uneasy, restless. بيقرار

آتش پاره *m. n.* a spark, a lighted coal, beautiful person, an exciter of quarrels, quarrelsome. چنگاري خوبصورت مرد - جھگڑالو

آتش پرست *m. n.* a worshipper of fire, a guebre, of the sect of the Magi. فارس کي ايک قوم جو آگ کی پرستش کرتي هے

آتش پيکر *m n.* satan (Iblis) and genii created of fire. سورج · شيطان - جن وغيره

آتش تر *f. n.* wine. شراب

آتش‌خانه *m. n.* a fire temple, park of artillery. آتش پرستونکا مندر

آتش خوار *m. n.* a fire-eater, a bird so called (in Hind. Chakor چکور) A variety of *Tetras rufus*, Linn. a salamander. ايک پرند کا نام

آتش دان *m. n.* a hearth a fire place, a chafing dish. انگيٹھي

آتش دادن *id.* to excite, to arouse one's anger, to give up hope. کسي شخص کو بھڑکانا - مراد چھوڑ دينا

آتش دستي *m n.* superiority, conquest, assault, cleverness, trick, haste. چالاکي - جلدي - غلبه حيله

آتش ريز *m. n.* an incendiary or exciter of quarrels. *adj.* pouring out fire. آگ لگانيوالا جھگڑالو

آتش زبان *m. n.* an absurd talker, hard tempered. سخت مزاج

آتش زدن *v.* to spoil. خراب کرنا

آتشستان *f. n.* the region of fire, a place where fire abounds (hence applied to a hot fire of common or small arms in battle), a large fire, a funeral pile. - آگ کا ملک · لڑائي کے اوزار چتا

آتش فشان *f. n.* a volcano; *adj.* scattering fire. جوالا مکھي

آتش فگن *adj.* fire-dispering. آگ پھيلانيوالا

آتشکار *m. n.* a cook, a pyrotechnist - باورچي آتشباز

آتشکده *m. n.* tongs. چمٹا - دست‌پناه

آتشگير *m. n.* tongs. چمٹا

آتش ناک *m. n.* fiery, hot, - تند - سخت - گرم

آتشي *adj.* fiery, hot, irascible, choleric, a genius. a demon. گرم - چڑچڑا - جن

آتشي زنه يا آتش زن *f. n.* a tinder, touchwood, anything combustible, a tinder-box, with flint and steel, the phoenix, an imaginary bird چقماق · هر ايک چيز جو جل سکے · ققنس چڑيا کا نام

اثناء راہ in the middle of the road, *i.e.*, during the road, a fold or plait. درمیان رستہ کے

اثواب *m. n.* (*pl.* of ثوب) wearing apparels, garments. جمع ثوب کي بمعني پهننے کے کپڑے

اثیر *m. n.* æther, sky, marked, chosen, the region of fire. عالي - بلند اور بمناسبت بلندي کے آسمان کو کهتے هیں - کرہ نار

اثیل *m. n.* well-born, noble, genuine, of a noble descent. اصیل - ذاتي - محکم - بڑے خاندان کي نسل کا

اثیم *m. n.* sinful, a liar, a criminal. گناهگار

اثنین *a.* and *n.* two. دو

اثنیہ *f. n.* (*pl.* of ثنا) praises, جمع هے ثنا بمعني تعریف کے

اجاب *m. n.* (in law) the first proposal made in a contract, etc. by one of the contracting parties. اول راضي نامہ

اجابت *f. n.* consent, approbation ماننا - منظوري

اجاج *m. n.* bitter or brackish water, bitter salt. آب تلخ - آب شور - کڑوا نمک

اجادت *v.* to practise, to call one, good or virtuous نیک کهنا - نیک کرنا

اجادہ *v.* to give refuge, to bring لانا - پناہ دینا

اجارت *v.* to complain, to report, to release, to give refuge. پناہ دینا - فریاد کرنا - شکایت کرنا

اجارہ *m. n.* a farm, a privilege, or income of variable amount sold or let for a fixed sum, forming or contracting for rent or revenue, a lease, a contract ٹهیکہ - ٹهیکہ لینا

اجازت *f. n.* commands, orders, permission leave, dispensation, sanction. - حکم دینا پروانگي دینا

اجاص *m. n.* dried plums, prunes. آلوے بخارا

اجاق *m n* an oven, a fire-place. چولها

اجانب *m n* (*pl.* of اجنبي), foreigners, strangers. بیگانہ

اجانہ *m. n.* an earthenware, a jar for keeping preserves, etc. مٹي کا مرتبان جسمیں اچار یا مربا رکهتے هیں

اجبار *v* to oppress, to show strength. - جبر کرنا زبردستي کرنا

اجتباء *v.* to sort, to choose, to select, to like. پسند کرنا - چهانٹنا

اجترار *v.* to drag, to pull, to chew the cud. کهینچنا - اونٹ کا چرنا یا جگالي کرنا

اجتراء *v* to be bold to be impudent, to be brave دلیر هونا

آتون *m. n.* an oven, a hearth, a fire place, *adj* bad, ill, unlucky, a dupe. - خراب بدقسمت - چولها - بهاڑ

آتون *f. n.* a female teacher, a governess. استاني

اتهاب *v.* to accept one's present, to present بخشش قبول کرنا

اتهام *m. n.* suspicion, censure, in law, a charge, an imputation. تهمت لگانا - کسي پر درش دینا - ناحق بدنام کرنا

اتلا *v.* to be the owner of the old property. پرانے مال کا مالک هونا

اتلاف *v.* to lose, to waste, to consume ضایع کرنا - تلف کرنا

اتیان *m. n.* arrival, coming near. - نزدیک آنا پهونچنا

آثاث *m. n.* property, goods, household furniture, wealth, money, slaves, cattle, etc. گهر کا اسباب وغیرہ

آثار *m. n* (*pl* of اثر), signs, marks, traces, vestiges, histories, memorable events, the traditions of Muhammad. نشانیاں - بچے هوئے پیڑوں کے نشان

اثبات *f. n.* confirmation, affirmation, proof, certain knowledge. ثابت کرنا-ثبوت کو پهونچانا

اثر *m. n.* mark, sign, effect, impression, trace. تاثیر - نشان - ٹهکار - کهوج

اثفیہ *m. n.* a caldron, a pot. دیگ کا پایہ - چولهے کا پایہ

آثقال *adj.* (*pl* of ثقل), very heavy, heavier. برجهہ - بهار

اثل *m. n.* name of the tamarisk-tree. جهاؤ کا درخت

اثم *m. n.* a crime, sin, a lie, gambling, wine, an illegal act. جرم - گناہ

آثم *m. n.* a sinner, a criminal. گناهگار

اثمار *m. n.* (*pl.* of ثمر) fruits. جمع هے ثمر بمعني پهل

اثمان *f. n* (*pl.* of ثمن), prices, value. قیمت

اثمد *m. n.* antimony ground to a fine powder and applied to the eyes, a collyrium generally considered to be antimony. سرمہ کا پتهر جس سے سرمہ بنتا هے

اثناعشري *m. n.* the Shiahs or Shrites, a bowel. فرقہ شیعہ - آنت

اثناء *m. n.* the midddle, interstice, interval. بیچ - درمیان - عرصہ

اِجتماع *m. n.* act of assembling or gathering together, conjunction (in astronomy). اِکٹھا هونا - جمع هونا -

اِجتناب *m. n.* abstinence, continence بچنا - گوشه نشین هونا - پرهیزکرنا

اِجتناء *v.* to choose, to pick up fruits, to gather fruits. پھل چننا - میوه اٹھا کرنا

اِجتہاد *m. n* care, effort, deligence, carrying on war against infidels. کوشش کرنا

اِجداث *f. n.* (*pl.* of جدث) tombs, groves جمع جدث بمعني قبر - قبرین

اجداد *m. n.* (*pl.* of جد) ancestors, forefathers باپ دادا وغیره

اجدر *adj.* worthy. لائق تر - سزاور تر

اجدل *m. n* a kind of hawk. ایک قسم کا شکره

اجذم *m. n.* a handless man. ٹنڈا

آجر *f. n* a brick. خشت - اینٹ

اجر *m. n.* retribution, reward of good or bad actions, hire, fare. ثواب - انعام مزدوري

اِجرام *m. n.* (*pl* of جرم) bodies. جمع هے جرم بمعني جرم

اِجراء *m. n.* performance, exertion, *v* to perform, to put in practice کام چلانا - شروع کرنا

اجراي *m. n.* daily allowance of food. وه کھانا جو محتاجوں کو روز مره دیا جاوے

آجرب *m. n.* a man suffering from the itch or scab. وه شخص جسکو خارش کا عارضه هو

اُجرت *f. n* wages, reward, heir. مزدوري - انعام جاري کرنا

اجرد *m. n* a bald headed, a grassless jungle گنجا آدمي بے گھاس کا جنگل

آجرع *m. n.* a nose-clipt, noseless and ear cropt. نکٹا - بوچه

اِجز غیر ممنون *m. n.* rewards without loss. ثواب بے نقصان

اجزا *m. n.* (*pl.* of جز), parts, portions, sections of the Kur'an of which there are thirty. حصے

اِجزا *v.* to pay Jiziya جزیا or poll-tax. to pay wages, to award. جزیه دینا - بے نیاز کرنا - مزدوري دینا

اِجزال *v.* to be bounteous, to forgive بهت بخشش کرنا

اجساد (*pl.* of جسد) bodies. جمع جسد کی بمعني بدن کے

آجش *m n.* a man with a hoarse voice سخت آواز مرد

اِجفان *v.* to run, fly, to escape. دوڑ کر بھاگنا

اجفان *m. n.* hair on the eye lids. پلکوں کے بال

آجل *f. n.* death, delay, a stated time, respite, period for the payment of a debt, destiny. موت - دلیري - قسمت - وقت مقرره

اجل *prep.* for, cause. واسطے - اس لیئے - سبب

اجل *comp. adj.* more glorious. بڑا بزرگ - ذي شان

اِجلواد *v.* to go or walk running. تیز چلنا یا بھاگنا - دوڑ کر چلنا

اجلی *a* more bright, glorious. زیاده روشن

آجلد *f n.* hard ground. سخت زمین

آجل *m n.* end, the future or next world بمعني عقبی

اجماع *m. n.* act of assembling an assembly, senate council, court of justice, a crowd, a collection. amount. the whole. اکٹھے هونا - سب کي راے ایک بات پر متفق هوني

اِجمال *m. n.* an abstract, abridgement, compendious, account synopsis, also applied to joint accupancy or possession. کھول کرنا - کھنا - بهت کو تھوڑا کردینا - پراگنده کو اکٹھا کردینا

اجمام *v.* to give rest to a horse for an equipage, گھوڑے کو آرام دینا سواري کے لیئے

اجمعین *m. n.* (*pl.* of اجمع) the whole. سب - تمام - سب کے سب

اجمل *comp.* more beautiful, perfect, بهت خوبصورت

اجناب *v.* to be polluted or defiled. ناپاک کرنا

اجناد *m. n.* (*pl* of جند) armies. پلٹنیں

اجناب . اجنبي *m n.* foreigner, a stranger, an unknown person. پردیسي آدمي

اجنحه *m n* (*pl* of جناح) feathers and wings of cocks and men. جمع هے جناح کي بمعني مرغوں اور آدمیوں کے پر اور بازو

اجنه *m. n* (*pl.* of جني) embryos.

اجوبه (*pl.* of جواب) answers, replies. جمع جواب کي بمعني بهت سے جواب

اجوره *m. n.* hire, wages, fare. محنتانه مزدوري

اجوف *a.* empty, hollow, empty stomach کھوکھلا - شکم خالي

آجوفان *n* two empty things, *i. e*, stomach and Fr. *pudendum tum maris tum feminæ.* دو کھوکھلي چیزیں مراد هے پیٹ اور فرج سے

اِجهار *v* to show, to manifest ظاهر کرنا

اجهر *m n.* a man suffering from dysopia or day-blindness وه شخص جسکو دن کو دکھائي نه دے اور یه ایک قسم کا مرض هے - دنوندهي

اِجلاس *f. n.* act of sitting *esp.* of a court of justice like our wards sessions. بیٹھنا - کچهري کرنے کے لیئے بیٹھنا

اِجلال *m. n.* the bestowing or acknowledging of greatness, respect. بزرگي - شان - شوکت

اِجلاء *adj.* (*pl.* of جليل) glorious, illustrious. بزرگ - مشهور

اِجلاف (*pl.* of جلف) wretches. جمع هے جلف کي - کميني - سفلے - ظالم لوگ

اِجلاء *v.* to expel, to drive out. گهر سے باهر نکال دينا

آچار *m. n.* pickles.

آچي *m. n.* elder brother. بڑا بهائي

اح *f. n.* an exclamation, expressing pain; or when a man has cough: it is often reiterated *uh, uh.* آواز کهانسي کي - آواز درد کي

اِحاطه *f. n.* surrounding, enclosure; besieging (generally means the thing surrounded or enclosed, as a park, etc.) گهيرنا - چهار ديواري گهيري هوئي

اِحالت *id.* to give charge, to play tricks, to decieve, to say something which is absolutely impossible, to be one year old. حواله کرنا - حيله کرنا - ايک برس کا هونا - محال بات کهنا

احباب *m. n.* (*pl.* of حبيب) friends. جمع حبيب کي بمعني دوست

احبار *m n.* (*pl.* of حبر) the wise, the learned. جمع حبر کي بمعني عقلمند

اِحباط *v.* to falsify, to prove vain or absurd. باطل کرنا

اِحباء *m n.* (*pl.* of حبيب) freinds.

اِحتجاب *v.* to be concealed, to hide. - چهپ جانا - پرده ميں جانا

اِحتباس *v.* to stop, to prevent. *f.* stoppage of the menses. روکنا - خون بند هوجانے کي بيماري جو عورتوں کو هوتي هے

احتراز *m. n.* abstinence, regimen, abstaining from improper actions of any kind; forbearance, controlling the passions. - بچنا پرهيز کرنا

اِحتراس *v.* to guard, to set a watch. نگاهباني کرنا

احتراق *m. n.* strong desires, burning. جل جانا - سوخت هو جانا

احتساب *m. n.* making up accounts, superintendence of police, censorship, to test. حساب کرنا - آزمائش کرنا

احتشام *m. n.* having many followers, etc., pomp, retinue, magnificence. شکره - نوکر چاکر کا مالک هونا - صاحب حشمت هونا

اِحتضار *v.* the arrival of death. حاضر هونا موت کا

اِحتظا *a.* fortunate, prosperous, profitable, *v.* to be fortunate, to gain one's desire or wish. مراد پانا - بهره‌مند هونا

اِحتکار *m. n* in its literal sense signifies the laying up of anything and in the language of the law the purchasing of grain, or other necessaries of life and keeping them up with a view of enhancing the price. غله کو اس نيت سے جمع کرنا کله بوقت گراني نفع سے بکے - کسي چيز کا جمع کرنا

اِحتما *m. n.* to observe a regimen, to help. بيمار کا پرهيز کرنا - کسي شخص کي حمايت کرنا

احتمال *m. n.* act of bearing or supporting, doubt, uncertainty, probability. برداشت کرنا - بوجهه اُٹهانا - گمان کرنا - شک

اِحتوا *v.* to surrouud, to collect, to gather. گهيرنا - جمع کرنا

احتلام *m. n.* nocturnal pollution. خواب ميں ناپاک هونا

احتياج *m. n.* necessity, want, occasion, heed. حاجت‌هونا - کسي‌چيز کي خواهش هوني

اِحتياط *f. n.* caution, circumspection, foresight, scrupulousness. بچنا گناه سے - پرهيز کرنا - بري بات سے بچنا

اِحتيال *v.* to deceive, to defraud. - فريب کرنا حيله کرنا - مکر کرنا

آخ *m. n.* a brother. بهائي - برادر

آخ *inter.* sound of coughing, an exclamation of joy or praise. آواز کهانسي کي - دردکي آواز

اِخبار *m. n.* act of giving intelligence or information. خبرين يا اِطلاع دينا

اخبار *f. n.* (*pl.* of خبر), news, a newspaper. خبرين - پڑهنے کے کاغذ

اخبار نويس *m. n.* a writer of news, an appointed intelligencer, such as "our own correspondent." خبرين لکهنے والا

اُخت *f. n.* a sister: *adj* similar, congenial. بهن - همشيره - ايکسا - موافق

اُختان *m. n* (*pl.* of ختن) sons-in-law. جمع ختن کي بمعني داماد

اِختبار *v.* to test, to examine, to take care of, *m. n.* examination. خبر لينا - آزمانا - اِمتحان

اِختتام *m. n.* completion, fulfilment, finishing. ختم کرنا - پورا کرنا

آختر *m. n.* a star, constellation, good fortune, good omen, horoscope. ستاره - خوش قسمت - اختر - شوگن

اِختراع *m n.* invention, inventing, discovering, fancying. نئي‌بات نکالنا - اِيجاد کرنا

اِختراق *v.* to tear, to be exploded, to be burst, to be torn to pieces. پهاڑنا - ٹکڑے ٹکڑے کرنا

اختر شمار *m. n.* astrologer. نجومي

اختر شمردن *v.* the calculation of ones horoscope; to be vigilant. - رات کو نہ سونا - بیدار رهنا - ستارے گننا

اختر شناس *m. n.* an astrologer نجومي

إختصار *m. n.* abridgment, act of contracting, reducing, curtailing. کم کرنا - بہت کو تهوڑا کرنا

إختصاص *m. n.* peculiarity, appropriation. خصوصیت رکهنا - خاص کرنا یا هونا

إختطاف *v.* to vociferate, to dazzle - زور سے چلانا - چک چوند هونا

إختفا *m. n.* act of hiding, concealing, covering. چهپانا

آختن *v.* to drag a sword. تلوار کهینچنا

إختناق *m n.* quinsy, suffocation, strangulation. گلابند هو جانا

آخته (lit. castrated), *n.* gelding, a sword drawn. تلوار کهینچي هوئي - نامرد کیا هوا جانور

اخته خانا *m. n.* a stable. اصطبل گهوڑوں کا

إختلاج *v.* to flutter, to vibrate with convulsion, involuntary, motion as eye-lids and other muscles. عضو کا پهڑکنا

إختلاط *m. n.* friendship, intercourse, conversation, act of mixing, mixture, confusion. ملانا - صحبت - دوستي

إختلاف *m. n.* difference of opinion, opposition, discord, disagreement, misunderstandings between friends, coolness. - فرق تفاوت باهم فرق هونا

إختلال *m. n.* interruption, obstacle. - خلل ڈالنا خلل پڑنا

إختيار *v.* to approve of, to adopt, to choose, *n.* authority, will, power. پسند کرنا - ایک کو ماننا - ایک قسم کي بیماري جسے خناق کهتے هیں

إختيال *v.* to rebel, to think, to be proud, to be attentive - گردن کشي کرنا - خیال کرنا - غور کرنا - متوجه هونا

آخدان *m. n.* (*pl.* of خدن) friends. جمع خدن کي بمعني دوست

أخدود *f. n.* openings, rifts, cracks, fissures. پهاڑوں یا زمین کي دراریں

آخذ *v.* seize, assume, accept. *f. n.* objection, cavil, hostility, taking, seizing, intercepting. پکڑنا - اختیار کرنا - لے لینا

آخذ *m. n.* a captor. پکڑنے والا - لے لینے والا

آخر *adv.* in addition. *n.* greater quantity or number, something further. اور

آخر *m. n.* the end, issue, *adv* at last, finally. پچهلا - دوسرا - آخرکار

آخر (*dim.* of آخور), fodder, hay, grass, forage, *f.* the collar-bone. - گهوڑوں کي گهاس - چارہ - آدمي کي گردن کے نیچے اور سینے کے اوپر کي هڈي - هنسي

إخراج *m n.* expulsion, turning out of possession, expense or disbursement. نکالنا

إخراجات (*pl.* of إخراج) expenses, disbursements. جمع إخراج بمعني خرچ

آخرالامر *adv* finally, at last, at the end آخر کار

آخرب *m. n.* a depopulated country, ruined house, a deserted country or house. مکان یا ملک جو خراب اور ویران هو

آخرت *f. n.* futurity; the world to come, judgment day. انجام - دوسرا عالم - قیامت

آخرس *m. n.* a dumb. گونگا

اخرم *m. n.* a nose clipt, noseless. نکٹا

آخرين تهويل *m. n.* the day of judgment. قیامت کا روز

اخزم *m. n.* a male serpent, name of Hatim Tai's (famed for his boundless liberality) father. نر سانپ - پدر حاتم تائي

أخرىٰ *f. n.* another thing, late wife. پچهلي عورت - دوسري چیز

اخس *adj.* a more avaricious, meaner زیادہ لالچي - کمینہ

إخساء *m. n.* (*pl.* of خسیس) low men, base people. جمع خسیس کي بمعني کمینے یا خراب لوگ

أخشم *m. n.* one who has lost the sense of smelling. - جو خوشبو اور بدبو کي تمیز نہ کرسکے - جسکي قوت شامہ نہ هو

اخص *m. n.* more especial, more excellent. خاص تر

اخضر *m. n.* green colour or paint, a green thing. سبز رنگ سبز چیز

إخطا *v.* to accuse, to err, to miss. - خطا کرنا - الزام دینا

إخطار *v.* to endanger one's life. اپنے کو خطرے میں ڈالنا

أخطار *f. n.* (*pl.* of خطرہ) dangers خطرے

أخطب *m. n.* a good orator, *f.* colocynth. اچها خطبہ پڑهنیوالا - اندراین

آخف *adj.* very light. بہت هلکے

اخفاد *v.* to walk fast. جلدي چلنا

إخفات *v.* to be light, to be lightheaded. هلکہ هونا

أخفاف *m. n.* (*pl.* of خف), socks, stockings, soles of camel's feet. پائتاوے - موزے - اونٹ کے تلوے

اخفش *m. n.* one who has weak eyes, one who sees better by night than by day, name of the three astrologers. وہ شخص جسکي آنکهیں کمزور هوں - نام تین نجومیوں کا

إخفاء *v.* to hide, to conceal. *m. n.* concealment. • چهپانا

آخگر *m. n.* live ashes, a spark of fire, beginning of love. آگ کي چنگاري - عشق کا شروع

اخگر در پیرهن کردن *id.* to be restless, to be uneasy. بے آرام اور بیقرار هونا

آخم *f. n.* forehead, the wrinkles on the eyebrows. پیشاني - شکن ابرو

اخماد *v.* to put out or extinguish fire. آگ کا بجها دینا

اخمال *m. n.* ignoble, nameless. گمنام

اخمس *m. n.* a hard ground, a hard thing, a bold man, courageous. سخت جگهه - دلیر آدمي - سخت چیز

اخمص *m. n.* the pit in the soles of the feet. پانؤں کے تلوے

اخمه *f. n.* lines or wrinkles. - چیني اور شکني - سکڑن

اخناس *v.* to hide anything behind one's back پیٹهه کے پیچهے چهپانا

اخناع *v.* to humiliate. دوسرے سے عجزي کرنا

اخوات *f n.* (*pl.* of أخت), sisters. بهینیں

اخوال *m. n.* (*pl.* of خال), moles, maternal uncles. ماموں - خالیں - نشان - تل

اخور } آخور } *f. n.* refusals, offals, a stable, waste grass of the stable. اصطبل - گهوڑوں کے چرنے کي جگهه - گهاس جو پڑؤں کے آگے سے بچ رهے

اخور ساز *m. n.* head of a stable or a stall. طویله کا سردار

إخلاص *m. n.* affection, friendship, love. دوستي خالص کرنا

إخلاص مند *m. n.* a friend, affectionate, friendly. خیر خواه دوست

اخلاط (*pl.* of خلط), the humours of the body of men and animals, name of a city in Rome. ایک روم کے شهر کا نام - آدمي اور جانوروں کے جسم کي بیماري

اخلاف *m. n.* (*pl.* of خلف), virtuous boys who may out-live their fathers. سعادت مند لڑکے جو باپ کي موت کے بعد زنده رهیں

اخلاق *v. t.* & *v. i.* to be old, to make old. پرانا هونا اور کرنا

اخلاق *m. n.* (*pl.* of خلق), disposition, the good properties of mankind. ethics, morals. طریقے - آداب - نیک خصلتیں

إخلال *v. t.* to impoverish, to make poor, to reduce one to indigence. محتاج کرنا اور هونا

إخلاء *m. n.* (*pl.* of خلیل) intimate friends. دوست صادق

اخي *m. n* a generous man (in Pers), my brother (in Ar.). بهائي (عربي میں) صاحب مروت

أخیار *m. n.* (*pl.* of خیر), the good, the excellent. بهت سے نیک لوگ

اخیفي a brother or sister, by the same mother, but different fathers. بهائي جو ایک ماں اور کئي باپوں سے هو

اخیر *a.* last, late. *m. n.* the end, accomplishment, completion. پچهلا

آخیراً *adv.* at last, finally. آخر کار

آخیذ *m. n.* a prisoner, a captive. قیدي - گرفتار

اخیشج one opposite or contrary to the other as the four elements, *i. e.*, land, air, water and fire. چار عنصر یعني زمین - هوا - پاني اور آگ جو ایک دوسرے کے مخالف هیں

اخیشک is the right word and اخیشج is the changed word. بمعني مذکوره بالا یهه اصل هے اور اخیشج اُسکا مبدل هے

آخیف *m. n.* a man whose one eye is black, the other blue. وه شخص جسکي ایک آنکهه سیاه اور ایک نیلي هو

اخیل *m. n.* a man whose face is full of moles, a kind of cock. وه شخص جسکے چهرے پر تل هوں - ایک قسم کا مرغ

آدا *f. n.* blandishments, coquetry, discharge, payment, performance, voice. *v.* to liquidate, to pay. پورا کرنا - ناز انداز -

آداب *m. n.* (*pl.* of ادب) etiquette, devoirs, ceremonies, politeness, forms of address in writing and speaking, salutation, respects. طور - پسندیده - عقل - نگهداشت

إداب *v.* to cause grief to رنج میں ڈالنا

آداب فاضله *f. n.* talents, good qualities or habits, wisdom, sense. bravery, valour, justice پسندیده خصلتیں - شجاعت - حکمت - عدالت وغیره سے منسوب هے

إدام *m. n.* meat, fowl, or fish, dressed with spices and eaten with rice, the curry used by the Hindus consisting of vegetable only. سالن

إدامت *f. n.* eternity. همیشگي

ادانی *adj.* avaricious, stingy. لالچي - کمینے لوگ

آدب *f. n.* good breeding, respect, politeness, urbanity. تعظیم - قاعده - عقل

بے ادب شکستن *v.* to be rude, to be impudent. بے ادبي کرنا

إدبار *f. n.* misfortune, ill-luck, adversity, ruin. بداقبالي - بدنصیبي - کم قسمتي

آدبانه *adv.* honourably, respectfully. بطور ادب کے

آدات *m. n.* a tool or utensil. *f.* a particle, in grammar ; art. اوزار اور هتهیار - صنعت

إدخار *v.* to store, to collect. جمع کرنا - انبار لگانا

ادخنه *m. n.* (*pl.* of دهواں) smokes دهوئیں

إدرار *a.* daily, *n.* involuntary discharge of urine. روزینه - پیشاب جاري هونا

ادراج *m. n.* different ways, ways, act of inserting one thing in another. راهیں

إدراک *f. n.* wisdom, understanding, sense; to get, to receive, to inquire. پانا - عقل - دریافت کرنا

آدرخش *f. n.* lightning. بجلی

آدرفش *f. n.* an awl, a bodkin. ستالی

ادریس *m. n.* the Arabic name for the prophet Enock. نام ایک پیغمبر کا - اخنوخ

إدعا *m. n.* the act of demanding one's right or just claims. دعوی کرنا

ادعج *f. n.* black eyes. سیاہ آنکھیں

ادعیہ *f. n.* (*pl.* of دعا), prayers. دعائیں

إدغام duplication of a letter by تشدید; coalescence of letters (in Arabic construction); act of eating a thing without mastication. بغیر چبانے کے کسي چیز کا کھانا

ادق *a.* more or very subtle, abstruse or difficult. بہت باریک - بہت مشکل

إدفا *v.* to warm a thing. کسي چیز کا گرم کرنا

إدقاق *v.* to triturate, to knead flour very soft. باریک کرنا - آٹا نرم گوندھنا

ادقچھ *m. n.* a cover, a wrapper. چادر - ایک قسم کا فرش

إدکار *v.* to remember; to hear one's advice. یاد کرنا - نصیحت قبول کرنا

ادکن *adj.* ash-coloured. خاک کے رنگ کا

آدل *m. n.* a guide, a leader رہنما

إدلہ *f. n.* (*pl.* of دلیل), proofs, indications. ثبوت - دلیلیں

آدم *m. n.* Adam, the first man. حضرت آدم پہلا پیغمبر

آدم آبي *m. n.* a merman, a fabled marine creature, having the upper part like a man and the lower like a fish. جل مانس

آدم ثاني *m. n.* a title of the prophet Noah. حضرت نوح علیہ السلام

آدم خرر *m. n.* man-devouring, a cannibal. آدمي کو کھانے والا

إدمال *m. n.* the cure of a wound زخم کا اچھا ہونا

إدمان *f. n.* eternity, to drink liqour constantly. ہمیشگي - ہمیشہ شراب پینا

آدمگر *adj.* humane, benevolent. فیاض - نیک مرد

آدمي *m. n.* a descendant of Adam, a human being (man or woman) individual, people. آدم کي اولاد - انسان

آدمیت *f. n.* humanity, civility; انسانیت - نیک ہونا خلق

إدنا *v.* to bring near. نزدیک لانا

إدنات *m. n.* the sun about to set; *v.* to pine, a man nearing death owing to the separation of his mistress from him. آفتاب کا ڈوبنے کے قریب ہونا - عاشق کا معشوق کي جدائي میں قریب المرگ ہونا

ادنی *a.* inferior, low, little, mean, a person of no consequence. نالایق - کمینہ - کم رتبہ

آدوات *m. n.* tools, implements. (*pl.* of ادات). اوزار - ہتھیار

ادوار *f. n.* (*pl.* of دور) motions, revolutions. دور - گردش

ادون *m. n.* very mean or wretched; very near. بڑا کمینہ - بڑا حقیہ

ادیہ *f. n.* (*pl.* of دوا) medicines. دوائیں

إدھاش *v. t.* to trouble. حیران کرنا

إدھاق *v. t.* to fill a cup to the brim. پیالے کو لبالب بھرنا

آدھان *m. n.* (*pl.* of دھن) oils, unguents. - روغن تیل

إدھان *v.* to hide, to conceal, embezzle, to dispute, to tell a lie. چھپنا - خیانت کرنا - جھوٹ بولنا - خراب ہونا

ادھم *m. n.* a black snake, a cobra, a dark or dusky horse, name of a king of Bulkh, *f.* fetters. کالا سانپ - بلخ کے بادشاہ کا نام - بیڑیاں

آدھي *a.* more difficult or abstruse, more abominable, more wise in wordly transactions. دشوار تر مکروہ تر - عقلمند امور معاش میں

إدلا *v.* to forsake, to leave, to put one's burden on another's shoulder. اپنا کام کسي پر ڈالنا - چھوڑنا

ادلاج *v.* to walk in the night. رات کو سیر کرنا

إدلال *v.* to coquette, to blandish, to ogle ناز کرنا - غمزہ کرنا

ادیان *m. n.* (*pl.* of دین), religions. مذہب

ادیب *m. n.* a teacher; *adj.* courteous. - أستاد قدردان - مہربان

ادیم *m. n.* goat's leather perfumed, which they bring from Arabia, Pers., the face; the world. چمڑا - روئے زمین

ادیم طائفي *m. n.* leather coming from Taiyif. مقام طائف کا چمڑا

ادینہ *m. n.* Friday. جمعہ کا روز

إذ
إذا } *adv.* and *conj.* when, *inter.* lo, behold. جب - جسوقت - جبکہ - دیکھو

آذار *m. n.* name of one of the Chaldean months, nearly corresponding to March. رومي مہینہ تقریباً ماہ چیت

آذان *f. n.* summons to prayers, generally proclaimed from the minars or towers of a mosque. آواز - نماز کے وقت کي بانگ

آذان *m. n.* (*pl* of اُذن), ears. کان

اذعت *v.* to show, to manifest. ظاهر کرنا

اِذاقت *v.* to revenge on one, to take vengeance from. بدلہ لینا - مزہ چکھنا

اُذبک *m. n* an Uzbek, or one of the Tartar tribe so called.

اِذخر *f. n.* a kind of grass giving a sweet smell. ایک خوشبودار گھاس جسکو پرحیا کہتے هیں

آذر *f. n.* fire, love, *m.* the name of Abraham's father (Terah), the ninth solar month آگ - عشق سے بھي مراد هے - حضرت ابراهیم کے باپ کا نام - نام ماہ شمشي کا تقریباً ماہ پوس

آذر آبادگان *m. n.* nam of a city. نام ایک شہر کا

آذر گشپ *f. n.* lightning, name of a great king, name of a fire temple برق - بجلي - نام ایک بڑے بادشاہ کا - نام ایک بڑے آتشخانہ کا

اِذعاں *m. n.* submission, obedience, confidence, belief. فرمانبرداري - اطاعت - یقین - عاجزي کرنا

آذفر *f. n.* strong smell (pleasant or unpleasant), musk, real, pure. تیز بو اچھي هو یا بري مشک - تیز بو اور بمعني خالص

اَذقان *f. n.* (*pl.* of ذقن), small, little. جمع هے ذقن بمعني تھوڑي کے

اِذکار *v. t.* praising (God), remembering. ذکر کرنا - یاد دلانا

اذکار *f. n.* (*pl.* of ذکر) praises of God. خدا کي تعریفیں - ثنا

اذکی *m. n.* very wise. بڑا عقلمند

آذل *m. n.* lease, most vile, abject ذلیل تر

اُذن *m. n.* ears. گوش بمعني کان

اِذن *m. n.* permission, dismission, order. پروانگي - حکم - اجازت

اِذناب *v.* to sin. گناہ کرنا

اذناب *f. n.* (*pl.* of ذنب), tail. جمع ذنب بمعني دم کي

اذی *f. n.* trouble, misfortune, *m.* pain, harm. تکلیف - دکھہ - ایذا

اِذهاب *v.* to carry, to take, to continue, to gild. لیجانا - جاري کرنا - سونے کا ملمع کرنا

اِذهال *v.* not on one's guard غافل - گناہ کرنا

اِذهان *f. n.* (*pl.* of ذهن), gennises, intellects, capacities. عقل - تمیز

اِذلال *v.* to disgrace, to ruin. ذلیل کرنا - خوار کرنا

اذیال *m. n.* (*pl.* of ذیل) skirt of a garment, sheet (of a sail on shipboard), the foot or declivity of a mountain. جمع هے ذیل بمعني دامن کے (کپڑا یا کوہ)

اِذیت *f. n.* wanton, injury, oppression, distress, vexation. تکلیف - مصیبت - دکھہ

آذیش *f. n.* fire, dust, rubbish, litter of things, stuffs, door frame, threshold. خس و خاشاک - چوکھٹ دروازے کي - دهلیز - آگ

اِذین *f. n.* decoration, ornament, mirror making. آراستگي - آئینہ بندي

آر (*r.* of آوردن) bring thou, used in *comp*; as برآر fruit-bringing, fertile. لاؤ - لے آؤ

ار *conj.* (*contr.* for اگر) if اگر

آرائے } in composition, denotes adorning; as آرا } جہاں آرا, world-adorning

آرا *f. n.* gennises, senses. آراستہ کرنے والا - بہت سي عقلیں

آرابہ *m. n.* a wheeled-carriage, gun-carriage, etc., a cart گاڑي - چھکڑا

اِرابت *v.* to doubt. شک کرنا

آراحیف *m. n.* fools, base, *f. n.* falsehoods. کمینے لوگ - بیہودہ لوگ جھوٹھہ باتیں

اِراحت *v.* to rest, to comfort, to rob, to steal at night. آرام کرنا - رات کو چرانا - کسي کو راحت یا آسائش دینا

اِرادت *m. n.* desire, inclination, wish, purpose, design, plan, intention. ارادہ کرنا - مرید هونا

اِرادي *f. n.* approbation, choice, authority. power. اختیاري - ارادہ کا

آراذل *m. n.* unfit, unworthy, base, mean. نالائق لوگ - کمینے آدمي

آراستگي *f. n.* dressing. preparation, ornament سنوارنا - زیبائش کرنا

آراستي *v.* (*r.* of آرا or آرائے), to adorn. سنوارنا

آراستہ *ad.* prepared, dressed, adorned, embellished, decked out, regular. زیبائش کیا هوا -

آراضي *f. n.* (*pl.* of ارض), lands detached, portions of land. جمع ارض بمعني زمین کے

آراک *f. n.* a tract of land, name of a tree whose root is used in making tooth powder. قطعۂ زمین - درخت پیلو جسکي جڑ سے مسواک بناتے هیں

آرام *m. n.* ease, rest, health, relief, repose. چین - سکھہ

آرامش *m. n.* rest, comfort, leisure, ease. - فراغت آرام - راحت

آرامگاہ *f. n.* a resting place, a bed chamber جگہہ راحت و آرام کي

آرامیدن *v.* to rest, to get ease or comfort. آرام کرنا آرام پانا

آرانگ *m. n.* (*pl.* of اریکہ), thrones, seats تخت

ارائل *f. n.* widows. بیوہ عورتیں

آرائیدن *v.* to adorn, to deck. آراستہ کرنا

آرائیش *f. n.* embellishment, ornament, equipage, preparation, dressing. زیبائش - آراستگي

ارباب *m. n.* (*pl.* of رب), possessors, lords, masters. صاحب مالک
ارباب حجت *m. n* logicians. منطقي لوگ
ارب *f. n.* need, necessity. حاجت
اربعین / اربعون *a.* and *n.* four times ten, forty. چالیس (۴۰)
اربع *a.* four. چار (۴)
اربیہ *m. n.* the groin. ران کي جڑ - چڈھا
ارتباح *v.* to take interest سود لینا
ارتباط *m. n.* friendship, connection. - ربط کرنا دوستي - ملانا
ارتجا *v.* to hope. أمید رکھنا
ارتجال *v.* to speak swiftly, to do a work at once, to say or do a thing inconsiderately. بغیر سوچے بولنا - جلدي بولنا - کام کا فوراً کرنا
ارتجیک *f. n.* lightning. بجلي
ارتحال *m. n.* death ; act of marching or travelling. موت آنا - کوچ کرنا
ارتداء *v.* to throw sheet on one's shoulder. کندھے پر چادر ڈالنا
ارتداد *m. n.* apostasy, recantation, refusing, opposing. مذھب سے پھر جانا
ارتسام *m. n.* plan, painting, writing, a distinguishing mark. تصویر کھینچنا - منقش ھونا
ارتشا *f. n.* bribery, corruption ; accepting a bribe (a judge) رشوت کہانا - گھونس لینا
ارتشاف *v.* to suck. چوسنا
ارتضا *f. n.* mutual agreement, mutual satisfaction. باھم راضي ھونا - آپس میں خوش ھونا
ارتضاع *v.* to drink milk دودھ پینا
ارتعاش *v.* to shake, to tremble. کانپنا
ارتعد *v* to tremble, to shake کانپنا
ارتفاع *m. n.* elevation, exaltation, ascent, height, grandeur, prosperity, tax. - اونچا ھونا بلندي - نفع - محصول
ارتفاق *v.* to form company with, to make friends. رفاقت کرنا
ارتقاب *v.* to be hopeful. امیدوار ھونا
ارتقاء *v.* to make improvement, to make progress, to elevate. چڑھنا - ترقي کرنا
ارتکاب *m. n.* perpetration or commission (of a crime) ; commencement or undertaking of an enterprise, to like, to adopt. اختیار کرنا پسند کرنا
ارتماس *v.* to dive. پاني میں غوطہ لگانا
ارتہان *m. n.* act of receiving any article as a pledge ; a hostage. رھن کرنا - گرو رکھنا
ارتیاب *v.* to doubt. شک کرنا
ارتیاح *v.* to find comfort. راحت پانا
ارتیاع *v.* to fear. ڈرنا

ازث *f. n.* heritage, inheritance. مردے کا مال خاکتو - وصیت کا مال
ارج *f. n.* worth, respect, honour, estimate, a rhinoceros اندازہ - قیمت - قدر - مرتبہ - حد اور گینڈا
ارجاع changing, returning or substituting, attending. رجو کرنا - متوجہ کرنا
ارجل *m. n* a horse with one white fore foot, a large or tall man وہ گھوڑا جسکا ایک پانوں سفید ھو - ایک لمبا آدمي
ارجمند *a.* happy, blessed, dear, noble, beloved. صاحب رتبہ - صاحب قدر
أرجوجہ *non.* a cradle, a swing, merry go-round جھولا - ھنڈولا
ارچہ *conj.* if, although, though (*contr.* of اگرچہ) اگرچہ - حرف شرط کا
ارچند *conj.* though. ھر چند
ارخا *v.* to forsake, to give up, to make lazy. سست کرنا - چھوڑ دینا
ارخا *f. n.* back. بمعني پشت یعني پیٹھ
ارحم *adj.* more or very merciful. - نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا
آرد *m. n.* flour, meal ; fault, transgression ; coarsely ground meal. آٹا - اناج پسا ھوا - تقصیر
أردي بہشت *m. n.* name of one of the Persian months, April. بہار کے ایک مہینے کا نام - ماہ اپریل
اردبیل *m n.* name of a wrestler, also of a city نام ایک پہلوان کا - نام ایک شہر کا
اردشیر *m n.* name of several of the Persian Kings, Artaxerxes. - لقب ھے بہن بیٹے اسفند یارکا لفظ ارد کے معنے - غصہ ور - لفظ شیر جانور درندہ مشہور ھے - یعني شیر کي مانند بہادر
اردوان *m. n.* name of a king, the master of اردشیر بابکان who became a king after killing his master, name of a country. نام ایک بادشاہ کا جسکا نوکر اردشیر بابکان تھا - یہہ نوکر اپنے آقا کو مار کر خود بادشاہ ھوا - نام ایک ولایت کا
آردو *m. n.* an army, a camp ; a market. لشکر گاہ - بادشاہ کا لشکر
أردک *m. n.* name of a water fowl مرغابي - ایک پرند کا نام
ارذل *adj.* (*pl.* of رذل), most mean, vile. بہت ذلیل - بڑا نیچ
أرز *m. n.* rice. چاول
ارز *f. n.* price, rate. قیمت - مول - بھاؤ
ارزاق *m. n.* (*pl.* of رزق), livelihood, living, riches, possessions. روزي
ارزاں *a.* cheap, abundant. سستا - جو مہنگا نہ ھو - کثرت سے

ارزاني *f. n* cheapness, abundance of provisions. سستا پن

آرزم *f. n.* war, battle, splendour, pomp. جنگ و کار ساز - شان و شوکت

ارزن *m. n.* millet seed. چنا - نام ایک غله کا

ارزنده *f. n.* valuable thing, costly or precious thing. قیمتي چیز اور بیش بها

آرزو *f. n.* wish, desire, hope, want, distress. خواهش - اُمید

آرزومند *a.* desirous, longing. صاحب اُمید

ارزیدن *v.* to be worth, to suit. قیمت پانا - لائق هونا

ارزیز *f. n.* tin, lead, base or light money قلعي - رانگا

ارژنگ *m. n.* the house and gallery of Mani, a celebrated painter. (ایک مشهور نقاش) ماني کا تصویر خانه

اِرسال *m. n.* mission, act of sending, especially a writing letter, etc. بهیجنا - خط بهیجنا

ارسطو - ارسطا طالیس the Grecian philosopher Aristotle سلطان سکندر رومي کا وزیر - نام حکیم کا جو افلاطون کا شاگرد تها

ارسلان *m. n.* a lion, a man's surname, name or epithet of several Persian kings - بنده غلام - شیر - درنده

اِرشاد *m n.* command, order, to instruct, to guide. هدایت کرنا - راه بتلانا

اِرشش *v. i.* to rain in small drops, to drizzle. مهین مهین بوندیوںکا پڑنا

ارشد *ad.* more or most upright, most tenacious of the right way, a person who explains orders, commands, etc., particularly of the deity. بهت بڑا هدایت یافته آدمي

ارض *f. n.* the earth, a portion of land. زمین

ارضه *m n.* white ants. دیمک

ارضي *adj.* earthly, terrestrial, mundane. زمیني - زمین کا

ارضین (*pl* of ارض)

اِرعت *m. n.* bleeding of the nose; the filling of water in a skin bag ناک سے خون نکلنا - پاني سے مشک کو بهرنا

ارغام *v.* to disgrace, to dishonour. ذلیل کرنا

ارغل *m. n.* an uncircumcised. ایک شخص جسکا ختنه نه هوا هو

ارغنون *m. n.* an organ. آرگن باجا جسے ارغن کهتے هیں - ایک راجه کا نام

ارغوان *m. n* a plant whose flowers and fruits are of a beautiful red (arbor Judæ), a red colour. سرخ و نارنجي رنگ

ارفع *a* more or most high, sublime. بلند تر

ارق *f. n.* wakefulness, state of being awake. بیداري

اِرقال *v.* to walk fast. دوڑ کر جانا - جلدي چلنا

اِرقام *v.* to write. *m. n.* act of writing لکهنا

ارقام *m. n* letters خط

ارقم *m n* a black snake with white stripes or dots on his back کالا سانپ جسکي پیٹه پر سفید دهاریاں یا نقطے هوں

ارکاض *v.* to be hasty. کام میں جلدي کرنا

ارکان *m. n* (*pl.* of رکن), pillars. جمع رکن بمعنے ستون کے

اِرکان دولت *m. n* nobles, grandees; lit. pillars of state. اُمرا - وزرا

ارگجه *m. n* the name of a perfume of a yellowish colour, compounded of several ingredients. ایک خوشبو کا نام هے

ارم *m. n* name of a fabulous garden in Arabia made by Shedad, a paradise. بهشت جو شداد نے اِس دنیا پر بنائي تهي

اِرماض *v.* to be burnt with hot sand گرم ریت سے جل جانا

ارمان *m n* desire, wish, longing, inclination, hope. آرزو - حسرت

ارمانیدن *v.* to be anxious, to be sorry or sad. آرزو کرنا - حسرت کرنا

ارمغان *m. n.* variety, curiosity, present; a piece of money. تحفه - سوغات

آرمن *m. n.* Armenia. نام ایک ملک کا جو ایران اور روم اور فرنگ کے درمیان هے

آرمیدن *v.* to be at rest, to repose. آرام کرنا - بدن کو سکهه دینا

ارنب *m. n.* a hare, a rabbit. خرگوش

ارنبه *f. n.* a female hare: nostril. - مادہ خرگوش نتهنا

آرنج *f. n.* the elbow. کهني - بازو کو بهي کهتے هیں

آرنده *m n.* a poster, a carrier. حمال - کسي چیز کا لانے والا

ارنه *conj.* if not, otherwise. ورنه - نهیں تو

اِروا *v.* to satisfy, to water sufficiently. سیراب کرنا

ارواح *f. n.* (*pl.* of روح), spirits, souls. روحیں

اروغ *m.* belch, eructation. ڈکار

آروغیدن *v.* to belch ڈکار لینا

آروین *m. n.* experience, exmination, temptation آزمایش - تجربه - امتحان

آره *f. n.* a saw. آره - لکڑي چیرنے کا اوزار

اِرهت *v.* to sharp a sword. تلوار تیز کرنا

ارنڈ *m. n* a pauper, a bachelor. - غریب - رنڈوا مسکین

ارنڈ *m. n.* a man suffering from eye sores. آدمي جسکي آنکهیں دکهتي هوں

اري *m. n.* honey. شهد
اريب *m. n.* wise, learned. عقلمند - عالم
اريحا *m. n.* Jericho, name of a city in Syria which was conquered by Joshua. نام ايک شهر كا ملک شام ميں جسے يوشع عليهالسلام نے فتح كيا تها
اريغ *m.* hatred, malice, anger, indignation. نفرت - كينه - غصه - غضب
اريكه *m. n.* a throne, a bedstead. تخت - مسهري دار پلنگ
آرے *adv.* yes. هاں
آز *f.* avarice. لالچ
از *prep.* from, by, than, with, of, out. سے كا
آزاد *a.* free, solitary, a kind of fakir who shaves his beard, eyelashes and eyebrows and vows chastity, but considers himself exempt from the ceremonial observances of his religion, name of a tree, a tree bearing no fruit. بے قيد - بے عيب - درخت بكائن كا - درخت بے بر
آزادگان (*pl.* of آزاده), those free from worldly cares, religious man, ambassadors. ايلچي بزرگ آدمي - دنيا سے بے غرض لوگ
آزادمردي *f.* ignorance. نادانی
آزادي independence, release, manumission, freedom. بے قيدي - بے عيبي
ازار *m.* opposition, equal. برابر - مقابله
آزار *m.* sickness, disorder, disease, trouble, affliction, outrage, injury, used in composition as دل آزار injuring or outraging the heat. دكهه - بيماري - تكليف
إزار *f.* drawers trousers. پاجامه
إزار بند the string with which trousers are tied. ناڑا
آزاردن *v.* to trouble, to pain, to cause anxiety. آزرده كرنا - دكهه دينا
آزاري *m. n* a sick person, a patient. بيمار
ازالت *m.* removal, abolition. ازاله (in gram.) the elision of a letter or vowel point from a word.
ازان باز *adv.* from that time, since then. اُسوقت سے
از آنجا كه *conj.* for as much as. جبسے
ازپا افتادن *id.* to be senseless, to be stupified, to be unconscious. بيهوش هو جانا
ازبر *id.* by rote, by heart, by memory. حفظ - ياد
ازبس *adj.* many, much.
ازبن دندان *id* to be very earnest or submissive, to humiliate. عاجزي كرنا - منت كشي كرنا
از پا در آمدن *id.* to fall down. گر پڑنا زمين پر

از پرگار افتادن *id.* to lie waste or useless. ضايع اور بيكار هونا
از پوست بر آمدن *id.* to divulge one's secret, to confide one's secret, to be much pleased. بهيد فاش كرنا - بهت خوش هونا
از پيش پاے كسے برخاستن *id.* to reverence, to pay a regard, to respect, to do homage, lit: to leave one's seat, to pay one a regard. كسي كي تعظيم كے لئے كهڑا هونا
از تندي بزير آمدن *id.* to desist from oppression or anger. غصه يا ظلم سے باز آنا
از ته ريش گذشتن *id.* to deceive, to cheat. جعلسازي كرنا - دغا دينا
از جا آمدن *id.* to come down from a high position to a low one, to have a fall. اچهي حالت سے بري حالت ميں آجانا - گر پڑنا
از جا بر آمدن *id* to aspire foolishly. بے حوصلگي كرنا
از جا برداشتن *id.* to improve one's position. ترقي دينا
از جا رفتن و شدن *id.* to be restless, to be uneasy, to become angry, to get wild, to lose one's temper بيقرار هونا - غصه هونا - غضبناک هونا
از جگر گذشتن *id.* to get afraid, to be coward. نامردي كرنا - ڈرجانا
ازچشم افتادن *id.* to be cast down, to lose estimation in one's eyes, to be disgraced. كسي كي نظر سے گر جانا
از چشم گهر باريدن *id.* to weep, to shed tears. مراد رونے سے
اِزحام *m. n.* a crown, a multitude, a concourse. انبوه
از خر اُفتادن *id.* to die. مر جانا
ازدياد *v.* to increase. بڑهنا - زياده هونا
اِزدجار *c. v.* to terrify ڈرانا
اِزدحام *m.* a crowd, a concourse بهيڑ - انبوه
اِزدرا *v.* to be contemptible, to be low. حقير اور ذليل
اِزدراد *v.* to swallow. نگلنا
از دست شدن / از دست رفتن } *id* to be beside oneself, to be enraptured. بيخود هونا
اِزدوت *v.* to bring a bride home. دلهن كو گهر ميں لانا
آزدن *v.* to prick needle. سوئي چبهنا دينا
اِزدواج *v.* to marry نكاح كرنا - شادي كرنا
از دور بوسه زدن *id.* to be very respectful. نهايت ادب اور تعظيم كرنا
آزر *m.* name of Abraham's uncle who was a sculptor.

ازرا *v.* to be very lazy or slow, to do a work lazily or carelessly. کام میں سستي کرنا

راہ بھول جانا ازراد اُفتادن *v.* to lose one's way.

از ران خود کباب خوردن *id.* to acquire or gain something by one's toil, or labour. اپني محنت و مشقت سے کوئي چیز حاصل کرنا

آزاردگي *f.* vexation, affliction, displeasure, grief, sorrow. خفگي - رنج - ناراضگي

آزردن *v.* to vex, to grieve. آزردہ کرنا - ستانا

آزردہ *a.* afflicted, sad, dispirited, sorrowful, vexed, displeased, weary. ستایا هوا - خفہ کیا هوا - رنجیدہ - اُداس

آزردہ پشت *m.* a hunchback. کبڑا

ازرق *a.* blue, blue-eyed, pure, limpid, beryl. نیلا - گربہ چشم - نیلي آنکھ والا - صاف شفاف

ازرق مایلسانان *m.* stars. ستارے

آزرم *f.* modesty, peace, mildness, love, honour, justice, power, comfort, wrath, grief, name of Khusru Parwez's daughter. شرم - حیا - شفقت - طاقت - راحت - عزت - عدل - غضب - غم - خسرو پرویز کي بیٹي کا نام

آزرم *f.* mildness, modesty. حلیمي

از سر افگندن *id.* to dash a thing to the ground violently. زور سے زمین پر کسي چیز کا دے مارنا

از سرتازیانہ دادن *id.* to give something even by a mere show of a lash. کوڑے کے اِشارے سے کسي چیز کا دیدینا

ازغلاف برآمدن *id.* to feel no shame. بےحجاب هونا

از کسے کسرت و جامہ داشتن *id.* to be a follower, to be a Caliph. خلیفہ هونا - مرید هونا

ازکسے ذخیرہ داشتن *id.* to have a bad opinion of some one. کسي کي طرف سے اُسکي شکایت اپنے دل میں رکھنا

ازکي *a.* more holy, more tasteful. - پاکیزہ تر لذیذ تر

ازکیا *m.* the pious, the devout, the learned, the saints, the holy men. عالم لوگ - پاک لوگ - ذهین لوگ

از کیسہ رفتن *id.* to lose something, to waste something. کسي چیز کا ضایع هونا اور کهو جانا

آزل *f.* eternity without beginning. جسکا شروع نهو

از لب گهر باریدن *id.* to be eloquent. لطیف اور فصیح بولنا

آزلي *a.* eternal without beginning, or from all eternity. ازلي ازل والا

ازم *m.* grapes. انگور

آزما trying, trial (used in *comp.*) آزمانا - آزمانے والا

اِزمان *v.* to be old. پرانا هونا

آزمان *pl.* of زمانے - آزمن is also the *pl* of ازمان

آزمایش / آزمدگي } *f.* trial, proof, examination. پرکهنا - آزمانا - امتحان

آزمند *a.* avaricious, greedy. لالچي - حریص

ازمنہ (*pl.* of زمانہ), times, seasons وقت - موسم

آزمودن *v.* to try, to test آزمانا - جانچنا

ازمہ *f.* bridles, reins. (*pl.* of زمام) مهار

ازمیل *f.* an iron instrument for scraping leather. رانپي

از نظر اُفتادن *id.* to be contemptible, to be disgraced. کسي کي نظر سے گرجانا

از نفس انداختن *id.* to silence. چپ کرنا - خاموش کرنا

ازواج *f.* (*pl* of زوج or زوجہ), wives, spouses. جوڑا - بیبیاں

آزور *a.* avaricious, greedy. لالچي - حریص

ازوقہ - آزوقہ *m.* food, low pay, small allowance. تهوڑا گذارہ - کم تنخواہ

اِزهاد *f.* inclination, wish, desire, to be poor. فقیر هوجانا - رغبت - خواهش

ازهار *m.* buds of flowers. کلیاں

اِزهت *v.* to tell a lie جهوٹہ بولنا

اِزهق *v.* to destroy, to ruin. هلاک کرنا

ازهر *a.* very bright, shining بهت روشن - چمکتا هوا

ازهران two bright things, *viz.* sun and moon. دو روشن چیزیں مثلاً سورج اور چاند

از هم گذرانیدن *id.* to kill, to slaughter. - قتل کرنا - مارنا

از هم گذشتن *id.* to pass away, to die, to be separate from one another. مرنا - ایک دوسرے سے جدا هونا

اِزلات *v.* to gather, to collect, to bring near, to be proper نزدیک کرنا - جمع کرنا - مناسب هونا

اِزلاق *v.* to flatter, to coax, to fondle, to get shaved, to persuade. پهسلانا - بال منڈوانا

ازیرا cumin seeds, *adv.* or *conj.* because, therefore.

ازیز *f.* the sound of a boiling pot, sound of a thunder. اُبلتي هوئي برتن کي آواز - بادل کے گرجنے کي آواز

ازین محراب *f.* earth. اشارے دنیا سے

آژخ *m. n.* a black wart. کالا مسہ

اژدها / اژدرها / اژدر } *m. n.* a large serpent, a dragon بڑا سانپ

اژنگ *f.* wrinkles of old age, fruits. - میوے جهریاں

آس *f.* flour grinding mill. آٹا پیسنے کي چکي

آسا (*in comp*), like, resembling. مانند - مثل

آسابع *m.* (*pl.* of اسبوع), weeks. هفتے

آساتذہ *m.* (*pl.* of اُستاد), teachers. اُستاد

اسادہ *f.* (*pl.* of وسادہ), pillows. تکیایں

أساري *m.* (*pl.* of اسیر), captives, prisoners. قیدي

آساس *f.* foundation, a pedestal. بنیاد - نیهو - جڑ

أساطیر *m.* stories, tales. قصے - کهانیاں

أساطین *m.* (*pl.* of أسطوانہ), pillars, many pillars. بهت سے ستون

آسافل *m.* low men, base people, mean. - نیچ لوگ کمینے - کم رتبہ آدمي

اسالیب *m.* (*pl.* of اسلوب), ways, modes, customs. طریق - طور - راهي

اسامي *m.* (*pl.* of إسم), names. نام

آساءت *f.* evil. برائي - بدي

آسائش *f.* rest, ease, tranquillity, repose, quiet, indulgence, enjoyment. آرام - خوشي

اسباب *m.* (*pl.* of سبب) causes, apparatus, baggage, rope, furniture, goods, patch. - رسي وسیلہ - پیوند - بندهن

اسباط *m. n.* grandsons, *f.* tribes, castes, descendants of Moses, the tribes of Israel. - بیٹے قومي - ذاتیں - حضرت موسی کي أمت - اسرائیل کي أمتیں

اسباغ *v.* to perfect, to finish. کامل کرنا - تمام کرنا

أسبق *m. n.* past times, days of yore, *adj.* most excellent, surprising. گذرے دن - سب سے اول - سب سے بڑها هوا

أسبوع *m.* a week (from سبع seven). هفتہ

اسپ *m. n.* horse گهوڑا

اسپرک *f.* a kind of grass of a yellow colour with which the cloth is coloured. ایک قسم کي گهاس جس سے زرد رنگتے هیں

أسپش *m* a weevil, rancour, name of an insect destructive to meal, flour, cloth and leather. گهن

آسپک *m.* a large tent. ایک بڑا خیمہ

است *v.* is. هے

أستاد *m.* a teacher, a preceptor. سکهلانے والا

إستادن *v.* to stand. کهڑا هونا

أستار *m.* (*pl.* of ستر) coverings, veilings, privities. پردے

إستار *m.* a weight of $4\frac{1}{2}$ mishkals or $6\frac{1}{2}$ drams, to conceal, to hide. ساڑهے چار مشقال کا وزن - چهپانا - پوشیدہ کرنا

استانیل *m.* grades (in Rom. language). انگور

أستاکار *m.* a teacher. سکهلانے والا

آستان } آستانہ } *f.* threshold. دهلیز

استبداد *m.* absolute dominion, despotism, insisting upon a thing being done. - هٹ کرنا استقلال - مضبوطي

استبرق *m.* green colour, silk cloth, satin, whose colour seems to change agreeably to the light it is seen in (particularly green cloth). ریشمي کپڑا مثل اطلس کے

إستبشار *v.* to ask for a good tiding, to desire information. اچهي خبر پوچهنا - بشارت چاهنا

استبصار *f.* sense, wisdom, intelligence, light. دانائي - بینائي - نور

إستتار *m.* act of concealing. پوشیدہ کرنا - چهپانا

استبعاد *v.* to wish, to keep away, to request, to be separate from. دوري چاهنا - علیحدہ هونے کي درخواست کرنا

إستثناء *m.* exception, distinction. نکالنا - الگ کرنا

إستثمار *v.* to pick up fruits, to ask for fruits. میوہ چننا - میوہ مانگنا

إستجابت *f.* accepting, consenting, hearing or recoving a petition. جواب تهنا - قبول کرنا

إستجلا *v.* to brighten, to clean, to burn. روشن کرنا - صاف کرنا - جلانا

إستحسان *m.* approving, praising, taking or considering as a favour. نیکي طلب کرنا - نیک گننا

إستحصار *v.* to enumerate, to count. گننا - حساب کرنا - شمار کرنا

استحضار *m.* calling, citing to appear, to remember, summoning before. یاد رکهنا - کسي کي حاضري چاهنا - روبرو رکهنا

إستحقار *m.* despising, vilifying, scorning, treating with contempt. ذلیل رکهنا

إستحقاق *m.* demanding justice, merit, ability, in law it denotes a claim of right preferred by others, to the subject of a sale. طلب حق کرنا - حقدار هونا - حق ثابت کرنا

استحکام *m.* confirmation, firmness, strength. مضبوطي - مضبوط کرنے کي خواهش کرنا

استحالہ undergoing a change, being impossible or absurd to make an execuse, to play a trick. مشکل هونا - ایک حال سے دوسرے حال میں هوجانا - حیلہ کرنا - بهانا کرنا - محال کي طلب کرنا

استحلاب *v.* to attract, to acquire. اپني طرف کهینچنا - حاصل کرنا

إستخارہ *m.* judging from omens, augury, to pray for welfare and blessing from God. خدا سے خیر اور نیکي چاهنا - اپنے عیب سے آگاهي چاهنا

استخازہ *m.* begging permission, desiring leave. اجازت چاهنا

إستخر *m.* a tank, a fort in Persia. تالاب - فرس میں ایک قلعہ

إستخراج *m.* expulsion, drawing forth, extracting. نکالنا - ایک بات کا نکلنا

استخفاف *m.* despising, holding in contempt or in small esteem. - سبکي - حقارت - شرمندگي بےعزت جاننا

استخواندار *a.* very strong, established, firm. مضبوط - قائم

استخوان *m.* a bone, kernel of the date fruit, etc. هڈي - هاڑ - گٹھلي

استخوان سفید *m.* a day. دن

استخلاص *m.* desiring to liberate ; liberty and freedom. چھڑانا - خلاصي کرنا

استدامت *f.* assiduity ; wishing to be quiet, permanent, steady, eternal, perpetual. همیشگي - خامرش هوتا

استدعا *f.* request, desire, invitation, supplication, petition. خواهش کرنا - عرض کرنا - درخواست کرنا

استدفاع *m.* act of separating one thing from the other. ایک چیز کو دوسري چیز سے الگ کرنا

استدلال *m.* asking proofs, arguments or reasons ; demonstration. دلیل طلب کرنا - دلیل یا ثبوت پیش کرنا

آستر *m.* lining. جو کپڑا کسي کپڑے کے نیچے دیا جائے

آستر *m.* a mule. خچر

استراحت *f.* ease, rest ; sleep ; repose, tranquillity. آرام طلب - راحت

استراق *m.* eaves, drooping. چوري سے چھپ کر سننا

استراء *m.* desire for freedom, to be free from sins ; exemption from payment of a debt بري هونے کي خواهش - پاکي چاهنا

استرجاع *m.* returning to God ; having recourse to God during affliction ; repeating the sentence (from the Qur'an). "Verily we are of God and to Him we return." دي هوئي چیز کا واپس لینا اور کلمۂ اِنّاللہ و انا الیه راجعون کهنا

استر خاص *v.* to desire by permission, to desire freedom, to beg leave. - رخصت چاهنا طلب رخصت کرنا

استر خاد *v.* to hung down loosily, not to be able to work. سست هوجانا - ڈهیلا هو کر لٹک جانا

استرداد *m.* demanding, restitution of anything whether given, deposited in trust, or taken without consent ; repelling, driving, forcing back. لوٹا لینا - واپس لینا - چاهنا

اُستردن *v.* to shave, to clean. مونڈنا - صاف کرنا

آستردن *f.* a barren woman. بانجھ عورت جسکے اولاد نه هو

استرضاء *f.* desire to please, willingness, alacrity طلب رضا کي کرنا - خوشنودي

اُسترہ *m.* a razor. چھورا بال مونڈنے کا

استسعاد *m.* desiring ; happiness ; being fortunate ; considering anything as a happy presage ; conceiving well of anything. طلب سعادت کي کرنا - طلب نیکي کي کرنا - نیک شگون سمجھنا

استسقا *m.* the dropsy ; a desire for thrist. طلب سیرابي کي - ایک بیماري کا نام جسمیں پیاس بهت هوتي هے

استسلام *v.* to bend one's neck (in devotion), to bow down. واسطے اطاعت کے گردن جھکانا

اشتشارہ *v.* to consult, to seek an advice. صلاح پوچھنا - مشورہ کرنا

استشعار *v.* to fear in mind. پوشیدہ دل هي دل میں ڈرنا

استشمام *f.* a desire for smelling, to smell. طلب سونگھنے کي - سونگھنا

استشفا *v.* to plead, to intercede. شفاعت چاهنا

استشهاد *m.* taking evidence ; summoning witnesses ; bringing proof ; falling the martyr to religion. گواهي چاهنا - شهید هونا

استصلاح *f.* consultation, counsel, advice. صلاح لینا - مشورہ کرنا

استطابت *f.* delicious, fragrant, purification. پاکي - خوشبودار کرنا - لذیذ هونا

استطاعت *f.* power, possibility ; dependence, submitting. طاقت - طاعت - طلب تابعداري کي کرنا

استطلاع *f.* information, caution for knowledge. آگاهي ڈهونڈهنا - اطلاع چاهنا

استطلاق *v.* to set free, to release. قید سے چھڑانا

استظهار *m.* imploring assistance, remembering. مدد چاهنا - پشتي طلب کرنا - یاد کرنا

استظلال *m.* rest in the shade سایه میں پناہ لینا

استعاذت *v.* to take refuge to seek shelter. پناہ لینا

استعارہ *m.* borrowing ; using word metaphorically ; a metaphor. مانگنا - عاریت لینا

استعانت *f.* asking assistance, imploring help ; protection. مدد چاهنا - مدد طلب کرنا

استعباد *v.* to take into bondage, to enslave غلامي مین لینا

استعجاب *m.* amazement, surprise, wonder. تعجب کرنا

استعجال *m.* hastening, accelerating, ordering on to make haste, despatching any business soon ; wishing to make haste. طلب شتابي کي - جلدي کرنا - جلدي مانگنا

استعداد *f* ability, means, capacity, merit, readiness. سامان - مادۂ - طاقت علمي

استعطاف *v.* to desire leniency to ask for a favour. مهرباني چاهنا

استعماش *f.* overlooking, to render weak of sight. کم نظر کرنا - ضعف البصر کرنا

استعمال *m.* custom, daily practice, use. عمل میں لانا - کام میں لانا

استعلا *m.* superiority, exaltation ; desiring promotion. بلند ہونا - پزر گرار ہونا

استعلام *f* information, intimation. جتلانا - خبر کرنا

استعلاج *v.* to seek for treatment. طلب علاج کي کرنا

استغاثه *m.* asking for help, demanding justice, complaining. داد خواهي کرنا - فریاد چاهنا

استعفا *m.* asking forgiveness, deprecating, resignation. طلب عفو - نوکري چهوڑنا

استعجاب *m.* great admiration, amazement, wonder. تعجب دلانا - عجب بات کرنا

استغراق being drowned, immerged in thought, drowned in sleep, engrossed, wholly employed, etc. غرق هونا - مصروف هونا - ڈوب جانا

استغفار *m.* begging mercy, craving grace deprecating گناه بخشوانے کي خواهش کرنا - طلب بخشش

استغنا independent (in point of fortune). contented, *m.* content, independence, carelessness. بے پرواهي - صبر - قناعت - مختار

استفاضه *v* to be grateful فیض قبول کرنا

استفتا *m* consulting (a lawyer or learned man), to seek a sentence. فتوی چاهنا - مسئله پوچهنا

استفراغ *m.* vomiting, belching, emptying. قے کرنا - ڈکارنا - خالي کرنا

استفسار *m.* asking an explanation, searching for information, inquiry, interrogation. پوچهنا - اظهار لینا

استفهام *m* inquiring, inquisitiveness, asking for explanation, desiring information. پوچهنا - سمجهنا - چاهنا

استقامت *f.* rectitude, integrity, residence, firmness, constancy. سیدها پن - مستقیم

استقبال *m.* futurity, the ceremony of receiving a visitor, encountering, meeting. - آئنده آگے جانا - کسي کي پیشوائي کرنا

استقرار confirming, ratifying, resting. لینے کو جانا - آرام کرنا - ٹهہرنا - قرار پکڑنا

استقلال lessening. کم کرنا

استقصا curiosity, strict investigation, to try. کوشش کرنا - سخت تلاش کرنا

استبقا *v.* to leave, to leave behind. - باقي چهوڑنا باقي رکهنا

استقلال *m.* strength, confirmation, intrepidity, perseverance, vigour, absolute power. perpetuity. ضبوطي - استحکام

استکانت *f.* humiliation, want of courage, poverty. عاجزي ظاهر کرنا - انکسار کرنا - مسکین هونا

استکبار *m.* pride, presumption. بڑا سمجهنا - غرور کرنا

استکتاب *m.* writing, correspondence خط کتابت کرنا - لکهنا

استکثار *v.* to desire much. بہت چاهنا

استکرار *f.* fighting, quarrel, to wish for a thing to be repeated. تکرار کرنا - بار بار چاهنا

استکراه *f.* reluctance, aversion. نفرت کرنا

استلذاذ *m.* enjoyment. مزه لینا - لذت لینا

استلقا lying flat on the back. چت لیٹنا

استم *m.* oppression, cruelty. ظلم - ستم - جفا

استماع *m.* hearing, listening (to music, etc., particularly), tidings, report, rumour, that which is heard, in law it denotes hearsay evidence, or indirect testimony, receivable only in particular cases and under certain restrictions. سنا

استمالت *f.* encouragement, comfort, consolation. مائل کرنا - تسلي دینا

استمتاع *m.* enjoying, reaping the fruits of being delighted, celebrating the solemnities of the festival of Mecca. نفع چاهنا

استمداد *f.* begging assistance. مدد مانگنا

استمزاج *v* asking an opinion. رائے دریافت کرنا

استمرار perseverance, continuation, in law it signifies a rent not liable to alteration همیشگي

استمراري *a.* perpetual, permanent. همیشگي اور همیشگي والا

استمساک *v.* grasping firmly, to shut up. بند کرنا - مضبوط پکڑنا

استن *m.* a pillar. ستون

استنارت *v.* to be bright. روشن هونا

استناف *v.* to be begin anew. نئے سرے سے شروع کرنا

استنباط *m.* deducting, extracting, inference. چننا - بات کهودني - ایک بات سے دوسري بات نکلنا

استنباه *f.* caution, forewarning آگاهي دهرنا

استنثار *m.* dispersion, scattering تتر بتر هونا

استنجا *m.* pissing, purification after a natural evacuation. پاني سے دهونا - ناپاکي سے دور هونا

استنشاق *m.* throwing water into the nostrils when performing the وضو ; snuffing up the air or odours, etc. پاني یا دوا یا هوا ناک کے راستے سے سڑکنا یعني کهینچنا

استنصار *v.* to seek assistance مدد چاهنا

استنطاق *v.* to inquire, conversation, talk کرنا - بات - بات پوچهنا

إستنقاس *v.* to bleed, to wish for a long life. زندگاني چاهنا - خون نکالنا

إستوا parallel, equal, afternoon. - هموار - برابري دوپهر

أستوار *a.* powerful, firm, brave, resolute, solid. مضبوط - متستحکم

أستواري *f.* strength, resolution, firmness, stability. مضبوطي

أستة *f.* the stone of plums, dates and other fruits. چهوارے - بیر وغیره کي گتهلي

إستهذت *v* to think bad. خراب سمجهنا

استهزا *m.* derision, laughing at, a joke, jest, scorn هنسي کرنا - هنسي

إستهلال *m.* appearing of the new moon; the noise made by a child at its birth. نیا چاند نکلنا یا دیکهنا - پیدا هوتے وقت لڑکے کا رونا

إستیصال *m.* pulling up by the roots, extirpating, destroying, eradicating. جڑ سے أکهیڑنا

استیطاء *v* to delay. دیر کرنا

إستیعاب to be finished, to be completed. تمام هونا

إستیعلاد in law, signifies a claim made by a man having a child born to him of a female slave, which child he acknowledges as of his own begetting. ولادت چاهنا

إستیفاء *m.* satisfying completely, paying or receiving the whole of what is due, renouncing, relinquishing, retiring from business or official duties, vacating or resigning a situation. پورا کرنا - چهوڑ دینا

آستین *f* sleeve. کوٹ یا قمیض کا بازو

آستین افشاندن } آستین زدن } *id.* to reject, to repel, to refute, to forbid, it is also used in the sense of praise (*int.*) رد کرنا - منع کرنا - آفرین - تحسین

آستیں بر چشم کشیدن } آستیں بر دیده کشیدن } آستیں بر دل کشیدن } آستیں بر جبیں کشیدن } *id.* comfort, consolation, affliction, real friendship, commiseration, sympathy - تسلي غمخواري - دلاسا

إستیناس *m.* familiarity, intimacy, sympathy. محبت بڑهانا - طلب أنس

إستیلات *v.* to seek love. محبت طلب کرنا

إستیلام *v.* kissing of a stone. پتهر کا چومنا

استیلاء *m.* conquest, predominance. غالب هونا

اسجع the cooing of a dove and a pigeon. کبوتر اور فاختة کي آواز

إسجاع the writing of rhymes, verses or sentences. سخن یا قافیه تحریر کرنا

استکبار *v.* to be proud, to arrogant. - غرور کرنا تکبر کرنا

اسحار *f.* (*pl.* of سحر), mornings, also the *pl.* of سحر, magics. جادو - صبح

اسحاق *m.* (a man's name) Isaac, son of Abraham. نام ابراهیم کے فرزند کا

اسخیا (*pl.* of سخي), liberal, charitable. - نیکمرد خدا پرست

أسد *m.* a lion, the sign or constellation Leo (in astronomy). شیر

أسر *adj.* very happy, much rejoicing. مسرور تر بڑا خوش

آسرار (*pl.* of سر), secrets, confidential concerns. بهید

إسراف *m.* prodigality, dessipation, abuse of wealth, ruin, extravagance. - بیفائده خرچ کرنا فضول خرچي

إسرافیل *m.* the name of an angel who will sound the last trumpet at the resurrection, a seraph أس فرشتة کا نام هے جو قیامت کو صور پهونکیگا

اسراء walking in the night. رات کو راه چلنا

إسرائیل Israel, title of Jacob, chosen, elected. - یعقوب پیغمبر علیةالسلام کا نام - مقبول خدا بندهٔ خدا

أسرب *m.* lead. سیسة

اسراع *adv* hastily, speedily. بهت جلد - شتاب

أسطر *f.* a scale, a balance. ترازو

أسطرلاب *m.* an astrolabe. نجومیوں کے ایک آلة کا نام جس سے آفتاب کي بلندي اور پستي اور نیکي وغیره کا حال معلوم هوتا هے

أسطقسات (*pl.* of أسطقس), elements, principles عناصر

أسطوانة *m.* pillars. ستون

أسطورة *m.* stories, tales. افسانة - سخن باطل

إسعاد *adj.* fortunate, good, happy. - نیک کرنا بختاور کر دینا

اسعات *v.* to satisfy, to fulfil one's desire. حاجت روا کرنا - کسي کے حسب خواهش کام کر دینا

اسعد *adj.* very happy, most happy, very virtuous. بهت نیک - بهت خوش

أسغر *f. a.* porcupine. سیهي - خارپشت

آسف *m.* lamentation, great grief. بڑا غم - ماتم

اسفار (*pl.* of سفر) books, volumes, voyages or travels, adventures.

اسفاناخ *m.* spinach. پالک کا ساگ

اسفل *a.* the lowest, inferior. سب سے نیچا - کم

اسفل السافلین the lowest of all the apartments of hell. ساتویں طبقة دوزخ کا نام جو سب طبقوں کے نیچے هے

اسفندیار the son of *Gishtash*, of the first dynasty of Persian kings.

اسفنج } اسفنجه } *m.* a sponge. سمندري کیڑے کا گھر ہوا بادل - ابر مردہ

اسفید باج *m.* soup. شوربا

اسقاط *m.* causing one to fall, miscarrying, taking away, dying (cattle), procuring an abortion. گرانا - ڈال دینا

اسقام (*pl.* of سقم), diseases, pains, tortures بیماریاں - دکھلا

اِسقاد to cause one to drink wine or water. پانی یا شراب پلانا

اُسقف *m.* Christian preacher, a clergyman, an evangelist. عیسائي واعظ - پادري

اسکت *m.* a shoemaker. موچي

اسکدار *m.* a post office, an ambassador. - قاصد ڈاک - چوکي

اِسکندریه Alexandria in Egypt. ملک مصر کا ایک شہر

اِسکنه *m.* a gimlet or borer worked with a string. سوراخ کرنے کا برما

اسکیزه the act of kicking with the hinder legs of a horse دولتي مارنا

اسلحه (*pl.* of سلاح) tools, implements. ہتھیار اوزار

اسلم *adj.* much saved, bitten by a snake, safer. بہت بچا ہوا - سانپ کا کاٹا ہوا - سالم تر

اُسلوب *m.* manner, mode, method, order, arrangement. طریقه - طور راه

اسمار (*pl.* of سمر) stories, evening entertainment. رات کو جو کہانی کہتے ہیں - رات کي باتیں

اَسماع (*pl.* of سمع). ears. کان - گوش

اِسماع abusing, to sing a tune. گالي دینا - راگ گانا

آسمانه *f.* roof, ceiling, canopy, the sky. سقف خانه - مکان کي چھت

آسماني *a.* heavenly, celestial, azure, a fire work. نیلا رنگ - ایک آتشبازي

اسماء (*pl.* of اِسم) names, name of the mistress of سعد who was very handsome. نام ایک خوبصورت عورت کا - نام جو سعد کي معشوقه تھي

اسمر *a.* wheat coloured. گیہوں رنگ

اِسناد comparison between two things, reference, relation. کسي چیز کو کسي چیز سے نسبت دینا

اسناد (*pl.* of سند), grants, and law papers in general, documents. بخششیں

اسنان many years, many teeth. بہت سے دانت بہت سے سال

اسنی *a.* more bright, more high. - بلند تر روشن تر

اسواد احمر Abyssinia, Ethiopia, the Turkish Empire, some say it means Persia and Arabia

اسوار (*pl.* of سوار) bracelets, *m.* cavalry, a horseman, mounted, riding on any thing, as a horse, a carriage, a ship, &c. - کنگن سواري کي چیزیں

اسواق (*pl.* of سوق), markets.

اسراط (*pl.* of سوط), lashes, whips. تازیانے - کوڑے

اسود *a.* black, or blackest, powerful, a black snake. کالا رنگ - طاقتور - کالا سانپ

آسودگي *f.* quiet, peace, content. - بیفکري - چین آرام

اُسره *m.* a leader, a guide, an officer, a commander پیشوا - سر گروہ - افسر قوم

اِسہا - talkativeness, walking in a jungle, the running of a horse. گھوڑے کا دوڑنا - جنگل میں چلنا

اسہال *m.* loosening, opening, purging, flux. پیٹ چلنا دست آنا

اسہل *a.* more or most easy. بہت آسان

اسلاف (*pl.* of سلف), ancestors, forefathers. بزرگ - باپدادے

اِسلاخ *v.* to take the skin off, to flay. کھال کھینچنا

اِسلام *m.* the religion of Muhammad, orthodoxy (according to Muhammadans).

اِسي *a.* very sad, sorrowful, distressed. - غمگین مصیبت زده

آسي *adj.* sorrowful. *m.* a physician - غمناک بید

آسیا } آسیاب } *f.* a mill for grinding flour.

اسیاف (*pl.* of سیف), swords. تلوار

آسیب *m.* a misfortune, (generally means such misfortunes as are the consequence of the shadow of a demon having fallen on one, and so forth) trouble, calamity, damage. دکھه - دھکا - خطره

اسیر *m.* a captive, a prisoner. قیدي

اسیر آب و گل *id.* attached to one's native soil. حب الوطني

اسیري *f.* imprisonment, captivity قید - بند

اسیف *adj.* sorrowful. غمناک

آسیمه *adj.* amazed, astonished, confounded, bewildered. سراسیمه - پریشان - حیران

آسیه wife of Pharoah, king of Egypt who had adopted Moses زن فرعون جسنے حضرت موسی کو پالا تھا

آش *f.* meat, victual, viands soup, broth, gruel, pottage. شوربا - حريرا - پلتي شے جو پکي هرئي هو

اُشاخ *m.* an ornament worn round the neck. هيکل جو گلے ميں پهنتے هيں

اِشادت *v.* to read loudly. زور سے پڑهنا

اِشارت *f.* a sign, command, signal, hint. اشارة کرنا

اِشارت a book of philosophy compiled by Abu Ali Sina. بو علي سينا کي کتاب کا نام حکمت ميں

آشاش merry-making. خوشي کرنا

اشاعت publication, scattering, dispersion, proclamation مشهور کرنا - پراگندة کرنا - پهيلانا

اُشاق *m.* a slave. غلام

آشام drink, (in *comp*) drinking as شراب آشام wine drinker, name of a king, N. E. of Bengal. - پي — پينے والا - ايک بادشاہ کا نام بنگالہ کا اُتر - پورب

آشاميدن *v.* to drink, to quaff. پلانا - پينا

اشباح (*pl.* of شبح) bodies, objects. جسم - بدن

اشبک (*pl.* of شبکة) nets, lattices, reticulated veils. دام - جال

آشبال (*pl.* of شبل) young ones of a lion. شير کے بچے

اِشبال *v.* to do kindness, to produce young. مهرباني کرنا - بچہ جننا

آشباہ *f.* faces, forms, appearances. - صورتين شکلين

اِشبيختن *v.* to sprinkle. چهڑکنا

اِشتات *v.* to disperse. پراگندة کرنا

اُشتات *f.* dispersed thing. پراگندة چيزيں

آشتد the 26th day of every solar month. هر مهينے شمشي کا چهبيسواں روز

اِشتباہ *m.* doubt, ambiguity, scruple. - شک پرهيز

اِشتداد *m.* confirming, strengthening, increasing in violence. سختي کرنا - مضبوطي دينا

اُشتر *m* a camel. اُونٹ

اِشتراط stipulation, condition, agreement. شرط کرنا

اِشتراک *m.* partnership. ساجها

اِشترا *m.* buying, selling, commerce. - خريد کرنا مول لينا

اِشتعال *m.* burning, inflaming, lighting a fire or candle, fomenting, instigating a quarrel. روشن کرنا - جهگڑا پيدا کرنا

اِشتغال *m.* employment, occupation. مشغول هونا

اِشتقاق *m.* derivation of one name from another, sawing of wood, etc. ايک لفظ کا دوسرے لفظ سے نکلنا چيرنا

اِشتکا *v* to complain, to report. گلہ کرنا - فرياد کرنا

اُشتلم *n.* celerity, violence, injustice, firm. ظلم - زور - غلبة - تندي

اِشتمال *m.* comprehension, containing. شامل هرنا - ملانا

اِشتهار *m.* publication, divulging, fame, report, renown. شهرت دينا - مشهور کرنا

اِشتها *f.* hunger, appetite. خواهش - بهوکهہ

آشتي *f.* peace, concord, reconciliation, agreement, convention, confederacy, armour, intrigue. دوستي - صلح - راضي - بيهتر

اِشتيات to see the lightning. بجلي ديکهنا

اِشتياق *m.* wish, desire, strong inclination. شوق

اشجع *m.* valiant, a kind of snake. دلير - ايک قسم کا سانپ

اشجار (*pl.* of شجر), trees. درخت

آشخاص (*pl.* of شخص), persons.

اِشخاص to send a thing, to expel, to backbite. کسي چيز کا بهيجنا - نکال دينا - غيبت کرنا

اشخام to rot, to ferment. سڑ جانا

آشد *adj.* severe, strong, violent, excessive, more or most vehement. - بهت سخت - مضبوط تيز مزاج

آشدا (*pl.* of شديد) violent tempered men. تيز و تند مزاج

آشدق wide-mouthed. فراخ دهن

آشر *adj* vicious, malignant, atrocious (or more vicious). بڑا خراب - بهت بد

اشرار *adj.* (*pl.* of شرير), wicked, wretched, criminal, seditious, (people). جمع شرير کي بمعنے بد - کمبخت

آشراف (*pl.* of شريف) nobles, grandees, gentlemen. نيک لوگ

اِشراف to stare, to peep, to cast a glance. جهانکنا - نظر پهينکنا

اِشراق *m.* splendour, beauty, lustre, lit. the rising of the sun. روشن هونا - روشني دينا

اشربة (*pl.* of شراب), wines, drinkable. شراب پينے کي چيزيں

اشرف *adj.* more noble, *m.* a gentleman, a person of noble or genteel birth, a nobleman. بڑا شريف - بڑا بزرگ

اشرفي *f.* a gold coin so called. The Calcutta اشرفي is about £1. 11s. 8d. The gold mohar of Bengal is worth Rs. 16 and that of Madras and Bombay Rs. 15. سکة زر

اشرقي *adj*. eastern, oriental. پوربي
آشعار (*pl*. of شعر), verses, poems. جمع شعر كي بمعني ابيات
اِشعار to warn, to make famous. آگاه كرنا - مشهور كرنا
اِشعال to kindle, to provoke. بهڑكانا
اشعث name of a famous greedy man. ايک مشهور لالچي كا نام
آشعه (*pl*. of شعاع), splendour, brightness, lustre. چمک
آشغال (*pl*. of شغل), employments, occupations. cares. كام - كار بار
آشفاق (*pl* of شفقت or شفق), kindnesses, favours. مهربانياں
اِشفاق compassion, tenderness مهرباني - رحم
آشفتن *v*. to disturb, to be confounded. پريشان هونا - ستانا
آشفتگي *f*. misery, uneasiness, distraction. پريشاني - پراگندگي
آشفته } آشفته حال } wretched, miserable, distressed, disturbed, distracted, uneasy, a lover. پريشان حال - پراگنده - عاشق
آشفته موے a man with his hair dishevelled. وه شخص جسكے سر كے بال بكهرے هوئے هوں
آشفي *f*. an awl, a bodkin. موچيوں كي ستالي
آشق *a* more hard. زياده دشوار
آشق gum-ammoniac ايک قسم كا گوند
اشقر a roan colour, or horse of this colour رنگ زردي اور سياهي مائل - گهوڑا اسي رنگ كا
آشقي *adj*. very wretched, most miserable. بڑا كمبخت
اشقيا (*pl*. of شقي), thieves, malefactors, wretched beings مجرم - كمبخت
اشک *m*. a tear, tears. آنسو
اِشک *m* an ass. گدها
آشک ارغواں red tears. سرخ آنسو
اشكبار mourning, shedding tears. آنسو بهانا
اشكبوس name of a famous wrestler who had come to help Afrasiab and was eventually slain by Rustam. ايک مشهور پهلوان كا نام جو افراسياب كي مدد كو آيا تها اور رستم كے هاتهه سے قتل هوا
آشكار } آشكارا } آشكاره } *adj*. apparent, clear, public, kwown, revealed. صاف - كهلا هوا ظاهر
اشكال (*pl*. of شكل), appearances, figures, ; shapes, semblances, form. صورتيں also *pl*. of شكل rope. رسي
اِشكال *m*. difficulty, ambiguity, suspicion, painfulness. شک - مشكل - دشواري

اِشكره *m*. a hawk. شكره
آشكل red eyes, beautiful, secret, hidden, more difficult ; a horse whose right and left foot are white. شوخ آنكهيں - خوبصورت - پوشيده - گهوڑا جسكا دهنا اور باياں پاؤں سفيد هو
اِشكنه a gimlet, a borer. برما سوراخ كرنے كا
اشكيل *f*. fraud, deceit, mockery. حيله - مكر
اشگرف *m*. great, learned, good, virtuous, splendour, powerful. نيک - بزرگ - شوكت - شان - مضبوط
اشل having a disjointed, withered or paralytic hand لنڈا يا جسكا هاتهه سوكهه گيا هو
أشلق accusation. تهمت
آشم *m* a leader, modest, polite پيشوا - شرم دار
اِشماع producing a good light. تيز جلنا (چراغ كا)
آشملي flattery. خوشامد
اشمام *m*. diffusing odour, shedding perfume, giving to a quiescent consonant a slight sound of *zamma* or *kasra*, but so as not to lengthen the syllable, or make one syllable more, smelling. سونگهنا - خوشبو پهيلنا يا پهيلانا
آشمل *a*. more or most perfect, complete, surpassing, transcendant. كامل تر - پورا - بڑهكر
آشنا *m*. an acquaintance, lover, friend, a swimmer. دوست - تيرنے والا - عاشق
آشنا فروشي *f*. flattery, praise, commendation. خوشامد - تعريف
آشنان a kind of grass which is used for washing clothes. ايک قسم كي گهاس جس سے كپڑے صاف كرتے هيں
آشنا *v*. to swim, to be a swimmer. تيرنا - تيراک هونا
آشنائي *f*. friendship, acquaintance. دوستي - واقفكاري
آشنائي دادن to be friend, to be united in friendship, to cause a thing of one to reach another. كسي كا كسي كو پهچانوانا - ملانا
آشنع *a*. worse, more detestable, vile, more ugly. بر تر - بدصورت - قبيح تر
اُشنه *f*. a king of fragrant moss, potter's earth. ايک قسم كي خوشبودار گهاس
اِشنوسه *f*. sneezing, sneeze. چهينک
آشوب *m*. tumult, clamour, misfortune, storm, tempest, terror, an impostor, in *comp*., exciting. گهبراهٹ - فساد - طوفان - خوف
آشوس *m*. valiant, proud. مغرور - دلير
آشراک (*pl*. of شوک) thorns. كانٹے
آشوردن yeast, compound, mix. ملانا - خمير

اشہاد *m*. taking to witness, bringing proof. گواہ کرنا - ثبوت پیش کرنا

آشہاد (*pl* of شاھد), witnesses (such as have been present), eye witnesses. گواہ

اشہپ *m*. a tiger, hand labour, white, ash coloured. شیر - سخت محنت - سفید

اشہر *a*. more or most celebrated, known. زیادہ مشہور

آشہي desirous, longing. آرزو مند

اشیا (*pl*. of شے) things, effects. چیزیں

آشیاع friends, (*pl*. of شیعہ) جمع شیعہ بمعنی دوست

آشیان / آشیانہ } *m*. a bird's nest. پرندوں کا گھونسلا

اصابت *f* access, entrance. رسائي

اصابع (*pl*. of اصبع), fingers, toes. انگلیاں

اصاغر (*pl* of اصغر) little, mean, contemptible, low, poor (people). چھوٹے - کمینے - غریب

اصال (*pl*. of اصل) *f*. the evening, a lodging place for the night, a fold for cattle. شبسانگہ

اصالت firmness, integrity, solidity of judgment, genuineness. بیخ - اصلیت

اصباح to change from one condition to another. ایک حال سے دوسرے میں بدل جانا

اصباح (*pl*. of صبح), mornings. جمع صبح کي

اصباغ (*pl*. of صبغ), colours. رنگ

اصبح *a*. beautiful, a lion red coloured خوبصورت - لال رنگ کا شیر درندہ

اصبع fingers, toes. أنگلیاں - انگوٹھے

اصح *a*. healthy, quite correct - تندروست بہت صحیح

اصحا *pl*. of صحیح

اصحاب (*pl*. of صاحب and صحب), grandees, lords, masters, companions, apostles, friends. In composition, it signifies, possessed. of as اصحاب علم learned men, etc, اصحاب کبار and اصحاب گذین, the select friends and companions of Muhammad ھمخدمت - دوست - یار - ساتھي

اصحاب الشمال inmates of hell, those who will stand on the left hand of God. دوزخي لوگ جو خدا کے بائیں طرف ٹھہرے ھونگے

اصحاب کہف the (seven) sleepers of the cave, famed in oriental romance. Their account is founded on a legend of seven young Christians of Ephesus, who fled from the persecution of the Emperor Decius, and slept in a cave accompanied only by the their dog, for 300 years صاحبان غار

اصدار *m*. producing, appearing, issuing. نکالنا

اصداف (*pl*. of صدف), shells. سیپیاں

اصداق truthfulnesses, true things. - سچ باتیں سچائیاں

اصداق to corroborate one's assertion, to fix a dowry. مہر مقرر کرنا - کسي کي بات کو مضبوط کرنا

أصدقا (*pl*. of صدیق), friends دوست

اصرار persevering, obstinacy. ھٹ - ضد

اصراف *m*. expenditure, waste, prodigality. خرچ کرنا - ضائع کرنا

اصرام to turn a hermit or recluse. فقیر ھونا

اصطباح the act of using wine in the morning. صبح کو شراب نوشي کرنا

اصطبار to be contented. صبر کرنا

اصطباغ *m*. dipping, baptism, colouring. غوطہ دینا - رنگنا - بپتسمہ دینا

اصطبل *m* a stable گھوڑوں کے باندھنے کي جگہ

اصطخر / اصطرخ } the ancient name of Persepolis شہر فارس کے قلعہ کا نام

اصطفاف to arrange in a row, to form line صف باندھنا

اصطفام to sort, to pick, selection, choice. چھانٹنا - چننا

اصطلاغ *f*. virtue, good. نیکي

اصطلاح a phrase, idiom, general acceptation, a figure in rhetoric, peacefulness. - صلح کرنا فقرہ - اصطلاحي

اصطلاحي technical, metaphorical, conventional. دوسرے معني ٹھہرا لینا

اصطلام uprooting. جڑ سے اکھیڑنا

اصطیاد preying, hunting. شکار کرنا

اصغاء *v*. to hear, to listen, to attend. - سننا کان جھکانا سننے کو

اصغر *a*. less, least, smallest, the minor term in a logical proposition. بہت چھوٹا

آصف *n*. the name of a man, considered to have been Solomen's *vizier*. حضرت سلیمان کے وزیر کا نام

اصفاح *v*. to refute, to repulse, to reject, to attract. رد کرنا - مائل کرنا

اصفاد chains, fetters, imprisonments. - قیدیں زنجیریں

اصفار (*pl*. of صفر), ciphers. خالي

اصفار *v*. to be poor and needy. محتاج اور مفلس ھونا

أصفر *a*. yellow, saffron coloured زرد رنگ

اصفرار to be yellow. زرد ھونا

اصفہان *n*. Ispahan, till recently the capital of Persia.

اصفی *a* more clear. زیادہ صاف

اصفیاء (*pl.* of صفي), selected, chosen, abstemious. برگزیدہ - چنیدہ - پاک

اصل *f.* lineage, origin, root, foundation, a capital, principal sum, stock in trade. نسب - جز - بنیاد

أصلح *a.* best, most correct. نہایت درست

اصلع a bald headed man. گنجا آدمي

اصلي *a.* pure, of a noble family, noble, essential, radical, original, a registered village. ذاتي - بے بناوت

اصلاً } أصلاً } by no means, never, not at all, in reality. هرگز - حقیقت - اصل میں

اصلاب (*pl.* of صلب), loins, offsprings, forefathers. اولاد - باپدادے

إصلاح *f.* amendment, cure, correction. ٹھیک یا درست کرنا

اصم deaf, a surd number in arithmetic, opposite of منطق adamant, a snake on whom the magic has on effect. سخت - پتھر - بهرا

اصمام to deafen, to be deaf. بهرا هونا اور کرنا

اصمع *m.* short eared man, a sharp sword, confounded. حیران - تیز تلوار - چھوٹے کان والا

اصناف (*pl* of صنف), sorts, kinds, varieties قسمیں

أصنام idol, mistress (*pl.* of صنم),

إصنان proud. مغرور

اصوات (*pl.* of صوت), voices, sounds, reputations. آوازیں

اصوب more near. زیادہ نزدیک

أصول (*pl.* of اصل), causes, roots, a mood or tone. جڑهیں

أصول ثقیل } أصول خفیف } chime, time in music, seventeen name of two tones out of 17. تال

اصهب white and red. سفید اور سرخ

اصیل *adj.* well born, genuine, *f.* a maid servant who is free, in opposition to لونڈي a female purchased slave, evening, strong شام - مضبوط - خالص - اصل

إضارت *v.* to illuminate, to brighten. روشن کرنا

إضاعت *v.* to waste, to lose. ضایع کرنا - کھونا

اضافت *f.* addition, an adjunct, an epithet, in Gram. it is applied to the short vowel kasra, between two Persian nouns in the formation of the genitive case or on the addition of an adjective. نسبت کرنا - لگانا to give shelter, to treat, to resign. مہمانی کرنا - پناہ دینا

إضافہ *m.* addition, junction, augmentation, attribute. زیادتي - ...

إضافي related, having reference to نسبتي

اضاض a place of shelter. جائے پناہ

أضائف (*pl.* of ضیف), guests. مہمان

إضحاك to cause a surprise, to cause to laugh, to fill a reservoir to the top, the growing of the grass. هنسانا - چوٹي تک حوض کو پاني سے بهرنا - تعجب دلانا

أضحوکہ joke وہ بات جو آدمي کو هنساوے

اضحی sacrifice, to work in the morning. قرباني - صبح کے وقت کام کرنا

أضحیہ the goat who may be sacrificed on the 10th of Zilhijja. وہ گوسفند جو دسویں ذلحجہ کو قرباني کیا جاتا هے

أضداد *pl.* of ضد

إضراب to bend one's head, to settle, to turn one's face. - منہہ پهیر لینا - سر نیچا کر لینا مقیم هونا

إضرار to harm, to hurt, bigamy, to run. دو شادي کرنا - نقصان کرنا - دوڑنا

أضراس *m.* a tooth, a molar, (*pl.* of ضرس)

اضرام to kindle a fire. روشن کرنا آگ کا

إضطجاع sideways, sleeping on the sides کروٹ سے سونا

إضطراب *m.* agitation, perturbation, restlessness, anguish, trouble, chagrin, to strike with a sword. تلوار مارنا - گھبراهٹ - بیقراري

إضطرار } إضطراري } *f.* violence, constraint, agitation, poor, needy. - حاجتمندي - سختي ضرورت

إضطرام flaming. آگ کا شعلہ مارنا

أضعاف double, two equal things. دو برابر برابر چیزیں

إضعاف act of doubling, duplication, to make weak. دونا کرنا - کمزور کرنا

أضعف *adj.* very old, very weak or helpless, most impotent بہت ضعیف - کمزور

اضغاث أحلام dreams causing anxieties, confusion or uneasiness. پریشان کرنے والے خواب

أضم envy, malice, anger. غصہ - فساد - کینہ

إضمار to weaken, to keep a thing in mind. بات کا دل میں رکھنا - کمزور کرنا

إضمحلال destruction, annihilation, very weak. نیست - بہت کمزور

أضلاع (*pl.* of ضلع) districts, sides (of a square, ect.,) ribs, convexities, arches. - اطراف جوانب

إضلال misguidance, waste, burial. گمراہ کرنا ضایع کرنا - دفنانا

اضیاف (*pl.* of ضعیف) guests مہمان

اضیع *m.* a great waster. بڑا ضایع کرنے والا

اضیق *adj.* very narrow. تنگ تر

اِطابت to render happy, to spread fragrance. masturbation. خوش کرنا - خوشبو پھیلانا

اِطاحت to destroy. هلاک کرنا

اِطارت to fly a bird. کسي پرندے کو اڑانا

اِطاعت *f.* subjection, obsequiousness, reverence. worshipping, obedience, submission. حکم ماننا - تابعداري

اُطام strangury. پیشاب بند هوجانا

اَطبا (*pl.* of طبیب), physicians. حکیم لوگ

اِطرا *m.* exaggeration, representation of praise beyond truth. تعریف میں مبالغه کرنا

اِطراب merry-making, to be happy. - خوش کرنا خوش هونا

اِطراح throwing, pouring, to overturn, to fell. پھینکنا - ڈالنا - گرانا

اِطراد driying. چلانا - هنکانا

اَطراد moving backward and forward. آگے پیچھے چلنا

اِطرار blandishment, coquetry, playfulness, walkin g to be furious out of the place. ناز کرنا - چلنا

اِطراز to make an impression, to engrave. نقش کرنا

اَطراف (*pl.* of طرف), sides, environs, confines, skirts, districts, all around. - حدود - ضلع - کنارے

اطراف *m.* purgatory; according to the Musalmans it is a kind of neutral space between heaven and hell. The poet Sa'di says that "to those in heaven A'raf would seem hell, but the hellites would call A'raf paradise," heaps of sand, horse's mane, cock's comb.
ایک مقام کا نام جو بهشت اور دوزخ کے درمیان هے - مغرورں کے کیس - ریت کے ڈھیر - گھوڑے کے ایال

اُطروبه *f.* an amusing thing, music, singing playing and so on. خوش کرنیوالي چیز

اُطرورش *m.* deaf. بهرا

اَطریه *f.* vermicelli. میده کي سونیاں

اِطعام to feed. کھانا کھلانا

اطعمه (*pl.* of طعام), dinners. کھانے

اِطغا to misguide, to lead astray. گمراه کرنا

اِطفا extinction, putting out (a fire). - بجھانا آگ کو بجھانا - چراغ کو گل کرنا

اَطفال باغ a young tree or plant. پودھا

اَطلس *m.* satin, ninth sky where there are not stars. ریشمي ساده کپڑا - نواں آسمان

اِطلاع *f.* manifesting, informing, declaring, investigating, knowledge, information, vomit. خبر دینا - قے کرنا

اِطلا *m.* setting at liberty, divorcing, freedom, disengagedness in law, the office and records of summonses, also fees thereon, dysentry. چھوڑ دینا - دستوں کا آنا . بے قید کر دینا

اَطلال *m.* traces, signs, traces of deserted or forlorn inns, broken down buildings, ruins of a village. نشانات - کھنڈرات

اُطم a fort made of stones. پتھر کا قلعه

اطماع strong desire, longing for. سخت خواهش یا لالچ

اِطمینان *m.* tranquillity, content, security, rest, repose, quiet. تسلي - آرام - صبر - قناعت

اَطناب (*pl.* of طنب) tent ropes. تنبو کي رسیاں

اِطناب to lengthen one's discourses. باتوں کا طول دینا

اَطوار (*pl.* of طور), manners, behaviours, devoirs. جمع طور کي

اَطهار (*pl.* of طاهر), the pure, the perfect. نهایت پاک لوگ

اَطهر pure, most holy. نهایت پاک

اَطیب *adj.* more fragrant, most holy. زیاده خوشبو دار - بهت پاک

اظفار (*pl.* of ظفر), nails and of ظفر, victories, small stars. فتحمندیاں - چھوٹے ستارے

اَظفر a man having long finger nails وه شخص جسکے ناخن لمبے هوں

اِظلال to cast a shadow, shady. - سایه ڈالنا سایه دار

اَظلال (*pl.* of ظلل), shadows سائے

اظلام to be dark, to come in the darkness, to suffer persecution or hardship. - سختي اٹھانا تاریک هونا - اندھیرے میں آنا

اِظهار *m.* demonstration, revealing, publication, evincing. کھولنا - ظاهر کرنا

اَظهر *a.* very clear, more apparent. بهت صاف

اِعادت *f.* repetition, revising, visiting the sick, to return, to give or bring back. لوٹانا - بیمار داري کرنا - دوهرانا

اعادي (*pl.* of عدو), foes, enemies. دشمن لوگ

اعاذت to give shelter or refuge. پناه دینا

اِعارت to lend. عاریت دینا

اَعاجیب (*pl.* of عجیب), wonderful things. عجیب چیزیں

اعاظم (*pl.* of اعظم) very great. بهت بڑے

اِعالت *a.* hairy, to turn a recluse. - فقیر هونا بالدار

اَعالي (*pl.* of اعلی), most exalted. نهایت بلند

اِعانت *f.* help, aid, succour, favour, assistance. مدد - مهرباني

إعتاق liberation, manumission. آزاد کرنا

اعتاد *adj*. disobedient, rebellious, mutinous. سرکش لوگ

إعتبار *m*. belief, faith, confidence, respect, veneration, esteem, reliance, to test. بھروسا رکھنا - امتحان کرنا

اعتداد *m*. belief, faith, counting, esteem اعتبار کرنا - شمار کرنا

إعتدال *m*. evenness, equilibrium, temperateness, rectitude, temperature, moderation. برابر کرنا

اعتدء to oppress. ظلم کرنا

إعتذار *m*. an excuse, apology. عذر

اعتراض *f*. refusing, assent, objecting, discussion, criticism, animadversion, displeasure, opposition قباحت لاني - برخلافي کرنا - عذر کرنا

اعتراف *m*. confession, acknowledgment, avowal. اقرار کرنا

اعتراک to assemble, to gather, to collect. جمع هونا - اکٹھا هونا

اعتزا joining, conjunction. نسبت کرنا

اعتزال secession, dissent, abdicating or withdrawing from office, retirement, seclusion گوشہ گزیں هونا - الگ بیٹھنا

إعتساس vigilance, a keeping awake at night, night to guard. چوکیداري

إعتساف to be cruel, to oppress, to be misguided. ظلم کرنا - راہ سے بیراہ چلنا

إعتصار to squeeze, to bring out a thing from one's possession.
نچوڑنا - ایک شخص کے قبضہ سے ایک چیز نکالنا

اعتصام preserving one's self from sin, to scrape, scratch or tear. - اپنے کو گناہ سے بچانا چنگل مارنا

إعتضاد to seek assistance, to receive strength or power. مدد چاهنا - قوت پانا

إعتقاد *m*. confidence, faith, trust, belief.. بھروسا - یقین

إعتقال to shut, to chose, to fasten, to tie. بند کرنا - باندھنا

اعتکاف *m*. restraining, curbing one's passion from religious motives, continuing in the mosque (particularly at Mecca) meditation, sitting by oneself in a mosque and think of God, to desist from, to await گوشہ نشین هونا - باز رهنا - انتظار کرنا - خدا کو یاد کرنا

إعتماد *m* faith, confidence, hope dependence, reliance بھروسہ - ایمان

إعثار to find fault عیب جوئی کرنا

إعتماس to dive, to immerse. غوطہ لگانا

إعتلا to be exalted. بلند هونا

اعتلاف to chew the cud, to eat grass. گھاس کھانا

إعتلاق to fall in love. عاشق هونا

إعتلال to fall sick, to apologise, to make an excuse. بہانہ کرنا - بیمار هونا

إعتناق *m*. throwing the arms round another's neck, embracing. گلے لگانا

اعتناء taking pains, anxiety, care, condolence, kindness. - مہربانی کرنا - غمخواري کرنا فکر - آرزو

إعتياد coming back, to form a habit. واپس آنا - عادت کرنا

إعتياض retribution, reward, exchange, anything substituted for another. عوض - بدلہ

إعجاب to be proud, to be surprised, wonderful. غرور کرنا - تعجب کرنا - عجیب

إعجاز *m*. disappointment, a miracle, wonder, amazement, astonishment, surprise. عاجز کرنا - معجزہ سے جس کافر عاجز هوں - تعجب

أعجال calves, hasty, rash جلد باز - بچھڑے

أعجز a man with a big buttock, humiliating. عاجز

أعجف *a*. weak, impotent, infirm دبلا - لاغر

اعجیم *m*. a barbarian, a rustic, the term is strictly employed to one who does not speak pure Arabic, but it generally denotes a Persian, a dumb. جو فصیح بات نہ بول سکے - گونگا

اعجمي *m* a fool, a simpleton. نادان

أعجوبہ more strange, wonderful. عجیب

أعدا (*pl*. of عدو), foes, enemies. دشمن - بیري

اعداد (*pl*. of عدد), numbers.

اعدام to annihilate, to forbid. - نیست کرنا منع کرنا

اعدل *a*. very just, بہت عادل, a true witness. راست گواہ

إعذار excuse, apology, circumcision, act of sinning, to beat or wound. - ختنہ - عذر کرنا گناہ کرنا - زخمي کرنا

اعذار (*pl*. of عذر).

اعراب Arabs, wandering Arabs of the desert, villagers, rustics, nomads. گنوار - خانہ بدوش لوگ عرب کے لوگ

إعراب *m* a vowel, the using of the vowel, to publish, to notify. - کسرہ - ضمہ روشن کرنا

اعرابي Arabian, an Arab of the desert

اعراج crippling or making lame لنگڑا کرنا

اَعراس (*pl.* of عرس), new brides. نئي دلهنيں

اِعراس to be a son-in-law, to enjoy, merry-making. داماد هونا - خوشي كرنا

اِعراض flying from, aversion. مهنه پهيرنا

اَعراض diseases, contagious disease, a slope of بيماريان مرض

اَعرج cripple from birth. پيدائشي لنگڑا

اِعراق to go to Iraq (a territory between Persia and Arabia), mixing water with wine, to take a strong root. ملک عراق كو جانا شراب ميں پاني ملانا

اَعز very dear, favourite بهت عزيز

اِعزاز *m.* respect, attention. عزت - توجهه

اعزه (*pl.* of عزيز), very excellent, worthy or dear (persons or people).

اِعسار to turn a faqir. فقير هونا

اَعسر *a.* very hard, very difficult. بهت مشكل

اَعشاب (*pl.* of عشب), green grasses. هري گهاس

اَعشار (*pl.* of عشر), the tenth part of anything. دسواں حصه

اعشي *m.* one who is blind at night, name of a famous poet of Persia. رتوندهيا - فارس كے ايک شاعر كا نام

اِعصا disobedience. نا فرماني

اَعصاب (*pl.* of عصب), nerves, tendons, sinews نسيں - پٹها

اِعصار *m.* a whirlwind, a girl reaching the age of puberty, hot wind گرد باد - گرم هوا - لڑكي كا سن بلوغيت كو پہنچنا

اَعصار (*pl.* of عصر), periods, times. زمانے

اعضا (*pl.* of عضو). members of the body. هاتهه پاؤں كے حصے - جوڑ

اعضاے رئيسه the vital parts, as the heart, brain, etc. دل - دماغ - گردا وغيره

اَعطات *n.* kindnesses, favours. مهربانيا

اِعطا gift, blessing. دينا - بخشش

اَعظم *a.* greatest or very great. بهت بڑا

اعفا (*pl.* of عفيف), abstinent people. پرهيز گار لوگ

اِعفات *v.* to make one temperate or abstinent. پرهيزگار كرنا

اِعفاء *v.* to forgive, to pardon. معاف كرنا

اَعقاب (*pl.* of عقب), offspring, issue, bereaved, left behind. پس ماندگان - اولاد

اِعكاس upside down, overturned. a shadow or reflected image in water or mirror. عكس ڈالنا - اوندها كرنا

اَعلم *a.* most knowing or wise. بڑا عقلمند

اعلیٰ / اعلا } *a.* supreme, high, the Most High. بهت بلند

اَعلام (*pl.* of علم), standards, signs, banners, mark, spears, (in Gram) proper names, many cities and hills. - جمع علم كي بمعنے جهنڈا نشان - نام - نيزه - بهت سے پهاڑ يا شهر

اِعلام *m.* proclaiming, indicating, announcing, a warrant, a notification. خبر كرنا - آگاه كرنا

اِعلان *m.* publishing, divulging. - فاش كرنا كهولنا - مشتهر كرنا

اَعم present everywhere, known to all. وه جو سب كو معلوم هو - جو هر جگهه حاضر هو

اَعمام (*pl.* of عم), uncles. چچا لوگ

اَعمار (*pl.* of عمر) جمع عمر كي

اَعمال (*pl.* of عمل), actions, conducts, villages. كام - دهات

اعمیٰ blind, ignorant, a desert. اندها - صحرا

اعمیٰ فطري a born blind. پيدائشي اندها

اَعناق (*pl.* of عنق). necks, elders. گردنيں - بزرگ

اَعنق one having a long neck, everything high, a dog with a collar round his neck هر بلند چيز - لمبي گردن والا - كتا جسكي گردن ميں پٹا پڑا هو

اَعنه (*pl* of عنان), reins. گهوڑوں كي باگيں

اَعني "I intend" ميں اراده كرتا هوں

اِعواز to be poor or needy, a difficult task. مشكل كام - غريب يا محتاج هونا

اَعوان helpers, leaders. مددگار - حامي

اَعوام (*pl.* of عام), years. برس - سال

اِعوجاج crooked, slant. ٹيڑها هونا

اَعور one-eyed, blind of one eye, a bowel, a crow, impotent, unwise, ignorant, uninformed, an old book. a step brother. - كانا آنت - كوا - ضعيف - كم عقل - بے خبر - سوتيلا بهائي

اَعونه helpers. مددگار لوگ

اَعيان (*pl.* of عين), eyes, grandees, nobles. - امير آنكهيں

اَعيان حضرت courtiers درباري

اِعياء to be tired through much walking. زياده چلنے سے تهک جانا

آغا a master, lord, an elder brother. - مالک خداوند - بڑا بهائي

اغاثت redress of grievances. فريادرسي

اِغارت to plunder, to run غارت كرنا - دوڑنا

آغاريدن to mix, to compound. آميز كرنا

آغاز *a.* damp, moist, marshy ground, betrayal, shaking, rubbing نم - ورغلانا - هلنا - ملنا

آغاز *m.* beginning, commencement شروع

آغازيدن to begin, to intend, to resolve. اراده كرنا - شروع كرنا

آغشتن collecting, assembling, gathering, acquiring. جمع کرنا - فرہم کرنا - حاصل کرنا

آغال a sheep-cote in a mountain, an inclosure for sheep, etc., in a plain, arresting, heat of the bittle. - بکریوں کے رہنے کي جگہہ - گرفتار کرنا - لڑائي کا زور

آغالیدن to frighten, to scare, to arouse, to excite, to reinforce, to instigate. - بھڑکانا - لڑائي کے لیئے تیز کرنا

آغاني (*pl* of اغنیہ) any instrument that may be played with the fingers as zithor harp, etc., or that played with the mouth as a flute. وہ باجہ جو هاتھہ یا منھہ سے بجایا جوے

آغاند (*pl.* of اغید), delicate, a mistress - معشوق - نازنیدن

اغبر khaki colour, dusty. خاکي رنگ - گرد آلودہ

إغتراب to be a traveller. مسافر هونا

إغتراف drinking of water with the hands. هاتھہ سے پاني پینا

إغتسال bathing, washing. دھونا - غسل کرنا

إغتفار to ask forgiveness, to implore. معافي چاھنا

اغتیال a child getting fat. لڑکے کا موٹا هونا

آغذیہ (*pl.* of غذا), food, victuals. کھانا - خوراک

إغراب to fill a water bag, to be a traveller, to bring a new thing. نئي چیز لانا - مسافر هونا - مشک میں پاني بھرنا

آغراض (*pl.* of غرض), intentions, designs, purposes. ارادے - مقصد

إغراق to drown, to exaggerate, to draw a bow, submersion, in rhetoric it signifies excessive praise or censure. غرق کرنا - مبالغہ کرنا - کمان کھینچنا

إغرام to destroy, to be greedy, to recompense, to fine. هلاک کرنا - لالچي هونا - بدلہ لانا

آغرب a more wonderful. زیادہ عجیب

إغزا to arouse, to urge. آمادہ کرنا

آغشتن to be mixed, to be macerated, to be polluted. آلودہ هونا - لتھڑنا

آغشتہ mixed, macerated, polluted. آلودہ

آغصان (*pl.* of غصن), branches of a tree. شاخیں

إغضا turning away the eyes, connivance. چشم پوشي

اغطش weak eyes. آنکھہ کي کمزوري

إغفال negligence, Imprudence, carelessness, not on one's guard. غفلت - بے خبري

اغلب superior, stronger, *adv* most likely, for the most part. زیادہ تر - قریب یقین کے

اغلط quite wrong. بہت غلط

اغلف an uncircumcised. جسکا ختنہ نہ هوا هو

اغلمش a king of Turkistan, descended of the great Jingis Khan شاہ ترکستان کا

إغلاط to prove incorrect or inaccurate. غلط کرنا

آغلاط (*pl* of غلط) جمع غلط کي

اغلاظ (*pl.* of غلیظ), hard things. سخت چیزیں

إغما to make unconscious. بیہوش کرنا

أغمار ignorant, inexperienced. نادان - نا تجربہ کار

اغماض *m.* dissimulation, supercilliousness, obling, coquetry, to turn away from. چشم پوشي کرنا - در گذرنا

اغمام spreading of the clouds on the sky. بادلوں کا چھا جانا

آغنام (*pl* of غنم), goats. بکرے

اغنیا (*pl.* of غني), the rich. دولتمند لوگ

إغوا *m.* seduction, temptation. بہکانا - اُسکانا

آغوش *f.* an embrace, the bosom, she slaves, maid servants. گود - بغل - لونڈي - غلام

آغوش دادن not on one's guard, uninformed بے خبر - غافل

اغلاظ ایمان solemn oaths, swearings. سخت قسمیں

إغلاق *m.* difficult to be understood, abstruse, an obstacle, *v.* to bar, to bolt. - مشکل - روک - دروازے بند کرنا

آغلال (*pl.* of غل), yokes or chains for the neck. لوھے کي زنجیریں یا طوق

إغلال malice, envy, embezzlement. کینہ - خیانت

اغلام *m.* inflaming with desire, provoking to venery, sodomy. بد فعلي کرنا - خلاف قدرت نا جائز حرکتیں

اغیار (*pl.* of غیر), strangers, foreigners, unknown persons, rivals. دوسرے - اجنبي - رقیب

آف the sun, the musk-deer. سورج - مشکي هرن

اُف *int.* fie ! pooh ! for shame ! alas ! افسوس

آفات (*pl.* of آفت), troubles, mishape. تکلیفیں

إفادہ interesting, profitable. فائدہ مند

آفاعي (*pl.* of افعي), poisonous snakes. زھریلے سانپ

آفاغنہ (*pl.* of افغان), the people of Afghanistan, the Afghan race. جمع افغان بمعني پٹھان کي

افاضل (*pl.* of افضل) جمع افضل کي

آفاق (*pl.* of افق), horrizons, quarters of the heaven, the world or universe. regions. آسمان کي سمتیں

إفاقت } إفاقہ } *f.* convalescence, recovery from a swoon, to be on one's guard. هوشیار هونا - فرحت پانا - آرام پانا

افاک m. great liar. بڑا جھوٹ بولنیوالا
افانین (pl. of افنون), branches of a tree, arts, things of different kinds. شاخیں - قسم قسم کي چیزیں - هنر
افت to separate two wrestlers while wrestling. دو پہلوانوں کو کشتي میں الگ کرنا
آفت f. misfortune, wretchedness, calamity. مصیبت - تکلیف
آفتاب m. the sun, sunshine, wine, cheeks. سورج - دھوپ - شراب - رخسارے
آفتاب بر گل اندرون id. to hide a thing which is impossible to be kept secret. ایک بات کا جسکا چھپانا نا ممکن هو چھپانا
آفتاب بکرہ رفتن id. rise and fall of wealth and age. زندگاني کي انتها اور زوال
آفتاب پرست a worshipper of the sun, the lotus nilufer (Nymphæa lotus), a chameleon - نیلوفر کا پھول - سورج کا پجاري - گرگٹ
آفتاب خوردن id. to suffer pain, grief or trouble, to bear hardship. - رنج - تکلیف اور سختي اٹھانا
آفتاب دادن id. to dry in the sun. سکھلانا
آفتاب زرد رو a sweet muskmelon. خربزہ
آفتابگیر a parasol, a sunshade, a canopy. سائبان - چھتري
آفتابہ m. an ewer, a water-pot. لوٹا پاني کا
آفتابي f. a parasol of a particular form, a target studded with gold, sunflower (helinthus), a thing dried in the sun, faint coloured, an iron pan. کڑاهي - چھتري - سورج مکھي - شکستہ رنگ
آفتابي شدن to appear, to be revealed, to be manifested, to be published. ظاهر هونا
افتاہ unity. اتفاق
افتادن to fall, to happen. گر پڑنا
افتادگي f. a fall, the act of falling, humility. گرنا - عاجزي
افتتاح opening, beginning. کھولنا - شروع کرنا
افتتاش searching, finding. ڈھونڈھنا
افتراح merry-making, amusing, enjoying. خوشي کرنا
افتراس to break one's neck, to ride on a horse's back. گردن توڑنا - گھوڑے پر سوار هونا
افتخار m. glory, honour, elegance gracefulness, pride. عزت - غرور
افترا f. calumny, slander, false imputation. جھوٹ بات بنانا - تہمت
افتراق to separate one from the other ایک دوسرے سے جدا کرنا
افتضاح f. ignominy, infamy. رسوائي

افتعال accusation. تہمت
افتقاد to lose, to search, to be kind, affection, kindness, mercy. - کھو دینا - تلاش کرنا - مہرباني - شفقت
افتقار need, poverty, f. devoteeism. - احتیاج - غریبي - فقیري
افتکاک to be separate. جدا هونا
افحام to beat one in discussion. حجت سے خاموش کرنا
افخاذ (pl. of فخذ) thighs. رانیں
افدر a nephew, an uncle, a sister's son. بھتیجا - چچا - بھانجا
افدمدن to be astonished, to be surprised. تعجب کرنا
افراح to make happy. خوش کرنا
افراختن (r. افراز), to raise aloft, to extol. اونچا کرنا - بلند کرنا
افراد (pl. of فرد), individuals, singular numbers, single ones. لوگ - واحد
افراد withdrawing from society. تعلق قطع کرنا
افراز exalting (used in composition), spices (cardamom, coriander, pepper, cloves, etc.)
افراس (pl. of فرس, horses. گھوڑے
افراس آب bubbles. پاني پر جو حباب اٹھتے هیں
افراسیاب name of an ancient prince of Turan, one of the heroes of the Shahnama, ultimately slain by Rustum. توران کے شهزادے کا نام
افراشتن to extol, to exalt, to magnify. بلند کرنا
افراط m. excess, superfluity. بہت زیادہ
افروختن v. to set on fire, to burn, to kindle. روشن کرنا
افروزہ the wick of a candle or a lamp. بتي
آفري praise, well done! contr. of آفریں تحسین - مخفف آفریں کا
آفریدن v. to create. پیدا کرنا
آفریدگار m. n. the Creator. پیدا کرنے والا
آفریدگان created things or beings. پیدا کیئے هوئے
آفریشم silk. ریشم
آفریں inter. bravo! well done! (in comp., m. the Creator, as جہان آفریں the Creator of the world. کلمۂ تحسین - شاباش - پیدا کرنیوالا
آفرینش to create. پیدا کرنا
آفرینندہ Creating, the Creator. - پیدا کرنیوالا - خدا تعالی
افزا increasing (used in comp) بڑھانیوالا
افزاع to frighten, to bewail. ڈرانا
افزانیدن i. v. to increase. بڑھانا
افزودن inf. to increase, to multiply. بڑھنا

افزون *a.* increased, more, manifold, greater, much, increasing. زیادہ بڑھا ہوا

افزوني *f* increase, enlargement. زیادتي

اِفساد *v.* to ruin. تباہ کرنا

اَفساد (*pl.* of فساد), quarrels, ruins. - جھگڑے تباھیاں

افسانہ *m.* a tale, fiction, story, romance. قصہ - کہاني

افسا *m.* a sorcerer, a magician. جادوگر

افسار *f.* rein of a horse. باگ ڈور

افسان *n.* a whetstone. ھتھیار یا اوزار تیز کرنے کا پتھر

افسر *m.* a crown, diadem, a cap, an officer. تاج - کلاہ - حاکم

افسردن *v.* to wither, to flag. مرجھانا

افسردہ dejected, dispirited, melancholy, low-spirited, withered. مرجھایا ھوا - اُداس

افسوس *m.* vexation, sorrow, concern, witticism, game; *inter.* ah! alas! دریغ - حسرت

افسون *m.* incantation, verses used in spells or enchantments, fascination, sorcery. جادو - منتر

افشا *m.* divulging, publishing. ظاھر کرنا

افسار a troop, horsemen. قزلباشوں کا گروہ

افشاندن *inf.* to scatter, to disperse - جھاڑ پھیلانا

افشان dispersing, scattering (used chiefly in *comp.*), sprinkled. چھڑکي ھوئي - پھیلائي ھوئي

افشردن *inf.* to squeeze. نچوڑنا

افصح *a.* very eloquent, speaking very correctly. صاف عبارت بولنیوالا - فصیح

افضل } افضل تر } *a.* more or most excellent. بہت بڑھکر - اعلی ترین

اِفضاح to disgrace, to dishonour. - بدنام کرنا رسوا کرنا

اِفطار *m.* breaking a fast. روزے کھولنا

افعال (*pl.* of فعل), actions. کام - فعل

افعي (properly افعی), *m.* a very poisonous black serpent. بڑا کالا زھریلا سانپ

افعي آتشین دم a gun, firelock. بندوق

افغان lamentation, *inter.* alas! the name of a race of people who inhabit the country to the N.-W. of Lahore, called also Pathans.

افق *m.* the horizon, a tract or region of the earth, (poet) the world. آسمان کا کنارہ

افقر *a.* very poor, destitute بہت محتاج

افک *n.* falsehood, calumny, aspersion, false accusation. جھوٹھ - الزام

افکار (*pl.* of فکر), cares, thoughts, meditations, opinions. فکریں

افکل shaking, trembling. لرزنا

افگار *a.* wounded, *m.* a sore (on the back of a horse, etc.) زخم - زخمي

افگن overthrowing, (used in composition).

افگندن *inf.* to throw down, cast forth. - ڈالنا گرانا

افگندہ سم *a.* humble, a cripple. اپاھج - عاجز

افل going down, (*pl.* آفلین). نیچے جانا یا اُترنا

اِفلاج the palsied, paralysed. مرض فالج کا ھونا

اِفلاس *m.* bankruptcy, penury, poverty, want. غریبي - محتاجي

افلاطون Plato, (so called by the Arabs). نام ایک فیلسوف کا

افلاک (*pl.* of فلک), the heavens, heavenly spheres. آسمان

اِفنا to destroy, to annihilate. نیست کرنا

افنان (*pl.* of فن), branches of a tree, science, art or knowledge. شاخیں

افواج (*pl.* of فوج) armies. فوجیں

افواہ (*pl.* of فوہ), mouths, *f.* doubtful news, fame, report. بہت سے منھہ - شکیا خبریں also medicines, scents, etc. دوئیں - خوشبو

اِفہام to make understand. سمجھانا

افئدۃ (*pl.* of فواد), hearts. دل

افیال (*pl.* of فیل), elephants. ھاتھي

افیل a young camel. جوان اونٹ

افیون *f.* opium. افیم

آقا *m.* master, owner. صاحب - مالک

اقارب (*pl.* of قریب), relatives, kindred. رشتہ دار لوگ

آقاسي the superintendent of a tribunal. داروغہ

اقاصي (*pl.* اقصی), very far, distant. بہت دور

اِقالت *v.* to refrain from sins, to put off an intention. ارادے کا موقوف کرنا - باز آنا

اقالیم (*pl.* of اقلیم), climes, regions. ولایتیں

اِقامت *f.* resting, staying, abode, residence, dwelling. ایک جگہ رھنا

اقبال *m.* prosperity, good fortune, felicity, acceptance of a bond. خوشي - قبول - نیک قسمت

اقبال مند prosperous, of good fortune. صاحب اقبال

اِقتباس *m.* borrowing (fire from another), acquiring, procuring, gaining, asking, begging, quotation, to light. حاصل کرنا - آگ لگانا

اقتدا imitating, following. پیروي کرنا

اِقتدار *m.* power, authority, excellence, dignity, cooking. قدرت - طاقت - رتبہ - پکنا

إقتراب to approach, to come near. نزديک آنا

إقتراح begging, asking. مانگنا - سوال كرنا

إقتراض to borrow. قرض لينا

إقتران to come near. نزديک آنا

اقتسام m. division, partition. تقسيم كرنا - بانٹنا لينا

اقتصاد to walk uprightly. سيدهي راه چلنا

اقتصار m. abbreviation, abridgment, restriction, determining or fixing the bounds of any thing, failing, wasting. بس كرنا - ضايع كرنا - ناكامياب هونا

اقتضا claim, requisition, demand. خواهش

إقتنا acquiring, to amass wealth. حاصل كرنا - پونجي جمع كرنا

اقتناع contentment. قناعت كرنا

اقتياس following, guessing, supposing. پيروي كرنا - قياس كرنا

اقبح a. worse, deformed, ill-shaped, very ugly. بهت بد صورت - بدتر

آقچه money, gold coins. اشرفي - روپيه

أقداح (pl. of قدح), cups.

إقداح backbiting. هجو كرنا

إقدام m. intrepidity, resolution, firmness, spirit, endeavour, effort, diligence, attention, care. كوشش كرنا - دليري كرنا - خبرداري كرنا

أقدام (pl. of قدم), steps.

أقدح a. more defective, worse. ناقص تر

أقدس a. very holy, or more sacred. بڑا پاک

أقدم a. most prominent, superior to all. بهت مقدم - اول

اقذار unclean actions pollutions, impurities. نا پاكياں

إقراض to lend on interest. قرض دينا

إقراع to cast a lot. قرعه ڈالنا

أقران (pl. of قرن), thirty years, 80 years or 100 years. تيس - اسي يا سو برس also the pl. of قرن, equals (in age, rank, etc.), a neighbour. نزديک همسايه

اقرب a. most near, more near. بهت نزديک

أقربا (pl. of قريب), kindred, friends, allies. رشته دار - دوست

اقرع bald-headed. گنجها

إقسا to harden one's heart. دل كا سخت كرنا

أقساط (pl. of قسط), portions, instalments. حصے

إقساط to be just, to justify. عدل كرنا

أقسام (pl. of قسم), various kinds, of every sort قسميں - ٹكڑے also the (pl. of قسم), oaths. قسميں

إقسام to swear. قسم كهانا

أقسط a. very just, upright, sincere. عادل

اقصا } extreme, very or most distant, ex-
اقصى } tremely, shores, banks. دور كے - كنارے

إقصاص to slay or kill a murderer for one slain. قاتل كے عوض مقتول كو قتل كرنا

إقط cheese. پنير

إقطار drops, many shores, wood of aloe. قطرے - بونديں - [illegible] كي لكڑياں

أقطاع (pl. of قطع), portions, parts, divisions, lands given by Government as a reward for services, jagirs. حصے - ٹكڑے - جاگيريں

أقطع a hand-clipt man, handless, a thief, a highwayman. ٹنڈا - چور (مجازي معني)

اقفال (pl. of قفل), locks. تالے

أقل a. less or least, very little. بهت تهوڑا

إقلال to lessen, poverty. فقيري - كم كرنا

أقلام (pl. of قلم), pens.

أقلف an uncircumcised. وه جسكا ختنه نا هوا هو

أقليدس Euclid. علم هندسه اور إشكال رياضي

إقليم m. climate, country, according to Moslem geographers, there are seven *akalum* "climates or countries" which occupy a fourth part of the world called the *rub'i muskun* "inhabited fourth part" The other three quarters of the globe are supposed to be utterly uninhabitable. ولايت - ربع مسكون كا ساتوان ٹكڑا

إقليميا dross, the scum of metals. دهاتوں كا ميل

اقمار (pl. of قمر), lovers, lady-loves. - معشوق محبوب

اقماس v. to dive, to immerse. غوطه مارنا

أقمر a. very white. بهت سفيد

اقوات (pl. of قوت), powers, victuals. خوراک

أقوام (pl. of قوم), tribes, nations. قوميں

أقوم a. more proper. درست تر

اقوى a. very powerful. بڑا زبردست

آكا an elder brother. بڑا بهائي

آكابر (pl. of اكبر or كبير), the great or grandees, people of rank. بهت بڑے

أكاذيب falsehoods. دروغ باتيں

آكار a village, a farmer, rustic. كسان - دهقان

أكارم (pl. of اكرم), most forgiving, very honourable. بهت بخشنے والا - بڑا بزرگ

أكال a monstrous eater, gluttonous. پيٹو - بڑا كهانيوالا

اكبر a. very great. بهت بڑا

إكتتاب to write, to learn writing. لكهنا - لكهنا سيكهنا

إكتتام to hide, to conceal, tinging the hair. چهپانا - خضاب لگانا

اِکتحال to paint eyes with collyrium. آنکھہ میں سرمہ لگانا

اِکتساب *m.* gain, acquisition. محنت سے حاصل کرنا - کمانا

اِکتفا *f.* sufficiency, contentment. - کفایت کرنا بس کرنا

اِکتنات to take refuge or shelter, to defend, to protect. پناہ لینا - حمایت کرنا

آکتم more concealed. زیادہ چھپا ہوا

اِکرام *m.* honouring, complimenting, treating with attention and harmony. بخشش - عطا

اکرام (*pl.* of کرم), favours, kindnesses, obligations, honour, respect. نیک سلوک - مہربانیاں

اِکراہ hatred, aversion, abhorrence. نفرت کرنا

آکرل a monstrous eater, a gluttonous. بڑا کھائیوالا

آکرم *a.* very kind and merciful. بہت بخشنے والا - بہت رحم والا

اکسیہ barley wine. جوکي شراب

اِکسون costly black silken cloth. بیش بہا سیاہ ریشمي کپڑا

اکسیر alchemy, chemistry. کیمیا

اکل *m.* food, eating. کھانا

اُکل fruits. میوہ - پھل

اکلیل crown, a mace embedded with costly stones. تاج - عصا بلا مرصع

اکلیل‌الجبل *m.* (the crown of the mountain), an herb smelling like frankincense, rosemary. پہاڑ کي چوٹي - ایک قسم کي نبات

اِکمال *m.* perfection, accomlishing.- تمام کرنا کامل کرنا

اکمل *a.* perfect, very complete, entire, full. بہت کامل

اکمہ born blind. مادر زاد اندھا

اکناف (*pl.* of کنف), environs, borders, confines, sides. پناہ - کنارہ - طرف

اکنون *ad.* now, at present. اب - ابھي

آکو *m.* an owl. اُلو

اکواب ewers, glasses, cups. آبخورے - پیالے

آکوان (*pl.* of کون), creation, name of a demon who had thrown Rustum in a river and was himself slain by him. مخلوقات - نام ایک دیو کا

آکوش lap, bosom. گود

آکید *a.* strong, firm. مستحکم

آکیس *a.* verp wise. بڑا عقلمند

آکیلہ eatables. کھانے کي چیزیں

آگندن } آگیندن } *inf.* to fill, to cram. بھرنا

آگیند گوش *a.* heedless, inattentive. وہ جو کسي کي نصیحت نہ سنے

آگندہ } آگیں } full, cotton and feathers stuffed in cushions or pillows. پر - بھرا ہو - روئي اور پر جو تکیہ وغیرہ میں بھرتے ھیں

آل *f.* red colour, a tent, a kind of wine, seal (in Turk.)

آل children, progeny, descendants, offspring, race, dynasty. N. B.— آل is commonly used to express a race or family by the mother's side, in contradistinction to اولاد, a race, etc., by the father's side, inmates of a house. اولاد - اور خصوصاً بیٹي کي اولاد کو بولتے ھیں - اھل خانہ

آلاء (*pl* of اِلا), gifts. نعمتیں

آلا *int.* beware ! know thou ! O ! a title (in Persian).

اِلا besides, except, otherwise, unless, if not. نہیں تو - اگر نہ

آلات *n.* (*pl.* of آلت), tools, instruments, utensils, apparatus. جمع آلت کي بمعنے اوزار - ھتھیار

آلاف (*pl.* of الف), thousands. ھزاروں

آلام (*pl.* of الم), lamentation. غم

الان *ad.* now, the present time. ابھي - اسي وقت

آلائش *f.* filth, pollution, defect. آلودگي - عیب

آلائیدن *inf.* to be draggled, to draggle or besmear with dirt. لتھڑنا - لتھیڑنا

اُلاغ } اُلاق } an ambassador, a horse used for carrying post, etc., an ass for carrying load قاصد - باربرداري کا گدھا

اُلاچق a house inhabited by savages. جنگلي لوگوں کا گھر

الباس to wear, to put on. کپڑے پہننا

البرز celebrated mountain in Hamadan, in Persia, famous among the fire worshippers. ماژندران میں ایک پہاڑ کا نام

آلت *f.* a tool, an instument, apparatus, the running rigging of a ship, a rope (in the lingo of Indian seamen), membrum virile, veretrum animalium. اوزار - ھتھیار - رسي

اِلتباس being observe, ambiguity, perplexity, "double entendre" شک ھونا - گھبراھٹ

اِلتجاج to fight, to wrangle. لڑنا

التحاد apostacy. مذھب سے برگشتہ ھونا

اِلتذاذ to enjoy. مزہ لینا

اِلتزاق to stick on چپکانا

اِلتزام *m.* being necessary, expedient, being assiduous, taking on one's self, to strike on one's neck. لازم پکڑنا - گردن پر مارنا

اِلتساق to stick, to adhere. چپکنا

اِلتشام to kiss چومنا

إلتصاق sticking one thing to another. ایک چیز کا دوسري چیز سے چپکنا

إلتفات *f.* friendship, kindness, obligation, courtesy, respect, (in rhetoric) an apostrophe. مهرباني - توجه - میلان

إلتقاط to pick up, to collect. چننا - جمع کرنا

إلتماس *m. f.* beseeching, petitioning, supplicating, prayer, request - عرض کرنا منت کرنا

إلتماع *v.* to shine, to be bright. روشن هونا

التمش *n.* a chief, a head, the number 6, the title of Sultan Shams-ud-din Ghori, King of India. سردار - عدد ٦ - سلطان غوري شمش الدین غوري کا خطاب

التمغا *m.* a Turkish word, signifying, the *red* patent, the impression of the imperial seal affixed to grants, etc., being in red ink. It is a grant of land under the royal seal, conveying the property to the first proprietor and his heirs, in perpetuity, and escheating to Government only in default of issue, or forfeited by delinquency. It also denotes a kind of tax levied on travellers. Among the Turks it signifies a stamp on gold or silver plate, to certify its being of standard purity. - شاهي فرمان مهر بادشاهي

ألتغ a stutterer, a stammerer. توتلا

إلتوا *v.* to wrap, to abridge, to shorten, hanging back, procrastinating, differring. لپیٹنا - مختصر کرنا

إلتهاب flame, to kindle. شعله بهڑکنا

التیام *a.* allaying, soothing, curing, زخم بهرنا

الجه / الجي } *n.* plunder, spoil. لوٹ کا مال

آلچي one who catches or seizes. پکڑنیوالا

إلحا importunity, urgent solicitation. - گڑگڑانا منت کر کے مانگنا

ألحاصل in short, in fine. آخر کلام - خلاصه

إلحاق *m.* addition, junction, coupling. ایک دوسرے سے لگانا - ملانا

ألحال *ad.* now, at present, just now. - ابهي إسي وقت

إلحن *m.* note, sound, modulation, tune, an air in music. گیت گانے کي آوازیں

آلد *a.* quarrelsome, contentious. جهگڑالو

إلزا *m.* blame, reproach, conviction. إلازم کرنا کسي چیز کا اپنے اوپر یا دوسرے پر کردینا

الز *a.* more proper. لازم تر

آلسن / آلسنه } (*pl.* of لسان), tongues, languages. زبانیں - بولیاں

ألش / أولش } *m.* the leavings of a superior. امیروں کے آگے کا بچا هوا کهانا

إلصاق *v.* to apply, to clasp, to adhere, to stick on. چپکانا - لگانا

الطاف (*pl.* of لطف), kindnesses, favours. مهربانیاں

آلطف *a.* more delicate, more holy. - پاکیزه تر نازک تر

العجل *int.* be quick! look sharp! جلدي کر

ألغ *a.* very great, honourable بڑا بزرگ

الغاز to ask riddles. پهیلیاں کهنا

آلغاز (*pl.* of لغز), riddle, enigma. پهیلي

الغرض *adv.* in short, upon the whole, in a word, finally. القصه - حاصل - مطلب

آلغات intertwined, intertwisted. - پیچ در پیچ اپٹے هوئے آپس میں

الغیاث *m.* complaint, complaining, demanding justice. *inter.* alas! help! - فریاد دهائي

آلفتن *inf.* to be perplexed, to be scattered. بکهرنا - پریشان هونا

آلفته *a.* astonished, frantic, insane, fearless. تعجب میں هونا - پاگل - بیباک

الف بر خاک کشیدن / الف بر زمین کشیدن } *f.* bashfulness, shame. شرمندگي

ألف قامتان a mistress, eyebrows and sighs. معشوق

ألف تازیانه mark of a lash or a whip on one's body. بدن پر کوڑے کے نشان

القاب *m.* titles, honorary names, forms of address, etc. in letters. خطاب

ألکا village, division, earth, country. - پرگنه زمیں - ملک

ألکه city, country. شهر - ملک

الکن stuttering, pronouncing badly. - توتلا هکلا

آلم *m.* pain, grief, affliction دکهه - غم - رنج

آلماس *m.* a diamond. ایک قیمتي پتهر a penknife, a sword, a scimitar, a dagger. قلمتراش - تیغ - خنجر

الماس دندان شدن *id.* to beseech, to supplicate, to request earnestly. گهگهیانا - منت کرنا

المعي *a.* wise, tactful. عقلمند

آلنگ intrenchment, trenches. - چهار دیواري مورچا

آلنگ a green pasturage, greensward. - سبزهزار سبز چمن

أولواالالباب men endowed with wisedom and intellect. صاحبان خرد و عقل

الوالامر mean of Government and power; ministers of the state, nobles, etc. صاحبان حکومت

ألواح (*pl.* of لوح), tablets, planks. تختيان

ألواز (*pl.* of لوز), almonds. بادام

ألوان (*pl.* of لون), colours, sorts, kinds, *adj.* of various sorts and colours. رنگ - قسمیں

الواث (*pl.* of لوث), pollutions. ناپاکي

ألوش tribe, nation. قوم

آلودگي *n.* pollution, uncleanness. نا پاکي

آلوند a mountain in Hamadan. همدان کے ایک پہاڑ کا نام

الوف (*pl.* of ألف), thousands. هزاروں

ألوهيت divinity. الهايت

اِله / اَللّه } God ; Almighty. خدا تعلی

اللہ اکبر God is great ! an exclamation of surprise, resignation, etc. کلمہ تعجب وغیرہ

اِلهام inspiration, revelation. خدا کیطرف سے ایک بات دل پر ظاهر هونا

الهي divine, the Divine Being, used as an *interj.*, O God ! name of an era instituted by Akbar. میرا خدا - اے میرے خدا

اِلهيات *f.* divinity, the godhead. علم الهي کي بحثیں اور مسئلے

اليم *a.* painful, a disease causing much pain. دردناک - دردناک بیماري

اِلياس the prophet Elijah. نام ایک پیغمبر کا

أليف friend, beloved. دوست - محبوب

اِلي الان up to the present time. هنوز - ابتک

آليه *n.* buttock. چوتڑ

أم *f.* a mother. مادر - ما

اما *conj.* but, moreover, nevertheless, however. لیکن - مگر

إماتت *v.* to kill, to murder. مار ڈالنا

اماجد (*pl.* of امجد) grandees, great men, very or most glorious. بزرگ لوگ

آمادن *inf.* to supply, to set on. مهیا کرنا

إمارت *f.* dominion, authority, a district under the government of an *amir.* امیر هونا - حکومت کرنا

أمارت time, sign, element, promise. - وعدہ نشان - وقت

آمارہ domineering, imperious. حکم کرنیوالا بدي کا

اِمارہ account. حساب

آماسیدن *m.* act of swelling, to be inflamed. سوجنا - پهولنا

آماس / آماہ } swelling, inflammation. سوجن - ورم

آماکن (*pl* of مکان), mansions, habitations places. محل - مکانات

آمال *m.* (*pl.* of أمل) hopes. اُمیدیں

اُم الخبائث wine. شراب

أم القوى Mecca. مکہ معظمہ

إمالہ *m.* (*lit.* including) a change of vowels in pronunciation as kitib for kitab (a book). میل دینا

إمام a leader, a king, a mason's thread. پیشوا - بادشاہ - ڈوري معماروں کي جس سے دیواروں کي کجیں نکالتے هیں

إمامت *f.* the office of an *imam.* پیشوائي

أمان *f.* grace, mercy, security, safety, protection, as an *interj.*, it denotes, quarter ! spare me ! and is generally sounded آمان پناہ - تکلیف نہ دینا

امانت *f.* deposit, charge, anything given in trust, faith, religion. کسي کي کوئي چیز اپني حفاظت میں رکهنا - ایمان

آماني (*pl.* of اُمنیہ), hopes. اُمیدیں

إماء (*pl.* of آمہ), a she slave لونڈي

آمت a she slave, a maid servant. - کنیزک لونڈي

اُمت *f.* people, a religious sect, people of the same belief. ایک هي پیغمبر کے تعبدار - جیسے مسلمان - نصاري - یهوہ

اُمتان (*pl.* of اُمت), (see above).

إمتاع to benefit. کسي کو نفع پهونچانا

امتثال to obey, to tell a story, to suppose, to imagine, to follow, to take vengeance of a murder. - حکم ماننا - قصہ کهنا - تصور کرنا پیروي کرنا - خون کا بدلہ لینا

إمتحان *m.* examination, proof, trial, experiment, temptation. - کسي کو مصیبت میں ڈالنا آزمانہ - آزمائش

إمتداد *m.* protraction, prolongation, prorogation, extension, *adj.* protracted. دراز اور کشیدہ

إمتزاج to mix, to join, to unite. ملانا

إمتشاط to comb. کنگهي کرنا

إمتصاص to suck. چوسنا

إمتلا *m.* repletion, indigestion. بد هضمي - پیٹ بهرنا

إمتناع *m.* prohibition, restraint. منع کرنا - روکنا

إمتنان *f.* favor, kindness. احسان

إمتهان to disgrace. ذلیل کرنا

إمثال (*pl* of مثل), examples, similes, equals, fables, parables, مقتین - داستانیں - مانند.

امجد *a*. very or most glorious. بزرگ ترین
أمجاد (*pl.* of امجد), very glorious people. بزرگ ترین لوگ
إمداد *f*. act of assisting, aiding or abetting, succour, help, extending. مدد کرنا
آمد و رفت } *f*. access and egress, intercourse,
آمد و شد } thoroughfare. آنا جانا
آمر one who orders, a commander, ruler. حاکم - حکم دینیوالا
أمرا (*pl.* of امیر), nobles. امیر - دولتمند لوگ
إمرار to cross over, to pass. لنگھانا
إمرءة a woman. عورت
أمرد beardless, handsome (a youth). خوبصورت جوان - بے ڈاڑھي موچھ والا
آمرزش *f*. pardon, forgiveness of sins (by the diety). معافي - بخشش
آمرزیدن *inf*. to pardon, to forgive. گناہ معاف کرنا
آمرزگار he who pardons, an epithet of God. بخشنے والا یعني خدا
إمروز to-day. آج کا دن
أمزجه *pl.* of مزاج
إمساک *m*. parsimony, abstinence, a medicine taken to prolong pleasure, scarcity, want لذت کے لیئے دوائي - ضرورت - بخل کرنا - روکنا
أمس *ad*. yesterday. کل کا دن جو گذر گیا
إمساس *v*. touch. چھونا
إمشب *adv*. to night. آجکي رات
إمصار (*pl.* of مصر), cities, large cities. بہت سے شہر
امضاي despatching, transmitting. - جاري کرنا حکم اجرا کا دینا
أمطار (*pl.* of مطر), rain. مینھہ
امعان نظر looking attentively, contemplating. غور سے دیکھنا
امعا bowels. (*pl.* of معا)
إمکان *m*. possibility, contingent, existence (in opposition to وجوب necessity, or necessary existency) ممکن - ہو سکنا
أمکنه (*pl.* مکان) houses. رهنے کا گھر
أمل hope, expectation. أمید
إملا *m*. orthography, writing correctly, completing, filling up. پر کرنا - یاد پر کوئي چیز لکھنا - اصلاح میں رسم الخط
إملاح to make saltish. نمکین کرنا
إملاق poverty. مفلسي
إملاک (*pl.* of ملک), possessions, properties (generally applied to land). - جمع ملک کي ملکیت
إملا *m*. possession, property, land held rent free. ملکیت

أملس *a*. simple, plain, level, clear, soft. هموار - سادہ - نرم - صاف
أمم (*pl.* of امت), nations, sects, tribes, herds. گروہ آدمیوں کے
أمن *m*. security, safety, peace. - صلح - چین آرام
أمنیت security, repose, a place of safety. آرام پانا
أمنیت *f*. anxiety, hope. أمید - آرزو
أموات أحمر *a*. massacred, slaughtered, martyrs. شهیدان - مقتولان
آموختن (*r*. آموز) *inf*. to teach, to learn. - سیکھنا سکھلانا
آمودن *inf*. to fill, to decorate, to adorn, to support, to arrange, to put in order. - بھرنا سنوارنا
آمودہ adorned, decorated, full. بھورا ھوا - آراستہ
آموزش *v*. to teach, to learn. سیکھنا - سکھلانا
آموزگار *m*. a teacher, master, an instructor, a pupil, a student. سکھلانیوالا - سیکھنیوالا
آموزناک *m*. an instructor, a teacher. سکھلانیوالا
آمون } name of a canal between Iran
آموے } and Turan. ایران اور طوران کے بیچ میں ایک نهر کا نام
إمهال *n*. softness mildness, delay, leisure. نرمي - آهستگي - فرصت - دیر
أمهات سفلي the four elements, *viz.*, air, water, earth and fire. - چارون عنصر - یعني هوا - پاني خاک اور آگ
آمیختن (*r*. آمیز), to mix, to mingle. ملانا
آمیز to mix. ملانا ; mixture, in *com*. mixed, mixing, fraught with. ملا هوا
آمیزگار *m*. one who mixes or compounds. ملانے والا
آمین *adv*. amen, so be it. خدا یوں هي کرے
امین *m*. a commissioner, a trustee, an umpire, an investigator, an arbitrator. امانت دار شخص
آن *f*. time, hour, minute. وقت - لمحہ - لحظہ
آن *pro*. that, he, she, or it, graceful attitude, an affected gait, affectation, pride, coquetry, blandishment, property, goods. وہ شخص - ناز و ادا - مال وغیرہ
إن *conj*. if, whatever. اگر - جو
آنات (*pl.* of آن), times. جمع آن بمعنے وقت
أنا *f*. mother. مادر
آنا *pro*. we. هم - هم لوگ (used only in Arabic phrases) as to us, verily we.
إنا delay, opportunity, a seasonable hour. موقع - وقت

إنابت *f.* penitence, repentance, conversion, return to the true faith. توبہ کرنا - خدا کیطرف رجوع لانا - پچھتانا

آنات } آنانت } delay, laziness. دیر - آهستگي

إناث (*pl.* of انثي), females, women. - مادہ عورتیں

إنارت to brighten, to illuminate. روشن کرنا

أناس *n.* people, many men, multitude. - آدمي بہت لوگ

آنال fingers. أنگلیان

أنام mortals, the world, demons, genii. دنیا کے لوگ - خلق اللہ

آنان those. وے لوگ

انانیت *f.* egotism, boasting, arrogance خود بیني - غرور

إناء *n.* witticism, utensils. ظرت - برتن

آنائي genesis, creation, existence. پیدایش مخلوقات

إنباء to inform, to warn. آگاہ کرنا - خبر دینا

انبار *m.* magazines, heaps, a stock. ڈھیر

انباردن to gather, to form a heap, to stock, to cover, to roof. پاٹنا - ڈھیر لگانا

انباز *m.* a partner, an associate. ساتھي - برابر کا شریک

انبازش to fill, to cram. بھرنا - پر کرنا

انبازي partnership, association. شرکت

انباشتن } انپاشتن } *inf.* to fill, to cover, to roof, to gather, to heap. بھرنا - پاٹنا - ڈھیر کرنا

انباغ *f.* two women married to one man, one wife if انباغ to another, *f.* a rival (wife).

انبانہ a haversack. ایک تھیلا جسمیں خوراک رکھیں

انبان a kind of soft goat skin leather, a purse, a clothes-bag, wallet. تھیلا - پکا چمڑا

انبان‌باد *f.* a smith's bellows. دھونکني

انبر (*corr.* of عنبر), amber, also tongs, pincers. سنڈاسي - سنسي

انبساط *f.* gladness, joy, delight, cheerfulness, recreation, mirth. خوشي - کھلنا

انبعاث to rise, to stand up. کھڑا ھونا - اٹھنا

أنبوہ a crowd, a multitude, mob, concourse. هجوم - گروہ

انبودن to arrange in order, to put one on the other. چننا

انبہ mango. آم

انبیا (*pl.* نبي), prophets, apostles. نبي لوگ

أنت thou a man (art). تو ایک مرد

أنت thou a woman (art). تو ایک عورت

إنتباش to make naked, to steal the coffin. ننگا کرنا - کفن چرانا

إنتباہ to be warned, to be cautioned, a caution, a warning. آگاهي - آگاہ هونا

انتخاب *m.* selection, picking, making extracts from books, election, choice - چننا پسند کرنا

إنتساب to connect, to join. نسبت کرنا - لگاؤ کرنا

إنتساخ to copy exactly like the original. مطابق اصلي کے نقل کرنا

انتساق to arrange, to accept one's arrangement. ترتیب دینا - قبول کرنا

انتسال to be born, issue. نسل پیدا هونا

انتسام to smell something fragrant. خوشبو کي چیز سونگھنا

إنتشار *m* confusion, want of regularity, dispersion, explanation. پراگندہ هونا - پھیلنا

انتصاب to happen, to come to pass, to be or remain established. برپا هونا

إنتصاح to hear or accept one's advice. کسي کي نصیحت ماننا

إنتصات to get justice, to get a right decision. انصات پانا

إنتطاح the horn of an ox a goat. سینگ

إنتعاش recovering one's self after stumbling, to rise, to stand, happiness, enjoyment. بلند هونا - کھڑا هونا - بلند هونا - خوشي و خرمي

انتفاح inflammation, swelling. پھولنا - ورم هونا

إنتفاع *m.* profit, advantage. نفع پانا - فائدہ حاصل کرنا

إنتقاد to take ready money, to separate husk from corn, to winnow. بھوسے کو دانے سے علیحدہ کرنا - نقد لینا - غلہ صاف کرنا

إنتقاض breach of promise, breach of a treaty, decease, dying. عهد و پیمان توڑنا

إنتقال *m.* transporting, travelling, transferring, circulation (of currency), departure, decease. ایک جگھہ سے دوسري جگھہ جانا - مرنا

إنتقام *m.* revenge, retaliation. بدلہ - بغض نکالنا

إنتكات to be bashful, to be modest. شرم و حیا رکھنا

إنتما to increase, to multiply, to swell, to puff up. بڑھنا - پھولنا

آن‌تنگي time of separation, death, grave. گور

إنتها *f.* end, termination, summit, *adj.* finished, completed, prohibited. اخیر - انجام

إنتهاز to get time or leisure, to get an opportunity. فرصت پانا - قابو پانا

إنتهاب to plunder, to spoil, to ruin. - غارت کرنا - لوٹنا

إنتهاض to get up, to march. اُٹھنا - کوچ کرنا

انثي *f.* a female, a woman. مادہ - عورت

انثیان } انثیین } the two, both, the two testicles, ears, etc. - هر دو - دونوں - مثلاً دو کان - دو آنکھیں وغیرہ

انجاح fulfilment, accomplishment. مطلب پورا هونا

إنجاز *v.* to fulfil a promise. وعدہ وفائي کرنا

آنجاس *f. n.* filthinesses, dirtinesses, impurities, pollutions. نجاستیں

انجام *m.* end, termination, accident, vexation, in *comp.* ending, etc. آخر - انتها

انجامیدن *inf.* to terminate, to finish, conclude. تمام هونا - پورا هو جانا

آنجس *a.* more filthy or impure. نجس تر

إنجلا *v.* to be bright, to be clear, not cloudy, comfort, to be homeless. روشن هونا - صاف هونا - بے وطن هونا

إنجم (*pl.* of نجم), stars, constellations. ستارے

آنجمن *f.* an assembly, meeting, company, banquet. محفل - مجلس

إنجیدن to cut, to slash. ٹکڑے کرنا - کاٹنا

انجیدگان *a.* the wounded. زخمي لوگ

إنجیل *m.* the New Testament, Gospel, a joyful news. خوشخبري - کتاب جو حضرت عیسی کي هے

آں چراغ اهل بینش the prophet Joseph (in Yusuf and Zulaikha) مراد حضرت یوسف سے

آنچه that which, whatsoever. جو کچھ

إنحداب *a.* humpbacked, crooked. - کبڑا هونا - پیٹھ کا ٹیڑھا هونا

إنحراف deflection, inversion, change, met, to prove a turncoat, recantation, deviation from the meridian, chiefly, applied to the bearing of the temple of Mecca, a disease, defect, distemper. - بدل جانا - پھر جانا - حکم عدولي کرنا

إنحصار surrounding, encircling, to be short or narrow. گھیر لینا - کوتاہ هونا

إنحطاط to come down, to descend, to be less. نیچے اُترنا - کم هونا

انحنا to be crooked or humpbacked. ٹیڑھا هونا

إنخراط to attend a meeting, to join a party, to thread a needle, to peel, to strip off. چھیلنا - کسي جماعت میں شامل هونا - سوئي میں ڈورا ڈالنا

إنخراق to be burst, to be exploded, to be split, torn or broken. پھٹنا

إنخلال *f.* destruction, ruin. تباهي - بربادي

انداختن (*r.* انداز) to cast, to throw down. ڈالنا - پھینکنا

آنداز a narrative, story, tale, fiction. - قصہ - افسانہ - حکایت

انداز } اندازہ } *m.* valuation, guess, weighing, measurement, time in music, mode, manner, (*in-comp.*) throwing, intention, resolution, power, quantity, rank. - ادا - وضع - قصد - قدرت - مقدار - مرتبہ

اندام body, stature, figure. بدن - جسم

اندائیدن to plaster a wall. دیوار پر کہگل چڑھانا

إندراج *m.* becoming extinct (a family), being folded together, insertion, inclusion. منهدم هونا - درج هونا

إندراس to be old. پرانا هونا

اندر within, inside, inwardly. بھیتر - بیچ

آندرز *m.* last will, last advice, precepts, admonitions. وصیت - نصیحت

اندرون within, inner apartments, interior. بھیتر - بیچ - درمیان - اندر کے کمرے

إندفاع *m.* warding off, repelling. دور هونا

إندماج to unite, to mix, to be permanent, to be established, to enter. - ملنا - پیوست هونا - اُستوار هونا

إندمال *m.* recovering, getting well of a wound. زخم بھرنا

اندوختن *inf.* to collect, to gather. - جمع کرنا - اکٹھا کرنا

اندودن *inf.* to plaster (with cowdung), to gild. لیپنا - ملمع کرنا

آندوہ *m.* grief, anxiety, trouble. غم - تکلیف

اندوهگین } اندهان } *a.* full of grief, afflicted, sad. رنجیدہ - غمگیں

آندیدن *inf.* to be surprised, to be astonished. تعجب کرنا

آندیشیدن *inf.* to consider, to reflect. سوچنا

آندیک an expression of hope. اُمید - تمنا

إنذار advice, to frighten نصیحت - ڈرانا

إنزال *m.* emission, sending down, *emissio seminis*, coming down. اُتارنا - اُترنا

إنزوا retiring into a corner or cell, (a recluse). گوشہ نشیني

إنس men, mankind, the human race. - آدمي - إنسان

آنس *m.* a lover, affectionate. محبت کرنیوالا

اُنس *m.* friendship, love, affection, society, companionship. پیار - الفت

اُنسا (*pl.* of انیس) friends. دوست - رفیق لوگ

إنسا to forget. بھول جانا

أنساب (*pl.* of نسب) generations, families. پشتیں - گهرانے

إنسان *m.* man, mankind, the pupil of an eye. آدمي - آنکهه کي پتلي

إنسب *a.* advisable, most proper. بهت ٹهیک یا مناسب

إنسباک melting of metals. دهاتوں کا پگهلنا

إنسداد to stop, to hold in check, to shut. بند کردینا

انسلاب to be lost, to be annihilated. - گم هونا نیست هونا

إنشا writing, composition, elegance of style, the belles letters. عبارت لکهنا - دل سے نئي بات نکالنا

إنشاد to read a poetry, to recite. شعر پڑهنا

انشراح frankness, free-mindedness. دل کهلنا

انصار (*pl.* of ناصر), assistants, friends (of Muhammad), applied to the inhabitants of Medina who first embraced the Islam religion. مددگار لوگ

إنصداع to be split, torn or burst. پهٹنا

إنصراف to return, to come back. واپس آنا

إنصرام *m.* completion, end, arrangement. انجام کو پهونچانا - انتظام کرنا

انضباط *f.* being bound or determined, restraint, self-control. مضبوطي - پیوستگي

إنضمام to assemble, to meet, to be one. فراهم هونا - ملنا - پیوند هونا

أنطاکیه Anticck, a large city in Syria. شام میں ایک بڑے شهر کا نام

انطباع being impressed or stamped, printed. نقش هونا - چهپ جانا

إنطفا to be extinguished, to be put out. بجهه جانا

إنطوا to roll, to wrap. لپیٹا جانا کاغذ کا

انظار (*pl.* of نظر), looks, eyes. جمع نظر کي بمعنے نگاه

إنظام to adorn, to deck, to decorate, to embellish. آراسته کرنا

إنعدام destruction, annihilation. نیست هونا

إنعطاف to be crooked, to return. - کج هونا واپس هونا

إنعقاد to get frozen. جم جانا

إنعکاس *m.* being turned upside down, reflexion (from a mirror), repercussion, reverberation. الٹا هونا - کسي چیز کي شکل کا پاني میں ظاهر هونا

إنغماس to dive, unmerse in water. پاني میں غوطه لگانا

إنغلاق *v.* to shut a door دروازه کا بند هونا

آنف *a.* obedient, dutiful. مطیع - فرمانبردار

آنف *n.* nose. ناک

إنفاذ *v.* to establish, to send, to continue. جاري کرنا - بهیجنا

انفاس *n.* (*pl.* of نفس), breathings, spirits. سانس - دم

آنفاع *a.* disobedient, impertinent. - شوخ نافرمانبردار

إنفاق *v.* to expend, to give a living. روزي دینا - خرچ کرنا

انفال (*pl.* of نفل), plunder, spoil. لوٹ کا مال

انفت *n.* modesty, shame, connivance. - حیا شرم - چشم پوشي

إنفتاح *a.* wide, broad, open. کشاده - کهلنا

إنفصال *n.* decision, termination (of a cause), division, separation, settling. - اخیر هونا جدا هونا

إنفصام *v.* to be broken, to be cracked. ٹوٹ جانا

انفطار *v.* to be torn to pieces, to create, to produce. پاره پاره هونا - پیدا کرنا

إنفعال *n.* shame, modesty, confusion. - شرمندگي حیا

إنفکاک *v.* to be separated. جدا هونا

آنقاب (*pl.* of نقب), holes, tunnels. - سوراخ سرنگ

آنقاس (*pl.* of نقس), ink (for writing) سیاهي لکهنے کي

آنقاض (*pl.* of نقص), defects, blemishes. عیب

إنقراض *v.* to be cut, *n.* termination, end - کٹنا مدت کا ختم هونا

إنقسام *m.* division, dividing حصه - حصه هونا

انقص *adj.* less, very defective. کمتر - بڑا عیبناک

إنقضا *v.* to elapse, to pass, to be full, to be fulfilled, the expiration of any term, accomplished, finished. گذرنا - پورا هونا

إنقطاع *m.* being broken, cut off, cessation, failure, separation, adjustment. کٹ جانا

إنقلاب *m.* revolution, vicissitude, alteration, change, inversion, transposition. دور - الٹ پلٹ زمانے کا

إنقیاد *m.* to imprison, *m.* fidelity, submission, obedience, compliance. قید کرنا - تابع کرنا

آنک lead. سیسه

آنک a boil, a tumour, pimple ; *adv.* now, at present. آبله - اب - ابهي

آنکاردن *v.* to know, to understand. معلوم کرنا

إنکسار *m.* being routed, humility, want of courage, despondency. عاجزي

إنکساف being eclipsed (the sun). سورج میں گهن لگنا

اُتہانا - بھڑکانا انگیختن (r. انگیز) to excite, to stir up.

انوار (pl. of نور), lights, rays of light, splendour. روشني

انواع (pl. of نوع), sorts, kinds, varieties. اقسام

انموذج n. a model, example, a. small, little. نمونہ - تھوڑا

انوشہ a. happy, glad, n. a young prince, a bridegroom, a newly married man. خرم - دلھا - شاھزادہ

اُنوف (pl. of اَنف), noses. ناکیں

انملہ n. a finger. اُنگلي

اِنہا v. to inform. خبر دینا

اِنہاک v. to render weak. ناتواں کرنا

اِنہدام m. perdition, act of abolishing, extirmination, demolition. برباد کرنا - ڈھا دینا

انہزام n. defeat. شکست کھانا

انہضام to borne, to be digested. برداشت ھونا - ھضم ھونا

اِنہلال to be rain cats and dogs, flowing of tears. خوب زور سے مینھہ برسنا - آنسوؤں کا بہنا

انیر a. very bright, most luminous. روشن تر

انیس m a companion, a friend. دوست

انیقہ
انیق } a. strange, wonderful, excellent. عجیب - نادر - خوب

او third pers. pronoun he, she, it. وہ چیز یا وہ شخص

آو water. پاني

اوارجہ
آوارجہ
آوارچہ } m. a diary, a rough note book or account book. بہي - دفتر کے حساب کي کتاب

آوارہ vagabond, wanderer. بے ٹھیکانے شخص

آوارگي f. vagrancy, profligacy. بیھودگي - بے سروسامانی

آواز خراشیدن
آواز گرفتن
آواز نشستن
آواز افتادن } to be suppressed (the voice) from hoarseness or otherwise. آواز بیٹھہ جانا

آوازہ m. report, fame, rumour, conversation, loud talking شہرت - نامورى

آواسط (pl. of اوسط), middles, the period of a lunar month between the 10th and 20th days. میانہ

آوامر (pl. of امر), actions; commands. احکام

آوان (pl. of آن) times, seasons. وقت - ھنگام

اِوان n. palaces, castles, lofty buildings. محلات بلند مکانات

اِنکشاف n. detection, disclosure. کھولنا - کھلنا

انگاشتن
انگاریدن } v. to reckon, compute, suppose, imagine. معلوم کرنا - انکل کرنا

انگارہ v. an unfinished picture or drawing, sketch, outline, fiction, account ناتمام تصویر - خاکہ - فسانہ - حساب

آنگژ n. a goad. انکس

انگشت n. charcoal. کوئلہ

آنگشت f. a finger. اُنگلي

آنگشت بدندان گرفتن id. to bite the finger or place it between the teeth, to express surprise or sorrow. دانتوں میں اُنگلي دینا تعجب یا افسوس سے

انگشت بر چشم نہادن id. to obey, to carry out an order. حکم ماننا یا قبول کرنا

انگشت بر در زدن id. to knock, to rap, tap, etc. کھٹکھٹانا

انگشت بر جبیں نہادن id. to bow down, to salute. سلام کرنا

انگشت پیچیدن id. to count, to number. شمار کرنا

انگشت پیچ n. a treaty, covenant, promise, a document. عہد - پیمان - دستاویز

انگشت بر آتش زدن id. to do a thing inconsiderately, to work without sense, to act rashly. بے عقلي سے کام کرنا

انگشت بر حرف نہادن id. to pick out faults, to criticize, to aninadvert upon. کسي کے کام یا کلام میں عیب جرئي کرنا

انگشت خائیدن id. to be sorry, to be ashamed or abashed, to regret. افسوس کرنا - پشیمان ھونا

انگشت در دھان ماندن id. to be sad or gloomy مغموم رھنا

انگشت نیل کشیدن id. to renounce, to give up. چھوڑ دینا - ترک کرنا

انگشت نما a one who is pointed at, famous (in a good or bad sense, but in India most frequently in a bad one). notorious. - مشہور رسوا

انگشتان
انگشتانہ } m. a ring (particularly one worn on the thumb), thimble وہ دھات کا خول جو درزي انگلي پر پہنتے ھیں

انگشتري
انگشتریں } f. a ring, particularly one worn on the finger. انگوٹھي

آنگوزہ
آنگزہ } m. asafœtida. ھینگ

آنگہ adv. then, at that time. تب - اُس وقت

انگلیون the Gospel, a curio, a musical instrument, name of a book of Mani the painter. انجیل - عجیب چیز - ایک باجہ - ماني نقاش کي ایک کتاب

آواني *n.* utensils, wares برتن

آوائل (*pl.* of اول), *m.* commencement, the first ten days of a lunar month, which consisting of 30 days nearly is divided into 3 decades, 1st اوائل, 2nd آواسط, 3rd آواخير.

اوباش (*pl.* of بوش) *m.* a rake, a dissolute fellow, a mixed crowd of all nations and all sorts of people, but especially of the meanest, the mob, the canaille. لچا - بدمعاش

آوباريدن to swallow. نگلنا

آوتاد (*pl.* of وتد), pegs (of wood or iron), props, met. chiefs, nobles (being the props of the state), apostles. ميخيں -ولي

أوتاغ / أوتاق } a house, a chamber مكان

آوثان (*pl.* of وثن), idols, images. بت

آوثق *a.* stronger or more steady, well established. مستحكم تر

آوج *m* height, summit, the top, dignity, preferment, promotion بلندي

آوجاع (*pl.* of وجع) pains, troubles. دكهڑا - درد

أوجاغ / اوجاغ } an oven, a fire place. چولها

اوجب *a.* more proper. واجب تر

آوحد *a.* one, unity. ايک - يگانه

آوخ *n.* regret, expression of surprise, luck. افسوس - كلمۂ تعجب - قسمت

آودر uncle. چچا

آوراد (*pl.* of ورد), daily lessons (of the Qur'an), commemorations, devotional exercises وظيفه هر روز جو تهوڑا قران پڑها جاوے

اوراق (*pl.* of ورق), leaves of a tree or book. ورقے - پتے

آورند *n.* throne, dignity, rank, fraud, deceit تخت - ديدبه - دغا - مكر

آورنگ *m.* a throne, places where goods are manufactured for sale, wisdom, sense, fraud, deceit, white-ants. - تخت - عقل - دانش ديمک

اوز *n.* a waterfowl. مرغابي

آوزار (*pl.* of وزر) sins, burdens گناه - بوجه

آوزان (*pl.* of وزن), weights, measures. بوجه - بٹّه

اوزم raisins, dried grapes. ميوۂ انگور

آوس *n.* a wolf, a gift, compensation, a tribe of Arabia. بهيڑيا - عطا - معاوضه - عرب كے ايک فرقه كا نام

آوساخ (*pl* of وسخ), matter of a sore, pus چرک اور پهوڑے كي پيپ

اوستاخ *a.* impertinent, fearless, bold, impudent, shameless. بے حيا - گستاخ

آوسط *a.* middle, intervening, *m.* the middle, medium, interval, moderation, mediocrity. درميان والا - بيچ والا

أوشاق a lad, a boy لڑكا - طفل

آوصاف (*pl.* of وصف), praises, commendations, endowments. نيک عادتيں - نيک خصلتيں

آوصيه (*pl.* of وصي), preceptors, guardians, executors, administrators. - حافظ - حلمي - مربي ركهوال

آوضح *a.* more bright. روشن تر

آوطار needs, requirements, anxieties, desires. حاجتيں - خواهشيں

آوطان (*pl.* of وطن).

آوعيه (*pl.* of وعا), utensils, wares. برتن

آولاد (*pl.* of ولد), *f.* children, descendants, progeny, offspring, name of a demon. - نسل بيٹا بيٹي - ايک مازندران كے ديو كا نام

آولاغ *n.* an ass, mule. خر - گدها

اول قنوت morning time. فجر

آولكه country, region. ملک

أولنگ *n.* a pasture, meadow. greensward. سبزه زار

آولى *adj.* better, most proper, best. - بهتر سب سے اچها

أولى the first wife, the first thing. - پهلي عورت پهلي چيز

أولي *n.* lords, masters. صاحبان - خداوندان

أولي اجنحه winged animals, angels. صاحبان بال و پر - فرشتے

آوليا (*pl.* of ولي), friends, companions (particularly of the prophets), the apostles, the saints, the holy - جمع ولي كي بمعنے دوست نبي

آولياء دولت *n.* the nobles, the grandees the lords, dignitaries. صاحبان سلطنت - امير

آوليں *a.* the first, former, ancient پهلے آدمي

آوليں و آخريں the ancients and the moderns. پهلے اور پچهلے آدمي

آوند *n.* a dish, utensils, fraud, deceit. برتن فريب

آوه *inter.* alas ! ah. آه

آوهام (*pl.* of وهم), fancies, whims.

آوى *n.* a jackal. شغال - گيدڑ

آويختن (*r.* آويز), to hang by, to cling to, to be suspended. لٹكانا - لٹكنا

آويز (*in comp.*) suspending, adhering. - لٹكانا لٹكنا

آويزه suspended, *m.* an ear-ring, drops or pendants worn in the ears as ornaments. لٹكا هوا - بالي

آه *f.* sigh, *interj.* alas ! هاے - افسوس
اِهاب *n.* leather, skin, untanned leather. کچا چمڑا
آهار *m.* starch. نشاستہ
آهالي (*pl.* of اهل), inhabitants, common people. صاحبان - مالکان
اِهانت *f.* contempt, disdain, enmity, affront, insult. نفرت کرنا - برا جاننا - ذلیل سمجھنا
اِهتدا *n.* being directed in the right way (spiritually), to instruct. هدایت کرنا - راه پر لانا
اِهتزاز shaking of grass, shaking, the shining of a star at the time of setting, happiness, in pleasant circumstances. - خرشي - خرشحالي هلنا - گھاس کا هلنا - ستارے کا ڈوبتے وقت چمکنا
اِهتمام *f.* diligence, solicitude, anxiety, care, commiseration, inspection, superintendence, a sub-division of a province - کوشش غمخواري کرنا
اِهجار obscenity (in word), ribaldry, bawdry. فحش
اِهدا to send an offering or a gift. هدیہ اور تحفہ بھیجنا
اِهرام state of being very old. بهت بوڑھا هونا
آهرام old foundations, ancient buildings. پراني بنیادیں یا عمارتیں
آهرم *n.* devil, the hood of a serpent. - شیطان سانپ کا پھن
آهرمن / آهرمن } a devil, a demon, the spirit or principle of evil. دیو - شیطان
آهک quicklime, cement, plaster. چونا
اهل *m.* people, master, (in *comp.*) attached to, possessed of, etc. گھر کے لوگ - مالک
اِهلاک *v.* to destroy, to kill, to ruin. - برباد کرنا هلاک کرنا
اِهلال to see the new moon, to take the name of God at the time of a sacrifice. نیا چاند دیکھنا - ذبح کے وقت خدا کا نام لینا
آهلہ (*pl.* of هلال), new moons. نئے چاند
آهلیت *f.* worth, worthiness, excellence, possession. لیاقت
آهلیہ *f.* wife. جورو
آهم *a.* important. بڑي ضرورت کي چیز
اِهمال negligence, indolence, inattention, delay, carelessness. بے معنے چھوڑنا - بے مطلب چھوڑ دینا
آهن *m.* iron. لوها (in Sikandarnama) Ethiopians, negroes. زنگي لوگ
آهنج *n.* resolution, intention. ارادہ
آهن جان *a.* very hardworking, very industrious, very laborious. محنت کش

آهن خاے *a* a furious horse. گھوڑا پر زور اور سرکش
آهن ربا *m.* magnet, a loadstone. مقناطیس
آهن سرد کوفتن *id.* fruitless effort, to try vainlessly. بیفائدہ کوشش کرنا جس سے مطلب نکلا حاصل هو
آهنگ *m.* design, purpose, sound, melody, one of the Persian times or modulations in music. وقت - قصد - انداز - راگ اور ایک باجے کا نام
آهنگر *n.* an ironsmith or blacksmith. لوهار
آهنین جگر *n.* a hero, valiant. دلاور - بهادر
آهني / آهنیں } made of iron. لوهے کي چیز
آه نیمکش *n.* to hear a deep sigh quietly for fear of a secret coming to light. بخوف هوجانے ظاهر راز کے چپکے چپکے ٹھنڈي سانس لینا
آهو *m.* a deer, a vice, defect, fault, eyes of a mistress. هرن - عیب چشم معشوق
آهو برہ *m.* a fawn. هرن کا بچہ
آهو پرستي *n.* a mania for shooting or hunting. شکار سے اشد محبت
آهوے تر *n.* black and white clouds. ابر سیاہ و سفید
آهوے زریں *m. n.* sun. آفتاب
آهوے شیر افگن *n.* eyes of a mistress, cup bearer چشم معشوق - ساقي
آهوے فلک *m. n.* sun. آفتاب
آهرا *n.* anxieties, desires. آرزویں - خواهشیں
آهوال (*pl.* of هول), fear, fright ڈر
اَهون *a* easier آسان تر
اَهویہ (*pl.* of هوا), desires, wishes خواهشیں
اهیختن *v.* to suspend, to hang, to draw a sword. لٹکانا - تلوار کھینچنا
آے *interj.* O ! the vocative particle of address. حرف ندا
آے month. مهینہ
آیا an interrogative particle, whether or not ? *interj.* ho ! hark you ! تمنا اور معني افسوس اور بمعنے شاید
آیادي (*pl.* of ید), hands, gifts. هاتھہ - نعمتیں
آیار Roman month (May—June). رومیوں کے مهینے کا نام - جیٹھہ (هندي)
آیاز / آیاس } name of a favourite slave in the household of Mahmud of Ghazni. محمود غزنوي کے ایک غلام کا نام
آیاغ / آیاق } *m.* a cup, a drinking vessel. شراب پینے کا پیالہ
اِیالت *f* dominion, government. سرداري
آیان *n* futurity. آیندہ
آیِني *n* politeness. شائستگي
اِیاي *pro.* me, my, mine. میرا

ایبک *n.* an idol, mistress, slave, an ambassador, a herald - قاصد - هرکاره - غلام - معشوق بت

آیت *f.* sign, mark, a sentence of the Qur'an contained between (signs) semicolons, or stops nearly equivalent thereto. - فقرہ قران نشان

ایت *m.* a dog. سگ - کتا

أيتام (*pl.* of يتيم), orphans. يتيم يعني بے ماں باپ کے بچے

ایتلاف *m.* familiarity, friendship, society, connection, company, correspondence. صحبت کرنا - دوستي کرنا

ایتلاق *a.* shining, brightening. چمکنا

ایثار presenting, offering, adopting, greatness, superiority, preference. - اختیار کرنا بڑائي - بزرگي

ایجاب *m.* accepting, rendering necessary, (in logic) affirmation (opposite to privation), (in Musalman law) the first proposal made by one of the parties in negotiating or concluding a bargain. - مانگنا - منظور کرنا مقرر کرنا

ایجاد *m.* invention, invented. نئي چیز پیدا کرنا

ایجاز abridging, curtailing, epitomizing (a book, etc.) مختصر کرنا - بہت مضمون کو تھوڑا کرنا

ایدر *adv.* in this place, here, now. اب - اسجگہ

ایدون in this way, here, in this place, at this time. اسطرح - اس جگہہ - اسوقت

آیدون *adv.* now. اب

ایذا *f.* pain, trouble, vexation, distress, affliction. دکھہ - تکلیف

ایراد *f.* citing, adducing, bringing (a charge). وارد کرنا - لانا

ایرسا *m.* rainbow. قوس - قزح

ایزد *m.* God. خدا تعلی

ایزدي *a.* divine, anything bestowed for the love of God. خدائي

آیس *a.* hopeless. نا اُمید

ایسار *v.* to be wealthy or rich. دولتمند هونا

ایستادن (r ایست) to stand, to be erect, to stay. کھڑا هونا

آیسر *a.* easier, left side. آسان تر - بائیں جانب

ایشان (*pl.* of او), they, those, these. - یہہ لوگ یے

ایصا *v.* to bequest, to make a will. وصیت کرنا

ایضا *a.* even, also, again, ditto, the same, likewise, moreover. بھي

ایضاح *v.* to manifest, to show, to bring to light. روشني اشکارا کرنا

ایطا *v* to trample, to trod under foot. روندنا - پائمال کرنا

ایعاد promise, fear, fright, to be frightened. وعدہ - ڈرنا - ڈرانا

ایفاء *m.* performing a promise, paying, satisfying. پورا کرنا - وفا کرنا

أيقاع *m.* tell-tale, a talebearer, backbiter, a man feeling drowsy, impudent, a rascal. چغلخور - اونگہنے والا - شوخ

ایقاد *a.* to kindle a fire. آگ روشن کرنا

ایقاظ *v* to awaken, to rouse from sleep. جگانا - بیدار کرنا

أيقاظ *a.* alert, watchful. بیدار

ایقان *v.* to believe, to be assured. یقین سے جاننا

ایکہ *m.* dense forest. گھنا جانگل - درختوں کا گنجان

ایل *m.* a deer, hart, wild goats of the mountains, stag. هرن - بارہسنگھا - جنگلي بکرا

ایل *m* a friend, dutiful, party, a name of God Almighty دوست - تابعدار - حق تعالی کا نام

ایلاد *v.* to bring forth young ones, to conceive. جننا

ایلاقات *n.* houses occupied by the Turks, houses. ترکوں کے مسکن - مکانات

ایلچي *m.* an ambassador, agent, attorney, envoy. قاصد - نامہ بر

ایلغار *n.* the forced march of an army through a country. دشمن پر چڑھائي - دھاوا

آیلول *m* a Roman month equivalent to September or *Kuar* (Hindu solar month). ماہ کوار

آیم *m.* white snake. سفید سانپ

ایما *n.* sign, nod, wink (indicating departure), emblem, symptom. اشارہ کرنا - اشارہ

ایمان *m.* faith, belief, conscience, religion. دل سے خدا پر بھروسہ کرنا یا یقین کرنا

أيمان (*pl.* of يمين), oaths, powers, right hands. قسمیں - طاقتیں - داھنے ھاتھہ

ایمن *a.* secur, fearless, safe, void of care. بے خطر - بے ڈر

أيمن *a.* more or most happy, fortunate, on the right hand side. - مبارک تر - خوش تر داھني طرف

ایمن آباد *n.* in a secure place, in a place of safety. امن کي جگہہ

این *pro.* this. یہہ

این کاخ / این سرا / ایں ویرا } *n.* the world, the universe. اِس دنیا سے مطلب ھے

اینت expression of praise, and surprise *interj.* bravo! well done! Hurrah! شاباش تحسین اور تعجب کا کلمہ ھے

اینان *pro.* these, these people. یہہ لوگ

آیندہ in future, futurity. آئیندہ

اینک *interj* lo! behold! there for you! now. دیکھو - اب - یہہ کہ

ایوان *m.* a hall, a gallery, a portico, applied generally to a royal palace. محل - شاھی محل

ایوب *m.* the partriarch Job. ایک پیغمبر کا نام

ایوان زحل *n.* the seventh heaven. ساتواں آسمان

ابہام *n.* suspicion, doubt, wrong. شک - شبہہ غلطي

آیین *m.* regulation, law, rules (common law, the laws delivered by *Muhammad* are called شرع, those established by princes آئین), institute, custom, manner دستور قاعدہ - قانون

آئین بندي *n.* decoration. آرائش

آئینہ *n.* mirror, a looking glass, the keepa, knowledge, philosophy, the science of geometry and astrology, a heart. منہہ دیکھنیکا شیشہ - علم حکمت - نجوم ھندسہ - دل

آئینہ دار *m.* the mirror holder, an officer at eastern courts, met. a mendicant, barber حجام

آئینہ گوھري } آئینہ اسکندري } *m.* a celebrated iron mirror said to have been made by Aristotle, and placed on the summit of a tower built by Alexander the Great at his newly-built city of Alexandria. ایک لوھے کا شیشہ جو نہایت صاف - شفاف اور روشن تھا - جو اسکندر کے برج پر رکھا گیا تھا

آئینہ چیني *m.* the sun. آفتاب

آئینہ پیش نفس داشتن *v* to place a mirror near the nostrils of a sick person in an unconscious state to know if he is dead or alive. براے تمیز زندہ یا مردہ آئینہ کو بیمار کے نتھنوں کے پاس رکھنا

— ب —

ب *be*, the second letter of the Arabic alphabet. It is sounded like *b*, and in numeration by ابجد *abjad* is counts two. It is often prefixed to Persian and Arabic words with the sense of by, to, for, etc. In Arabic phrases it is always united to the noun it governs, and sounded *bi* In others it is sounded *ba*, and may be united to its noun, or it may be written separately with the weak or imperceptible *h*

با *prep.* with, by, possessed of (in opposition to *be*, without, deprived of), frequently used as first member in composition as in با آبرو, honourably, respectably. ساتھہ - باوجود - سامنے - طرت

بابا *m* father, sir, grandfather, a chief, white bearded, a Darwesh. باپ - نانا - دادا سفید ڈاڑھي والا - فقیر - سردار

بابا خمسي *n.* a name of a joker. ایک مسخرے کا نام

باب *m.* chapter, section, or any division of a book, door, subject, head, affair, business, point, matter, reason, manner, mode, species, method, sort. طریقہ حصہ کتاب - دروازہ - وسیلہ - سبب

باب السما *m.* the milky way, galaxy. کہکشاں

باب توبت *n.* the door of repentance. توبہ کا دروازہ

بابت *f.* account, head, article, item, business, affair, matter, on account of This term, with its compounds, is much employed in revenue accounts. واسطے لیئے

بابر *n.* name of a king who was king Akbar's grandfather. بادشاہ اکبر کے دادا کا نام

بابکانہ *n.* a window. کھڑکي

بابل *n.* Babel, the city of Babylon دریاے فرات پر جانب مشرق کے ایک شہر مشہور (درمیان عراق کے) کا نام

باج *m.* a tax, duty, toll, import, etc, tribute, originally, taken by one king from another. محصول - تیکس

باجگیر } باجدار } *n.* a tax gatherer, or collector of tribute or revenue محصول جمع کرنیوالا

باج گذار } باجي } *n* one who pays taxes, duties, etc. سرکاري محصول ادا کرنیوالا

باوجود *prep.* and *conj* notwithstanding, in spite of, nevertheless. تسپر بھي

باحث *n.* a debater, one who discusses, a digger. بحث کرنیوالا - کھودنے والا

باحرر *n.* the hot days during summer. موسم گرما میں سخت گرمي کے دن

باخبر *a.* careful, intelligent, well-informed. واقف - جاننے والا

باختر *n.* the city of Khurasan and the vicinity of Kandhar, the sun, the moon. ملک خراسان اور نواحي قندھار - آفتاب - ماہ

باختن (*r.* باز), to play, to sport with, to endanger. کھیلنا - ھارا دینا

باختہ *p a* played, lost (by play). کھیلا - اور ھارا ھوا

باخود بر نیامدن *id.* in spite of one's self, without choice. بے اختیار ہونا

باخہ *m.* a tortoise or turtle. کچھوا

باد *f.* wind. ہوا

آباد ورد *n.* one of the eight treasures of Khusru Parwez. خسرو پرویز کے آٹھہ خزائوں کے ایک خزانہ کا نام

بادامہ *n.* the aurelia or silk worm in its nymphean state, a kind of silk, a dress made of rags sewn together, worn by *fakirs.* ایک ریشمی کپڑے کا نام - ریشم کا کیڑا

بادام زنجیر *n.* the links of a chain. زنجیر کا حلقہ

بادام سیہ *n.* the eyes of a mistress, the almonds put on the coffin. چشم معشوق - تابوت پر جو بادام ڈالے جائیں

بادام و قند *n.* eyes and lips of a mistress معشوق کي آنکھہ اور دھن

بادبان *m.* a sail, a vessel in which a lamp is placed for protection from the wind پال جہاز کي - ایک جہاز

باد پا *a* having feet like the wind, fleet, swift (horse). گھوڑا تیز رو

باد پردا *n.* window. کھڑکي

باد پیمودن *id.* to do a thing uselessly. بے فائدہ کام کرنا

باد بداماں کردن *id.* to aim at high things, to do a thing which is beyond one's power to do, to be proud, to be graceful. وہ کام کرنا جو نہ ھوسکے - غرور کرنا

باد بروت *n.* pride of men. مردوں کي شیخي

باد حکہ *n.* sensual desire, carnal desire, voluptuousness. شہرت - خواھش نفس زن

باد خراں *m.* a flatterer, a babbler. - بیہودہ گو خوشامدي

باد در بروت انگندن } باد در سبلت انگندن } *id.* arrogance, pride, prattle, tattling - غرور شیخي - گپ - گھمنڈ

باد دست *a.* extravagant, fantastic, lavish, poor. مفلس - فضول خرچ

باد در کلمہ داشتن *id.* pride, haughtiness, pomp. غرور - سرعت

باد در مست *n.* poverty, empty-handed. - غریب - مفلس - تہیدست

بادر a runner, nimble, alert. دوڑنیوالا - چالاک

باد ریش *n.* pride, prattle. شیخي - غرور - گپ

باد زن *n* a fan, bellows. باد کشا - پنکھا

باد سنج *n.* idly speculative, vain, a babbler بیفائدہ خیال کرنیوالا - بیہودہ گو

باد سرخ *n.* a kind of disease, conversation, speech, talk, praise, sigh, lamentation, a furious wind. - نام مرض کا - کلام - سخن - تعریف - آہ - نالہ

باد خایہ *m.* the rupture. فتق

باد شرط *n.* favourable wind. موافق ھوا

بادرنگ } بادرنج } *n.* an orange, a kind of citron, a species of large cucumber. - نارنگي - ککڑي

باد خور *n.* a disease in horses, from which the hair falls off. گھوڑے کي ایک بیماري

باد شنام *n.* leprosy, more specially the black or eating leprosy مرض جذام

باد صبا *f.* the morning breeze, a zephyr. صبح کي میٹھي میٹھي ھوا

باد فروش *n.* a flatterer, a babler, Bhat, an Indian tribe خوشامدي - بیہودہ گو - بھاٹ قوم

باد فرنگ *n* St Anthony's fire مرض آتشک

باد گرد *n.* whirlwind. بگولا - گرد باد

باد کش *m.* a fan, a ventilator, bellows. پنکھا - دھونکني

باد گیسو *n.* pride, haughtiness (of women). غرور - شیخي - عورتوں کا گھمنڈ

بادگیر *n.* a ventilated house, window. ھوا دار مکان - کھڑکي

باد مہرہ *m.* an antidote for a snake's bite. سانپ کے کاٹے کي ایک دوا

بادیہ غول *n.* the world. دنیا

بادنجان *m.* an egg plant, bringal. بیگن - ایک مشہور ترکاري

بادۂ ریحاني *n.* wine distilled from flowers. پھولوں کي شراب

بادي *a.* windy, flatulent, beginner, an author, opened. ھوائي - شروع کرنیوالا - کھلا ھوا

بادیان *n.* sweet fennel, anise seed. سونف کا بیج

بادیہ *m.* a bowl, cup, glass (but generally made of brass or bell-metal. بڑا پیالہ

بادیہ *m.* a desert, a wilderness. صحرا - جنگل

باذل *a.* very liberal, munificent. بڑا سخي

بار *m.* load, time, once, dear, goodness, work, a court, a tribunal, sitting of a sovereign to give audience, repetition, fruit, leave, permission, admission, pregnancy, root (of a tree), adulteration, musical instrument. rainy. - رخصت - بزرگي - بوجھہ - وقت - باري - گراني - پھل - حمل - جڑ - ساز - آمیزش - برسنے والا - کام

بار *a.* very kind, very generous. بڑا نیک

باران *m.* rain, the rainy season. مینھہ - بارش

بار انگندن *id.* to halt, stoppage on march. کسي مقام پر اترنا

بارانی *f.* a waterproof, a great coat, or cloak for keeping off the rain, unirrigated land, *i. e.*, land depending on the natural rains of the season, name of a Turk tribe.

باران گریز *n.* a gallary, a canopy. سائبان - چھجہ

باربردار *m.* a porter, a burden-bearer. بوجھ اُٹھانے والا

باربد *n.* a famous musician of the court of Khusru Parwez.

باربستن *v.* to travel. سفر کرنا

بارحہ *n.* past night. گذری ہوئی رات

بار خانہ *m.* a warehouse, godown. گدام

بار خدا *n.* Great God, Holy God. - خدائے بزرگ خدائے پاک

بارد *a.* cold, frigid, established, (in Pers) tasteless, unhappy, displeased, *m.* eunuch. سرد - ناخوش - نا مرد - بے خرت

باردان *n.* utensils, ware. برتن

بارہین *n.* name of a city. نام ایک شہر کا

بارز *n.* a term in arithmetic, the sum total or gross amount, apparent, clear, revealed. ظاہر ہونے والا - آشکارا

بارش *f.* rain, a shower of rain. - مینہہ کا برسنا مینہہ

بار عام *m.* public hall of audience. عام کچھری بادشاہ کی

بارق *a.* shining, bright, illuminous. - روشن چمکنے والا

بارقہ *n.* lightning, flash, sword. - بجلی - چمک تلوار

بارکش lit. "burden bearing," applied to elephants, carts, porters, etc. بوجھ کھینچنے یا لیجانے والا

بارگہ / بارگاہ } *f.* a court, palce, place of audience, a royal tent. - کچھری - بادشاہی محل بادشاہی خیمہ

بارگاہ زدن *v.* to pitch a tent. خیمہ کھڑا کرنا

بارگیر *m.* a horseman (soldier) who does not find his own horse, a beast of burden such as a horse, camel, bullock, etc. بوجھ لیجانیوالا جانور

بارگی (used in *comp.*), time or turn, a horse. گھوڑا - وقت - باری

بارود / باروت } *f.* saltpetre, gunpowder. اصلی معنی شورہ - مجازاً بمعنی معروف اسلئے کہ بارود میں شورہ جز و اعظم ہوتا ھے

بارہ *n.* wall of a fort. قلعہ کی دیوار

بارہ for the sake of, in behalf of, (in *comp.*) turn, time, a fort, wall of a fort, a swift running horse, pomp, rule, custom, a friend. - قلعہ - دیوار - گھوڑا تیز رفتار - ایک دفعہ بابت - حق - قاعدہ - شان - درست

بارہا *adv.* often, repeatedly. - اکثر - بہت دفعہ بار بار

بارے *adv.* once, one time, it is used by some authors in the sense of at last, at length, lastly. ایک بار یا دفعہ

باری *m.* a name of the Deity, the Creator. خدا پیدا کرنیوالا - خدا

باریاب admitted at court or into company, one who has the entree. کچھری میں داخل ہرنیوالا

باری تعالی the most high God. خدا برتر

باریک شدن *id.* to be lean, meagre, thin. دبلا ہونا

باریدن to rain, to shower. برسنا

باز *m.* a female falcon, a hawk, *adv.* again, once more, a quarrel, to repeat, opened, wide, declivity, descent, side, direction, a passage, separate, wine, tax, poll, rebelled. جانب گذر گاہ - جدا - شراب - نشیب - خراج - بر گشتہ ہونا - کشادہ - دھرانا کسی کام کا - تکرار - ایک پرند شکاری کا نام

بازار *m.* market, according to Gladwin it denotes a constant and established market, in contradistinction to *hat*, an occasional one. خرید و فروخت کی جگہہ

بازار زدن to take sufficient profit on a thing. خاطر خواہ نفع لینا

باز پرس / بازخواست } *m.* reiterated inquiry, minute investigation پوچھنا - تحقیقات ہونی

بازرگان (for بازارگان), *m.* a merchant, a dealer in the market. مخفف بازارگان کا بمعنی سوداگر - بیوپاری

بازرگانی *f.* merchandise, traffic, trade, commerce. سوداگری

بازغ *a.* bright, shining. - طلوع کرنیوالا - روشن چمکتا ہوا

بازغہ *f.* name of a beautiful Adite woman. نام ایک عورت حسینہ کا جو نسل عاد سے تھی

باز کردن *inf.* to separate, to open, to throw open a door). کھولنا - جدا کرنا

باز کشیدن *inf.* to write, to correspond, to communicate with. لکھنا - کتابت کرنا

باز کرد *v.* opened, separated. جدا کیا - کھولا

بازگشت *v.* returned, retreated. پھر کر آنا - لوٹنا

بازگو *m.* a repeater, reciter. دوبارہ بیان کرنیوالا

بازل *m.* a camel nine years old. نو برس کا اونٹ

بازندہ *m.* a player, playing, a kind of pigeon (vide فرد افروز) کھلاڑی - کھیلنے والا

بازندگي *f.* fraud, mockery, deceit, treachery حیلہ بازي - دغا بازي - مکاری

بازو *m.* the arm (*pl.* (بازوآن)), the fold of a door, the side of a bedstead, a friend, a companion, one who repeats the chorus of the *marsiya*, an accompanier in a song. گانے میں ساتھہ دینیوالا - قوت استعداد قدد - درست

بازو برافروختن *id.* to prove a gallant, prowess in war, intrepidity, to do a heroic deed. شجاعت کا کام کرنا - بہادري کرنا

بازو شکن *a.* powerful, strong زور آور

بازو کشادن *n.* manliness, heroism, generosity, liberality, charity. جوانمردي - بخشش - سخاوت

بازي *f.* play, sport, a game, a stake at play, fraud, deceit. کہیل - فریب - دغا

بازي خوردن *v.* to lose, to be cast, to be cheated. هارنا - دغا یا فریب کہانا

بازیگرش *a.* playful, mischievous, saucy, brisk, cheerful, sly, humorous, wanton, strong, insolent, presumptuous. - شوخ - خرش مزاج - کہیلنے والا - کہلنڈرا

باز یافتن resumption of anything, the act of resuming alienated lands or property of any kind. واپس پانا - پھر پانا

بازیافت *v.* to buy, to purchase, to resume, to get back. خریدنا - پانا

بازیدن *v* to sport, to play, to gamble. کھیلنا

بازیچہ *f.* fun, sport, play, wagering a toy, a play thing. کہلونا

باس *m.* pain, grief, fear, calamity, misfortune. عذاب - خوف - رنج - دکھہ

باستان *a.* ancient, old, antique, past. - پرانا - گذرا هوا - گذشتہ

باسط *m.* name of God, one giving pleasure خدا کا نام - فراخي دینے والا

باسق *a.* tall, lofty (palm-tree). دراز - لمبا

باسک *n.* a gaping or yawning, *m.* the name of the serpent which supports the universe, and which was used as a string to whirl the mountain Mandar in churning the ocean for the *amrit*. جماهي - نام ایک سانپ کا جو زمین کو تھامے هے

باسک در جوال شدن a kind of punishment in which a criminal and a dog are tied together with a string and closed in a cell. ایک قسم کي سزا جسمیں مجرم اور کتے کو باندهکر بند کردیتے هین

باسگونہ *p. a.* inverted, preposterous, unfortunate اُلٹا - واژ گوں

باسل *a.* valiant, brave, heroic دلیر - بہادر

باسلیق *f.* the great vein in the arm. (Vena-basilica). ایک هاتھہ کي رگ

باش *v. t.* stay, stop, be patient, (in *comp.*) it denotes being, staying as شب باش staying for a night, reins of a bridle, head. ٹھهرجانا - صبر کرنا - سر - راس

باشندہ *m.* an inhabitant, a dweller. رهنے والا

باشہ *m.* a kind of falcon, a hawk. ایک پرند کا نام جو پرندوں کا شکار کر کے اُنکا گوشت کہاتا هے

باشیدن *inf.* to live, to dwell, to inhabit. رهنا - بسانا

باشي *m.* a chief, a head, a nobleman سردار

باصرہ *n.* sight, the sense of seeing, an eye. نظر - آنکہ - دیکھنے کي قوت

باطش *m.* an invader, a tyrant an oppressor, *a.* angry, passionate. غصہ کرنیوالا - سختي کرنیوالا - حملہ کرنیوالا

باطل *a* false, vain, absurd, futile, ignorant, abolished, in *Sikandarnama* it refers to the verse قد جاءالحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقاً - جھوٹ - دروغ - بے اصل - سکندر نامہ کي ایک آیت کي طرف اشارہ هے -

باطن *m* the inward part, the heart, *adj* internal, hidden, concealed - دل - اندروني - بھیتر

باعث *n.* cause, account, occasion, inducement, author, producer, *prep.* by means or by reason of. سبب - وجھہ - مصنف - اُٹھانیوالا

باغ (both *Per.* and *Ar.*) Persian *pl.* is باغات *Ar. pl* بیغا and باغات In *Sikandarnama* it refers to فیلقوس (Philip), the King of Macedon, father of Alexander, a garden, orchard, grove, blessing, gift. نعمت

باغات (*pl* of باغ), gardens, orchards, groves, a district of Ispahan whose inhabitants are very depraved جمع باغ کي - آصفهان کے ایک محلہ کا نام جسکے باشندے بہت اوباش هیں

باغبان *m* a gardner, a father, a tutor, a guardian. باپ - مالي - مربي

باغچہ *m.* a small garden, orchard, etc. چھوٹا باغ

باغچہ سلیماني *m.* a magical garden. باغ طلسم

باغستان *m.* a garden باغ

باغ سبز نمودن *id.* to deceive, to cheat, to defraud. دغا دینا - فریب کرنا

باغ مراد *m.* name of a garden in Herat. هرات میں ایک باغ کا نام

باغ نسیم *m.* name of a garden in Cashmere. کشمیر میں ایک باغ کا نام

باغندہ *m.* a ball of carded cotton. دهنکي هوئي روئي کا گالہ

باغي *m*. a mutineer, a traitor, a rebel. - فسادي دنگا کرنیوالا - قانون سے پھرا ھوا

بافتن *inf*. to weave. کپڑے کا بننا

با فلاں چه داري *inter*. form. What enmity dost thou bear against so and so? فلاں شخص سے تجھکو کونسي دشمني ھے؟

بافته *n*. woven; a kind of cloth; a colour in pigeons, buttons woven like mohair. (in *comp.*) it denotes woven, wrought, as زر بافته wrought in gold, embroidered. - بنا ھوا - ایک قسم کا کپڑا - کبوتروں کا رنگ

باقر *a*. abounding in wealth and knowledge, one who is deeply learned, a lion, a title of the fifth Imam. - بڑا عالم - بڑا مالدار - شیر درنده پانچویں إمام کا لقب

باقل *m*. a green-grocer, a vegetable vendor, name of an idiot. - ترکاري بیچنیوالا - کنجڑا - ایک کند ذھن کا نام

باقلا } باقله } *m*. a bean, a pea; a potherb. - سیم پھلي

باقي *n*. remnant, remainder, balance, arrears. *adj*. permanent, durable, eternal. بچا ھوا - دائمي

باک *m*. fear, apprehension. خوف - ڈر

باکره *f*. an unblemished virgin. کنواري عورت

باکسے آتش شدن *id*. to get wild, to be angry, to show temper, to get into a passion. غصه کرنا

باکوره *n*. the first fruit. پھلا پھل

باکي *n*. one who weeps. رونیوالا

بال *m* hair, child, heart, life, comfort, greatness, arms (of men), wings (of birds), a kind of fish, honey (in Turk). - دل - جان - عیش - راحت - بڑائي - بازو (آدمیوں کے) پر (پرندوں کے) - ایک قسم کي مچھلي - شھد (ت)

بال افشاندن *id*. to fly. پرواز کرنا - اڑنا

بالاوپست } بالاوشیب } *ph*. heaven and earth, (above and below). آسمان و زمین

بالا *prep*. above, up. *m*. top. - اوپر - بلندي - قد و قامت, commanding stature, the city of Khorasan. درازي - ملک خراسان

بالا دست *a*. superior, clever, cunning, every thing best and perfect, *m*. the president (of a council) - حریف - غالب - صدر مجلس - نفیس بھتر - کامل چیز

بالا گرفتن *id*. to be prominent, to be above, others, to steal a thing by putting one off the guard, to adorn, to embellish. - رونق آراستگي - بلند ھونا - غافل کرکے کوئي چیز لیجانا

بالائي *f* *n*. cream, any extra tax, *adj*. external, superficial. بلندي - اونچائي - ملائي (دودھ کي)

بالله by God. قسم خدا کي

بالاتفاق lit. by agreement, by chance. - سب کے إتفاق سے

بالا چاق *a*. superior, powerful, (*opp*. of زیر چاق obedient, subject). غالب - زبردست

بالا زدن *id*. to fell, to overturn, to throw down, to knock down. گرانا - دے مارنا

بال‌تدرد *m*. a piece of cloud. ابر کا ٹکڑا

بالجمله *a*. in short, to conclude. حاصل کلام

بالش *m*. a pillow, a cushion. تکیه

بالشت *f*. a span, a pillow. مزید علیه بالش بمعني تکیه کے

بالعشي والابکار morning and evening. شام و صبح

بالغ *m*. a youth just arrived at the age of maturity, *adj*. of age, *fem*. بلیغه marriageable. جوان جو حد بلوغ کو پھنچا ھو

بالغ *m*. a certain measure for wine. پیمانه شراب

بالغدووالاصال morn and eve. صبح و شام

بالغه perfect. کامله (*fem*. of کامل)

بالمشافهه *m*. presence, face to face, before. آمنے سامنے - روبرو

بالوس *m*. camphor (adulterated). غیر خالص کافور

بالي } بالیه } *a*. old, ancient. پرانا - کھنه

بالیدگي *f*. vegetation. درخت وغیره کا بڑھنا

بالیدن *v*. growing of the body, to grow as plants. جسم کا بڑھنا - پودے وغیره کا بڑھنا

بالین *f*. a pillow, cushion. تکیه

بالین پرست *n*. a cripple, sick, one who is unable to leave his pillow. اپاھج - بیمار - جو اپنا تکیه نه چھوڑ سکے

بالین شکستن *inf*. to honour or respect less. تھوڑي تعظیم کرنا

بام *m*. an upper storey, at errace, the morning, dawn. - گھر کي چھت - اول صبح مخفف بامداد کا

بام‌طرف *n*. a gallery. چھجا

بامداد } بامگاه } بامدادان } *f*. morning, dawn, Aurora, *adv*. in the morning. صبح

بام زد *m*. a kettle drum. نقاره

بام زمانه *m*. the first heaven. پھلا آسمان

بام مسیح *m*. the fourth heaven. چوتھا آسمان

بام نهم *m*. the ninth heaven, where the throne of God is. عرش

بامه *m*. a long bearded. لمبي ڈاڑھي والا

بان *m.* name of a tree (*Guilandina moringa*), whose seeds are called *habh-ul ban*, bennut, or according to some, *Bakain* (Melia sempervirens), that which yields benjamin or benzoin (Styrax benzoe), a tree the leaves and flowers of which are sweet-scented, called by the Persians. - بید مشک
ایک نازک درخت کا نام - ایک خوشبودار درخت کا نام جسے بید مشک کہتے ھیں

بان *m.* keeper or guardian, (used in *comp*) colour, a kind of fire-work. - دارندہ (رکھنیوالا) رنگ - آتشبازي (هندي میں)

بانگ *f.* sound, voice, cry, the voice of the *muozzin* calling Muhammadans to prayer, the crowing of a cock. آواز - آزان

بانو *f.* a lady, a woman of rank. - امیر کي بي بي بیگم

بانوے مشرق *m.* the sun. آفتاب

بانوج *m.* a cradle (Hind.) جھولا

بانوا *a.* careless, one having a loud voice. بے پرواہ - آواز دار

باني *m.* a builder, an architect, a composer, author, founder. بنا کرنیوالا - بنانےوالا - مصنف

باور *m.* belief, faith, confidence, truth, credit, *adj.* true, credible. سچائي - بھروسا - یقین

باوصف *prep.* and *conj.* yet, notwithstanding. باوجود

بام *a.* superior, excellent, open, public. روشني - ظاهر - کھلا هوا

باهم *adv.* together, mutually. ایک ساتھ - آپس میں

باهو a cudgel, a heavy stick, a club. لٹھ - لاٹھي

باید
بایست } it is fit, necessary. چاهیئے

بایس *m.* very poor man, a fakeer. بڑا محتاج - فقیر

باي حال by all means. بهر حال

بایستن *inf.* to be fit, to wish, to desire. چاهنا - لایق هونا

بایستہ *a* that which is becoming or requisite, necessary. ضرور

بایع *m.* a seller, a merchant. سوداگر - بیچنے والا

ببال دیگرے پریدن *id.* to work on another's behalf. دوسرے کي حمایت پر کام کرنا

بباد آمد *f.* *Sikandarnama* it means a prostitute, a lewd woman. سکندر نامہ میں بمعني زن فاحشہ

ببر *m.* a lion, a tiger. شیر - چیتا

بیہ *m.* a mouse, rat. چرها - موش

ببغا
بپغا } *f.* a parrot, a parroquet. طوطي

بپیرکار بودن *id.* civilization, good breeding. تهذیب - با قاعدہ

بپشت هم رفتن *id.* to assist, to extend help, to be passionate. مدد کرنا

بپوست کسے آفتادن *id.* to find fault with, to slander, to calumniate, to seize upon another's faults, to criticize, to defame. کسي کي غیبت - بدي اور عیب جوئي کرنا

بپوست گفتن *id.* to talk by signs, hence to say confidently or secretly. در پردہ بات کہنا

بت *m.* an idol (hence figuratively, a beloved woman, a darling), an image مورت - معشوق

بت *m.* a line drawn to distinguish separate names in a catalogue, or articles in an account, to disannul. کاٹنا قطع کرنا

بتاراج دادن *id.* to plunder, to lay waste, to devastate, to spoil. تباہ اور برباد کرنا (مال و اسباب کا)

بتاسانید *v.* to frightened, to terrify, to scare. ڈرایا

بتان (*pl.* of بت), beloved women, mistresses. مراد معشوقوں سے

بتر *a.* (contracted from بد تر), worse, very bad, بهت خراب

بتر *v.* to cut, to disannul, to take by the root. کاٹنا - قطع کرنا - جڑ سے اکھاڑنا

بتر *a.* curtailed (animal), destitute of good qualities, not having children. - دم کٹا هوا ابتر - بے فرزند هونا

بتن بر داشتن
بتن بر گرفتن } *id.* to endure hard things, to bear repulsive things. سخت بات کا تحمل کرنا - مکروہ چیز کي برداشت کرنا

بتول *f.* a virgin, averse to matrimony, a title of the prophetess Zuhra. کنواري عورت

بتیارہ *m.* trouble, calamity, charm, spell, magic, deceit, fraud, *f.* an abominable thing. بلا - آفت - افسون - فریب - مکروہ چیز

بث *v.* to publish, to make known, to divulge one's secret. ظاهر کرنا - مشهور کرنا (خبر کا) بھید کا فاش کرنا

بجا *a.* in place, all right, proper, true, accurate, becoming fit. ٹھیک - درست

بجال *n.* charcoal, coal. زغال - کوئلہ

بجان آمدن *id.* to be in imminent danger or distress, to be distressed

بجان آمدہ *a.* displeased, ill-tempered, impatient, irritable, easily provoked. - ناخوش بددماغ

بجان آوردن *v.* distress, to trouble, to kill, to slay. تنگ کرنا - قتل کرنا

بجاے آوردن *v.* to know, to recognise, *v.* to perform, to obey, to execute, to accomplish. پورا کرنا - ماننا - جاننا - پہچاننا

بجس *n.* nostril. ناک کا نتھنا

بجنس in kind, in same sort. ویساهي

بچاق *m.* a knife. چاقو - چھري

بچاه آوردن *id.* to disgrace, to dishonour, to defame. کسیکو ذلیل کرنا

بچراغ رسیدن *id.* to be rich, to be present before a rich man. دولتمند هونا - کسي امیر کي خدمت میں پهونچنا

بچش *n.* nostril, laziness, idleness, grief, sadness, labour, toil. ناک کا نتھنا - رنج - سستي - مشقت

بچشک *m.* a physician. طبیب - بید

بچشم کردن *id.* to select, to choose, to respect, wound one's eye. انتخاب کرنا - کسیکي عزت کرنا - چشم کو زخم پونچانا

بچشم کم دیدن *id.* to despise one. کسي کو ذلیل جاننا

بچکم *m.* a ventilated house, a wolf. کھڑکي دار مکان - بھیڑیا

بچنگ آوردن *v.* to acquire, to gain, to obtain. حاصل کرنا

بچه خرشید *m.* a ruby, the sapphire, etc. لعل و یاقوت وغیره

بچه خونین *m.* red tears. سرخ آنسو

بچه طاؤس علوي *m.* the sun. آفتاب—fire, ruby, sapphire, a bright day. - آگ - روز روشن لعل وغیره

بچه نو *m.* an accident, consequence, result, sequence, a new bud, new branch. - نئي شاخ - حادثه - نتیجه - کلي

بچیز *a.* mean, low, a despised thing, of less value. کمترین - کمینه -حقیر چیز

بحار *pl.* of بحر *m.* rivers, seas, gulfs, bays. جمع بحر کي بمعني دریا کے

بحت *adv.* only, pure. صرف - خالص

بحت الصوت *v.* to be suppressed (the voice) from hoarseness or otherwise. آواز کا بیٹھه جانا

بحث *f.* argument discussion, altercation, controversy, discussion. تکرار کرنا - تحقیق کرنا (کسي بات کي) - کھودنا

بحر *m.* a sea, a gulf, a bay, *f.* metre in prosody, a fleet, contemplation. - سمندر - بڑا دریا - غور و فکر - وزن شعر

بحران *m.* the crisis of any disease (as fever, etc.) تپ کي بیماري کي زیادتي کے سبب سے جو تغیر مزاج میں هوتا هے

بحر روان *m.* a ship, a boat. مرادي معنے جهاز - کشتي

بحر معلق *m.* the overhanging sky, the firmament. آسمان

بحر نهنگ آسا *f.* a keen-edged sword, a well-tempered or polished sword. تلوار آبدار

بحر وسیع *m.* the firmament, the sky. آسمان

بحرین lit. the two seas, generally applied to the Mediterranean and the Euxine, it also applies to the two waters, *viz.*, the fresh and the salt. روم اور فارس کے دونوں دریا

بحربه *m.* a river which is very deep and dangerous. دریا جو بڑا گهرا اور خطرناک هے

بحري *a.* maritime, naval. سمندري

بحل *m.* any indifferent action, which incurs neither praise nor blame, lawful pleasure, pardon. مباح - معاف

بحور *pl.* of بحر meaning either a river or the metre in prosody. جمع بحر کي خواه معني دریا یا وزن شعر

بحیرا *m* name of a Christian Monk Sergius who had recognised the prophet Mahomed on his way to Syria to be the prophet of the latter days, when he was a mere child ایک نصراني راهب اور زاهد کا نام جسنے راه شام میں آنحضرت کو پیغمبر آخرالزمان پهچانا تها - حالانکه آنحضرت کم سن لڑکے تھے

بخار *m* mist, steam, fog; glowing heat from the ground, or such as is felt in a fever, vapour, exhalation. تپ - بھاپ جو که زمین سے یا گرم پاني سے آٹھتي هے

بخارا *m.* name of a town and country in Turan, the ancient Bactria. توران کے ایک شهر کا نام

بخاک افگندن *inf.* to despise, act of contemning, to oppress. ذلیل کرنا - ظلم کرنا

بخت *m* fortune, prosperity, luck, felicity. قسمت - نصیب

بختاور *a.* fortunate, lucky. نصیب ور - قسمت والے

بخت بلند *m.* name of a rich Zemindar (landlord). ایک امیر زمیندار کا نام

بخت دندان خاے *a.* unlucky, unfortunate. بري تقدیر

بخت سفید *n.* good fortune, good luck. اچها نصیب

بخت و اتفاق *id.* to get immense wealth without labour or toil. بغیر محنت و مشقت کے دولت کثیر پانا

بختو / بختور } *m.* frowning animals such as lions, thunder, etc. - غرانے والي چیز مثلاً شیر - بجلي

بھتہ. *m* a goat, ram, a kind of sheep with a thick tail. دنبہ - بھیڑا - بکرا

بختي *f* } a quick-paced camel (generally
بخت *m.* } used to ride on and not for burdens). ایک قسم کا شتر جو بہت تیز چلتا ھے

بختیار *a.* fortunate, prosperous, rich قسمت والا - دولتمند

بخردي *f. n.* wisdom, sense, understanding, cunningness. عقل - چترائي

بخرد *m.* wise, sensible, clever. عقلمند - هوشیار

بخس *m.* a base coin, counterfeited coin, less value, imperfect, unfinished, deficient, stupid. کھوٹا سکہ - تھوڑي قیمت - ناقص

بخشدن *inf.* to give, to bestow, to grant, to spare, to pardon or forgive بخشنا - معاف کر دینا

بخشیدن *inf.* to give, to bestow, to grant. عطا کرنا

بخشش *m.* gift, donation, pay, pardon or forgiveness, share, portion, lot. - عطیہ - معافي حصہ - بخرہ

بخشایش *f.* a favour, forgiveness. - عطا - مهرباني بخشش

بخش کرگس *n* carcasses on whom the vultures may feed. مردے جنکو گدہ کھائیں

بخشي *m.* (*lit.* the giver), a paymaster, a general, commander-in-chief. تنخواہ تقسیم کرنیوالا - فوجي افسر

بخل *m.* parsimony, stinginess, avarice, sparingness. کنجوسي

بخور *m.* perfume, odour, frankincense. خوشبو کے لئے جو چیزیں جلائي جائیں

بخیل *m.* a miser, a niggard. کنجوس

بخیہ *m.* a kind of stitching, quilting, sewing very thick and strong. ایک قسم کي مضبوط سلائي کپڑے کي

از روے کار اُفتادن *id.* to divulge one's secret. بھید کا ظاهر هوجانا

بخیدہ *n.* carded cotton. دھنکي هوئي روئي

بد cure, remedy, helpless. چارہ علاج - ناچار

بد (*contr.* of بود), was. مخفف بود کا

بد *m.* a master, lord, much used in the formation of compounds. صاحب - خداوند

بدا *f.* beginning, commencement. شروع formation of a new opinion. نئے رائے کا ظاهر کرنا

بدائت *f.* commencement. شروع هونا

بداغ *f.* branch of a tree, a sword. شاخ درخت کي - تلوار

بدال *m* a corn-chandler, a shop-keeper, a merchant, a cash-keeper, a green-grocer. بقال - بنیا - غلہ فروش

بد اندیش *m.* a foe, an enemy, inimical, evil minded. دشمن

بدایع (*pl.* of بدیعہ), wonders, varities بے مثل چیزیں - نادرات - عجیب اشیاے

بد تبار *a.* low-born, of a low descent. بد اصل

بد تخمان *a.* low-born peasant, farmer and poor corn-chandler, the cruel, the adulterer, the worthless. آدمي بد اصل - کسان اور غلہ فروش - مفلس - ظالم - عیاش اور بد کردار لوگ

بدجلو *m.* a vicious horse. سرکش گھوڑا

بدخشاں *m.* name of a region near the source of the Oxus, famous for its rubies, etc. ایک ملک جو درمیان هندوستان اور خراسان کے واقع هے اور وهان کے لعل مشهور هیں

بدخش مذاب *n.* rubies of Badakhshan, red wine. شراب سرخ - بدخشاں کے لعل

بد دل *n.* a coward, suspicious. ڈر پوک

بدر *m.* the full moon, and the name of a place where a famous battle took place. چودھویں رات کا پورا چاند - ایک مقام جهاں بدر کي لڑائي هوئي

بدرام *m.* a vicious horse, *a.* happy, glad, a luxurious place سرکش گھوڑا - خوش - آسایش کا مقام

بدرستي *adv.* in fact, in reality, undoubtedly. بیشک - واقعي

بدرقہ *m.* a fellow-traveller, a convoy or guard on the road, anything ordered to be taken with a certain medicine (as water gruel with salts), a vehicle - محافظ نگهبان رهبر

بدرود *n.* leave, farewell, parting. رخصت - وداع

بدرہ *m.* a bag of money, a weight of ten thousand dirhams, a bag containing one thousand rupees هزار روپے کي تھیلي

بدست *n.* a span بالشت

بدستور *adv.* according to custom, as usual, in the usual manner. حسب عادت - قاعدے کے موافق

بدست باس *v. s.* beware, be attentive, be careful. هوشیار هو - خبر دار هو

بدست شدن *v.* to acquire, to possess, to gain. حاصل هونا کسي شے کا

بدست کم گرفتن *id.* to despise a thing, to set no value at all on a certain thing. کسي چیز کو حقیر یا ناچیز جاننا

بد سگال *a.* malevolent, sinful, malefactor. بد کردار - دشمن - بدخواہ

بدعت *f.* violence, oppression, wrong, schism, heresy, blasphemy. دین میں نئي بات اور نئي رسم نکالنا جو آنحضرت کے زمانہ میں رائج نہ تھي

بد کردار *a*. sinful, malevolent, desperate, dissolute. اوباش - بد کردار

بد کیش *a*. sinful, unclean, of a bad origin. بد مذهب - ناپاک

بد گهر } بد گوهر } *a* of bad origin, low-born, of bad breed, wicked, vicious - بد ذات - بد اصل

بد لگام *a*. hard-mouthed (a horse), not obedient to the reins. گهوڑا سر کش

بدلا *m*. a band of apostles of God who are only seven in number in the whole world اولیاء اللہ کا ایک گروہ جو تمام عالم میں سات شخص هیں

بد مست *a*. dead drunk, inebriate. مست - متوالا - نشے میں

بدندان خوش آمدن *id*. to enjoy, to obtain pleasure. لذت پانا - محظوظ هونا

بدور (*pl*. of بدر), new moons. نئے چاند

بدون *prep*. without, besides, deprived of. بغیر - سوائے اسکے

بدو *pro*. to him, to her, *prep*. with. - آسکو - ساتهه اسکے

بدو *f*. beginning, commencement, appearance, wilderness, desert. - شروع ظاهر هونا - بیابان - جنگل - صحرا

بدوي *a*. wild, ignorant, *m*. a hermit living in a desert. جنگلي - گنوار - صحرا نشین

بدولت *prep*. through, by means of - آسرا - آسرے سے

بدیع *a*. rare, strange, wonderful, curious. نادر - عجیب - نئي بات

بدیل *n*. act of revenging, retaliation, a physician of the court of Persia. بدلہ کسي چیز کا - ایک خاقاني حکیم کا نام

بدین (for باین), *prep*. to, for, or in this, with اسکے ساتهه - واسطے - کو

بدیهہ *m*. an extempore, an impromptu, impetuosity, anything done inconsiderately, an unexpected event, an axiom. بے سوچے کهنا - ظاهر

بدیهي *a*. apparent, unpremeditated, *m*. an axiom. جسمیں حاجت دلیل نهو

بذ *v*. to prevail on or upon. غلبہ کرنا

بذخ *v*. to tear, to out, split, to rend. چیرنا - شگاف دینا

بذخ *v*. to boast, to be proud or haughty, to be vain, to be refractory غرور کرنا - گردنکشي کرنا

بذر *m*. seed. تخم - بیج

بذار *m*. a sower. بونے والا

بذرقہ *m*. leader, guide. راهبر

بذع *n*. fear, dread. خوف - ڈر

بذل *m*. gift, a portion, expense, reins of a horse's bridle and his swiftness. - بخشش - عطا - ڈور اور گهوڑے کي تیز رفتاري

بذلہ *m*. jest, raillery, pleasantry, joke. - لطیفہ - چٹکلہ

بذي *m*. a shameless person. مرد بے شرم

بر *prep* on, upon, by, near, *m*. fruit, *f*. bosom, armpit, breasts, breadth. - اوپر - نزدیک - پهل - گود - بغل - چهاتي - سینہ - چوڑائي

بر *m* land, name of God, jungle, *a*. kind, virtuous. - خشک زمین - نام خدا کا - جنگل - مهربان

بر *f*. kindness, gift, fovour, goodness. - نیکي - عطا - بخشش

بر *m*. wheat. گیهوں

بر *a*. the first of the simple units, a fox-cub. ایک جو پهلا عدد هے - لومڑي کا بچہ

برابر دویدن *id*. encountering, meeting, visiting, receiving. استقبال کرنا

برابر کشیدن *id*. to weigh, to balance. ترازو میں تولنا

برات *f*. a commission, a warrant, assignment, a letter, a draught, a cheque, portion, share, lot. حصہ - بخرہ - وہ لکها هوا کاغذ جسکے ذریعہ سے روپیہ خزانہ سے وصول هو

برات *f*. the 14th day of the month *Sha'ban* which is appropriated to the commemoration of ancestors, this is generally called شب برات ماہ شعبان کا چودهواں دن جسے شب برات کهتے هیں - شب برات

بر آتش نشست *v*. was spoiled or ruined, was destroyed. خراب هوا

براري (*pl*. of بر), jungles, wilderness. جمع بر کي بمعني جنگل

برابر *m*. a vast open treeless plain. بے درخت کے کهلا هوا میدان

براز *m*. motion, stool, excrement, fighting (especially in single combat.) - کشتي - پاخانہ - گوہ - گندگي

براعت *f*. grace, eloquence, oration, fluency, sense, wisdom, light, perfection (in arts). فضل - فصاحت - دانش - روشني - بلاغت - کامل هونا (هنر میں)

براعة الاستهلال *n*. the first cry of a babe after birth بوقت ولادت لڑکے کا آواز دینا

بر افتادن *inf*. to fall of, to dwindle away, to perish. نابود هونا - دور هونا

بر افروختن سوم *id*. to say soft words, *f*. mildness, sweetness. نرم بات کهنا

براق *n.* the horse or Pegasus on which Mahomed went one night from Jerusalem to heaven and thence returned to Mecca. N. B.—Our lexicographers, Richardson, and after him Hunter and Sundry others will have it that this spirited quadruped was an *ass*, on what authority I know not. اُس چوپایہ کا نام جسپر شب معراج رسول خدا سلعم سوار ہوئے تھے - اُسکا قد خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا

براق *a.* flashing, shining, brilliant. چمکتا ہوا - چمکیلا

بران و بحران *phr.* by land and sea. خشکي و تري سے

بر آمد *f.* lit. up coming, issue, expenditure, informing (more particularly of bribery), accusation. نکاس - الزام

بر آمدن *inf* to succeed, to come out, to come to pass. باہر نکالنا - کامیاب ہونا

بر آمودن گوہر *phr.* coming out of the stars ستارں کا نکلنا

بران *a* sharp, cutting, cleaving. تیز - کاٹنے والا

براندز *a.* destroying, upsetting, in *Sikandarnama* it means sky. ہلاک کرنا - آسمان (سکندر نامہ میں)

بر آن سر *phr.* on that idea or intention. اُس ارادہ پر

بر انگشت پیچیدن *id.* to remember, to publish, to notify. یاد رکھنا - مشہور کرنا

بر آورد *f.* } calculating, estimating, con-
بر آوردہ *m.* } sidering beforehand what may be necessary for a feast, etc., pay sheet. جانچنا - تنخواہ تقسیم کرنے کا کاغذ

بر آوردن *inf.* to accomplish, to bring to a successful issue. لانا - باہر لانا

بر آویختن *inf.* to hang, to suspend. لٹکانا

برہمہ *n.* the Brahmins. برہمن لوگ

براهیں *n.* proofs, demonstrations. - ثبوت دلیلیں

براے *prep.* for the sake of, on account of. واسطے - لئے

برایا *n.* subject, the mankind. (*pl* of بریت) رعیت - دنیوي لوگ

بربالیدن *inf.* to escape, to run. بھاگنا

بر پنچہ ریدن *id.* to be much frightened. بہت ڈر جانا

بربر *n.* Barbary. حبشہ کے ایک ملک کا نام

بربست *n.* rule, custom, manner, way. - قاعدہ قانون - دستور

بربط *f.* a species of lute or harp. عود باجے کا نام

بر بنا گوش زدن *n.* a blow with the open hand, a slap, to caution, to warn. - تمانچہ مارنا آگاہ کرنا - خبردار کرنا

برتافتن *inf.* to twist, to turn. موڑنا - بل دینا

برتکان *m* a small blanket, a fakeer's bedding or palet. گدڑي - فقیر کي گدڑي

برثن *m.* name of a sect or tribe, tiger's claws, talons. ایک قبیلہ کا نام - چنگل - شیر اور درندوں کے

برج *m.* a bastion, a tower, a sign of the zodiac, a constellation, the twelfth part of the sky, in *Sikandarnama* it means "an assembly, a council." - گنبد - عمارت ڈیل آسمان کا بارھواں حصہ - مجلس (سکندر نامہ میں)

برج آبي *m.* a crab, the sign Cancer. - حوت سرطان - عقرب

برج آتشي *m* a lion, the sign or constellation Leo (in astronomy). حمل - قوس - اسد

برج بادي *f.* a balance, a pair of scales, the sign Tibra. میزان - جوزا - دلو

بر جستن *inf.* to jump, to leap. کودنا

برج خاکي *m.* a bull, the sign Taurus. - ثور سنبلہ - جدي

برجستہ *a.* right, proper, opportune, exact, *apropos*, prompt. ٹھیک - درست

برجیس *m.* the planet Jupiter. ستارہ مشتري

برچشم نہادن *id.* to accept, to receive. قبول کرنا

برچیدن *inf.* to peck, to pick up as food with the beak. چگنا

بر چیزے چسم سرخ کردن *id.* to be greedy, to covet for a certain thing. کسي چیز کا لالچ کرنا

بر چین قبابستہ *a.* steady, firm, stable, constant, regular. مستعد

بر حاس *n.* aim, *v. i.*, to point with a missive weapon. نشانہ تیر وغیرہ

برحق *a.* rightful, for a certainty, proper. درست - سچ

برخ *a.* little, few, some, part, piece, portion. کچھ - حصہ - ٹکڑا

برخاستن *inf.* lit. to rise up, *met.* to go away, to cease. اٹھنا

بر خر خود سوار شدن } *id.* to be involved in
بر خر خودنشستن } the punishment of one's own sin or crime, to be implicated in an offence. اپنے گناہ کي سزا میں گرفتار ہونا

بر خود چیدن *id.* to be proud or haughty, to be vain, to boast. فخر کرنا - غرور کرنا

بر خوردن *inf.* to pay a visit, to meet, to gain a profit. ملاقات کرنا - نفع ہونا - سامنا ہونا ایک چیز کا دوسري چیز سے ملنا

برخوردار *n.* success, enjoyment, flourishing, blooming, a blessing for the children. خوش پھلا پھولا - سر سبز

برخے *a.* a little, few, somewhat, sacrifice, almsgiving, charity. - تھوڑا - صدقہ - قرباني زکواۃ

برخیا *m.* the father of Asaf the vizier of Soloman. آصف حضرت سلیمان کے وزیر کے والد کا نام تھا

برد *m.* cold, frigidity, frosty weather, *v.* to be cold, to stay, to be established. سردي - سرد ہونا - قیام کرنا - ٹھہرے رہنا

برد *m.* kind of striped cloth. ایک قسم کا دھاري دار کپڑا

برد *m.* hailstones. اولا

برد *m.* lit. carrying off, a term used at chess when only the king (on one side) remains on the board, it is a species of victory but not so creditable as a checkmate ایک بازي شطرنج میں کے حریف کے تمام مہرے پٹ جائیں فقط شاہ باقي رہجائے - اور یہ بمنزلہ نصف مات کے ھے

برداشتن *inf.* to elevate, to raise up, to lift. اٹھانا

برداشت *f.* endurance, patience, stores, supplies. سہنا - اٹھانا

برد بار *a* forbearing, mild, patient. برداشت کرنیوالا - سہنے والا

بردر جلال زدن *id.* to lose temper, to get wild, to get angry. غصہ ہونا

بردہ *m.* a prisoner, captive, a slave, a slave girl. قیدي - غلام - لونڈي

بردیماني *m.* striped cloth of Yemen or Arabia felix, the shroud of the Prophet Mahomed. یمن کي چادر - رسول مقبول کے کفن سے مراد ھے

بردعہ *n.* pack-saddles of an ass. گدھے کا پالان

برروده یدن *id.* to do a mischief, mischief, humour, sauciness, coquetry. شوخي کرنا

برروے روز افگندن *id.* to divulge one's secret, to bring a secret to light. بھید کو ظاہر کرنا

بررة *n.* (*pl.* of بار), the virtuous, the righteous men. نیک لوگ

برز *n.* dignity, rank, greatness, size stature, trunk (of a tree). قد (انسان کا) تنہ (درخت کا) بلندي - مرتبہ - قدر

برز *m.* a sown field, agriculture, ornament, decoration, abstemious, temperate, wise. زراعت - زینت - پرھیزگار - عقلمند

برزخ *m* interval, bar, partition, interval between death and resurrection, purgatory موت سے قیامت تک کا زمانہ

برزدن *inf* to sing. گانا

برزگر *m.* an agriculturist. زراعت کرنیوالا

بر زمیں زدن *id.* to prove oneself untrustworthy. بے اعتبار کرنا

برزن *n.* a street, lane, *v* to attack کوچہ - گلي حملہ کرنا

برزین *m.* name of a book on the subject of fire-worshipping, a fire temple ایک نام کتاب کا آتش پرستي کے باب میں

برسام *m.* the pleurisy, an inflammation of the diaphragm ذات الجنب ایک بیماري کا نام بر بمعني بغل اور سام بمعني ورم کے

بر سرآمدن *id* to prevail on or upon, to end غالب ہونا - آخر ہونا

برسرمن *lit.* on my head, *i e* on my responsibility. میرے ذمہ میں

بر سنگ زدن *id* to say, to show to manifest, to bring to light. کہنا - ظاہر کرنا

بر سرپا آمدن *id.* to appear, to come to light. ظاہر ہونا

برش *f.* cutting, cleaving, sharpness, a slice of a melon. تیزي - چھٹن پھانک - (خربوزہ کي)

برشتن *inf.* to roast, to fry. بھوننا

برشکال *m.* the rainy season. برسات

برص *m.* the leprosy, more especially the white spotted or scaly leprosy. کوڑھ سیاہ یا سفید دھبے پڑ جانا

برطاق ابروے کسے مئے خوردن *id.* to drink wine to the health of some one, to drink wine remembering some one, a toast, any one honoured in drinking. کسي کي یاد شراب پینا

بر طاق بلند نہادن } بر طاق بلند گذاشتن } *id.* to raise to power or dignity, to exalt, to put a thing in an inaccessible place, to ornament, to adorn, to embellish, to give up, to forget. کسي چیز کو نمائش دینا - کسي چیز کو بلند جگہ پر رکھنا جہاں کوئي نہ پہونچ سکے - ترک کرنا - بھول جانا - اعلی مرتبہ پر پہونچانا

بر طبع خوردن *id* to prove disagreeable or displeased, to be sad or sorry. ناخوش اور نا پسند آنا - غمگیں ہونا

بر طرف *adv.* aside, apart, dismissed (as a plaint), also as a subst., discharge, dismissal from office موقوف - کام سے الگ

برطلہ *n.* a cap. ٹوپي

بر عکس *prep.* and *conj.* nevertheless, in spite of, on the contrary الٹا

بڑفوث *m.* a flea. پسو

برغو *m.* a horn which is hollow from inside and is used as a flute. بولا سينگ جو مثل بانسري کے بجائیں

برفور *a.* very soon, hastely, quickly. بہت جلد

برق *f.* lightning. بجلي

بر قالب زدن *id.* to supply, to furnish, to finish a work, conclude. مهيا کرنا - کام کو سر انجام دينا

برق و زرق *n.* light and decoration. روشني اور آراستگي

برقرار *a.* firm, fixed, established. قائم - ٹهرا هوا

برقع *m.* a dress, or kind of veil covering the whole body from head to foot, with eye-holes to it. عورت کے چهپنےکا پردہ جسکو سرسے اوڑہ کر باهر نکلتي هے - اوسمیں دو سراخ آنکهوں کے لئے هوتے هیں

برکات (*pl.* برکت), *f.* blessings, auspiciousness جمع برکت کي بمعني نعمت وغيرہ

برکار *n.* a mistress, protuberance of the chest or breast. معشوق - سينہ يا پستان کي بر آمدگي

برکت *f.* a blessing, abundance, prosperity, auspiciousness, an inherent prosperity which produces success or abundance. زيادتي - نيک بهختي - افزئش

برکت شدن *id* to be finished, to be ended, to die. تمام هونا - مرنا

بر کردن *id.* to brighten, to bring to light, to show forth, to publish. ظاهر کرنا - روشن کرنا

برکشيدن *inf.* to pull up, to extract, to weigh, to balance, to exalt. نکالنا - تولنا - رتبہ بڑهانا

برکندن *inf.* to root up, eradicate. جڑ سے اُکهاڑنا

برگ *m.* a leaf, knapsack containing provisions or necessaries for a journey, a kind of musical instrument, melody, a kind of warlike apparatus, goods, property, conclusion, kindness, favour. - پتا - جهولا - سامان - ايک قسم کا باجا - لڑنے کا هتيار - مهرباني - التفات

برگ بيد *m.* a kind of dagger of the shape of a willow leaf. برگ بيد کي شکل کا ايک خنجر

برگرديدن *inf.* to go astray, to revolt, to return. پهر جانا - پهلي بات پر نہ رهنا

برگ ريز } برگ ريزان } *n* the autumn. خزان کا موسم

برگزيدن *inf* to choose, to select, to sort. چهانٹنا - چننا - پسند کرنا

برگ سبز *f.* a small quantity of a thing, iota, a trifling, a present from a fakir to a rich man. تهوڑي چيز - فقير سے کسي امير کو انعام

برگ سبز فرستادن *lit* 'to send green leaf'—this phrase is equal to گل فرستادن "to send a flower." A wrestler in England arranges a wrestling with another wrestler by sending a flower. ايک پهلوان اپنے مقابل دوسرے پهلوان کو پهول بهيج کر لڑنے کي خواهش ظاهر کرتا هے

برگناہ گوش زدن *id.* to admonish, to chastise, to correct, to beat. تنبيہ کرنا

برگشتن *inf.* to change, to turn away, to be apostatized, to disobey, to retrocede - In *Sikandarnama* it means "to be humble." پهر جانا - حکم نہ ماننا

برگشتہ *v.* changed, turned away, apostatized, rebelled. پهرا هوا

برگ و نوا *n.* a provision, victuals کهانے کا سامان - توشہ خوراک کا

برلق *f.* brilliancy, splendour, brightness, dazzling روشني - درخشندگي - چکا چوند لگانيوالي

بر لنگ زدن *id.* to run away, to escape, to flee بهاگنا

بر مژگان دويدن *id.* to see a thing کوئي چيز آنکهہ سے دکهائي دينا

برملا *a.* public, conspicuous - سب کے سامنے بر سرے مجلس

برنا *m.* a youth, wit, *adj.* young. برنا و پير the young and the aged. جوان و ضعيف

برنائي *a.* the youth. جواني

برنج *m.* rice, brass. چاول - پيتل

برنس *m.* a kind of cloth made of black hair, a monk's hood. سياہ بالوں کا بنا هوا کپڑا راهب کي ٹوپي

برنشاندن *inf* to cause to sit down, to set, settle. بٹهانا

برنشست *v.* to ride. سوار هونا

برنغار *n.* the right wing of an army during a battle. لڑائي کے وقت داهني طرف کي فوج

برواز *n.* a summer house, a window. گرمي کا مکان جو سرد هو - کهڑکي

بروت *f.* whiskers, moustaches. مونچهہ

بروت کسے ريختن *id* to capture, to overcome, defeat. زبون کرنا - مغلوب کرنا

بروت کسے را پنبہ نهادن *id.* to cut jokes, to mock, to feign. کسي کو بنانا - ظرافت کرنا

بروج (*pl.* of برج) towers. برج کي جمع

برودت *f.* coldness, chilliness. سردي

برودر ماندن *id.* to be abashed, to be ashamed, to humiliate. شرمندہ هونا - عاجزي کرنا

بروز *f.* border (tacked to the outer part of a garment), flouncing. دامن کي سنجاف

بروز *v.* to come out, to appear. - باهر نکلنا ظاهر هونا

بروز سیاه نشاندن *id.* to distress, to trouble, to annoy, to vex. بد حال کرنا

برومند *a.* fortunate, happy, fertile (soil). خوش قسمت - خوشي - زرخیز

برون *a.* (for بیرون) without, outside, external. مخفف بیرون کا - باهر - باهر کیطرف

بروے آب آوردن *id.* to show, to manifest, to publish. ظاهر کرنا

بروے استادن *id.* to be cunning, to be clever, to be pleasant. حریف هونا

بره *m.* a lamb, a kid or fawn, the sign Aries. بکري اور هرن کا بچها - برج حمل

برهان *m.* demonstration, proof. دلیل

برهم *a.* confused, entangled, spoiled, angry, vexed, sullen. ناراض - الٹ پلٹ - غصه - خفا

برهنگي *f.* nakedness. ننگا پن

برهنه *a.* naked, a libertine, a rake, a profligate. ننگا - لچا - بد معاش

برهون *m.* soap (for washing clothes). صابون

برهیختن *inf.* to draw, to pull, to curtail, to reduce, to abridge. کهینچنا - کاٹنا - مختصر کرنا

بري *a.* free, clear, separate, acquitted, faultless. پاک - الگ - بیقصور

بریان *a.* fried, roasted, broiled, parched, grilled. بهونتا

بریان ساختن *v.* to fry. بهرنتا

بریدن *inf.* to cut, clip, cleave. کاٹنا

بریاني *f.* name of a dish made of flesh and rice. نمکین پلاؤ کي ایک قسم

بریت *f.* creation. مخلوق - خلقت

برید *m.* a messenger, courier, an express, a courier. قاصد - نامه بر

برید فلک *m.* moon, (lit. the messenger of the heavens). چاند - یعني آسمان کا قاصد

بریغ زدن / بریغ نوشتن } *id.* to forget, to efface, to destroy to ruin, to annihilate, to perish. بهول جانا - مٹا دینا - برباد کرنا - نابود کرنا

بریسمان کسے بچاه اُفتادن *id.* to be implicated in a trouble at the expense of any one. کسي دوسرے کے سبب سے بلا میں پڑنا

بریشم (*con.* of ابریشم), silk. ریشم

بریشم *m.* silk. ریشم

برین *a.* higher, sublime, on high, much. بهت اوپر - بلند - برتر

بڑکه *m.* a reservoir, a pond, a small well, the basin of a fountain. حوض - جوهڑ - چهوٹا کوا

بز *m.* fine linen cloth, capital money, property, goods. کپڑا - پونجي - اسباب (گهر کا)

بز *m.* a he goat, a joker, a wit, Aries or the Ram, the sign of the Zodiac. - بکرا مسخرہ - برج حمل

بزاز *m.* a cloth merchant, mercer. کپڑا بیچنے والا - سوداگر

بزاق *m.* spittle, saliva, a curse. تهوک - کف

بزان *f.* lust, passion (of women). شهوت زنان

بزبان بر داشتن / بزبان گرفتن } *id.* to cheat by flattery, to abuse, to revile چاپلوسي سے فریب دینا - کسي کو نالائق بات کهنا

بز بازي *v* to cause a goat or a monkey to dance. بکرے یا بندر کا نچانا

بزر *m.* seeds, seeds of vegetables, and fruits. تخم - ترکاري اور پهلوں کے بیج

بز جگر *m.* a coward. ڈرپوک

بزر جمهر *buzurjmihr, m.* the famous minister of Nausherwan, King of Persia, who lived in the sixth century of our era. بادشاه نوشیروان کے وزیر کا نام

بزرگ *m.* a grandee, a great man, a saint, an elder, an ancestor, *adj.* great, venerable بزرگ - بڑا

بزرگي از مهر نهادن *m.* to humiliate, to implore humbly. عاجزي کرنا

بزرگوار *m.* ancestor, saint, sage. بڑا عالم

بزشک *m.* a physician, a doctor. طبیب

بزغاله *m.* a kid, young goat. بکري کا بچه

بز قدم *a.* contemptible, thin, lean, vile, lazy. حقیر - سست - ناتوان

بزگیري *n.* act of cheating, act of stealing. مکر و حیله کرنا - چوري کرنا

بزل *n.* hardship, severity, intensity cutting, clipping. سختي - شدت - شگاف دینا

بزم *f.* assembly, company, especially at a feast or entertainment. مجلس - جشن

بزم تعام *f.* the world, the universe. دنیا

بزمگاه / بزمه } *f.* assembly, an entertainment in which wine is served, a place for enjoyment or luxury. مجلس شراب کي - عیش کي جگهه

بزمگاه *m.* a place infested by robbers. ایک جگهه جهاں چوروں اور راهزنوں کا خوف هو

بزور *adv.* by main force, by compulsion. ساتهه زور کے

بزوغ *n.* light, rising (of the sun). - روشني طلوع

بزه *m* a sin, a crime, oppression, tyranny. گنه - قصور - خطا - ظلم

بزه کار *m.* a criminal, sinner. - تقصیر وار - خطاکار گنهگار

بزیر قلم آوردن *id.* to subjugate, to subdue, to conquer and compel, to submit. اپني حکومت کے تحت و تصرف میں لانا

بژ *n.* pimples. پھنسیاں

بژرہ *n.* a pustule. (بثور .*pl*) چھوٹا آبلہ

بس *a.* enough, plenty, very, a great many, similitude as شیر بس like a lion, a spit, a prong. بہت کافي - حرف تشبیہ جیسے شیر بس بمعنے مانند شیر - کباب کي سیخ

بسا *a.* much, many, very, often, all, name of a city in Persia. بہت - اکثر - تمام - فارس کے ایک شہر کا نام

بساتین *n.* (*pl.* of بستان), gardens. جمع بستان کي بمعنے باغ

بساط *f.* bedding, carpeting, matting, *m.* a chess board, expansion, capital (of money), property, stock in trade, power. - فرش بچھونا - چٹائي وغیرہ - شطرنج کا کپڑا - پرنجي - اسباب (گھر کا) - قدرت - سرمایہ

بسالت *f.* valour, bravery, heroism, - دلیري شجاعت

بسام *a.* laughing, playing, sporting, smiling. ہنستا ہوا - کھیلتا ہوا

بسان *a.* like, equal, resembling, مانند - ویساھي

بسایط (*pl.* of بسیط), the four elements, *viz.*, water, fire, earth and air. - چار اربع عناصر - پاني - آگ - ہوا اور خاک

بسباسہ *m.* mace, the envelope of the nutmeg. جاوتري

بست *f.* the number 20 (twenty). عدد بیس کي

بست *n.* name of a city in Iran, *f.* an unlucky moment, the 2nd, 7th and 12th days of the lunar month. ایران کے ایک شہر کا نام - ایک منحوس وقت جسے بھدرا کہتے ہیں (ہندي میں)

بستان *m.* (for بوستان) a flower-garden. باغ

بستان افروز *m.* an ornament on the turban. کلغا

بستان سرائے *m.* a house garden. خانہ باغ

بستر *m.* bedding, carpeting, a bed, etc. بچھونا - چٹائي - دري وغیرہ

بستم *a.* twentieth, the ordinal of twenty, *n.* one of twenty equal parts. بیسواں

بستن (*r.* بند), to bind, to shut. باندھنا

بستہ *m.* the cloth in which a bundle is tied up, a bundle, a parcel. بقچہ

بستہ نگار *f.* a mode in music. ایک قسم کي راگني

بسد *m.* coral and its root. مرنگا

بسر *m.* an unripe date. کچا چھوھارا

بسراق *m* a topaz. پکھراج

بسر آمدن *id.* to excel, to be pre-eminent. سبقت لیجانا

بسر پا آمدن *id.* to recover from an illness, to be cured from a disease. بیماري سے شفا پانا

بسر پیچیدن *id.* to flatter, to cajole, to beg, to implore. منت کرنا - خوشامد کرنا

بسر بردن *id.* to finish. ختم کرنا

بسر شدن *id.* to be finished. ختم ہونا

بسر زلف صحبت داشتن *id.* to be distressed, to be perplexed, to be agitated, to be embarrassed, to think of affliction or grief. پریشان حال و خراب حال ہونا - رنج کا خیال کرنا

بسرکشیدن *id.* to swallow a liquid thing in one draught. کسي رقیق چیز کو ایک ھي گھونٹ میں پي جانا

بسط } *n.* distension, diffusiveness. - بچھانا
بسطت } پھیلانا - فراخي

بسمل *a.* sacrificed (any animal). - زخمي گھائل

بسم اللہ *phr.* in the name of God, this phrase is generally used by good Musalmans in the beginning of all actions, written works, etc. خدا کے اسم (یعنے نام) سے شروع کرتا ہوں

بسند } *a.* enough, liked, sufficient quan-
بسندہ } tity. کافي - بس کیا ہوا - پسند کیا ہوا

بسوراخ مار گریختن this *phr.* means great uneasiness, restlessness. نہایت اضطراب

بسے } *a.* very, many, much, abundant.
بسیار } بہت

بسیچ *m.* intention, purpose, design, preparation. ارادہ - قصد - تیاري

بسیچیدن *inf.* to intend. ارادہ کرنا

بسیط مسبع *f.* earth. زمین

بسیم *m.* laughter, a joker, one who smiles. ہنسنے والا - مسکرانے والا

بش *m.* iron or brass bands, a soldier. لوھے کے بند جو صندوق وغیرہ پر لگاتے ھیں - تانکا جو چاندي یا سونے پر لگایا جائے

بشارت *f* glad tidings. خوشخبري

بشاش *a.* in good spirits, pleased, delighted, cheerful. خوش - تازہ رو

بشاشت *f.* cheerfulness, alacrity. - خوش طبعي کشادہ روئي

بشخودن *if.* to peel, to skin, to excoriate, to pare, to scrape. چھیلنا

بشر *m.* man, mankind, mortals. - انسان - آدمي مذکر و مونث دونوں شامل ھیں

بشرہ *m.* countenance, the outer skin or cuticle.

بشرى *f.* glad tidings, good news, name of a man who had taken Joseph out of the well. خوشخبري - ایک شخص کا نام جس نے یوسف کو کنوئیں سے نکالا تھا

بشریت *f.* humanity, human nature. آدمیت

بشقاب *f.* a large dish or plate. بڑي رکابي

بشک *v.* to run, to tell a lie, *n.* blandishment, coquetry. دوڑنا - جھوٹھہ بولنا - ناز - غمزہ

بشک *n.* locks (of hair), a curling lock. - بال زلف

بشکال *f.* the monsoon, the rainy season. برسات

بشکن بشکن *m.* tumult, uproar, riot, snapping of the fingers in singing. ہنگامہ - گاتے وقت چٹکي بجانا

بشگولیدن *inf.* to be alert, to be active, to play a trick, to be nimble. چالاکي کرنا

بشمشیر سخن گفتن *id.* to fight, to wage a war or battle. جنگ کرنا

بشولیدن *inf.* to trouble, to distress, to scatter. پریشان کرنا

بشیر *m.* a messenger of glad tidings, a handsome man. خوشخبري دینے والا - خوبصورت آدمي

بصارت *f.* sight, seeing, perceiving - نظر بینائي آنکھہ کي

بصائر (*pl.* of بصیرت) sights. جمع بصیرت کي جسکے معني بینائي کے هیں

بصر *m.* seeing, discerning, vision, sight, understanding, knowledge. - آنکھہ - بینائي سمجھہ - عام

بصرہ *n.* the city commonly called Bassorah, on the Persian Gulf. ایک مشہور شہر کا نام

بصل *f.* an onion. پیاز

بصیر *a.* seeing, wise, (met. blind) - دانا - بینا اصطلاحاً اندھا

بصیرت *f.* sight, perception, circumspection, prudence. دانائي

بضاعت *f.* stock (in trade), capital, agency, commission. پونجي - مال - اسباب

بضع *n.* marriage. نکاح

بضع *n.* satiety, cutting (of the meat). گوشت کاٹنا - سیراب هونا

بضع the cardinal numbers from 3 to 9. تین سے نو تک جو عدد هوں

بضعہ *n.* fresh meat, piece of meat. گوشت کا ٹکڑا - تازہ گوشت

بط *m.* a goose, duck, a goblet (for wine) made in the shape of a duck. بطخ - شراب کي صراحي جسکي شکل بطخ کي طرح بناتے هیں

بطال *a.* very foolish or vain, false, very bold. دروغگو - ناچیز آدمي - بڑا بہادر

بطالت *f.* folly, vanity, falsehood. - بیوقوفي بیکاري - جھوٹھہ

بطانہ *m.* a secret, lining of a quilt, etc., an intimate friend. راز پوشیدہ - استر رضائي وغیرہ کا - دلي دوست

بطریق *adv.* by way of, *m.* a leader or a monk of the Nazarites and fire-worshippers, a chief of Roman army. نصراني اور آتش پرستوں کا پیشوا - زاهد - رومیوں کي فوج کا سردار

بط سر خاب زاے *f.* a goblet of wine. شراب کي صراحي

بطش *f.* power, severity, sternness, invasion, bravery, valour, heroism. - طاقت - حملہ دلیري

بطک } بطخ } *m* or *f.* (*dim.* of بط), a duck or duckling, a vessel formed in imitation of a duck. شراب کي (شکل بطخ) چھوٹي صراحي

بطل *m.* rendering vain, abortive, of low effect, brave, valiant, (*pl.* is ابطال) - بہادر - شجاع بیفائدہ

بطلان *a.* abortive, *m.* falseness, vanity. ناچیز و ضایع هونا

بطلیموس *n* name of a Greek physician who compiled the book *Majisti.* ایک یوناني حکیم کا نام جس نے کتاب مجسطي تصنیف کي

بطن *m* the belly, womb, inside. پیٹ - شکم

بطون (*pl.* of بطن). *m.* bellies, wombs, the interior parts, hearts, mind, *adj.* concealed. جمع بطن کي بمعني پیٹ - شکم - چھپانا - پوشیدگي

بطاء *f.* delay, slowness. دیر - آهستگي

بطیخ *m* melon, a musk melon. خربزہ

بطناً بعد بطنین this *phr.* is equal to generation after generation. نسل بعد نسل

بطي *a.* slow, dilatory, tedious - دیر کرنیوالا آهستہ

بعث *m.* exciting motive, cause, despatching, *v.* to scatter, to enliven, to arouse, to awaken (from sleep), day of judgment. آٹھنا - روانہ کرنا - زندہ کرنا - نیند سے جگانا - پراگندہ کرنا - قیامت سے بھي بعضے وقت مراد هے

بعث ونشر *m.* the judgment day. روز قیامت

بعد *f.* distance, remoteness. دوري

بعر } بعرہ } *f.* the dung of goats, sheep, camels, etc., بکري - هرن - اونٹ - وغیرہ کي مینگنیاں

بعغر *m.* mosquito, a gnat, a fly. پشہ - مچھر

بعضي *a.* some, certain, sundry. کچھہ

بعلبک *n* the city Balbeck in Syria formerly Helipolis. شام کے ایک شہر کا نام

بعل *n.* name of an idol, it also means a husband, a master. - ايک بت کا نام - خاوند شوهر

بعوض *m.* a mosquito, gnat, a fly. مچهر - پشه

بعيد *a.* far, distant, remote, absent. دور

بعير *m.* a camel. اونٹ

بعينه *adv.* exactly, clearly, *pro.* himself or itself, in person. وهي - عين مين

بغا *n.* wishing, desiring. چاهنا

بغا *n.* fornication, prostitution, adultery. زنا کرنا - فاحشه هونا

بغاس *m.* a vulture. کرگس - گده

بغاوس *f.* rebellion, opposition to, and defection from, the rightful Imam, violence, plunder, breach of law. جهگڑا - پهر جانا

بغتة *adv.* accidentally, by chance, suddenly, casually, immediately. اتفاقاً - فوراً - اچانک

بغچه *n.* a small bundle, a package, a parcel. چهوٹے کپڑوں کي گٹهري

بغداد *n.* the city of Bagdad originally باغ داد a garden where Nausherwan the just used to help the poor and the oppressed every week, *met.* old, bad, wine-cup, belly, stomach. - شهر بغداد - اصطلاحاً معني کهنه - خراب بادهٔ شراب - شکم

بغداد خالي / بغداد خراب / بغداد کهنه } *m.* empty cup, empty stomach. خالي پياله - خالي پيٹ

بغر *m.* macaroni, a kind of dish made up of rice and flesh, gruel, pottage, soup, viands, broth, boar, a crane, a heron - سوئياں ايک قسم کا کهانا جو گوشت اور چاول سے بنتا هے - سور نر - کلنگ

بغض / بغضا } *m.* malice, spite, revenge, hatred. عداوت - کينه - دشمني

بغل *m.* a mule, *f.* the armpit, embrace. خچر

بغلق *m.* name of a bird. نام ايک چڑيا کا

بغلي *f.* a disorder in camels, rubbing the thigh against the belly, a purse, a kind of dumb-bell used in exercise, a small volume of Quran which can be easily put under one's arms ايک تهيلا - چهوٹي قران کي کتاب جو آساني سے بغل ميں دبا سکيں

بغي *f.* tyranny, oppression. rebellion, insurrection, infraction of the laws, *adj.* rebellious, refractory. پهرا هوا - نافرمان

بفت *n.* weaving, spinning, knitting. بننا کپڑا بننا

بق *m.* a mosquito, a gnat, a fly. پشه - مچهر

بقا *f.* eternity, duration, remaining - باقي رهنا موجود رهنا

بقاع (*pl.* of بقعه), houses, places. جمع بقعه کي معني مکان - جگهه

بقال *m* a grain merchant, a shopkeeper, a green-grocer. دانچرا - غله فروش

بقايا (*pl.* of باقي and بقيه), remains, old balances of revenue, arrears, dues. جمع بقيه اور باقي کي

بقائم ريختن *id.* to be humble, to implore earnestly. عاجز هونا

بق بق *a.* foolish prattle, talkative. بک بک کرنيوالا

بقچه *m.* a small bundle of cloth. کپڑوں کي چهوٹي گٹهري

بقر *m.* a bull, cow and bull. گائے - بيل

بقره *m.* an ox, a bull. بيل

بقراط *n.* name of a famous physician. ايک مشهور حکيم کا نام

بقعه *m.* a house, a temple, a place. رهنے کا مکان - جگهه

بقل / بقله } *m.* a potherb. بيج سے جو ساگ پات اگے

بقلة الحمقا *baklat-ul-humaqa m.* (the fool's herb) purslain. خرفه کا ساگ

بقم *f.* sappan wood (*cæsalpinia sappan*). اِس لکڑي سے سرخ رنگ نکلتا هے

بقيه *n.* remainder, balance, residue بچا هوا

بکا *f.* crying, a complaint, lamentation رونا - زاري - گريه

بکار آمدن *inf.* to be of use کام آنا

بکارت *f.* virginity, maidenhood. - کنوار پن دو شيزگي

بکام *a.* agreeable to one's wish. حسب خواهش

بکاول *m.* a cup-bearer, a steward, a head cook, superintendent of the kitchen باورچي - داروغه - باورچي خانه

بکتاش *n.* name of a famous athlete. ايک مشهور پهلوان کا نام

بکتر *m* an iron armour, a coat of mail, cuirass. ايک قسم کا زره جو بوقت لڑائي ميں پهنتے هيں

بکر *f.* virginity, the first of every thing, unequalled, matchless, delicate and fine. کنوارا پن - اول هر چيز کا - وه کام جسکے مثل پهلا نه هوا هو - نازک - لطيف

بکر *m.* a young camel, name of a tribe, name of a country. جوان اونٹ - نام قبيله - نام ملک

بکران *f.* pot-scrapings. کهرچن

بکر پوشيده روئي *phr.* wine. شراب

بکره *f* morning dawn صبح

بکرہ *m.* the pulley by which water is raised from a well. کنواں سے پاني کھینچنے کي گراري
بکم (*pl.* of ابکم), dumb, mute. گرنگے لوگ
بکم *f.* dumbness, muteness, silence. - گنگي گونگا پن
بکنگ *m.* a tail-clipt animal. حیوان جسکي دم نٹي هو
بکور *n.* act of rising in the morning. صبح سویرے اُٹھنا
بکہ *n.* the ancient name of Mecca. مکہ معظمہ کا قدیمي نام
بگ *m.* a frog, a toad. مینڈک - غوک
بگرد رفت this *phr.* is equal to got ruined, spoiled, destroyed. خراب اور تباہ هوا
بلگر *m.* a grandee, nobleman, a rich man امیر - بزرگ
بگلر بگ *m.* lord of lords, a prime minister. خان خانان - امیرالامرا
بل *adv.* moreover, on the other hand, but, any. بلکہ
بلا *f.* misfortune, calamity, accident, vengeance, evil or mischief. - دکھہ - بپت - مصیبت بدلہ
بلا تحاشا *adv.* immediately, without delay, instantly, at once. - فوراً - بغیر دیر کیئے هوئے اُسي وقت
بلاد (*pl.* of بلد) cities, towns, countries, provinces, territories. - جمع بلد کي بمعني شهر ملک - قصبہ - صوبہ - وغیرہ
بلادت *f.* foolishness, idiocy, stupidity بیوقوفي - کند ذهن
بلادر *m.* a nut used for marking clothes بھلاوان (هندي میں)
بلاع *m.* an enormous eater, a glutton. - پیٹو بهت کھانیوالا
بلاغت *f.* eloquence, maturity, adolescence. حسب موقع گفتگو کرني
بلاق *n.* a spring, a fountain, an ornament worn in the nose. چشمہ (پاني کا) - ناک کي نتھہ
بلا کردن *inf.* to work wonders. عجیب و غریب کام کرنا
بلا گردان *n.* a sacrificed thing, almsgiving, that which averts evil. تصدیق کي هوئي چیز
بلال *n.* the name of the crier who announced to the people when Muhammad said prayers. نام صبحاني اور مودن حضرت رسول کا
بلاهت *f.* stupidity, folly, simplicity. - احمق پن بیوقوفي - سادگي
بلبال *m.* great grief, anxiety, trouble. - غم شدید اندوہ

بلبان *m.* a mouth harmonica, a Jew's harp. ایک قسم کا باجہ جیسے منهہ سے بجاتے هیں
بلبل *f.* a nightingale, a small insectivorous migratory bird that sings at night, in India, a shrike. The حسیني بلبل and سلطاني بلبل are two very beautiful species of this little bird which bear no resemblance whatever to a nightingale, neither is the Persian بلبل at all like the English nightingale, but rather a smaller bird of the same genius. The حسیني بلبل has a white body, wings, and tail, with a blackcrested head. The سلطاني بلبل has a reddish or chestnut body and wings, with black crest. Both species have very long tails like the bird of paradise. نام ایک ننهے پرند خوش الحان کا
بلبل آمل *n.* a title of طالب آملي who was a famous poet. طالب آملي (ایک مشهور شاعر کا) خطاب
بلبل بوستان مازاغ *n.* Muhammad. کنایہ حضرت محمد رسول سے
بلبلہ *m.* a kind of long-earthen pot for water, a gugglet or goglet, jug or mug, a goblet. ٹونٹي دار کوزہ - صراحي
بلبلہ *m.* extreme grief or anxiety, calamity, a blister. شدت اندوہ - آبلہ
بلخ *n.* name of a famous city in Bactriana. خراسان میں ایک مشهور شهر کا نام
بلدان (*pl* of بلد), cities, towns, countries. جمع بلد کي بمعنے شهر - قصبہ - ملک
بلد
بلدہ } *m.* city, town, a country - شهر ملک - قصبہ
بلد *m.* a guide, a leader. رهبر - پیشوا
بلع *m* to swallow, to gulp down. کسي چیز کا نگل لینا
بلغا (*pl.* of بلیغ), the wise, the learned. جمع بلیغ کي بمعني عقلمند لوگ
بلغار *n.* Bulgaria, Russian leather. ایک شهر جسکو سکندر نے بنایا تھا ادیم (ایک قسم کا چمرا)
بلغہ (*pl.* of بالغ), young men, youths just arrived at the age of maturity. جمع بالغ کي نو جوان لوگ
بلقیس *n.* name of the queen of Sheba, the wife of King Solomon, according to the Musalmans, and according to some writers King Solomon didn't himself marry her. بادشاہ سلیمان کي زوجہ شهر سبا کي ملکہ کا نام
بلل *f.* dampness, moisture. تري - نمي
بلمہ *a.* having a long beard دراز ریش والا
بلند *a.* high, elevated, exalted, sublime, tall اونچا - دراز - بزرگ.

بلند نظر a. of exalted views, aspiring. اونچا دیکھنیوالا

بلند گاہ a strait, n. a narrow passage, a position of hardship or difficulty. دشوار گذار مقام

بلندي و پستي lit. elevation and lowness, heaven and earth. آسمان و زمین

بلوا f. hardship, trouble, misfortune, calamity, affliction, pain. - سختي - مصیبت تکلیف - بلا

بلور m. a kind of stone, crystal, cut glass. ایک صاف شفاف پتھر کا نام

بلوط m. an acorn, an oak, chestnut tree. ستیا سپاري (هندي) ایک درخت جسکي چھال سے کپڑا رنگا جاتا هے

بلوغ m. / بلوغت f. / بلوغیت f. } puberty, adolescence, the attaining of a marriageable age بالغ هونا - جواني کو پهونچنا

بلہ a. pl. of ابلہ which means weak, silly, simple, ignorant, unskilful, fool. - بیوقوف احمق

بلے adv. yes, true, so, well, right. هاں - هاں جي - هاں صاحب

بلیات (pl. of بلا) troubles, misfortunes. جمع بلا کي بمعني مصیبت

بلیت / بلیہ } f. misfortune, calamity, grief, hardship, trouble. رنج - سختي - مصیبت - آزار

بلید m. stupid, a dunce, a simpleton. کند ذهن - کم سمجھ

بلیغ a. eloquent, mature, copious. فصیح زبان بولنے والا

بلیناس n. name of a physician who was a favourite of king Alexander and versed in magic. ایک حکیم اور مصاحب سکندر کا جو علم سحر سے واقف تها

بم f. a bass part in music, a bass or lowest string or drum, having the deepest tone, deep sound (as that of the large pipes of an organ, a drum). - آواز راگ کي جو اونچي هو بلند آواز (نقارے کي)

بمجرد adv. instantly, immediately. فوراً - ایکدم

بن m. (contract of ابن), a son. بیٹا - ولد

بن f. basis, root, stem, m coffee before it is ground, agriculture. درخت کي جڑ - انتها کسي چیز کي - قهوہ - کهیتي

بنا f. foundation, basis عمارت - بنیاد - نیو

بناد m. a mason. معمار

بنات (pl. of بنت), daughters. بیٹیاں - لڑکیاں

بنات النعش banat-un-na'sh, m. the constellation of the Great Bear. قریب اُتر کے قطب کے سات ستارے هیں چار کو نعش اور تین کو بنات کهتے هیں

بنا بر adv. or conj. on account of, owing to, therefore. اسیلئے - اسي سبب

بنا باب رسانیدن id. to lay a deep or strong foundation of a building. عمارت کا نهایت مستحکم کرنا یعني نیو کو پاني نکلنے کي جگهہ تک پهونچانا

بنادر (pl of بندر), ports, harbours. جمع بندر کي بمعني منڈي سوداگروں کے اکٹھے هونکي سمندر کے کنارے - جگهہ جهاں جهاز جمع هو یا ٹهریں

بنادیق (pl. of بندوق), guns. جمع بندوق کي

بناگوش f. the cavity at the lower part of the ear, lobe of the ear. کان کي لو

بنام ایزد this phr. is equal to "in the name of God" it is also an expression of surprise, an oath. یعني بنام خدا - کلمہ تعجب - قسم

بنان f. the tips of the fingers. اُنگلیوں کي پوریں

بنایان m. masons. بهت سے معمار

بنت f. daughter, girl. لڑکي - بیٹي

بنت العنب / بنت الکرم } f. wine, (عنب and کرم means grapes, in Persia and Arabia the wine is pressed out of grapes). شراب

بنج f. henbane (Arab. form of بنگ). خراساني اجوائن

بند m. a fastening, a knot, a bandage, binding, literally or figuratively, as a tie, a cord, fetters, imprisonment, an agreement, pledge or promise, a contract, a regulation, a dyke, mound, dam, an embankment, a verse of a song consisting of two or three couplets, belt, roll, string, joint, knuckle. In composition it denotes fastening, enchaining, or fixing. In Persian, بند denotes hope or wish, also "a trick of fence," a strategem, grief, sorrow, a sheet (of paper), hope, expectation, avarice, greed, a pair of oxen, name of a place. قبا کا بند - گانٹھہ - بندهن - پاني کي روک - عهد و پیمان - غم - رنج - کاغذ کا تاؤ - اُمید - لالچ - بیل کي جوڑي - قفل

بنداد دهان باز کردن id. to complain, to cry for help, demanding justice. - فریاد کرنا مدد کے لئے منت کرنا - انصاف چاهنا - فریادرسي کرنا

بند بستن id. to hope, to expect some help, to be greedy. توقع اور اُمید رکھنا

بندر m. a city, an emporium, a port, harbour, a trading town to which numbers of foreign merchants resort, a mart or market. سمندر کے کنارے سوداگري کي جگهہ

بندق m. a pellet, filbert nut. غلہ - بندق جو مشهور میوہ هے

بند کشادن کام *id.* to fulfill one's duty, to perform one's task, to do according to one's intention or wish. مقصد کا ادا کرنا

بند کشاد *semen cito emittens, morbo affectus.*

بندگي *f.* slavery, devotion, service, compliment. خدمت کرني - تابعداري کرنا - غلامي - سلام کرنا

بنده *m.* a slave, servant. تابعدار - غلام

بندين *inf.* to tie, to fasten. باندهنا

بندي *f.* a female slave or servant, *m.* a prisoner, captive. قيدي - گرفتار

بنفش *m.* azure, blue. کبود رنگ - نيلگون

بنفشه ريخته *f.* blackness, ink. سياهي

بنکران *n.* pot-scrapings. کهرچن

بنگ *f.* hemp (Canavis sativa), an intoxicating potion made from the leaves of hemp, the province of Bengal. بهنگ جسے نشه هوتا هے - ملک بنگاله

بنگله / بنگه } *m.* a house, a room, a store, *f.* baggage, luggage, the tents, stones, furniture of an army. مکان - وه جگهه جهان پر نقد اور جنس رکهتے هيں

بنگه تير *m.* the sign Gemini, also Orion برج جوزا

بنوت *f.* boyhood, infancy. فرزندي - پسري

بنو ماش *f.* name of a kind of pulse commonly called black gram (*Phaseolus mungo*) مونگ (ايک غله)

بنه *m.* basis, root, domestics, household furniture. ضروري سامان - اسباب - درخت

بنه بستن *id.* to travel, to journey. سفر کرنا

بني (*pl.* of ابن), sons. - جمع ابن کي بمعني بيٹے لڑکے

بني اسرئيل *n.* children of Israel (Jacob). Israelites. اولاد حضرت يعقوب کي

بنيامين *n.* Benjamin, the youngest son of Jacob. حضرت يعقوب کے چھوٹے بيٹے کا نام

بنيان *f.* foundation, basis. نيو يا بنياد مکان کي

بنين *m.* sons, children. پسران - بيٹے

بو *m.* father, possessed of, generally used in composition with another word as bu-l-'ajab father of wonder or possessed of wonder, marvellous, smell, trace, hope, love, affection, perhaps, would that! may it happen! contr. of بوم owl, avarice, greed. محبت - سراغ - کاشکے - شايد - مخفف بوم بمعني الو

بواب *m.* a janitor or porter. دربان - چوکيدار

بوادي (*pl.* of باديه), desert. صحرا

بوار *f.* destruction, ruination, badness, depravity, mischief. هلاکي - خرابي

بوارق (*pl.* of بارقه), lights, swords, flashing lights. جمع بارقه کي بمعني روشني - تلوار کے

بواطن (*pl.* of باطن), the inward parts, the hearts. اندوني حصے - دل

بواعث *pl.* of باعث

بواقي *pl.* of باقي

بوالفضول *m.* stupid, foolish, silly, lazy, ignorant. بيوقوف - سست - بيهوده

بوالحکمان *m.* idolaters, the heathens, superstitious, pagans, lit. without religion. بيدين

بوالحکيمان *m.* ignorants and blockheads. بيوقوف اور بے شعور لوگ

بوالهوس *a* desirous, *m.* blockhead, a wavering, fickle person. زياده هوس والا - بيوقوف

بوتم *m.* child. بچه

بوته *m.* crucible, a melting pot, a bush, a shrub, a small tree with branches. سونا يا چاندي ڈهالنے کي گهريا - جهاڑي - چهوٹا شاخ دار درخت

بوته *m.* young of a camel. اونٹ کا بچه

بوتيمار *m.* a heron. بگلا

بو خلات *met.* for Satan. ابليس کي کنيت

بود *f.* existence, being, a dwelling. کنايه هے هستي سے

بود و باش *f.* residence, dwelling رهائيش

بودن *inf.* to be هونا (root بو or باش).

بودادن *inf.* to roast the seeds. بيجوں کو بهونتا

بورق *m.* borax, a kind of salt, said to promote digestion. سهاگا - کچلوں

بورک *f.* mould (on fruit, bread, etc., from dampness). پهپهوندي

بوره *m.* borax, nitre for soldering. سهاگا

بوزنه / بوزينه } *m.* monkey, an ape. بندر

بوزه *m.* beer. ايک قسم کي هلکي شراب جو مثل انگريزي شراب بير کے هوتي هے

بوس (in *compos.*) kissing, saluting. - چومنا بوسه لينا

بوستان *m.* a pleasure garden, name of a celebrated work by the Persian poet and moralist Sa'di. پهلواري - باغ - سعدي کي تصنيفات

بوس و کنار *m.* kissing and toying, dalliance. چومنا - بغل ميں لينا

بوسه *m* kiss. چومه

بوسه بلب خريش زدن *met.* to strike the arms previous to wrestling, etc. خم مارنا (کشتي ميں)

بوسيدن *inf.* to kiss, embrace. چومنا

بوسيده *a* stale, rotten, also *part.* having kissed. سڑا - پرانا - گلا - پيار کرکے

بوش *m.* pomp, display, splendour, magnificence, *a.* mean, low, base, deprave, profligate, (*pl.* is اوباش). دبدبہ - شان - خراب آدمي - کمینہ - بد

بوغدان *m.* a pouch, a wrapper. وہ چیز جسمیں قلندر لوگ اپنا گدائي کا سامان رکھین

بوغرا *m.* a dish made of boiled meat, flour, etc.

بوغما *m.* trumpery, trifles, scraps, rags, etc., the stores of a wallet, ugly and fat (woman). چتھڑے - گدڑے - بد شکل اور موٹي عورت

بوق *m.* a trumpet, clarion. کرنائي - ترهي

بو قبیس *m.* name of a mountain near Mecca. مکہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام

بو قلمون *m.* a chameleon (hence) anything of various hues, a Roman coat showing different shade in colour. گرگٹ جو هر لحظہ رنگ بدلتا هے - رومي قبا جو هر لحظہ ایک نیا رنگ دئہاتي هے

بوک *adv.* perhaps, but. شاید - مگر

بول *m.* urine. پیشاب

بولسري *f.* name of a tree (*mimusops elengi*). مولسري کا درخت

بوم *m.* an owl, land, ground, soil. الو - زمین

بوم بیگانہ *n. lit.* a foreign land, Iran, (*met.* in *Sikandarnama.* مراد ملک ایران سے اور یہہ اصطلاح سگندر نامہ میں هے

بو مرہ *n.* an epithet of Satan. کنیت ابلیس کي

بون *f.* separation, parting, distance, surpassing others in learning and excellence جدائي - دوري - کسي سے فضل و کمال میں زیادہ هونا

بویا *a.* fragrant, aromatic, sweet-smelling, balmy. خوشبودار

بوے افرز *n.* hot spice-clove, pepper, cinnamon, cummin seed, cardamum, etc. گرم مصالح مثلاً لونگ - الائچي - زیرہ وغیرہ

بوے شیر آمدن *id.* to be newly born. تازہ متولد هونا

بہ *a.* good, better, a quince. اچھا - بہتر - بہي (ایک میوہ)

بہا *m.* price, value. مول - قیمت

بہاء *f.* light, splendour, ornament. - روشني رونق - زیبائش

بہار *f.* spring, beauty, elegance, delight, blossoms of spring, a fire temple, an idol temple, a kind of fine cloth. فصل ربیع - فصل بہار کے هر پھول کو کہتے هیں - ایک آتش خانہ کا نام - بتخانہ - ایک قسم کا نفیس کپڑا

بہاران *m* the spring season موسم بہار

بہار سفید *a.* white-coloured. سفید رنگ

بہار ستان *m.* abode of spring, or of beauty, name of a Persian work by the poet Jami. بہار یا عیش کي جگہہ - شاعر جامي کي تصنیف کا نام

بہادر *a.* brave, bold, valiant, courageous, invincible, *m.* a hero, a champion, knight, a title bestowed on military officers. It is often accompanied with the word جنگ, war, thus بہادر جنگ, invincible in war. The English (that is to say, Indian English) language has adopted this word : a "بہادر" indicates a marinet or proud and haughty mortal dressed in a little brief authority. (Binning). سورما - شجاع

بہائم (*pl.* of بہیمہ), beasts, animals, wild beasts. چوپائے جانور

بہبود *m.*, بہبودي *f.* } health, vigour, goodness, welfare. بھلائي - تندرستي

بہتان *m.* calumny, aspersion, false accusation. الزام - دوش

بہترین *a.* best, superior. منسوب طرف بہتر کے

بہجت *f.* joy, gladness, cheerfulness, alacrity, beauty, grace, excellence. - خوشي - تازگي زیبائش - خوبي

بہر *prep.* for. واسطے - لئے - باعث

بہرام، بہرام چرخ } *m.* the planet Mars, name of several Kings of Persia, Varanes, Bahram Gor. ستارۂ مریخ - بادشاہ فارس کے نام

بہرج *m.* a base coin, a counterfeited coin, abusing. کھوٹا درهم

بہر حال *adv.* by every means, somehow or other. هر طرح سے - سب طرح سے

بہرمان *m.* a flower with which clothes are dyed red, bastard saffron, safflower (*carthamas tinctorius*), a silk cloth, a topaz. کسم کا پھول - ایک ریشمي کپڑا - یاقوت سرخ

بہرہ *m.* property, fortune, quota, share, portion, profit, gain, advantage. - بخرہ - حصہ قسمت - نصیبہ

بہرہ مند، بہرہ ور، بہرہ اندوز } *a.* fortunate, prosperous, profitable. - نصیب ور - خوشحال فائدہ مند

بہشت *f.* Paradise, heaven, garden. جنت - باغ

بہشتي رو *n.* handsome lads. خوبصورت لڑکے

بہق *n.* discoloration or spot on the skin of young men. چھیپ جو اکثر نوجوانوں کے منہہ اور جسم پر هوتي هے

بہلول *n.* a virtuous prince, joker, one who smiles, a man's name famed in oriental anecdotes, like our Joe Miller, a leader, a chief, a head. ایک نیک شاہزادہ - مرد فرخندہ رو - پیشرو - ایک عارف کامل کا نام جو نہایت مشہور ھے

بہلہ *m.* a falconer's glove, a privy purse. چمڑے کا دستانہ

بہم *prep.* with, together, one with another, one against another. ساتھہ - برخلاف

بہم بر آمد equal to 'lost (his) temper,' 'got angry.' غصہ ھوا - خفا ھوا

بہم برزدن *id.* to overpower, to subdue. زیر و زبر کرنا

بہمن *n.* the name of the eleventh Persian month, name of Ardeshar, the son of Isfandiyar, name of an angel, a medicine, a fort near Ardbeel. ماہ پھاگن - اردیشر جو اسفندیار کا بیٹا تھا - ایک فرشتے کا نام - ایک قلعہ کا نام جو نزدیک اردبیل کے ھے

بہنانہ *m.* a monkey, an ape. بندر

بہو *m.* a palace, mansion, a castle. - قصر محل - ایوان

بہی (from the *adj.* بہ good, better), *m.* quince. بہتر - ایک مشہور پھل کا نام

بہی / بہیہ { *a.* bright, luminous, shining, beautiful, adorned. روشن - تاباں - زیبا

بہیج *a.* happy, glad, pleased, merry. - شادمان خرش - خرم

بہیم *n.* name of a horse. ایک گھوڑے کا نام

بہیمہ *n.* beasts, quadrupeds. چوپائے - جانور مثل گائے بھینس وغیرہ کے

بہین *a.* best, superior, finest. بہت بہتر - سب سے اعلی

بے a privative particle or preposition, denoting in the Persian Language "without," "void of." When prefixed to nouns, it forms compound adjectives corresponding with one word of the same kind beginning with *in*, *un*, *um*, *ir*, etc., or such as end with *less*. All these compound adjectives may again become abstract nouns by the addition of *i* as بے ادب unmannerly, rude. بغیر - بدون - سواے

بے اندامی *f.* unmannerliness, rudeness. بے ادبی

بے آھو *a.* faultless, without blemish. بے عیب

بیارہ *f.* climber, a creeper. وہ درخت جسکی بیل چلے

بیاض *f.* whiteness, a commonplace book, a blank book. سفیدی - سادہ کتاب یا کاغذ

بیاع *m.* a seller, a buyer, a customer, a purchaser, a broker, a salesman. - بیچنے والا خریدنے والا - دلال

بیباق *v.* act of clearing or settling of an account. فیصلہ یا صفائی کرنا

بے برگ *a.* poor, destitute. محتاج

بیت *f.* a couplet (in poetry), an edifice, house, temple. گھر - شعر

بیت بندی *f.* poetry, verse-making. شعر لکھنا

بیت اللہ *m.* (the house of God), the temple of Mecca. خدا کا گھر - خانۂ کعبہ

بیت العتیق *m.* old house, the temple of Mecca. خانۂ کعبہ

بیت الحرام *m.* (sacred house), the temple of Mecca. خانۂ کعبہ

بیت اقصی *m.* (the sacred house), a mosque in Syria the foundation of which was laid by King David and completed by King Solomon. بیت المقدس ایک مسجد ھے ملک شام میں - حضرت داؤد نے اسکی بنیاد ڈالی تھی اور جسے حضرت سلیمان نے تمام کیا

بیت المعمور *m.* a mosque on the fourth heaven made of precious stones. یہہ ایک مسجد ھے چوتھے آسمان پر جو قیمتی پتھروں کی بنی ھے

بیت المال *m.* lit. the treasure-house, the public treasury or exchequer, into which payments on various accounts are made, and according to the sources from which they are derived, applicable to the support of different classes of persons, an escheat, property that falls to the crown in failure of heirs, *met.* an unfortunate fellow (*v.* Wilson's Glossary). خزانہ سرکاری جسمیں اُسکا مال جو لا وارث مرجائے جمع کیا جائے

بیت الحزن *m.* name of a closet in which Jacob used to weep for his son Joseph. ایک حجرہ کا نام جسمیں یعقوب اپنے بیٹے یوسف کے لیئے رویا کرتے تھے

بیت الخلا *m.* a latrine. پاخانہ

بیت الصنم *m.* an idol temple. بتخانہ

بیت الشرف *m.* the mansion of eminence, the highest mansion of a heavenly body (in astrology). بلندی و بزرگی کا گھر - نجومیونکی اصطلاح میں وہ برج جسمیں سات سیاروں میں سے کسی کو شرف و سعادت حاصل ھو جیسے شرف آفتاب کا حمل میں - چاند کا ثور میں - مشتری کا سرطان میں - زہرہ کا حوت میں - عطارد کا سنبلہ میں - مریخ کا جدی میں زحل کا میزان میں

بیت المقدس *m.* the temple or city of Jerusalem. ایک شہر

بے تحاشا *adv.* immediately, at once, instantly. فوراً - ایکدم

بیتوقت *a.* belated, benighted, staying for the night. شب باشي کرنا

بیجادہ *n* variegated coral. مونگا

بے جگري *m.* fear, alarm, dread. خوف - ڈر - وحشت

بیچوبہ *m* (lit. poleless), a kind of tent pitched without a pole. خیمہ جسمیں چوب نہو

بیچون *a* unsurpassed, unparalleled, unequalled, matchless. بے مانند جسکا کوئي هم سر نہ هو

بیحضور شدن *id.* to fall sick, to be impatient, to be weak, to forget one's duty to God. بیمار هونا - غریب و ناتوان هونا - بے نماز هونا

بے حمیت *m* shameless, immodest. بے حیا - بے شرم

بیخ *f.* root, origin, foundation, a peg (of wood) in *Sikandarnama* - جڑ - بنیاد سکندر نامہ میں مراد میخ سے

بیختن *inf.* to strain, to sift, to search, investigate. چھاننا

بیخویش *a.* unconscious, out of oneself, friendless بیخود - بیهوش

بیخواست to get a thing unasked for. بے مانگے کسي چیز کا مل جانا

بید *n* a willow, rattan. بید کا درخت

بید انجیر *m.* the tree from which castor oil is made (*Ricinus vulgaris* or *Palma Christi*). ارنڈ کا درخت

بیداء *m.* a plain, patch, destruction, (*pl.* is بید) میدان - پیوند - هلاک هونا

بیداد *n.* oppression, tyranny, cruelty. ظلم - ستم

بیدار *n.* awake, not sleeping, vigilant. جاگتا هوا

بیدار دل *a.* alert, watchful, quick of apprehension, clever. هوشیار

بیدار بخت *a.* fortunate. نصیب ور

بید بافي *n.* weaving with ratans (as the bottoms of chairs and the panels of doors or windows). بینت سے چوکي وغیرہ کو بننا

بیدست وپا *a.* (lit. having neither hands nor feet) helpless, without power or authority, confounded, agitated, distracted. پریشان - لاچار - بے بس

بیدق *m.* the pawn at chess شطرنج کا پیادہ

بیدل *a* (lit. heartlees), a lover عاشق سے مراد هے

بیدماغ *a.* ill-tempered, impatient, irritable, easily provoked. بد مزاج - بے صبر

بیدماغي *f.* bad temper, irritability - بد مزاجي طبیعت کي ناسازي

بید مجنون *m.* a kind of willow with very fine and tender leaves and branches. بید کي ایک قسم جسکے پتے باریک اور شاخیں نازک هوتي هیں

بید مشک *m.* musk-willow, celebrated for its fragrance. ایک قسم خوشبودار بید کے درخت کي

بیر *m.* a well. کنواں - چاہ

بیران *a* solitary, waste, unpopulated, *n.* name of the Vizier of Afrasiyab, King of Turan. ویران - بادشاہ توران - افراسیاب کے وزیر کا نام

بیرق *m.* a small spear, a small banner, an ensign, colours. نیزہ - چھوٹا جھنڈا

بیرم *m.* a carpenter's gimlet or borer worked with a string, a fine cloth, an arrow. برما - باریک کپڑا - تیر

بیرم *f.* feast, party, an entertainment, an assembly. عید - جشن

بیژن *n* name of a wrestler who was the son of Giyu and Rustum's sister's son. He fell in love with Munira, the daughter of Afrasiyab, king of Turan and was afterwards imprisoned in a well. نام پہلوان کا جو گیو کا بیٹا اور رستم کا بھانجہ تھا - وہ منیرہ افراسیاب توران کے بادشاہ کي بیٹي پر عاشق هوکر کنویں میں قید هوا تھا

بیرنگ *m,* a map, sketch, a plan. نقشہ مکان قبل تیاري عمارت بنائیں

بیروئي *f.* inattention, heedlessness, neglect, unkindness, cruelty, not beautiful. بے توجهي - بیمروتي - بے رونقي

بیرون *adv.* out, outside, beyond باهر - خارج

بے زنهاري *f.* dishonesty. بے ایماني

بیس المصیر *m.* hell. جهنم - دوزخ

بیس القرین *n.* bad associate, bad companion. بد همنشین

بیستون *a.* having no foundation insignificant, *n.* a celebrated mountain in Persia. Farhad, the celebrated Persian statuary, to please his mistress *Shirin,* dug through this immense mountain. بے بنیاد ایک مشهور پهاڑ کا نام جسے فرهاد نے عشق شیریں میں کھودا تھا

بیسراک *m* a camel, the young of a camel, a mule اونٹ - اونٹ کا بچہ - خچر

بے سکہ *a.* of no importance, worthless, without a fixed quantity. بیقدر - بے مقدار

بےشرت *a.* without honour or dignity. کم قدر - بے قدر

بیش *a.* more, good, proper, well, excellent, elegant, delightful. زیادہ - بہت اچھا - مناسب

بیش قرار *a.* trustworthy. معتبر

بیش ثبہ *adv.* undoubtedly, certainly - بیشک بے شبہہ

بیشہ *m.* a forest, jungle, a desert. جنگل - صحرا

بیشي *f.* excess, surplus, increase, increased assessment. زیادتي

بیضا *m.* the sun. whiteness, bright, name of a city in Persia. سورج - سفیدي - روشن - فارس کے ایک شہر کا نام

بیضوي *a.* fashioned in the shape of an egg, oval, elliptical. انڈے کي شکل کا

بیضوي *n.* an inhabitant of Beza, *f.* the author of a book containing a commentary on the Kuran. بیضا کا رھنے والا - ایک کتاب کے مصنف کا نام

بیضہ *m.* an egg, a helmet, a steel head-piece, a testicle. انڈا - لوھے کا خود

بیض *pl.* of بیضہ egg. جمع بیضہ کي بمعے انڈا

بیض *m.* a mark fixed to public writings by the magistrate or any principal officer, fair complexioned women. ایام البیض the 13th, 14th, and 15th of every lunar month. عررتیں جنکا رنگ صاف سفید ھو - ایام البیض جو تیرھویں - چودھویں - پندرھویں تاریخ ھر مہینے کي ھے

بیضہ انگندن *id* to fear the consequences. انتہا سے ڈرنا

بیضۂ آتشین *m.* the sun. آفتاب

بیضہ در کسے شکستن / بیضہ در کلاہ شکستن *id.* to overpower some one, to subdue, to subjugate, to make humble, to abase, to lower, to disgrace, to dishonour. - کسي کو مغلوب کرنا کسي کو عاجز کرنا - کسي کو رسوا کرنا

بیضہا زریں *n.* the stars. ستارے

بیضہ زر / بیضہ زریں *m.* the sun. آفتاب

بیطار *m.* a horse doctor. چارپایوں اور گھوڑوں وغیرہ کا علاج کرنیوالا

بیع *f.* buying and selling, commerce. - بیچنا مول لینا

بیعانہ *m.* earnest-money. خرید فروخت کے لئیے جو سائي دي جاتي ھے

بیغار / بیغارہ *f.* reproof, rebuke, taunt, sarcastic, reproaches طعنہ - سرزنش

بے غل و غس *a.* faultless, perfect. بے کھوٹ

بیقرین *a.* unparalleled, matchless, unequalled. بے مثل - بے مانند

بے قیل *adv.* undoubtedly, undubitably, certainly. بیشک

بیکراں *a.* immense, infinite, boundless. بے انتہا

بیکوني *a.* helpless, friendless. بیکس - بے رفیق

بیگ *n.* a Mughal title corresponding with lord, master. خداوند. مالک

بیگہ / بیگاہ / بیگا ھان *a.* untimely, ill-timed, inopportune, evening time. بیوقت - شام کا وقت

بیگانگي *f.* strangeness, shyness, foreign, enmity. دشمني - اجنبیت

بیگلر بیگ *n.* lord of lords, commander-in-chief. سپہ سالار - امیرالامرا

بیگم *f.* a lady, a queen, women of rank are called *begams* (*pl.* بیگمہ) - امیر کي بي بي لیڈي

بیل *m.* a spade, hoe, mattock, a spot in which the receiving pans are placed, where sugar is manufactured, a creeper, a tandril, a pole for directing a boat, a well. کدال - پھاوڑا - بیل درخت کي - ڈانڈ - کنواں

بیلرن *m.* a peasant, farmer, villager. - کسان دھقان

بیلک *f.* a small mattock, the iron point of an arrow. ایک قسم کي کدالي - ایک قسم کي تیر

بیلقان *a.* name of a city in Armenia near the Caspian ایک شہر کا نام ارمینیا میں

بیل کش *m* a farmer, a peasant, a villager. کسان - دھقان

بیلہ ور *m.* a medicine seller. دوا بیچنے والا

بیم *m.* fear, terror, dread, danger. خوف - ڈر

بیماري رشتہ *m.* the guinea-worm. نارو (ھندي میں)

بیمہ *m.* insurance, also the rate of insurance, or the percentage paid for that purpose. محصول کسي نقد یا مال کے پونچانے کا اور وہ اسکي حفاظت کا ذمہ دار ھو

بینش *f.* seeing, discernment. دید - بینائي

بین *prep.* between, among, interval. - درمیان بیچ

بین see thou (*r.* of *didan* دیدن), in *comp.* seeing as عالم بیني world-seeing, an epithet applied to the sun. تو دیکھہ

بین *baiyan*, *m.* explanation, *baiyan*, clear, evident, manifest. ظاهر - آشکارا - گواہ

بینوا *a.* indigent, needy, *m.* a kind of darwesh who shaves his eyebrows and beard. محتاج - فقیر - غریب

بینونت *f.* separation, parting. جدائي

بيني *f.* the nose, ناک

بيني خط زمين كشيدن *id.* to implore, humbly, to eat humble-pie عاجزي کرنا

بيني رسيدن *id.* to lie at death's door, to feel life a burden. قریب موت کے پہونچنا - زندگي سے بیزار ہونا

بيني زدن *id.* to refuse, to deny. انکار کرنا

بے نیاز *a.* without want, an epithet of God, the Almighty. بے پروا- خدا کي صفت

بیوت (*pl.* of بیت) houses. جمع بیت کي بمعني گھر کے

بیوتاب (additional plural of بیوت *pl.* of بیت, a house) the term is used in several senses as out-house, house-expense, house-tax, etc. مکانات جمع بیوت کي اور بیوت جمع بیت کي

بیور *n.* ornaments, jewellery, ten thousand زیور - دس ہزار

بیوگاني *f.* marriage, matrimony, wed-lock کتخدائي - شادي

بیوہ *f.* a widow. بے شوہر کي عورت - رانڈ

بیہش *a.* (for بیہوش), senseless, unconscious. مخفف بیہوش کا

بیہودہ *a.* absurd, idle, vine, fruitless, unprofitable. بیفائدہ - ناحق - باطل

بیهين *a.* better, best, swift-paced. بہتر - بہت اچھا - تیز رو

بیہودگي *f.* absurdity, frivolity. - یادہ گوئي خرافات - بطلان

— پ —

پ *pe* the third letter of the Persian and Hindustani alphabets. It does not occur in the language or alphabet of the Arabs, and the letter *f* or *b* is substituted for it in such Persian words are adopted into the Arabic language : بادشاہ for پادشاہ. In reckoning by ابجد پ is the same as ب *viz.*, two.

پا *m.* the leg the feet, root foundation, origin, in *comp.* it denotes permanency, continuation, power under ٹانگ - پیر جڑ - بنیاد - تاب - طاقت - نیچا

پا افزار *f.* a shoe, a slipper جوتي کفش

[illegible] foot in stirrup ready alert. تیار - ہوشیار

پا انداز *m.* a carpet spread at the entrance of a room, on which the feet are cleaned. ایک قسم کي دري جو کمرے کے دروازے پر پاؤں وغیرہ صاف کرنے کے لیئے رکھتے ہیں

پا بالا نهادن *id.* to walk running. دوڑ کر چلنا

پا بلند کردن *id.* to run, to escape, to flee. بھاگنا - دوڑنا

پا برنجن *m.* name of an ornament worn on the feet. پازیب - گوجي

پا بست *f.* foundation (of a building), *a.* strong, imprisonment. بنیاد - مستحکم - گرفتار

پا بند *m* a rope with which the fore feet of a horse are tied, رسي جس سے گھوڑے کي اگلي ٹانگیں باندھي جاتي ہیں

پابوس *n.* act of kissing the feet, *i e*, adoring, worshipping, revering. پیر چومنا

پا بوسي کردن *inf.* to worship, to reverence. پیر چومنا - عزت کرنا - پوجنا

پا پوش *f.* slipper, *a* shoe. جوتا - پیزار

پاتلہ *n.* a kind of wide mouthed saucepan used by confectioners, منهہ کهلي هوئي ڈیگ

پاجامہ *m.* trousers, long drawers ستهنا - ازار

پاجفت کردن to try one's best in search of an employment, to make a vigorous search for an employment. کام کي تلاش میں ازحد کوشش کرنا

پا چال
پا چہ } *n.* the hole in the ground in which a weaver's feet play. - جولاهے کا گڑھا یعني وہ گڑھا جسمیں جولاهے بوقت بننے کے دونوں پاؤں لٹکا دیتے هیں

پا چک *m.* cow-dung dried for fuel. اپلا - کنڈا

پاچلہ *n.* a shoe, a slipper. جوتي - جراب

پا چایہ *n.* stool. گوہ - موت

پا چناري *m.* a servant, low, base, mean. خدمتگار - کمینہ

پاد *n.* a watchman, a guard, sentinel, protector. نگهبان - پاسبان

پاداش
پاداشت } *m.* revenge, retaliation, recompens, retribution, reward. بدلہ (خواہ نیکي خواہ بدي)

پا درار کشیدن *id.* to lie down, to rest, to claim (for a thing), to demand as due. لیٹنا - دعوی کرنا

پادشاہ نیمروز *m.* the sun, a blessed soul, Adam and Risalat Mab. - آفتاب - انسان - مبارک قدم

پار *m* the year past, last year - پچھلا برس سال گذشتہ

پارار *m.* the third year past, the year before last. دیورس سال - تیسرا برس جو گذر گیا

پارس *m* Persia. ملک فارس

پارسا *a* abstemious, chaste, watchful, *m* a holy man, a devotee. پرھیزگار - پاکیزہ

پارگین } پارگي } *m.* a small reservoir for holding water from a bath or cool-room, etc. ایک چھوٹا حوض جسمیں باورچي خانہ اور حمام وغیرہ کا پاني جمع ھو

پارہ *m.* a strap, a slip, a piece, a bit, a relic, memento, a gift, quicksilver (in Hindi), in old Persian it means, bribery, an iron mace or club, a kind of sweet, a woman who is not a virgin. - ٹکڑا - حصہ - تحفہ - تبرک پارہ - مشہور دھات (ھنديمیں) - پراني فارسي میں - رشوت - لوھے کا گرز - شکر پارہ - (ایک میٹھائي) - عورت جو کنواري نھو

پارہ دوز *m.* a patcher, a tentmaker, or one who applies the leather parts in tents, screens, etc. پیوند لگانیوالا

پارہ کار *a.* insolent, presumptuous, wanton, impudent, mischievous, profligate, depraved. شوخ - لچا

پاریدن *inf.* to be torn to pieces, to be burst. ٹکڑے ھونا - پھٹ جانا

پارینہ *a.* ancient, past, elapsed. پرانا - قدیم

پا زھر *m.* a charmed stone said to be found in the head of a serpent. زھر مھرہ

پاس *m.* watch, guard, defence, a space of about three hours the same as *pahr* پھر q v), observance, preservation. تین گھنٹے کا عرصہ - ایک پھر - محافظت - پھرا

پا سبز *m.* a broker, salesman, stingy, ill omened. دلال - منحوس قدم

پاسبان *m.* a watchman, guard, sentinel, a shepherd, protector. چوکیدار - نگھبان - گڑریہ

پاستان *a* former of yore. اگلا - گذرا ھوا

پاسخ *n* reply answer جواب

پاس خاطر *prep.* for, attention to (one's) wishes. واسطے - لیئے - کسي شخص کي خاطر رکھنا

پاسداري *f.* partiality, watching, guardianship. طرفداري - نگھباني

پاسنگ *m* a weight or make weight, an equipoise, a balance. ترازو کے پلڑوں کو برابر کرنے کو جو رکھتے ھیں - اُنھیں پاسنگ کھتے ھیں

پاسک } پاشک } *n.* gaping or yawning. - جماھي لینا انگڑائي

پاس bursting, breaking, (in *comp.*) scattering, sprinkling. پراگندہ پھٹنا - ٹکڑے ٹکڑے ھونا ھونا - چھڑکنا

پاشنہ *f.* a heel, cucumber, melon (musk or water). ایڑي - ککڑي - خربوزہ - تربوز

پاغندہ *m.* a ball of carded cotton دھنکي ھوئي روئي کا گالہ

پاغوش *v* dip, dive, immersion in water پاني میں غوطہ لگانا

پاک *a.* pure, clean, upright, holy, perfect. پاک - صاف - بیگنہ

پاکار *m.* a tax-collector, a servant, labourer, a sweeper. - تحصیلي کا پیادہ - نوکر - مزدور خاکروب

پاکباز *a.* undefiled (generally applied to the mind). مرد نیک

پاک پیوند *n.* (in *Sikandarnama*), Naushaba the wife of Alexander (سکندر نامے میں) سکندر کي زوجہ نوشابہ کا نام

پاکي *f.* purity, cleansing, a razor. - صفائي اُسترہ

پاگرفتن *inf.* to be stable, to be firmly established. کسي جگھہ قیام پکڑنا

پاگرفتن *inf.* to dance. ناچنا

پالغز *n.* a slip of the foot, stumble, *met.* error, ruin, fault, crime - پیر پھیلنے کي جگھہ کبھي مراد ھے خرابي - جرم اور خطا سے بھي

پالہنگ *m* a lofty house, a window, make weights - بلند عمارت یا کوٹھا - کھڑکي (مکان کي) ترازو کے پلڑے برابر کرنیکا پتھر

پالردن *inf.* to clear, to filter - صاف کرنا

پالودہ *a.* smooth, clear, *n.* a kind of flummery or sweetmeat. چکنا - صاف - ایک قسم کا فالودہ

پالھنگ *m* a tether, a halter. - شکار بند باگ ڈور

پالیز *f.* a melon field, *a.* ruin, waste. - تربوز خربوزہ - ککڑي کا کھیت - تباہ - اُجاڑ

پام changed form of فام joined to nouns of colour, implies a tendency to such colour, as سیاہ فام blackish. رنگ - مبدل فام کا

پامال } پاے مال } پاے پست } *a.* trodden under foot, ruined, devastated, troubled, agitated, distressed. مصیبت زدہ

پانزدہ *a.* and *n.* five and ten, fifteen. پندرہ

پالایش *f* filtration, percolation صفائي - صاف کرنا

پالائیدن *inf.* to filter, percolate. صاف کرنا

پالان *m.* pack-saddles, dorsers, roof. کاٹھي (گدھے کے اوپر کي) - چھت

پاے از جا بردن *id.* to loose one's respect or dignity, to lower one's position. کسي کي قدر و منزلت مٹا دیني

پاے بند *lit.* tied by the leg. *met* encumbered with a family or some other intrication. کسي کام میں پھنسا ھوا

پاتابه *f.* a shoe, a sock, a sandal جرتي - موزه

پائے تخت *m* the royal residence, or place of the royal family, capital. - راجدهاني پادشاهون کے رهنیکي جگهه

پائے ترسا *m.* a cup of wine. شراب پینیکا پیاله

پائیدن *inf.* to stay, to be firm, to be steady. to be durable. ٿهرنا - پائدار هرنا

پائے خاکي کردن *id* to go on foot. پیاده جانا

پائے درگل *id a.* imprisoned, captive, distressed, confounded, distracted گرفتار - حیران

پائدار *a.* firm, steady, durable, permanent مضبوط - همیشه

پائے کاشت *n.* (land) let out to non-resident tenants, land cultivated by peasants not residing upon the spot وه کسان جو دوسرے گانوں سے جوتنے کو آوے

پائے کار *m.* person who purchases goods from the manufacturer to sell to the merchant, a non resident labourer hired to cultivate land, a place where the materials for a building may be stored. ایک کسان جو دوسرے جگهه سے زمین جوتنے کو آوے - وه جگهه جهان مصالح عمارت بنانے کیلئے انبار کریں

پائے کلاغ *n.* a bad writing which could hardly be deciphered, a penholder. بد خط جو پڑها نه جائے - قلم

پائے کوب *m.* a dancer. ناچنے والا

پائیگاه *m.* rank, dignity, a stable. رتبه - درجه

پائمرد *m.* helper, an assistant. مددگار

پائمردي *f.* courage, resolution, help, power. همت - طاقت - مددگاري

پاینده *f.* firm, permanent. استوار - قائم

پائے نهادن برسر چیزے *id.* to give up (that thing), to let a thing go. ترک کردینا

پائین *a.* low, lower, under, the lower part. نیچے - زیر

پائین پرستي *f.* service, worship, reverence. خدمتگاري

پایاب *a.* fordable, within man's depth, *m.* a ford. کسي ندي کا تهوڑا پاني جهان آساني سے آدمي گذر جائے

پایا *m.* } end, extremity, completion. - انتها
پایان *f.* } آخر - انجام

پایان ماه infernal regions, under the earth. پاتال - تحت الثری

پایک *m.* a messenger, harbinger, a foot soldier. قاصد - پیاده

پا *m.* a step, degree, rank, dignity, the foot of a table, chair, etc., the foundation of a building. پائدن - رتبه - درجه - بنیاد

پاییز *m.* autumn, *met.* old age. موسم خزان

پتک *m.* a hammer. هتوڑا

پتیاره *f.* calamity, trouble, hardship, greatness, ugliness, inhumanity, hideousness, fraud, deceit, tumult, disturbance, shamelessness, improper. - آفت - بلا - زشت - سختي مکر - حیله - فریب - شرمندگي - نا زیبا - مهیب - شدت شور - غوغا

پتیل *m.* match for a lamp, a link-stock, a candle wick. چراغ کي بتي - دیاسلائي

پچ } *m.* a mountain. پهاڑ - کوه
پچار }

پجول *f.* the ankle bone. پانوں کے ٹخنے کي هڈي

پچیرو *f.* mockery, hypocrisy, artfulness, deceit, fraud. مکاري دغا بازي

پخ *m.* a human or animal excrement. آدمي یا حیوان کا گوه

پخ پخ *interj.* Oh! bravo; well done! بخ get away! begone! خوش خوش و مرحبا

پختن (*r.* پز) to cook, to bake, *met.* to concoct in the mind, or imagine, to entertain an idea. پکانا

پخته *a.* dressed (as victuals), ripe, sly; knowing, experienced (in the world), wise, built of cut or polished stones (a house). پکا هوا مرد هوشیار

پخته *n.* cotton separated from its seeds. روئي بنولے سے الگ کي هوئي

پخته خوار *n.* a lazy man, a fakeer, son-in-law. سست آدمي - فقیر - داماد

پخس *v.* to pine, to languish, to grow weakly with pain, grief, etc. غم و رنج کے سبب سے گهلنا

پخش } *a.* trodden, expanded, withered
پخچ } پسا هوا - پست - پژمرده

پخسیده *a.* withered, grieved. پژمرده - غمزده

پخلوچه *v.* tickling the armpit, titillation بغل میں گدگدي کرنا

پد *n.* a tree bearing no fruit. وه درخت جسمیں پهل نلگتا هو

پدر *m.* a father. باپ

پدرانه *adv.* paternally, like a father. مانند باپ کے

پدرام *a.* happy and glad, jolly, adorned, graced, a place for resting. - خوش و خرم آراسته - آرام کرنیکي جگهه

پدرود *f.* leave, dismissal, farewell. - رخصت وداع

پدندر *m.* Alexander, the second husband of a mother. ماں کا دوسرا شوهر

پدید } *a.* open, public, clear, evident, manifest, conspicuous, visible
پدیدار } ظاهر - نمودار

پذیر (in *comp.*) denotes taking, receiving, admitting, being possessed of or endowed with. قبول کرنا - ماننے والا

پذیر فتن (*r.* پذیر), to receive, to accept, to admit, to sustain. قبول کرنا - ماننا

پذیرا *a.* agreeable, acceptable, admitting, receiving. مقبول - استقبال کرنا

پذیرش *m.* consent, favourable reception, approbation, assent, obedience, dutifulness. قبول - فرمانبرداري

پذیرفتگار *a.* obedient, dutiful, admitting, receiving, one who acknowledges, admits or confesses. اقرار - فرمانبردار - قبول کرنیوالا کرنیوالا

پذیره *n.* act of befriending or leading, acceptable, *a.* agreeable. کسي کي رهنمائي کرنا - مقبول

پر *a.* full, complete, loaded, charged, used (in *comp.*) as پر نور *ad.* illustrious, *lit.* full of light. بهرا هوا - بهت

پر افشاني *n.* act of retiring into a solitary life, to lead a solitary life. دنیا سے تعلق ترک کرنا

پر افگندن *inf.* to be without power or ability, to become old. ناقابل هونا - ضعیف هونا

پراگندگي *f.* to dispersion, defeat. تیتر بیتر هونا - ناکامیاب هونا

پراگندن *inf.* to disperse, to scatter, to defeat. تتر بتر کرنا - شکست دینا

پرانیدن } *inf.* to cause to fly, to cajole, to flatter, to cause to fly, to praise falsely, to gratify by praise, to praise beyond due limits. اُڑانا - کسي کي تعریف میں
پراندن } مبالغه کرنا - کسي کي بیجا تعریف کرنا جسمیں وه خوش هو

پر باد شدن } *id.* to be proud, to be haughty or arrogant, to be insolent.
پر باد گشتن } تکبر اور غرور کرنا

پرپا *a.* a pigeon having feathers on its claws. کبوتر پاموز

پرتاب *a.* powerful, strong. طاقتور - پر زور

پرتاو *m.* the range of a musket, arrow, etc. وه مسافت جو درمیان تیرانداز اور تیر کے نشانه کے واقع هو.

پرتو *m* light, the sunbeams, rays of light, enlightenment روشني - شعاع - کر

پرخاش *m.* war, battle, conflict, commotion, disturbance, tumult, violence, injury, oppression, severe inquisition. - لڑائي - جهگڑا ظلم - زیادتي

پرداختن (*r.* پرداز), to finish, to accomplish, (hence) to leave off, to have done, to adorn, to be engaged, to empty. - ختم کرنا ترک کرنا - تمام هونا - خالي کرنا - مشغول هونا - آراسته کرنا - سنوارنا

پرداز *n.* adorning, completing, performing, finishing, painting, ornamenting. - آرایش نقاشي - بیل بوٹے بنانا تصویر کے گرد

پردگي *f.* concealment, a modest, chaste woman, one who confines herself to home, *n.* a keeper. پرشیدگي - هر چیز پوشیده عموماً اور زن پرده نشین خصوصاً

پردل *a.* valiant, brave. بهادر - شجاع

پرده *m.* a curtain, a screen, the sail of a ship, a musical tone or melody, a key or mode (in music), modesty, auspiciousness, solitude. - کپڑے کا پرده - چک - اوٹ - مقامات موسیقي - نیک فال - گوشه - تنهائي

پرده پوشي *n* the act of concealing, a blemish. بهید پوشیده کرنا

پرده دار *a.* confidential, *m.* a doorkeeper. دربان

پرده دریدن *v.* betraying secrets, to reveal the faults of another. بهید فاش کرنا

پرده دیر سال *m.* heaven, sky. آسمان

پردۀ کج *m.* bad omen, ill omen. بدفال

پرده نشین *n.* (a woman) remaining behind the curtain, modest. پرده میں بیٹھنے والا

پردۀ هفت رنگ *lit* the veil of seven colours, the world, worldly vicissitudes and vanities. دنیا

پرزه *m.* a scrap (generally applied to paper), piece, bit, rag, frippery. ٹکڑا - چتهڑا

پرس (in *comp.*) asking, inquiring. - پوچه دریافت

پرستار *m* an adorer, a slave, a servant. - غلام خدمتگار

پرستش *f.* devotion act of worshipping. عبادت

پرسش *f.* inquiry, asking (generally means after asking health, etc.) پوچهنا - دریافت کرنا

پرستک } *f* a swallow. ابا بیل (ایک پرند)
پرستو }

پرستن } *inf.* to worship, to adore. پوجنا
پرستیدن }

پرست زدن *phr.* to travel to a long distance. دور تک سفر کرنا

پرسان (*v.* پرس), asking, inquiring, (used in *comp.*) as احوال پرساں inquiring after one's condition. پوچھنے والا

پرسه *f. n.* condolence. ماتم

پرسیدن *inf.* to ask, to inquire. پوچھنا

پرش to fly. اُڑنا

پر طاس *n.* name of a wrestler. ایک پھلوان کا نام

پرطوطي *m.* the ninth sky, on which there are no stars. نواں آسمان جسمیں ستارے نہیں هیں

پرکار *a.* thick, coarse, fat, efficient, well-executed. موٹا - گف - دانا - عیار

پرکاله *m.* a spark, pane of glass, piece, part, portion. حصه - ٹکڑا - چنگاري

پرگار *f.* a pair of compasses, circle, necklace, time epoch. دوشا خه لوھے کا قلم جسے دائرہ کھینچتے هیں - حلقه - طوق - زمانه

پرگار جنبش بذیر *m.* heaven, sky. آسمان

پرگنه *m.* an inferior division of a country (less than a ضلع), nearly equalling a barony, the largest division of land in a *zamindari.* ایک حصه ضلع کا

پرن *n.* the wain, Ursa Major. پروین - جھمکه

پرنیان *m.* a kind of fine painted silk (from China), also garments made of the same. ایک قسم کا پھولدار کپڑا

پرنیاني بنفش *m.* blue cloth, blue coat. جامه کبود رنگ

پرند *f.* a bird, plain silk, sword, temper (of a sword), Ursa Major. چڑیا - سادہ - ریشم - تلوار - جوھر - (تلوار کي) - جھمکه

پروا *f.* care, concern, anxiety, vexation, inclination, affection, concupiscence, desire, rest, quiet, power, attention, fear, need خبر داري - آرام - طاقت - توجه - رغبت - فراغت - فرصت - خوف - دھشت - احتیاج - التفات - پرورش

پرواري *n.* a fat animal, *a.* greasy, fat. موٹا جانور - چربي دار

پرواز *n.* flying, flight, to sacrifice one's money. اُڑنا - زرنثار کرنا

پرواز براشتن شب *phr.* passing of the night رات گذر جانا

پروانگي *f.* command, order, permission. - حکم اِجازت

پروانه *m.* a grant, or letter, under a great seal, from any man of power to a dependant, an order, a pass, licence, leave, command, a precept, warrant, butterfly, a moth. حکمنامه - حکم - چراغ کا پتنگا - اُڑنیوالا کیڑا - تتلي

پرور (in *comp.*) a patron, protector, nourisher, cherisher, educated, cherished as غریب پرور cherisher of the poor. پالنے والا

پروردگار *m.* the cherisher, an epithet of the Diety. پالنے والا - خدا تعالی

پروردہ bred, reared, brought up (used substantively) a slave, a protegē پالا هوا

پروردن *inf.* to cherish, rear, foster. پالنا

پروز *f.* border (tacked to the outer part of a garment), flouncing سنجاف (دامن کي)

پرویز *a.* victorious, *m.* name of the king of Khusru who was the grandson of Nausherwan and lover of Shirin, (in Pers.) fish, sieve. فتحمند - شاہ خسرو کا نام جو نوشیروان کا پوتا اور شیرین کا عاشق تھا - (فارسي میں) مچھلي - چھلني

پروین Ursa Major. ستاروں کا نام جنھیں عربي میں ثریا اور هندي میں جھمکه کہتے هیں

پرہ *n.* line, rank, file (of troops), garment, edge, on the right hand side, nostril, a grindstone, the block over which a well-rope traverses. لشکر کي صف - دامن - طرف - هر چیز کا کنارہ جانب راست ناک کا نتھنه - چکي کا ایک پاٹ - گراري (کنویں کي)

پرھما *n.* an ornament put on a turban. کلغي

پرۂ بیني *m* nostril. ناک کا نتھنه

پرهیز *m.* abstinence, forbearance, continencē, control of the passions. بچنا گناہ یا کسي چیز سے

پرهیزگار *m* one who controls his passions. abstinent, temperate. هر بري بات یا گناہ سے بچنے والا

پرهیزیدن *inf.* to abstain from, to shun, to save from, to hate. پرهیز کرنا - گناہ سے بچنا

پري خواں *m* a magician, a charmer, one who can control a Jin (genius), one who calls spirits from the vasty deep. - منتر جاننے والا وہ جسکے حکم میں جن هو

پریدن *inf.* to fill, to satisfy, to cram. - بھرنا پر کرنا

پریدن *inf.* to fly, to soar on the wing, to boast, to be proud, itching (of an eye). اُڑنا - فخر کرنا - تکبر یا غرور کرنا - آنکھه کا پھڑکنا

پریروز } پریر } *adv.* day before yesterday. پرسون کا دن

پریشب *adv.* night before yesternight. پرسون کي رات

پریشیدہ *d. a.* dispersed, scattered. پراگندہ

پرانیدن *v.* to cause to be dressed or cooked. پکوانا

پزاوہ *f.* a brick-kiln. پجاوہ - اینٹ پکانے کا آوہ

پزشک *m.* a physician, a doctor, a surgeon. طبیب - جراح

پژمان *a.* withered, gloomy, sad. مرجھایا ہوا - غمگین - اُداس

پزیدن *inf.* to cook, to dress. پکانا

پژ مردن *inf.* to wither, fade, decay. مرجھانا - کمھلانا

پژمردہ *a.* withered, faded, drooping. مرجھایا ہوا - کمھلایا ہوا

پژوہش *n.* investigation, search, intention, trace, mark. تلاش - قصد - کھوج

پژوہندہ *m.* a spy. جاسوس

پژوهیدن *inf.* to search, to investigate, to be careful. کھوجنا - ڈھونڈھنا - تلاش کرنا

پس *a.* after, behind, at length, then, therefore, finally. تب تو - اسلئے - آخرش - پیچھے

پس آوردہ *n.* step-son. سوتیلہ بیٹا

پس انگندہ *n.* remnant, fragment, excrement, dung of any animal. بچا ہوا (کسي چیز میں سے) - گوبر یا بیٹ

پس انداز *n.* savings, something laid up to provide for old age or want of employment. مایہ - ذخیرہ

پست *n.* below, low, mean. نیچا - کم رتبہ - کمینہ

پستان *m.* the breasts, bubbies. چھاتي - چوچي

پستہ دہاں *m.* mouth of a mistress معشوق کا دہن

پستي *f.* inferiority, lowness. نچائي - کمینہ پن

پس خوردہ *m.* leaving (of good), dregs, offal بچا ہوا کھانا

پس خیز *m* a new wrestler.

پس خم گرفتن } پس سر کردن } *id.* turning away one's face, deserting, abandoning. رو گرداني کرنا

پس خم زدن *id.* to flee, to run away. بھاگ جانا

پسر *m.* a boy, a child, a son. بیٹا - لڑکا

پسراک *m.* mule. خچر

پس رو *m.* a follower, dependant, train, equipage. پیچھے چلنیوالا

پس فردا *adv.* the day after to-morrow. پرسوں کا آنیوالا دن

پس کار نشستن *id.* to give up one's idea or plan; to give up one's intention. اپنے مطلب کا ترک کرنا

پسندیدن *inf.* to approve of, to choose, to select, to single out, to be agreeable پسند کرنا

پسندیدہ *a.* approved of, selected, chosen, agreed to. برگزیدہ - چنا ہوا

پسند choice, approbation, (in *comp.*) agreeable to, pleasing as دلپسند pleasing the heart. اپني خوشي

پس و پیش *lit.* behind and before, evasion, prevarication, hesitation, reflection, thought. سوچ - بچار - فکر

پسیچ *m.* intention, wish, provision for a journey, *adj* ready, prepared. - ارادہ - قصد - تیار

پسیچیدن *inf.* to intend, to resolve. - ارادہ کرنا - قصد کرنا

پسین *a.* last, posterior, modern. پچھلا

پشت *f.* ancestry, a generation of progenitors, the back, a second, an assistant, power. اولاد - پیٹھہ - قوت - مددگار

پشتارہ (*cont.* of پشتوارہ), *m* a load, burden for carrying on the back. پشتوارہ مخفف ہے بوجھہ کا - اسقدر بوجھہ کہ پیٹھہ پر اُٹھا سکیں

پشت پناہ *m.* a helper, supporter, an ally. حمایت کرنیوالا

پشت چشم نازک کردن *id.* act or seeing with a coquettish eye, negligence, inadvertency, being absorbed, as in sleep. معشوق کا ناز اور غرور سے دیکھنا - تغافل کرنا

پشت دادن *id.* to flee, to run away, (*lit.*, turn one's face, "terga dare.") بھاگ جانا

پشت دست بر زمیں نہادن } پشت دست بر زمیں گذاشتن } *id.* to implore earnestly, to supplicate, to beg humbly for, to beseech. کمال عاجزي کرنا اور زاري اور منت کرنا

پشت دست خائیدن *id.* to feel sorry for, to repent, to show penitence. - افسوس کرنا - ندامت کا اظہار کرنا

پشت زدن *id.* to reject, to abandon. رد کردینا کسي چیز کا

پشت شکستن *id.* to be destroyed, to be perished. ہلاک ہونا

پشت شیر *m.* a lion, the sign or constellation Leo (in astronomy). برج اسد

پشت گرمي *n.* help, power, strength. - مددگاري - تقویت

پشت گرم شدن *id.* to get power and strength. زور اور طاقت پانا

پشت ماهي *f.* night. رات

پشت نمودن *v.* to flee, to run away. بھاگ جانا

پشتہ *m.* a buttress, a prop, a bank, a quay, a hill, an eminence, heap, load, a bundle. تودہ - ٹیلا - ڈھیر - کنارہ - پہاڑي - بوجھہ

پشتي *m* backing alliance, aid, a prop, the cover of a book. مدد - پرورش

پشتيبان *m*. an ally, a supporter. مددگار - سهارے دينے والا

پشک } *m*. the dung of camels, goats, deers,
پشکل } rats, etc. اونٹ - بکري - هرن - چوهے کي مينگني

پشک *f*. a cat. بلي

پشکال *n*. the rainy season, monsoon. برسات

پشم *f*. wool, hair (*pubes tum maris tum fœminæ*). اون

پشم در کلاه داشتن *id* to boast of one's riches, to keep one's respect well established, to be highly esteemed دولت کا غرور کرنا - عزت کا قائم رکهنا

پشم در کلاه نداشتن *id* to be poor, indigence, badness, evil, ruination. حقير - خرابي

پشم دين } these words are spoken in great
پشم تلي } contempt of an adversary. يهه لفظ حقارت اور ذلت کے وقت کهتے هيں اور ان ناموں سے پکارتے هيں

پشم کشيدن *id*. to destroy, to kill. کسي کو هلاک کرنا

پشمک *n*. a kind of sweetmeat. ايک قسم کي مٹهائي

پشمينه *a*. woollen, made of wool. اون کا کپڑا

پشنگ *m*. man's name, the father of Afrasiyab who was a wrestler. افراسياب کے باپ کا نام جو پهلوان تها

پشه *m*. mosquito, gnat, fly. مچهر

پشيز } *n*. a small piece of money, the
پشيزه } fourth or eight part of a pice. دمڑي يا ادهي - ايک پيسه کا چوتها يا آٹهواں حصه

پشيمان *a*. ashamed, abashed, disgraced, penitent. پچهتانے والا - شرمنده

پشيماني *f*. regret, penitence, remorse. - پچهتاوا شرمندگي

پشين *n*. the name of Kaikbad's son. کيقباد کے بيٹے کا نام

پف *f*. act of blowing, a puff, a blast, to puff. پفر پهونکنا

پک *a*. artless, self-complacent, self-conceited, headstrong, opiniouative. بے هنر - خود پسند - خودرائے

پکوک *m*. a hammer هتوڑا

پگاه *f*. dawn of day, morning, twilight پگه is the contracted form of پگاه. صبح - سحر

پلارک *f* a well-tempered sword تلوار جوهر دار

پلاس *n*. a very coarse cloth, fraud, deceit. بهت موٹا کپڑا - مکر - حيله

پلاو (properly پلاؤ), *m*. a kind of dish made up of rice, spices, and flesh or fowl. ايک مشهور کهانا

پلپل *m*. pepper. کالي مرچ

پلچي *m*. a money-lender. صراف

پل شکستن *id*. to deprive one (of something), to drown. محروم کرنا - غرق کرنا

پلغته *n*. spark (of fire). آتشپاره - چنگاري

پلگان *n*. a ladder, stairs, step. سيڑهي - زينه

پلنگ *m*. a tiger, a panther, a leopard. شير

پلنگ افگن *m* tiger-killer, a fierce warrior. شير مارنے والا - سخت لڑنيوالا

پلنگر *n*. name of an Ethiopian prince who was slain by Sikandar. زنگيون کے شهزادے کا نام جو سکندر کے هاتهه سے مارا گيا

پله *m*. a side (as of scales), cross pieces forming steps, rank, dignity. - ترازو کا پلڑا سيڑهي کا ڈنڈا - درجه - مرتبه

پليته *m*. a match (of a gun, a candle). چراغ کي بتي - بٹي هوئي

پليد *a*. polluted, unclean نا پاک

پناه *f*. shade, shelter, protection, asylum, refuge. بچاؤ - بچنے کا ٹهکانا

پنبه *m*. cotton. روئي

پنبه بگوش *a*. (*lit*. having cotton in the ear), deaf. بهره جو سن نه سکے

پنبه دهن *a*. silent in company, taciturn, mealy-mouthed. کم گو - کم سخن آدمي

پنبه کردن *inf*. to soften, to humble. - نرم کرنا عاجز کرنا

پنجم *a*. the ordinal of five, *n*. a fifth part (⅕). پانچواں

پنجاه *a*. and *n*. five and tens, five times ten, fifty. پچاس

پنجاهم *a*. the ordinal of fifty, *n*. a fiftieth part. پچاسواں

پنج ارکان *n*. the five fundamental points of Mahomedanism, *i. e*., 1. کلمهٔ طيبه the confession of faith that "there is no God but the true God, and that Mohammad is his apostle," 2. نماز Prayer, under which are comprehended those washings or purifications which are necessary preparations required before prayer, 3. روزه Fasting, 4. زکوة Alms, 5. حج the pilgrimage to Mecca. پانچ باتيں جنپر اسلام مبني هے - يعني کلمه طيبه - نماز - روزه - حج - زکوة

پنج پا } *m*. a crab. کيکڑ
پنج پايه }

پنج حس *n.* the five senses : sight, hearing, taste, smell or touch. پانچ قوتیں دریافت کرنیکي سننا - دیکھنا - سونگھنا - چکھنا - چھونا

پنج دعا *n.* five certain stated times of prayer, *i e*, In the morning, before sunrise, 2. When noon is past, and the sun begins to decline from the meridian, 3. In the afternoon, before sunset, 4. In the evening, after sunset, and before day be shut in, and 5. After the day be shut in, and before the first watch of the night. پانچ وقت کي نماز يعني ا فجر - ۲ ظهر - ۳ عصر - ۴ مغرب - ۵ عشا

پنج نوبت زدن *id* to display one's pomp and grandeur, pomposity, ostentation, vainglorious show.

پنج و چهار *n.* the nine heavens. نو آسمان

پنجره } پنجر } *m.* a cage, a trap. درندوں و پرندوں کے رهنے کا گهر

پنجشنبه *n.* the fifth day of the week, Thursday. جمعرات

پنجه الماس } پنجه کش } *m* an iron instrument resembling a hand, with which wrestlers exercise themselves by locking their fingers into those of the instrument. فولادي پنجه جس سے کشتي گیر کثرت کرتے هیں

پنج عیب شرع *a.* very vicious (possessed of five vices, *i. e*, robbery, adultery, gaming, drunkenness, falsehood.) بڑا بد - نهایت هي نکما

پنجه ماه *n.* Joseph (in Yusuf Zuleika). (حضرت یوسف سے (یوسف زلیخا) مراد هے

پند *m.* advice, admonition, moral maxim. نصیحت - بهلائي کي بات

پندار (root of پنداشتن), *m.* thought, imagination, pride, self-opinion (in *comp.* imagining, etc. غرور - سمجهه - توقع

پنداشتن *v.* to recognise, to know, to apprehend. پهچاننا - معلوم کرنا

پنهان *a.* secret, hidden, concealed. - پوشیده چهپا هوا

پوت *f.* the liver of a sheep. بکري کي کلیجي

پوچ *a.* absurd, obscene, inordinate, impudent, foolish. بیوقوف - بیهوده - نالائق

پوخ *n.* human excrement گوه

پود *n.* warp, web, cloth in the loom. بانا بنے کا سوت

پور *m.* a son, a Raja of Kanauj who had fought with Alexander the Great in Lahore, a partridge, a fool. بیٹا - راجه کنوج کا جو لاهور پر سکندر اعظم سے لڑا تها - تیتر - بیوقوف

پور بیچاره رنگ *m.* the sun آفتاب

پوز *m.* the lip of a horse, nose and face of a quadruped. گهوڑے کا هونٹ - چوپایوں کا ناک اور چهره

پوزش *m.* excuse, plea. عذر - معذرت

پوست *m.* crust, skin, rind, poppy plant, backbiting, evil-speaking. - چهلکا - غیبت بد گوئي

پوست تخت *m.* a fakeer's bedding which may be a dear or tiger's skin. فقیرونکا بستر جو شیر یا هرن کي کهال کا هوتا هے

پوست کا دیدن *id.* to divulge one's secret, to reveal, to disclose a mystery. بهید ظاهر کرنا

پوست کندن *id.* to disclose a hidden fault, to publish one's defects. کسي کا عیب ظاهر کرنا

پوستین *a.* leathern (garment), a fault, to blemish, backbiting. کهال کا کرتا - بدگوئي کرنا

پوستین دریدن *id.* to find fault with. عیب جوئي کرنا

پوستین باز کردن *id* to bare, to uncover. ننگا کرنا

پوسیدن *v.* to become very old. پرانا هونا

پوش (in *comp.*) covering, wearing, a cuirass, armour, coat of mail, *interj.* keep away ! غلاف - زره - جوشن - الگ هو جاؤ

پوشا نیدن *v.* to clothe, cause to be dressed. کپڑا پهنانا

پوشش *f.* dress, garment, vestment, concealing, covering. لباس - ڈهانکنا

پوشیدن *inf.* to conceal, to hide, to cover or veil over. پهننا - چهپانا

پوشیده *a.* concealed, covered, sometimes it means robe of honour, a fowler's net چهپا هوا - خلعت - دام صیاد

پوشیده چشم *a.* blind. اندها

پوطه دار *m* a treasurer. خزانچي

پولاد *m.* steel in general, the finest Damascus steel which, with that of *Kum*, is esteemed the best in the East. ایک قسم کا نهایت سخت لوها

پول سیاه *m.* pice, a copper coin. تانبے کا پیسه

پوئیدن *inf.* to run, to wander, to search. دوڑنا - تلاش کرنا

پوئنده *m.* a runner, a swift runner, a fast goer. دوڑنے والا - تیز قدم

پویه *m.* a canter or hand-gallop. گهوڑے کي چال جو نه تیز هو نه آهسته هو

پوے پوے *inter.* walk fast ! run fast. - تیز چل جلدي دوڑ - جلدي چل

په په *inter*. bravo ! bravo ! O God ! O Holy God. واہ واہ - سبحان‌الله

پهلو *a* valiant, brave, a man of position and rank, name of the son of Sam, the son of Noah, advantage, gain, benefit. - مرد شجاع دلاور - صاحب جا و مال - نام نوح کے پوتے کا - فائدہ

پهلو تهي کردن *a*. to refuse, to decline, to evade. اِنکار کرنا - بات سے پھر جانا - کنارہ کرنا

پهلو دادن *inf*. to help, to assist. مدد دینا

پهلوان *m*. a hero, a champion, a stout fellow, a wrestler, powerful. طاقتور - بہادر - سورما

پهلو خوردن *phr*. to suffer trouble, to be afflicted. صدمہ أٹھانا

پهلوزدن *id*. to vie with, to compete with برابری کرنا

پهلو نهادن *id*. to go to sleep. سورهنا

پهلوي *a*. of or relating to a hero, *n*. the language of Persia in its transition from the Zand to that now spoken فارسي کي سات زبانوں میں سے ایک کا نام

پهن *m*. width, breadth, ampleness, *adj* wide, widely, extensive. فراخ - چوڑاؤ - وسیع

پهن کردن *inf*. to widen, to make broad, to expand. کشادہ کرنا

پي *m*. the foot, the heel, footstep, a nerve, tendon, sinew, trace, sign, power, *prep*. for, after. پانوں - کھوج - پٹھا - واسطے

پياپي *adv*. step by step, successivety. - پے درپے لگاتار

پيام *n*. a message, news, advice, intelligence. خبر - کچھ بات کہلا بھیجنا - صلاح

پيادہ *m*. a footman, a foot soldier, a pawn at chess, a species of foot soldiers employed as servants or attendants : they are armed with swords and targets and sometimes carry matchlocks. پیدل چلنے والا - شطرنج کا مہرہ

پيچاک *a*. curling, twisting, coiling looks (of hair), a ringlet, a curl.

پيچش *f*. inflection, contortion, writhing, trouble, perplexity, pain in the bowels, *tenesmus*, gripes, circumvention, contention. پیچتاب - مروڑا - تکلیف

پيچيدن *inf*. to wrap up, to fold, to enclose, to pack, to cling, to stick, to adhere. لپیٹنا - لپٹنا

پيچيدہ دست *a*. weak, impotent. کمزور

پنچال *m* dung of birds پرندوں کي بیٹ

پيخته *m*. flour of the finest kind. میدہ

پيداوار produce of a field, fruit, profit of trade, etc. فصل کي پیدا - حاصل - پھل

پير *m*. an old man, a saint, spiritual guide. بوڑھا - بڑي عمر کا آدمي

پيرانا سري *n*. old age. بڑھاپا

پيراستن *inf*. to adorn, to decorate, to pare, to cut, to lop off آراستہ کرنا - کسي چیز کا کاٹنا یا تراشنا - بالوں کا کاٹنا - ناخن کا تراشنا - درخت کي شاخیں چھانٹنا

پيرامون / پيرامن } *m*. a circuit, circumference, environs, adjacent places, the skirt, lappet or flap of a garment, *adv*. about, around. اِرد گرد - آس پاس

پيرايہ *m*. ornament, garments decoration. آرایش - لباس - زیور

پيرزال / پيرزالہ / پير زن } *f*. an aged woman. بوڑھي عورت

پير سال *n*. an old man or woman. بوڑھا - بوڑھي

پير سرانديپ *m*. Adam. حضرت آدم

پير کنعان *m* Jacob. حضرت یعقوب

پير مغان *m*. a fire-worshipper, a mistress. پوجاري (آگ کا) - معشوق

پيرو *m*. following, follwer. مرید

پيروز *a*. victorious. فتحمند

پيروزہ *m*. a turquoise stone, used as a talisman for bringing the wearer good luck. فیروزہ - ایک قسم کے نیلے رنگ کا پتھر

پيزنہ / پيزن } *m*. a sieve, a riddle. چھلني

پيس *n*. the leprosy. برص - کوڑہ

پي‌سپران *n*. a traveller, cast-out, rejected. مسافر - پائمال لوگ

پيسہ *a*. gray, piebald, leprous. سیاہ و سفید ملا هوا - ابلق - مبروص

پيش *m*. before, front, promoted, advanced respected, confided in, possessing influence, the vowel point (ﻭ) called *zamma* by the Arabs is named *pesh* by the Persians and people of India, (as a *prep*) before, in front of. آگے سامنے

پيشاني *f*. the forehead, the brow, hardship, shamelessness, sauciness, ability, civility, politeness, amplitude, ease, luck. - ماتھا بھوں - سختي - بےشرمي - شوخي - لیاقت - شایستگي - وسعت - فراخي - قسمت

پيش آمد *n*. treatment, concession, access, admittance. سلوک - رعایت

پيش آهنگ *m*. a leader of an army or a caravan. ۲۰ شخص جو لشکر اور قافلہ کے آگے آگے چلے

پیش بیں *a.* prudent, wise. عقلمند

پیش خیز *m.* a clever servant, the first sound of a tune. چالاک نوکر - اور راگ کي شروع آواز

پیش دنداں *n.* some thing eaten in the morning to break a fast. قلیل مقدار چیزیں جس سے صبح کو نہار توڑیں

پیش دامن *m.* a servant. نوکر - خادم

پیشدستي *f.* excelling, surpassing, pre-eminence, pre-excellence. نیابت - سبقت کرنا

پیشدست *a.* surpassing, one who excels, *m.* a deputy, viceregent, lieutenant, assistant. سبقت لیجانیوالا - پیشکار نائب - مددگار

پیش رو *m.* precursor, advanced guard, a tune. آگے چلنے والا - آواز راگ کي

پیش قبض *m.* a kind of dagger, a play. مشہور هتھیار کا نام

پیشکار *n.* deputy, agent, assistant, a minister, a manager. سامنے کام کرانیوالا نوکر

پیشکش *m.* a present, an offering, a tribute, a fine, tribute or quit-rent paid to government as an acknowledgment for any tenure. نذر - تحفہ

پیش کشیدن *id.* to be angry, to get into a temper. غصہ کرنا

پیشگاہ *f.* a portico, an assembly. مکان کا صحن

پیش نہاد *n.* intention, resolution, heart's desire. ارادہ

پیشوا *m.* a leader, a guide, a title of the Marhatta minister. رهنما - هادي

پیشواز } پیشباز } *f.* a gown, a female dress, *m.* one who receives or entertains a stranger or a guest, receiving, entertaining. ایک قسم کا جامہ جو عورتیں پہنتي هیں - استقبال کرنیوالا - استقبال کرنا

پیشوائي *f.* office of *peshwa*, the honourable meeting and reception of a visitor. کسي کے آگے اُسکے لانے کو جانا یعني استقبال کرنا

پیشین *a.* anterior, ancient, prior, former, *m.* the afternoon prayer. اگلا - نماز ظهر کا

پیشینہ *a.* the first, the former. اگلا - پہلے والا

پیشینیاں *pl.* the ancients. اگلے زمانے کے لوگ

پیغام *m.* a message. پیام - سندیسا

پیغمبر *m.* a prophet, a messenger, an apostle. پیام لانےوالا

پیغارہ *m.* taunt, sarcastic, remark, reproof, rebuke. سرزنش - طعنہ

پیغالہ *m* a cup of wine. شراب کا پیالہ

پیغرر *m.* small mouth, a small jar. - دهن تنگ چھوٹا مرتبان

پیغولہ *m.* corner, corner (of the eye). - کونہ گوشہ - گوشۂ چشم

پیک *m.* a messenger, a runner, a watchman employed as a guard at night, likewise a footman or runner employed on the business of the lands. قاصد - نگہبان

پیک ملک سرمد *m.* the angel Gabriel. جبرائیل فرشتہ

پیکار *n.* war, battle, contest. جنگ - لڑائي

پیکان *f.* the head of an arrow or javeline, also any pointed missile, (*plur.* of پیک) armed militia or watchmen; also revenue of lands of their maintenance. تیر یا برچھي کي پھال

پیکر *m.* face, countenance, visage, form, appearance, a portrait, likeness, used in *comp.*, it denotes similitude as کوہ پیکر like mountain, *instar montis*. - شکل - جسم - شبیہ مانند

پیل *m.* an elephant, name of the bishop at chess, a leather bag. - هاتھي - شطرنج کا مہرہ چمڑے کا تھیلا جو اسباب رکھنے کیواسطے گھوڑے پر رکھتے هیں

پیل افگندن *id.* to overcome, to over-power, to humiliate. غالب آنا - عجز کرنا

پیل بالا this word means, equal to an elephant (in size or stature) هاتھي کے قد کے برابر

پیلبان *m.* an elephant driver or keeper, one who has the charge of elephants. هاتھي کا نگہبان - هاتھي کا هانکے والا

پیلبند *m.* a term used at chess to express that a bishop and two pawns mutually support each other. شطرنج کے کھیل میں ایک بند کا نام

پیلپا *m.* name of a disease called elephantiasis, a goblet, an iron mace or club, big medicine box, arms of the Ethiopians. ایک بیماري کا نام - صراحي - لوهے کا گرز - دواؤں کا ڈبہ - زنگیوں کا هتھیار

پیلپایہ *m.* (an elephant's foot) hence a pillar, a column. کھم - ستون

پیلتن *a.* having the body like that of an elephant, gigantic, powerful, strong, a title of Rustum. قوي - لقب رستم کا

پیل را هندوستان یاد دادن *phr.* to intoxicate or make an elephant lustful. هاتھي کو مست کرنا

پیل مال *n.* to get one trampled under the foot of an elephant, (with an *izafat*) an elephant loaded with some goods, etc. کسي کو هاتي کے نیچے کچلوانا اضافت سے هاتھي لدا هوا مال و اسباب سے

پیلہ *n.* a silk worm, the silk worm's cone or envelope. ریشم کا کیڑا - ریشم کا کویار

پیلہ ور *m.* a pedlar, a druggist, silk-seller. عطار - شیشہ گر - ریشم بیچنے والا

پیل مرغ *m.* a turkey fowl. ایک قسم کا مرغ

پیمانہ *m.* a goblet, a certain measure for goods, dry or liquid. ناپ - پیمانہ کا آلہ

پیمان *m.* a promise, agreement, treaty, confirmation, security, an oath, asservation, convention, compact. وعدہ - عہد - شرط

پیمانہ پر شدن *id.* the ending of one's age, to die. عمر کا آخر ہونا

پیمایے } *f* measuring, the measure or
پیمائش } survey of a country, measurement or allotment of lands. ناپنا - ناپ

پیمودن *inf.* to measure, to survey. ناپنا

پینو *n.* curds. دھي

پیوستن (*r.* پیوند), to join, unite, tie. ملنا - ملاٹا - مضبوط ہونا

پیوند *m.* junction, conjunction, connection, a relative or kindred, a patch, a graft or bud. ملا ہوا - پیتّھا ہوا

پیہہ *f.* grease, tallow. چربي

پیہہ گرگ بر پیرہن مالیدن *id* to deceive, to cheat. to defraud. مکر فریب ودغا کرنا

پیہم *adv.* thickly, close, together, successively. برابر - لگاتار

— ت —

ت *ta* or *te*, the third letter of the Arabic and the fourth of the Persian alphabet. In numeration by ابجد it stands for 400.

تا *n.* soft dust. نرم خاک

تا *prep. adv.* and *conj.* to, until, so far as, in order that, so that, even so, to the end that, in such a manner that, a sheet of paper, ever, at any time, on any account, never, *contr.* of تار Beware ! (conditional) if, instantly, duration of time, yet, still, till, now, hitherto, beginning, end. - تاکہ اسي تک - گنتي میں جیسے دوتا - کاغذ کا تختہ - ہرگز - زنہار - مخفف تار کا - تنبیہ کا حرف واسطے خبر دار کرنے کے - شرط کا کلمہ (اگر) - ابتدا و انتہا کے معني بھي آتا ھے - اسي وقت - اسي دم

تاب *f.* power, heat, endurance, brooking, twisting, rage, fury, light, splendour, contortion, twist, light or shine, thou ! - طاقت گرم - برداشت - رونق - روشني - پیچیدگي - صیغہ امر کا بھي ھے بمعني دور - لپیٹ - روشن کر - چمک

تابان *a.* resplendent, splendid, glittering. چمکدار - چمکنے والا

تابدان *m.* a lattice, a skylight, a window of coloured panes of glass, it is generally of carved wooden work, with small variegated panes inserted in the open interstices. روشندان جو حجرے میں ہوتا ھے

تابخانہ *m.* warm bath, a bagnio, a cookroom. حمام - باورچي خانہ

تابستان *m.* the hot weather, summer. - گرمي موسم گرما

تابش *f.* heat, brilliancy, splendour, strength. گرمي - چمک - طاقت

تابع *a.* dependant, subject dutiful, obedient. نوکر - ماتحت - فرمانبردار

تابعین } *m.* (*pl.* of تابع) followers, attendants,
تابعون } the term is applied *par excellence* to those Musalman doctors who followed the immediate, اصحاب or companions of the prophet *Muhammad.* جمع تابع - بمعني فرمانبردار کي اور اصطلاح محدثین میں وہ مسلمان لوگ جنھوں نے اصحاب حضرت محمد سے ایک یا زیادہ سے ملاقات کي ھو

تابناک *a.* resplendent, glittering, shining, bright. روشن - چمکدار

تابندہ *a.* shining. چمکنے والا

تابندہ ھور *m.* the sun, in Sikandarnam, it means Alexander.

تابوت *m.* coffin, a bier, the ark of the covenant presented by God to Adam, and which (according to the *Musalmans*) contained the portraits of all the prophets. مردہ کا صندوق

تابہ *m.* a frying pan, a skillet, a plate of thick iron to cook breads. توا (ھندي)

تابین *n.* act of following or going after. کسي چیز کے پیچھے جانا - پیروي کرنا

تابیدن *inf.* to shine, to glitter. چمکنا

تاتار *n.* Tartary. ایک مشہور ولایت کا نام

تاتق to be anxious, to possess bad habits. آرزو مند ہونا - بدخو ہونا

تاتورہ *m.* the name of a plant Datura, or thorn-apple. دھتورا

تاثر *m.* penetration, passing through, impression. اثر قبول کرنا

تاج خروس *m.* the cock's-comb, a crest, the comb of a bird, a flower (Amaranthus, or Celosia). مرغ کا کیس - سرخ پھول جسے کلغہ کہتے ھیں

تاج بخش *m.* a great king, an emperor, one who gives away crowns, a king - تاج دینیوالا - بادشاہ تاجدار - شہنشاہ یا بڑا بادشاہ

تاجر *m.* a merchant, a trader. سوداگر

تاج شمع *m.* a flame (of a lamp). لو چیراغ کي

تاجک } تاجیک *m.* a man born in Arabia and bred in Persia, such people are often merchants for تاجک also means a servant. وہ ادمي جو عرب میں پیدا ھوا ھو اور فارس میں پرورش پائي ھو - اِسطرح کے لوگ اکثر سوداگر ھیں

تاجیج to extinguish a fire, to put out a flame. آگ کا شعلہ مارنا

تاجور *m.* a prince, a king. پادشاہ

تاجوري *f.* kingdom, royalty, sovereignty. بادشاھت

تاجیل *f.* retarding, deferring, respite, time, leisure. مہلت دینا

تاخت *f.* assault, attack, incursion, invasion. حملہ

تاختن *inf.* to assault, to rush upon, to plunder, to invade, to gallop or run fast. حملہ کرنا - دوڑنا - غارت کرنا

تاخر *m.* delay, retarded, postponed, following. دیر کرنا - پیچھے ھونا

تاخیر *f.* delay, procrastination, impediment. دیري - دیر کرنا

تادب *m.* act of teaching a language, respecting, honouring. زباندانيسکھانا - ادب اختیار کرنا

تادیب *f* correction, chastisement, amendment, erudition, (in law), a notice or summons. - ادب دینا - علم زبانداني سکھانا تھیک کرنا

تار *m.* a thread, warp, a wire, the string of a musical instrument, a note in music. dark, obscure, also darkness, abscurity, parting of the hair. ڈورا - سوت - تانا - تار (لوھے - تانبے وغیرہ کا) تاریک - مخفف تاریک کا بمعني مانگ (سر کي)

تارات (changed form of تاراج), plunder, depredation, devastation. لوت - غارت

تارک *m.* a deserter. چھوڑنیوالا

تاک *m.* the crown of the head, parting of the hair, a hill, heap, head, top, summit مانگ - چاند (سر کي) پھاڑي - ڈھیر

تار کش *m.* a wire-drawer. تار کھینچنیوالا

تار سا *a.* confounded, agitated. پریشان - پراگندہ

تار و پود *m.* warp and the woop. the thread extended lengthwise and crosswis in a loom. تانا بانا

تاریخ *f.* date, era, annals, history. کسي چیز کا وقت ظاھر کرنا - کسي واقعہ کا علم - مھینے کا کوئي دن

تاریک چشم *a.* blind, dim-sighted. اندھا - دھندلا دیکھنے والا

تاز (*r.* of تاختن), running, race, assault. حملہ - دوڑ

تازش *f.* attacking, invading, running. حملہ کرنا دوڑنا

تازہ دماغي *f.* cheerfulness, wisdom, happiness. دانائي - خوشحالي

تازگي *f.* freshness, plumpness, fatness, tenderness, greenness, pleasure. - تازہ ھونا - تازہ پن خوشي

تازي *a.* Arabian, the Arabic language, Arabian (horse), a greyhound. عربي زبان - عربي گھوڑا - عرب کا آدمي - کتا شکاري

تازیان *n.* the Arabians, the runners. عرب کے لوگ - دوڑنیوالے

تازیانہ *m.* a whip, a scourge. کوڑا - چابک

تازیدن *inf.* to run, to rush upon. دوڑنا

تاسا } تاسہ *n.* grief, sorrow, sadness, uneasiness, restlessness. - اندوہ - ملال بیقراري

تاسع *a.* the ordinal of nine, *n.* a ninth part نواں - یعني ($\frac{1}{9}$)

تاسف *m.* brooding over affliction, pining, lamenting, grief, regret. - افسوس کرنا افسوس

تاسي *f.* act of following or obeying. اطاعت و پیروي کرنا

تاش *m.* a friend, master, lord, partner. دوست - یار - صاحب - خداوند - شریک

تاشکند *n.* name of Turan. نام شہر توران کا

تاغ *m.* a mountain the elm. Tamarisk, pomegranate. پھاڑ وہ درخت جو آپ سے اُگے

تاغہ *m.* maternal uncle, husband of a mother's sister. خالو

تافتن *inf.* to shine, to twist or spin, to turn away the face. بٹنا - چمکنا

تافتہ *m.* a kind of silk, taffeta, a colour in pigeons and horses, glossy, cream-colour, twisted or spun. - ایک قسم کا ریشمي کپڑا بٹا ھوا

تاقي *f.* a kind of cap, defective (horse). having the eyes of two different colours یک قسم کي کلاہ - ٹوپي - نقص دار (گھوڑا)

تاک *f.* a vine, a creeper, grasses, a tribe inhabiting the suburbs of Delhi and Gujrat نگور کي بیل - ایک قوم کا نام جو دھلي ور گجرات کے نواحی میں پائي جاتي ھے

تاكيد *f.* confirmation, superintendence, ascertaining, injunction. بار بار كهنا - اثبات كا مضبوط كرنا

تالد *n.* old goods or property, old things. پرانا اسباب

تالف *m.* mutual love, affection, friendship. باهم الفت كرنا - محبت - دوستي

تال مال *a.* scattered, confounded, agitated, perplexed. پريشان - پراگنده

تالم *m.* melancholy, grief, torment, affliction. دردناک هونا - غمزده هونا

تاله *n.* supplication, prayer, devotion, worshipping (God). حق پرستي - عبادت اور زاري كرنا

تالي *n* adherent, follower, attendant, successor, viceregent. پيچهے چلنے والا - قائم مقام

تاليف *f.* composition, compiling, connecting, reconciling or joining in friendship. الفت پيدا كرنا - كتاب بنانا - لوگوں كے قولوں كو جمع كرنا

تام *a.* perfect, complete, full. - پورا - كامل تمام

تامل *n.* meditation, reflection, purpose. خيال كرنا - سوچنا

تاني *f.* delay, procrastination. دير - تاخير

تانس *m.* acquaintance. جان - پهچان

تانف *a.* feeling shy or modest. شرم كرنا - ننگ و عار ركهنا

تاوان *m* retaliation, recompense, debt, fine, loan, mulct. جرمانه - ڈنڈ

تاويل *f.* explanation, elucidation, interpretation, paraphrase - خواب كي تعبير كرنا صاف صاف بيان كرنا

تاهب to get ready, to be prepared - آماده هونا مستعد هونا

تاهل *m.* marrying, establishing a family. شادي كرنا - لڑكے بالوں والا هونا

تاهو *n.* a kind of wine. ايک قسم كي شراب

تائب *a.* repenting, penitent. - توبه كرنيوالا باز آنيوالا

تائيد *f.* aid, assistance, corroboration, a written voucher in corroboration of a claim. مدد كرنا

تائيدات (*pl.* of تائيد), helps, aids, etc. جمع تائيد كي بمعني مدد

تايق *a.* fond, eager, desirous. شائق - شوقين

تپ *n.* fever, restlessness, uneasiness - بخار بيقراري

تباب *n* destruction, ruin, loss. هلاكت - زيانكاري

تبادر *n.* act of running together, act of surpassing, excelling. باهم دوڑنا - كسي كام ميں سبقت ليجانا

تبادل *m.* change, alteration, substitution, difference, transposition بدل كرنا - تبديلي هوني - ايک دوسرے كے بدلے تبديل هونا

تبار *m.* people, nation, a tribe, family. خاندان - نسل - اولاد

تبار عالي شهريار *m.* a monarch of an illustrious family. شاه نامدار مشهور گهرانے كا

تبار *n.* destruction, ruin. هلاكت

تبارک *v.* blessing, being blessed, exalted, increasing, being holy. - مبارک كرنا - بلند هونا پاک هونا - زياده هونا - بزرگ هونا

تبارک used in Arabic phrases as *allahu tabaraka wa ta'ala*, God, he is, or may be, blessed and exalted.

تبارک الله Holy and exalted is God پاک اور بزرگ هے الله

تباشير *m.* the manna or sugar of the bamboo (it has been found by the analysis to contain much siliceous earth.). بنسلوچن جو بانس ميں سے نكلتا هے

تباشير *n.* beginning, commencement, origin; the first morning, the fair morning, footpath هر چيز كا اول اور شروع - اور صبح - پگڈنڈي جو راستوں ميں پيروں كے نشان سے بنجاتي هے

تباغض *v* hatred and jealousy between each other. آپس ميں بغض و عداوت ركهنا

تباهي *f.* wickedness, depravity, ruin, wreck, perdition. اجڑ جانا

تباين *n.* difference, contradiction, inconsistency, (in arithmetic) incommensurability. فرق اور تفاوت هونا - آپس ميں دو چيز كا جدا هونا

تبت يداک may both thy hands be destroyed. تيرے دونوں هاتهه برباد هوں

تتبع *m.* imitation, continuation, diligent search, exploration, following. - ڈهونڈهنا تلاش كرنا - پيروي كرنا

تبجيل *n.* act of honouring or exalting any one. كسي كي بزرگي يا عزت كرنا

تبحر *a.* profound learning, very learned, accomplished. عالم هونا - بهت علم حاصل كرنا

تبخاله *n.* small blisters on the lips through fever which is a sign of recovery. چهوٹے چهوٹے آبلے جو بخار كي گرمي سے هونٹوں پر پڑ جاتے هيں اور يهه صحت كي نشاني هے

تبختر *a.* walking very stately, coquetry, ogling. مٹک كر چلنا - ناز سے چلنا

تبدل *m.* / تبديل *f.* } change, alteration, substitution, difference, transposition. - عوض كرنا بدلنا - بدل ڈالنا

تبذیر to expend extravagantly, to scatter, growing of the grass. بے اندازہ خرچ کرنا - پراگندہ کرنا - گھاس کا اُگنا

تبر m. a hatchet. an axe. ایک قسم کي کلهاڑي

تبرزین m a horseman's battle axe. سوار کي لڑائي کي کلهاڑي

تبرزنی m. a wood-cutter, a hatchetman. لکڑھارا

تبر n. gold, silver. زر - سیم

تبرا n. hatred, displeasure, anger, bad humour. نفرت - بیزاري

تبر خون n red sandal wood. سرخ صندل کي لکڑي, some say that it is the name of a drug used for dyeing red (*Rubia munjit Voxte*). مجیٹھ

تبرزد n. white sugarcandy, white transparent-sugar. قند سفید - شفاف مصري

تبرع a. doing anything voluntarily, giving gratuitously. بخشنا کسي چیز کا - اُس کام کا کرنا جو واجب نہ ہو

تبرک m benediction, congratulation, a portion of presents (or what is left of food presented to great men, etc.,) given to their dependants, sacred relics - برکت لینا وہ چیز جس سے برکت لیجاوے

تبرکات (*pl.* of تبرک), benedictions, blessings etc پرشاد (هندي میں) رنتیں وغیرہ

تبرم to be steady or firm, to be humble, to be sad, to get tired. - استوار هونا - عاجز آنا - رنجیدہ هونا - ماندہ هونا

تبرید *f.* act of cooling, refreshing. - سرد کرنا تازگي - ٹهنڈائي

تبریز n. the city of Tabriz or Tauriz in Persia which was populated by Zubeda Khatun. نام شهر کا آذر بائیجان میں جسے زبیدہ خاتون نے بسایا تها

تبسم m. a smile, opening (of a bud). - مسکرانا کلي کا کهلنا

تبشیر a. to give a glad tiding, to give a good news. خوشخبري دینا

تبصر m. sight, distinct, perception, attentive consideration, eye-glass, a pair of spectacles. بینا کرنا - عینک

تبع (both *sing.* and *pl.*) following, obeying. پیروي کرنا

تبعل n. act of becoming a husband. شوهر بننا

تبعہ n bad result, affliction, trouble, torment, punishment. انجام بد - عذاب

تبعہ (*pl.* of تابع), obedient, dutiful. جمع تابع بمعني فرمانبردار کے

تبعید to avoid. دور کرنا

تبعیت *f.* obedience, dependence, subjection. حکم ماننا - پیروي کرنا

تبعات v. essentials, requisites, torments, punishment (of sin), pain, suffering, m. adherents, followers. لوازم کسي چیز کے - گناہ کے عذاب - دکهہ - سختي - خرابیاں - پیرو لوگ

تبلد n. idiocy, stupidity, bluntness, dull in understanding. کندذهني

تبلیغ v. act of sending or despatching a thing. پهونچانا - کسي پاس کچهہ روانہ کرنا

تبن m. a stalk (of dry grass). تنکا (سوکهي گهاس کا)

تبني *f.* adoption (of a son, etc.) - گود لینا - بیٹا بنانا

تبلق n. a bundle or file of papers. کاغذ کا پلندہ

تبور n. destruction, ruin, idleness, slothfulness. هلاکي - کاهلي

تبوک n. name of a place near Syria where went on a warfare between Mahomet and the heathens, a small tambourine. شام کے نزدیک ایک جگهہ کا نام جهاں حضرت محمد اور کافروں سے جنگ هوئي تهي - دت (ایک قسم کا باجا) جو هاتهہ سے بجایا جاتا هے

تبهہ / تبهہ کار } a. ruined, destroyed, plundered. devastated. برباد اور اُجڑا هوا

تبیارہ / تبازہ } n fever, fever and shivering, trembling, fearing. - بخار - بخار اور کانپنا ڈرنا

تبیان n. full and definite explanation of a thing, to make plain or intelligible. خوب بیاں کرنا - معنے کا روشن و آشکارا کرنا

تبیرہ n a kettle-drum. ڈهول - نقارہ

تبیرہ زن m. a drum-beater, one who beats the kettle-drum. نقارچي

تبیع m. the bullock one year old. ایک برس کا بیل

تبیین n. explanation, description, publication. بیان کرنا - ظاهر کرنا

تپ تب *f.* fever, restlessness, discomfort, uneasiness. بخار - اضطراب - بے آرامي

تپاک m. affection, esteem, regard, love, zeal, ardour, consternation, affliction, activity, alertness, nimbleness. - چالاکي گرمجوشي - محبت

ٹپانچہ *m.* a slap, *f.* wave (of a river) - تھپڑ - دریا کي موج

ٹپخ لہ *m.* breaking out on the lips after a fever, the thrush. بخار کے بعد مھنہ کا پھپھد جانا

تپش affliction, heat, warmth. گرمي - سوزش

ٹپنچہ *m. contr.* of ٹپانچہ

تپیدن *inf.* to palpitate, tremble, etc., (as a *sub.*) agitation, etc.

تتابع *p.* following, in pursuit of, intent upon دریے ہونا

تتر *n.* (*contr.* of تتار) Tartary. مخفف تاتار کا جو ترکستان میں ایک شہر ھے

تتري (*for* تاتاري), of or belonging to Tartary ملک تاتار کا رھنے والا - یا اس جگھہ کي کوئي چیز

تتق *m.* a sheet (of cloth), a big curtain. چادر - بڑا پردہ

تتماج *m.* a kind of dish. ایک قسم کا کھانا

تتمہ *m.* an appendix, supplement, continuation, remainder, balance. تمامي - بقیہ - ھرشئے کا آخر

تتمیم *f.* consummation, completion. - تمام کرنا پورا کرنا - آخر کو پھونچانا

تتن *n.* tobacco. تمباکو

تثاؤب *n.* gaping or yawning. جماھي - دھن درہ

تثاقل *a.* heavily burdened, oppressed in mind, tremulous from old age. - گران خاطر گرانبار ھونا

تثریب *f.* reproof, rebuke. سرزنش کرنا - ملامت کرنا

تثقل / تثقیل } *a.* heavily burdened, oppressed in mind. گرانبار ھونا

تثلیث *f.* trinity, dividing into three parts, trine (the aspect of the planets). تین حصوں میں تقسیم ھونا

تثمیر *p. a.* picking up fruits, to gain some thing, profit. میرہ چنا - نفع پانا

تثنیہ *m.* dual (number). دوگنا

تجار *m.* a merchant, (*pl.* of تاجر) properly "merchants," but generally used as a singlar noun (in Hindustani). جمع تاجر بمعني سوداگر کي

تجارب *n.* act of testing each other. باھم ایک دوسرے کو آزمانا

تجارب (*pl.* of تجربہ), trials, proofs, examinations. جمع تجربہ کي - آزمائیشین

تجارت *f.* trade, commerce. - سوداگري - بیوپار سودا کرنا

تجاسر *n.* boldness, intrepidity. دلیري - شوخي

تجاوز *m.* diversity, departing or deviating, offending, crossing, over (a thing), jumping over. گذرنا - حد سے گذرنا - لانگھ جانا

تجاحد *n.* effort, attempt, endeavour, exertion. کوشش کرنا

تجاھل *m.* pretending ignorance, connivance, apathy, indifference. - جان بوجھکر جاھل بننا انجان ھونا

تجبر *n.* rebellion. گردنکشي کرنا

تجدید *m.* / تجدد *f.* } renovation, renewal. نیا کرنا - نئیے سرے سے کوئي کام کرنا

تجربہ / تجربت } *m.* experiment, trial, proof, experience, assay, probation. آزمانا - آزمایش

تجربہ کار *a.* expert, conversant in. - ازمودہ آزمائش کیا ھوا

تجرد *m.* solitude, celibacy, living in solitude. ننگا ھونا - تنھائي - علیحدگي (دنیا سے)

تجرید *f.* solitude, celibacy, separation, (properly rendering solitary), nakedness. تنھائي - ننگا - مجرد کرنا

تجز *a.* steady, firm, ready, prepared آمادہ و مستعد ھونا

تجزیہ *m.* / تجزي *f.* } separating into small pieces, analysis. تقسیم اور تکڑے تکڑے ھونا

تجسس *m.* spying, exploring, search, inquiry, curiosity, inquisitiveness, espionage. ڈھونڈھنا - تلاش کرنا

تجسم *n.* act of choosing a man from the whole nation, desiring to possess a thing, becoming fat, entangling in a great work. کسي شخص کو ساري قوم میں سے برگزیدہ کرنا - کسي چیز کا قصد کرنا - کسي بڑے کام میں پڑنا - موٹا تازہ فربہ ھونا

تجشم *n.* act of suffering grief and pain. رنج و مشقت کھینچنا

تجفیف *n.* act of drying. خشک کرنا

تجلیہ act of peeling, polishing and taking off the rust of a thing, act of revealing or disclosing. چھیلنا - زنگ چھوڑنا - جلا کرنا - اشکارا کرنا اور روشن کرنا

تجلجل *n.* commotion, sinking into the earth. حرکت - ھلاڑ - تزلزل - باوہ - ھلچلي - زمین میں دھنس جانا

تجلي *f.* splendour, brilliancy, lustre, clearness, illumination, according to the Persians the divine light shed on Moses on Mount Sinai. - روشني - روشن و آشکارا ھونا جلوہ کرنا - فارسیون کے استعمال میں مراد نور الھي سے جو کوہ طور پر سے حضرت موسی پر ظاھر ھوا

تجليد *n.* act of binding a book, act of flaying (an animal). كتاب كي جلد بندهنا - كسي جانور كي كهال كهينچنا

تجمش *n.* act of shaving, love-making, a fine voice. بالونكا مونڈنا - باريك آواز نكالنا - عشق كرنا

تجمل *m* dignity, retinue, pomp, splendour, adorning. زيبائش - شان و شكوه - جمال كي آرائش كرنا

تجنب *p. a.* withdrawing, ceasing. دور هرنا - ايك طرف هونا - پرهيز

تجنيس *f.* resemblance, analogy, equivocation, punning to the eye instead of the ear. همجنس كرنا - يكسان كرنا

تجويز *f.* approbation, inquiring into, examining, considering, contrivance, sentence, judgment, trial, plan, permission جائز كرنا - رائے دينا - كوئي بات نفي اپني طرف سے نكالنا

تجويف *f.* hollowing, making concave. خالي كرنا - كهوكهلا بنانا

تجهيز *f.* burial, arranging, adorning, giving as a dowry. سامان كرنا - جهيز شادي كا دينا - مردے كا اسباب تيار كرنا

تحاب *n.* mutual love, mutual friendship. باهم محبت كرنا يا پيار كرنا

تحارب *p. a.* waging a war between each other. آپس ميں جنگ كرنا

تحاشي excepting against (any measure), by saying *hasha*, "God forbid," "by no means", to be on one side. ايك طرف هوجانا

تحاني *n.* act of becoming virtuous, act of separating from. نيك هونا - جدا هونا

تحائف (*pl.* of تحفه), rarities, curiosities, presents, choice, articles جمع تحفه كي بمعني نعمت - عجيب و غريب چيزيں - انعام

تحت الثرى *m.* under the earth. مراد زير زمين

تحت الشعاع *m.* the last 2 or 3 days of every month in which the moon does not come out, these days are counted as "unlucky days", the change of the moon, conjunction with the sun. دو يا تين روز آخر هر مهينے كے جسميں چاند نهيں دكهائي ديتا - اور يهه دن منحوس كهلاتے هيں

تحتاني (applied to letters or points in dictionaries) small, short, under. - چهوٹا - تهوڑا نيچے

تحتم *a.* proper, suitable, right. واجب هونا

تحجر *n.* act of becoming hard (as a stone). كسي چيز كا مثل پتهر كے هو جانا

تحدث *n.* act of saying something, reading a story. بات كهنا - قصه پڑهنا

تحذير *p. a.* threatening, cautioning. كسي كو ڈرانا - خوف دلانا

تحرز *p. a.* avoiding, shunning, abstaining from. پرهيز كرنا - اپنے كو نگاه ركهنا

تحرير *f.* writing correctly, manumission, emancipation, liberation, engraving (a picture), a particular vocal sound in singing, quavering. ازادي دينا - لكهنا - نغمه كي ايك قسم جسكو گٹكري كهتے هيں - نقاشي كرنا

تحرير اقليدس *n.* Euclid's Elements. نام اقليدس كي كتاب كا علم هندسه ميں

تحريك *m.* motion, movement. حركت كرنا - هلنا

تحريص *f.* stimulation, enticement, allurement. لالچ يا حرص دلانا

تحريض *n.* act of instigating one to fight. جنگ پر رغبت دلانا

تحريك *f.* movement, exciting desire, temptation, commotion, encouragement, instigation, incitement. حركت دينا - هلانا - رغبت دلانا

تحريمه *m.* the commencement of prayer, when all wordly thoughts are forbidden, assumption of a pilgrim's garb. نيت كے بعد نماز كي پهلي تكبير

تحريف *f* changing, inverting, transposing letters, forming an anagram, cutting the point of a *kalam* obliquely (*pl.* تحريفات), anagrams, changes. حروف و بدل ڈالنا - معني بدلنا

تحزيز *p. a.* sharpening. تيز كرنا

تحزن *a.* sorrowful, sad. غمگين هونا

تحسر *m.* grieving, regretting, condolence. افسوس كرنا - حسرت كرنا

تحسين *f.* approbation, applause, acclamation, commendation. سراهنا - تعريف كرنا

تحشير *p. a.* acting the miser in providing the wife and children with bread and clothing. اپنے آهل و عيال كے روٹي كپڑے دينے ميں تنگي اور كمي كرنا

تحس نحس. spoilt, broken, destroyed, unfortunate (the last part is significant, the first redundant). بگڑا هوا - ٹوٹا هوا - برباد كيا هوا

تحشيه *n.* act of writing on the margin, a marginal note. كتاب پر حاشيه لكهنا

تحصن *n.* a fortified place. قلعه بند هونا

تحصين *n.* erection of the wall round a city. گرد شهر كے ديوار كهچوانا

تحصیل *f.* collection (particularly revenues) it also denotes the district alloted to a collector, gain, acquisition, profit, attainment. حاصل کرنا

تحف (*pl.* of تحفہ), rarities, curiosities. عجیب و غریب چیزیں

تحفگي *f.* excellence, rarity, beauty, neatness, elegance. خوبي - تحفہ پن

تحقیر *f.* despising, scorn, neglect, disdain. ذلیل کرنا - حقیر سمجھنا

تحقق *m.* ascertainment, certain knowledge, verification. ثابت ہونا - موجود ہونا

تحقیق *f.* ascertaining, investigation, exactness, precision, truth, certainty, *adj.* authentic, actual, real, indubitable, apparent, indeed. دریافت کرنا - کھوج لگانا

تحقیقي *a.* sure, certain, confirmatory. حقیقت میں

تحکم *m.* commanding, ruling, dominion, power, authority, usurping authority, condemning, passing sentence. - دعوی کرنا کسي پر زبر دستي حکومت کرنا - غلبہ کرنا

تحکیم *f.* arbitration, authority. - حق بیچ بچاؤ

تحریق *a.* breaking into small pieces, splitting. پارہ پارہ کرنا - چیرنا - پھاڑنا

تحلیف *a.* exacting an oath. حلف أٹھوانا

تحلیل *m.* digestion, concoction, solubility, making lawful. - کسي چیز کے اجزا کو کھولدینا کسي چیز کا حلال کرنا - کسي مقام پر فروکش ہونا - کسي چیز کو گلا ڈالنا

تحلیہ *p. a.* sweetening, decking with ornaments, praising, commending. - شیریں کرنا زیور پہنانا - کسي شخص کي تعریف کرنا

تحمل *m.* patience, endurance, long-suffering, resignation, forbearance, truce, peace, meekness, humility. - برداشت - أٹھانا - سہنا سنجیدگي - صلح - صبر

تحمید *f.* the utterance of the Arabic phrase "الحمدالله" praise be to God, praising. تعریف کرنا - حمد کرنا

تحمیل *f.* burthening, imposing a load on, importuning, asking more than one's right. لادنا - بوجھہ لادنا

تحول *a.* entrusting, shifting from one place to another. حوالہ کرنا - ایک جگہہ سے دوسري جگہہ کو جانا

تحویل *f.* trusts, charges, cash, return, renovation, change, transfer, passing of the sun, moon, or a planet from one sign to another. - سپرد کرنا - کسي کو کوئي چیز حوالے کردینا داخل ہونا

تحویلدار *m.* a cash keeper, a treasurer. خزانچي

تحیت *f.* a salutation, congratulation, prayer, benediction, living long, kingdom, country. - سلام کرنا - دعا کرنا - دیر تک زندہ رہنا بادشاهي ملک

تحیر *m.* amazement, wonder, astonishment. حیران ہوجانا

تحییر *n.* deficiency, loss, abatement, destruction. کمي - ہلاک کرنا

تحیل *n.* act of drawing one's attention towards anything. کسي کو کسي بات کا خیال دلانا

تحیہ *n.* salutation, prayer, life, country, kingdom, reign, congratulation. - سلام - دعا زندگي دینا - ملک - بادشاهي - مبارک بادي

تخارج *lit.* mutual disbursement, (in the language of the law) a composition entered into by some heirs for their share of the inheritence in consideration of some specific thing, which for the time being, excludes them from such inheritence. تقسیم ہونا

تخاذت *a.* private, confident, secret. پوشیدہ رکھنا

تخالص *n.* liberation, manumission. آزادگي

تخالف *m.* opposition, enmity. باہم مخالف ہونا

تخالج *n.* doubt, suspicion, distraction of mind, apprehension, hesitation. شک و وسواس آنا

تخارت *n.* fear, fright, dread. خوف کرنا

تخت روندہ *m.* a horse. گھوڑا

تخت سلیمان *n.* name of a place in Cashmere. کشمیر میں ایک مقام کا نام

تخت عاج *m.* day. مراد دن سے

تختگاہ *f.* the royal residence, metropolis, seat of government, a capital. - دارالسلطنت حاکم اعلی کے رہنے کا گھر - گورنمنت کے مقام کا شہر

تختہ *m.* a plant, a board, a stool, a bier, a sheet of paper. تراشي ہوئي لکڑي - تابوت کا تختہ تختہ (کاغذ کا)

تختہ اول *m.* the eternal or preserved tablets, on which, according to the Musalmans, God has recorded from the beginning, all the actions of the human race. مراد لوح محفوظ سے

تختہ بر سر شکستن *id.* to disgrace, to dishonour. رسوا کرنا

تختہ بند *m.* a gaol, a cell, a prisoner, a captive, small strips of wood tied on a fractured bone, a fracture. قید - قیدي - لکڑي کي کھپچیان جو ٹوٹي هوئي هڈي پر باندھي جاتي هیں - وہ عضو جسپر کھپچیان باندھي جائیں

تختہ نرد *m.* a chess-board, backgammon. شطرنج کھیلنے کا تختہ

تخجیل *a.* modest, bashful, ashamed, abashed. شرمندہ هونا

تخریب *f.* devastation, destruction, razing or laying waste (a country, etc.). خراب کرنا - اُجاڑ دینا

تخریج *m* expulsion, turning out of possession, eviction. باهر نکالنا - خارج کرنا کسي چیز کو کسي جگهہ سے

تخش *n.* a bow, a kind of arrow, a president, a rocket کمان (تیر کي) - ایک قسم کا تیر - صدر مجلس - تیر آتشبازي - هوائي

تخشیدن *inf* to preside. سب سے اوپر بیٹھنا

تخشع } *n.* humiliation, imploration, sub-
تخضع } mission. عاجزي - فروتني

تخصیص *f.* particularity, peculiarity, appropriating, preserving, for one's self. خاص کرنا - خصوصیت

تخطیہ *a.* finding fault with, criticizing. کسي کے کام کي خطا پکڑنا

تخفیف *a.* making light, lifting up, despising, abbreviating, abatement, relief, remission, abridgment, decrease, dimunition, decay, alleviation, softening the pronunciation of letters or changing one for another *suphoniæ gratia*. هلکا کرنا - بوجهہ اتارنا - کم کرنا

تخلص *m.* the titular name assumed by poets as سودا was the تخلص of مرزا محمد رفیع etc, freedom, safety, protection. مختصر نام جو شعرا اپنا مقرر کرکے شعر میں نظم کرتے هیں - چھٹکارا - بچاؤ

تخلف *m.* retiring, deferring, remaining behind. پیچھے رهنا - خلاف وعدہ کرنا

تخلل *m.* disturbance, discord, dissension, interruption, interference. بیچ میں آجانا - خلل ڈالنا - خرابي

تخلي *v.* emptying. خالي هونا

تخلیص *n.* release, freedom. خلاص کرنا - چھوڑنا

تخلیط *n.* confusion, mixture, mixing false doctrines with truth. کلام میں باطل کا ملانا

تخلیہ *m* evacuating, privacy, manumission (of a slave), divorce (of a wife). خالي کرنا - چھوڑ دینا

تخم *m.* seed, an egg a testicle, sperm. بیج - انڈا

تخم ریز *m.* a sower. بونے والا

تخم بازي *n.* a play in which the children play with coloured eggs during Easter.

تخماق *m* mallet. میخ و میخ گاڑنیکا

تخم چیزے برتافتادن *id.* total extinction of a thing. to perish, to annihilate. کسي چیز کا بالکل نیست و نابود هوجانا

تخمہ *m.* indigestion. بدهضمي

تخمہ *n.* origin, root, birth, issue, descendant. اصل - پیدائش - اولاد

تخمیر *f.* fermentation, leavening. خمیر اُٹھنا

تخمین *a.* guessing, estimating. اندازہ کرنا - اٹکل کرنا

تخمیناً *adv.* nearly, about, by guess, hypothetically, by appraisement. اٹکل اور اندازے سے

تخن *n.* kindness, favour. مهربان هونا

تخویف *f.* terrifying, threatening. ڈرانا

تخوف *p. a.* fearing, dre ding ڈرنا

تخیل *m.* fancying, imagining, supposing, suspicion. کسي چیز کا خیال میں لانا

تدابیر (*pl.* of تدبیر), deliberations, plans تدبیریں

تداخل *n.* mutual insertion or entrance. ایک دوسرے میں داخل هونا

تدارک *m.* chastisement, retaliation, provision, preparation (particularly to obtain justice), the instruments and means used to procure justice, as writing, lawyers, witnesses, etc. remedy, precaution, reparation. - کوئي فوت شدہ چیز کو پانا ایک دوسرے تک پهونچنا - بدلہ - انصاف پانا - دوا

تدافع *p. a.* repelling, resisting. روکنا - هٹانا

تداول *m.* tradition, the handing down of opinions, stories, etc. from father to son. دست بدست پھرنا

تداوي *f.* cure, remedying. دوا علاج کرنا

تدبیر *f.* deliberation, counsel, opinion, advice, government, regulation, order, in the language of the law, it means a declaration of freedom made to a slave to be established after the master's death. کسي کام کے پیچھے پڑنا - غور کرنا - انجام کام کا سوچنا

تدبر *n.* deliberation, discussion of reasons for and against a measure, prudence. انجام کام کا سوچنا

تر *a.* moist, wet, fresh, green, young, juicy, a particle, by the adding of which, Persian adjectives form their comparative degree, as خوب good, fair, خوبتر better, best, ashamed, abashed, clear, lustrous. یہہ کلمہ واسطے تفصیل کے آتا ھے اور بمعنی تازہ - آبدار - صاف - پاکیزہ - نادم - شرمندہ وغیرہ کے آتا ھے

تراب *m.* earth, ground, dust. متی - زمین - خاک

تراجع *v.* to go astray, deviating, turning towards, attending. پھر جانا - رجوع کرنا

تراخي *f.* delay, tardiness, idleness, slothfulness, sinning. دیر - کاھلي - تقصیر کرنا

ترادف *m.* succession, *adj.* uninterrupted, carrying double (a horse). سلسلے وار - بے روک توک

ترادیف *v.* two things resembling each other, likeness, similitude, similarity. وہ چیزیں جو باھم مشابہ ھوں

ترازوي پولاد سنجان the warrior's spears. لڑنیوالوں کے نیزے

ترازوي زور *n.* a rich man, wealthy. مالدار

ترازوي زر *m.* a rich, miser, *adj.* delicate. مالدار بخیل - نازک مزاج

ترازو شدن *id.* to be equal, the passing of an arrow or the head of a spear through the target. برابر ھونا - تیر اور نیزہ کي پھال کا نشانے سے پار ھو جانا

ترازوي کانور *n.* the sun. آفتاب

تراش *f.* cutting, paring, shape, form, decoration, adorning, profit, interest, *m* glory, honour, elegance. کات - کتاؤ - افتخار - آرائش نفع - سود

تراشہ *m.* shaving, splinter, clip, a mason's chisel to cut stones with. چھلکا تراشا ھوا - لوھے کا آلہ جسے پتھر تراشتے ھیں

تراشیدن *inf.* to cut, to chip, to shave, to shape, to cut out. کاتنا - چھیلنا

تراضي *n.* mutual consent and happiness. آپس میں راضي اور خوشنود ھونا

تراض *contr.* of تراضي

تراکم *n.* accumulation, heaping up. انبوہ - ڈھیر

تراکیب *pl.* of ترکیب

ترانہ *m.* modulation, harmony, voice, song, melody, symphony, trill, shake, quaver, a kind of song. راگ - گیت

تراوش *f* distillation, driping, exudation. تپکنا - تپکا

تدخین *p. a.* emitting smoke. دھواں کرنا

تدرو *m.* a pheasant (to whose gait that of a mistress is compared.) ایک قسم کا پرند جسکي چال کو معشوق کي چال سے مشابہ کیا ھے

تدریج *f.* gradation, scale. - درجہ بدرجہ ھونا تھوڑا تھوڑا ھونا

تدریس *f.* giving lectures, teaching. - سبق دینا علم سکھانا

تدسیہ *a.* confounding, destroying, ruining, devastating, misguiding. تباہ کرنا - گمراہ کرنا

تدفین *m* burial, a sepulchre. دفن کرنا - زمین میں گاڑ دینا

تدقیق *a.* pounding, pulverizing. - باریک کرنا خوب کوٹنا

تدلک *n.* rubbing (the body). بدن کا ملنا

تدمیر *n.* act of causing ruin or trouble کسي کو ھلاکي میں ڈالنا

تدنس to be filthy, etc. چرک آلود ھونا

تدنیس to smear, to soil, to make filthy. چرک آلود کرنا

تدوین collection, compilation, composition. جمع کرنا - تألیف کرنا

تدھین *f.* anointing. تیل ملنا

تدین *m.* religiousness, sanctity. - دینداري دیندار ھونا

تذبذب *n.* agitation, commotion, suspension, suspicion, apprehension. دو دلہ ھونا - تردد کرنا

تذرد *n.* arm, breast, chest, a pheasant. - سینہ بازو مرغ صحرائي جو نہایت خوشرنگ ھوتا ھے

تذکرہ } تذکرت *m.* memory, remembrance, a memoir, billet, schedule, obligation, handwriting, biographical memoirs, especially of poets. یادداشت - یاد - ذکر - نصیحت کرنا

تذکار *a.* mentioning. ذکر کرنا

تذکر *m.* remembrance, memory. - یاد کرنا یاد آجانا

تذکیر *f.* masculine gender, commemoration, bringing to memory, mentioning, recording, admonishing. مذکر کرنا - یاد دلانا - نصیحت کرنا

تذکیہ *n.* slaughter, killing of animals, kindling fire. جانور کا ذبح کرنا - آگ بھڑکانا

تذلل *n.* humiliation, submission, supplication, lowering oneself down. فروتني اور عاجزي کرنا - اپنے کو دوسروں سے ذلیل جاننا

تذلیل *f.* abasement, depression, dishonouring or disgracing others دوسرے کو ذلیل اور بیعزت کرنا

تذلیق sharpening تیز کرنا

تذھیب *n.* art of gilding, illumination of manuscripts. سونے کا ملمع کرنا

تراويدن *inf.* to fall in drops, to ooze out. ٹپکنا

تراهي *n.* a new plant or fruit. نيا پودا - نيا ميوہ

ترائب *n.* breast-bones, chest, breast. سينہ کي هڈيان - سينہ مجازاً معني

ترب *m.* a radish. مولي (ترکاري)

ترب *a.* of the same age. همعمر - همسن

ترب *a.* filthy, besmeared with dust, poverty stricken. خاک آلود هونا - فقير هونا

تربت *a.* tomb, a sepulchre, earth dust. قبر - مٹي - زمين

تربص *n.* hope, expectation, hesitation, delay, to store grain to sell when the value rises. اُميد رکھنا - توقف - غلہ کو بہ اُميد گراني رکھنا

تربز *m.* a water-melon (*Curcurbita citurllus*). تربوز (هندي)

تربيت *f.* education, instruction, tuition, breeding, correction. پرورش کرنا - پالنا

ترت و مرت *prep.* below and above. - زير و زبر نيچے اوپر

ترتب becoming right and proper. راست اور درست هونا

ترتيب *f.* arrangement, disposition, order, method. هر چيز کا درجہ قائم کرنا اور اُسکو اسکي جگہہ پر رکھنا

ترتيل reciting with a clear voice. - صاف آواز آهستگي اطمينان اور ٹھر ٹھر کر پڑھنا

ترجمان *m.* a translator, eloquent, fluent وہ جو ايک زبان کو دوسري زبان مين بتاوے - فصيح - خوش تقرير

ترجيح *f.* gaining a superiority, preference, excellence, pre-eminence. غلبہ دينا - افزون کرنا - بڑھانا

ترح *n.* grief, sorrow. اندوہ - غم

ترحال } marching, travelling. - کوچ کرنا
ترحل } سفر کرنا

ترحب *m.* welcoming, greeting or kind reception, *intr.* hail! مرحبا کھنا - کسي کے آنے پر خوش هونا

ترحم *m.* pity, compassion, kindness, mercy, lenity. رحم کرنا - ترس کھانا

ترحيب *n.* respect, honour. تعظيم

ترخيم *f.* abbreviation, contraction, apocope (in Grammar). چھوٹا کرنا - قطع کرنا

ترخيص *v.* permission, leave, liberty granted. رخصت کرنا - اجازت دينا

تردد *m* irresolution, contrivance, debating, rejecting, hesitation, fluctuating, suspension of judgment, anxious consideration, husbandry, agriculture (*pl.* ترددات.) آمد و رفت - شک - فکر - کشتکاري

تردامن *m.* a sinner, *a* vicious, wicked, bad. گنھگار - بدکار

تردست *a.* expert, active, adroit, perfect (in arts) - کامل هنر - چست - چالاک - مشاق تيز دست

تردستي *f.* activity, handiness, adroitness, expertness. چستي - چالاکي

تر دماغ *a.* wise, gentle, sensible, intelligent, half-intoxicated. - عقلمند - صاحب شعور نيم مست

ترديد *f.* opposing, replication, rejoinder, refutation. رد کرنا - کسي بات کا جواب دينا

ترديف *f.* following, subjoining, riding behind one's back on the same horse, two words having the same meaning. کسي کے پيچھے ايک هي گھوڑے پر سوار هونا - دو لفظوں کے ايک معني هونا

تر زبان *a.* eloquent, fluent. فصيح - خوشکلام

ترس *m.* fear, terror. خوف - ڈر - دهشت

ترسکاري *f.* fearing God. خدا سے ڈرنا

ترس *n.* shield, target, *a.* very sharp, keen. ڈھال - سپر - سخت - تيز

ترسا *m.* one who is not a Musalman, a Christain, an infidel, a pagan, a worshipper of fire, a guebre. نصارا - آتش پرست

ترسان *a.* fearful, timid, afraid. - ڈرنے والا ڈرتا هوا

ترسانيدن *inf.* to frighten, to terrify. ڈرانا

ترسناک *a.* timid, cowardly. خوفناک - ڈرا هوا

ترسندہ *m.* a coward. ڈرپوک

ترسيدن *inf.* to fear, to dread. ڈرنا

ترسيل *n.* despatching, sending, sending messages or letters. روانہ کرنا - بھيجنا - نامہ بھيجنا

ترش *a.* sour, acid, harsh, ill-tempered, crabbed, angry. کھٹا - خفا - ناراض

ترش روئي *a.* cynical, morose, surly, stern, hard-favoured, ugly. بد خلق - بدشکل - چڑ چڑا

ترشح *m.* sweating, exuding, dripping, distilling, a small rain. پاني کا ٹپکنا - پاني کا چھلکنا - مينہ کي کم کم بونديان پڑنا

تر شدن *inf.* to be abashed, to get ashamed, to get shy. شرمندہ هونا

ترشہ *n.* a species of fruit. ايک قسم کا پھل

ترشہ *n.* a kind of sorrel, a wild sorrel. ايک قسم کا پودھا

ترشيم *n.* watering, name of an art. - پاني دينا نام ايک صنعت کا

ترصد *m* expectation, hope, ambush, ambuscade. اُمید - آمید رکھنا - گھات لگانا

ترصیع *n.* adorning with jewels or gold, an ornate style in prose or verse. زیور کو جواہر سے جڑاؤ کرنا - شعر یا قافیہ و ردیف کہنا

ترصیص *m.* soldering, to make strong or substantial, to unite metals by a fused metallic substance. مضبوط بنانا - رانگہ کے ساتھہ کسي چیز کو جوڑنا اور بند کرنا

ترغاک } ترغاق } *n* watch, guard, protection, *m.* keeping a watchman. - نگهباني شب پاسباني - پاسباں

ترغیب *f.* exciting desire, temptation, stimulation. رغبت دلانا - لالچ دلانا

ترف *n.* cheese. پنیر (دهي کا)

ترفع *n.* aspiring, pride. غرور

ترفق *n.* kindness, favour, mildness مہرباني کرنا - نرمي کرنا

ترفہ } ترفیہ } *n.* quiet, peace, contentment, - آسودگي richnes. دولتمندي

ترقب *m.* contemplating, expecting, hoping, waiting. اُمید رکھنا - اُمید انتظار

ترقوہ *n.* the collar-bone, (*pl.* (تراقي). گردن کي هنسلي

ترقي *f.* promotion, preferments, increase, making progress in learning, proficiency. بلند هونا - بڑهنا - اوپر چڑهنا

ترقیق *f.* softening, thinning, dilution, rarefaction. باریک کرنا

ترقیدن *inf.* bursting, splitting, rending. پهٹنا - پهوٹنا - شگافتہ هونا

ترقیم *f.* writing, noting, marking. - لکهنا رقم کرنا

ترقین writing sentence closely, marking, noting, punctuating, improving (a book), tinging the nails and hair or the beard. سطروں کو پاس پاس لکهنا - حرفوں پر نقطے اور اعراب لگانا - کتاب کا زینت دینا - مهدي کا خضاب کرنا

ترک *m.* properly a Turk, which in Persian takes many other meanings, *met.* a soldier, a mistress. - ترکستان کي ایک قوم کا نام مجازاً معني سپاهي اور معشوق کے مستعمل هے

ترک *m.* abandoning, leaving, deserting. چهوڑنا - چهوڑ دینا

ترک چین *m.* the sun (because it rises from china). آفتاب بہ اعتبار اسکے کہ وہ چین کي طرف سے نکلتا هے

ترک حصاري *m.* the sun. آفتاب

ترک فلک *m.* Mars or the sun. - ستارۂ مریخ آفتاب

ترکان *n.* title of the female Turks. ترکي عورتونکا خطاب

ترکتاز *n.* depredation, attack, using great labour and exertion for the accomplishment of any object, bustling, feigned anger, a soldier, a plunderer. - دوڑ دهوپ - حملہ هلہ - سپاهي - غارتگر

ترکردن *inf.* to wash. دهونا

ترکش *m.* a quiver. تیر رکهنے کا خانہ

ترکہ *m.* the estate of deceased person, a bequest, a legacy. مال مردہ کا

ترکي *m.* a kind of horse, *adj.* of or belonging to a Turcoman or Tartar, the language spoken by the Turcoman. ترکي گهوڑا - زبان قوم ترک کي

ترکي تمام شد *a.* spoilt, destroyed. غرور جاتا رها

ترکي کردن *inf.* to oppress, to tyrannize. ظلم و ستم کرنا

ترکیب *f.* composition, mixture, cement, make, form, mechanism, (*pl.* (ترکیبات مرکب کرنا - کئي چیزونکو ملا کر کوئي چیز بنانا

ترکیدن *inf.* to be split, to be burst. - شق هونا پهٹ جانا

ترگ *m.* a helmet, steel headpiece. لوهے کا خود

ترمیم *n.* reparation, mending. مرمت کرنا

ترن *n.* a wild rose, the sweet briar or eglantine. گل نسرین

ترنج *m.* a citron, an orange. مثل بڑے نیبو کے بڑا میوہ هے

ترنج روے شستہ *m.* the sun. کنایہ آفتاب سے

ترنجیدہ *a.* wrinkled, morose, cynical, ugly, ill-tempered, crabbed. شکندار - ترشرو

ترنگبین (ترنجبین) *m.* manna (produced from the *Hedysarum. alhagi*) : (by this name some) call honey mixed with limejuice, etc. ایک میٹهي دوا جو خراساں میں خاردار درختوں پر هوا سے مانند شبنم کے گرکر جم جاتي هے

ترنم *n.* act of singing, carolling. گیت گانا

ترویج *a.* customary, current, usual, common. رائج کرنا - چلانا

ترویح *n.* comforting, consoling, giving ease or rest, emitting odour. راحت دینا - خوشبودار کرنا

ترہ *a.* vain, false, absurd, hardness, air, cloud. باطل چیز - سختي هوا - ابر

ترہ *n.* malice, jelousy. کینہ رکهنا

ترہ *m.* garden herbs. pottage greens - ساگ ترکاري

تزدد *n.* provision, particularly of a traveller, to support him during his journey. زاد راہ - توشہ

تزویر *f.* imposture, fraud, deceit, stratagem, deception, lie. - جھوٹھہ بولنا - فریب کرنا حیلہ کرنا

تزهد *n.* devotion, adoration, divine worship. عبادت کرنا

تزین / تزئین *f.* dressing one's self, decoration, ornament, honour, jewel.

تسالم *n.* mutual peace, mutual forgiveness, agreement, consent. آپس میں صلح کرلینا

تسامح *m.* reciprocal indulgence, mutual kindness and forgiveness, making easy, acting bravely. - جوانمردي کرنا - آساني کرنا آپس میں معاف کرنا

تساوي *f.* smilarity, sameness, equality, neutrality. برابري - دو چیز کا برابر هونا

تساهل *m.* conniving at, pardoning, carelessness, making plain and easy. - آسان کرنا غفلت کرنا

تسبیح *f.* the act of praising God by repeating the sentence سبحان الله "glory be unto the Lord," a rosary, a chaplet of beads (not applied to a Hindu rosary). پاکي سے خدا کو یاد کرنا - سبحان الله کهنا - سو دانے ڈورے میں پروئے هوئے

تستیر *n.* hiding, concealing, keeping secret. پوشیدہ کرنا - پردا ڈالنا

تسحب *n.* blandishments, coquetry. ناز غمزہ کرنا

تسخیر *f.* imprisoning, taking a stronghold, subduing, captivating. تابع کرلینا - اپني طرف کرلینا

تسخین *n.* warming. گرم کرنا a shoe, a slipper. جوتي

تسدید *n.* correction, corroboration giving strength. درست کرنا - مضبوط کرنا - استواري کرنا

تسدیس *f.* divided into six parts, a sextile aspect of the stars. چهہ حصوں میں تقسیم کرنا

تسرع *n.* accelerating, hurrying, hastening. شتابي کرنا - جلدي کرنا

تسطیر *n.* writing, delineating. لکھنا - سطر کشي کرنا

تسع / تسعہ *a.* and *n.* nine. - یعني (۹) نو

تسعون *a* and *n.* nine times ten. (۹۰) یعني نوے

تسکین *f.* consolation, comfort. pacifying تسلي - آرام

تسلح *n.* accoutrements هتھیار لگانا

ڈرانا to frighten, to terrify. تڑھیب

تڑھب *n.* turning a monk, devotion. - راهب هونا عبادت کرنا

تري *f.* irritability, badness of temper, displeasure, witticism, cleanness, polish (of gems), sharpness (of a sword), etc. بیدماغي ناخوشي - ظرافت - صفائي - آبداري

تریاق / تریاک / تریاق فاروق *m.* in Persian, denotes treacle of Baghdad, esteemed an antidote against poison, (but in Hindustani always means) opium, an antidote in general, the name of a medicine, an antidote, to poison. - زهر مهرہ زهر کي مرکب دوا

تریاکي *n.* an opium-eater, name of a poet. افیوني - ایک شاعر کا نام

تریدن *inf.* (رسیدن) to reach. پهونچنا

تزاهم *n.* a crowd, multitude, mob, concourse. انبوہ - بهیڑ کرنا

تزاید *m.* increase, augmentation. - زیادہ هونا افزون هونا

تزحیر / تزحر *n.* contortion, writhing, pain in the bowels, *tenesmus*, gripes. مرض پیچپس کا هونا

تزریق بیان *m.* a liar. کاذب - دروغگو

تزمزم *n.* moving, shaking, quaking. - هلنا جنبش کرنا

تزعیف *n.* destruction, death, ruin. هلاک کرنا

تزک / تزرک *m.* regulation, royal ordinance, institutes, retinue, pomp. قانون - وہ واقعہ جسکو خود بادشاہ نے لکھا هو - اور بمعني شان و شوکت

تزکي / تزکیہ *m.* purifying, in law it signifies a case in which a certain number of special witness bear testimony to the competency of other witnesses who are giving evidence in any cause, the former being denominated the *Muzakkis*, or purgators, charity, almsgiving, propitiatory offering. - پاک کرنا - صاف کرنا - صدقہ دینا زکوۃ دینا

تزلزل *m* commotion, agitation, trepidation, an earthquake. زلزلہ آنا - ڈگمگانا - کانپنا

تزمیر to play on a flute. بانسري بجانا

تزوج *n.* act of marrying. زوجہ کرنا - شوهر کرنا

تزویج taking unto one's self a wife or a husband جوڑا لگانا - عورت کو مرد اور مرد کو عورت دینا

تسلس *n.* cunningness, trick, hypocrisy, cheat. مکاري - مکاري کرنا

تسلسل *m.* connecting like a chain, association of ideas, infinite series, succession, flowing as water. جاري هونا - رواں هونا - سلسله بندي - لڑائي بندهنا

تسلط *m.* command, sway, absolute rule, predominancy. حاکم هوجانا - غالب هوجانا

تسلیخ *p. a.* flaying. کهال کهینچنا

تسلیم *f.* delivery, consignment, recommending to the care or protection of another, a respectful mode of salutation which consists in lowering the right hand until the knuckles nearly touch the ground then gradually raising the body and lifting the hand to the crown of the head, accepting, admitting, obeying. سلام کرنا - حکم کو ماننا - کسیکي بات کو منظور کرنا

تسمه *m.* a thong, a strap of leather. چمڑے کا لمبا ٹکڑا

تسمه بازي *f.* fraud, deceit, a kind of gambling. دغابازي - فریب - ایک قسم کا جوا

تسمین *p. a.* fattening. موٹا کرنا

تسمیه *m.* nomination, giving a name to, pronouncing the formula. "بسم اللہ الرحمن الرحیم" نام رکهنا - بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان سے کہنا

تسنیم *n.* name of a fountain in Paradise. بهشت میں ایک چشمه کا نام

تسنن *n* becoming a *sunni.* سني هونا

تس نفسي *f.* foolish talk. بیهوده گوئي

تسوید *f.* making black, the draft of letter, etc., a rough copy, sketch, plan, delineation سیاه کرنا - لکهنا

تسویس *m.* distraction of mind, doubt, suspense, hesitation, apprehension, perplexity. وسواس کرنا

تسویف *v.* delay, not to fulfil one's promise. دیر کرنا - وعده وفا نه کرنا

تسویه *v.* equalling, levelling, straightening. برابر کرنا - سیدها کرنا

تسهیل *p.* rendering easy, facilitating. آسان کرنا

تسیر *a. n.* walking, enjoying (something). سیر کرنا

تش (*contr.* of تیشه) a kind of axe used by carpenter. بسوله

تشابه *m.* similitude, resemblance, likeness. باهم مشابه هونا

تشارک *n.* co-partnership ایک دوسرے کے شریک هونا

تشاور *m.* mutual advice. باهم مشوره و صلاح کرنا

تشاریف *pl.* of تشریف honours. تعظیمات

تشبث *n.* scratching, scraping or tearing with the claws. چنگل مارنا

تشبیب *n.* talking of adolescence, the age of youth, a love song, real meanings are—kindling fire, talking of love. ایام شباب معشوق کي صنعت میں غزل کہنا - اصلي معني آگ سلگانا - عشق کا بیان کرنا

تشبه *m.* resemblance, similitude. همشکل هونا

تشبیه *f.* a simile, comparison, allegory, metaphor. کسي کو دوسرے سے مثال دینا - مشابه اور همشکل کرنا

تشت *m.* platter, a basin, charger, a salver. برتن - طاشت

تشتت *m.* dispersion, dissipation. - پراگندگي پریشاني - تتربتر

تشتر *n.* name of a city. نام ایک شہر کا

تشحیذ *n.* sharpening a knife or a sword. چهري یا تلوار کا تیز کرنا

تشخص *m.* identifying, particularizing, appropriation, censuring. تعین پانا - متعین هو جانا

تشخیص *f.* distinguishing perfectly (a word much used by physicians to denote their having ascertained the disorder of a patient, *diagnosis*), valuation, assessment.

تشدد *m.* seizing and holding firmly, *adj.* strong, robust, lead in, corroborated, confirmed. سختي کرنا

تشدید *f.* consolidating, corroborating, name of an orthographical mark placed over letters, which denotes they should be doubled. سخت کرنا - استوار کرنا - حرف کو مشدد کرنا

تشرب *n.* drinking of water, etc. پاني وغیره کا پینا

تشرع *m.* the ordinances of a prophet, particularly the laws of *Muhammad,* acting agreeably to those ordinances. آئین - قانون

تشریح *f.* anatomy, a skeleton or anatomical preparation, act of dissecting a body, explanation or declaration. - شرح کرنا - کهولنا اور طب میں بدن کا کل حال بیان کرنا

تشریف *f.* honouring, exalting, investing with a splendid robe, it also comes in the meanings of رفتن و آمدن going and coming, coming. بزرگ کرنا - عزت کرنا - خلعت (فارسي میں) - آنا جانا - آنا

تشریک *n.* becoming an associate or partner. حصه دار هونا یا بنانا

تشفع *n.* intercession, pleading, mediating. شفاعت کرنا

تشفي *f.* consolation, becoming calm (after anger), calmness, recovery. - تسکین - تسلي شفا پانا

تشاکل *m.* mutual resemblance. باهم ایک شکل هونا

تشکک } *m.* doubting. شک میں پڑنا - شبهه میں پڑنا
تشکي }

تشکیک *n.* act of putting one in suspension. شک میں ڈالنا

تشکیل *n* giving a shape or form. - شکل بنانا صورت بنانا

تشقق *n.* splitting, bursting. - شگفته هونا پهٹ جانا

تشمیر wrapping of a cloth round one's waist, rowing a boat, *met.* activity, nimbleness, alertness. - دامن کمر میں لپیٹنا - کشتي کو چلانا مجازاً معني چستي و چالاکي

تشمیم *f.* smelling. سونگهنا

تشنگي *f.* thirst, temptation. پیاس

تشنگان *m.* the thirsty ones. پیاسے لوگ

تشنج *n.* the cramp, convulsion, spasm. بدن کا اینٹهنا جانا

تشنه *m.* thirst, temptation. پیاس

تشنیع *f.* disparaging, slandering, taunting, reproaching. برا کهنا - لعنت ملامت کرنا

تشوش *n.* to be confused, to be anxious, anxiety. متفکر هونا - پریشان هونا - پریشاني

تشوق *n.* eager desire, wishing, anxiety. آرزو مندي کرنا

تشویر *f.* anguish, distress of mind, pointing, shame. اشارہ کرنا - شرمندگي - خجالت - شرمساري

تشویش *f.* confusion, distraction, anxiety, grief, disquietude, alarm, apprehension. فکر میں ڈالنا - پریشان کرنا - فکر - تردد

تشویه *m* roasting; frying. بهوننا

تشهد *m.* making a profession of religious sentiments, avoiding belief in the unity of the deity, and the mission of *Muhammad*: this is done by declaring, (in Arabic), "I profess that there is no god but God, and I acknowledge that *Muhammad* is the apostle of God." کلمه شهادت پڑهنا یعني اشهد ان لا اله الا الله کهنا

تشهي *f.* anxiety, anguish. آرزو کرنا

تشهیر *f.* proclaiming, publishing, marking a criminal, public exposure such as carrying a criminal through a city mounted on an ass, etc. بدنامي کے ساتهه مشهور کرنا - کسي کي رسوائي کرنا - شهرت دینا

تشیخ *m.* ostentatious pretence to, or display of rank or dignity, self-praising - شیخي کرنا اپني تعریف آپ کرنا

تشیع *m.* professing to be of the *Muhammadan* sect called Shi'a or a follower of Ali اپنے کو شیعه کهنا - مذهب شیعه کا دعوی کرنا

تشییع *n.* act of following a funeral, to see a traveller off (to a place). مسافر کو راہ تک پهونچانے کو جانا - جنازے کے پیچهے چلنا

تشین *m.* displaying of state, dignity, to get honour. شان پانا - عزت دار بننا

تصابي *f.* love making. عشق بازي

تصادق *m.* friendship, truthfulness, verification. دوستي - سچائي

تصادم *m.* a shove, a jolt, a push, crowd, multitude. دهکا (هندي) کبهي مراد بهیڑ اور انبوہ سے هوتي هے

تصاریف *n* revolutions, vicissitudes. گردشین

تصاعد *m.* ascending, becoming difficult. بلند هونا - چڑهنا

تصافح *m.* shaking hands. - باهم هاتهه ملانا مصافحه کرنا

تصانیف (*pl.* of تصنیف), compositions, books, literary works. جمع تصنیف کي بمعنے تصنیف کي هوئي کتابیں

تصاویر (*pl.* of تصویر), pictures. تصویریں

تصحیح *f.* rectification, correction, verifying, illustrating, attestation. - صحیح کرنا درست کرنا

تصحیحه *m.* muster (especially of cavalry horses). جائزہ (رسالے کے گهوڑوں کا)

تصحیف *f* making an error in writing, changing diacritical points so as to alter the pronunciation and meaning of a word لکهنے پڑهنے میں جان کر غلطي کرنا - لفظ کے اختلاف سے تبدیل کرنا

تصدیر *n.* writing of a preface, introducing by preliminary remarks, predominance. دیباچه لکهنا - مقدم کرنا

تصدق *m.* alms, giving alms (particularly with a religious view), sacrificing, devoting. وسیله کرنا - صدقه کرنا

تصدي to await (one), to come to pass. درپیش هونا - سامنے آنا

تصدیع } *f.* the headache, trouble, perplexity. تکلیف - درد سر کردینا
تصدیعه }

تصدیق *f.* verifying, attesting, acknowledging as true, appeal. سچا کردینا - سچا جاننا

تصرف *m.* possession, use, expenditure, disposal, embezzlement, extravagance, interference. دخل دينا - کچھه کا کچھه کردينا

تصرم *n.* abridgment, curtailing, cutting. کٹ جانا
کاٹنا

تصريم to cut.

تصريح *f.* evidence, manifestation. ظاهر کرنا

تصعد *n.* ascending. اوپر چڑهنا

تصغير *f.* diminution, a diminutive noun. چهوٹا کرنا

تصفح *n.* seeing minutely, searching, to examine pages after pages. - خوب غور سے ديکهنا
صفحه صفحه ديکهنا - تلاش - جستجو

تصفيه *m.* purifying, particularly the mind from ill-will, reconciling, reconciliation, purgation. صفا کرنا - صفائي کرنا

تصلف *n.* prattling, tattling. گپ مرنا

تصلب *n.* act of becoming hard and strong. سخت اور مستحکم هونا

تصليب *f.* crucifixion. سولي دينا

تصميم *f.* resolve, determination, corroboration. پختة کرنا - خالص کرنا

تصنع *v.* artifice, speciousness, display, flattery, a woman's dress for show. - بناوٹ
کاريگري - خوشامد - عورت کا بناؤ سنگار

تصنيف *f.* invention, composition, authorship. کوئي کتاب بنانا - دل سے کچهه مضمون نکالنا - قسم قسم علحده علحده کر کے بيان کرنا

تصنيف نهادن *m* calumny, aspersion, false accusation. بهتان کرنا

تصور *m.* contemplation, meditation, reflection, fancy, conception, preconception, apprehension. دهيان - خيال

تصوف *m.* the theology of the Sufis or mystics of the east, mysticism, contemplation, abstinence, observance of continence, putting on پشمينه or woolen cloth. - پشمينه پهننا - ماخوذ صوف بمعني پشم سے اور اصلاح ميں خواهش نفساني سے پاک هونا اور کل شے ميں ظهور خدا تعالی کا جاننا - نام اُس علم کا جو صوفي لوگ پڑهتے هيں - يعني علم فقيري

تصويب *f.* saying what is right and proper, speaking truth, truthfulness, calling one to be true. راست اور درست رکهنا - سچائي - کسي کو سچا کهنا

تصوير سايه دار *f.* image, idol, statue. بت پتهر وغيره کے

تصيد *n.* game, prey, animal pursued, fished for, etc. صيد کرنا - شکار کرنا

تضاد *m.* contradiction, contrariety, absurdity, inconsistency. باهم ضد کرنا - آپس ميں ايک دوسرے کا دشمن هونا

تضاعف *n.* doubling, duplication, twice as much. دو چند هونا - دو چند

تضجر *n.* uneasiness, inquietude, sorrowfulness, sadness, grief, mournfulness. دلتنگ هونا - بے آرام هونا - غمگين هونا - دلتنگي - رنج

تضحيک *f.* mocking, derision, ridicule. هنسنا - هنسانا

تضرر *n.* trouble, sickness, shock. - تکليف بيماري

تضرع *m.* supplication, lamenting, humbling one's self, submission. - گڑ گڑانا - منت کرنا زاري کرنا

تضرم *m.* anger, fury, kindling (of fire), to be roused or exasperated. آگ کا بهڑکنا

تضعيف *n.* doubling, duplication, rendering weak, increasing, avoiding ناتوان کرنا - زياده کرنا - دوچند کرنا - دور کرنا

تضمين *f.* giving satisfaction for an injury. comprehending or including one thing in another, inserting the verses of another in one's own poem, giving security, intrusting with another, lending on interest, putting in a purse or strong box. - ضامن کرنا کسي کو اپني پناه ميں لانا - کسي کے شعر مشهور کو اپنے اشعار ميں لانا

تضميد *m.* plaster, ointment, plastering, smearing. ليپ - ليپ کرنا

تضوع *n.* giving out a musky smell.

تضييع *f.* spoiling, wasting, idling (away time). ضايع کرنا - کهونا - برباد کرنا

تضييق *n.* troubling, bothering, shortening. تنگ کرنا

تطابق *m.* similarity, congruity, analogy, coherence, cohesion. - باهم مطابق هونا مطابقت

تطاول *m.* usurpation, oppression, tyranny, conquest, rudeness, insolence, pride. - ظلم تکبر - دراز دستي کرنا

تطبيق *f.* comparing, likening, confronting (as two armies). مطابق کرنا

تطفيه *m.* act of extinguishing fire, putting out fire. آگ کا بجهانا

تطليق *m* divorcement, legal dissolution of marriage, act of divorcing a wife. - طلاق دينا چهوڑ دينا (عورتکا)

تطوع *m* doing a good action which one is not obliged to do, an act of superoroga

tion, obeying. - حکم ماننا - فرمان برداري کرنا
جو چیز واجب نهو اُسکا بجا لانا یعني مستحب اور نقل

تطول m. favour, kindness, gift, bestowing much favour on. احسان رکھنا - بخشش کي زیادتي کرنا

تطویل f. extending, lengthening, prolonging, stretching out, prorogation. - دراز کرنا مہلت دینا

تطهر f. purification, bathing, continence, sanctification. پاک هونا - غسل کرنا - اپنے کو گناہ سے بچانا

تطهیر f. purification, purgation, sanctification. پاک هونا

تطیب f. to be fragrant. خوشبودار هونا

تطییب f. to be fragrant, odoriferous, purifying, making happy, pleasing. - خوشبودار هونا پاک کرنا - خوش کرنا

تطیر m. bad omen. فال بد لینا

تطییر m. act of causing a bird to fly. پرند کو اُڑانا

تظاهر m. mutual help, assisting. باهم پشتي کرنا - مدد گاري کرنا

تظلم m. groaning under oppression, injustice, injury. ظلم سے فریاد کرنا - رونا اور زاري کرنا کسي کے ستم کرنے سے

تظلیل n. shadowing, shading, protection. سایه ڈالنا - سایه داري

تعارض m. confronting, coming into the presence of, to face, to oppose, to quarrel سامنے آنا کسي کے - جھگڑا کرنا

تعارف m. mutual acquaintance, rule, fashion, custom, handing or offering anything to another person (used in a respectful or polite sense). جان پہچان - باهم شناخت کرنا

تعاطف m. mutual kindness. باهم مهرباني کرنا

تعاطي f. mutual giving or surrender, a silent kind of bargain, when the vendor hands over an article to the buyer, and the latter gives him the price without speaking. رضامندي کا سودا

تعاقب m. pursuit, persecuting, alternate succession, following. پیچھا کرنا - بھاگے هوئے کے پیچھے پکڑنے کو دوڑنا

تعاقد m. mutual covenant, mutual agreement, compact باهم گرہ باندهنا - عهد و پیمان آپس میں کرنا

تعال (lit. be exalted), v. i. come, - تعال تعال inter. Good God ! bravo ! well done. آو - بیا نیک خدا - شاباش - واہ واہ

تعالی (used adjectively), the Most High مراد خدا بر ترهے

تعاون m. co operation, assistance, helping, conspiring باهم ایک دوسرے کي مدد کرنا

تعاهد m. mutual compact, agreement, security. باهم عهد کرنا - ضامن هونا

تعب m. grief, sorrow, labour, lassitude, weariness. رنج و ماندگي - تھکن

تعبد m. being pious : devotion. - بندگي کرنا عبادت کرنا

تعبیر f. explanation, interpretation (particularly of dreams), attribute, quality. بیان کرنا - خواب کے معني بتلانا

تعبیه }
تعبئه } m. arranging (household furniture), drawing up (an army), training, exercising, opening a secret, disclosing. آراسته کرنا - پنهان کرنا - آراسته اور آماده کرنا لشکر کا

تعتم m. act of delaying, retarding. - دیر کرنا تاخیر کرنا

تعجب m. wondering, admiration, astonishment, amaze, surprise. اچنبا - انوکھاپن

تعجیل f. agility, haste, despatch, expedition. شتابي کرنا - جلدي کرنا کسي کام میں وقت سے پہلے

تعجیم n. punctuation, turning Arabic into Persian حرفونپر نقطے لگانا - عربي کو عجمي کرنا

تعداد }
تعدید } m. number, computation, enumeration, a list or invoice. - گننا شمار کرنا

تعدي f. extortion, exorbitancy, oppression, wrong injury, tyranny, violence, cruelty. ظلم - ستم - حد سے بڑہ جانا

تعدیل f. act of equalling, comparing, adjusting, correcting. کسي چیز کو کسي چیز کے برابر کرنا - راست و درست کرنا

تعذر m. apology, plea, (pl. تعذرات) - عذر کرنا معذور هو جانا

تعذیب n. torture, punishment. - دکھه دینا عذاب کرنا

تعذیر f. apologizing, subterfuge, excuse (little used). عذر کرنا - معذور رکھنا

تعرض m. resisting, preventing, hinderance, obstacle, opposition, impediment. - پیش آنا چھیڑنا

تعرف m. recognizing, acquaintance. شناخت کرنا - پہچاننا

تعریب n. turning an Arabic word into Persian, answering, replying, improving. لفظ عربي کو عجمي کرنا - جواب دینا بات کا

تعريض *f.* enlarging, making conspicuous, rendering obnoxious, being ambiguous in speech, or hinting at a subject obscurely, rendering intricate, making writing illegible, not dressing meat sufficiently, opposing, objecting, barter, exchange of one commodity for another, statement of particulars of landed property, deposited in a Collector's office. كسي كو كسي كام پر لانا - چهيڑنا - كنايه سے بات كهنا

تعريف *f.* praising, asserting, explaining, description, a table of rates of export and import duties. hence the European term "tariff." معني بيان كرنا - سراهنا - جتلانا

تعريه *m.* making naked, state of nudity. ننگا كرنا - برهنه كرنا

تعزيت } تعزيه } *m* condolence, lamentation. ماتم پرسي كرنا - ماتم كرنا

تعزير *f.* punishment of a discretionary kind, such as the law does not precisely specify, correction, reproof, censure, reprimand. سياست كرنا - سزا دينا

تعزيل *f.* removing or disposing from office, dismissal. عهدے سے موقوف كرنا

تعسر *v.* difficulty, hardship. دشواري - مشكل هونا

تعسم *m.* expectation, hope, avidity, desire. أميد ركهنا طمع ركهنا

تعشق *m.* falling in love, making love, being in love. عاشق هونا - فريفته هونا

تعشم *m.* state of being very old, turning dry. نهايت بوڑها هوجانا - خشك هوجانا

تعصب *m* prejudice for or against, *i e.* prejudice or partiality, bigotry, superstition. طرفداري كرنا - پچ كرنا

تعطر *m.* diffusing a good smell, odoriferous, perfumed, fragrant. خوشبودار هونا - خوشبو هونا

تعطر *p. a.* diffusing perfume خوشبو كرنا

تعطل *m.* idleness, having no bracelets or other ornaments. بيكار رهنا

تعطيل *f* rendering useless, abandoning, neglecting, laying waste, vacation from school, or office بيكار كرنا - غفلت كرنا - چهٹي

تعطش *n.* thirst, to be thirsty پياسا هونا - پياس

تعطف *n.* kindness, favour. مهرباني كرنا

تعظم *m.* magnificence, grandeur, pride, arrogance. بزرگ هونا

تعظيم *f.* reverence, respect, honour, treating with ceremony and respect, honouring, gentility, politeness. بزرگي كرنا - عزت كرنا

تعفف *n.* abstinence, piety پرهيز گاري - پارسائي

تعفن *n.* stink, a strong offensive smell, bad smell, fœtor. بدبو هونا - سڑ جانا - بدبو

تعفيت *f.* effacing, adjusting. مٹانا - ٹهيك كرنا

تعقب *m.* pursuing, punishing, tracing (intelligence), fault finding. پيچهے سے آنا - كسي كے عيب و برائيوں كو ڈهونڈنا

تعقيب *f* delaying, to do a thing after another, reading after prayers. دير كرنا - كسي چيز كو كسي چيز كے بعد كرنا - بعد نماز كے وظيفه پڑهنا

تعقل *m.* understanding, perceiving, informming, knowing, caring. - سمجهنا - جاننا فكر كرنا

تعقد *f.* causing to unite, joining, forming knots, *met.* delaying.

تعلق *m* relationship, connection, dependence, consideration, reflection, commerce, correspondence, property, possession, appertaining, a manor, lordship, a lease in perpetuity, a sub-division of a ضلع or country, the latter consisting of several *ta'alluks.* لگاؤ - علاقه ركهنا

تعلل *m* discussion, argument, proof, reason, plea, pretext, excuse, inviting reasons, delaying, eating in small quantities (*med.*). حجت كرنا - بهانا كرنا - سبب كو دريافت كرنا - دير كرنا - طبيبوں كي اصلاح ميں كسي چيز كو تهوڑا تهوڑا كركے كهانا

تعلقات تعلقات (*pl.* of تعلقه), connections, concerns. علاقے - لگاؤ وغيره

تعلم *m.* learning, being taught, study. كسي سے كچهه سيكهنا - علم پڑهنا

تعلي *f.* exalting one's self, appearing conspicuous. اپنے كو بزرگ كرنا - اپنے تئين بڑهانا

تعليق *f.* a kind of writing used by the Persians, suspension, delaying, connecting. لٹكانا - كسي چيز كو كسي دوسري شئے سے متعلق كرنا

تعليقه *m.* confiscation (of one's property), an inventory, a list. ضبط كرنا (اسباب كا)

تعليل *f* causing one to make an excuse, occasioning, changing one of the weak letters for another (in Arabic grammar) drinking water successively وجه بيان كرنا دليل لانا - پاني كا پے درپے پينا

تعويق *f.* suspending, preventing, delaying, averting, باز رکهنا - روکنا - بند کرنا - دير و تاخير ميں ڈالنا

تعويل *f.* depending, confiding, believing, trusting. بهروسه کرنا - اعتماد کرنا

تعهد *m.* agreement, a promise or pledge. rent, a lease, a contract, security ذمه پر لينا (کسي کام کے سر انجام کرنے کو) - ضامني کرنا

تعيش *m.* rejoicing, enjoying, procuring a livelihood by labour and industry. عيش کرنا - سامان عيش مهيا کرنا

تعيل *f.* land held by a member of a royal family, more especially applied to the Delhi family, a royal appanage. شاهي زمين

تعين *m.* manifesting, establishing, appointing, assigning, deputing, existence. - مقرر هونا اوپر چيز معين کے - مخصوص هونا ايک چيز کا بهت سي چيزون ميں سے - کبهي مراد هستي اور وجود سے بهي هوتي هے

تعينات *m.* appointments, command, a garrison, business, peculiarity. - تشخصات خصوصيات

تعيين *f.* appointing, deputation, abusing on one's face, making a hole in a pearl. مخصوص کرنا - ايک چيز کا بهت سي چيزون ميں سے - کسي کے منهه پر اسکي برائين بيان کرنا - موتي ميں سوراخ کرنا

تعيير *n.* reproach, reproof, censure, ملامت کرنا - شرم دلانا

تغابن *m.* mutual deception, cheating one another, loss, *met.* sorrow, alas. باهم نقصان اُٹهانا - غبن کرنا - زيانکاري - نقصان - گهٹنا - مجازاً بمعنے افسوس

يوم التغابن *m.* the judgment day. روز قيامت

تغار *m.* } a tub, bucket, trough, pail, platter. کونڈا مٹي کا - بالٹي
تغاري *f.* }

تغافل *m.* negligence, inadvertency, being absorbed, as in sleep. غفلت کرنا

تغاني *m.* maternal uncle ماموں - ماں کا بهائي

تغاير *m* differing from each other. فرق - باهم مغائر هونا

تغذيه *m.* food, nourishment. - غذا دينا - پالنا خورش دينا

تغريب *f.* banishment, transportation, imprisonment. شهر بدر کرنا - جلا وطن کرنا

تغرير *f.* pride, haughtiness, filling a skin-bag with water, a desire to fly bird - غرور کرنا مشک کو پاني سے پر کرنا - پرندے کا اُڑنے کو قصد کرنا

تغشي *f.* putting on (cloth), wearing, fainting. پهننا - اوڑهنا - غش هو جانا

تعليم *f.* teaching, instruction, tuition, copying fine writing accurately, (*pl.* of تعليمات) سکهلانا - علم پڑهنا

تعمق *m.* deepness, penetrating, going deep into, thinking, contemplating. - غور کرنا کسي چيز کي کنه کو پهونچنا

تعميد propping up, baptizing - بپتسما دينا غوطه دينا

تعمير *f.* rebuilding, repairing, making a place habitable, productive and populous. عمارت بنانا - آباد کرنا

تعميق *f.* penetrating, thinking deeply, going deep into, digging a pitch غور کرنا - کسي کام کا انجام سوچنا - دوراندیشي کرنا - گڑها کهودنا

تعميل *f.* causing to act, putting in force a decree, etc., entrusting. عمل دينا - کام سپرد کرنا

تعميه *m.* act of rendering blind, an enigma, concealing the meaning of a sentence or discourse (generally applied to a chronogram after the manner of ابجد when the clause which should give the date fails in accuracy, and the excess or defect is obscurely indicated by another word, *ex gr.* از حوض لطيف آب بردار draw water from the pellucid cistern. The letters in حوض لطيف make 943, from which, subtracting those of آب (1+2=3) we have the date required, *viz.*, 940 - اندها کرنا - معما کهنا کسي چيز کو چهپانا

تعنت *f.* fault-finding, evil-speaking, backbiting. کسيکي عيب جوئي کرنا - بدگوئي کرنا

تعند *n.* enmity, quarrel, scuffle, fighting دشمني کرنا - لڑائي لڑنا

تعنف *m.* reproof, reproach, censure, hardship, severity, oppression, tyranny. - ملامت سختي - ستم کرنا

تعنيف *f.* reproach, reproof, censure, severity, fierceness.

تعود *m.* forming a habit. عادت کرنا

تعوذ *n.* seeking shelter, seeeking a refuge, pronouncing. اعوذ باللہ - پناه مانگنا - اعوذ باللہ کهنا

تعويذ *m.* having recourse to the Deity, giving shelter, asking protection, a charm, an amulet, a structure of brick or stone work over a grave - پناه دينا - پناه ميں لانا بچاؤ - مجازاً وه دعا جو لکهکر واسطے حفاظت کے بازو پر باندهتے هيں

تغلب *m.* overcoming, overpowering, taking advantage, cheating, imposition, forgery, embezzlement - غلبہ کرنا - غالب ہونا - زبردستي سے کسي کا مال لیلینا

تغلق *m.* a head, a noble, name of a king سردار - نام ایک بادشاہ کا

تغليظ *f.* oppression, severity, harshness. کسي پر سختي کرنا

تغمد God's mercy, God's compassion خدا کي رحمت

تغمغہ (for آمغہ) *m* a mark which artists put on their productions, device on a shield, a medal. کسي دھات کي مہر - نشان - فرمان بادشاهي - شعر کا اپنے مضمون کو مکرر باندھنا

تغني *f* singing, cooing, celebrating a mistress in verse, contentment. - گانا - غزل خواني معشوق کي تعریف میں گانا

تغير *taghir, f.* alteration, change, *adj* charged, discharged, dismissed. اپني پہلي حالت سے بدلنا

تغيير *taghaiyur, m.* change, alteration, removal. کسي چیز کو اسکي حالت سے بدلدینا

تغيظ *m.* anger, rage, fury. غصہ

تف *taf, m.* vapour, steam, mist; light, stink. بخار - حرارت - روشني - بدبو

تف *tuf, m.* spittle, saliva, a curse. - تھوک تھوکنا

تفاح *m.* apple. سیب

تفاخير *m.* boasting, vaunt. آپس میں فخر کرنا

تفارق *m.* division, separation. جدائي - تقسیم

تفاريق (*pl.* of تفریق and تفرقہ) intervals, divisions, instalments. جدائیان - تفریقیں - قسمیں

تفاسير (*pl.* of تفسیر) explanations, commentaries, interpretation of the *Kuran.* جمع تفسیر کي - قران شریف کي شرحین

تفاصل separation, division. جدا کرنا - فرق کرنا

تفاصيل *f.* (*pl* of تفصیل). جمع تفصیل کي

تفاوت *m.* distance, difference, distinction, disparity, distant, separate, far away, remote, absent فرق - فاصلہ - دوري - درمیان دو چیزونکے

تفاول *m.* presage, etc. فال لینا

تفت *f.* heat, warmth, *adj.* hot, warm, furious. تفتہ - گرم - غضبناک *met.* poor, a basketful of fruits andflowers. مجازاً معني پھول اور میوے کي ٹوکري

تف تف *f.* to be torn to atoms. ریزہ ریزہ ہونا

تفتہ *a.* very hot, burning, *m.* quick-lime. *met.* a lover. نہایت گرم - سوختہ - جلاهوا - مجازاً بمعني عاشق

تفتہ جگر *m.* a lover. عاشق

تفتہ دل *m.* grieved at heart. - رنجیدہ دل عاشق

تفتن *inf.* to be hot, to be warm, to be angry, to burn. گرم ہونا - غصہ ہونا - جلنا

تفتيح *f.* opening. disclosing. کھولنا - کھولدینا

تفتيدہ *m.* anything becoming hot or warm. جو چیز کے آفتاب یا آگ سے گرم ہوئي ہو

تفتيش *f.* examination inquiry, search, investigation, research. تلاش کرنا - ٹھونڈنا - ڈھونڈھنا

تفجع *a.* painful, sympathizing, feeling درد مند ہونا

تفجر *m.* suppuration. پاني کا جاري ہونا

تفحص *m.* investigation, inquiry, search, disquisition. ڈھونڈھنا - ٹہوڈنا - تلاش کرنا

تفحيم *f.* blackening, walking in the dark night. سیاہ کرنا - رات کي تاریکي اور سیاهي میں سیر کرنا

تفخر *m.* pride, boasting, arrogance. - گھمنڈ غرور

تفرج *m.* recreation, amusement, relaxation of mind. contemplation of natural scenery. تفریح - خوشحالي - مجازاً معني سیر و تماشا (فارسي میں مستعمل ھے)

تفرح *m* leisure, ease, refreshment. - فرصت آرام - تازگي

تفرد *m.* unity, retirement, solitude. - یگانہ ہونا خلوت پسند کرنا

تفرر *m.* escaping, running, abstinence. - بھاگنا ڈرنا - پرهیزگاري

تفرس *m.* intelligence, understanding, judging from physiognomy. کسي شئے کا اول نظر میں‌دیکھتےهي پہچان لینا اسکي علامات اور آثار سے - دانائي

تفرسغ *f* leisure time. (کسي کام - فارغ ہونا کیلئے)

تفرق *m* dispersing. scattering. پراکندہ کرنا

تفرقہ *m.* division, separation, dispersion, distress, divorce. فرق - فاصلہ - جدائي

تفريح *f.* rejoicing, exhilarating, amusement خوش کرنا - فرحت دینا

تفريد *f.* retiring, leading a solitary life especially for the purpose of devotion. یگانا کرنا - اکیلا رهنا

تفريس *f.* breaking, tearing in pieces. - پھاڑنا درندہ پن - چوپایہ بننا

تفريع frightening, terrifying. ڈرانا

تفريغ *f.* ascent, decent. - اترنا - پہاڑ پر چڑھنا (پہاڑ سے)

تفریق *f.* separation, division, participation, partition, jealousy, misunderstanding, department, dispersing. فرق کرنا - فاصلہ کرنا - علیحدہ کرنا - پراگندہ کرنا

تفسان *a.* very hot or warm. نہایت گرم

تفسیدن *inf.* to be hot or warm. گرم ہونا

تفسیر *f.* explanation, commentary, para phrase, an interpretation of the *Kuran.* بیان - کلام خدا کی شرح کرنا - شرح

تفش *a.* (*sup. deg.*) very hot. انتہا کی گرمی

تفصیل *f.* explanation, analysis, separation, division, detail or particulars of an account and the like. جدا کرنا - فاصلہ کرنا - کتاب کو فصل فصل کرنا

تفضل *m.* excelling, deserving, greatness. فضیلت - بزرگی - بڑائی

تفضیح *f.* disgrace, disrepute. رسوا کرنا - فضیحت کرنا

تفضیل *f.* surpassing, excelling. فضیلت دینا - بزرگی کرنا

تفطیر *f.* cause to open one's fast. کسی کا روزہ کھلوانا

تفقد *m.* kindness, searching for a thing lost, inquiring diligently, feeling, sym pathy. گم شدہ کا ڈھونڈھنا - پرسش کرنا - مجازاً بمعنی مہربانی - دلجوئی

تفکر *m.* reflecting, meditating, cogitating, considering, anxiety. فکر کرنا - سوچنا

تفکہ *m.* admiring, penitence, enjoyment of anything, eating fruits. تعریف کرنا - توبہ کرنا - لذت اٹھانا - میوہ کھانا

تفل } *m.* spittle, saliva تھوکنا
تفو

تفلسف *m.* philosophy. علم حکمت

تفنگچی *m.* a musketeer. بندوقچی - بندوق والا

تفنگ or تفک *f.* a musket (properly any tube through which anything is blown) بندوق

تفنن *m* amusement, pastime, to be divided into many branches. کھیل کود - شاخ شاخ ہونا

تفنید *f.* reproach, rebuke, censure, reproof, calling one a liar or a fool. - ملامت کرنا کسیکو دروغگوئی اور بیوقوفی کے ساتھہ نسبت کرنا

تفوق *m.* pretending to a superiority over others, doing anything by degrees. برتری ڈھونڈھنا - اوپر ہونا

تفول *m.* presaging happily, taking a good omen from a name, etc. نیک فال دیکھنا

تفویض *f.* resigning, committing to another, recommending, confiding to another, marrying a wife without a fortune. سپرد کرنا - اپنا کام دوسرے کے سپرد کرنا

تفہ *m.* tasteless (as cucumber, pumpkin). بیمزہ - جیسے لوکی ککڑی وغیرہ

تفہم *m.* understanding, conceiving. خود سمجھہ جانا

تفہیم *f.* teaching, instructing. دوسرے کو سمجھانا

تقا *m.* abstinence, control over passions. پرہیزگاری

تقابل *m.* encountering, being drawn up in mutual opposition. - باہم مقابل ہونا روبرو ہونا

تقاتل *m.* slaying one another. ایک دوسرے کو قتل کرنا

تقادیر *pl.* of تقدیر

تقارب *m.* approaching one another, (in versification) name of a measure. باہم قریب ہونا - پاس پاس ہونا

تقاریر *pl.* of تقریر

تقاسم *m* swearing together, swearing, division (in goods) - باہم سوگند کھانا - قسم کھانا مال کے حصے لگانا

تقاضا *m* dunning, exacting, urgency, importunity, exacting by means of a suit at law. خواہش - مانگنا

تقاطر *m.* distilling drop by drop, raining. بوند بوند ہو کر ٹپکنا - برسنا

تقاعد *m* backwardness, dilatoriness. کسی کام سے باز رہنا - کسی کام کے کرنے سے رک جانا

تقالیب *f.* (*pl.* of تقلیب), changes (of time), revolutions, changing sides. - زمانہ کی گردشیں کروٹیں بدلنا

تقاوی *f.* strengthening, assisting (particularly tenants), vying, contending with, money advanced to cultivators at the time of sowing. قوت دینا - اصلاح میں وہ روپیہ جو سرکار بطور قرضہ کے زمینداروں کو واسطے درستی کار زراعت کے دے

تقاویم (*pl.* of تقویم), calendars, letters, almanacs. جنتریاں - پترے

تقبل *m.* accepting, admitting. - قبول کرنا منظور کرنا

تقبض *m.* mutual surrender, or silent exchange of an article and its cost. باہم دیدینا - باہم سپرد کردینا

تقبیل *f.* kissing, kissing a thing. - بوسہ دینا چومنا کسی چیز کا

تقدس *lit* "He is pure or holy."
تقدس و تعلی an epithet of the Deity, "He is Holy and Most High," تقدس *taqaddus*, holiness, sanctity. پاک کرنا ۔ پاک هونا
تقدمتہ الجیش *m.* a captain, a commander (of an army). پیشواے لشکر
تقدم *m.* priority, pre-eminence. پہلے هونا
تقدمہ *n.* final adjustment or audit of an account, forwarding, presenting, laying before, *met.* money advanced to a labourer. پیش کرنا ۔ درپیش هونا ۔ اصطلاحاً ۔ وہ روپیہ جو پہلے کام تیار هونے کے مزدورون کو پیشگي دیا جائے
تقدیر *f.* fate, predestination, the divine decree, the ordination or providence اندازہ کرنا ۔ اندازہ جو خدا نے پہلے هي سب کا کرلیا هے
تقدیس *f.* sanctity, purity, sanctification, sanctifying, magnifying. پاک کرنا ۔ پاکي سے منسوب کرنا
تقدیم *f.* giving precedence, priority, precedence, performance. پیش کرنا ۔ مقدم کرنا
تقرب *m.* propinquity, nearness, approximation, access, association. نزدیکي
تقرر *m.* being established, confirmation, ratification, approbation. ۔ مقرر هونا ۔ ٹھرنا قرار پکڑنا
تقرم *n.* changing sides. کروٹین بدلنا
تقریب *m.* recommendation, mention, occasion, conjunction, cause, pretence, motive, approaching, proximity, probability. نزدیک کرنا ۔ اسطرحپر بات کہنا کہ مطلب کو لازم هو جائے
تقریباً *adv.* near to, about, nearly. تخمیناً
تقریر *f* confession, relation, oration, recital, detail, narration, appointing. مقرر کرنا ۔ بات کرنا ۔ قرار دینا
تقریع *f.* abusing, rebuking, censuring, reproving, changing sides, helplessness, uneasiness.
تقریس *f.* congealing, cooling. جمانا ۔ ٹھنڈا کرنا
تقسم *taqassum*, *m.* scattering, dividing پراگندہ هونا ۔ قسم قسم هونا
تقسیم *f.* division (in Arith.), dividing, distributing, disbursing. بانٹنا ۔ حصے کرنا
تقشف *m.* living poorly, being scantily fed; coarsely fed غریبي طور سے رهنا ۔ موٹے اور میلے کپڑوں اور کم رزقي سے زندگي بسر کرنا
تقصیر *f* (*lit* deficiency) fault, error, crime کمي کرنا ۔ کوتاهي اور سستي کرنا ۔ خطا ۔ قصور
تقصیروار *a.* blameable, criminal, guilty. خطاکار ۔ گنهگار

تقطیر *f.* distilling, dropping (particles of urine), strangury. ٹپکانا ۔ قطرہ گرانا
تقطیع *f.* the cæsura or pause in reading poetry, scanning of verse, dissection. ٹکڑے کرنا ۔ قطع دار بنانا ۔ اجزے عروض کیساتھہ شعر کا وزن کرنا decking with ornaments, dress, etc. آرایش لباس زیور وغیرہ سے
تقفیل *f.* locking up. قفل لگانا
تقلب *m* } conversion, change, transmutation. الٹنا ۔ گردش ۔ پھر جانا
تقلیب *f* }
تقلد *m.* responsibility, following. کسي کام اپنے ذمہ لینا ۔ پیروي
تقلس *m.* shrinkage (of cloth), contraction کپڑے یا کسي عضو کا سکڑ جانا
تقلقل *m.* grief, sorrow, restlessness, uneasiness, the sound caused by a goblet when emptying water رنج ۔ اندوہ ۔ بیقراري ۔ صراحي کا پاني انڈیلنے کے وقت آواز کرنا
تقلید *f.* imitating, counterfeiting, forgery, putting a comforter round one's neck, responsibility. نقل کرنا ۔ فریب کرنا ۔ گلوبند گلے میں ڈالنا ۔ اپنے ذمہ کوئي کام لینا
تقلیل *f.* diminishing, causing to look less, reduction, dimunition. کم کرنا ۔ تھوڑا کرنا
تقلیم *f.* cutting, paring. کاٹنا ۔ تراشنا
تقماق *n.* a wooden peg. میخ کوب
تقوی *n.* piety, abstinence, the fear of God. خوف خدا ۔ پرهیزگاري
تقوم *m.* to be right and proper. راست اور درست هونا
تقویت *f.* corroboration strengthening, establishing, confirming, confidence, strength, assurance, comfort, reliance, trust, aid. قوت دینا ۔ طاقت
تقویم *f.* making straight, setting a price, adjusting, an almanac, ephemeris, calendar. ۔ سیدھا کرنا ۔ قیمت کرنا ۔ نجومیونکي جنتري کسي چیز کا قائم کرنا
تقي *a.* pious, devout, name of a celebrated Hindustani poet. پرهیزگار ۔ خدا سے ڈرنے والا
تقید *taqaiyud*, *m.* captivity, attention, diligence, industry, application, superintending, overseeing, care, assiduity.
تقیید *f.* capturing, imprisoning, closing. قید کرنا ۔ بند کرنا
تقیہ *m* pious frad or subterfuge, allowable in certain cases, for instance a شیعہ, visiting Mecca as a pilgrim is allowed to practies تقیہ, and call himself a سني (Sunni). پرهیزگاري و مکر

تکاثر *m.* plenty, abundance, plenitude. بهتایت - کثرت - افزون هونا

تکارم *m.* mutual kindness, mutual concession, gift. آپس میں کرم کرنا - بخشش کرنا

تکاسل *m.* indolence, negligence, carelessness. اپنے کو سست و کاهل دکهلانا

تکافو *m.* to be equal. آپس میں برابر هونا

تکالیف (*pl.* of تکلیف), difficulties, distresses. جمع تکلیف کي

تکامل *f.* finishing, completing, becoming perfect. تمام هونا - کامل هونا

تکاهل *n.* negligence, remissness. اپنے کو سست بنانا - کاهل دکهلانا

تکبر *m.* arrogance, haughtiness, pride, insolence of office. غرور کرنا - اپنے کو بڑا سمجهنا

تکبیر *f.* repeating the (Musulman) creed or only saying "*Allaho Akbar*," "God is great" upon particular occasions. - بزرگ کرنا بڑا کهنا - بڑا کرنا - خدا کو بزرگي سے یاد کرنا - الله اکبر کهنا

تکثر } تکثیر } *f.* augmenting, increasing, enlarging, multiplying. زیادہ هونا - زیادہ کرنا - افزون کرنا - علم حساب میں ضرب کرنا

تکثیف *f.* rendering thick, condensation. گاڑها و دلدار کرنا

تکحل *m.* painting the eyes with collyrium. آنکهوں میں سرمہ لگانا

تکحیل *f.* painting the eyes of another with collyrium. دوسرے کے آنکهہ میں سرمہ دینا

تکدر *m.* dregs, dulness, moroseness. مکدر هونا - گندلا هونا

تکذیب *f.* accusing of falsehood, giving the lie. جتهلانا - جهوٹا کرنا

تکرار *f.* repetition, tautology, the chorus or burden of a song. - باربار پهر آنا - باربار کرنا

تکرر *m.* repeating, reiterating, persevering, repetition. کسي چیز کا بار بار هونا

تکرح *n.* ablutions. وضوع کرنا

تکرم *n.* favouring, doing kindness, pardoning, forgiving کرم کرنا - بخشدینا

تکریم honour, reverence, respect, treating with respect, honouring. بزرگي کرنا - عزت کرنا

تکسر *m.* being broken or shattered, spent or debilitated, carrying (figures in arithemetic), folding up the wings as a bird when about to cease from flight. ٹوٹ جانا

تکسل *m.* sickness, indolence. کاهل اور سست هونا

تکسیر *f.* breaking to pieces. carrying (figures in arith.), dividing so as to produce a fraction. توڑنا

تکفل *m.* taking security, becoming security for another, bail. کسي چیز کا ذمہ دار هونا

تکفیر *f.* covering, expiating a crime, doing penance or paying a mulct as atonement, guiltiness, humbling one's self before another (putting the hand upon the breast, and inclining the head), showing distant respect, accusing one of impiety calling him infidel, making one an unbeliever. کافر کهنا - گناہ کا کفارہ دینا - کسي چیز کا مخفي اور پوشیدہ کردینا

تکفیل *f.* standing a security. ضمانت دینا

تکفین *f.* putting on the winding sheet, laying in the coffin, etc., shrouding, sepulchre. مردے کو کفن دینا

تکلان *m.* belief, trust, confidence - اعتماد بهروسہ - توکل

تکلف *n.* inconvenience, ceremony, extravagance, profusion, preparation. اپنے اوپر تکلیف اوٹهانا - وہ بات دکهلاني جو اپنے میں نہ هو - جان بوجهکر تکلیف اُٹهانا

تکلم *m.* conversation. بات کرنا

تکلیف *f.* ceremony, imposition of a burthen, trouble, difficulty, molestation. کسي کو رنج میں ڈالنا - دکهہ پهنچانا - کسي کو ایسے کام کا حکم دینا جو اُسکے امکان سے باهر هو

تکلیل *f.* crowning, shining, endeavouring, cowardice. کسي کے سر پر تاج پهنانا - چمکنا - کام میں کوشش کرنا

تکملہ *m.* perfection, completion. کاملیت

تکمہ *m.* a button, a loop, an eye loop. گریبان کي گهنڈي

تکمید *f.* fomentation. گرم پوٹلي سے بدن کا سینکنا

تکمیل *f.* completing, finishing, perfection, excellence. کامل کرنا

تا و تک fatigue, running about. - دوڑنا تهکاوٹ - گهوڑے کا دوڑانا

تکوین *f.* creating, producing. - پیدا کرنا وجود دینا

تکہ *takka*, *m.* the string with which drawers are tied, a goat. ازاربند - بکرا

تکیک *f.* inquiring into a matter, knowledge. حقیقت دریافت کرنا - واقف هونا

تکیہ *m.* a pillow, cushion, a fakeer's stand, the reserve of an army, a staff, mace. *met.* shelter, refuge, confidence, belief.

تکیہ زدن *id.* to put confidence on, to trust with. بهروسا کرنا

تگ *m.* running, toiling, a gallop, depth (of a well), fountain, spring. دَک - قدم - تہہ کنوئیں کي - گہرائي کسي چیز کي - دوڑنا - چشمہ

تگاپو *f.* bustle, toil, labour. دوڑ دھوپ - حد سے زیادہ آمدورفت

تگادر *m.* a swift running horse. تیز رو گھوڑا

تگادر ابلق *m.* the world, the universe. مراد دنیا سے

تگاشي *f.* toiling hard, labouring, chasing. دوڑ و دھوپ کرنا - کسي کے پیچھے دوڑنا

تگانیدن *inf.* to brush, to clean, to shift, to strain, to beat. جھاڑنا - جھٹکنا

تگرگ *m.* hail, a hail-storm. ژالہ - اولا کا طوفان

تگدو *f.* fatigue, running about on business, or in search of employment. - دوڑ و دھوپ بڑي تلاش

تگ و پو *m.* search, inquiry, bustle دوڑ و دھوپ

تگین *m.* name of a king of Khorasan, father of Sultan Mahmud, a wrestler, a strong man, fire, a small reservoir. بادشاہ خراسان کا نام جو سلطان محمود کا باپ تھا - پہلوان - آگ - چھوٹا حوض

تل *m.* a hillock, a hill, a heap, mound, a heap of sand, (*pl.* تلال). خاک کا تودہ - بالو کا ٹیلہ - بلند زمین

تلا *tila, m.* gold. زر - سونا

تلاج *n.* noise, tumult, uproar. شور - غل - جو آدمیوں کے ہجوم اور بھیڑ میں ہوتا ھے

تلاداني *f.* a housewife or small bag for needles, thread, etc. سوئي تاگا وغیرہ رکھنے کا تھیلا

تلاش *f.* search, study, inquiry. - جستجو ڈھونڈھنا

تلاشي *m.* one who searches goods, etc. ڈھونڈھنے والا

تلاشي *f.* annihilation, dispersion. نیست و نابود ھونا

تلاطم *m* buffeting, dashing, (particularly with reference to the waves of the ocean) آپسمیں ایک دوسرے کو تماچے مارنا - دریائي موجونکا باھم تھپیڑے کھانا

تلافي *f.* compensation, recompense. - تدارک پانا ھاتھہ میں لانا

تلاق *f.* meeting, union, interview. آپسمیں ایک دوسرے سے ملاقات کرنا

تلال *pl* of تل (see تل)

تلالا bright, shouting of the *qalanders* (monks) روشن - قلندرونکا نعرہ

تلالو *m.* shining, giving light, flashing. - چمکنا روشني دینا

تلامذہ } *m.* (*pl.* of تلمیذ) pupils, disciples.
تلامیذ } شاگرد لوگ

تلاوت *f* meditation, reading (particularly the *Kuran*, as an act of religion). - پڑھنا قران پڑھنا

تلب *m.* multitude, collection, group, assemblage (of men.) گروہ آدمیونکا

تلبس *m.* wearing, putting on. پہننا

تلبیس *f.* cheating, fraud, fallacy, imposture, mixture, confusion, misrepresentation, concealing (the truth, the faults of goods on sale), failing in proving one's allegation, a knave, covering. - ملنا - کسي کا عیب چھپانا مکر و فریب

تلبیس خانہ *m.* the world. مراد دنیا سے

تلثم *m.* } kissing, kissing a thing - بوسہ لینا
تلثیم *f.* } چومنا کسي چیز کا

تلخ *m.* bitter, acrimonious, rancid, malicious, sorrowful, black. کڑوا - سیاہ رنگ - ناگوار

تلخ حرفان *m* ungrateful. ناشکرے

تلخ کام *m.* a lover. عاشق

تلخہ *m.* gall-bladder, grain parched and pounded, and then mixed up into a paste with water. خلط صغرا - پتہ (ھندي)

تلذذ *m.* delight, pleasure, charms, enjoyment. لذت لینا - مزہ اٹھانا

تلطف *talattuf, m.* kindness, obligingness, blandishment, favour. مہرباني - لطف کرنا

تلف *n.* ruin, destruction, loss, prodigality, consumption, expense. ھلاک ھونا - ضایع - تباہ

تلف المال خلف عمر *pro.* the loss of riches is the prolongation of life. دولت کا کھودیا جانا زندگي کا بڑھنا ھے

تلفظ *m.* expression, pronunciation, utterance الفاظ کا مونہہ سے بولنا - بولنا

تلفیف *f.* wrapping, enclosing, (*pl.* تلافیف) لپٹنا - خط پر لفافہ کرنا

تلفیق *f.* collecting, sewing together, arranging. جمع کرنا - ترتیب دینا

تلقاء *m.* side, behalf, face to face, equal, seeing. طرف - روبرو - برابر دیکھنا

تلقب *m.* receiving a title. لقب پانا

تلقن *m.* understanding, accepting honour سمجھنا - تعظیم کو قبول کرنا

تلقي *f.* interviewing, accepting. - ملاقات کرنا قبول کرنا

تلقین *f.* instructing, informing, the admitting of a person into any order in society, and initiating him in its laws, etc., religious instruction, funeral service. - سمجھانا تعلیم دینا

تلک *tilak*, this, these, *f.* a gown, a sleeveless robe. (اسم اشارہ ھے واسطے قریب کے) - این - یہ

تلمذ *m.* discipleship. شاگردي - شاگرد هونا

تلمع *m.* flashing, shining, brightening. روشن هونا - چمکنا

تلمیذ *m.* a student, a scholar, disciple, pupil. شاگرد

تلنگ *tulang*, *m.* necessity, requirement, need, desire. حاجت - خواهش

تلنگي *f.* affection, leniency, sympathy, poverty. مروت - دردمندي - گدائي

تلوسہ } *m.* grief, uneasiness, commotion,
تلواسہ } astonishment. - اندوہ - اضطراب بیقراري

تلون *talawwun*, *m.* changing colours like a chameleon, fidgeting, restlessness, capriciousness. رنگا رنگ هونا - رنگ برنگ - اضطرابي

تلویح *f.* pointing, hinting causing to shine, brightening, displaying, showing name of a book. اشارہ کرنا - چمکانا - روشن کرنا - ظاهر کرنا

تلہ *m.* a fowler's net. چڑيوں کا جال

تلهي *f.* playing, sporting, game, a wager. کهیلنا - بازي لگانا

تلهب *m.* blazing, blowing up into a flame, exciting. آگ کا شعلہ مارنا - بهڑکنا

تلهج *m.* greed, ambition, avarice, liking (for a certain thing), attachment, fondness. حرص - لالچ - کسي چیز کي محبت

تلهف *m.* a sigh, sorrow, grief. - دریغ - افسوس اندوہ

تلیین *f.* softening. نرم کرنا

تم *m.* darkness, gloom, blackness, an eye disease. تاریکي - سیاهي - آنکہ کي ایک بیماري کا نام

تماثیل *f.* (*pl.* of تمثال) pictures, royal commands. تصویریں - فرمان شاهي

تماثل *m.* equal division of an estate, resemblance. مشابہ هونا

تمادي *f.* perseverance, a long time, (in law) a limitation as to time which bars a civil prosecution. کشیدگي - درازي

تمارض *m.* feigning a disease, to "sham Abram." بغیر مرض کے بیزار بننا

تماسخ *m.* effacing, transforming, metamorphosing, transmigration (of souls) بدل جانا صورت کا خوبصورتي سے بدصورتي کي طرف

تمالک *m.* mastering one's passion, controlling oneself, authority, power. اپنے نفس کا مالک هونا - اپنے اختیار میں رهنا - اختیار - طاقت

تمام عیار *m.* pure, unadulterated, refined, blameless. بے کهوٹ - خالص

تمائم (*pl.* of تمیمہ) charm, amulet. جمع تمیمہ بمعني تعویز کے

تمتع *tamattu*, *m.* enjoyment, delight, pleasure, using, gaining. برخورداري پانا - فائدہ اٹهانا

تمتام *m.* a stutterer, a stammerer, *adj.* lisping. توتلا آدمي

تمثال *f.* resemblance, picture, a royal mandate. صورت - تصویر - فرمان شاهي

تمثال گر *m.* a painter, artist. نقاش - مصور

تمثیل *f.* comparison, similitude, allegory, parable, prologue, an example, (*pl.* تمثیلات). مثال دینا - شبیہ دینا

تمجید *f.* the glorification of God, hence the hymn or prayer that is pronounced from the minarets an hour and a half before dawn بزرگ کرنا

تمحل *m.* cheating, fraud, deceit. - مکر کرنا حیلہ کرنا

تمدید *f.* dragging, pulling, drawing. کهینچنا

تمدیح *f.* praising, glorifying. تعریف کرنا

تمر *m.* date. کهجور (سوکهي هوئي)

تمر *Timer*, *m.* iron, name of a Moghul chief, name of a famous King. - آهن - لوہا مغلوں کے ایک سردار کا نام - بادشاہ عظیم الشان جسکو ناواقف لوگ تیمور کهتے هیں

تمرد *m.* refactoriness, stubbornness, disobedience, insolence, rebellion. سرکشي کرنا - سرکشي

تمرن *m.* becoming soft, forming a habit. نرم هونا - عادت ڈالنا

تمریغ *f.* anointing, rubbing. بدن پر تیل وغیرہ ملنا

تمسار *m.* a druggist, a dealer in groceries, spices, herbs, etc. پنساري

تمساح *m.* a crocodile نهنگ - گهڑیال

تمسخر *m.* buffoonery. هنسي - ٹهٹها کرنا

تمسک *m.* a note of hand, bond, obligation, receipt, clutching, seizing. (*pl.* تمسکات) دست آویز - چنگل مارنا - پکڑنا

تمطي *f.* stretching the limbs, yawning. انگڑائي لینا

تمغہ *m.* stamp mark, brand, a species of tax, royal charter, seal. نشان مهر - محصول مهر سرکاري - فرمان بادشاهي

تمکن *m* possessing authority, confirming, establishing جگہہ پکڑنا - قائم هونا

تناد *m.* calling one another. یوم التناد *m.* the judgment day. ایک دوسرے کو پکارنا - روز قیامت (یوم التناد)

تنازع *m.* wrangling, strife. باہم جھگڑا کرنا جھگڑا

تنازل *m.* descent, decline (falling of price, losing rank, etc.,) leading from a horse in order to fight. باہم ایک مقام میں اُترنا - قیمت کا گھٹ جانا - گھوڑے سے لڑنے کیلئے کود پڑنا

تناسب *m.* resembling, relation, proportion. باہم نسبت ہونا - مناسبت رکھنا

تن آساني *f.* comfort, rest. راحت - آرام

تناسخ *m.* transmigration, metempsychosis. زائل ہونا - ایک صورت سے دوسري صورت میں ہونا - روح کا ایک قالب سے نکل کر دوسري قالب میں آنا

تناسل *m.* generation, uninterrupted descent through a series of generation, begetting, procreating. بچہ جننا - اولاد پیدا کرنا - آپس میں نسل بڑھانا

تنافر *m.* flying from each other, hating, despising, retiring, contending for pre-eminence, tongue-twisters as خواجہ توجہ تجارت میکني - نفرت کرنا - بھاگنا - علم تنافس معاني میں ایسے چند لفظونکا جمع کرنا جنکا پڑھنا زبان پر دشوار ہو

تنافس *m.* breathing together, to be proud, haughty. باہم سانس لینا - فخر کرنا

تنافي *f.* expelling, pursuing, persecuting, denial (that another has performed anything as that he has paid a debt) ایک دوسرے کي نفي کرنا - منافي ہونا - ایک دوسرے کو نیست کرنا

تناقص *m.* contradiction, (in law) the advancing of two incompatible claims to the same property. باہم مخالف ہونا - ایک دوسرے کو توڑنا

تناکل *m.* mutual communication. آپس میں خط و کتابت کرنا

تناور *m.* corpulent, stout, strong, powerful قوي - جسیم - موٹا - طاقتور

تناول *m.* taking, seizing, catching, eating. لینا - پکڑنا - کھانا کھانا

تناہي *f.* finishing, completing, arriving at the end, or place of destination, preventing. منتہی ہونا - انتہا کو پہونچنا

تنبان *m.* drawers, trousers. ازار - پاجامہ

تنبک *m.* a drum. طبلہ - ڈھول

تنبل *m.* corpulent, fat, lazy, idle, slothful, out of employment or work, worthless, useless. - مرٹا آدمي - جاہل - سست - بیکار - نکما کاہل

تمکنت *f.* dignity, authority. غرور - ٹیپ ٹاپ

تمکین *f.* majesty, dignity, authority, power. جگہہ دینا - رتبہ دینا - قدر - عزت - مرتبہ

تمکین دادن } *id.* to praise, to respect, to
تمکین کردن } honour. تعریف کرنا - عزت دینا

تملق *m.* cajoling, flattery, adulation, ceremony, becoming soft, forming a habit چاپلوسي - دوستي - نرم ہونا - عادت پکڑنا

تملک *m.* possessing, occupying, mastering, owning. مالک ہونا

تململ *m.* restlessness, uneasiness, fidgetting, a vision. بے قراري - بے آرامي - رویا

تملیح *f.* sprinkling or seasoning with salt. نمک ڈالنا - نمکین کرنا

تملیک *f.* possessorship, property. کسي شخص کو کسي چیز یا کسي مال کا مالک کرنا اور اسکے قبضہ میں دینا

تمن *tuman*, *m.* brotherhood, connection, caste, etc., bevy, crowd, troop, squadron (properly ten thousand), twenty rupees بھائي بند - برادري(ہندي) دس ہزار آدمي- بیس روپیہ

تمنا *f.* request, wish, prayer, supplication, desire, anxiety, petition. آرزو - خواہش

تموز *m.* name of a Syrian month (July). وہ ایام جنمیں آفتاب برج سرطان میں رہتا ہے - تقریباً ماہ ساون (ہندي)

تموج *tamuwaj*, agitation (of waves, etc.), a sea storm, a deluge. آب پاني کا موج مارنا - دریا کي طغیاني - دریا کا طوفان

تمویہ *m.* (*pl.* تمویہات), oration, recital, gilding, decorating, fraud, deceit, flattery, cajolery. تقریر - سونے کا ملمع - آرائش - حیلہ مکر چاپلوسي

تمہل *m.* delaying, hesitating. دیر کرنا - توقف کرنا

تمہیل *f.* leisure, time, leave. مہلت دینا - فرصت دینا

تمہید *f.* disposition, arrangement, settlement, management, confirmation, perliminary, preamble, preface, preparation, introduction, (spreading a bed). ہموار اور نیک اور درست کرنا کسي کام کا - بچھونا بچھانا

تمیز *f.* judgment, discernment, discretion, sense, oration, separation. - عقل - ہوش بروزن تقریر - جدا کرنا

تمیمہ (*pl* تمائم), charm, amulet. - تعویذ - مہرہ جو بچے کے گلے میں ڈالتے ہیں

تن *m.* the body, person, pay, salary, stipend, wages, دفتر تن office of payment, pollution. بدن تنخواہ

تنبول *m.* the betel leaf. پان جو مشهور درخت کے پتّے جو کهاتے هیں

تنبه *m.* to be warned. آگاه هونا

تنبیه *f.* admonition, correction, beating, punishment, instructing. جتلانا - واقف کرنا - مجازاً مارنا - قید کرنا

تنجیم *f.* astrology, act of predicting anything from the aspect of the stars. ستاره شناشي - اچهي اور بري ساعت کا جاننا

تنخنخ *tanakhnukh*, *m.* clearing the throat, hemming, hawking. گلا صاف کرنا - کهکهارنا

تنخواه *f.* wages, salary, an assignment (on the revenues), an order or draft for money. مزدوري - روپیه جو بابت نوکري اور خدمت کرنے کے ملے

تند *a.* •active, hot, spirited, fierce, sharp, severe, acrid. تیز - سخت مزاج - غصه والا

تند باد *m.* a storm, tempest. آندهي - جهکڑ

تند خو *m.* warm, passionate, fretful, ill-tempered. بد مزاج آدمي

تندد *m.* a spider. مکڑي

تند رو *m.* a miser, niggard, stingy. بخیل آدمي

تندر *m.* a clap of thunder, a nightingale. بجلي کي کڑک - بلبل (خوش آواز پرند)

تن در دادن *id.* to accept, to consent, to agree. قبول کرنا - دوسرے کے حکم پر راضي هونا

تند شیر *m.* in *Sikandarnama* it comes ones for Alexander. سکندر نامه میں مراد سکندر سے هے

تندم *tannaddum*, *m.* penitence, bashfulness, modesty. توبه عجز

تندهي *f.* try, endeavour, exertion. کوشش

تندیر *f.* frightening, terrifying. ڈرانا - خوف دلانا

تن زدن *id* to be quiet, calm, peaceful, silent. چپ هونا

تنزل *tannazzul*, *m.* descent, declining slowly, dimunition, condescending. اُترنا - درجه سے کم هونا

تنزه *tanazzuh*, *m.* being pure, modest, free from vice or stain, walking in a garden, *met.* happiness. (*pl.* تنزهات) - دور هونا عیب سے - باغ کي سیر کرنا - مجازاً بمعني خوشي

تنزیل *f.* revelation, sending, the *Kuran*, causing (a traveller), to alight, receiving him hospitably. (مسافر کا) بهیجنا - قرآن - اُتارنا

تنزیه *f.* purifying, cleansing, keeping at a distance from anything unclean. دور کرنا اور پاک کرنا بد اور خراب چیزون سے

تنسق *n.* superintending, managing. مرتب هونا - منتظم هونا

تنسک *n.* adoring (God), worshipping. عبادت کرنا - خدا پرستي

تنسل *tanassul*, *n.* pedigree, genealogy, procreation. اولاد جاري کرنا - نسل بڑهانا

تنسم *n.* breathing, smelling. - سانس لینا سونگهنا

تنسوق *n.* rare, curious, scarce, (*pl.* of تنسوقات) نادر - تحفه - نفیس چیز - عجیب و غریب چیز - جمع اِسکي تنسوقات هے

تنسیخ *f.* abrogation, quashing (of a decision.) خارج کرنا - کاٹنا

تنسیق *f.* arranging, managing. - اِنتظام کرنا ترتیب دینا

تنشر *m.* scattering, dispersing. پراگنده کرنا

تنشط *m.* becoming happy, happiness, gladness, pleasure. خوش هونا - شادماني کرنا

تنشیط *f.* making happy, gladdening. خوش کرنا - شادمان کرنا

تنصر *tanassur*, mutual help, conversion to Christianity. نصارا بننا - مذهب عیسوي اختیار کرنا - عیسائي هوجانا

تنضیج *f.* baking, cooking, ripening, making firm. پکانا - پخته کرنا

تنصیف *f.* dividing in the middle or into two equal parts. دو حصه کرنا - برابر دو ٹکڑے کرنا

تنظیر *f.* resembling, beholding - مثال لانا نظیر بنانا

تنظیم *f.* ordering, arranging, composing verses, threading pearls. ترتیب دینا - درستي امورات شهر اور دربار وغیره کي کرنا - موتي دهاگے میں پرونا

تنعم *n.* happiness, enjoyment (*pl.* تنعمات) خوشي - عیش کرنا - جمع تنعمات

تنعیش *n.* luxury, enjoyment, worldly pleasure. عیش دینا - عیش میں رهنا

تنعیم bestowing abundance, saying *na'm*, yes, in confirmation (of a debt, etc.), a place 6 miles in the north of Mecca. نازو نعمت دینا - ایک موضع کا نام جو مکه معظمه سے تین کوس اُتر طرف هے

تنفر *tanaffur*, *m.* aversion, disgust. نفرت کرنا - بهاگنا

تنفیس *m.* respiration, breathing. سانس لینا

تنفیذ *f.* royal proclamation. حکم اور فرمان اور نامه جاري کرنا

تنفیر *f.* causing flight. بهگانا

تنقل *n.* copying, imitating, eating. - نقل کرانا کھانا کھانا

تنقي *tanaqqi, f.* purifying, cleansing. پاک کرنا - صاف کرنا

تنقيح *tanqih, f.* cleaning, polishing, deciding disputes, investigation, search, ascertaining, verification of accounts. - پاک اور صاف کرنا - کسي چيز کا عيب سے خالص کرنا

تنقيش *f.* impressing, imprinting, engraving. نقش کرنا

تنقيص *f.* harming, doing injury, reducing, diminishing. نقصان کرنا - کم کرنا

تنقيه *n.* cleaning (the bowels), purging, winnowing grain. پاک و صاف کرنا

تنک *tunuk*, slight, weak, delicate, effeminate, a thin cake or fritter, fine, small quantity, light. باريک - نازک - لطيف - کم - تھوڑا - ھلکا

تنک دل *m. lit.* soft-hearted, mild, kind hearted. نرم دل

تنک مايگي *f.* poverty. مفلسي

تنگار or تنکار *n.* borax. سھاگا

تنگ *m.* strait, tight, narrow, wanting, scarce, barren, *m.* a horse-belt, girth, a bag, a sack, half a horse's, bullock's or camel's load, a bell, name of a place in Badakhshan and in Turkistan, a valley or glen between hills, a depth, a pass - سکڑا ھوا - بھچا ھوا - پھاڑ کا درہ - ايک گدھے کا بوجھه - نواڑ جسے گھوڑے کا زين کستے ھيں - نام ايک ملک کا بدخشاں اور ترکستانميں

تنگ *f.* a beak, a bill. پرندونکي چونچ

تنگ آمدن *id.* to be distressed, to be exhausted, to be dejected, to come near. - نزديک آنا عاجز آنا

تنگتاب *m.* weak, infirm, impotent. - ناتوان ناطاقت

تنگ چشم *m.* miserly, niggardly, a mistress (because she does not look at another). بخيل - کنجوس - صفت معشوق کيونکه وہ دوسرے کيطرف ديکھتا نہيں

تنگ چشمي *f.* stinginess, parsimony, niggardliness, it also means inattention of a mistress because she does not look at another owing to the pride of her beauty and modesty, complaint, meanness - بخيلي کنجوسي - کم نگاھي معشوق کي - فريادگي - کمينہ پن

تنگ حوصلگي } تنگ حوصلگي } *f.* unambitious, unaspiring, پست ھمت

تنگدست *m.* poor, distressed, miserly - محتاج مفلس

تنگدل *m.* miserly, niggard, distressed, sad, ugly, illshaped, بخيل - آزردہ دل - بدنما - بيرونق

تنگري God Almighty. خداتعالی

تنگ سال *m.* famine, dear. قحط کا برس

تنگ عيش *m.* poor, sympathetic. - مفلس دردمند

تنگنا *m.* a strait, a narrow lane, a narrow passage, a grave, tomb. - جائے تنگ - کوچه تنگ - قبر

تنگوز *m.* a boar, a pig. خوک - سور

تنگه *m.* a current coin (either of old or silver or any other metal) سکه رائج خواہ سونے خواہ چاندي يا اور کسي دھات کا ھو

تنگي *f.* want, a bag, a sack, narrowness. سکڑاپن - ضد فراخي کي

تنميه *m* growing of a tree, a man or an animal. بڑھنا درخت انسان يا حيوان کا

تنور *m* an oven, a stone, the world, spring, a reservoir, name of a jungle, or a hill روٹي يا کھانا پکانے کي جگھه - روئے زمين - وہ جگھه جھاںسے پاني نکلے - حوض - ايک جنگل اور پھاڑ کا نام

تنونه *m* a jungle, wilderness. بيابان - جنگل

تنو مند *m.* robust, corpulent, strong, powerful, *met.* rich. قوي الجثه - فربه - موٹا - صاحب قوت - طاقتور - مجازاً دولتمند

تنوير *f* illumination, enlightenment. - روشن کرنا - نور دينا

تنويم *f.* sending one to sleep. سلانا

تنوين *f.* nunation, *i. e.* marking the final letters with double vowel points, which gives them the additional syllable of اِن, اَن or اُن, *an, in* or *un.* نون پيدا کرنا - دو زير يا دو زبر يا دو پيش کا پڑھنا

تنه *m.* a stalk, stock, trunk, stem, dutiful, obedient. درخت کا دھڑ - مطيع - فرمانبردار

تنها *m.* alone, solitary, singular, unique, private, apart, only, single, empty. - اکيلا خالي کے معني ميں بھي آيا ھے

تنه خواري *f.* pining, languishing, to grow weakly with pain and brief punishment, tormentation, trouble. رنج و غم سے اپنے کو گھلا دينا - عذاب

تنيدن جولاھه و عنکبوت weaving (cloth), producing, going round, spinning. بُننا - پيدا - پھيرا کرنا - گرد پھرنا - سوت کاتنا

تنين *f.* a large serpent, a dragon, the constellation Draco. اژدھا بڑا سانپ - نام ستارہ کا آسمان پر مثل بڑے سانپ کے جسکے ايک سرے کو راس کھتے ھيں اور دوسرے کو ذنب يھه مثل اور سيارونکے چلتا بھي ھے اور اسکو تنين فلک بھي کھتے ھيں

تنيده *m.* woven, *met.* human body. بنا ھوا

تو *pro* thou. تو

توا *m.* ruin, destruction. هلاكت

تواب *m.* accepting penitence. توبه قبول كرنيوالا

توابل *m.* hot spice such as cloves, cardamums, pepper, etc. - گرم مصالح - لونگ - الائچي كالي مرچ وغيره

توابع (*pl.* of تابع), followers, dependants. پيرو لوگ

تواتر *m.* continuation, succession. پے درپے هونا

توارد *m.* unintentionally inserting the sense of another in one's own poem, corresponding by letters, alighting on a place together. شاعري كي اصلاح ميں ايک مضمون كا دو شخصونكے ذهن ميں آنا - باهم ايک جگهه اُترنا

تواري *f.* secret, concealment. - پنهان هونا پوشيدگي

تواريخ (*pl.* of تاريخ), dates, histories, annals, chronicles. جمع تاريخ كي - علم واقعات كا اور سنونكا

توازن *m.* two things of equal weight and proportion. دو چيزوں كا برابر اور هموزن هونا

توشي *f.* a small embroidered carpet. ايک قسم كي دري

تواضع *f.* humility, attention, pretended kindness, empty compliments. - فروتني كرنا عاجزي كرنا

تواضع سمر قندي *f.* false politeness, pretended kindness, empty compliment, "*Punica fides.*" كسي كي جهوٹي خاطر داري كرنا

توافر *m.* abundance, plenty, much. - بهتايت كثرت - زيادتي

توافق *m.* concord, agreement, mutual help, (in arithmetic) the relation between two numbers which has a common divisor, as 6 and 8 both divisible by 2. - باهم يكمشت هونا موافق هونا - باهم مدد كرنا

توالد *m.* successive generations, procreation. اولاد پيدا كرنا - كثرت اولاد كي هونا

توالي *f.* continuation, succession. - پے درپے هونا متواتر هونا

توام *m.* a twin, the sign Gemini, also Orion. جوڑواں بچه جو دوسرے كے ساتهه پيدا هو - برج جوزا يهه تشنيه توام كا هے

توامان (dual), twins.

توان *m.* power, strength, ability, strong, able, powerful, (as an *impers.* verb) it is possible. زور - قوت - طاقت - قدرت

توانا *m.* powerful, able, strong. طاقتور - قوت والا

تواني *f.* idleness, indolence, sinning, offending. سستي - تقصير كرنا

توانائي *f.* power, ability. طاقت - قوت

توانستن *inf.* (*r.* (توان): to be able, etc. - سكنا طاقت ركهنا

توانگر *m.* rich, powerful. صاحب قوت - دولتمند

توانگري *f.* opulence, power. مالداري - صاحب قوت هونا

توبره *m.* the bag out of which horses eat their corn. تهيله گهوڑونكے دانه كهلانے كا

توبک *n.* a storehouse, a treasury. - گنجينه خزانه

توبه *m.* penitence, conversion, promising, to sin no more. گناه سے پهرنا - باز آنا

توبيخ *f.* reproach, chastisement, correction, speaking harshly. - ملامت كرنا - جهڑكنا - سرزنش جهڑكي

توپ *f.* a cannon, a gun, an army, a regiment. توپ - فوج - لشكر

توپ توپ meaning much. بمعني فوج فوج (بهت)

توت *m.* the mulberry tree or fruit. شهتوت

توتيا *m.* collyrium. سرمه

توجع *m.* producing pain. درد پيدا كرنا

توجه *f.* turning towards, regarding, attending to, kindness, favour, obligingness. كسي آدمي يا منهه كيطرف ديكهنا

توجيه *f.* calling one's attention, explaining, accounting for, adjustment of accounts, assessment, a description roll. كسي كي طرف منهه پهيرنا بيان اچها كرنا - وجهه بتلانا - دليل لانا

توحد *m.* unity, believing in the unity of the Deity. يكتائي - ايک هونا - وحدانيت

توحش *m.* wildness, rudeness, ill-mannered, savage. وحشي - وحشت كرنا

توحيد *f.* unity, believing in the unity of the Deity. ايک ماننا - ايک جاننا

توخت collected, fulfilled. جمع كيا - ادا كيا

توختن *inf.* to gain, to acquire, to desire, to wish, to collect, to gather, to fulfil, to do. حاصل كرنا - چاهنا - جمع كرنا - ادا كرنا

تودد *m.* friendship, love, affection. - دوستي محبت

توده *m.* the butt, or mark at which arrows are shot, a mound, a heap, a stack. - انبار ڈهير - ٹيله

توديع *f.* bidding adieu, dismissing. رخصت كرنا - وداع كرنا

تور *f.* a net thrown over a bride's palanquin, a fisherman's net. جالي جو اكثر دلهنوں كي سواري ميں لگي هوتي هے - مچهلي كے شكار كا جال

تور *m.* a goglet, a long necked earthen pot for water, plate, a tray, (*pl.* اتوار) - پاني كا كوزه - طبق

توران *m.* the name of the country to the north-east of Persia, generally called Tartary, Transoxiana, Turcomania, Turkistan. ايک مشهور ملک كا نام

تورع *m* abstinence, piety. پرهيزگاري

تورک *m.* purslain (Hortulca oleracea). خرفه كاساگ

توريب *f.* crookedness, crossedness. - سچ كرنا كجي - تيڑها كرنا

توريت *f.* the Old Testament, more particularly the Pentateuch. آسماني كتاب كا نام جو موسى پر نازل هوئي تهي

توريه *n.* concealing, hiding. چهپانا

توز *tuz*, ornaments, trappings of a bow, saddle, etc, the under bark of a tree used in Cashmir for writing upon in lieu of paper, name of a town in Khurzistan in Persia, collect thou ! a collector. زيرات - بيوج پتر جو مشهور پهاڑي پتا هے - صيغه امر كا هے توزيدن سے بمعني جمع كے - به تركيب اسم كے بمعني جمع كرنيوالا

توزع *m.* dispersion, defeat. پراگندگي - پريشاني

توزي *f.* a kind of shawl-stuff manufactured at Tuz (which is in Persia) قسم جامه نفيس جو شهر توز ميں بنتا هے - يهه فارس ميں هے

توزيدن *inf.* to collect, to gather. - جمع كرنا اكٹها كرنا

توزيف *f.* accusing one falsely. ناحق كسي كو گنهگار بنانا

توزيع *f.* dispersing, distributing, dividing, tearing to pieces. پراگنده كرنا - بانٹنا - ٹكڑے كرنا

توزين *f.* weighing two things together. دوچيز كا باهم وزن كرنا

توسط *m.* mediation, introduction, also a mediator or introducer. - ميانه روئي - اعتدال واسطه كرنا

توسع *m.* ample, abundant, wide. - فراخ هونا فراخي كرنا - كشادگي

توسل *m.* conjunction, copulation, introduction (to another person). - وسيله ڈهونڈهنا كسي كو درميان ميں لانا

توسن *m.* a horse, a young unbroken horse, a high-blooded noble steed, a war-horse, a plump horse, a horse with a hard mouth or unmanageable. گهوڑا - گهوڑے كا بچه جو تندخو اور شوخ اور سركش هو

توسني كردن *inf.* to be refractory, to be stubborn. سركشي كرنا

توش *f.* power, strength, body. - توت - دانائي بدن

توشدان *m. f.* a knapsack, a wallet, a pouch, a cartridge-box. ايک تهيلا جسميں خوراک وغيره ركهيں

توشقان *m.* a bore, a rabbit. خرگوش

توشک *f.* a quilt, a mattress فرش بچهانا

توشكخانه *m.* a wardrobe, a place where furniture is kept. وه جگهه جهاں گهر كا اسباب ركهيں - قسم پارچه وغيره سے توسيخانه غلط هے

توشمال *m.* a cup-bearer, a steward, a head cook, superintendent of the kitchen. بكاول - خانساماں

توشه *m.* provision, particularly of a traveller, or those which are carried with the funeral of a deceased person, to support him during his journey to the other world, viaticum. زاد راه - راه كا خرچ و خوراک

توشه برداشتن *id* to travel, to undertake a journey. سفر كرنا

توشيح *f.* garland, decking with a garland, a kind of acrostic. - هار پهنانا - آرائش كرنا ايک صنعت كا نام (شعري كا) كه جو مصرع يا بيت كے حرف اول كے جمع كرنے سے كسي كا نام پيدا هو

توصل *m.* desiring union, conjunction. كسي چيز سے پيوند چاهنا

توصيف *f.* description, commendation, praise. تعريف كرنا - وصف كرنا

توصيه *m.* a bequest, will. وصيت كرنا

توضيح *f.* publishing, illustrating, statement of collections, etc, name of a book. روشن اور پيدا كرنا - ايک كتاب كا نام اصول فقه حنفي ميں

توطن *m.* fixing one's residence in a foreign country, taking up one's abode, to set one's mind on anything. - وطن اختيار كرنا كسي چيز پر دل لگانا

توطين *f.* giving comfort or rest. آرام دينا

توظيف *f.* regular supply (of provision), daily allownce. وظيفه مقرر كرنا - هر روز رسد پهونچانا

توغ *tug m.* a banner, a standard, a flag. علم و نشان فوج كا

توغل *m.* doing full exercise, to set one's mind (on a certain thing), to be engaged. مشق كامل كرنا - بهت دل لگانا - مشغول رهنا

توفر *m.* increasing, augmentation. كسي چيز كا بهت هونا

توفير *f.* increasing, perfecting, augmentation of revenue, profit, gain. - بہت کرنا - بہت ہونا - فائدہ جو کسي کے ٹھیکہ لینے میں ہو

توفيق *f.* the completion of one's wishes, the favour, grace or guidance of God. موافق کرنا - برابر کرنا - اصطلاحاً موافق کرنا خدا کا - اسباب نیکي کے موافق خواهش بندے کے

توفيه *m.* fulfilment of one's promise, execution of one's pledge. تمام دیدینا - اپنے اقرار اور عہد کو پورا وفا کرنا

توق } *m.* eager desire, wishing, anxiety,
توقان } conquest of passion. - آرزو مندي - غلبہ شہوت کا

توقد *m.* kindling (of fire). بھڑکنا آگ کا

توقر *m.* respect, honour, modesty, mildness. اپني عزت کا خیال رکھنا

توقع *f.* request, hope, desire, expectation, wish, trust, reliance. بھروسہ رکھنا - اُمید رکھنا

توقف *m.* patience, delay, procrastination, hesitation, tediousness. دیر کرنا - وقفہ کرنا

توقي *f.* vigilance, guardianship, keeping, custody. نگہباني

توقير *f.* honouring, respecting, treating with ceremony, reverence. دوسرےکي عزت کا خیال رکھنا

توكل *tawakkul*, *m.* trust in God, reliance on, faith in, or resignation to, the divine will or destiny. خدا پر بھروسہ کرنا - خدا پر دل لگانا - اور دنیا سے دل اُٹھانا

توكيل *f.* keeping in custody, imprisonment, advocating, appointing one to plead. وکیل کرنا - کسي کام کو کسي پر چھوڑ دینا - مختارکرنا

توكيد *f.* strength, resolution, firmness, stability. أستواري - أستوار کرنا

تولا *tiwalla*, *m.* love, affection, hope, trust, attachment, going astray, ruling, forming friendship with, responsibility. - محبت - بھروسہ - اُمید - پھر جانا - حکومت کرنا - کسي کو دوست رکھنا - کسي کے کام کو اپنے ذمہ لینا

تولب *m.* young one of an ass. گدھے کا بچہ

تولچہ *m.* a tola (12 mashas), one rupee weight. تولہ ۱۲ ماشہ کا

تولد *tawallud*, *n.* birth, nativity, *adj.* begotten, born, generated. پیدا ہونا - زائیدہ ہونا

تولع *m.* avarice, greed, to be greedy. لالچ کرنا - لالچ

تولہ *m.* misfortune, evil, *tiwala*, a charm, amulet, philtre. مصیبت - بلا

تولي *m.* going astray, ruling, forming friendship, security, responsibility. - پھر جانا - حکومت کرنا - دوست رکھنا - ذمہ لینا (کام کو)

توليد *f.* procreating, generation, birth, assisting at a birth. جنانا - پیدا کرنا - پرورش کرنا

توليت *f.* appointing one as governor, deputy, or superintendent, trusteeship, continuation, succession, to turn one's back (on anything), selling a thing on high price, security. - حاکم کرنا - پے درپے ہونا - پیٹھ پھیر لینا - کسي چیز کا داموںپر بیچ ڈالنا - کسي شخص کو ذمہ دار کرنا

تومان *m.* a myriad, 10,0(0, a sum of money equal to 10,000 Arabic silver drachm (which are about one-third less than those of the Greeks, also a sum equal to fifteen dollars and a half), districts into which a kingdom is divided, each being supposed to furnish 10,000 fighting men, when, for example, a province is put down for seven *tomans*, it implies that such province must hold 70,000 men ready for the field on the requisition of the sovereign. It also denotes a Persian gold coin, at present worth about 10 s. It was formerly worth 20 to 25 s, twenty rupees.

توني *m.* a sweeper, thief, *adj.* treacherous, hypocrite. بھنگي - چور - دغاباز - مکار

توهم *tawahhum*, *m.* suspicion, imagination. وهم میں ڈالنا - وهم کرنا

توهين *f.* enervating, relaxing, scoffing. اهانت کرنا - سست کرنا - ذلیل اور بیعزت کرنا

تہ } *f.* fold, plait, beneath, bottom, void,
تہ } empty, a floor, a sole. - نیچے - فرش - تلا

تهادي *f.* exchanging presents. آپس میں هدیہ و تحفہ بھیجنا

تهامہ *m.* In Arabia, the tract of a land on which Mecca is situated. ملک عرب میں اُس زمین کا نام جسپر مکہ معظمہ واقع ھے

تهاني *f.* (*pl* of تهنیت), congratulations. مبارکباد کہنا

تهاون *f.* disgracing, contempting, reviling. خوار اور ذلیل رکھنا - کسي کو حقیر سمجھنا

تهبند *m.* a cloth worn round the waist, and passing between the legs لنگي لنگوٹ

تهتك *m.* being torn or worn out (as a veil, etc.), disgrace, dishonour. - پردہ دري کرنا - رسوائي

تهجد *tahajjud* *m.* a form of prayer said during the night, wakefulness, sleeping sound. - رات کو سونا - رات کو جاگنے میں کاٹنا - مجازاً وہ نمازیں جو بعد نصف شب کے زاهد لوگ نیند سے اُٹھکر پڑھتے هیں

تهجي tahajji, f. spelling. هجے کہنا

تهجين f. dishonouring, disgracing. - ذلیل کرنا - بیعزت کرنا

ته خانه m. a cellar, a room underground, lower story, a vault. نیچے کا گھر

تهديد f. terrifying, threatening, menace, threat. ڈرانا - دھمکانا - خوف دلانا

تهذيب f. purifying, adjusting, adorning, edification. آراستہ کرنا - پاک کرنا - کسي چیز کو اصلاح دینا

ته ريش گذاشتن id. deceive, to cheat. فریب دینا

ته کردن زانو id. to respect, reverence, deference or respect. ادب سے بیٹھنا

تهلکه m. ruin, perdition, consternation, alarm, pang, agony. - هلاک هونا - مرنا - نیست هونا

تهليل f. acknowledging the true God, by repeating (in Arabic) the sentence, لاالٰہ الاالله "La ilaha illa llahu, wa Muhammadun rasulu-llahi," "there is no god but God, and Muhammad is God's apostle. لاالہ الاالله کہنا

تهمت f. suspicion of guilt, accusation, charging one with a crime. - عیب لگانا - برائي کرنا - گمان بد کرنا (کسي کیطرف)

تهمتن m. valiant, heroic, title of Rustum. دلاور - مشہور پہلوان رستم کا لقب

تهنشان, inlaid, particularly iron with gold. سونے یا چاندي کے تارونکا کوفت کا کام جو تلوار وغیرہ کے قبضہ پر ہوتا ہے

ته نشین شدن inf. to subside, to settle. sediment. تہ پر بیٹھنے والا - تلچھٹ

تهنيت f. congratulation, bearing, (a hardship). مبارکباد دینا - گوارا کرنا

ته و بالا کردن to subvert, to overthrow. - الٹ دینا - پلٹ ڈالنا

تهود m. doing good, penitence, confession, embracing a Jewish religion. - نیک کام کرنا - توبہ کرنا - مذہب یہود اختیار کرنا

تهور tahawwar, m. intrepidity, daring, plunging inconsiderately into any business, fury, oppression. مردانگي - زیادتي - قوت غضبي کي

تهوع m. sickness at the stomach, nauseating. ابکائي آنا

تهويل f. frightening, terrifying. - خوف دلانا - ڈرانا

تهي f. empty, vain خالي - پہلو تهي کردن to abstain. رکنا کسي کام کے کرنے سے

تهيدست m. empty-handed, poor. محتاج - فریب

تهي آخر m. excommunicated (from eating and drinking), poor. وہ شخص جسپر کہانا پینا بند ہو - غریب

تهي کرد past. escaped, ran away. بھاگا

تهي ماندن inf to be deprived of. محروم رہنا

تهيگاه m. the womb, the abdomen. - بکھي (هندي) کوکہ

تهي مغز m. foolish, ignorant. بیوقوف - جاهل

تهيه tahiya, m. preparation, provision, putting in order. تیاري - سامان

تي f. (contr. of تهي), empty, void. خالي

تيار (for طیار), ready, prepared, finished, complete, alert, swift walker, one who can jump or leap, met. present, supply, proper (work), waving, boisterous, billowy. - مستعد - کامل - جلد رفتار - مرجزن - کودنے اور اچھلنے والا - مجازاً بمعني موجود - مهیا - درست کام

تيبا m. removing, reputing, averting, looking out (for any person), expectation, blandishment, coquetry. دفع کرنا - انتظار - ناز

تير m. an arrow, the planet Mercury, the fourth solar month of the Persian year (corresponding to the Hindu Shravan or Sanwan), a beam, power, strength, anger, fury. - ستارہ - نمال کا تیز - عطارد - سال شمسي کے چوتھے مہینے کا نام - هندي میں تقریباً ماہ ساون - جسکو تیر ماہ بھي کہتے هیں - چھت کي سیدھي کڑي - طاقت - قدرت - غصہ

تير آور m. a treachrous, deceitful, hypocrite حیلہ گر - مکار

تير پرتاب m. the range of an arrow, bow-shot distance, a kind of arrow travelling for a flying arrow. تیر جو بہت دور جائے - تیر هوائي

تير تظلم m. sighs of the oppressed. کنایہ هے مظلوموںکي آہ سے

تير چرخ n. the planet Mercury. ستارہ عطارد

تيرخدنگ m. a musical plectrum or bow. مضراب ستار بجانے کا

تيردان m. a quiver. ترکش جسمیں تیر رکھیں

تير دستي f. a staff, a rod, a mace. - لاٹھي عصا

تیر سبک زخمه / تیر شکر زخمه } m. an unfailing arrow. وہ تیر جو کبھي خطا نہ کرے

تيرکش m. (cont. ترکش) a quiver, an aperture, loop-hole. ترکش کا مخفف - وہ سوراخ جو دیوار قلعہ وغیرہ میں هوتے هیں جس سے توپ - بندوق حریف کو مارتے هیں

تیرک زدن *inf*. the flow of blood caused by the shot of an arrow اصطلاحاً زخم تیر سے خون جاري هونا

تیرگي *f*. darkness, obscurity, dimness - دهندلاپن تاریکي - سیاهي

تیر گان *m*. the oppressed. مراد مظلوموں سے

تیر هوائي *f*. a flying arrow, a rocket. وہ تیر جو آسمانکي طرف پهینکیں - ایک قسم آتشبازي کي

تیرہ *m*. dark, obscure, filthy, angry, furious, awful. گندلا - تاریک - سیاہ - خشمناک - غصہ‌دار

تیرہ روزي *f*. unfortunate, unlucky, hypocrisy, cunningness, artfulness, poverty. - بدقسمتي مفلسي - عیاري - مکاري

تیرہ روزگار *m*. unfortunate, unlucky, - بدنصیب بدقسمت

تیز *m*. sharp, pungent, acute, hot, strong, impetuous, violent, swift, clever. دهار جو خوب کاٹ کرے (یاے مجهول سے)

تیز *f*. flatulence, generating wind in the stomach. گوز - پاد (یاے معروف سے)

تیز هوش *m*. wise, intelligent عقلمند - دانا

تیس *m*. a he goat (especially one that is old and rank), a stag. بکرا - اهوے نر

تیسو *f*. easiness, to render easy. - آساني آسان کرنا

تیسر *m*. becoming easy. آسان هونا

تیش *m*. a tooth. دندان (یاے مجهول سے)

تیشہ *m*. a kind of axe used by carpenters, an adze. بسولہ (بڑهي کا)

تیغ *m*. (changed from تیز as ایز and امیغ), a scimitar, a sword, a dagger, back, moonlight - تلوار - چهوٹي تلوار - خنجر - پیٹهہ - چاندني

تیغا } تیغہ } *m*. a short, broad scimitar. - خنجر چهوٹي تلوار

تیغ بخاک کردن *id*. to cease warfare and bloodshed. فساد و خونریزي کا ترک کرنا

تیغدار *m* a wrestler, a strong or powerful man. پهلوان

تیغ دودمہ *m* two-edged sword. وہ تلوار جسکے دونوں طرف دهار هو

تیغ زنگار خوردہ *m*. a rusted sword, an old sword. مراد پراني تلوار سے

تیغ سوزن ربا } تیغ سوزن دار } *m*. a well-tempered sword تلوار بڑي آبدار

تیغ شدن *inf* face to face. روبرو هونا

تیغ کوہ *m*. top, summit of a mountain پہاڑ کي چوٹي

تیغ و ترنج بیمان اوردن *id*. to test, to examine, (this phrase originates from the account of Yusuf and Zuleika who, to examine the beauty of Yusuf, had given a sword and an orange in the hands of the women of Egypt). آزمانا - آزمایش کرنا

تیغہ پشت *m*. the backbone. ریڑہ کي هڈي

تیقظ *tayaqquz m*. a watchfulness, vigilance. بیدار هونا - بیداري

تیقن *tayaqqun*, knowing for certain, prying into, ascertaining, trusting. - یقین کرنا اعتبار کرنا

تیقیظ *f*. awakening, arousing from sleep. بیدار کرنا

تیم *f*. a slave, a servant. بندہ غلام

تیم *f*. a caravansary, the world. (یاے معروف سے) کاروانسرا - اور کنایہ دنیا سے

تیماج *m*. goat's leather perfumed, which they bring from Arabia, also called بلغار or Russian-leather. بو دار چمڑا جسکو ادیم اور بلغار بهي کہتے هیں

تیمار *m*. care, attention, regimen of the sick, infirmity, sickness, indisposition, affliction غمخوري اور خدمت کرنا - بیمار کا علاج کرنا

تیمم *tayammum, m*. purifying before prayer with sand or dust, when water cannot be had. بجاے پاني کے پاک مٹي سے هاتهہ اور منهہ سے مسح کرنا بموجب قاعدہ شرع کے

تیمن *m*. receiving blessing or congratulations. برکت لینا - مبارکبادي لینا

تین a fig. انجیر جو مشہور میوہ هے

تیناب *m* quicksilver, a dream, (in Arabic) a vision سیماب - خواب (جو سوتے میں دیکهتے هیں) - عربي میں رویا

تیول *m*. a landed property, help. جاگیر

تہ بني اسرائیل *m* the wilderness in which Moses wandered about with the Israelites for forty years وہ جنگل جسمیں موسی اپني قوم سمیت چالیس برس تک پهرتے رهے

تیہو } تیہوج } *m* a crow, a jackdaw, also a small partridge, *adj*. empty. کوا جو ایک مشہور پرند هے - تیہوج تیہو کا معرب هے

———

— ث —

ث *se*, Fourth letter of the Arabic alphabet. It does not occur, strictly speaking, in words of Persian or Indian origin. Its sound, among the Arabs, is that of *th* in the English word *thin*, but the Persians and Indians give it the sound of s. It is one of the radical letters, never being employed in the formation of derivatives, and in the reckoning by ابجد it stands for 500. When Persian words are introduced into Arabic writings this letter is sometimes used instead of *te* or *sin*.

ثابت *a*. firm, constant, durable, stable, proved, confirmed, established, fixed. قائم - مضبوط

ثابت خاني an armed retainer or sentinel. هتهيار بند پاسبان

ثاد *m* damp, moist, winter. نم - جاڑا - سرما

ثار vengeance for blood. خونکا بدلہ لينا

ثاقب *f*. shining, splendid, sublime, high, a she camel giving much milk. روشني - درخشان اونتني جسکے دودہ بہت هو

ثالث *m*. the third, an umpire, arbitrator, mediator. تيسرا

ثالث ثالثہ *salas salasa*, *m*. trinity (in Christianity, the Father God, the Son and the Holy Ghost). تثليث

ثالثہ *f*. an arbitress, mediatrix, sixtieth part of a minute, a moment, a second. بيچ بچاؤ کرنے والي - ساٹهوان حصہ دقيقہ کا يعني لمحہ اور لحظہ

ثالوث *m*. the Trinity, the most holy Trinity. تثليث

ثامن *m*. the eighth. آٹهوان حصہ يعني ⅛

ثاني *m*. the second. دوسرا

ثانيہ *m*. moment, second (the 60th part of an hour), minute. دقيقہ - انگريزي سکنڈ - يعني ساٹهوان حصہ گهنٹہ کا - منٹ

ثائر *m*. an avenger, one taking vengeance out of malice. کينہ کا بدلہ لينے والا

ثبات *m*. permanency, stability, firmness, resolution, constancy. پائيداري - قيام

ثبت *m*. writing, fixing, argument, controversy, confidential (man), trustworthy, resolute, firm, constant, true. لکهنا - تحرير کرنا - قرار دينا - حجت - مراد معتمد - ثابت دل - سچا

ثبوت *m*. proof, confirmation by evidence, firmness, permanency, stability. ثابت هونا

ثبور *m*. destruction, ruin, perishing. کسي کو هلاک کرنا - هلاک هونا - نيست و نابود هونا

ثرا *m*. opulent, rich, *m*. the earth. دولتمند - زمين (دنيا)

ثروت *f*. wealth, multitude. دولت - بهيڑ - گروہ

ثريا *m* the Pleiades. سات ستارے

ثج *m*. flowing of blood (from a slaughtered animal in a sacrifice). قرباني کے خون کا بہنا

ثجاج *m*. issuing, flowing, continuing. جاري کرنيوالا - جاري هونيوالا

ثجيج *f*. flowing of blood and water. پاني و خون کا بهنا

ثخن *m*. fleshy, thick, corpulence, thickness. دل - مٹاپا - حجم

ثخين *f*. fleshy, thick, hard. دلدار - موٹا - سخت

ثدي *f*. breast (of male and female). انسان کي چهاتي - (خواہ مرد خواہ عورت)

ثريا *m*. the Pleiades, the wain, Ursa Major, sometimes this word means "teeth", name of a very handsome woman. پروين چهہ ستارے - کبهي دانتوں سے بهي مراد هے - ايک عورت کا نام جو بڑي حسينہ تهي

ثريد *f*. bread crumbs soaked in soup (of meat). روٹي کے ٹکڑے شوربہ ميں ڈوبي هوئي

ثعالب (*pl*. of ثعلب), *m*. foxes. لومڑياں

ثعبان *m*. a big serpent, a dragon (*pl*. is ثعابين). بڑا سانپ - اژدها

ثعلب *m*. a fox. روباہ - لومڑي

ثعلبان *m* a renard, a male fox. نر لومڑي

ثعلبيہ *m*. name of a place. نام ايک مقام کا

ثغور *m*. (*pl*. of ثغر), suburbs, vicinities, dominions. سرحدين

ثفر *m*. a crupper. دمچي

ثفل *sufl*, dregs, sediment, refuse, bran; excrement. بهوسي - پاخانہ - پهوک

ثقات (*pl*. of ثقہ). trusty friends. معتمد لوگ

ثقابہ *m*. blowing up into flames, kindling (of fire). آگ کا بهڑکنا

ثقافہ *m*. wise, constant, firm, stable, active, strong, energetic. عقلمند هونا - استوار هونا - چست هونا

ثقال *f*. a corpulent woman. موٹي عورت

ثقالت *f*. weight, heaviness. گراني - بوجهہ - بهاري پن

ثقب (*pl*. of ثقبہ), holes, apertures. جمع ثقبہ بمعني سوراخ کي

ثقبه *m.* an aperture, a hole. سوراخ - چهيد

ثقبة غبيه *m.* the pupil of the eye, the aperture in the iris through which the rays of light pass. مردمک - آنکهه كي پتلي

ثبات *f.* stability, firmness, constancy, confirmation. مضبوطي - استواري

ثقل *m* gravity, weight, heaviness, indigestion, heavy load, buried treasure, sin, dead body, (*pl.* اثقال). گراني - بوجهه - زميں ميں گڑا هوا مال - مردہ - گناہ - جمع اسكي اثقال هے

ثقه confidence, a confidant, a trusty friend. مرد معتمد - اعتقاد كرنا - استواري

ثقيل *f.* heavy, burdensome, lazy, phlegmatic, indigestible. گراں - بهاري - بوجهل

ثكل *m.* dying, perishing, reducing the number of friends, becoming childless of a mother. مرنا - هلاک هونا - كسي كے دوستونكا كم هوجانا - مكاں كا بے فرزند هونا

ثكلى *m.* a mother whose child is dead. وہ عورت جسكا فرزند مر گيا هو

ثلاث *salas*, three, ثلاث *sulas*, by three. تين تين كر كے

ثلاثه *m.* Tuesday. روز شنبه سنگل كا دن

ثلاثي *f.* triangular, anything made up of three parts, triple, (in gram.) trilateral. وہ صيغه جسميں اصلي تين حرف هوں

ثلب *m.* an old camel, an old man - بوڑها اونٹ - مرد پير

ثلب *m.* dirt, filth, ordure. چرک - ميل

ثلبه *m.* an old she camel. بوڑهي اونٹني

ثلث *m.* the third part, also name of a character. تيسرا حصه يعني ⅓

ثلثان *m.* two thirds. تين حصونميں سے دو حصے

ثلثون *m.* thirty. تيس (۳۰)

ثلج *f.* snow, ice. برف

ثلغ | ثلغ } *m.* breaking one's head كسي كا سر توڑنا

ثلم *m.* boring a hole. سوراخ كرنا

ثله *m.* a crowd, a multitude. آدميونكا غول

ثم *sum, adv.* once more, again. پس - پهر

ثم *sam, adv.* there, thither, in that place. انهہا - اُس جگهه

ثمار *pl.* of ثمر, *m.* fruits جمع ثمر يعني پهل يا ميوہ

ثمال *m* an antidote. زهر هلاک كرنيوالا

ثمان *m* eight. آٹهه يعني (۸)

ثمانون *f.* eighty. اسي (۸۰)

ثمد *m.* a small quantity of water تهوڑا پاني

ثمر | ثمرہ } *m.* fruit, produce, advantage, profit, offspring, money, result. درخت كا پهل - ميوہ - مال - زر - فرزند - سونا - چاندي - نتيجه

ثمر *simar*, *m.* goods in abundance. زيادتي مال كي

ثمن *m.* price, value. قيمت - مول - قدر

ثمن *sumun* or *sumn*, *m.* the eighth part. آٹهواں حصه

ثمود *m.* the tribe of Thamud were the posterity of Thamud the son of Jathar the son of Aram, who falling into idolatry, the prophet Salih was sent to bring them back to the worship of the true God. A small number of the people of Thamud hearkened to the remonstrances of Salih, but the rest requiring, as a proof of his mission, that he should cause a she camel big with young to come out of a rock in their presence, he accordingly obtained it of God, and the camel was immediately delivered of a young one ready weaned, but they, instead of believing, cut the hamstring of the camel and killed her, at which act of impiety God, being highly displeased, three days after struck them dead in their houses by an earthquake and a terrible noise from heaven.

ثمير *f.* fruitful. ميوہ دار

ثمين *f.* costly, precious. قيمتي - گرانبها

ثمينه *m.* a costly thing. - چيز گراں - قيمت بيش بها

ثنا *f.* praise, applause, eulogy. - تعريف - مدح - ستايش

ثواب *m* the future reward of virtue, a virtuous action, reward, premium - بدلا عوض - امور خير اور اچهي باتونكا عوض جو آخرت ميں مليگا

ثواب *m.* a money lender, a cloth merchant, a mercer. صراف - لباس بيچنے والا

ثوابت (*pl.* of ثابت), *m.* the fixed stars. وہ ستارے جو حركت نهيں كرتے

ثوب *m.* a robe, a vestment. - كپڑا - جامه لباس

ثوباء *m* yawning, gaping. جماهي

ثوبان *m* returning, coming back, name of a slave of Muhammad. واپس آنا - نام ايک غلام حضرت محمد كا

ثور *m.* bull, the sign Taurus, twilight, crepuscle, the name of a mountain near Mecca, a captain, the green scum on the surface of stagnant pools, etc., moss, whiteness in the root of a nail (of a finger), a fool, ignorant, silly, clouds of dust, swelling of the testicle, hopping of a locust, gushing out of the blood, name of a tribe. بیل - نرگاؤ - نام دوسرے برج کا آسمان پر جو بشکل بیل هے - نام ایک قبیلہ کا - نام ایک پہاڑ کا مکہ معظمہ میں - پیشوائے قوم - کائي جو پاني پر جمجاتي هے - جامہ فوک - سفیدي جو ناخن کے جڑ میں هوتي هے - احمق مرد - نادان - گرد و غبار کا اُٹھنا - خصیہ کا بڑہ جانا تڈي کا اُچھلنا خونکا نکلنا

ثوران *m.* rising of the clouds of dust, yearning, rising of a tumult. گرد و غبار کا اُٹھنا خون کا جوش مارنا - فتنہ و فساد کا اُٹھنا

ثوم *m.* garlic. سیر - لھسن (هندي)

ثیاب (*pl.* of ثوب), *m* clothes, robes. جمع ثوب کي بمعني پهننے کے کپڑے

ثیبہ *f.* a woman who has consummated her marriage, *femina cujus periit virginitas* وہ عورت جو کواري نہ هو خواہ اُسکا شوهر زندہ هو خواہ مردہ

ثیبات *pl.* of ثیبہ (which see). جمع ثیبہ کي

— ج —

ج *jim* or *jim-i-tazi*, is the fifth letter of the Arabic alphabet, and the sixth in the Persian, it has the sound of *j* in *judge*. In Arabic it is a radical letter. In enumeration by ابجد it stands for the number three, It is sometimes used 1st for *sh*, as کاج for کاش would that! 2nd, for *g* (particularly in conformity to Arabic pronunciation) as فرنج for فرنگ, Europe, 3rd, for final imperceptible *he*, as فیروزج for فیروزہ a turquoise. Again, for *j* are used, 1st, *t*. as تارات for تاراج plunder, 2nd, *zh* as کژدم for کجدم a scorpion, 3rd, *g* as اخشج اخشیگ, contrary. In some cases it is redundant.

جا *f.* place. جگہہ

جا بجا *adv.* everywhere. جگہہ جگہہ - هر ایک جگہہ

جابر *m.* a despot, a tyrant. جبر کرنیوالا - زیادتي کرنیوالا

جاثمین *f.* lying on one's face, dead (men), motionless. اوندے پڑے هوے لوگ - مرے هوئے لوگ - بیحس و حرکت والے

جاثوم *m.* the nightmare, *modus certus coeundi.* کابوس ایک عارضہ کا نام جسے آدمي سوتے میں ڈرتا هے

جاجم *f.* cloth thrown over the carpet to sit on. فرش رنگین کي ایک قسم

جاداد *f.* a place, station, service, employment, consignment, goods, property. مالیت - اسباب مکان

جادادن *inf.* to give place or room. جگہہ دینا

جادو *m.* enchantment, conjuring, juggling, a magician, a juggler. منتر - سحر - اور جادو گر کے معني میں بهي آتا هے

جادل *m.* querulous, contentious, quarrelsome, controversialist. لڑنیوالا - بیدلیل بحث کرنیوالا

جادو کشاں *m.* slayers of the magicians. جادوگروں کے قتل کرنیوالے

جادو گر *m.* an enchanter, conjuror, magician. ساحر - جادو کرنیوالا

جادوي *f.* magic, necromancy. ساحري - جادوگري

جادہ *m.* a pathway, a road, manner, practice, the right road. راہ راست - پگڈنڈي (هندي)

جاذب *m.* alluring, attractive, soaking, drawing (as a plaster) کشش کرنیوالا - جذب کرنیوالا

جاذبہ }
جاذبیت } attracting, charm, grace, loveliness. جذب - جذب کرنیوالي - انسان میں ایک قوت - تاثیر - کشش محبت

جار *m.* neighbour, partner (in trade), a refugee, one seeking shelter, sheltered, given a refuge, husband. - ہمسایہ - پڑوسي - شریک تجارت میں - پناہ مانگنیوالا - پناہ دیا گیا - شوهر

جار *m.* collection, wealth, recollection, reflection, cry of a proclaimer or a crier. جمعیت - ڈهنڈهوریا کي آواز

جارچي *m.* a chief, a leader, an intelligent person, an aide-de-camp, a public crier, a proclaimer. نقیب - ڈهنڈهوریا

جارزدن *inf.* to proclaim by beat of drum ڈهنڈهورا پٹوانا

جارحہ *m.* one causing a wound, a beast, hand and the other limb of a man, (*pl.* زخم کرنیوالا - شکاري جانور - هاتهہ اور (جوارح دوسرا عضو آدمي کا - جمع جوارح هے

جاروب *m.* a broom or the sweeper who uses it. جھاڑو - سوھني

جاري *f.* running, flowing, proceeding, current, customary, in force (a law). رواں - بہتا ھوا

جاریہ *f.* a maid-servant, a daughter, sun, a boat, flowing, running, blessing (of God), (*pl.* جواري). لونڈي - بیٹي - آفتاب - کشتي - جاري ھونیوالا

جازم *m.* one of firm resolution, having the property of rendering the last letter of a word inert or not followed by a short vowel. مضبوط قصد کرنیوالا - ساکن کرنیوالا حرف متحرک کو

جاسوس *m.* a spy, emissary, (*pl.* جواسیس) جو شخص ایک ملک کي خبر پوشیدہ دوسرے ملک میں بھیجے یا لائے - جستجو کرنیوالا احوال کا

جات *m.* dry. خشک

جافي *m.* a tyrant, oppressor, persecutor. ظلم کرنیوالا - جفا کرنیوالا

جاگرم کردن *id.* to sit in a place for a long time. کسي جگھہ دیر تک بیٹھنا

جالب *m.* attractive, alluring, drawing. اپني طرف کسي چیز کا کھینچ لینے والا

جالس *m.* one who sits, one of a company. بیٹھنے والا - بٹھانیوالا

جالینوس *m.* Galen, the celebrated Greek physician. ایک مشھور یوناني حکیم کا نام

جالي *m.* a polisher, burnisher, illuminator. جلا کرنیوالا - صاف کرنیوالا

جام *m.* a goblet, cup, glass, any vessel for drinking out of, a bowl, a mirror, name of a place in Khurasan, sometimes it means (heaven.) پیالہ - خراسان میں ایک شھر کا نام - کبھي مراد آسمان سے بھي ھے

جام جھان نما } جام جھانبین } جام کیخسرو } *m.* a pharos, a cup made by Kaikhusro on which were engraved beautiful letters. کیخسرو نے ایک بڑا جام بنایا تھا اور اُسمیں ھندسہ اور خطوط ایسے کندہ کئے تھے جس سے حوادث روزگار اور احوال عالم کے خیر شر کا معلوم ھو جاتا تھا

جام جم *m.* (or جام جمشید) the mirror of *Jamshid* in which he saw whatever he wished. جمشید کا پیالہ جسمیں وہ جو کچھہ چاھتا تھا دیکھ سکتا تھا

جام سحر *m.* sun. آفتاب

جام سفالینہ *m.* human body مراد آدمي کے جسم سے

جام عالي *m.* a big cup or glass. - بہت بڑا پیالہ کاسا -

جام فرعوني *m.* a gold cup made by Pharoah which was so big that four men used to lift it and pass it round. فرعون نے ایک جام سونے کا بنوایا تھا جو اتنا بڑا تھا کہ چار آدمي اُسے اُٹھا کر مجلس میں پھراتے تھے

جام گیتي نما *m.* means جام جھان نما, (in Yusuf Zuleika) heart. مراد جام جھان نما - یوسف زلیخا میں ایک جگھہ مراد ھے دل سے

جام یافت is equal to got (his) wishes fulfilled. یعني مراد پائي

جامح *m.* disobedient, revolting, mutinous سرکشي کرنیوالا

جامد *m.* styptic, fixed, concrete, a noun not derived from any root, and from which no word is derived. مثل پتھر کے جمع ھوا - وہ لفظ جس سے کوئي مشتق نھو - اور نہ وہ کسي سے مشتق ھو

جامع *m.* completing, comprehending, collecting, a mosque, where the prayer called *khutba* is repeated on Fridays - جمع کرنیوالا شامل - وہ مسجد جسمیں نماز جمعہ پڑھیں

جامغول *m.* a bastard, wicked, bad - حرامزادہ شریر - خراب

جامگي *f.* salary, allowance, wages, old garment, dregs, a match of a gun. - روزینہ وظیفہ - جامہٴ کھنہ - تلچھٹ جو شراب پینے کے بعد پیالے میں باقي رھے

جاموس *m.* a buffalo. بھینسا

جامہ *m.* garment, robe, vest, a flowered sheet or shawl, a kind of chintz, a goblet, a cup of wine. - (بچھانیکا) پھلائے کے کپڑے - فرش صراحي - شراب کا پیالہ

جامہ درخم نیل کردن *id.* to condole, to lament. مراد ھے تعزیت کرنے اور زاري کرنے سے

جامہ سرخ پوشیدن *id.* to get wild, to lose one's temper, to be furious. قہر و غضب میں ھونا

جامہ صورت *m.* a painted cloth وہ کپڑا جسپر تصویریں ھوں

جامہ غوک *m.* the green scum on the surface of the stagnant pool or the green mould that sticks to walls and pavements, scum, for paste. کائي جو پاني پر ھوتي ھے

جامہ گذارشتن *id.* to pass away, to die (a king or a grandee.) کسي بادشاہ یا ولي یا کسي بزرگ کا مرنا

جان *f. m.* life, soul, spirit, mind, power, a sweetheart. روح - جان - طاقت - معشوق

جان آزاري *f.* troubling, paining. دکهه دينا

جانان } handsome, lovely, a sweetheart,
جانانه } a mistress. - جان - معشوق - پيارا

جان آهن *m.* cruel, despotic, oppressor, valiant, brave. بيرحم - دلاور - سخت جان

جانب *f.* part, a side. طرف

جانباز *m.* risking life, venturesome, daring, industrious. بڑا محنتي - جان کا کهيلنيوالا

جان بردن *inf.* to lead a life. زندگاني گذر کرنا

جان بلب equal to on death's door, on the point of death. قريب المرگ

جانبين (*dn.* of جانب), mutual, on both sides. دونوں طرف - طرفين

جان پريان *f.* grape wine. انگوري شراب

جان درميان داشتن *id.* great love or affection. کنايه نهايت الفت اور محبت سے

جان دارو *m.* an antidote. ترياق - نوشداره

جاندار } *m.* a sword or armour-bearer,
جانه دار } armed, a friend, helper. - سلاحدار هتهيار بند - اور بمعني دوست اور مددگار کے بهي آتا هے

جانشين *m.* a locum tenens, a deputy, a successor, viceregent. قائم مقام - وه شخص جو کسي کي جگهه پر بيٹهے

جانفشاني *f.* zeal, devotedness, extreme diligence, effort, endeavour. محنت - سعي

جانفزا *m.* water of life. آب حيات

جانکاه *m.* life-reducing, pathetic, affecting. جان کا گهٹانيوالا

جانگزا *m.* endangering life. جان پر خطره پهنچانيوالا

جانور *m.* an animal, any living creature. جو صاحب جان يعني زنده هو مجازاً وحوش وطيور سواے انسان کے

جان و هوش بودن *id.* perfect love and unity. کنايه کمال محبت اور اتحاد سے

جاني *m* a lover, a friend, *adj.* of or relating to the life or soul. منسوب طرف جان کے جو بمعني روح اور زندگي کے هے - دوست - پيارا

جاني *m.* a sinner. گنهگار - تقصير وار

جاودان *adv.* always, eternal, everlasting, at all times. هميشه

جاوداني *f.* eternity, the next world. هميشگي

جاويد } always, eternal, everlasting.
جاويدان } هميشه - دائم - برقرار

جاه *f.* dignity, rank, grandeur, honour, respect. رتبه - قدر - مرتبه - عزت

جاهل *a.* ignorant, barbarous, brutal, not learned. ان پڑها - بيعلم

جاهليت *f.* ignorance, folly, Muhammedans use the term. ايام جاهليت (days of ignorance) to denote the times previous to the manifestation of *Islam*, or what they consider the true faith. St. Paul uses a similar phrase with reference to the days before the diffusion of Christianity (Acts xvii. 30) (Binning). وه زمانه جو مسلمانون کے پهلے تها جبکه لوگ بت پرستي کرتے تهے - جاهل هونا

جائر *m.* despot, tyrant, cruel, misguided. جور کرنيوالا - ستمگر - راه حق چهوڑ کر راه باطل پر هو جاے

جائز *f.* proper, permitted, right, warrantable, authorized, lawful. درست - مطابق شرع

جائزه *m.* reward, compensation, examination, reviewing, confronting, benignity. - انعام صله - نيک بدله - علامت تصحيح کي جو بعد مقابله کے بناتے هيں

جائع *f.* hungry. بهوکها - گرسنه

جاے *f.* a place (see جا) جگهه - مقام

جاے تخليه *f.* place for sleeping and resting. مقام سونے اور آرام کا

جاے جو *f.* a hearth, a fireplace. آتشدان

جاے فلاں پيداست }
جاے فلاں خالي است } these phrases are revised when a man re-
جاے فلاں سبز است } members an absent friend. جب کسي غير حاضر شخص کو ياد کرتے هيں تو يهه الفاظ کهتے هيں

جب *m.* a well. چاه - کنوان

جبا *m.* tribute, revenue, *met.* a cup of wine or coffee given to a friend. - خراج - باج اصطلاحاً - شراب يا قهوا کا پياله جو کسي کو تواضع کيطور پر ديں

جبار *m.* omnipotent, a conqueror, a revenger, despot, tyrant, proud, rebellious, revolting, a tall palm-tree, the constellation Orion. جبر کرنيوالا - ظلم کرنيوالا - غرور کرنيوالا - خدا کے نامونميں سے ايک نام

جباري *f.* pride, grandeur, pomp. تکبر - شان

جبال (*pl.* of جبل), mountains. جمع جبل بمعني پهاڑ

جبال راسيات *m.* a very strong and lofty mountain. بلند اور مضبوط پهاڑ

جبان *a.* timid, abject, *m* a coward. - نامرد بد دل - بزدل

جبانت *f.* timidity, cowardliness. - نامردي بد دلي

جبان / جبانة } *m.* a desert, wilderness, jungle. صحرا - بيابان - جنگل

جباه (*pl.* of جبهه) foreheads. پیشانیاں

جبابرة (*pl.* of جبار), rebellious, mutinous, revolting. گردنکش لوگ

جبت *m.* idol, a priest, astrologer, magician, magic, anything worshipped in place of God. بت - کاهن - نجومي - جادو گر - جادو - وہ چیز جو سواے خدا کے پوجي جاے

جبر *m.* oppression, violence, strength, force power, the reduction of fraction to integrals, bandaging, dressing (wounds). ظلم - طاقت - پٹي باندهنا - پٹي - ٹوٹے هوئے کو باندهنا - کسیکو کسي کام پر زبردستي مقرر کرنا

جبراً *adv.* oppressively, by violence. ازروے بے اختیاري

جبروت *f.* greatness, pride, *met.* God's glory and unity, omnipotence, dominion. عظمت - بزرگي - تکبر - اصطلاحاً بزرگي اور وحدت خدا کي

جبریل / جبرائیل / جبرئیل / جبرین } *m.* the archangel Gabriel. نام فرشتہ مقرب و مشهور کا

جبل *m.* a mountain, a hill. کوہ - پهاڑ

جبل الرحمة *m.* name of a mountain in Arafat. عرفات میں ایک پهاڑ کا نام

جبلت *f.* essence, quality, disposition, temperament, constitution, ovation, form. پیدائش - خلقت - طبیعت

جبلہ *m.* the hump of a camel. اونٹ کا کوهان

جبلي *f.* natural, innate, essential, in general. طبعي - ذاتي - پیدائشي

جبلي *f.* hilly, (of) a mountain. پهاڑي

جبن *m.* cheese, pussilanimity, cowardice. پنیر جو دودہ کو پهاڑ کر بناتے هیں بمعني نا مردي - بد دلي

جبهہ *m.* forehead. پیشاني - ماتها

جبہ *m.* a kind of long vest, resembling a shirt, a coat of mail. فقیرونکا لباس

جبہ درویش *m.* sun (in winter), cloud, night. آفتاب (جاڑے کا) - ابر - رات

جبین *f.* the forehead. پیشاني - ماتهہ

جث *m.* taking a thing by the root, uprooting, eradicating. جڑ سے اکهیڑنا

جثام *m.* nightmare. کابوس - سوتے میں ڈرنا

جثمان *m.* the body. تن - جسم - بدن

جثہ *m.* the body, the figure of the human body. جسم - بدن

جثو / جثي } *m.* kneeling, resting on the bended knees. زانو کے بل بیٹهنا

جحد *m.* refusing intentionally. جان بوجهکر انکار کرنا

جحش *m* a young one of an ass or a horse, tyranny, oppression, hardship, rage, fury. name of a companion of Muhammad. گدهے کا بچہ - گهوڑے کا بچہ - جفا - سختي - غضب - نام ایک صحابي کا

جحمرش *f.* a very old woman, an ugly woman, a hag, (*pl.* جحامر). بہت بڑهیا - بد شکل عورت - (جمع جحامر)

جحي (*contr.* of جوجي) name of a joker. مخفف جوجي کا - ایک مسخرہ کا نام

جحیش *m.* self-opinionated and proud. خود رائے اور متکبر

جحیم *f.* a very hot fire, hell, the damned. بہت تیز آگ - چهٹي دوزخ کا نام

جد *m.* a grandfather, an ancestor, dignity, glory, (of God), happiness, prosperity, fortune, luck, bank (of a river), ending, finishing, cutting (cloth). - بخت - تونگري - بزرگي - دریا کا کنارہ - تمام هونا - دادا - نانا

جد *jidd*, *m.* trial, endeavour, effort, study. کسي کام میں کوشش کرنا - درستي

جد *judd*, *m.* the well in a field. وہ کنواں جو کهیت میں هو

جدار *f.* a wall. دیوار

جدال *m.* altercation, contest, enmity, war, fight. جنگ کرنا - دشمني- لڑائي جنگ

جداول *jadawil*, (*pl.* of جدول), lines, rivulets, canals, columns in a book, &c. جمع جدول کي بمعني لکیر اور نهر کي

جدت *f.* becoming new or fresh, newness. نیا هونا - تازگي - نیاپن

جدث (*pl* is اجداث) tomb, grave. گور - قبر

جدد *pl.* of جدہ (which see).

جدد *m.* level ground. هموار زمین

جدر a wall. دیوار

جدر *judar*, (*pl.* of جدار), walls. جمع جدار بمعني دیوار کي

جدران (*pl.* of جدر) walls. دیوارین

جدري *f.* the small-pox. چیچک - سیتلا

جدع *m.* nose, ear and hand-clipt, imprisoning. ناک کان اور هاتهہ کٹا - قید کرنا

جدل *m.* fighting, battle, encounter, altercation. لڑائي - جنگ

جدول *f.* lines drawn in a book, as ruling, or to separate the margin, a rivulet, a table, an astronomical table, a dam پاني كي نهر - كهائي - مجازاً سرخ لكيرين گرد كسي ورق كے

جدوار *m.* zedoary (*kæmpferia zedoor*) نربسي (هندي) - ايک مخروطي شكل سياه رنگ جڑ

جده *jadda, f.* granmother. دادي - ناني

جده *jeddah, m.* a seaport in Mecca, a dog-collar. درياے مكه كے كنارے پر ايک مشهور شهر كا نام - كتے كے گلے كا پٹا

جدي *judai, m.* the polar star. قطبي ستاره

جدي *jadi, m.* a kid, a he-goat, the sign or constellation Capricorn. بكرا - بزغاله - ايک برج جو آسمان پر هے

جديد *a.* new, fresh, modern, a meter in prosody. نيا - نو - ايک بحر كا نام

جديدان *m.* night and day. دن اور رات

جدير *a.* worthy, fit. لائق - موافق سزاوار

جذام *m.* leprosy, more especially the black or eating leprosy, the worst form of the disease. كوڑه كي بيماري

جذب *m.* allurement, attraction, absorption, drawing (as a plaster). كهينچنا - كشش كرنا

جذبه *m.* passion, rage, fury, violent desire ايكبار كهينچنا - دلكا جوش

جذر *m.* origin, root, the square root (in arithmetic) (for *jazr*) the ebb-tide. اصل هر چيزكي - جڑ سے أكهيڑنا

جذع *m.* the trunk of a tree, a branch (of a tree). درخت كا تنه - شاخ (درخت كي)

جذلان *a.* happy, glad, merry. شادان - خوش و خرم

جذم *m.* the root of every thing, foundation of a building. هر چيز كي جڑ - عمارت كي نيو

جذوع (*pl.* of جذع) (which see)

جذوه *f.* a spark. چنگاري

جر *jarr, m.* drawing, dragging, the base, foundation, foot of a mountain, the vowel *kasra*, at the end of words, (in law) dragging forth an offender for public punishment, pitchers, shell. - كهينچنا - گناه كرنا كسي كلمه كو زير دينا - حركت زير كي - پهاڑ كا دامن كوڑيان - مٹي كے گهڑے - كشش

جر *m.* horse's saddle. زين گهوڑيكا

جراب *m.* a sock, stocking, a leather bag, a wallet, skin of a bullock. - پانون كا موزه چمڑے كي تهيلي - توشه دان - بيل كي كهال

جرات *f.* courage, audacity, boldness, bravery, temerity, valour دلاوري - چالاكي - جونمري

جراح *m* a surgeon, an anatomist. زخم دينے والا - نشتر لگانيوالا

جراحت *f.* a wound, a sore, زخم - گهاؤ

جراد *m.* a locust. ملخ - تڈي

جراره *m* a large army or force, a kind of scorpion لشكر گران - بڑي فوج - ايک قسم كا بچهو

جرار *m.* attracting, warlike, valiant. numerous. اپني طرف كهينچنے والا - لشكر بهت انبوه دار

جراز *f.* a keen-edged sword. تلوار بهت تيز

جرائد (*pl* of جريده), offices. جمع جريده بمعني دفتر كي

جرائم (*pl.* of. جريمه), sins, crimes, offences. جمع جريمه - گناه اور خطا

جرب *jurb, m.* a partridge (پرند) دراج - تيتر

جرح *m.* a wound, a sore, (in law) an offence against the person. زخم - گهاؤ

جرده *m.* colour. سياه رنگ

جرز *f.* barren, was te land. بنجر زمين - جس ميں گهاس بهي نهوتي هو

جرس *m.* a bell (on a horse's neck). sound of a bell. گهنٹه كي آواز

جرعه *m.* a drop, one draught. ايک گهونٹ

جرف *jurf*, a receptacle for water, a pool, pond, ditch. - وه گهڑا جس ميں پاني جمع هورهے آبگير (فارسي)

جرگه *m* multitude, crowd. انبوه آدميوںكا

جرمانه *m* a fine, a penalty. وه روپيه جو مجرموں يا گنهگاروں سے ليں (جريمانه غلط هے)

جرم *m.* the body of any thing inanimate, a globe, a flaw or crack. تن - جسم - دهڑ

جرم *jurm*, a crime, remedy. - چاره علاج - گزير

جرم *jurm, m.* cure, fault, sin. - خطا - گناه قصور

جرموز *m* a small reservoir, a small house, a small well, limbs (of men). - چهوٹا حوض چهوٹا مكان - چهوٹا كنواں - اعضا (آدمي كے)

جرمه *m.* a white horse. سفيد رنگ كا گهوڑا

جره *m.* valiant, brave, a horse for riding, a a hawk, a falcon (also applied to any male bird). - دلير شجاع - سواري كا گهوڑا نركي ميں هر پرند جونر هو - اور خصوصاً باز كے نركا

جره *jirrah, m.* the food which ruminating animals bring up from the first stomach to chew cud نشخوار - جگالي (هندي)

جري *a*. valiant, intrepid. دلير - دلاور

جريان *m*. flowing, running, flux (of blood, urine, etc.) رواں هونا پاني وغيره كا

جريب *f*. a measuring-chain or rope, a land measure of 60 *gaz* square, or 3,600 square *gaz*. ايک آلہ زمين كي پيمايش كا

جريح *a*. wounded. زخمي - گهائل

جريد *m*. a letter-bearer, a messenger, a spy. قاصد - جاسوس - نامہ بر

جريده *m*. a register, an account-book, *adj*. alone, separate, solitary, unattended (when travelling), unencumbered, branch of a tree without leaves, office. حساب كي كتاب - لكهنے والوں كا دفتر - تنها - اكيلا - درخت كي شاخ بغير پتوں كي

جريش *m*. half-ground or coarsely pounded grain. بلغور - دليا

جريمه *m* a crime, a fault, also a fine, mulct, or pecuniary punishment. - گناه - خطا جرم

جز *prep*. besides, except. سوائے - بدون

جز *juz*, *m*. a part, a portion, foot of a verse, "a section of the *Kuran*, (*pl*. اجزا). The holy book of the Moslems which consists of 114 chapters called *sura* (*pl*. suwar), the aggregate of which is divided into 30 sections, as above mentioned. Each of these sections is also sub-divided into two portions, called حزب (*pl*. احزاب)." A division of a book consisting of eight leaves, ingredient. حصہ - فصل

جزا *f*. retaliation, requital, return, retribution, compensation, reward. بدلہ - عوض

جزالت *f*. strength, confirmation, greatness, excellence, permanency, completion, مستحكمي - استواري - خوبي - بزرگي - تمام هونا

جزائر (*pl*. of جزيره), *m*. islands, a kind of musket. جمع جزيره كي بمعني ٹاپو - ايک قسم كي بندوق كا نام

جزديده *m*. blind. اندها

جزر *m*. the ebb-tide, the reflux of the sea, term in arithmetic signifying duplication, cutting, curtailing, slaughtering a camel and flaying him, plucking a fruit (from a tree.) دريا كے پاني كا گهٹنا - اونٹ كو قرباني كرنا اور اُسكي كهال كهينچنا - درخت سے ميوه توڑنا

جزر *m*. a carrot. گاجر

جزرومد *m*. the ebb and flow of the sea. پاني كا گهٹنا بڑهنا جو سمندر ميں هوتا هے بسبب چاند كي كشش كے - جوار بهاٹا (هندي)

جزع *m*. impatience. بے صبري

جزل *m*. sawing or cutting a dry wood, saying something definite, charitable, wise, good, sound of a pigeon. خشک موٹي لكڑي كا چيرنا - بات محكم اور مضبوط كهنا - بهت بخشش كرنيوالا - عقلمند - آواز كبوتر كي

جزم *m*. deciding, determining, resolving, amputation, the orthographical character جزم which is placed over a letter to shew that it is inert or has no vowel following it. قطع كرنا - حرف كا ساكن كرنا - وه اراده جس سے آدمي پهرے نهيں

جزو *jazua*, a part or portion, *juzw*, a particle, subduing. حصہ - ٹكڑا

جزورسي *f*. stinginess, niggardliness. - كنجوسي بخيلي

جزوي a little, in part, a few, (*pl*. جزويات) تهوڑا - منسوب - بہ جزو

جزويات *f*. parts, portions, particulars. افراد حصے جو كليات نہ هوں

جزيل } *a*. great, large, strong, full, much,
جزيلہ } many. - بڑي محكم چيز - بزرگ - پر - بسيار - بهت

جزيه *m*. tribute, capitation, tax levied by the *Musalmans* on their subjects of another faith, a poll-tax. محصول كي ايک مقدار معين جو هر سال كافرذي سے ليجاويے

جسارت *f*. boldness, presumption, temerity, daring, intrepidity, passing. - دليري مردانگي - گذرنا - تجاوز كرنا

جسامت *f*. corpulency, bulkiness. - جسيم هونا موٹا هونا

جستن (*r*. جہ) to spring, to leap. كودنا

جستن *justan* (*r*. جو *ju* or جوے *jue*) to seek or search. ڈهونڈهنا

جستجو *f*. searching, seeking. - تلاش كرنا ڈهونڈهنا

جستہ رگ *a*. careful, vigilant, on one's guard. هوشيار - خبردار

جسد *m*. the body (*pl*. اجساد), dry blood, saffron. جسم انسان اور جن اور فرشتونكا - خون خشک - زعفران

جسر *jisr*, *m*. a bridge. پل جو دريا كے اوپر هوتا هے

جسک *m*. grief, sorrow, affliction, misfortune, calamity, evil. درد - رنج - بلا

جسماني *f*. belonging to a body, corporeal, material, carnal. جسم كا - جسم دار

جسیم *a.* corpulent, large-bodied. فربه - موٹا

جش *m.* pounding, beating, breaking. - کوٹنا توڑنا

جشا *m.* a belch, eructation. آروغ - ڈکار

جشب *m.* unpleasant meal. طعام ناگوار

جشن *m.* a feast, a festival (chiefly applied to royalty luxury). - محفل - خوشي کي خوشي - عيش

جشيب *f.* everything hard, unpleasant, tasteless, unseasoned, plain, bread (only). هر چيز سخت - ناگوار - بدمزا - سوکهي روٹي

جشيش *f.* coarse grained meal. بلغور خواه پکا خواه خشک - دليا (هندي)

جص *jass*, lime (mortar). چونا (عمارتکا)

جصاص *m.* a mason. گچ کر

جعبه *m.* a quiver. ترکش - تيردان

جعد *f.* a ringlet, a lock of hair, curly hair. گهونگر والے بال - موڑے هوئے بال

جعده *m.* a lock of hair, ringlet, hair. زلف

جعدالیدین / جعدالاصابع } *m.* a miser, a niggard. مرد بخيل اور کنجوس

جعفر *m.* a river (large or small), brook, a man's name, name of an alchemist, sometimes it means a melon, name of a tribe. ندي - نالہ (پاني کا) - قبيلہ کا - نام ايک مرد کا - ايک کيميہ گر کا نام

جعفري *f.* a kind of cupola, a sort of screen (the intertices of the frame being lozenged), lattice work, the purest kind of gold, the name of a yellow flower called also گل اشرافي, *Linum trigynum*, *met.* yellow coloured. - ايک قسم کا زرد رنگ کا پهول زرد رنگ

جعل *m.* lease, forged or counterfeit (a coin etc.) کرنا - بنانا - نقل کرنا کسي چيز کا اسطرح جو اصل کے مشابہ هوجاے

جعل *m.* the name of a beetle found in cowdung (scarabœus.) گوبرونڈا - گبريلا

جغ *m.* a yoke. لکڑي کا جوا

جغ *jag*, a churner, a churn-staff. لکڑي جو دهي ميں پهير کر مکهن نکالتے هيں - متهني - رئي (هندي)

جغرات *m.* thick sour milk, coagulated milk, curd. دهي جو دوده جما کر بناتے هيں

جغرافيه *m.* geography. علم هے صورت زمين کا جسميں خشکي اور تري اقليمونکا بيان هوتا هے

جغله *m.* youth, a young lad. مرد جسکے ڈاڑهي مونچهہ نکلا هو

جف *a.* withered, drooping, bad, dry. - پژمرده خراب - مرجهايا هوا - خشک

جفا *f.* oppression, violence, injury, injustice. ظلم - ستم

جفا پيشه / جفا گستر } *m* an oppressor, tyrant, cruel, a despot. ظالم - ستمگر

جفاء *jufai*, refuse, scum (of metal), dross. کوڑا - کف - چاندي سونے کا ميل

جفاف *m.* getting dry. خشک هوجانا - سوکهه جانا

جفان *m.* large cups, branches of vine. بڑے کاسے - انگور کي شاخيں

جفت *m.* evenness, parity, a pair, a couple, a match - هرشے جو دو هون زن و شوهر - نر و ماده هل چلانيوالي جوڑي بيل کي - جوڑا ضد طاق کي

جفت گرفتن *id.* to marry. نکاح کرنا - شادي کرنا

جفت ران *m.* a farmer who ploughs (a field), a ploughman, a farm labourer. کسان جو هل چلاوے

جفت شدن *id.* to copulate. کنايه هے جماع کرنے سے

جفت کردن نظر *id.* to stare at, to fix the eyes on. بغور تمام کسي چيز کي طرف گهورنا اور ديکهنا

جفتک *m.* a pair of Brahmini duck, (*Anas casarca.*) سرخاب کا جوڑا - چکري چکوا (هندي)

جفت نقش ديوار شدن *id.* to be much confounded or fatigued. کنايه هے نهايت حران هونے سے

جفته bent, wrinkled, running together (the threads in cloth.) خميده - کج

جفته *jufta*, *m.* buttock, kicking with hind legs (as a horse), a well, a ditch, hole. چوتڑ - گهوڑيکا پچهلے پيروں سے دولتي مارنا - کنواں - گڑها - سوراخ

جفته طاق *m.* the two eyebrows. کنايه هے دونون بهوں سے

جفتي *f.* copulation. جفت هونا - جماع کرنا

جفر *n.* a kid four months old, name of a place in Mecca, name of a learned man, the art of making amulets or charms. بکري کا بچه چار مهينے کا - مکه معظمه ميں ايک مقام کا نام - ايک عالم مشهور کا نام

جفن *m.* eyelid. پرده چشم - آنکهه کي پلک scabbard, the sheath of a sword. تلوار کا ميان

جفير *f.* a quiver. ترکش

جقجق *n.* nonsensical talk, twaddle. شور و غوغا - بک بک

جگر *m.* the life, vitals, heart, mind, sometime it also means grief, sorrow, anger, hope, expectation, power, strength. - کلیجه دل - کبھي بمعني رنج - غم - غصه - امید - انتظار - تاب طاقت

جگر بند *a.* the bowels or entrails, *met.* a son. مجموع کلیجه اور پھیپھڑا اور دل وغیره - اصطلاحاً فرزند

جگر خواره *m.* a lover, admirer. مراد عاشق سے

جگر افگار / جگر چاک / جگر فگار *n. f.* heart broken. - دل شکسته عاشق

جگر داشتن *id* to have the courage or boldness (to do a thing), to venture, to dare. تاب و طاقت رکھنا

جگر سائے *m.* injurious, harming, troublesome. ایذا پہونچانیوالا

جگر گوشه *m.* a son (much loved). فرزند عزیز

جل *a.* great, glorious, eminent. بزرگ *jalla.* (3rd Pers. sing.), is eminent, *jalla jalaluhu*, eminent is His majesty phrases applied only to God. خدا کي شان کے الفاظ

جل *jull*, *f.* a housing or covering for an elephant, bullock, &c., a flower. جھول گھوڑے بیل وغیره کي - معرب ھے گل کا یعني پھول

جل آب *m.* the green scum on the surface of stagnant pools. کائي جو پاني پر جم جاتي ھے

جلا *jilla*, a polisher, scourer, burnisher. صیقل گر - جلا کرنیوالا

جلاب *m.* a purge, *q d.* drawing (from جلبه, he drew), shifting, taking from one place to another. کھینچنے والا - ایک جگھه سے دوسري جگھه لیجانیوالا

جلاب *jullab*, *m.* derived from the Pers. گل a rose and آب water, a sherbet made of candy and rose water. معرب گلاب کا - شربت جو قند اور گلاب سے بناتے ھیں

جلاد *m.* an executioner, (and hence as an *adj.*) cruel, hardhearted, a swordsman. (one who excoriates, from جلد, the skin), one who flays. کوڑا مارنے والا - قتل کرنیوالا - کسي جانور کي کھال کھینچنے والا

جلادت *f.* activity, agility, strength. - چستي چالاکي - جوانمردي

جلافت *f.* empty bellied, *met.* folly, ignorance, meanness - پیت خالي ھونا - مجازاً جہالت حماقت - کمینه پن

جلال *m.* dignity, state, majesty, grandeur, splendour, power, glory. بزرگي - صفات

جلال *jilal*, *pl.* of جل (which see) جمع جل کي

جلالت *f.* dignity, etc., (same as جلال) - بزرگ ھونا - بزرگي

جلالي *a.* glorious, illustrious, it also denotes an era, reckoned from the time of *Jalal-ud-din*, Malik Shah, son of Alp Arslan of the Saljuk dynasty of Persia, commencing at the vernal equinox A. D. 1079. بزرگ - نام دار - منسوب طرف جلال الدین شاه فارس کے

جلاوطن *m.* banishment, expulsion, exiling one's self, abandoning one's country. پردیس نکالدینا - کسیکا اپني گھر سے بے گھر ھوجانا - ترک وطن کرنا

جلائل (*pl.* of جلیله) glories, powers. جمع جلیله کي بزرگیاں

جلاء *f.* splendour, luster, brightness, enamel, scouring, polishing, collyrium. - روشن کرنا صاف کرنا - رنگ چڑھانا - اور بمعني سرمه کے بھي آتا ھے

جلاء *jala*, emigration, expulsion, banishment, abandoning one's country. دیس سے پردیس نکالدینا - آپ سے ترک وطن کردینا

جلب *m.* drawing, extracting, taking. - لینا کھینچنا

جلب *m.* selling, purchase, profit, interest, commerce, trade, bargain. - بیچنا - سودا نفع - تجارت - سود

جلب *jilab*, *f.* a prostitute (in Pers.) uproar, bustle and clamour. زن فاحشه - شور غوغا

جلباب *f.* a sheet (of cloth). چادر

جلباب سفن *m.* white sheet. سفید چادر

جلجلان *m.* coriander seed (*Coriandrum sativum*) کشنیز بمعني دھنیا

جلد *m.* a whip, lash, *a.* expeditious, quick, hasty, brisk, fast, fierce, active, hard, biting of a snake, copulation. - تازیانه - کوڑا - جلد شتاب - چست و چالاک - تیز - سخت ھونا - سانپ کا کاتنا

جلد *jild*, *f.* the skin, leather, the binding of a book, a volume, a book. - پوست چمڑا - کھال

جلد کر *m.* a book-binder- جلد باندھنے والا

جلدو *juldu*, *n.* reward. انعام - بدله - صله

جلسا (*pl.* of جلیس) companions. مجلس کے لوگ

جلسہ *m.* assembly, meeting, posture, situation, seat, post, state. - محفل - ملاقات نشت

جلف (*pl.* اجلاف) *m.* tyrant, oppressor, cruel, empty pitcher, anything empty, an animal having no skin and whose stomach be burst, *met.* a miser, mean, base, despicable, deadly, impure, filthy. ظلم کرنے والا - خالي مٹکہ - هر چيز خالي - حيوان جسپر کهال نهو اور جسکا پيٹ پهٹا هوا هو - مجازاً مردار کمينہ - ناپاک

جلق *m.* masturbation (*emessio semenis*). انزال کرنا

جلگہ *m.* a meadow, greensward. - مرغزار سبزہ زار

جلمد جلمود } *m.* a hard stone, a flint, a hard-hearted man. سخت پتهر - سخت آدمي

جلنار (Arab. form of گلنار) the pomegranate flower. انار کا پهول

جلو *f.* a rein (of a horse's bridle), retinue, court, equipage. گهوڑيکي باگ - مجلس

جلوت *f.* splendour, lustre. ظاهر کرنا - دکهلانا

جلود (*pl.* of جلد), skin, leather. چمڑے جلوس *m*, accession (to a throne), the reign or era of a monarch. بيٹهنا

جلوہ *m.* splendour, lustre, show, the bridal bed or ornaments, sometimes it means gait of a mistress. - دکهاو - سنگهار - خرام معشوق

جلي *f.* plain, apparent, large, plain (handwriting). روشن - ظاهر - آشکارہ - کاتبون کي اصطلاح ميں موٹا خط

جليد snow, hail, ice. اولہ - برف - يخ

جليس *m.* a companion. همنشين

جليل *a.* great, glorious, illustrious. بزرگ - بڑا

جم *m.* a multitude, many, much, all. بہت - تمام

جم *m.* name of an ancient king of Persia (Jamshed), famed for his pomp and splendour. جمشيد شاہ فارس کا نام

جم *jim*, a name of Satan. شيطان کا نام

جم *jim*, a shell, pearl, mother-o'-pearl. صدف - سيپ

جماہ *m.* a stone of fossil, a land where no rain falls, a year in which there falls no rain unproductive, fruitless, barren, a miser, a niggard, hard ground. (*pl.* جمادات).

پتهر - زمين جسپر پاني نہ برسے يعني سال قحط - وہ چيز کہ جسکي نشو و نمانهو - بخيل - زمين سخت

جمادي الاولی جمادي اول } *m.* the ferst *jamada*, the fifth month of the lunar year of the *Musalmans*, consisting of thirty days. پانچوان مهينہ قمري هے مسلمانون کا پهلے مهينے محرم سے

جمادي الاخری جمادي الاخرہ } *m.* the second or latter *jamada*, the sixth month of the *Musalmans*, it contains twenty-nine days. چهٹا مهينہ قمري

جمار *m.* throwing stones at. کنکريان مارنا

جمازہ *m.* swift running camel. تيز رفتار اونٹ

جماش *m.* impudent, bold. شوخ - دليو

جماع *f. coitus, concubitus*, copulation. مرد کا عورت سے صحبت کرنا

جماع الاثم *m.* drinking. شراب پينا

جماعت *f.* a party, a crowd, an assembly, a troop, meeting, society, senate, congregation. گروہ آدمي کا

جمال *m.* beauty, elegance حسن خوبصورتي

جمال جمالہ } *m.* a camel-driver. شتربان - ساربان

جمال *jimal* (*pl.* of جمل) camels. جمع جمل کي بمعني اونٹ

جمان pearl, small round things like pearl made of silver. موتي - گوهر - چاندي کي گهنڈيان بشکل موتي

جمام *m.* full to the brim (as a vessel with water.) پر اور لبالب هونا ظرف کا پاني سے

جماهير (*pl.* of جمهور), crowds, جمع جمهور بمعني گروہ (آدميونکي)

جمجمہ *jumjuma*, *m.* a skull, a cup made out of a skull of man, a wooden cup. کهوپڑي سر کي - کاسہ سر آدمي کا - باديہ لکڑي کا

جمد *m.* snow, ice, congelation, connection برف يخ

جمدر *m.* a dagger. کٹار - جمدهر

جمدہ *m.* bright, glorious, exalted and great بزرگ و بلند

جمر *f.* sparks (of fire). چنگارياں آگ کي

جمرہ *m.* a spark, a stone, pelting stones (in pilgrimage), name of a venereal disease آگ کي چنگاري - کنکري - کنکري مارنا (حج ميں) مرض آتشک

جمشید (v. جم), name of a celebrated Persian king, the founder of Persepolis. If this word (جمشید) comes with. - اسپ - نگیں طیور - ماهي - آصف - باد - تخت - خاتم and it should mean Solomon and if it comes with سد - آئینہ - آبحیواں etc. it means Alexander (Sikandar) and if it comes with جام - شراب - بزم - جشن and نوروز it should stand for جمشید Jamshed. نام فارس کے بادشاہ کا جو شاہ فارس کا تھا

جمع f. a congregation, conjunction, collection, accumulation, assembly, amount, sum, total, whole revenue generally, amount assessed, plural number. - اکٹھا کرنا جماعت - گروہ (آدمیونکا) اسم واحد کو جمع کرنا

جمع انداز m. a skilled archer وہ تیر انداز جسکا ہر تیر نشانہ پر پڑے

جمعیت f. collection, wealth, recollection, reflection. گروہ - آدمیوں کا جمع ہونا

جم غفیر m. a great multitude. جماعت کثیر

جمل m. a kind of camel, a kind of fish. اونٹ شتر نر

جمل jumal (pl. of جملہ) the whole sum, the reckoning by abjad. جملے - حساب اعداد ابجد کا

جمل juml, a. beautiful, of a good disposition. خوبصورت - خوش سیرت

جملگي f. the totality, the whole, تمام - سب

جملہ jumla, m. the whole sum, aggregate, total, a sentence. فقرہ - حصہ کلام کا

جمود m. congelation, coagulation, freezing. جم جانا - جمنا

جموع pl. of جمع (which see) جمع جمع کي هے

جمہور f. universal, all, m. high heaps of sand, a republic, populace, community. سب - کل گروہ آدمیونکا

جمیع f. the whole, all, universal. تمام - سب

جمیعاً adv. altogether, universally. سب کے سب

جمیل (fem. جمیلہ) a. beautiful, elegant. خوبصورت حسین

جن m a genius, spirit, demon. بھوت - دیو

جن junn, shield, target سپر - ڈھال

جناب f. side, brink, margin, majesty, highness, excellency, vestibule, threshold. درگاہ آستانہ - چوکھت - گردا گرد گھر کا

جناب (in Pers. shop. فارسي میں بمعني دوکان هے

جناہا m. the twins. دو لڑکے جڑواں

جنابت pollution, loss of sperma, distance. دوري - مجازاً نا پاکي یعني حاجت غسل

جناب (pl. of جاني) sinner. گنهگار لوگ

جناح f. a pinion, wing, arm. پر - بازو

جناح junah, m. a sin. گناہ

جنادل (pl. of جندل) stones. جمع جندل بمعني پتھر کي

جنازہ m. a bier, a hearse, a funeral. مردے کا تابوت

جناغ } m. a contract, a bargain, wagering.
جناق } آپس میں شرط بدنا

جناغ junag, } m. a horse's saddle. گھوڑیکا
جناق junaq, } زین پوش

جنان janan, m. heart. دل

جنان jinan (pl. of جنت), gardens (planted with tree), the regions of paradise. جمع جنت بمعني بهشت کي

جنایت f. sinning. گناہ کرنا

جنایات m. sins, faults, crimes. بہت سے گناہ تقصیریں

جنب m. a side, a part, a tract of country. پہلو - کنارہ

جنب jumb, m. defiled, polluted. - نا پاک آدمي بے غسل آدمي

جنبش f. agitation, motion, gesture. - حرکت ھلنا

جنبش زنخ m. witticism, joke. کنایہ هے مسخرہ پن کرنیسے

جنت f. paradise, heaven, garden (planted with tree). بہشت

جند m. an army, a force, a medicinal substance found in the castor beaver. لشکر - فوج - ایک دوا کا نام (جند بیدستر)

جندل m. sandal-wood, a bigstone. بروزن صندل - بڑا پتھر

جنس f. genius, kind, species, sort, family, race, goods, marchandise, moveables, grain, commodities, produce. ہر چیز کي ایک نوع جسکے نیچے بہت سي قسمیں مندرج هوں

جنسیت f. homogeneousness, sameness, or similarity of kind. ایک جنس ہونا - ایک میل ہونا

جنسراري f. separately, distinctly. - صاف صاف علحدہ علحدہ

جنف f. desiring to oppress. ظلم کرنیکا ارادہ کرنا

جنگ m. battle, war, combat, fight لڑائي

جنگ jung, f. a volume containing verses and subject of all kinds. بڑي بیاض جسمیں اشعار و مضامین وغیرہ مندرج هوں

جنگ زرگري *m.* a goldsmith's quarrel, the term is applied to a collusive dispute between two parties in order to defraud a third. دوسرے شخص کے فریب دینے کے لئے کسي سے ظاهر میں لڑنا لیکن باطن میں ملے رهنا

جنگ گاه *f.* the field of battle. لڑائي کا میدان

جنوب *m.* the south, the south-wind. - دکھن دکھني هوا

جنود *pl.* of جند (which see).

جنود کبریا *m.* angels. مراد فرشتوں سے هے

جنه (*pl.* of جني), genii, demons and fairies. بهت سے دیؤ و پري

جني *jinni, m* a demon, genius. ایک جن

جنین *f.* fœtus, embryo. وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں هو

جو آب *m.* barley-water or gruel. آش جو

جوابده *m.* a respondent or surety, *adj.* responsible, accountable, amenable. جس سے مطالبہ کیا جاوے

جواد *a.* liberal, beneficent, munificent, name of God, a fleet horse. بهت بخشش کرنے والا - نام خدا کا - تیز رفتار گھوڑا

جواذب *f.* attractive, drawing (*pl.* of جاذبہ) کشش کرنیوالي چیزیں جمع جاذبہ

جوار *m.* neighbourhood, propinquity. پڑوس همسائگي -

جوارش *f.* the Arabic form of گوارش a stomachic medicine. دواے مرکب هاضم خوش مزه

جواري (*pl.* of جاریہ) *f.* she-slaves, maid-servants. لونڈیاں

جواز *m.* a wooden mortar, sugar-mill, an oil-mill. کولھو جسمیں تیل وغیرہ نکالیں

جواز *jawaz, m.* permission, lawfulness, propriety, passing. - گذرنا - روان هونا - درست هونا موافق شرع

جواسیس (*pl.* of جاسوس), spies, messengers. جمع جاسوس کي

جوال *juwal,* a bag, sack, the half of a (horse) load, the human body, deceit, fraud. جسمیں غلہ بھر کر ٹٹو یا بیل وغیرہ پر لادتے هیں - مجازاً جسم انسان - دغا - فریب

جوامع (*pl.* of جامعہ), iron collars put round a criminal's neck as a punishment, all, whole لوهے کے طوق جو گنهگاروں کي گردن میں پهناتے هین - مجازاً تمام - سب

جوا *a* young, youthful, *m.* a youth, lad, man, adult. گبرو - بالغ

جوان صالح *m.* a fine youth. N. B.—The term جوان agrees more nearly with the Latin "*juvenis*" than with our word "youth." خوبصورت جوان

جوانب (*pl.* of جانب), sides. اطراف - طرفیں

جوانمرد *a.* brave, generous, manly, *m.* a fine young fellow, a brave fellow, a hero. مرد سخي - مرد بهادر

جواهر *pl.* of جوهر. - جمع جوهر کي بمعني موتي - قیمتي پتھر وغیرہ

جوائیز rewards, gifts, presents (*pl.* of جائزہ) تحفے - انعامات - بخششیں

جود *m.* a present, liberality, munificence, beneficence. بخشش - سخاوت

جودت *f.* good, excellence, quality of being good, ingenuity, intelligence, quickness of apprehension. نیکي - نیک هونا - هر چیز کي خوبي

جودت *judat,* fleetness (of a horse). گھوڑے کي تیز رفتاري

جودي *m* name of a mountain where Noah's ark had stopped after the Deluge, called Mt. Ararat by the Christians. نام ایک پهاڑ کا جهاں حضرت نوح کي کشتي بعد طوفان کے ٹهري تهي

جوذر *m.* the young one of a wild cow. جنگلي گاے کا بچہ

جور *m.* violence, oppression. ظلم - ستم

جورب *m.* a sock, a stocking. موزہ - جراب

جوز *m.* a nut, a nutmeg, walnut. اخروٹ

جوزا *m.* the sign Gemini, also Orion, name of a woman, a black goat with a white stripe on her back. - نام تیسرے برج آسمان کا نام ایک عورت کا - کالي بکري جسکي پیٹھ پر سفید دهاري هو

جوزبویا nutmeg *m.* (Myristica moschata). جائفل

جوز بر گنبد انداختن *id.* to work uselessly, fruitless endeavour. بیفائدہ کام کرنا - بیکار کوشش کرنا

جوززدن *id.* to put coals in a fireplace. آتش دان میں کوئلے ڈالنا

جوزالمثل *m.* the thorn-apple, Datura. دهتورہ کا پھل

جوزن *m* a magician, an enchanter. - ساحر جادو گر

جوز هندي *f.* cocoanut. مغز ناریل

جوسق *m.* a palace, a lofty edifice, name of a palace in Bagdad. قصر و محل - عباسي کے محلا کا نام بغداد میں

جو سنگ means, equal to the weight of a barley grain. جو کے وزن کے برابر

جوش m. heat, ebullition passion, lust. - أبال شوزش دل کي

جوش josh, chest, midnight, waist, a boiling pot. سينه - آدهي رات - کمر آدمي کي - ديگ کا اوبلنا

جوشاندن inf. to boil. جوش دينا - أبالنا

جوشش f. heat, ebullition, violent desire, fervour, emotion. جوش

جوشن m. a cuirass, armour, coat of mail. زره جو لڑائي ميں پهنتے هيں

جوشيدن inf. to boil, met. to be enraged. - أبلنا جوش مارنا

جوشيده مغز m. angry, wild. پرخشم

جوع f. hunger, appetite. بهوک - گرسنه هونا

جوع البقر } m. voracious, gluttonous. ايک مرض هے که باوجود سيري معده کے
جوع الکلب } تمام اعضا پر حالت گرسنگي کي طاري رهتي هے يعني غذا جزوبدن نهيں هوتي

جوعان a. hungry. گرسنه - بهوکا

جوف m. belly, stomach, the interior cavity (of any thing, hence a drum called مجوف mujawwaf). شکم - پيٹ - خول هر چيز کا

جو فروش گندم نما this phr. means a cunning or treacherous man. مکار اور دغاباز آدمي

جوق } m. a troop or body of men, a flock
جوق جوق juq, } of birds, a body of angels and genii. فوج - لشکر - گروه (آدميونکا) پرندوں کا غول - گروه فرشتوں اور جنونکا

جو گندم m. gray beard. داڑهي جسميں سفيد اور سياه بال هوں

جول m. a wilderness. بيابان

جولان m. moving, springing, wandering, running, causing the horses to run. - دوڑنا دوڑانا گهوڑونکا - گرد پهرنا

جولاں julan, f. iron fastenings to the legs of criminals or of quadrupeds, fetters. زنجير يا بيڑي جو مجرموں کے پيرونمين پهناتے هيں

جولاني f. strength of mind or body; quickness of apprehension, fleetness, horse, a glass of wine. گهوڑا - پياله شراب کا

جولاه m. a weaver. جولاهه کپڑا بننے والا

جولقي a. kind of monk, who deserts the world, wife, friends, &c. and travels about with shaven head and beard. - قلندر کمل پوش

جولهه m. a weaver, a spider. جولاهه - مکڑي

جوليده julida, a. scattered, confused. پريشان

جونه m. a scent-box, a perfume box - عطردان عطر فروش کا بکس

جوهر m. a gem, jewel, pearl, bright, glittering, skill, knowledge, matter, substance, essence (distinguished from accident), virtue, worth, merit, blackish marks in the steel of well-tempered scimitars سنگ قيمتي اصل هر شے کي اور خلاصه اُسکا

جوهر اول m. the Archangel Gabriel. کنايه جبرائيل فرشتے سے

جوهر فرد m. an indivisible atom, met. a person unrivalled or unequalled, lips or mouth of a mistress. جو کسي طرح سے تقسيم اور ٹکڑے نهيں هوسکتا - دهان معشوق سے بهي مراد هے

جوهر ناب m. a pure gem. خالص جوهر

جوهري m. a jeweller, a lapidary, adj. essential. صاحب جوهر

جوهي f. jasmine (jasminum auriculatum). نام ايک پهول کا

جوئيدن inf. to seek, to search. ڈهونڈهنا

جوئنده m. seeker. ڈهونڈهنے والا

جوے f. a rivulet, a brook. نهر پاني کي جو جاري هو

جويا } m. one who searches, an inquirer,
جويان } a seeker جوينده يابنده lit. the seeker (is a) finder, i. e. search and you shall find. ڈهونڈهنے والا

جهات (pl. of جهت) sides. اطراف

جهاد m. war (especially that which is waged by Musalmans against infidels or idolaters.) کافروں سے لڑنا

جهاد اکبر m. restraint from passion, self-denial. نفس کشي

جهاد اصغر m. waging war against infidels. کافروں سے لڑنا

جهار m. appearing, manifesting. ظاهر هونا

جهاز m. the tree of a camel's saddle, a portion in the disposal of the wife, funeral apparatus, vulva pudenda mulieris. اونٹ کا پالان - عورت کي شرمگاه - مردے کا سامان دفن و کفن

جهالت f. brutality, barbarism, ignorance. ناداني - بے علمي

جهان m. the world. دنيا - عالم

جهان درجهان a. much, many. بسيار - بهت

جهانيان m creation, worldly men. دنيا کے لوگ خلق الله

جهانیدن *inf.* to cause to leap, to urge on (a horse). کدانا - اوچهالنا

جهت *f.* account, cause, reason, side, surface, form, manner, mode. طرف - واسطے

جهد } *m.* struggle, endeavour, exer-
جهد *juhad* } tion, effort, diligence, care, application, assiduity. - کوشش - سعي - طاقت رنج - مشقت

جهد جهید *f.* strenuous exertion, hard toil and labour. بهت بڑي کوشش

جهر *m.* a female oblation, *jhar*, speaking loud enough to be heard by the company, opened. کهلا هوا - کسي چیز کا باآواز بلند پڑهنا

جهل *m.* ignorance, stupidity, irreligion. ناداني - نه جاننا

جهله *pl.* of جهل جمع جهل کي

جهنده *m.* one who jumps. کودنے والا

جهنم *m.* hell, *gehenna*, according to the Musalmans جهنم is divided into seven portions, appropriated severally to wicked Moslems, Christians, Jews, Sabæans, Gebrs, idolators and hypocrites. دوزخ

جهود *m.* the Jews (*sing.* جهودي). قوم یهود

جهول *a.* extremely ignorant. بڑا نادان

جهیدن *inf.* to jump, to leap. کودنا

جهیز *m.* a portion, whatever a wife carries with her to her husband's house, a dowry, paraphernalia, funeral apparatus, money got by gambling. اسباب و سامان جو لڑکي کو بروقت شادي کے دین - مردے کا سامان دفن و کفن - جوے کا روپیه

جیاد (*pl.* of جید) pure, also the *pl* of جود fleetness (of a horse) and the *pl.* of جید neck. جمع جید - جود کي یعني خالص - گهوڑا تیز رفتار - گردن

جیحون *m.* name of a river near Balkh. ایک دریا کا نام جو نزدیک بلخ کے هے

جید *f.* neck. گردن

جید *jaiyid*, *a.* excellent, elegant, pure, money of standard value. - کهرا خوب - نیک

جیران (*pl.* of جار), neighbours. - همسائے پڑوسي

جیش *m.* an army, troops, enjoyment, pleasure, boiling (of a pot), uneasiness of mind. لشکر - دیگ کا ابلنا - دل کي سوزش و بیتابي

جیغه *m.* an ornament of gold and jewels worn, in the turban. نام ایک زیور مرصع کا جسکو پگڑي پر باندهتے هیں

جیفه *m.* a dead and putrifying carcase, a corpse, *adj.* unclean. حیوان مرده جسمیں بدبو هو گئي هو

جیل *f.* a body of men, army, name of a village near Baghdad. - گروه آدمیونکا فوج - ایک گانوں کا نام جو بغداد کے قریب هے

جیوش *pl.* of جیش an army. جمع جیش بمعني لشکر کي

جیوه *m.* quicksilver. سیماب - پاره (هندي)

— چ —

چ *che* or *chim*, called also *jim-i-farsi* or *jim i-ajami* (*i. e.* the Persian *jim*, the Arabs not having it in their language), is the seventh letter of the Persian alphabet. It sounds like *ch* in the English words "cherry cheek." By the Arabs it is changed into *j*, and sometimes into *s* or *sh* as *kaj* for *kach* and *sin*, China, for *chin*, *shatranj* for *chaturang*, chess. In reckoning by the *abjad* (ابجد) it represents three, the same as ج.

چابک *m.* active, alert, a horsewhip (in this sense it is only found in the works of خسرو) چست - چلاک - کوڑا - تازیانه

چابکدست *a.* nimble, active, alert, quick, beautiful, well-versed, handicraft. - تیز دست جو شخص هاتهه کے کام میں چلاک هو

چابکي *f.* activity, alertness, despatch, patch, celerity, a fleet horse. چالاکي - چستي - گهوڑا تیز رفتار

چاپلوس *m.* flatterer, a wheedler. خوشامد کرنیوالا

چادر کافوري *f.* morning. صبح

چادر کحلي *f.* a greyish sheet (of cloth), sky, night. سرمئي رنگ کي چادر - آسمان - رات

چادر لاجورد *f.* blue sky, the firmament, a green-sward. آسمان سبزه زار

چار ارکان *m.* the four elements, *viz.*, fire, water, air and earth. - چار عنصر یعني آگ پاني - خاک - هوا

چار آئینه *m.* an iron armour. نام ایک قسم کي زره کا

چار بالش *m.* a throne, couch or sofa. - مسند بادشاهي تخت

چار برگ *m.* name of a flower, a tulip. لاله کوهي - ایک پهول کا نام

دنیا

چار بند *f.* the world.

چار تار
چار جوهر } *m.* the four elements, *viz.*, fire, earth, air and water. - اربع عناصر یعني آگ - هوا - پاني - خاک

چاردیوار *f.* night. کنایه رات سے

چارزبان *a.* talkative, a babbler. - پرگو کثیرالکلام

چارسو *n.* a cross road, two roads crossing each other. چوراهه

چار شانه *a.* tough, hardy, strong, corpulent, bulky. تنو مند - بهدا - قوي هیکل

چارشنبه *m.* Wednesday. بده کا روز

چار ضرب *m.* a mode in music, the shaving of head, beard, eyebrows and moustache of a *qalandar.* ساز کے بجانے کي ایک قسم چوتاله (هندي) اصطلاحاً سر اور ڈهاڑي اور بهویں اور مونچهه کے بال منڈا ڈالنے سے جو بعضے قلندر کرتے هیں

چار طاق *m.* a kind of tent. چار گوشه کا خیمه (راوتي)

چارق *m.* a shoe worn by vulgar people. جنگلي لوگوںکا ایک قسم کا جوتا

چارقب *m.* an article of dress so called, a kind of vest, also a kind of mirror. امیرونکا ایک طرح کا لباس

چار گام *m.* a fleet horse. گهوڑا تیز رفتار

چار گوشه *a.* any square thing. چوکهونٹي چیز

چارم اصطرلاب *m.* the Alcoran (because it is the fourth inspired book after *Tauret* Pentateuch, *Injil* (Gospel) and *Zabur.* Psalms. کنایه قران شریف سے اسلئے که بعد توریت اور انجیل اور زبور کے یه چوتهي کتاب آسماني هے

چار مادر *m.* the four elements, *viz*, air, water, land and fire. اربع عناصر

چار مغز *m.* a walnut. اخروت

چار موجه *m.* whirlpool, an eddy or gulf where the water moves round in a cricle بهنور

چار میخ شدن *id.* to prove to be very strong, a punishment in which a criminal is made to lie down on his back and his hands and feet are tied to the pegs. - نهایت مضبوط هونا ایک قسم کي سزا

چاروا *m.* quadruped. چوپایه

چاره *m.* remedy, cure, help, aid, expedient, plan, fraud. علاج - تدبیر - مکر - فریب

چاشت *f.* the middle hour between sunrise and the meridian, also what is eaten at that time, breakfast, a collation بهردن چڑها هوا اور اُس وقت کے کهانیکا بهي نام هے

چاشني *f.* flavour, relish تهوڑا سا نمونه کهانے یا شراب کا

چاشنیگر *m.* a taster, a servant whose duty it is to watch over the kitchen of princes, and to taste every dish brought to table as a security against poison, a cook. باورچي خانسامه

چاق *a.* active, alert, well, in good health, erect, a horse ready to cover, in spirits. تندرست - طاقتدار - چالاک

چاک *a.* split, torn, burst, cleft. - پهٹا هوا چرا هوا

چال *f.* a colour in horses, roan, a ditch, well, threshing corn by the bullocks, a Brahmini duck. - وه گهوڑا جسکے بال سرخ و سفید هوں گڑها - کنوان - چکور - (مشهور پرنده)

چالیش *f.* walking coquettishly, strutting, walking with effected manners. مٹک کي چال - گهمنڈ کي چال - اتراکر چلنا

چامغ *m.* a deep well. چاه عمیق - گهرا کنوان

چامیدن *inf.* to piss, (or as nice people would have it) to make water, to pass urine. موتنا - پیشاب

چانه *m.* the chin bone. تهوڑي کي هڈي یعني فک اسفل

چاویدن *inf.* to masticate, twittering (of birds). چبانا - چڑیوں کا غل مچانا

چاه *m.* a pit, a well. کنوان

چه زنخ *f.* the dimple of the chin. تهوڑي کا گڑها

چاه کن *m. lit.* a well-digger, *met.* tyrant, cruel, deceitful, hypocrite. - ظالم - مکار دغاباز

چاے
چا } *f.* tea. مشهور پتي جسکو اُبالکے پیتے هیں

چپ *a.* left, the left hand. بایاں - بائیں طرف

چپاتي *f.* thin cake of unleavened bread. پتلي روٹي جو توے پر پکاتے هیں

چپ دادن *id.* to give up a work. ترک کرنا کسي کام کو

چپ رفتن *id.* to oppose, to act contrarily. مخالفت کرنا

چپقلس *f.* crowding, want of room, a sword used in wars. تلوار لڑائي کي - انبوه

چتر *m.* an umbrella; small hair. - چهتري چهوٹے بال سر پر

چتر آبگوں *m.* the sky. آسمان

چتر روز *m.* the sun. آفتاب

چتر سیمابي
چتر سیمین } *m.* the full moon of the fourteenth of a lunar month. چودهویں رات کا پورا چاند

چتر عنبرین *f.* a dark night. اندهیري رات

چتر نهاي *m.* the sky, a black cloud. - آسمان - ابرسیاہ

چتر نور *m* the sun. آفتاب

چتوک *f.* a sparrow, a bird. کنجشک چڑیا

چخ *f.* (scattering, dispersing) in Hind. variance, rupture, quarrel, a sheath, dirt, filth. - چهري اور تلوار کا میان - جهگڑا اور لڑائي میل - چرک

چخیدن *inf.* to desire to fight, to fight, to try, to breathe hard, to pant. لڑائي کي خواهش کرنا - لڑائي کرنا - کوشش کرنا - تیز تیز سانس لینا - هانپنا

چرا *adv.* and *conj.* why? how?. - کس واسطے - کیوں

چرا *n.* a pasture, grazing, pasturing. - چرنا - چرانے کي جگهه

چراگاہ *f.* a pasture, a meadow. حیوانات کے چرنے کي جگهه

چرازن *m* an animal who grazes چرندہ

چراغ آسماني *f.* lightning, thunder. بجلي

چراغ بر کردن *id.* to light a lamp. چراغ روشن کرنا

چراغپا *m.* lifting the fore feet of a horse, a lamp post, a candle-stand. اگلے پیر جو گهوڑا اُٹهارے - چراغدان

چراغ روز
چراغ سپہر } *m.* the sun. آفتاب

چراغ نشتن *id* to be extinguished (as a lamp.) چراغ کا بجهہ جانا

چراغوارہ *m.* a lamp-stand, a candle, a kind of coloured lamp made of paper. - چراغدان - قندیل

چرانیدن *inf.* to graze, to pasture, چرانا گهاس کا حیوانات کو

چرب *a.* fat, thick, gross, viscous, oily, also چرب *charub*, an overmatch, surpassing, overcoming. غالب هونا - غالب - چکنا

چرب آخور *m.* a luxurious man, exuberant. وہ شخص جو ناز و نعمت میں بسر کر رها هو

چرب پهلو *a.* fat, corpulent, beneficent, useful. موٹا - فربہ

چربدست *a.* active, ingenious, sweet, (*met.*) a thief, a handicraftsman, an artisan. چالاک - شیریں - دستکار اور هنرمند

چرب زبان *a.* agreeable, conversable, entertaining, flattering, deceiving خوشامد سے خوش کرنے والا - فریبیا

چرب قامت *a.* high-statured, long. - بلند قد لنبا

چربک *f.* a kind of fresh wheat cake fried in butter or ghee, cream (the richer part of milk.) پوري - ملائي

چربک *f.* falsehood, lie, flattery, taunt, sarcasm, joke, witticism, shamefulness, a riddle, an enigma. - جهوٹهہ - خوشامد - طعنہ - دل لگي - مسخراپن - شرمندگي - پہیلي

چربي *f.* fat, suet, grease. فربهي - مٹاپا

چربیدن *inf.* to overcome, to overpower. غالب هونا

چرتهہ *m.* colour of a man's skin. آدمي کي کهال کا رنگ

چرخ *m.* a wheel (particularly a potter's), the sky, the heavens, the celestial globe, the sphere, fortune, chance, circular motion, a cross-bow, a bow in a very tense state, a hyena, collar, lappet, an oil-press, the block over which a well rope traverses, a kind of hawk; a kind of silk. - آسمان - کمان - سخت - روئي کاتنے کا چرخہ - گرد کسي کے پهرنا - نقویں کي گراري - کولهو - منجنق - نام ایک پرند کا - کمهار کا چاک - ایک قسم کا ریشم

چرخاب *m.* whirlpool, an eddy. - گرداب - بهنور

چرخ انداز *m.* an expert archer. نشاندار جو تیر انداز بهي هو

چرخ انبوس *m.* the first sky. آسمان اول

چرخ دولابي *m.* the sky, the heaven. آسمان

چرخ ریسک *m.* a cricket. جهینگر جو رات کو بولتا هے

چرخ زریں کاسہ *m.* the fourth sky, (called so because it is the region of the sun.) چوتها آسمان چونکہ آفتاب وهاں پر هے

چرخ زن *m.* a dancer, a swimmer, - ناچنے والا - تیراک

چرخ مقوس *m.* the first heaven (probably), the eighth heaven the throne of God (especially) عموماً نناپدہ فلک اول سے خصوصاً فلک البروج یعني کوسي سے

چرخوک *m.* a child's top. لٹو جسے لڑکے پهراتے هیں

چردہ *m.* colour. رنگ

چرزہ *m.* skin, leather. حیوان اور آدمي کي کهال

چرس *m.* a cage, a prison, a gaol, trouble, calamity, a reservoir for holding grapes and in which they are trodden under feet for pressing out juice, alms. - قفس قید خانہ - آزار - حوض جسمیں انگور پاؤنگے نیچے روندے جاتے ھیں شیرہ نکالنے کو

چرسدان *m.* a fakeer's wallet. فقیر کي جھولي

چرغ *m.* a kind of hawk. ایک قسم کا شکرہ

چرغینہ wicked, villainous, of low caste. بد آدمي - نیچ قوم

چرک *m.* pus, dirt, filth, ordure, matter, dross (of metals). رھم - پیپ - آدمي کے بدن کا میل - لوھے وغیرہ کا میل

چرگر *m.* a musician, a singer. مغني - گانیوالا

چرکن / چرکین *a.* filthy, dirty, slovenly, matter, worldly goods, *m.* dung. میلا - میل مین لتھڑا ھوا - کنایہ مال دنیا سے

چرم *m.* leather, skin, a hide, a shield. چمڑا - ڈھال

چرمیدان *m.* a leather-purse. چمڑے کي تھیلي

چرمینہ made of leather. چمڑے کي بني ھوئي چیز

چرندہ / چرند *m.* a beast, a quadruped. حیوان گھاس کھانے والا

چریدن *inf.* to graze. چرنا

چسپانیدن *inf.* to make adhere, to stick on چپکانا

چسپان / چسپیدہ *a.* viscous, shiny, coherent, joined to, stuck, adhered, attached, fond of. چپکا ھوا

چسپیدگي *f.* love, affection, attachment, coherence, sticking. چپکنا

چست *a.* active, fleet, ingenious, narrow, straight, tight. - چالاک - درست - ٹھیک - محکم تنگ

چستہ *m.* tripe, the straight gut, the rectum. آنت

چستہ *chusta, m.* runnet. شیر دان بکري اور بھیڑ وغیرہ کا

چستان *m.* an enigma, *lit.* چیست آن "what is that ?" پھیلي

چستي *f.* activity, alertness, fleetness. - چالاکي درستي - مضبوطي

چش (in *comp.*) tasting, having the flavour of, (it is also the *contr.* of چشم). چکھنا

چشانیدن *inf.* to cause to taste, to give a specimen to. چکھانا - بطور نمونے کے کوئي چیز کسي کو کھلانا

چشت *n.* name of a place. نام ایک مقام کا

چشم *m. f.* the eye, hope, expectation, accepting, name of a medicine (a small black seed) for diseases of the eye, misfortune. آنکھ - أمید - چشم زخم - چاکسو (ایک دوا)

چشم بد malicious glances. نظر بد - بد نظر

چشم بند magic, charm, spell, interpretation of dreams. افسون - خواب بندي

چشم براہ داشتن *id.* to expect, to wait, to look out for. انتظار کرنا

چشم بر زمین افگندن *id.* to be abashed, to be modest, *lit.* to bend down one's eyes through compliment or bashfulness, modesty, shame. شرم یا تواضع سے آنکھ نیچي کرلینا - شرمندگي

چشم پوشي *f.* turning away the eyes, affecting not to see or hear a petitioner, etc., connivance, hiding one's fault, pardoning, forgiving. - آنکھ چرانا - کسي کا عیب چھپانا کسي کي خطا سے در گذرنا

چشم بے آب *m.* shameless, immodest, obstinate, stubborn. بیحیا - بیشرم - ڈھٹ

چشم بے آب داشتن *id.* to be immodest or shameless. بے حیائي کرنا

چشم حسي *f.* external eye. ظاھري آنکھ

چشمخانہ *m.* the socket of the eye. آنکھ کا گھر

چشم خروس *f.* little red seed (*Abrus precatorious*). گھنگچي

چشمداشت *f.* hope, confidence, trust. - أمید بھروسا

چشم دریدہ *m.* impudent, shameless. - شوخ بیحیا

چشم رسیدن *id.* effect of a malicious glance. نظر بد کا اثر پھونچنا

چشم روشني *f.* congratulation. مبارکباد

چشم زاغ *m.* an immodest or shameless man. آدمي بیحیا

چشم زخم *m.* viewing with an evil eye, a misfortune. آزار اور نقصان اور دکھہ جو نظر بد کے اثر سے پھونچے

چشم زدن *id.* twinkling (of an eye), to wink, to be awakened, fearing, fancying, pointing, a moment, to get abashed or shameful. پلکون کا جھپکانا - جاگنا - ڈرنا - وھم کرنا - اشارہ کرنا - شرم و حیا رکھنا - پل - تھوڑا سا زمانہ

چشم سرخ کردن *id.* to fall in love, to be greedy, to be angry, to lose one's temper. عاشق ھونا - لالچ کرنا غصہ ھونا

چشم سفید گشتن *id.* to be unconscious, to be insensible. بيهوش هونا

چشم سیاه *m.* the black eye (of a mistress), also a blind eye. معشوق كي آنكهه - مراد اندهي آنكهه سے بهي

چشم سیاه کردن *id.* to be envious or jealous; to be greedy. - حسد كرنا - رشك كرنا - طمع كرنا لالچ كرنا

چشم شب *m.* the moon. چاند

چشم شدن *id.* to appear, to be brightened. ظاهر هونا - روشن هونا

چشم شور *m.* an evil glance which may do harm instantly. نظر بد جو فوراً اثر كرے

چشم فرنگي *f.* spectacles, eye-glass. عينك

چشمک *f.* spectacles, a small eye, winking, the seed of *Cassia absus*, used as a remedy for diseases of the eye. - عينك - چهوٹي آنكهه - آنكهه سے اشارہ كرنا - هندي دوا جسے چاكسو كهتے هيں

چشم گرم کردن *id.* to gaze, to see, to see a thing with curiosity or pleasure, to take a nap.- نظارہ كرنا - كسي چيز كو عزت سے ديكهنا - تهوڑي دير سورهنا

چشم گشته *m.* name of a species of insect. احول - بهنگا

چشم نمائي *f.* threatening, chiding, snubbing. دهمكانا - ڈانٹنا

چشم و روداشتن *id.* to be modest or shameful. حيا و شرم ركهنا

چشمه *m* spectacles, a fountain, the eye of a needle. عينك - سوتا (پاني كا) ناكه سوئي كا

چشمها دیدن *id.* great experience, knowledge. كنايه هے بهت بڑے تجربه سے

چشمه آتش نشان } *m.* the sun. آفتاب
چشمه خازري }

چشمه خضر *m.* the fountain of life or immortality, mouth of a mistress. - آب حيات - دهان معشوق

چشمه خون *m.* the heart. دل

چشمه سار *m.* the place where there may be number of fountains. جهان بهت چشمے هوں

چشمه سوزن *m.* extreme miserliness, great niggardliness. انتها كي بخيلي و كنجوسي

چشمه سیماب } *m.* the sun, the moon. چاند - سورج
چشمه سیماب زیر }

چشمه قند *m.* the mouth of a mistress. معشوق كا دهن

چشمه مغز *m.* the brain دماغ

چشمه نوش *m.* the mouth of a mistress. معشوق كا دهن

چشمه هور *m.* the fountain of light, the sun آفتاب

چشیدن *inf.* to taste, to experience.

چغ چكهنا *m.* a churner. رئي - متهني

چغ *m.* a yoke (of the oxen). بيلون كا جوا

چغاله *m.* an unripe fruit. كچا ميوه

چغد *m.* the small screech-owl, spires, turrets, parapets. الو جو منحوس جانور هے - محل كے ديوار كے كنگورے

چغر *m.* a toad, a frog, a boil, a sore - مينڈك پهوڑا

چغل *m.* a tell-tale, a tale-bearer, backbiter, informer. چغلي كهانے والا

چغوک *m.* name of a bird (*Anas casarca*), a Brahmini duck. سرخاب

چغیدن *inf.* to try, to exert, to endeavour, to breathe hard, to pant. - سعي كرنا - كوشش كرنا تيز تيز سانس لينا - هانپنا

چفاله *m.* an army, a flight of birds. - فوج پرندونكا غول

چفت } *m.* a prop, an arbour. لكڑي جسپر انگور وغيرہ كي بيل چڑهاتے هيں
چفته }

چفت *chuft*, *a.* active, fat, corpulent, dirty, filthy, narrow, tight, a support. - چست فربه - موٹا - گنده شے - تنگ - چسپان - تهوني جو شكسته عمارت كے نيچے لگا ديتے هيں

چفت *chift*, *f.* a chain or iron catch to fasten a door, a hasp or staple. - دروازہ كي زنجير كنڈي

چفته *m.* the head of a goat, anything crooked or bent, accusation, calumny, equality, nearness, staff, a niche in a wall. بكري كي سري - جو چيز خميده اور كج هو - تهمت - بهتان - برابر - نزديك - ڈنڈا - مكان كا طاق

چفسیدن (چسپیدن) *inf.* to stick, to adhere. چپكنا

چق *m.* a churning staff, a churner. - رئي متهني

چقا چق } *f.* the sound of the stroke of a dagger, clashing of swords. تلوار وغيرہ كي آواز جو پياپے آدمي كے بدن پر پڑنے ميں نكلتي هيں
چقا چاق }

چقماق } *f.* the steel for striking fire from a flint, taunt, upbraiding, reprimanding. نام ايك آله آهني كا جسكو پتهر پر مار كے آگ نكالتے هيں - طعنه - سرزنش
چقمق }

چقندر m. beet-root, (*Beta vulgaris*). نام ایک مشهور ترکاري کا

چقوک f. a bird, a sparrow. گنجشک - چڑیا

چک m. end, extremity, limit, a deed, a bond, land, garden, order, command, a wooden pestle, part, share, allowance, a clashing sound, chin-bone. - حد کسي چیز کي - قبالہ - زمین - باغ - فرمان - موسل - حصہ - وظیفہ - تلوار وغیرہ کے گرنیکي آواز - ٹھوڑیکي هڈي

چکا چک }
چکا چاک } the same as چقا چق (which see).

چکاد m. forehead, a shield, a scabbard. ماتھا - پیشاني - ڈھال

چکاسہ m a procupine. خارپشت - ساهي

چکان dropping, distilling. ٹپکتا هوا

چکاوک m. a lark. - ایک مشهور خوش آواز پرند چنڈول (هندي)

چکرہ m. falling by drops. پاني کا قطرہ ٹپکنا

چکس m. a perch for birds (particularly falcons), roost, shamefulness, modesty. اڈا شکاري جانوروںکے بیٹھنے کا - شرمندگي

چکسہ m. a parcel (of physic &c.), a dose of medicine in powder, anything wrapped in a paper or a leaf. پڑیا

چکش m. an iron-smith's hammer. لوهارون کا هتھوڑا

چکلہ m. falling by drops, a division of a country, containing several parganas. قطرہ قطرہ ٹپکنا - پرگنہ

چکمہ m. a boot, a stocking. موزہ جو پاؤں میں پهنتے هیں

چکن m. a particular mode of working flowers on muslin or other cloth. کشیدہ کي ایک قسم هے یعني ریشم یا سوت یا نقرائي تار کا کام جو کپڑے پر بنایا جاتا هے

چک و چانہ chin-bone, ability, capacity, merit. ٹھوڑي کي هڈي - قابلیت

چکہ m. a drop. قطرہ

چکہ a. small, little. چھوٹا - خرد

چکیدہ dropped, distilled. ٹپکا هوا

چکیدہ خون met. red grape wine. شراب سرخ انگوري

چگل n. name of a beautiful place in Turkistan, the men of which are very handsome. ایک شهر هے ترکستان میں وهاں کے آدمي بهت حسین هوتے هیں

چگونگي f. circumstance, manner. کیفیت - حال کہ کس طرح پر هے

چگونہ how? of what kind? کس طرح - کیونکر

چل (contraction of چهل), forty, a. silly, ignorant, fool, a horse whose fore-legs are white. مخفف هے چهل کا بمعني چالیس اور بمعني احمق - گنوار کے بهي هے - گھوڑا جسکے اگلے دونوں پاؤں سفید هوں

چلاؤ m cooked rice. پکے هوے چاول

چلپاسہ m. lizard. چھپکلي

چلپچي f. a wash-hand basin of metal. هاتھ منهہ دهونے کا طشت

چلستان m. a barren land, a forest where water is scarce. وہ جگهہ جهاں پاني نہ نکلے

چلغوزہ m. a kind of nut like the pistachio. ایک میوہ صنوبر کا هے

چلہ m. the forty days of Lent, during which the religious fraternities in the east shut themselves up in their cells, or remain at home, also the holy place where *fikeers* abide, the period of forty days after child-bed during which a woman remains unclean. چالیس دن جو فقیر لوگ گوشہ میں بیٹھکر عبادت کرتے هیں - چالیس روز

چلتہ m. the lining of iron armour. زرہ

چلي f. ignorance, siliiness, foolishness. احمق - بیعقلي - بیوقوفي

چلي *chuli*, f. cowardliness. نامردي

چلیپا m. a cross. صلیب - سولي

چلیدن inf. to go, to walk, to run, to be worthy or able. - چلنا - جانا - بهاگنا - سزاوار هونا لائق هونا

چم f. walking coquettishly, an easy air (in walking), prepared, arranged. - ناز کي چال خرام معشوقانہ

چماغ }
چماق } m. a mace, a club, a baton with an iron knob at the end, *met.* penis. گرز لوهے کا - موٹي لاٹھي جسکا سر گرہ دار هو - مجازاً عضو تناسل

چمن }
چمانہ } m. a cup of wine, walking haughtily or gracefully, giving one's self airs. شراب کا پیالہ - ناز سے چلنا - نازکي سے لهرا کر چلنا

چماني m. f. one who walks haughtily or gracefully, a cup-bearer. - ناز سے چلنے والا - ساقي

چمگروش m. playing, amusing. کھیل کود

چمن m. a bed in a garden, a parterre, an assembly. باغ میں جهاں طرح طرح کے پھولونکے درخت هوں - باغ کي کیاري - نیز مراد محفل هے

چمیدن *inf.* to walk with affected manners, walking with an easy air. لچکنا - ناز سے چلنا

چنار *m* a poplar tree, a plane tree. ایک مشهور درخت

چنان like that, such as that. ایسا - مثل اُسکے

چناچن *f.* clashing of sword, the sound of the stroke of a dagger and arrows. تیر اور تلوار پڑنے کي آواز

چنانچه *adv.* accordingly, so that, in such a manner that. جیسا کہ

چنبر *m.* a cover (سر پرش) for the چلم of a حقه, a collar, a necklace, a small tambourine, a halter, a noose, the circumference of a circle, circuit. - حلقه - طوق - دف - کمند - محیط دائره - هر چیز کا گهیرا - آسمان کا دور

چند *a.* some, few (interrogatively), how much? how often? when?. - کچهه - کبهي - استفهام کے واسطے کبهي خبر دینے کے واسطے آتا هے - چند مدت

چندان *a.* many, numbers, more, as many as, how many, soever, so much so, greatly. اسقدر - اتني دیر

چند انکه *a.* as many, as much, whatever, so greatly, how much, soever. - جتنا کہ جسقدر کہ

چند گاه *a.* often, several times, many times. کئي دفعه - کئي بار

چندن *m.* a sandal wood or tree *Syrium myrtifolium* or *Santalum album*. صندل (اُسي کا معرب هے ایک خوشبودار لکڑي)

چندے *a.* a few, some, sometime. - تهوڑا سا تهوڑي دیر

چندین *a.* so much, so many. - اتني - اسقدر اتنا

چنگ *f.* a claw, the hand expanded, a kind of guitar, a harp, fame, report, a goad, anything bent or crooked, name of a Mani's work. ایک مشهور باجے کا نام - هاتهي کا آنکس - جو چیز کے کج هو - نام کتاب ماني کا - آدمي کا پنجه - جانور کا چنگل

چنگال / چنگال } *m.* claw, a talon. پنجه جانور اور آدمي کا

چنگي *m.* one who plays on the چنگ or harp, a harper. چنگ بجانیوالا

چنیده *a.* selected, chosen. چنا هوا

چنین *a* like this, such as this. - ایسا - مثل اس کے

چو *chu*, such as, like, when, how? - مانند - اگر - مثل - جب

چوب *f.* wood. لکڑي

چوبا *m.* a stake, a post, a prop. - تهوني - بلي - کهم

چوب تعلیم ده *f.* a stick to punish a child, a rod. وه لکڑي جس سے معلم لڑکے کو ادب دے

چوب خوار *m.* a white ant. دیمک

چوبدست / چوبدستي } *f.* a staff, a stick. - هاتهه کي لکڑي - لاٹهي

چوبدار *m* a servant whose business is to announce the arrival of company, a mace-bearer. نوکر جو هاتهه میں عصا لیکر آگے سواري کے دوڑے

چوبک زن *m.* one who beats the kettle-drum. a نقارچي - نقاره بجانے والا - چوبدار چوبکي

چوب گز a yard, an instrument for measuring with. کپڑا و لکڑي ناپنے کا گز

چوبه *m.* it sometimes means, an arrow. کبهي تیر سے مراد هوتي هے

چوبین *a.* wooden, made of wood. چوبي - لکڑي کي چیز

چوپان *m.* cowherd, or shepherd. - گڑریا - چرواها رکهوالا

چوتره *m.* terrace or mound to sit and converse on, a tribunal. وه زمین کا قطعه جو بلند اور چوکور بناتے هیں هندي میں چبوتره کہتے هیں

چخیدن *inf.* to slip, to slide. - پهسلنا گر پڑنا

چوزه *m.* a chicken, a young bird. مرغي کا بچه

چوزه ربا *m.* a kite. غلیواج - چیل

چوشیدن *inf.* to suck. چوسنا

چوغا *m.* a cloak, a kind of garment. بالوں کا موٹا کپڑا سیا هوا - ایک قسم کا فقیروں کا لباس هے

چوگان *m.* a game resembling what in Scotland they called "shinty," and in some parts of England, "shinney," or "hockey," or "bandy," but played on horseback, also the crooked stick or club used in playing game, polo. ڈنڈا جو ایک سرے سے ٹیڑها هو

چوگان رزم *f.* a sword. کنایه تلوار سے

چوگان سنبل *f.* lock (of hair), hair of a mistress زلف معشوق سے مراد هے

چوگانی m. a horse who may run well in polo. گھوڑا جو چوگان بازی میں خوب دوڑے

چون a. such as, like, interrog. how? when? conj. because, inasmuch as. چو - مانند - اگر - کیونکر

چون و چرا wrangling altercation (lit. when or how, and wherefore.) کیوں - کسواسطے - تکرار اور حجت کرنا

چونی equal to "how are you?" how do you do? تو کس طرح پر ھے

چه inter. pro. what? when joined to another word the mute h is dropped, as کیا

چگونه in what manner, how

چه chah, m. well, a pit. کنواں

چها a. how many, how much. چه بسیار

چهار a. and n. four. چار (۴)

چهار اقلم m (lit. the four climates or countries), the whole of India. مراد هندستان سے

چهار تاره m. name of a musical instrument. نام ایک باجه کا

چهار دانگ m. the four directions of the world, viz., east, west, north and south. چهار جهت دنیا کي یعني پورب - پچهم - اتر اور دکهن

چهار بالش m. throne (Indian) with four cushions, the four elements, viz., fire, water, land and air, the universe, the four sides, viz., east, west, north and south. اسکے چار معني هیں یعني تخت اور مسند جسپر بادشاه اور امیر بیٹھیں - دوم عناصر اربعه یعني آگ - پاني - هوا - خاک - سوم دنیا اور عالم - چهارم چارون طرفین یعني پورب - پچهم - اتر - دکهن

چهار دریچه m. the four parts of the body, viz., ear, eye, nose and mouth (lip). کنایه هے انکهه - کان - ناک اور منهه سے

چهارده a. fourteen. چوده (۱۴)

چهار دهم a. the ordinal of fourteen, fourteenth. چودهوان

چهار سو m. the four directions, east, west, north and south, square market-place چار طرفین - پورب - پچهم - اتر - دکهن

چهار زبان m a man untrue to his words or promise. وه شخص جو ایک بات پر قائم نه رهے

چهار شنبه m. Wednesday. بدهه کا روز

چهار طاق m. a kind of tent. روٹي (هندي)

چهار طبع m. heat, cold, dryness and moisture. گرمي - سردي - خشکي و تري

چهارم a. the ordinal of four, fourth. چوتها

چهار میخ حیات m. the four Elements. کنایه اربع عناصر سے

چه موجه m. whirlpool, an eddy. - بهنور گرداب

چهبچه chah-bacha, m. vat, cistern. گڑها

چه بیزن m. a well in which Afrasayab had imprisoned a wrestler Bezan who was the son of Gio, cousin of Rustum, because he had fallen in love with Afrasayab's daughter Munira. He was afterwards delivered by Rustum. وه کنوان جسمین بیزن نام پهلوان گیو کے بیٹے رستم کے بهانجے کو افراسیاب نے قید کیا تها اس جوم پر کہ وه منیره افراسیاب کي بیٹي پر عاشق هوا تها آخر رستم نے چهڑایا

چهچهه m. the song of a bird, especially the melody of the nightingale. بلبل وغیره چڑیوں کے چهکنے اور بولنے کي آواز

چهر (cont. of چهره) مخفف چهره کا

چهره m. face, visage, countenance, air, description-roll. صورت - مونهه - روئے انسان

چهره پرداز m. an artist, a painter. مصور

چهره خیز a. bright, clear. روشن - صاف

چهره شدن } چهره گردیدن } id. to oppose, to be ready to fight. لڑنے کے لئے اٹهنا - حریف کا مقابل هونا

چهره کشائي f. drawing, painting, sculpture, embroidery, statuary. نقاشي - مصوري

چه زهره m. the sign Virgo. برج سنبله سے مراد هے

چهل a. forty. چالیس (۴۰)

چهلم a. the fortieth, generally applied to the fortieth day after the death of a parent, &c., which concludes the period of mourning among Musalmans. چالیسواں

چه کرد means "what have you gained?" یعني کیا حاصل کیا

چي (used in comp) possessor, owner. - دارنده رکهنے والا

چیچک f. the small-pox. آبله - سیتلا (بیماري)

چیدن (r. چن), to gather, to glean, to pick out. چننا - چگنا

چیره a. powerful, valiant, surpassing, rude, uncivil, turban (Hindi.) غالب - بهادر - شجاع پگڑي (هندي)

چیره دست m. a handicraftsman, an artisan, a. powerful, obstinate, rebellious, surpassing. دستکار - کاریگر - غالب - زبردست - سرکش

چیره دستي f. violence, oppression, superiority, conquest, prevalency, rebellion. زبردستي - غلبه سرکشي

چيز ليز } *f.* small thing, very little, a small
چيز ميز } capital. تھوڑي سے چيز - اندک و قليل - اوچھي پونجھي

چيست (of چه است), what is it.? کيا هے

چيستان (*lit.* "what is that?"), *m.* an enigma, a riddle. پہيلي

چيلدر *m.* reward, gift. انعام

چين *f.* fold, plait, wrinkle, China. - شکن - بل نام ملک کا

چين بر ابرو افگندن *id* to frown, to become old. غصه سے بھوں پر بل ڈالنا - بوڑھا هونا

چين کشاد equal to "the anger cooled down," "miserliness disappeared." - غصه جاتا رها کنجوسي مٿ گئي

چينه دان } *m.* membranous sac of bird
چينه دانا } بوڑہ جس مين پرند دانا کھا کر جمع کرتے هيں

چيني *f.* belonging to or produced in China, Chinese. چين کي چيز - چين کا آدمي

چيني پرند *f.* an embroidered sheet (of cloth.) چادر منقش اور بيلدار

— ح —

ح *he*, commonly called *hai muhmala* and *hai hutti*, is the sixth letter of the Arabic alphabet, and the eighth in Persian. It does not occur in words purely Persian. In reckoning by ابجد it stands for eight.

حاتم *m.* the name of an Arab chief of the tribe of Tai, famed for his boundless liberality, whence (*met.* liberal, generous, bountiful), for example, a man of great liberality is styled "the *hatim* of the age." ايک مشهور سخي کا نام

حاجب *m* porter, a door-keeper, a chamberlain, a privy counsellor, a curtain, a screen, the eyebrow. - دربان - پردہ کرنے والا چوبدار - پردہ دار - ابرو يعني بھوں

حاج a pilgrim to Mecca. مکه کو جانے والا

حاجت *f.* necessity, poverty, hope, wish, need, want. خواهش - ضرورت

حاجز *f.* that which hinders or intervenes, a place on one's way to Mecca. مانع اور حائل درميان دو چيز کے - نام ايک منزل کا راہ مکه ميں

حاجي *m* a Musalman who has made the pilgrimage to Mecca. وہ مسلمان جسنے مکه کا حج کيا هو

حاجي احمق } *m.* to mock pilgrims who per
حاجي بيوقوت } form a conspicuous part in the Muharram festival. محرم ميں دو حاجي (مسافر) کھيل کرتے هيں

حاجه *f.* a Musalman woman who has made the pilgrimage to Mecca. حج کرنے والي عورت

حاد *a.* acrid, sharp, bitter, sour, ardent, fiery, poignant, caustic. تيز - تند

حادث *a.* new, just appearing. نئي چيز جو پہلے نه هو

حادثه *m.* a novelty, an event, an occurrence, a misfortune, calamity. - نوپيدا - واقعه مصيبت

حاذق } *a.* ingenious, industrious, skil-
حاذق } ful, penetrating, intelligent, excelling. دانا - کام ميں استاد - زيرک

حا *a.* hot, ardent, difficult, laborious. - گرم گرم کرنے والي

حارث *m.* a lion, tiger, a cultivator, the son of Husham who was one of Arab chiefs. شير درندہ - زراعت کرنے والا - نام هشام کے بيٹے کا که سرداران عرب سے تھا

حارس *m.* a watchman, keeper, guard. - نگهبان پاسبان

حارصه *m.* a slight wound and scratch. زخم

حازم *a.* wise, clever, ingenious, penetrating, intelligent, steady, firm. - دانا - هوشيار دور انديش - پيش بيني - استوار

حاسد *a.* envious, *m.* an enemy. - حسد کرنے والا دشمن

حاسر *a.* naked, *m.* an armed man (in war). برهنه - جسکے پاس جنگ ميں خود زرہ اور سپر هو

حاشا distance, purity, besides, refuge, empty, wild mint. - دوري - پاکي - سوا - پناہ خالي - مگر - جنگلي پودينه کا نام

حاشيه *m.* a margin, hem, border, a marginal note, people of inferior rank, attendants, retinue, troops, facings of a military uniform, young camel. - کنارہ - نوکر خدمتگار - شتر جوان

حاشيه نشين *m.* a respectable servant. عزت دار نوکر

حاشا للہ } *interj.* God forbid, by no means,
حاش للہ } far be from it. - خدانخواسته پاکي اور دوري هے خدا کو

حاصد *m.* a harvester, a reaper. کھیتي کاٹنے والا

حاصل *m.* produce, acquiring, profit, corn, a tax, duty, custom, revenue. نتیجہ - مطلب

حاضرہ *m.* a town, city, village. - شھر - قصبہ گانوں

حائف *m.* a friend, servant, grandson, son-in-law, brother-in-law, father-in-law. - یار دوست - خدمتگار - پوتا - نواسہ - داماہ - سالا - سسرا

حافر *m.* hoof of a horse, a well-digger. گھوڑے کا سم - کنویں کا کھودنے والا

حافظ *m.* a guardian, governor, preserver, having a good memory, one who has the whole *Kuran* by heart, the poetical name of a celebrated poet of Persia *Muhammad Shams-ud-din* of *Shiraz.* حفظ کرنے والا - قران شریف جسکو یاد هو

حافظہ *m.* a retentive memory. یاد رکھنے کي قوت

حافي *m* bare footed. برھنہ پا

حاق *a.* middle, centre, mid. کسي چیز کا درمیان - بیچ

حاقہ *m.* the resurrection, doomsday. قیامت

حاکم *m* a ruler, a governor, a commander, a master, (*pl* حاکمان) حکم کرنے والا - والي ملک کا

حاکہ *m.* (*pl.* حائک), weavers جمع حائک بمعنی جولاھے کي

حالا *adv* now, at present. ابھي - اسوقت

حالات the plural of حال جمع حال کي

حال کردن *id:* to love excessively. وجد کرنا

حال گردیدن *id.* transition, change of one's condition. تغیر ھونا حال کا

حالي *a.* (modern, new, present, now, soon, current (coin), government assessment. جلد - في الحال - ابھي

حام *m.* the second son of Noah (Ham), from whom (according to the Musalmans) the Abyssinians are descended. نام ھے نوح علیہ اسلام کے بیٹے جنکي نسل سے حبشي پیدا ھوے

حامد *m.* one who praises (God). تعریف کرنے والا

حامض *a.* sour, bitter, salt. کھٹا - ترش

حامل *m.* a carrier, a porter, bearer, *f.* pregnant a (woman) بوجھہ اُٹھانے والا

حاملات *f* pregnant women, clouds heavy with rain. حاملہ عورتیں - ابر پاني سے بھرے ھوے

حامل وحي *m.* the angel Gabriel. جبرئیل فرشتہ

حامي *m.* a protector, a defender, a guardian, *a.* burning, very hot. حمایت کرنے والا - نگاہ رکھنے والا - سوزان - نہایت گرم - جلتا ھوا

حامیہ *m.* a protective body. حمایت کرنے والے

حانث *m* a perjurer. قسم توڑنے والے

حانوت *f.* a shop. دوکان

حاوي *a.* containing, collecting, comprehending, a collector. گھیرنے والا - احاطہ کرنے والا

حاویہ *fem.* form of مونث. حاوي کا مونث

حائب *m.* a sinner. گنھگار

حائر *a.* confounded, confused, weak, thin, impotent, whirlpool. - سرگشتہ - حیران - لاغر - دبلا - پاني کا بھنور

حائط *m.* a wall, an inclosure. دیوار

حائک *m.* a weaver. جلاھا

حائل *haiyil, m.* (used substantively), a shelter, defence, protection, restraining, intervening. باز رکھنے والا - درمیان دو چیز کے مانع آنے والا

حب *hubb, f.* love, affection, friendship. محبت - دوستي

حب *habb, f.* a pill, a grain, a berry. - گولي دانہ

حبا *hiba,* to pardon, to forgive. بخشش - بخشنا کرنا

حباب *m.* a bubble. پاني کا بلبلہ

حباب *hibab,* forming friendship. دوستي کرنا

حباب *hub ab,* bubble (of water), friendship, snake, demon. - سانپ - دوستي - بلبلہ پاني کا - دیو

حبات *f.* (*pl.* of حبہ) grains, pills. - دانے گولیاں

حباحب *m.* fire-fly. جگنو

حباری *m.* a species of bustard. ایک پرند کا نام ھے جو برابر مرغابي کے ھوتا ھے - فارسي میں اُسکو چرز کھتے ھیں

حباک way, road, a heap of sand, ringlets, curls. راہ - بالو کا ٹیلہ - گھونگر والے بال

حبالہ *m.* net, noose, rope. جال - پھندا - رسي

حبالی } حبائل } *f.* pregnant women (*pl.* of حبلی) جمع حبلی کي (پیٹ والي عورتین)

حبائل شیطان *f.* prostitutes, concubines. زنان فاحشہ

حبذا *int.* excellent! bravo! بھت - اچھا - خوب - بھتر

حبر *n.* ink, *a.* wise, good. - سیاھي دوات کي عقلمند - اچھا

حبس m. retention, imprisonment, prison, a prisoner, a bank, mound, dam, a tank, pond, reservoir. قيد بند

حبش (pl. حبشان), an Abyssinian or Ethiopian, night. حبشيوں کا ملک - مراد رات سے بهي هے

حبل m. rope, cord, tendon, a league, alliance, compact. رسي - باگڈور - رگ

حبل habal, pregnancy. عورت کا حمل

حبل الوريد habl ul-warid, the jugular vain. رگ گردن

حبلى f a pergnant woman. حاملة عورت

حبوب (pl. of حب), grains, pills - دانے گولیاں

حبة m. one berry, one grain, one seed, a particle, part, a measure equal to two barley, corns, a pill. دانة - گولي - لونگ وغيرہ کا وزن

حبيب m. a lover, sweetheart, a friend, a mistress. دوست - معشوق - يار

حتى prep. or conj. until, so that, in such a manner, and thus. يهاں تک - يهاں تک کة

حتف m. death. مرگ - موت.

حتم confirming, establishing, ordering, resolving firmly. استوار کرنا - حکم کرنا - ارادة کا مضبوط کرنا

حتو running swiftly. تيزي کے ساتهة دوڑنا

حج m. act of moving round, or going to a place, pilgrimage to Mecca, resolving, defeating one in discussion ارادة کرنا کسي چيز کا - حجت ميں غالب هونا - موسم مقرر پر کعبة کا طواف کرنا - کسي کے پاس آمد و رفت کرنا

حجا m. modesty, bashfulness, shame, a veil, curtain, night. پردة

حجاب (pl. of حاجب), porters, door-keepers, chamberlains. دربان - پردة دار

حجاج (pl. of حاج), pilgrims to Mecca. جمع حاج کي - حج کرنے والے

حجاج u. a tyrant, an oppressor, name of a notorious petty tyrant (حجاج بن يوسف ثقفي) who was governor of عراق عرب under Abdu l-Malik, about the year of our era 685. ظالم - لقب بادشاة ظالم کا جسکو حجاج بن يوسف ثقفي کهتے هيں

حجاز m lit prohibiting or separating, Mecca, and the adjacent country. Arabia, Petræa According to some authorities, Arabia is divided into five parts, Tihama, Najd, Hejaz, Uruz and Yaman. ملک عرب جس ميں مکة - مدينة - طائف اور وة زمين جو درميان نجد اور غور کے واقع هے شامل هے

حجام m. a cupper, phlebotomist, scarifier, a barbar, a shaver. پچهنے - لگانے والا شخص جو بعد پچهنة لگنے کے سينگي سے خون کهينچتا هے

حجب (pl. of حجاب) m. interposing, secluding, excluding, fencing round. پردے

حجت f. an argument, proof, reason, altercation, disputation, controversy. - دليل - غلبة - برهان

حجج (pl. of حجت). جمع حجت کي

حجر (pl. احجار), m. a stone, hinderance, prohibition in law, annulment. - سنگ پتهر - جمع اسکي احجار هے

حجر (pl. of حجرة) m. closets, cells, chambers, rooms. کوٹهريان

حجرالاسود m. the celebrated black stone which is set in silver, and fixed in the south-east corner of the کعبة being that, which looks towards Basra, about two cubits and one-third, or, which is the same thing, seven spans from the ground. This stone is exceedingly respected by the Muhammedans, and is kissed by the pilgrims with great devotion, being called by some the right hand of God on earth. They say that it is one of the precious stones of paradise, and fell down to the earth with Adam, and being taken up again or otherwise preserved at the Deluge, the Angel Gabriel afterwards brought it back to Abraham when he was building the Kaaba. It was first whiter then milk but grew black long since by the touch of a menstruous woman, or, as others tell us, by the sins of mankind, or rather by the touches and kisses of so many people, the superficies only being black, and the inside still remaining white. کالا پتهر - ايک پتهر کعبة ميں جسکا چهونا باعث دور هونے گناة کا هے

حجرة m. a cell, closet, chamber. کوٹهري

حجل f. the *Bartavelle* or Greek partridge. چکور مشهور پرند

حجلة m. the ornamented chamber where the bride sits, the curtain which hangs before her, the marriage bed مقام جو دلهن کے لئے کمال زينت اور آرائش سے آراستة هوتا هے - دلهن کا چهپرکهت

حجم *a* thickness, bigness, cupping, scarifying, swelling (of breast.) جسامت - موٹائي دل

حجون *a.* lazy, indolent, sluggard. - سست کاهل آدمي

حجی *m.* wisdom, intelligence, sense, edge, border. عقل - کنارہ کسي چیز کا

حجی *hajja*, greedy, avaricious, miserly, softening; bubbles (of water). - لالچي - حریص بخیل هونا - ملائم هونا - بلبلے

حد *f.* a boundary, limit, an impediment, a definition, a starting post, punishment agreeable to the laws of *Muhammad*, which fix the exact number of lashes, etc. to be inflicted for certain crimes, anger, wrath. انتها - کنارہ - گنهگار کو سزا دینا - فاصلہ دو چیز کا

حداثت *f.* newness, youth, freshness, beginning, commencement. - نیاپن - نوجواني - تازگي هر چیز کا شروع

حداثت سن *f.* infancy, childhood. - طفلي خرد سالي

حداد *m.* blacksmith, a jailer. - لوهار - آهنگر زندان بان

حداد *hidad*, sharp or pointed things, mourning clothes (*pl.* of حدید) - تیز چیزیں ماتمي کپڑے - جمع حدید کي

حدب *m.* hump, a hunch, a mound. پیٹھ کا کوبڑ - کبڑاپن - ٹیلہ

حدب *f.* kindness, favour. مهرباني

حدت *f.* the edge of a sword, passion, vehemence, impetuosity, poignancy, virulence. تیزي - تندي

حدث *m.* anything existing for the first time, recently happening, novelty, contingency, event, accident, an accidental cause of impurity, according to Musalman traditions, whereby it becomes unlawful to commence or finish a prayer without previously undergoing ablution. بے وضو هو جانا

حدث *m.* a young lad, story, tale. - لڑکا - قصہ افسانہ

حدثات *f* young girls. لڑکیاں نوجوان

حدثان *m.* young boys. جوان لڑکے

حدثان *m.* adventure, event, accident, occurrence. حادثہ - واقعہ

حدج *hadaj*, colocynth *cucumis colocynthis*), a fruit of beautiful appearance but bitter taste. اندرائین کا پھل

حدوث *m.* novelty, invention. نیا پیدا هونا کسي چیز کا - صفت مخلوقات

حدود (*pl.* of حد) limits, confines, boundaries. جمع حد کي حدیں

حدور *m.* declivity, downward, slope. جائے نشیب

حدیبیہ *m.* a place near Mecca where a treaty was signed between Muhammad and the Quraish. ایک مقام کا نام جهاں محمد اور قریش کے درمیان صلح قرار پائي تهي

حدیث *m* a history, tradition, the traditional sayings of *Muhammad*, which now bear the force of laws - خبر - بات - نئي چیز محمد کا ارشاد

حدید *m.* iron, a helmet, anything sharp. لوها - تیز چیز

حدیقہ *m* an inclosed garden, a palm plantation, name of a Persian poetical and mystical work by *Hakim Sanayi.* وہ باغ جس میں درخت خرما وغیرہ کے بکثرت هوں اور اُس کے گرد چار دیواري گهري هوئي هو

حذا *m.* equality, comparison. برابر - مقابل

حذار *m.* fearing, dreading ڈرنا - خوف

حذاق *m.* acting prudently, becoming wise. دانا هونا - عقلمند هونا

حذاقت wisdom, intelligence, sense, prudence, penetration, mastering, investigating. عقلمند هونا - خوب دریافت کرنا دانائي - عقلمندي - کام میں هوشیار هونا

حذر *m.* caution, prudence, fear. - پرهیز کرنا ڈر - اندیشہ

حذر *hizr*, one who fears. ڈرنے والا - ترساں

حذف *m* taking away, ejecting, cutting off a letter or syllable of a word, apocope. گرا دینا - ڈالدینا - کسي کلمہ سے ایک حرف کا دور کرنا

حذق wisdom, prudence, sense. عقلمندي

حذو *m.* equalling two things. دو چیز کو باهم برابر کرنا

حذور / حذیر } *m.* fearful, one who fears, awful. ڈرنے والا - خوفناک

حر *hurr*, *a.* free, well-born, gently born, chosen, selected, young one of a pigeon, snake and deer, a trained horse, a good work. آزاد جو غلام نہ هو - غلام جو آزاد هوگیا هو - برگزیدہ هر شئے میں - کبوتر و سانپ و هرن کا بچہ

حر *harr*, *a*. being hot, warmth, boiling, stony soil. گرمي - گرم هونا - زمین پتهریلي

حرا n name of a mountain in Mecca in the cave of which Muhammad used to pray to God. مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ کا نام

حراب (pl of حرب) battle, war. - جمع حرب کي جنگ

حراث (pl. of حارث) husbandmen, farmers. کسان لوگ

حراثت f husbandry, farming. - کھیتي کرنا - زراعت کرنا

حرارت f. heat, a burning fever, warmth. zeal. گرمي - آنچ

حرارت غریزي *hararat gharizi*, f. natural heat اصلي گرمي جو روح کي اصلي حرارت سے بدن میں ہوتي ھے

حراست f. care, watching, guarding. - نگہباني محافظت

حرافت f. a sharp taste of anything کسي چیز کا تیز مزا ہونا

حرام a. unlawful, forbidden, sacred, wrong - منع کرنا - روکا گیا - ناروا - ناشایستہ ناجائز

حرام توشہ m. one who lives on the wages of iniquity. نمکحرام - حرامخور

حران *harran*, a. thirsty, name of a place in Syria where Zoroaster, the founder of the sect of Magi was born. پیاسا - نام ایک شہر کا شام میں

حرامي m. a robber, an assassin, a rogue. چور - دزد - راہزن

حرامین (dual) Mecca and Medina. مکہ اور مدینہ

حرب f. war, battle, name of a man - لڑائي جنگ - نام ایک مرد کا

حربگاہ f. the field of battle. جنگ کا میدان

حربا m. a chameleon. گرگٹ جانور مشہور

حربہ m. arms, warlike apparatus. لڑائي کا ہتیار

حرث m. ploughing, sowing, cultivating, a ploughshare, reading Kuran, acting wisely, collecting goods. بونا - کھیتي کرنا - مال جمع کرنا - قرآن پڑھنا - عقلمند ہونا

حرز *hirz*, m. an amulet, a charm, a fortification, an asylum, a place of refuge, custody, safe keeping of goods or valuables. پناہ کي جگہہ - جاے استوار - مجازاً تعوید

حرس (v. حراست) care; etc. ہوشیاري

حرص f desiring eagerly, greediness, avidity, ambition, avarice. - لالچ - طمع آرزو

حرف m. a letter of the alphabet, a particle (in grammar), inverting, changing, turning, (as a coat), crooked pen, a word, the summit of a mountain, edge of a sword, defect, side, pure. سخن - تلوار کي دھار - عیب - طرف - خالص - حرف تہجي

حرف بار گیر m. a cant word introduced into one's conversation without any meaning. تکیہ کلام

حرف چکشي m. harsh words, ill-treatment. کڑي بات - سخت کلام

حرف درکار کسے کردن id. to find fault with, to criticise. اعتراض کرنا

حرف زدن id. to talk, to converse. بات کرنا

حرف گیر m. a critic, it rather denotes the contemptible little vermin of criticism whose abilities extend no further than to detect an error of the press or so, hence. *adj.* captious. نکتہ چین - عیب نکالنے والا

حرف گلو سوز *phr.* harsh words, bitter words. کڑي بات - سخت کلام

حرفہ m. } profession, art, trade, skill, ingenuity, cleverness, cunning.
حرفت f. } ness. پیشہ - کسب

حرق a. burning, gnashing or grinding one's teeth from anger, rubbing one thing against, another. جلنا - دانت کٹکٹانا - کسي چیز کا کسي چیز پر گھسنا

حرق m. fire, a flame. آگ - آگ کا شعلہ

حرقت f. burning sensation. سوزش - جلن

حرکات (pl. of حرکت), movements, proceedings, the vowel-points- - جمع حرکت کي - جنبشیں حرکتیں

حرکت f. action, motion, conduct, procedure, prevention, hinderance, a short vowel. جنبش

حرم a. sacred, forbidden, m. the sacred inclosure of the temple of Mecca, f. a concubine, a wife, a daughter, the women's apartments, a seraglio *vul. gharem*). احاطہ جو گردا گرد کعبہ کے ھے - فارسي میں بمعني اندرون مکان - منکوحہ عورت

حرم f. anything forbidden by law. وہ چیز جو حرام ہو

حرمان m. repulsion, disappointment, deprivation, hopelessness. محروم رہنا - کچھہ نہ ملنا - نا اُمیدي

حرمت *f.* dignity, character, chastity, honour, reverence. عزیز هونا - عزت - حرام هونا

حرم سرا *m.* women's apartments, a seraglio (*vulg. harem*). زنانه مکان

حروب *hurub, f.* (*pl* of حرب), battles, wars. لڑائیاں

حروق *m.* fuel. ایندهن

حرون *m.* a vicious horse, *a.* rebellious, obstinate. سرکش گهوڑا - سرکش

حروني *f.* rebellion. سرکشي

حرور *f.* heat, warmth. گرمي

حره *m.* thirsty, stony soil. پیاسا هونا - پتهریلي زمین

حره *hirrah, m.* thirst. پیاس - تشنگي

حري *a.* worthy, fit, able, befitting, becoming. سزا وار - لایق - زیبا

حریت *f.* freedom, freedom from bondage. آزادي - آزاد هونا غلامي سے

حریر *m.* silken cloth, *a.* furious angry, passionate, *met.* paper. ریشمي کپڑا - وه شخص جو غصه اور غضب سے گرم هو جائے - مجازاً کاغذ

حریري *m. met.* a silk merchant. اصطلاحاً ریشمي کپڑا بیچنے والا

حریره *m.* silken cloth, a kind of pap of milk and flour, candle. ایک قسم کا کهانا

حریص *a* covetous, greedy, gluttonous. - لالچي حرص کرنے والا

حریف *a.* clever, cunning, pleasant, facetious, *m.* a rival, an enemy, an associate, a partner or opponent at play, a friend. هم پیشه - هم کار - شریک

حریف *a.* pungent, of sharp taste. تیز مزه کي چیز

حریق *f.* burning sensation, flame (of fire), warmth, glow. سوزش - جلن - شعله (آگ کا)

حریم *m.* a sacred place, a sanctuary, the inclosure of the temple of Mecca, courtyard, a house or dwelling. گهر کے چارون طرف کي دیوار

حزاز *m.* a kind of scales or dandruff formed on the head. سر کي بهوسي بفا (هندي)

حزب *f.* a group of men, arms, mouth, face. گروه آدمیونکا - هتیار - منه

حزق *f.* group (of men), flight (of birds) آدمیونکا گروه - پرندونکا غول

حزقیل name of a prophet (Ezekiel). نام ایک پیغمبر کا

حزم *m.* vigilance, industry, steadiness, caution, resolution, farsightedness. - استواري هوشیاري - کام کي آگاهي - عاقبت اندیشي

حزم *pl.* of حزمه جمع حزمه کي

حزمه *m.* a faggot, a bundle, a quire (of paper). لکڑي یا گهاس کا گٹها - دسته کاغذ کا

حزن *huzn,* } *m.* grief, sadness, affliction. - غم
حزن *hazn,* } اندوه - رنج

حزین *a.* sad, afflicted, melancholy, grieved, doleful. غمگین - رنجیده

حس *m.* sense, sentiment, feeling, imagination, sympathy, moving, speaking gently, pardoning, believing, trusting, the pangs of conception, frost. - معلوم کرنا - دریافت کرنا آگاه هونا - حرکت کرنا - آواز نرم کرنا - بخشنا - مهربان هونا - یقین کرنا - دردزه - پالا - نرم آواز

حساب *m.* computation, calculation, arithmetic, accounts. گنتي - شمار - علم حساب کا

حساب از کسي برداشتن } *id.* to fear some one
حساب ازکسي بردن } and to separate
حساب ازکسي بگرفتن } oneself from him.
کسي شخص سے ڈرنا اور اُس سے علیحده هونا

حساب نه گرفتن *id.* to be inattentive, to be regardless. متوجه نهونا

حساد (*pl.* of حاسد) *a.* envious, jealous, malicious. رشک کرنے والا

حساس *a.* possessed of five senses, *m.* (used substantively) an animal, inquirer. دریافت کرنے والا - انداز سے معلوم کرنے والا

حسام *f.* a sharp sword, a keenedged sword, edge of a sword. تیز تلوار - تلوار کي دهار

حسان *a.* very good or very beautiful, better, wise, name of a famous poet of Arabia. (حسان بن ثابت انصاري) who wrote much in praise of Mahomet. - بهت خوب - بهتر عقلمند - ایک مشهور شاعر کا نام جو محمد کا مداح تها

حسان *a.* beautiful, handsome. خوبصورت

حسان *husan, m.* beautiful person, well, good. خوبصورت شخص - خوب

حسب *hasab, m.* pedigree, nobility, computation, measure, proportion, value, way, mode or manner, religion. - اندازه - شمار شرف اور بزرگي کسي شخص کي از روے مال یا مرتبه یا دین یا نسب کے

حسب *hasb,* agreeably, conformably, according to, in conformity with, *m.* computing, reflecting upon, considering, quantity, measure, proportion, value, sufficiency, number. گننا - شمار کرنا - کافي هونا - بس هونا - کافي - موافق - مثل - مانند

حسب *f.* plans, contrivances, wages (of works or labour). تدبیریں - کامونکي مزدوریاں

حسبان *m.* knowing, finding. معلوم کرنا

حسب الامر agreeably to orders. بموجب حکم کے

حسبي و کفي equal to (it is) enough for me. بس هے مجهکو اوز کافي هے

حسد *f.* envy, malice, emulation, ambition. ڈاہ - کسي کي نعمت کا زوال چاهنا

حسرت *f.* regret, grief, desire. - ارمان - افسوس - پشیماني

حسم *m.* cutting, curtailing. کاٹنا - قطع کرنا

حسن *a.* good, beautiful, elegant, (often used as a man's name), *m.* the eldest of Ali's two sons. نیک - خوبصورت - اچھا - علي کے دوبیٹوں میں سے ایک کا نام

حسن بسن *a.* excellent, very good. - بہت نیک بہت اچھا

حسني *a.* relating to Imam Hasan. منسوب طرف امام حسن کے

حسن *a.* beauty, elegance, goodness, (*pl.* محاسن). - خوبصورتي - خوش شکلي - نیکي خوبي

حسن پرشتہ *a.* of a dark or sallow complexion, green colour. سانولا رنگ - سبز رنگ

حسن صبیح *n.* white or fair complexioned. گورا رنگ

حسن گلو سوز *n.* lovely complexion, fair complexion, white complexion (red and white) حسن شیریں - گورا رنگ سرخ و سفید

حسن الماب nearness, proximity (with God). نزدیکي خدا کي

حسن خلق *m.* a good disposition. نیک مزاج

حسن مطلق *m. lit.* the beauty of God, the glory of God, divine light. - خدا کا حسن نور الهي

حسنى (*f.* of احسن) very beautiful, handsome, virtuous. بہت خوبصورت - نیکتر - احسن کا مونث هے

حسناء *f.* a beautiful woman, fair. خوبصورت عورت - صاحب جمال

حسنات (*pl.* of حسنة), virtues - جمع حسنة کي نیکیاں

حسنة *m.* virtue, goodness. نیکي - بھلائي

حسود *a.* envious, spiteful, malignant. بہت حسد کرنے والا - بدخواہ

حسود *husud*, *pl* of حاسد جمع حاسد کي

حسور *husur*, *f* weak sightedness آنکھ کي بینائي کا کم ھوجانا

حسوک *a.* thorny, prickly, having thorns, *met.* vicious, bad. - کانٹوں کي شئے - خار دار مجازاً بد اور شریر آدمي

حسیر *m.* humble, submissive, sick, ill, regretful, sorrowful. عاجز - بیمار - افسوس کرنے والا

حسیس *f.* gentle voice, sound of blazing (fire). نرم آواز - آگ بھڑکنے کي آواز

حسین *a.* beautiful, handsome, fair, elegant. خوبصورت - خوش شکل

حسیني *a.* of or relating to *Husain*, a species of grape. منسوب طرف امام حسین کے

حشاشة }
حشاش } *m.* the remains of life, last breathings of a dying man. وہ تھوڑي جان جو بیمار یا زخمي کے بدن میں باقي هو

حشاش *m.* a forager, a grass-cutter. گھسیارا

حشائش (*pl.* of حشیش) dry grass. سوکھي گھاس

حشر *m.* rising, a meeting, congregation, concourse, the general resurrection of the dead. اٹھنا مجازاً قیامت

حشرات (*pl.* of حشرہ) the buzzing noise of a crowd, reptiles, insects, animalcules. حشرات الارض reptiles. وہ جانور جو زمین میں سوراخ کر کے رهتے هیں مثل سانپ - نیولا وغیرہ کے - اس لئے ان کو حشرات الارض بھي کہتے هیں

حشري *a.* violent and impetuous (a stallion) تند

حشفة *m. glans penis* عضو تناسل کا سر

حشم *m.* pomp, equipage, suite. - نوکر چاکر خدمت گار لوگ

حشمت *f.* state, dignity, equipage, retinue, train, parade, modesty, shame, anger, wrath. دبدبہ - بزرگي - شرم - حیا - غضب

حشمت *hushmat*, *f.* wife, family, bridle (of a camel). جورو - کنبہ - اونٹ کي مہار

حشو *m.* stuffing a pillow, cushion, bed, &c. also whatever they are stuffed with, people of the meanest condition, small camel. بھرنا - وہ روئي یا اون وغیرہ جو تکیہ اور لحاف وغیرہ میں بھري جائے - اونٹ نوجوان

حشیش *f.* dry grass. (*plu* حشائش) سوکھي گھاس

حصا *m.* (*pl.* of حصاة) broken pieces of earthenware, brick-bats. - جمع حصاة کي - ٹھیکریاں سنگریزے

حصاة *m.* a broken piece of earthenware a pebble. ايک ٹھیکري - سنگريزه

حصاد *f.* reaping a harvest. کھيتي کاٹنا - زراعت کا کاٹنا

حصاد *hassad, m.* a harvester, a reaper. کھيتي کا ٹنے والا

حصار *m.* an inclosure, a fence, a fortress, a castle, besieging. قلعه - گڑھي

حصال *m.* an inclosure, a fence, a fortress قلعه - احاطه

حصان *f.* a virtuous woman, chaste, a married woman. پارسا عورت - شوهر دار عورت

حصانت *f.* firmness, stability, durability, steadiness, chastity, continence. - استواري مضبوطي

حصانات *hasanat,* abstinence, continence, stability, firmness. پرهيز گاري - محکم هونا

حصب *m.* fuel, firewood, that which serves to feed fire. ايندهن جلانے کا

حصبه *m* stony soil. پتھريلي زمين

حصبه *m.* a piece of earthenware, gravel, pebbles سنگريزه

حصد *m.* reaping a harvest, کھيتي کا کاٹنا

حصد *f* dry grass, سوکھي گھاس

حصر *m.* a siege, blockade, surrounding, reckoning, counting numbering. - گھيرنا احاطه کرنا کسي چيز کا

حصرم *m.* unripe grape which is sour, a miser who may be surly and stern. کچا انگور جس کا مزه کھٹا هوتا هے - بخيل جو تند خو اور ترشرو هو

حصص (*pl.* of حصه), shares, lots, portions جمع حصه کي - حصے

حصف *m* a snake, a serpent. سانپ

حصن *m.* a castle, fortification. - پناه کي جگهه قلعه

حصول *m.* acquisition, profit, advantage, produce, getting or attaining. - حاصل هونا پيدا هونا

حصون *husun,* (*pl.* of حصن), fortresses. جمع حصن کي - قلعے

حصور *m.* abstinent, one who refrains from indulgence پرهيز گار

حصير *m* a mat for sitting on بوريا - چٹائي

حصيف *f.* firm, steady, sensible, in proper spirit. استوار - مرد درست عقل

حصين *a.* strong, fortified, a gaol. - محکم استوار - زندان

حصينه *a.* strong, firm. محکم - استوار

حضار (*pl.* of حاضر), those present, spectators, auditors, assistants. حاضرين - جمع حاضر کي مجلس

حضانت *f.* the bringing up of children in the Musalman faith, adoption. بچه کا گود ميں لينا - پرورش کرنا

حضر *m.* residence, resting, remaining in a place, presence, rest or repose (in opposition to سفر, journeying, moving about). ضد - سفر - اپنے گهر ميں رهنا - شهر ميں اقامت کرنا

حضرت *f.* presence, dignity, majesty, highness, &c. (a title addressed to the great, such as our words Excellency, Eminence, Holiness, &c.) - حاضر هونا - نزديکي حضور - درگاه - بزرگوں کے لئے کلمه تعظيم

حضرات حضرت } *pl.* of حضرت (see above) جمع حضرت کي

حضر موت *m.* name of a city and a tribe. نام شهر اور ايک قبيله کا

حضض *huzzuz,* a kind of collyrium, extracted from the root of the *Amonium anthorrhizum, Roxb.* ايک دوا - رسوت (هندي)

حضور *f.* presence, appearance, attendance, court, government, the town or station at which the chief authority is resident (the other towns and places subject to the same authority are termed غيبت) used also in the sense of "your honour," "your highness." حاضر هونا - سامنے رهنا - سامنا اور عزت ميں کلمه تعظيم کا

حضيض *a.* low, (substantively) the lower, extremity or surface of anything, the foot of a mountain, (in astronomy) the lower apsis in an eccentric orbit (opposed to اوج the zenith). پستي - نشيب

حطام *hutam,* anything brittle, or dry, minute or paltry, worldly goods, small property, a stalk. هر چيز کا ريزه - سوکهي گهاس کا تنکا - مال قليل

حطب *f.* firewood. لکڑي - چوب

حطب *hatib, a.* very lean, thin, lank (like a stick). مرد لاغر - خشک اندام

حطل *m.* a wolf (*pl.* احطال). بهيڑيا - گرگ (جمع احطال)

حظ *m.* pleasure, delight, flavour, taste, good fortune, felicity. نصيب - بهره - بهرهمند هوا - صاحب نصيب هونا - فارسي لوگ اکثر بمعني خوشي اور خرمي کے استعمال کرتے هيں

حظوظ *pl.* of حظ (see above). جمع حظ كي

حظي *m.* rich, wealthy, a man of rank or position. صاحب دولت - صاحب رتبه

حظيظ *a.* fortunate, lucky, felicitous. صاحب نصيب - با بهره

حفاظ *f.* abstinence, modesty, shame, favouring, protecting, watching, - پرهيزگاري كرنا شرم كرنا - مروت كرنا - نگهباني كرنا

حفاظت *f.* memory, custody, guardianship, protection. نگهباني - پاسباني

حفد (*pl.* of حافد), friends, companions, associates, attendants. - جمع حافد كي - يار لوگ خدمتگار

حفر *m* act of digging earth. زمين كهودنا

حفره *m.* a ditch, a hole. گڑها - سوراخ

حفظ *m.* memory, custody, guardianship, protection. ياد كرنا - ياد ركهنا

حفظالغيب *m.* act of praising one behind his back. كسي كو اُس كے پيٹهه پيچهے بهلائي اور نيكي سے ياد كرنا

حفي *hiffi*, *a.* kind, wise, imploring, begging. مهربان - عقلمند - گڑگڑا كر منت سے سوال كرنا

حفير *f.* a dug grave. كهدي هوئي قبر

حفيظ *m.* a protector, guardian, keeper, a name of God. نگهبان - محافظ - خدا كا نام

حق *n.* just, right, true, worthy, proper, *m.* the Deity, justice, rectitude, lot, portion, equity, fulfilling a promise. - راست درست - سزاوار - واجب - خدا كا ايک نام - وعده وفا كرنا

حقا *m.* "it is right," "it is proper," "By God." درست هے - سچ هے - قسم خدا كي

حقارت *f.* contempt, scorn, affront, disgrace, vileness, baseness. خواري - نفرت كرنا - ذليل سمجهنا - حقير جاننا

حقاني *a.* true, perfect, divine. سچ جو خدا كي صحبت ميں رهے

حقائق (*pl.* of حقيقت), truths. - جمع حقيقت كي سچائياں

حقب / حقبه } *f.* duration of eghty years. اسي (۸۰) برس كي مدت

حقب *m.* period, time, epoch. (*pl.* احقاب) روزگار - زمانه

حقب *m.* pack-saddle, dorser. پالان شتر كا تنگ

حقد *f.* enmity, malice, spite, - كينه دشمني بغض

حقنه *m.* a syringe, a squirt, a clyster-pipe, a clyster. دوا كي پچكاري

حقوق (*pl.* of حق), rights, duties, جمع حق كي

حقه بازي *m.* a juggler, *met. a.* artful, cunning. بازيگر - مداري - مجازاً - عيار - مكار

حقيقت *f.* account, narration, relation, explanation, truth, sincerity. اصل - كسي شے كي ذات اور اصل - ماهيت

حقيت *f.* right, share, proprietorship, claim, property. حق - حقداري

حقير *n.* contemptible, thin, lean, vile. - ذليل خوار - چهوٹا

حک *m.* erasure, scratching out. - چهيلنا كهرچنا

حكاک *m.* a cutter and polisher of precious stone, a lapidary. مهركن - نگينه ساز

حكام (*pl.* of حاكم) rulers, governors. جمع حاكم كي

حكايت *f.* a history, romance, story, tale, narration. بات - كهاني

حكم *hakam.* an umpire, a mediator, an arbitrator, حكم *hikam*, knowledge, science, wisdom, &c. - انصاف چكانے والا تصفيه كرنے والا حكمت - عقل

حكم انداز *m.* a perfect archer. كامل تير انداز

حكما (*pl.* of حكيم), philosophers, sages, physicians, wise men in general. - جمع حكيم كي عقلمند لوگ

حكمت *f.* wisdom, knowledge, skill, cleverness, philosophy, mystery, principle. دانائي - عقلمندي - نام علم كا

حكمران *m.* a ruler, a king. حاكم - بادشاه

حكم نامه *m.* a written order. پروانه

حكه *m.* itches. كهجلي

حل *m.* solution, loosening, untying, oil of sesamum seeds, lawful, coming down كهولنا - مشكل چيز كو آسان كردينا - گره كا كهولنا - تلي كا تيل - حلال هونا - اُترنا

حلاج *m.* a comber, a carder of cotton, a title of Husain, the son of Mansur. دهنيا - روئي كا دهنكنے والا - لقب حسين بن منصور كا

حلاجي treating one unkindly, sayiug harsh words. كسي كو سخت بات كهنا

حلاحل *m.* a chief, a headman. - سردار چودهري

حلاق *m.* a barber, *lit.* one who shaves. بال مونڈنے والا - نائي

حلال *a.* legal, legimate, lawful, right, (a woman) laying aside mourning for the death of her husband at the expiration of a hundred days (during which time she is not allowed by law to marry). - روا - جائز درست - موافق شرع کے

حلام } *m.* young one of a sheep or goat,
حلان } a kid. بکري یا بھیڑ کا بچہ

حلاوت *f.* sweetness, deliciousness. - شیریني متهائي

حلائل (*pl.* of حیله), married women. نکاحي عورتیں

حلب milking (a cow). دودہ کا دھنا

حلب *n.* the city of Aleppo in Syria. شام ایک ملک کا شام میں

حلبي *a.* of or belonging to Aleppo, (a mirror.) حلب کا - اکثر آینه حلبي مشهور هے

حلبه *m.* the plant fenugreek (Trigonella fenugrœcum.) میتهي کا ساگ

حلتیت *f.* assafœtida. انگوزہ - هینگ

حلس *hillas*, *a.* valiant, brave, a hero. - دلیر شجاع

حلف *m.* an oath, a vow. قسم کهانا

حلف } *m.* a kind of grass from which
حلفاء } they make mats, etc. ایک قسم کي گهاس هے جس سے بوریا بنتے هیں

حلق } *m* the wind-pipe, the throat. - گلا
حلقوم } گلو - نرخرہ

حلقه *m.* a ring, a circle, a loop, a button-hole, a kind of fire works, a knocker (of a door), a village circuit or boundary-line گهیرہ - احاطه - هر چیز گول

حلقه (*pl.* of حالق), barbers. جمع حالق بمعني نائي کي

حلقه بگوش *m.* a slave, a servant, *i. e.*, one who wears a ring in his ears as a badge of servitude. غلام - فرمانبردار

حلقلچي *m.* a kind of sweetmeat. جلیبي (ایک متهائي)

حلقه زریں *f.* gold-ring, lightning, electric. سونے کي بجلي

حلقه عنبري *m.* ink. سیاهي

حلقه میم *m.* mouth of a mistress. کنایه هے دهان معشوق سے

حلم *m.* coolness, temperateness, mildness, affability, gravity. برد باري - نرمي

حلو *hulu*, *a.* sweet. میٹھا

حل وعقد tying and untying. کهولنا اور باندهنا

حلوان *m.* a kid, a lamb. بکري یا بهیڑ کا بچه

حلوان *hulvan*, wages of a broker, bribe, a dowry, sweetness. دلال کي اُجرت - رشوت - مهر عورت کا - میٹھا

حله *hulla*, *m.* a robe, a garment - جامه - جبه پوشاک

حلي *f.* jewels, ornaments. زیور چاندي سونے کا

حلیب *m.* fresh unboiled milk کچا دودہ تازہ

حلیل *m.* a husband, inmate of the same house, neighbour. شوهر هم خانه - همسایه

حلیم *a.* mild, affable, unassuming, tractable, a kind of food dressed in the *Muharram*, a fat camel. - فربه - اونٹ - بردبار نرم مزاج

حلیه *m.* jewels, ornaments. زیور سونے چاندي کا

حلیله *f.* a married woman, a wife. منکوحه عورت - جورو

حم *m.* a father-in-law, a brother-in-law. سسرا - سالا

حمى *f.* a meadow, a pasture, greensward. سبزہ زار - چرا گاہ

حمي *m.* fever. بخار - تپ

حماء } *f.* black mud. کالي کیچڑ
حماة }

حمات (*pl.* of حامي) *m.* a helper. مددگار

حماست *f.* bravery, heroism, boldness, name of a man. دلیري - دلیر هونا - نام دیوان ابو تمام کا جس میں شجاعان عرب کي دلیري کے اشعار جمع کئے هیں

حمار *m.* a male ass, the wild ass. خر - گدها

حماقت *f.* folly, stupidity. بیوقوفي - بے عقلي

حمال *m.* a porter, a carrier of burthens, a palki-bearer. بهت بوجه اُٹهانے والا

حماله (*fem.* of حمال) bearing, becoming pregnant, a woman who bears burdens, &c. بوجه اُٹهانے والي عورت

حمام *m.* a warm-bath, a bagnio نهانے کي جگهه جو گرم هوتي هے

حمام *himam*, death. مرگ - موت

حمام *hummam*, fever, heat, vapour. - تپ بخار

حمام } *m.* pigeon, dove, a ring-dove. - کبوتر
حمامه } قمري - فاخته

حمایت *f.* protection, defence, guardianship, patronage, countenance. - بچاؤ طرفداري - نگهباني

حمائد (*pl.* of حمیدہ) praiseworthy qualities, laudable, laudable deeds or conduct. خوبیاں - اچهي خصلتیں

حمائل *f.* a sword belt hung from the shoulders, a necklace of flowers, a small Quran suspended to the neck as an amulet. تلوار کا پرتلہ - جو شئے بغل کے نیچے لٹکائیں - چھوٹي تقطيع کے قران شريف کو بھي حمائل کہتے ھيں ۰ پھولونکا ھار - تعويز

حمت *f.* very hot or warm, inky, black. سخت گرمي - سياھي

حمد *f.* praise (of God). تعريف - جلال و عظمت خدا کي

حمدونہ *m.* a monkey. بوزنہ - بندر

حمر } حمرا } (*pl.* of احمر) *a.* red, of a red colour, *m.* bitumen, naphtha. جمع احمر کي - سرخ چيزيں

حمر (*pl.* of حمار), asses, mules, گدھے

حمراء *m.* a year of hardship, a woman of a bright colour, anything (*fem.*) that may be red. سال سخت - ھرشے مونث جو سرخ رنگ ھو عورت سرخ رنگ

حمرت *f.* redness. سرخي - لالي

حمص *m.* gram (a grain). چنا - مشھور غلہ

حمق *humuq*, *f.* silliness, folly, stupidity, ignorance. بيوقوفي - احمق پن

حمقا (*pl.* of احمق), fols, stupid fellows. جمع احمق کي

حمل *m.* a burden, a load, sin, pregnancy, the fruit (of the womb) وہ بوجھ جو بيٹھ يا سر پر اُتھائيں - گناہ - بيٹ کا پھل يعني عورت کے پيٹ ميں جو بچہ ھوتا ھے

حمل *hamal*, *m.* a lamb, a kid, a fawn, the first sign of the zodiac, called Aries or the ram. بکري اور بھيڑي اور ھرن کا بچہ نام پہلے برج آسمان کا جو بشکل مينڈھے کے ھے

حموضت *f* acidity, sourness. کھٹائي - ترشي

حمول *a.* bearing, persevering, patient. بوجھ اُتھانے والے - صبر - متحمل

حميت *f.* ardour, impetuosity, zeal, a nice sense of honour. غيرت ننگ - شرم

حميد } حميدہ } *a.* praised, laudable, glorious. ستودہ - تعريف کيا ھوا

حمير (*pl.* of حمار), asses, mules. گدھے

حميقا *f.* a dwarf woman. ٹھنگني عورت

حميم *f.* a friend, relative, *a.* having fever, worm, hot, hot wind. دوست - وشتہ دار - بخار والا - گرم گرم ھوا

حنا *f.* the tree with which the Indians stain their hands and feet (*Lawsonia inermis*), myrtle leaves. مہندي کي پتي جس سے ھاتھ وغيرہ رنگتے ھيں

حناے سر ناخن *f* declension, fading, perishing. چيز قريب زوال

حنجر } حنجرا } حنجرہ } *m.* the throat, the gullet, the wind pipe. گلو - نرخرہ - حلق

حناط *m.* a corn chandler, a druggist, a perfumer. گيہوں بيچنے والا ۔ خوشبو بيچنے والا

حنان *hannan a.* forgiving, kind, merciful, compassionate, a name of God. بخشنے والا - رحمت کرنے والا - خدا کے ناموں ميں سے ايک نام

حنث *m.* sin, breach (of an oath گناہ - قسم کا توڑنا

حنجرہ غلطک *m* a particular vocal sound in singing, quavering. گانے ميں ايک قسم کي آواز - گٹکري (ھندي)

حنش *m.* a snake, a serpent. مار - سانپ

حنطہ *m.* wheat. گندم - گيہوں

حنظل *f.* wild gourd, colocynth. اندرائن کا پھل

حنق *m.* malice, spite, envy, enmity, anger, wrath.

حنک *m.* the roof of the mouth, a bill, a beak, lower part of the chin. تالو - پوند کي چونچ ۔ تھوڑي کا ايک مقام

حنيں *f.* anxiety, desire, wish, weeping much. آرزو منذي بہت رونا

حنيف *a.* bigoted, devoted to God, follower of a truthful religion. دين کا سچا - مائل بحق

حنين *m.* name of a very learned man who had translated the Greek books into Arabic, name of a village between Mecca and Tayif where a war took place between Mahomet and the heathens, name of a famous shoemaker of Egypt. نام ايک عالم زبردست کا جس نے کتب يوناني کا عربي ميں ترجمہ کيا تھا نام ايک موضع کا درميان مکہ معظمہ اور طائف کے جہاں کفار محمد سے لڑے تھے - ايک مشہور موچي کا نام

حوا *f.* Eve, wife of Adam, the mother of mankind. آدم کي بيوي کا نام

حواج (*pl.* of حاج) the pilgrims to Mecca and Medina. جمع حاج کي - حج کرنے والے

حواجب (*pl.* of حاجب) eye-brows, keepers, those who hide or conceals. جمع حاجب کي - ابرو - بھوں دربان - پردہ کرنے والے - چھپانے والے

حوادث (*pl.* of حادثہ), occurrences, misfortunes, revolutions. مصيبتيں - تکليفيں - زمانہ کي گردش

حواري *m.* having a white skin, a washerman, fuller, a friend, a companion, an apostle, a disciple or apostle (of Jesus Christ), a friend, associate, companion (of Muhammad). دهوبي سفيد چمڑے والا - مدد کرنا - اصحاب عيسى کے

حواس (*pl.* of حاسه), the senses. جمع حاسه کي يه دس هيں پانچ ظاهري اور پانچ باطني

حواس خمسه ظاهري *m.* the five senses, the faculty of receiving impressions, sight, hearing, taste, smell or touch. پانچ حس ظاهر کے ذائقه - باصره - شامه - لامسه - سامعه

حواس خمسه باطني *m.* faculty of perception: consciousness, discernment, understanding, memory, good judgment, پانچ حس باطن کے حس مشترک - خيال - متفرقه - داهه - حافظه

حواشي (*pl.* of حاشيه), followers, attendants, margins, borders. - جمع حاشيه کي - کنارے نوکر چاکر

حواصل *m* (*pl.* of حوصله), stomachs, &c.; an animal of whose skin they make garments, a pelican - جمع حوصله کي بمعني پوٹه نام ايک جانور آبي کا جس کا بڑا پوٹه هوتا هے

حوافر (*pl.* of حافره), hoofs of the horses or asses. گهوڑے اور گدهے کے سم

حواله
حوالت } *m.* charge, custody, care. سپرد کرنا - سونپ دينا

حوالي *f.* environs, outskirts, suburbs حولي شهر environs of a city. - گردا گرد کسي چيز کا شهر کا نواح

حواصل *f.* pregnant woman. حاله يا پيٹ والي عورتيں

حوب *m.* sin, fault, misfortune, sickness, grief, destruction, ruin, wildness, fright, fear. گناه - بلا بيماري - اندوه - ظلاکي - وحشت

حوبا *m.* human body. آدمي کا جسم

حوت *f.* fish, the Pisces. مچهلي - نام بارهريں برج کا هے جو خوبصورت مچهلي کے مانند هے - يا مشتري کا گهر

حور
حوري } *f.* a virgin of Paradise, a celestial bride promised by Muhammad to all good Musalmans in the next world black-eyed nymph. بهشت کي عورتيں جو مومنوں کو مليںگي

حرزاد *f.* fair women with black eyes and hair وه عورتيں جو سفيد رنگ کي هوں اور آنکهه اور بال انکے نهايت سياه هوں

حوزه *m.* a track, side, part, middle. کونه اور درميان مملکت کا

حوصله *m.* the stomach, maw, crop, (*met.*) resolution, desire, ambition, capacity, spirit. پوٹه يعني معده پرند جانور کا جو حلق کے نيچے هوتا هے مجازاً مقدور - همت

حوض آب *m.* the Pisces (in *Sikandarnama*) سکندر نامه ميں مراد برج حوت سے

حول *a.* changing, returning, passing by or over, detaining, power, strength, deceit, a year. بازگشت - قوت - توانائي - سال - برس گردا گرد چيز کا - حال سے پهر جانا - لڑکے کا پورے سال کا هونا

حول *hawal*, *m.* blind of one eye, squinting. کج بين هونا

حويلي *f.* house, dwelling, habitation, lands in the vicinity of towns, the revenues of which were devoted to the support of the military garrison. گردا گرد کسي چيز کا - مکان جس کے چار طرف ديوار هو

حي *a* alive, a family, a tribe, a name of God. زنده - جيتا هوا - نام - عرب کے ايک قبيله کا نام - خدا تعالى کا نام

حي *huiy*, come. بيا - آ

حيا *f.* modesty, shame. شرم

حيا without a *hamza* (ء), it means, rain. باران - مينهه

حيات *f.* life. زندگي - حيات تازه new life, regeneration. نو زندگي

حياض (*pl.* of حوض), reservoirs, ponds, etc. جمع حوض کي

حياطت *f.* care, watchfulness. نگهباني - احتياط

حياکت *f.* weaving. کپڑا بننا

حيال *a.* treacherous, deceiver, cunning, artful. مکار - بڑا حيله کرنے والا

حيتان (*pl.* of حوت), fishes, etc. - جمع حوت کي مچهلياں

حيثما *adv.* wherever, wheresoever. - هرکجا هرکهيں - جهاں - کهيں

حيثيت *f.* uniquity, universality, capacity, ability, merit, conditional proposition. مجازاً وضع - اسلوب - طور - طريق

حيدر *m.* a lion, a man's name, a title of Ali. شير درنده - لقب علي کا

حيران *a.* perplexed, astonished, confounded, disturbed, fatigued. بهوچکا - هکا بکا

حيرت *f.* stupor, perturbation, astonishment. - بسبب تعجب کے ايک هي حال پر رهجانا بهوچکاپن

حيز *m.* a place, part, a tract of land, a courtyard, an area. کناره هر چيز کا - مکان

حيزبرن *f.* an old woman. زن پير - بوڑهي عورت

حيض بيض *f.* perplexity, hesitation, suspense a perplexed business, a dilemma, warfare, quarrel, fight, battle. - لڑائي - فوغا - جنگ شور و غل

حيض *f.* the menses. خون معمولي جو عورتونكو هو مهينے آيا كرتا هے

حيضاء *m.* a menstruous woman. وہ عورت جو حالت حيض ميں هو

حيض الرجال *n.* back-biting, speaking evil of behind one's back. لوگوں كي پيٹهہ پيچهے غيبت

حيطه *m.* a court, a place, an inclosure. احاطه - چار ديواري

حيطان (*pl.* of حائط), walls, enclosures. جمع حيطه كي - ديوارين گهر كي

حيف *m.* iniquity, violence, oppression, *intejr.* ah! alas! افسوس ظلم - ستم

حيل (*pl.* of حيله), tricks, stratagems. جمع حيلة كي

حيله *m.* trick, stratagem, excuse, fraud. فريب - بهانه

حين *m.* time, interval or period of time, the judgment day. وقت - هنگام - روز قيامت

حين *f.* death, destruction, ruin. - موت هلاكت


حيوان *m.* a brute or irrational animal, in contradistinction to انسان, a human being. جانور

حيوان خواران جهان (means) death, grief and care. مراد هے موت اور غم اور فكر سے

حيوانات (*pl.* of حيوان), animals, living creatures. جمع حيوان كي

حيه *m.* a snake, a big scorpion. - سانپ بڑا بچهو

حيوت *f.* life, existence. زندگاني



— خ —

خ *kh e*, called *kha, e manquta* or *kha, emu'jama*, is the seventh letter of the Arabic and the ninth of the Persian alphabets. It has no corresponding sound in the English language, but is expressed by the Scottish pronunciation of *ch* in the word Auchtermuchty. In *abjad* ابجد it stands for 600.

خا (*v.* خائيدن), in *comp.* chewing or gnawing. چبانا - كترنا

خات a kite. غليواز - چيل

خاتم *m.* a ring worn on the fingers, a seal, and (*pl.* خواتم). انگوٹهي - مهر

خاتم *khatim*, *m.* one who finishes or ends. ختم كرنے والا

خاتون *f.* a lady, a matron. لقب عورتوں كا بيگم - بي بي

خاتون جنت / خاتون عرب } *f.* the queen of heaven (the title given to Fatima, the daughter of Muhammad). محمد كي بيٹي فاطمه كا لقب

خاتون فلك / خاتون يغما } *m.* the sun. آفتاب

خاج *f.* a cross. صليب

خاد *f.* a kite, a falcon, an eagle. - غليواز چيل

خادع *a.* artful, cunning, deceiving. فريب دينے والا - مكار

خار *m.* a thorn, spine, bristle, bramble, a spur, a cock's spur. كانٹا

خارا / خاره } *m.* a stone of extreme hardness, a species of waved silk, *adj.* flinty or hard, as a stone. سخت پتهر - ايک قسم كا كپڑا

خاربست / خار بند } *m.* a fence or hedge, a stockade. كانٹونكي چار ديواري جو باغ اور كهيت كے گرد لگا ديتے هيں

خار پشت *m* a porcupine (*Hystrix*) ساهي جو مشهور جانور هے

خارج *a.* external, without, beyond, outcast. باهر - الگ نكلا هوا

خار چين *m.* a fence or hedge round a house or a garden. باغ اور كهيت كے گرد اور مكان كي ديواروں پر جو كانٹے لگاتے هيں

خار خار *f.* disquietude, suspension, fear, grief, care. تردد - فكر - انديشه - غم

خارش / خارشت } *f.* the itch, the scab, the mange. كهجلي كا مرض

خارق عادات *m.* miracles, wonders of the prophets. معجزے انبيا كے - اوليا كي كرامتيں

خاريدن *inf.* to scratch, to itch, to tickle. كهجلانا

خازن *m.* a treasurer, custodier. - جمع كرنے والا خزانچي

خازنه *f.* a sister-in-law, wife's sister. سالي

خازه *m.* plaster. كهگل

خاستن (*r.* خيز), to rise up, to go away. - اٹهنا ٹهڑا هونا

خاش *f.* a mother-in-law wife or husband's mother. خوشدامن - ساس

خاشاک } *m.* sweepings, chips, leaves,
خاشه } shavings, rubbish. كوڑا كركٹ

خاشي *m.* a coward, fearful. ڈرپوک - ڈرنے والا

خاصان *pl.* the noble, persons of high rank, the prophets, apostles. خاص لوگ - مخصوص لوگ اور مراد انبيا اور اوليا سے

خاصگي *f.* excellence, nobility, peculiarity, treasurer, a chief, the commander of a troop of horse. - بادشاه اور امير كا مصاحب رسالہ دار - خزانچي - هر چيز نفيس و مرغوب

خاصه *a.* excellent, pure, noble, elegant, good, charming, delightful, pretty, fine, virtuous, *m.* dinner, more particularly a king's meal, a kind of fine cotton cloth. وه صفت جو خاص هو

خاصيت *f.* quality, peculiarity, innate property, natural disposition. طبيعت - اثر

خاطر *f.* the heart, soul, inclination, memory, propensity, account, sake, will, choice. جو چيز دل ميں گذرے - اور بمعني دل بهي

خاطر جمع *a* collected, comforted, contented, tranquil, at ease, *f.* satisfaction, assurance, encouragement. دل كي تسلي

خاطر نشين *a.* fixed in the memory, by heart, chosen, selected. جو بات دلميں بيٹهه سكے' اور يقين هو سكے

خاطف *a.* seizing, snatching, removing ليجهانے والا

خاقان *m.* a king, emperor (the term is generally applied to the sovereign of China and Chinese Tartary). بادشاه - بزرگ - اول لقب بادشاهان چين اور تركستان كا - اب هر بادشاه كو كهتے هيں

خاكبازي *f.* play, amusement. كهيل كود

خاک بسيط *f.* earth. زمين

خاک توده *m.* a mark or butt of earth for shooting at. مٹي كا توده جسپر تير لگانے كي مشق كرتے هيں

خاكدان *m.* a place where rubbish is placed, also a sack, &c., in which it is carried, (*met.*) the world وه مقام جهاں پر كوڑا كركٹ ڈاليں مجازاً دنيا

خاكدان ديو *m* the world. كنايه دنيا سے

خاک در ترازد انگندن *id.* to disregard, to despise, to hold in contempt. كسي كو حقير اور بے اعتبار جاننا

خاكروبه *m* sweepings. كوڑا كركٹ

خاكروب *m.* a sweeper, a menial servant of the lowest caste. بهنگي - مهتر

خاكزاد *a.* terrestrial, earthen, man. - خاكي مراد انسان سے

خاكسار *a.* base, mean, low-born, a humble suppliant. غريب - مانند خاک كے

خاكستر *f.* ashes, calx of metals. راكه - خاک

خاک ظلمات رنگ this *phr.* stands for "the world." مراد دنيا سے

خاک فراموشان, the grave, tomb. مراد قبر سے

خاک مرده *m.* a barren land. اوسر زمين

خاكه *m.* a plan, sketch, draft, outline, delineation. تصوير كا مسوده

خاگ *m.* egg. مرغي كا انڈا

خاگينه } *m* fried eggs, a kind of dish
خايه ريز } made of eggs, an omelet, pancake, etc. انڈوں كا سالن - تلے هوئے انڈے

خال *a.* greatness, wisdom, pride, arrogance, a maternal uncle, mother's brother, a mole on the face (black and ornamental). بزرگي - عقلمندي - تكبر - غرور - ماموں - نقطه سياه جو جسم پر هوتا هے - تل (هندي)

خالد *a.* everlasting, name of a man who was very generous. هميشه رهنے والا - نام ايک مرد كا جو بڑا سخي تها

خالصه *m.* pure, sincere, *m.* the exchequer, or royal office for the collection and receipt of the revenues, and for the determination of causes relating thereto, land held immediately from government. - خاصه خالص - اصطلاح ميں وه زمين بادشاهي جو كسي كي جاگير نهو

خالق *m.* the Creator, the Diety. پيدا كرنے والا

خاليه *a.* old, ancient, past. گذشته - قديم

خام *a.* raw, unripe, immature, untanned leather. كچا - بے اصل - چمڑا بغير پكايا هوا

خام چرم *m.* the human body. جسم انسان

خام خوے *a.* ignorant, silly, fool. - نادان بے تدبير

خام دست *a.* inexperienced, extravagant. ناتجربه كار - بے مصرف مال - مال خرچ كرنے والا

خام ريش *a.* unwise, witty. بے عقل - مسخره

خامش } *f.* same as خاموش *m.* (silent), and
خامشي } خاموشي *f.* silence, taciturnity. چپ - چپكا

خاموشيدن *inf.* to be silent. چپكا هونا

خامه *m.* a pen, a writing-deed. قلم لكهنے كا

خامه زدن *v.* to cut a pen transversely. قلم پر قط لگانا

خامي *f.* rawness, unripeness, loss, ignorance. كچا پن - ناداني

خان *m.* lord, prince, a title principally used by *pathans*, in Persia, this title is applied to a prince or governor of a province, a caravansary سابق ميں پهلا لقب توركستان اور خطا كے بادشاهوں كا تها اب هر رئيس اور امير كو كهتے هيں

خانخان *m.* lord of lords, a prime-minister, an inn-keeper. امير الامرا - مالک سراے

خانقاه } خانقه } *m.* a monastery, a religious establishment for holy men. فقيروں اور درويشوں كے رهنے كا مكان

خانمان *m.* household furniture, domestic, everything belonging to the house. گهر كا اسباب وغيره

خانواده *m.* a family. خاندان

خانه *m.* a house, place, dwelling, a drawer, a partition, compartment, department, tent. گهر - مكان - خيمه

خانه برخروس بار كردن *id.* to ruin a house. كنايه هے مكان كے خراب كرنے سے

خانه بدوش (used substantively) a traveller, a pilgrim, a gypsy, rover, sojourner, a fakeer. وه آدمي جسكا گهر نهو - مسافر - رند بے خانمان - بے ٹهكانے

خانه تير *m.* the sign Gemini, also Orion. جوزا

خانه جنگي *f.* domestic strife, civil war, skirmish, duel, bickering. آپس كي لڑائي فساد

خانه خورشيد *m.* the sign or constellation Leo. برج اسد

خانه دار *m.* family man, a keeper, a guard مالک مكان - پاسبان

خانه راستان *m.* Kaaba, a square building and temple of Mecca.

خانه زاد *m.* the child of a slave. غلام زاده

خانه ماهي *m.* water. آب - پاني

خاني *m.* a small reservoir, a coin current in Turan. چهوٹا حوض - ايک سكه جو توران ميں رائج هے

خاور *m.* the west, but often used by poets for the east, also for the sun. مشرق - كبهي بمعني مغرب كے بهي آتا هے

خاوي *a.* empty, containing nothing, void خالي - جس ميں كچهه نهو

خائب *a.* hopeless, deprived of, devoid of, unlucky. نا أميد - محروم - بے نصيب

خائف *a.* timid, pusillanimous, afraid. ڈرپوک - ڈرنے والا

خائن *m.* a traitor, a deceiver, an embezzler. امانت ميں خيانت كرنے والا

خائيدن *inf.* to gnaw, to chew. چبانا

خايسک *m.* a blacksmith's hammer لوهاروں كا هتوڑا

خايه *m.* a testicle, an egg. بيضه - انڈا مرغي كا - آدمي اور جانوركا

خايه زرين *m.* the sun. آفتاب

خايه غلامان *m.* a kind of grapes. انگور كي ايک قسم هے

خايه نهادن *id.* to lay eggs, to fear, to say disgracing words. مرغي كا انڈا ديلا

خب deceiving, cheating. فريب دينا

خب *khabb*, *a.* artful cunning, shrewd, a bank of sand. مكار - حيله گر - بالو كا پشته

خبا *m.* hiding, concealing, rain, grass, concealment. چهپانا - پوشيدگي - منهه - گهاس

خباه *m.* a tent. خيمه

خباز a baker. نانبائي

خباط *f.* madness, insanity. ديوانگي

خبث *m.* malice, malignity, spitefulness, perfidy, impurity. - پليدي - پليد هونا - برائي بد باطني - ميل

خبث الحديد *m.* the scum of metals, dross. لوهے وغيره كا ميل جو گرم كرتے وقت نكلتا هے

خبر *f.* news, advice, rumours, reports, fame, account, message, traditional sayings of Mahomet. - سَنديسه - پيام - آگاهي كسي كي بات - محمد كي حديث

خبرت *f.* wisdom, learning, experience, experiment, trial, proof. - آزمائش - عقلمندي جاننا

خبردار *a.* careful, cautious, informed, *m.* an informer, a spy, a scout, *interj.* have a care ! beware ! واقف - جاننے والا

خبر كسي گرفتن *id.* to fornicate, to commit adultery. اغلام كرنا - زنا كرنا

خبر گير *m.* a spy, an informer, a protector, a patron. خبر لينے والا - چوكيدار

خبز *f.* a loaf, bread. نان - روٹي

خبز cooking bread. روٹي پكانا

خبط *m.* making a mistake, madness, insanity. غلطي - جنون - ديوانگي

خبي *a.* hidden, concealed, secret - پوشيده پنهاں

خبيث *a.* wicked, malignant, impure, *m.* an evil spirit. پليد - ناپاک بدباطن

خبیر a. knowing, wise, skilful, learned. واقف - جاننے والا - دانا

ختم m. conclusion, seal, end, (used adjectively), done, finished, reading the name of *Kuran* - مہر کرنا - قران کا نام پڑھنا - پورا کرنا کسي کام کا تمام کرنا

ختار m. a traitor, a deceiver. فریب دینے والا

ختام m wax or lac used for sealing. موم یا لاکھ مہر کرنے کا

ختان m. circumcision. ختنہ

ختن m. a son-in-law. داماد

ختن *khutan*, n. a district of Tartary famed for musk, also Tartary نام ایک شہر کا حدود چین میں جہاں سے مشک لاتے ھیں

ختنن / ختنہ } m. circumcision. - آگے کي کہال کاٹنا - ختنہ - عضو تناسل

خج (cont. of خجالت) bashfulness, shame. مخفف خجالت کا - شرم - حیا - شرمندگي

خجالت f. bashfulness, shame. شرمندگي - حیا

خجستہ a. happy, fortunate, auspicious, blest. مبارک - خوش

خجل a. modest, bashful, ashamed. حیا و شرم رکھنا

خجیر a. acceptable, pleasing, gratifying. خوب - پسندیدہ

خد m the cheek, the face. رخسارہ - چہرہ

خدا بردارد / خدا جواب دھد } *interj.* may God send death! بد دعا ھے یعني خدا موت دے

خداع m. deceiving, cheating. فریب دینا

خدام (*pl.* of خادم), domestics, servants, ministers. جمع خادم کي - نوکر لوگ

خداوند possessor, master, lord, husband. صاحب - مالک

خداوند گار m. God, the Creator of the universe. خدا - صاحب - مالک

خدائي f. the Godhead divinity, the world صاحبي - خدا ہونا

خدایا *interj.* O God! O Lord! - ایخدا یا خدا

خدائع *pl.* of خدیعت, treachery, fraud. جمع خدیعت بمعني مکر و فریب کي

خدایگان m. a great king, a lord paramount. بادشاہ - خداوند

خدر m. curtain, veil. پردہ

خدر *khidar*, a. lazy, senseless, motionless. سست - بیحس

خدشہ m. fear, alarm, danger, doubt, question, apprehension, solicitude. - خواہش خلش - مجازاً شک اور شبہہ

خدع m. deceiving, cheating. - فریب دینا دغا کرنا

خدعہ m. deception, fraud, artfulness, cunningness, treachery, mockery. مکر - فریب

خدم (*pl.* of خادم), servants, domestics, retinue, attendants. نوکر - چاکر - غلام

خدنگ m. an arrow, the white poplar tree, a wood of which arrows are made. نام ایک درخت کا جس کي لکڑي سے تیر بنتے ھیں مجازاً تیر

خدو m. spittle, saliva. تھوک - آب دھن

خدور a lazy, slothful, a sluggard. مرد کاھل اور سست

خدوک *khuduk*, m. anger, jealousy, envy, shame, grief, sorrow perplexity, agitation, anxiety, fear, apprehension, care. - غصہ رشک - شرمندگي - اندوہ - غم - پریشاني - وسواس - فکر

خدیجہ f. name of the first wife of Mahomet. محمد کي پہلي بیوي کا نام

خدیعت f. treachery, mockery, deception, artfulness. مکر - فریب

خدیو m. a king, a mighty monarch or ruler, a great prince, a ruler. - خداوند - بادشاہ حاکم

خذب m. cutting, striking with a sword, telling a lie. کاٹنا - تلوار مارنا - جھوٹ بولنا

خذب *khazab*, f. ignorance, silliness, folly, extension, length. ناداني - درازي

خذق m. the dung of birds. پرندونکا بیٹ

خذل m. forsaking, leaving, disgracing, despising, refusing help. - چھوڑ دینا - ذلیل کرنا - مدد نہ کرنا

خر m. an ass, a fool. گدھا

خرابات f. a tavern, a brothel, a house of gambling. شراب خانہ - قمارخانہ

خراباتي m. a haunter of taverns and brothels, a rake, a debauchee, a drunkard, a gambler. شرابي - جواري

خرابہ m. devastation, ruin, *adj.* depraved, had ruined, devastated, desolated. - ویرانہ اُجڑا ہوا مکان

خراج m. tax, duty, rent, revenue, tribute. زمین وغیرہ کا محصول

خراج *khuraj*, m. a sore, an ulcer, a tumour. ایک پھوڑا جو جسم پر نکلتا ھے

خراد f. a lathe لکڑي کا چرخ جس پر لکڑي کو مصقول کرتے ھیں

خراز m. a shoemaker, a cobbler. چمڑا سینے والا - موچي

خراس a millstone, a grinder, a flour-mill, an oil-press. - چکي (آٹا پیسنے کي) کولهو

خرّاس kharras, m. a potter. کمهار

خراش m. excoriation, scraping, scratching, (used in comp. as) دلخراش, wounding or irritating the heart. چهيلنا

خرّاط kharrat, m. a turner, a carpenter. وه شخص جو لکڑي کو چرخ پر چڑها کر صاف اور سڈول کرتا هے

خراطت f. to turn in a lathe. چرخ پر لکڑي چڑها کر صاف کرنا

خراطين m. an earth-worm. کیچوے جو گیلي زمین میں هوتے هیں

خرافت f. nonsensical talk, fable, smut, name of a famous liar of Arabia. - بیهوده کلام خرافه نام ایک عربي شخص کا جو مشهور جهوٹا گذرا هے

خرافات (pl. of خرافت), fables, tales, romances, ludicrous sayings, smut. جمع خرافت کي - بیهوده باتیں

خرام f. pace, gait, stately gait. ناز کي نرم رفتار - مٹک کي چال

خرامان f. walking in a stately manner, moving gracefully. - خوش رفتار - مٹک چال چلنیوالا نزاکت کي چال چلتا هوا

خرامیدن inf. to walk proudly or gracefully. خوش رفتاري سے چلنا - نزاکت سے چلنا

خرائد f. virgins, modest woman, a pearl (without a hole). کنواري عورتیں - شرمیلي عورتیں - موتي بغیر سوراخ کے

خرب a. wasted, ruined, devastated, desolated. ویران - اجاڑ

خربنده m. the owner of an ass, one attending on an ass. مالک یا خادم اگدهے کا

خرباچه m. the young one of an ass. گدهے کا بچه

خرپشته m. a mosquito. مچهر

خرپشته m. a high mound. اونچا ٹیلا

خرت m. the eye of a needle. سوئي کا ناکا

خرج m. expenditure. باهر نکلنا

خرج واه شدن id. to die in a journey. سفر میں مرجانا

خرچنگ m. a crab (fish so called), the sign Cancer, a kind of herb. کیکڑا - نام سرطان برج کا - کیکڑے کو عربي میں سرطان کهتے هیں

خرجین n. a wallet, a bag چار جامه کاٹهي کا تهیلا

خرد khirad, f. intellect, sense, wisdom. دانائي - عقل

خرد khurd, a. small, little, minute. چهوٹا

خردمند a. wise, intelligent. عقلمند - دانا آدمي

خر دل m. mustard-seed. رائي (هندي)

خر دل khar dil, m. coward, pusallanimous. نامرد - ڈرپوک

خرده m. a fragment, scrap, particle, spark (of fire), small coins, small change (of money), pedlars, small or trifling wares. هر چیز کا ریزه

خرده بیني f. fault-finding, criticizing. عیب نکالنا

خرده فروش m. a pedlar, a haberdasher. بساطي -

خرزن m. a whip, a lash, a scourge. - کوڑا تازیانه - چابک

خر زهره m. rhododaphne or rose bay (*Nerium oleander*). کنیر کا درخت

خرس m. a bear. ریچه

خرس khars, a pitcher, a vessel for holding water. مٹکا - ٹهلیا - مٹهور

خرس a. dumble, dumbness. گونگا - گونگي

خرسک n. a kind of child's game, leap-frog, blindman's buff. لڑکون کے ایک کهیل کا نام

خرسند a. contented, satisfied, pleased. خوشي - راضي

خرسنگ m. a rival, a large stone. بڑا پتهر

خرشید m. the sun. آفتاب

خرص khars, m. a gold or silver ring, an ear ring. سونے یا چاندي کي بالي یا انگوٹهي

خرص khirs, m. a strong camel, a spear. شتر قوي - برچهي

خرط cutting, turning on a lathe. لکڑي کاٹنا - هر چیز کٹي هوئي اور چهلي هوئي صاف کرنا

خرطوم m. the proboscis of an elephant, هاتهي کي سونڈ

خرف kharif, m. an old dotard. بوڑها بے عقل

خرق a tearing, to be torn to pieces, ٹکڑے ٹکڑے هونا - پهاڑنا

خرق ashamed, abashed, ignorance. شرمنده هونا - نادان هونا

خرق khurq, f. ignorance, foolishness, folly, بے عقلي - ناداني

خرق *khirq*, *n.* fool, silly, ignorant, unwise. نادان - بے عقل

خرق عادت *f.* contrary to nature, of unusual occurrence, a miracle. اولیاء کي کرامات اس لئے کہ خلاف عادت هوتي هے

خرقہ *m* a religious mendicant's habit, made up of patches. - پرانا جامہ - گدڑي فقیروں کا لباس

خرک *m.* a small ass, an unripe grape. چھوٹا گدھا - انگور خام

خرکس *kharkus*, a fool, silly, a simpleton. احمق - بیوقوف

خرگاہ *m.* a tent pavilion, tabernacle, the royal tent, court, or palace - بڑا خیمہ - خیمہ

خرگوش *m.* a hare, a rabbit, the sign Cancer. مشہور جانور - برج سوطان

خرم *khurram*, *a.* fresh, pleasant, delightful, cheerful, pleased. تازہ مجازاً خوش اور شاد

خرم آباد *m.* an abode of happiness. خوشي کي جگھہ

خرما *m.* a date (the fruit of the *Phœnix dactylifera*) چھوٹا مشہور میوہ ھے

خرمست *a.* athletic, stupid, persistent, stubborn. مگرا جو کسي کا کہنا نا مانے

خرمگس *m.* a fly. مکھي - مکھا

خرمن *m* harvest, a barn. کھلیان

خرمن ماہ *m.* a halo round the moon. چاند کے گرد کا ہالہ - کنڈل

خرمہرہ *m.* the small shells called cowrie (*cypræa moneta*), conch shells. کوڑي جو هندوستان میں رائج هے

خرنفس *magnum penem habens* خروج *m.* sally, egress, exodus, rebellion, revolting باهر نکلنا

خروس *khurus*, *m.* a dunghill cock. مرغ گھر کا پلاھوا

خروسان طاؤس دم *m.* vessels for holding wine. شراب کے برتن

خروس صبحگاہ *m.* the sun. آفتاب

خروش *m.* a crash, a loud noise, a tumult, a shout, clamour. غل - شور

خروف *m.* a lamb, a kid. بکري کا بچہ

خرہ *khara*, *f.* mud, oil-cake, a heap of dust. کیچڑ - کھلي - (جو تل اور سرسوں سے نکلتي هے) تودہ خاک کا

خرہ *khura*, *m.* white ant. دیمک

خرہ *f.* the dung of birds. پرندونکي بیٹ

خریدہ *f.* a modest woman, an immatured girl, a virgin, a pearl without a hole. شرمیلي عورت - کنواري لڑکي - موتي بے سوراخ

خریطہ *m.* a purse, packet bag, mail, (letters are sent in India enclosed in small oblong bags, diversified according to the quality of the person to whom sent, being more or less rich or embroidered agreeably to their rank), *met.* a letter. - تھیلي لفافہ امیرونکے خط کا

خریع *m.* the young one of a hare, a rabbit. خرگوش کا بچہ

خریف *f.* autumn, the autumnal harvest, the first crop in the year, consisting chiefly of rice, which is sown in *baisakh* and gathered in *bhadon*. خزاں کا موسم

خز *khazz*, *f.* kind of coarse silk cloth. ایک قسم کا ریشمي کپڑا

خزاں *f.* autumn, the falling of the leaves. پت جھڑ کا موسم

خزائن (*pl.* of خزانہ), treasuries. جمع خزانہ کي

خزرج an Arabian tribe. عرب کے ایک قبیلہ کا نام

خزف *f.* earthenware, crockery, pieces of wares, etc. ٹھیکري - سفال - ریزہ

خزي *khazzi*, *a.* disgraced, infamous, ignominous, dishonoured. رسوا آدمي

خزي *khizzi*, *f* infamy, disgrace, ignominy. رسوائي

خزیدن *inf.* entering, hiding, concealing. گھسنا - چھپنا

خزینہ *m.* a treasury. خزانہ

خس *f.* the name of a grass, out of the roots of which *tattis* are made (*Andropogon muricatum*), a thistle, a weed in general, a lettuce. ڈوڑا - تنکے - گھاس - ایک قسم کي گھاس خوشبو دار

خس *khass*, lettuce, *a.* low, mean, a miser. تخم کاھو - کمینہ - کنجوس

خسارت / خسارہ } *f.* loss, damage, perfidy, fraud, plunder, devastation. - هلاکت گمراهي - ٹوٹا - نقصان - زیان

خساست / خست } *f.* silliness, stinginess, etc. - ناالئقي بخیلي - کنجوسي

خسیدن *inf.* to wet, to steep (in water), to press the beard between the teeth. - بھگونا تر کرنا - دانتوں میں ڈاڑھي کا دبانا

خس بدندان گرفتن *id.* to be humble, to seek refuge, to implore shelter, to be submissive. عاجزي کرنا - امن چاھنا - پناہ مانگنا

خسپیدن *inf.* to sleep, to slumber. سونا

خستہ *a.* wounded, sick, bad, poor, *m* the stone of a date, etc, a lover. - زخمي - بيمار ـ مفلس - خراب - خرمہ وغيرہ کي گٹھلي - عاشق

خستہ جان *a.* poor, needy. محتاج

خستگي *f.* a wound, a sore, sickness, fatigue, exhaustion, grief, sadness. - زخمي پن رنج

خستوانہ *n.* the habit of a mendicant. فقيرون کي گدڑي

خسر *khusar, m.* a father-in-law. سسرا

خسر / خسران } *khasar* or *khars, m.* damage, loss injury, fraud, depreciation in value. زيان - نقصان

خسرو *m.* name of a celebrated king, Cyrus or Chosroes, a king in general, name of a celebrated poet of Delhi. مجازاً هر بادشاہ کو کہتے هيں - نام ايک بادشاہ کا ـ دهلي کے ايک شاعر کا نام

خسروانہ *a.* kingly, princely. - بادشاهانہ شاهانہ

خسک *m.* rubbish, a species of triangular thorns, caltrops. گوکھرو جو مشهور دوا هے

خسوف *m.* an eclipse of the moon. چاند کو گہن لگنا

خسيس *a.* penurious, sordid, miser, ignoble. بخيل - زبون - نالائق

خش / خشو } *f.* mother-in-law. ساس - خوشدامن

خشب *f.* wood, stick, fuel. لکڑي - چوب - هيزم

خشت *f.* a brick or tile, a small spear. - انيٹ جھوٹا نيزہ

خشتک *f.* a small brick, an armhole piece چوکونہ کپڑا جو بغل اور مياني ميں لگايا جاتا هے

خشخاش / خشخش } *m.* the poppy-seed or plant. پوست مشهور دانہ هے

خشف *f.* a fawn. هرن کا بچہ

خشک *a.* dry, withered, pure, useless, a miser, a niggard. - سوکھا هوا - خالص - بيفائدہ بخيل - کنجوس

خشک آورد used in past tense, became quiet, got silent. چپ هورها

خشک پهلو *m.* a miser, a niggard. - بخيل کنجوس

خشک دماغي *f.* madness, insanity. - ديوانگي جنون

خشک ريش *m.* a scab. کهرنڈ

خشک مغزي *f.* madness, insanity. - ديوانگي جنون

خشکہ *m.* boiled rice. چاول أبالے هوے

خشم *m* anger, passion, rage, fury. - غصہ غضب - خفگي

خشمگين / خشمناک } *a* passionate, angry. غصہ‌ور

خشن *a.* rough, severe, rude. - سخت - کهر کهري چيز

خشوع *f.* humility, submissiveness, fear. عاجز - فروتني - خوف

خشونت *f.* asperity, rigidness, disdain, fierceness, indignation. - سختي - کهر کهراپن درستي

خشي *f* fear, fright. خوف - ڈر

خشيت *f.* to fear, to be frightened, to frighten, to terrify. ڈرنا - ڈرانا

خشيہ *m.* fear, fright ڈر

خصاصہ *m.* poverty, indigence, bad state. فقيري - بدحالي

خصاف *m.* a shoemaker, a cobbler. - موچي چمار

خصال / خصائل } (*pl.* of خصلت), habits, good qualities, talents, virtues. جمع خصلت کي - عادتيں - اوصاف

خصام (*pl.* of خصم), enemies, antagonists, warriors, fighters, fighting, battling. جمع خصم کي - لڑنا - جنگ کرنا - لڑنے والے - جنگ کرنے والے

خصائص (*pl.* of خصيصہ), *f* habits, talents, good qualities. - جمع خصيصہ کي - عادتين خصلتيں - خاصيتيں

خصب *f.* luxury, pleasure, enjoyment, affluence. عيش و عشرت - آسودگي

خصر *m.* waist. کمر

خصر *m.* winter season. سرما - جاڑا

خصر *khisar*, coldness, coolness. - ٹھنڈک سردي

خصلت *f.* habit, custom, quality, property, mode, talent, virtue, disposition, nature. خو - عادت

خصم *m.* an enemy, an antogonist, master, husband. دشمن - مالک - صاحب - خاوند

خصمانہ *a.* like a husband, taking care of, husbanding, housewifery, instruction, attention, like an enemy. - غور - پرداخت تربيت

خصمي *f.* enmity, hatred. دشمني

خصوص *m.* an affair, business, thing, particular, doing anything particular, *adv.* particularly. خاص هونا - خصوصيت

خصوصیت *f.* peculiarity, singularity, attachment, friendship. خاص هونا - خاص کرنا

خصوصیات *pl.* of خصوصیت (*see above*) جمع خصوصیت کي

خصوم *khusum, a.* quarrelling, enmity. جهگڑا کرنا - دشمني کرنا

خصوم *khasum, m.* an enemy, *a.* quarrelsome. دشمن - جهگڑالو

خصومت *f.* enmity, strife, litigation, contention, quarrelling, malice. - دشمني جهگڑا - کینه

خصومات *f. pl.* of خصومت (*see above*). جمع خصومت کي

خصي *m.* a castrated animal (particularly a goat), an ennuch. جس جانور کے خصیه نکالدیں

خصیه *m.* an egg, testicle. بیضه - انڈا

خصیم *m.* an enemy, *a.* quarrelsome, contentious. دشمن - جهگڑالو

خصین *f.* an axe for sawing wood. لکڑي چیرنے کي کلهاڑي

خضاب *m.* tincture, tinging the nails and hair, but particularly the beard. منهدي وغیره سے ڈاڑهي کو رنگنا

خضار *m.* a river. دریا

خضب *a.* painting, tinging, colouring. رنگنا - رنگ کرنا

خضر *n.* name of a prophet. نام ایک مشهور پیغمبر کا

خضر *f.* a green stem or branch. - شاخ سبزه هري ٹهني

خضراء *f.* green grass, greenness, everything (in the *fem. gender*) green sky, a grandee, leader of a tribe, name of a building in Hamadan. هري گهاس - سبزه - هر چیز سبزه (جو مونث هو) همادان کي ایک عمارت کا نام - آسمان - بزرگ - قوم

خضرات *f.* greenness of herbs or vegetables, gray coloured. - سبزي یا هریائي نباتات کي گیهواں رنگ

خضوع *khuzu*, humility, humiliation, imploration, begging. عاجزي کرنا - گڑگڑانا

خضیب *a.* coloured, painted. رنگیں - رنگا هوا

خضیب *m.* name of a negro slave. نام ایک حبشي غلام کا

خط *m.* a letter, epistle, a line, stripe, lineament, writing, handwriting, chirography, moustaches, beard, name of a place in Arabia where spears are manufactured. لکیر جسمیں نقطه اول هو عرض اور عمیق نهو - نام ایک موضع کا

خط از خون نوشتن *id.* to implore very earnestly, to be very submissive, to eat humble-pie. کنایه هے نهایت عاجزي کرنے سے

خطاء *f.* a mistake, error, fault, crime. - گناه خطا - غلطي

خطا *m.* the country of Scythia beyond the Imaus, Northern China, thence called Cathay by Marco Polo and other early travellers. نام شهر کا جو درمیان ترکستان اور چین اور توران کے واقع هے

خطا آمروز گار *m.* a forgiver of faults, sins, errors, etc. گناه بخشنے والا

خطاب *m.* a title, conversation, speech, address, anger. - لقب - کسي سے روبرو بات کرنا غصه

خطابه *m.* reading a sermon or oration. خطبه پڑهنا

خط استوا *m.* the equator. وه خط جو بیچ و بیچ زمین کے کیا گیا هے

خطات *kattaf, f.* a swallow ابابیل جو مشهور پرند هے

خطام *m.* the bridle of a camel. اونٹ کي نکیل

خطایا (*pl* of خطیه) *m.* sins, faults. جمع خطیه کي - گناه - خطائیں

خط بر اب کشیدن *id.* to do a thing uselessly, to resolve, to make a thing hard for one. بیفائده کام کرنا - اور دشوار کرنے کا اراده کرنا

خطا برخاک کشیدن *id.* to be ashamed, to be abashed. کنایه هے خجالت اور شرمندگي سے

خط بخون دادن *id.* to consent to the sentence of death. اپنے قتل پر راضي هوکر اجازت دینا

خطاب *khutb*, (*pl.* of خطبه) contents, indexes. دیباچے کتاب کے

خطب *m.* marrying, betrothing, contracting a marriage, a hard thing. an adventure, an accident, a hard work. شادي کرنا - نکاح کرنا - دشوار کام - حادثه

خطبا (*pl.* of خطیب) preachers. جمع خطیب کے خطبه پڑهنے والے

خطبه *m.* a sermon or oration delivered after divine service on Friday in which the preacher blesses *Muhammad*, his successors, and the reigning sovereign, content (of a book) indexes. وه کلام جس میں حمد خدا اور نعت محمد اور پند و نصیحت طرف خلائق کے هو

خط بهار *m.* an ornamented letter. خط گلزار

خطف *f.* a flash of lightning dazzling the eyes. بجلي کي چمک جس سے آنکهوں میں آئے چکا چوند

خط کشیدن *id.* to give up, to abandon, to efface, to forget, to overlook, writing. محو کرنا - ترک کردینا

خط مستقیم *f.* a straight line, a right line. سیدھي لکیر

خطوہ *m.* one step, a stride, a pace. قدم - ڈگ

خطوات (*pl.* of خطوہ), steps, strides, paces. جمع خطوہ کي - قدم - ڈگ

خطي *khatti*, lineal, literal, a spear made at the place called *khatt* in Arabia. منسوب طرف خط کے جو عرب میں ایک موضع کا نام هے - اس جگهہ کا نیزہ مشهور هوتا هے

خطیب *m.* a preacher. خطبہ پڑھنے والا

خطیر *a.* great, honourable, dignified. - بڑا بزرگ - عظیم

خطیہ *m.* fault, sin. گناہ - خطا

خف *khuff*, *m.* a boot, a stocking, sole of a man's foot, hard ground. موزہ - تلوار - سخت زمین

خف *khiff*, *a.* light. هلکا

خفا *f.* a secret, a concealment. - پوشیدگي پنهاني

خفاجہ *m.* a band of plundering Arabs. ایک عربي قبیلہ جو راهزني کرتا هے

خفاش *m.* a bat, a flying fox. چمگادر جو پرند مشهور هے

خفاف *a.* light. سبک - هلکا

خفت *khiffat*, *f.* lightness of weight, levity of conduct, want of dignity, affront, disgrace. سبکي - هلکا پن

خفتان *n.* a vest worn under a coat of mail. چلتہ جو بروز جنگ پهنتے هیں

خفتک *m.* a nightmare. کابوس کا مرض جو سوتے میں لوگ ڈرتے هیں

خفت و خیز *f.* delay, tardiness, copulation. آهستگي - دیر - جماع

خفتن *inf.* to sleep, to slumber. سونا

خفتہ *a.* crooked, bent. خمیدہ - ٹیڑھا

خفرق *a.* bad, dishonoured, disgraced. بد - برا - زشت - بیعزت

خفض *f.* luxury, pleasure, affluence, walking slowly, talking quietly, to circumcize a daughter, to estimate, making easy, dwelling, settling (in a place). - عیش - عشرت - آهستہ چلنا - آهستہ بولنا - دختر کا ختنہ کرنا - اندازہ کرنا - آسان کرنا - بود و باش اختیار کرنا

خفقان *m.* palpitation, hysterics, "it is described by native physicians as convulsions attended with fainting fits, weeping, deafness, palpitation of the heart, and slight delirium." Binning. ایک مشهور مرض کا نام یعني دل کا دھڑکنا اور بیقرار هونا

خفي *n.* a fine hand writing (opposed to جلي). *adj.* secret, concealed. ایک قسم کا هوا خوشخط - پوشیدہ - چهپا

خفیر *a.* shameful, one who attends to a complaint, a defender, a protector, guide, leader, a messenger. - شرمناک - فریادرس نگهبان - راهبر - قاصد

خفیف *a.* light of no weight or consequence. of light character, immoral, undignified سبک - هلکا

خفیہ *a.* disguised, concealed. - پنهاني - پوشیدگي

خفیفہ *a.* trivial, petty. چهوٹا - موٹا

خل *m.* vinegar, becoming thin, becoming a fakeer (poor). سرکہ - فقیر هونا - دبلا هونا

خل *khill*, *m.* a friend. یار - دوست

خلا *m.* vacancy, vacuity. - پاخانہ خالي هونا خالي جگهہ

خلاب *m.* mire, clay, filth. کیچڑ - راہ کي کیچڑ

خلاش *m.* tumult, noise, hurlyburly. شور - غوغا

خلاش *khilash*, *m.* mire, mud. کیچڑ

خلاص *m.* freedom, release, *a.* free, liberated, redeemed, done out چهٹکارا - مخلصي - رهائي

خلاصہ *m.* essence, the best part of any thing, abstract, abridgment, conclusion, inference, moral, spacious, roomy. - اصل - پاک - صاف

خلاع (*pl.* of خلعت), robes of honour. جمع خلعت کي

خلاف *m.* a willow, opposition, contradiction, falsehood. - بید کا درخت مخالفت - برعکس ناموافقت

خلافت *f.* the office of caliph, deputy-ship, lieutenancy, etc., imperial dignity, monarchy more especially the succession of Princes who ruled at Damascus and Baghdad from the time of Muhammad to that of Hulagu Khan. جانشیني - کسي کي وفات کے بعد اسکي جگهہ پر بیٹهنا

خلاق *khilaq*, *f.* a kind of scent. ایک قسم کي خوشبو

خلاق *khallaq*, (*super.* of خلق) used substantively) the Creator, the Almighty. بهت پیدا کرنے والا یعني خدا

خلاقت *f.* state of being old, oldness. پرانا هونا - کهنگي

خلال *m.* a toothpick, middle, ruin, damage, defect, distance, forming friendship, habits, *a.* thin, lean - دانت کریدنے کا تنکا - نقصان - فاصلہ - درمیان - دوستي پیدا کرنا - عادتیں - دبلا لاغر

خلال *khallal*, m. a vinegar seller. سرکہ بیچنے والا

خلال مائدہ f. vermicelli, macaroni. سوئیاں جس کو دودہ اور شکر میں پکاتے ھیں

خلان (*pl.* of خلیل), intimate friends. جمع خلیل بمعنی دوست کی

خلانیدن inf. to prick, to pierce. چبھو دینا

خلائف (*pl.* of خلیفہ), caliphs. جمع خلیفہ کی

خلائق (*pl.* of خلق) men, people, the creation, created things. خلقت - انسان

خلت *khallat*, f. friendship, love, affection. دوستی - محبت

خلت *khulat*, f. good quality, habit, talent. نیک خصلت

خلخال m. a ring of gold or silver worn round the ankle with bells attached to it, name of a city in Azur Baejan. پازیب - گوجری ایک شھر کا نام آذربائیجان میں

خلخال زر m. the sun. کنایہ آفتاب سے

خلد m. eternity, paradise. بقا - دائمی - ھمیشگی نام بھشت کا

خلش *khalish*, m. and f. putting a stop to, interruption, solicitude, suspicion. خلنا - ملجھانا

خلط mixture, confusion. ملنا - ملجھانا

خلطہ m. conversation, company, mixture. امیزش - شرکت - صحبت

خلع stripping, removing (from office), *khula'*, in its primitive sense, means to draw off or dig up. In law it signifies agreement entered into for the purpose of dissolving connubial connection, in lieu of a compensation paid by the wife to her husband out of her property. نکالنا - ھٹانا

خلطہ m conversation, company. گفتگو

خلطہ *khulta*, partnership, association. آمیزش - شرکت - صحبت

خلعت m. and f. dress, a robe of honour, with which princes confer dignity or subjects. It is given to a person invested with a new office, or as a token of confirmation, in that he holds. لباس یا پوشاک جو امیر یا شاہ کے طرف سے کسی کوعطا ھو

خلف *khalaf*, a successor, an heir, a favourite son, posterity, descendants, (*adjectively*) depraved, corrupted. پیچھے سے آنے والا - جانشین فرزند - نیک اور پرھیزگار

خلف *khulf*, a breach of promise. وعدہ خلاف

خلفاء (*pl.* of خلیفہ), successors, princes, caliphs جمع خلیفہ کی

خلق *khulq*, خلق *khuluq*, } m. nature, quality, good disposition, custom, manner. خو - عادت - صورت - دین

خلق *khalq*, f. creation, people, mankind, forming an estimation, telling a lie. پیدا کرنا - پیدا کیا ھوا - پیدائش - اندازہ کرنا - جھوٹھہ بولنا

خلق *khalaq*, خلق *khaliq*, } m. worn out garments. جامہ کہنہ - پرانا کپڑا - کپڑے کا پرانا ھونا

خلقان (*pl.* of خلق), worn-out garments. جمع خلق کی - پرانے کپڑے

خلقت f. the creation, the universe, the human race. پیدائش - پیدا کرنا

خلل m. interruption, disturbance, confusion, prejudice, damage, injury, ruin. - نشادگی رخنہ - تباھی کام کی - فتور برپا ھونا

خلم m. snot, snivel. رینٹ - ناک کی غلاظت

خلم *khilm*, m. a friend. دوست یار

خلنجان f. the root galangale. ایک قسم کی جڑ جو دوا کے کام آتی ھے

خلو *khullu*, m. vacuity, empty space. خالی ھونا

خلوت f. retirement, solitude, privacy, a closet, private apartment, private conference. - تنھائی اور خالی ھونا مکان کا غیر سے مجازاً جاے خالی

خلوت صحیح f. complete and lawful retirement, as that of married folks, where there is no legal or natural impediment to the carnal act in marriage. - تنھا ھونا خاوند اور جورو کا واسطے ھمبستر ھونے کے ایسی جگھہ جھاں اور کوئی نہو

خلود f. eternity, perpetuity. - ھمیشگی ھمیشہ پن

خلوص m purity, sincerity, candour, integrity, friendship, affection. سادہ اور پاک ھونا - مجازاً خالص دوستی

خلہ m a goad, pricker, a rudder, helm, trifles, idle talks. سینگ سر تیز - چبھنے والی چیز مثل برچھی - انکس کی نوک کے

خلیج f. a gulf. ایک شاخ دریا کی جو تین طرف خشکی سے گھری ھو اور ایک طرف سمندر سے ملی ھو

خلیط m. a partner, participator, mixture. ساجھی - ملی ھوئی چیز

خلیدن inf. to prick, to wound. چبھنا - زخم کرنا

خلیع العذار m. a horse without a rein, a camel without a bridle. اسپ بے لگام - شتر بے مھار

خليفه m. a sovereign, (vu'g) the caliph, a successor, particularly applied to the successors of Muhammad. - جانشين - وليعهد - كسي كي وفات كے بعد اُسكي جگهه پر بيٹهنے والا

خليق a. kind, of good disposition. - مروت والا - صاحب خلق

خليل m. a sincere and intimate friend خليل الله a title of Abraham. سچا دوست

خم a. twisted, crooked, coiled. m. a coil, fold, ply, curl, ringlet, that part of a noose which encircles the neck. كج - ٹيڑها

خم m. a jar, an alembic, a still. مٹكا اور بيپا شراب وغيره كا

خمار m. sickness, headache, &c., the effects of drink, intoxicating, languishing appearing of the eyes, the effect of love or of drowsiness or drinking, etc. دردِ سر - بقيه مستي - اعضا شكني اور درد سر وغيره جو بعد اُترنے نشه شراب كے هوتا هے

خمار khammar, m. a great drunkard. شرابي

خماسي a. consisting of or relating to the number five, a word of five letters, a sort of magic pentagon. وه كلمه جس ميں پانچ حرف هوں

خم اندر خم داشتن id. to remain equal (in strength or power) to an enemy. حريف كے برابر رهنا

خمان ›. two things bent. دو چيز خم شده

خمانيدن inf. to imitate one's gesture, to mock, to make faces. كسي كي حركات وغيره كي باطور تمسخر كے نقل كرنا

خمخانه m. a wine-vault, a tavern. شراب خانه - شراب خانه كے مٹكے

خمخانه شيريں فسانه means the world. كنايه دنيا سے

خم درخم twist within twist, curling locks پيچ در پيچ

خمر m. wine in particular, and all strong liquors in general. شراب

خمره m. a small mat of palm leaves for kneeling at prayers, a small drum carried by beggars, a small earthen pot in which leaven is prepared and kept. - چهوٹي چٹائي و ديا

خمم زدن id. to run, to escape. نكل جانا - بهاگنے سے

خمس a. five (used only in Arabic phrases), five woman. پانچ پانچ عورتيں

خمس ordinal of five, the onefifth. پانچواں

خمس (in law) a double tithe or 20 per cent, levied on the owners of land in which there are valuable mines of metals. پانچواں حصه مال كا ليناا

خمسون a. and n. fifty (50). پچاس (٥٠)

خمسه a. and n. five man, five fingers. پانچ مرد پانچ انگلياں

خمع m a wolf. گرگ - بهيڑيا

خم كسے خوردن id. to be deceived by some one, to be cheated. كسي كا فريب كهانا

خمل m. a true intimate friend. دوست خالص

خم نيلفام m the sky. آسمان

خم و چم m. coquetry, the blandishments of a mistress, elegant. معشوق كي چلتے وقت ناز و ادا - اترانا

خموشيدن inf. to be silent, to be quiet. چپ رهنا - چپ هوجانا

خميازه m. gaping, yawning, stretching. جماهي - انگڑائي

خميازه بر چيزے كشيدن id. strong inclination, wish, desire, to wait anxiously for a certain thing. كسي چيز كي آرزو اور اشتياق ميں رهنا

خميدن inf. to bend, to be crooked. ٹيڑها هونا - خم كهانا

خميده a. awry, crooked, bent. كبڑا - ٹيڑها هونا

خميس n thursday, a piece of cloth five yards long, an army having five powers. جمعرات كا روز - پنجشنبه - وه كپڑا جو پانچ گز لمبا هو - لشكر جو پانچ فوج ركهتا هو

خمير } m. leaven, what is used to
خمير مايه } ferment. آٹا سڑا هوا جو آٹے كو پهلاوے - وه چيز جو كسي چيز كي زيادتي كا منشا هو

خنادق (pl. of خندق), trenches, ditches, moats. كهائياں

خنازير (pl. of خنزير), boars, pigs, the bronchocele or goitre, scrofula. - جمع خنزير بمعني سور كي - ايك قسم كا روگ كنٹهه مالا (هندي)

خناس m. the devil, (met.) a wicked person. ديو - بد - شيطان جو دلونميں وسوسه ڈالتا هے

خنافس m. the name of a beetle found in cowdung, s(carabœus) گوبروندا (هندي) جعل (عربي)

خناق m. the quinsy, suffocation, strangulation. بيماري حلق كي مشهور هے - اس ميں اندر سے حلق گهٹ جاتا هے

خنبيدن inf. to clap, to chimel - تالي بجانا تار دينا

خنث } m. a hermaphrodite, asphodel,
خنثي } laziness, a. defective. سست - كج سستي هونا

خنجر m. a dagger, a poniard, (Scottish) "whinger." بڑا چھرا - مشہور ھتیار

خندان a. smiling, laughing. ھنستا ھوا

خندانیدن inf. to cause to laugh. ھنسانا

خندریس f old wine, old wheat. - پرانی شراب پرانے گیہوں

خندق m a ditch, a fosse, a moat. کھائی جو شہر کے چاروں طرف ھو

خندہ m laughter, a laughing stock. ھنسی

خندۂ زیر لب a. smiling, laughing. - تبسم مسکرانا

خندیدن inf. to laugh, to smile. ھنسنا

خنزیر m. a wild boar, a hog, a swine. - خوک سور

خنصر khinsir } f. the little finger. چھوٹی
خنصر khinsar } انگلی - چھنگلیا

خنفسا m. the name of a beetle found in cow dung (*scarabœus*). گوبر کا کیڑا - عربی میں جعل اور ھندی میں گبرونا کہتے ھیں

خناق f. strangulation, suffocation. گلے کا گھونٹنا - وہ شخص جسکا گلا گھونٹا ھو

خنک khunuk, a. cold, temperate, cool, fortunate, happy. سرد - ٹھنڈا - خوش

خنگ m. cream coloured horse, a steed, everything white. ھر چیز سفید خصوصاً گھوڑا سفید رنگ کا

خنگ بت m. a white statue, (*met.*) a crystal cup, name of a lover. سفید پتھر کا بت - پیالہ بلور کا - نام ایک عاشق کا

خنو m a cup, a pitcher, a jar. کاسہ - پانی کا مٹکا

خنیا m melody, singing. راگ - ساز

خنیا گر m. musician, ministrel, singer. - گویا ڈوم - قوال

خنیدہ a. chosen, acceptable, approved. پسندیدہ

خو f habit, custom, disposition, nature. عادت - خصلت

خو khu, m. self-growing grass, cutting, avoiding, palm (of a hand), the name of a climbing plant *Ipomœa quamoclit*), a scaffold (of masons). - خود رو گھاس - کاٹنا دور کرنا - ھاتھ کی ھتیلی - عشق پیچان (بیلدار درخت کا نام) - معماروں کی پاڑ

خواب خرگوش m. negligence, inadvertency, being absorbed, as in sleep, deceit, fraud تغافل - فریب

خواب صیاد m deceit, fraud, artfulness. cunningness. دھوکا - فریب - مکر

خوابنا کان f. the eyes آنکھیں

خوابیدن inf. to sleep, to slumber. سونا

خوابانیدن inf. to cause to sleep. سلانا

خواتین (Arab. pl. of خاتون) ladies جمع خاتون کی

خواجہ m a master, a man of distinction, a rich merchant, a merchant, a gentleman, a governor, heart, soul. an eunuch, a prime minister. - صاحب خانہ - گھر کا مالک - سردار چودھری - مالدار - حاکم - صاحب جمعیت - دل - روح - وزیر بادشاہ

خواجۂ بعث و نشر m. master of the judgment day, i. e, Muhammad. مالک روز قیامت کے مراد محمد سے

خواجۂ سرا m an eunuch. وہ غلام جسکی علامت مردی کاٹ ڈالی گئی ھو اور کام زنانہ گھر کا کرتا ھو

خواجۂ فلک m. the sun, the planet Jupiter. آفتاب - ستارۂ مشتری

خواجۂ تاش m. a fellow servant, companion. غلام ایک سے تھہ کام کرنے والے

خوار a. (in comp.) devouring as خونخوار, blood-thirsty, a tyrant, poor, distressed, deserted, abandoned, friendless, wretched, contemptible, ruined, name of a town in Iraq the soil of which is stony. کھانیوالا مثلاً شراب خوار وغیرہ - ذلیل اور خراب اور بے اعتبار آدمی

خوارزم n. country to the east of the Caspian Sea near the mouth of the Oxus, Chorasmia. نام ایک مشہور شہر کا

خوارج (pl. of خارجی), heretics, schismatics. جمع ھے خارج اور خارجی کی

خوارق (pl. of خارق), contrary to nature, unusual things, miracles. - جمع خارق کی وہ امور جو خلاف عادت واقع ھوں معجزات کرامات اولیاء اللہ کے

خواری f. baseness, distress, disgrace. - ذلت رسوائی - بے اعتباری

خواستگاری f request, petition. چاھنا - کسی چیز کی خواھش کرنا - مانگنا

خواستار m. a petitioner, a wisher, a candidate. - مانگنے والا - کسی چیز کی خواھش کرنے والا طلب گار

خواستن inf. to wish, to desire. - چاھنا خواھش کرنا

خواستہ a. wished, desired, m. money, gold, goods. - خواھش کیا ھوا - مانگا ھوا - مال - زر اسباب

خواص (pl. of خاص), domestics, grandees, ministers of state, properties, qualities, a page, a favourite. - جمع خاص کی - خدمتگاران ممتاز

خواطر (*pl.* of خاطر), hearts, natures, inclinations. طبيعتن - دل

خواقين (*pl.* of خاقان), great sovereigns, kings. شاهان بزرگ

خوان *m.* a tray. كهانے كا دسترخوان

خوانچه *m.* a small tray. چهوٹا خوان

خواندن *inf.* to read, to recite, to declare, to call. پڑهنا - بلانا

خوانده read, (adjectively) having the knowledge of reading and writing, sent for پڑها هوا - بلايا هوا

خوان سالار *m* a house-steward, a cook, a dresser. باورچي - بكاول - خانساماں

خوان كرم *m.* a free gift (of God) meant for every body. خوان بخشش كا عام كے ليئے

خوانين (*pl.* of خان), lords, nobles. - جمع خان كي امير - سردار لوگ

خواه *conj.* either, or, whether, (in *comp.*) wishing, desiring. چاه - مانگ

خوبان *f.* the fair ones, the fair sex. جمع خوب بمعني معشوق كي

خوبروئي *f.* beauty, comeliness of face or form معشوقي - خوبصورتي

خوج *m.* a peach. مشهور پهل شفتالو

خود *m.* a helmet, a steel headpiece. لوهي كي ٹوپي

خود سوار *a.* headstrong, obstinate, opinionative. خود سر - خد رائے

خود شكن *m.* one who is humble, submissive عاجزي كرنے والا

خود كاشت *a.* cultivating one's own field. وه شخص كه خود هي مالک زمين كا هو اور آپ هي اُس كو بووے

خود كام *a.* selfish, devoted unduly to self خود غرض

خور *f.* idleness, slothfulness. سستي

خور *adj.* worthy, fit, proper, *m.* food, the sun, the eleventh of each solar month, (in *comp*) devouring as مردم خور man devouring. - لائق - واؤمعدوله سے خوراک - طعام - سورج - هر ماه شمسي كي گيارهويں تاريخ - امر هے خوردن سے بمعني كها

خورانيدن *inf.* to feed, to cause to eat. - كهلانا كهلوانا

خورائے *a.* worthy, suitable. لائق شخص

خورو خوان *m.* a tray of food. خوان طعام

خوردن *inf.* to eat, drink, (*met*) to suffer, act of eating or drinking, to pay a visit. كهانا - پينا - كسي سے ملاقات كرنا

خورش *f.* provision, eatables. كهانے - خوردني كي چيز

خورش *f.* eating and drinking. طعام - خوراک

خورشيد را بگل نهفتن *id.* to deny an obvious fact. كسي امر بديهي اور ظاهري كا انكار كرنا

خورشيد سوے كوه means "the sun about to set." كنايه هے آفتاب كے نزديک به غروب هونے سے

خورشيد سوار *m.* a man who rises very early in the morning, one who is very intelligent and quick of apprehension. ٢ شخص جو صبح كو بهت سويرے اُٹهتا هو اور جو بهت هوشيار اور بيدار دل هو

خورشيد لب بام *m.* (means) end of life, nearing death قريب المرگ - عمر كا تمام هونا

خورنق } خورنه } *n.* the palace of king Bahram Gor in Babylonia celebrated for its magnificence. بهرام گور شاه كے مشهور محل كا نام

خوره *khura, m.* the leprosy, that which eats or devours, that which suffers or endures. كهانے والا - كوڑه كي بيماري - جذام

خوشا *inter.* hail! joy! happy! how fortunate! بهت خوش - بهت خوب

خوشانيدن *inf.* to dry, to emaciate - سكهانا خشک كرنا

خوشدامن *f.* mother-in-law. ساس

خوشگوار *a.* sweet to the taste, pleasant, delicious. شيرين - لزيز خوشنما چيز

خوشنود *a.* pleased, contented, delighted. راضي - خوش - رضامند

خوشه *m.* an ear of corn, a bunch (of grapes &c.), an ear-ring, a spike, گچها انگور كا - بالي آناج كي

خوشه ندادن *id.* not to pay the tax, كنايه خراج نه دينے سے

خوشي *f.* delight, pleasure, cheerfulness, gaiety. شادي - سرور

خوشيدن *inf.* to grow dry, to fade, wither. سوكهنا - خشک هونا

خوض *a.* diving, dipping, immersing in water, confederating, proposing, resolving, intending, considering, consulting. پاني ميں غوطه لگانا - كسي چيز ميں فكر كرنا - سوچنا

خوک *m.* a hog, a wild boar. سور مشهور حيوان هے

خو گر } خو گير } *a.* accustomed, habituated. - عادي وه شخص جس كو كسي بات كي عادت هو گئي هو

خول *m.* wealth, riches, dignity, rank, attendants. دولت - حشمت - نوكر - چاكر

خونبها m. the price of blood, fine or mulct of retaliation for murder. خون كي قيمت يعني وه قيمت جو عوض خون كے مقتول كے وارثونكو ديا جائے - عربي ميں اسے ديت كهتے هيں

خون خروس m. wine. شراب

خون خوردن id. to suffer pain or grief. غم يا رنج اوٹهانا - مشقت اوٹهانا

خوندار a. bloody, sanguine. خوني

خون درميان است means "the war is going on." جنگ درميان هے يعني لڑائي هو رهي هے

خونريز m. (lit. shedding blood), murdered. خوني - خون گرانے والا

خون شدن inf. to die, to be slain. - هلاك هونا قتل هونا

خون كبوتر (met.) red wine. كنايه هے شراب شوخ سے

خون گرمي m. love, affection. الفت - محبت

خون گرفته m. doomed to be slain. - اجل گرفته قابل قتل

خون ناموس m. wine. كنايه شراب سے

خون ناب خن m. wine. كنايه شراب سے

خونناب } blood, bloody water, tears mixed with blood. - خون خالص اشك خونين
خونابه }

خونابه m. hard labour and toil. مراد محنت اور مشقت سے

خونين a. bloody, blood-coloured, smeared with blood. خوں سے لتهڑا هوا

خوي f. sweat, perspiration, red silken cloth, name of a place. پسينه - ريشمي سرخ رنگ كپڑے - نام ايك مقام كا

خوے } n. spittle, saliva. اب دهن - تهوك
خوي }

خوے از بغل روان شدن id. to be ashamed, to be abashed. كنايه هے شرمندة هونے سے

خويد m a green field, a sown field, green grass cut for cattle. هرا كهيت - گيهون يا جو كا درخت جو سبز هو

خويش pron. own, self, m. a kinsman, a son-in-law, a family, a plough. - آپ - اپنا - قوم قريب - قبيله - هل

خويشان n. relatives, kinsmen. اپنے رشته دار لوگ

خويشاوند n. a kinsman, a relative. اپنے لوگ

خويشتن pro. self, own, a relation. آپ

خويشي f. relationship, affinity. قرابت - اپنايت

خوئيدن inf. to catch firmly. خوب پكڑنا

خه inter. hail! joy! happy! how fortunate! خوش - خوشا

خه خه inter. bravo! well done! excellent. واه واه - بهت هي خوب

خهے inter. bravo! well done! كلمه تحسين اور تعجب - مرحبا - آفرين - بارك الله

خياب a. hopeless, unlucky, ill-fated. - ناأميد بے نصيب

خيابان m. flower-bed. چمن - كياري

خيار m. choice, election, a cucumber, a second rate land of two species. - قبول كرنا مقبول اور نيك لوگ - كهيرا - ايك تركاري

خيار سبز (v. املتاس), the pudding-pipe tree (cassia fistula.) املتاس كا درخت

خيارزه m. a cucumber. ككڑي

خياط khaiyat, m. a tailor. درزي

خياط khyiat, f. a needle. سوئي

خياطت f. act of sewing (cloth). كپڑا سينا

خيال پختن inf. a vain hope or desire, a vain ambition, an absurd fancy. كنايه أميد اور لالچ سے جو بے حاصل هو

خيام (pl. of خيمه) tents. ڈيرے

خيام khayyam, m. a tent-maker, the titular name of a poet. خيمه دوز - ايك شاعر كا تخلص

خيانت f. perfidy, treachery, embezzlement. ناراستي - فريب - امانت ميں چوري كرنا

خيبت f. hopelessness, ill-luck. - ناأميدي بے نصيبي

خيد f. green grass, a green tree of a corn. هري گهاس - غله كا هرا درخت

خيرالبشر the best of men, the prophet *Muhammad.*

خيرات f. alms, deeds of charity. نيك اعمال

خير باد this word is used at the time of one's parting and means, "may he prosper." - يه كلمه به وقت رخصت كے كهتے هيں مجازاً بمعني رخصت سفر كے مستعمل هوتا هے

خيرگي f. darkness, wickedness, malignity, rebellion, surprise, astonishment, sauciness, impudence. - تاريكي - تيرگي - حيرت شوخي - بيحيائي - سركشي - تعجب

خيره a. dark, wicked, malignant, vain, astonished, shameless, rebellious, foolish, a motionless limb, impudent. - حيران متعجب - شوخ - سست - تاريك - بيهوده - سركش - دلير - بيشرم

خيره راے a. of dark or wicked intentions, of perplexed mind. سست عقل - پريشان خاطر

خيره سر a. perplexed, rebellious, a staggler. پريشان - سركش - بيهوده پهر نيوالا

خيرو / خيري } Holly-hook, (name of a flower). نام ايک پهول کا جسر کو گل خيرو کهتے هيں

خيز (in comp.) rising, leaping, bounding, galloping capering, sprining up (vegetation). اُتهلا - پاني کي موج وغيره

خيزران m. cane, ratan (*Calamus rotang*). بيت (هندي) جسے کرسي وغيره بني جاتي هيں

خيزيدن inf to rise, spring up, to stand up. اُٹهنا - کهڑا هونا

خيسانيدن / خيسيدن } inf. to wet, to steep بهگونا - ترکرنا

خيشوم m the nose, the cartilaginous part of it, nasal letters, the ridge or summit of a mountain. ناک - ناک کے نتهنونکي هڈي

خيط m. thread. سوت ڈورا

خيط اسود f. blackness, (darkness) of the night. رات کي سياهي

خيط ابيض f. the light of the morning. صبح کي روشني

خيطل f. a cat. گربه - بلي

خيف a. fearing, n name of a place in Arabia the mosque of which is very famous ڈرنا - عرب کے ايک شهر کا نام جهاں کي مسجد مشهور هے

خيفه m. fear, fright, dread. خوف - ڈر

خيک m. a skin water bag. مشک جس ميں پاني بهرا جاتا هے

خيل m. horsemen, cavalry, a body of men, a troop of horse, an army. گهوڑه سواروں اور پيدلونکا - گهوڑونکا گله

خيل خيل f. an army. فوج

خيلا f. a woman having many moles (a great beauty among Arabs) عورت جسر کے بهت مسے هوں

خيلخانه m. a family. خاندان

خيلے a. many, much, very. بهت زياده

خيم f. cowardliness, fearing. بزدلي - ڈرنا

خيم (pl. of خيمه) tents. جمع خيم بمعني خيمه کي

خيو m spittle, saliva. آب دهن - تهوک

خيول m. horses, troops, cavalries, bodies of men, a troop of horses, armies. جمع خيل کي گهوڑے سوار وغيره

— د —

د dal, called *dal-i-muhmala* is the eighth letter in the Arabic, the tenth in the Persian, its sound is much softer and more dental than that of our *d*, in reckoning by ابجد it stands for four, in Persian it is sometimes permuted into *t* as for بدتر بتر worse.

دا m. disease. sickness. مرض - بيماري

داءالاسد f. leprosy. جذام کا مرض

داب m custom, manner, institution, situation, condition, vehement, or forcible propulsion. طريقه - ڈهنگ - خو - خصلت

دابه m a reptile, a beast of burden, an animal used for riding. - زمين پر چلنے والا چوپائے وغيره جن پر سوار هوتے هيں يا اُن کو لادتے هيں

دابشليم n. name of an Indian Raja who was famous for his justice. نام ايک راجه هند کا جو بهت بڑا عادل تها

داج m. darkness, a darknight, very dark. تاريک - تاريکي - بهت تاريک

داجن m. one who conceals or hides, clouds, cloudiness, gathering of the clouds, heavy clouds. پوشيده کرنے والا - ابر - گهٹا گهنگور

داخل a. entering, penetrating, arriving, taking possession, entry in a book (adjectively) produced, entered. - اندر آنے والا اندروني

داخله m a receipt for money, a list, or entry, a muster roll, a concern or business, a connexion. - اندر آنے والے - اندروني ضرورت - کام کاج

داد f. a gift, giving, law, equity, justice, revenge, (in *comp*) it denotes given, bestowed. انصاف - عدل - عطا - بخشش

دادار m. the distributor of justice, a ruler, an administrator, an ephithet of the Deity. حاکم انصاف کرنے والا - خدا کا نام

دادر m. a brother, a friend. - برادر - بهائي دوست

دادک m. an old slave. بوڑها غلام

دادگر m. an administrator of justice. - عادل منصف

دادا f. an old she slave. بوڑهي باندي جو مدت سے اپنے گهر کي کنيزک هو

دادن inf. to give, to bestow. دينا

دادني f. advances, money advanced for the provision of goods or merchandise of any kind. قرض

دار m. a dwelling, a mansion, seat, country, habitation, according to Gladwin, a single roofed house, surrounded with walls, with a door or entry, is termed a *bait* or room: *manzil* or tenement, on the contrary, is a place composed of different rooms, such as a man may reside in with his family: a *dar* (دار), or mansion, on the other hand, is a palace, consisting of various rooms or tenements, with an open court. گهر - جائے رهنے کي جگهه

دار *m.* a gallows, a gibbet, an impaling stake. سولي

دارا *n.* Darius, possessor, sovereign, rich. نام بادشاہ فارس کا - بادشاہ - رکھنے والا - دولتمند

دارائي *n.* kingdom, sovereignty, *adj.* of or belonging to Darius. بادشاهت - حکومت

داربست *f.* a scaffold (of masons). لکڑي کے پاڑ جس پر سے مزدور وغیرہ کام کرتے هیں

دارالاخرت *m.* the doomsday, the judgment day. قیامت

دارالامان *m.* the house of safety, a country with which there is peace. - امن کا مکان جهان پر لڑائي اور فساد نهو

دارالامارت
دارالسلطنت
دارالخلافت
دارالحکومت
دارالملک
f the royal residence, the seat of empire, (*met.*) capital, metropolis, the seat of government. گورنمنٹ کا صدر مقام - بادشاہ کے رهنےکي جگهہ - راجدهاني (هندي)

دارلبوار *m.* the house of destruction, *i. e.*, hell. گهر هلاکت کا یعني دوزخ

دار الحرب (*lit.* the mansion of war), a country where the Musalman religion does not prevail. وہ جگهہ جهان خدا کي عبادت کي ممانعت هو

دارالسلام *m.* a house of salvation, heaven. سلامتي کا گهر - بهشت

دارالشفا
دارالمرض
m. an hospital. اسپتال - جهان مریضوں کا علاج هو - دوا خانہ

دارالصفا *m.* the temple of Mecca. خانۂ کعبہ

دارالضرب *f.* the mint. ٹکسال (هندي)

دارالفنا *f.* the frail house, (*met.*) the world. دنیا - زمین

دارالعدالت *f.* a tribunal court, a court of justice. کچهري

دارالعیار *m* a house where base coins are tested وہ مقام جهان کهوٹا زر وغیرہ پرکها جاوے

دارالقضا *f* a judge's court. جج کي کچهري

دارالقرار *m* heaven, paradise. جنت - بهشت

دار چیني *f.* cinnamon. دال چیني ایک قسم کا گرم مصالہ

دارالنعیم *m.* a house of blessing, heaven, paradise بهشت - جنت

دارع *m.* a man clad in iron armour. زرہ پهنے هوئے - زرہ پوش

دارو *f* medicine دوا

دارو گیر *f.* sovereignty, kingdom, state, war, battle مراد حکومت - ریاست - لڑائي - جنگ

دار مدار *m.* settlement, centre. لنگر - قرار

دارشش *f* the world. دنیا

دارین *n.* the world and religion, both the worlds, the world and the doomsday. دنیا اور دین - دونوں جهان - دنیا اور قیامت

داس *m.* a sickle, a scythe درانتي - گهاس کاٹنے کا اوهیکا آلہ

داستان *f.* a story, fable, tale قصہ - کهاني

داشتن (*r.* دار) to keep, to possess, to have, to place, to deposit. رکهنا

داعي *m.* well-wisher, one who prays for the welfare of another, a plaintiff. one who instigates another to anything, instigator, author, cause. طالب کرنے والا - خیر خواہ - بلانیوالا

داغ *m.* spot, stain, mark scar, a freckle, a mark made by burning with a hot iron, brand, stigma, cautery, (adjectively) wounded, cauterized, having many scars. دهبہ - زخم - نشان

دافق *m.* one who leaps or jumps. - کودنے والا اچهلنے والا

دال *a.* significant, expressive, typical, leading, pleading. دلالت کرنے والا - راہ دیکهلانے والا

دالان *m.* a hall. بڑا کمرہ گهر کا

دام *m.* a net, a snare, a quadruped. - جال پهندا - جانور

دام *dam,* may (it) be perpetual همیشہ هو جیو

دامگاہ دیو *f.* the world. دنیا

داماہ *m.* a river, a sea. دریا - سمندر

داماں *m.* skirt, etc. دامن

دامع *m.* flowing tears. اشک ریز - آنسو ڈالنے والا

دامن *m.* a skirt of a garment, sheet (of a sail on ship board), the foot or declivity of a mountain. انچل

دامن شب *m.* the last part of the night آخر شب - پچهلي رات

دامن افشاندن *id.* to be proud and elegant. غرور و ناز کرنا

دامن بر زمین کشیدن *id.* to walk coquettishly, to give one's self airs in walking. غرور اور ناز سے چلنا - اِتراکر چلنا

دامن بدندان گرفتن *id* to run fast. تندي سے تیز بهاگنے سے

دان *m.* (in *comp*) knowing, understanding. جاننے والا

دانا *a.* wise, learned. عقلمند - دانندہ

دانستہ *adv* having known, knowingly, intentionally. جان کر - جان وجهہ کر

دانستن (*r.* دان), *inf.* to know, to consider. جاننا

دانائي } f. knowledge, learning, science,
دانش wisdom. عقل - سمجهه

دانق } f. a small denomination of money,
دانک the sixth part of a دينار, a weight, the fourth part of a drachm چهه رتي كا وزن

داو m. fraud, deceit, cheating, a wall, winning in gambling فريب - قمار ميں جيتنا - ديوار

داؤد n. the name of the prophet David who made Psalms. داؤد بادشاه سليمان بادشاه كے پدر كا نام جنهوں نے زبور بنايا

داد m. a ruler, a governor, an administrator of justice. حاكم - انصاف والا

داثر a. encircling, remnant. پهرنے والا - بقيه چيز

دائره m. a circle, a ring, circumference orbit, a tambourine, a monastery. - حلقه سطح - مستوي - گول - گهيرا

دائم adv. at all times, always, perpetual, permanent. هميشه

دائن m. a lender. قرض دينے والا

دائما } adv. perpetually, everlastingly,
دائمي at all times, always. - هميشه هر وقت

دايه f. a female attendant, a nurse. وه عورت جو لڑكے كي پرورش كرے

دب dubb, m. a bear, state, condition, constitution, custom, manner, property, quality. ريچهه - خرس - حالت - طريقه

دب اكبر } the Greater bear, the Lesser
دب اصغر bear, the two constellation. كچهه ستارے هيں قريب قطب شمالي كے جو آپسميں ملكر بصورت ريچهه معلوم هوتے هيں

دبا dubba, a dry pumpkin. كدوے خشک - تونبا

دباغت f. act of tanning leather. چمڑے كا پكانا اور درست كرنا اور پاک و صاف كرنا

دبدبه m. dignity, pomp, show, state. - بزرگي شان

دبر dubur, f. the backside, posteriors, podex, end, conclusion پشت - پيچهه هر چيز كا

دبس m. juice of the grape. شيره انگور كا

دبستان m. a school. مكتب - مدرسه

دبوب m. a deep cave. غار عميق - بهت گهرا غار

دبور f. the west wind, zephyr. وه هوا جو پچهم كي طرف سے چلے - پچهوا (هندي)

دبوس m a club, a mace. لوهے كا گرز

دبه dabba, m. a leathern vessel for holding oil, ghee, etc چمڑے كا كپا جس ميں گهي وغيره ركهيں

دبه درپاے پيل افگندن id to cause disturbances, to put oneself in trouble intentionally مراد هے فتنه انگيزي سے - ديده دانسته اپنے كو هلاكت ميں ڈالنے سے

دبير فلک m. the planet Mercury. ستاره عطارد

دبير m. a writer, a secretary, a notary. كاتب - منشي - نويسنده

دجال m. a liar, an impostor, anti Christ جهوٹا - مخالف عيسى كا

دجاجه f. a hen. مرغي

دجله m. a lake, the river Tigris نام ايک ندي كا جو بغداد كے نيچے بهتي هے

دخان m. smoke, fumes of tobacco. دهوان

دخت } f. a daughter, a girl. لڑكي - بيٹي
دختر

دخترک f. a little girl or daughter چهوٹي لڑكي - بيٹي

دختندر f. a step-daughter. سوتيلي بيٹي

دخل m. entrance, access, possibility or practicability, produce, income, receipt, intrusion, interference, disturbance, molestation. آمد - آمدني - اندر آنا - كچهه اپنا تصرف كرنا

دخول m. entrance, access, income, revenue. گهسنا - اندر جانا - آمدني - گهر دينا

دد m. rapacious animal, beast of pray, forest full of game. درنده - جانور - جيسے شير - بهيڑيا

در m. a door, a gate, prep. in, in the middle. دروازه - بيچ - ميں

در m. pearl. موتي - جواهر

درا m. bell. گهنٹا - گهنٹالا

دراج } m. the black partridge. تيتر جو پوند
دراجه مشهور هے

دراز شدن id. to be down, to go to sleep. - سونا ليٹ جانا

دراز دستي f. oppression, tyranny, injustice. ظلم - بے انصافي

دراز گوش a. long-eared, an ass or a hare. گدها يا خرگوش

در افتادن inf. to argue, to discuss. - بحث كرنا جهگڑنا

درام f. a procupine. ساهي خاردار جانور

در آمدن inf. to come, to come in, to penetrate, to arrive. اندر آنا - آنا

در آويختن inf. to hang, to suspend, to be suspended. لٹكنا - لٹكانا

دراهم pl. of درهم. جمع درهم كي

درايت f. knowledge, sense, science, manner, mode, quality. دانائي - عقل - دانش

درباب prep. about, as regards, with respect to. بابت

درباختن inf. to beat (in a game). هار دينا

دربدر from door to door, a wandering mendicant, a vagrant. ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر جانا

دربند n. a bridge, a haven, a port, name of a fort. پل (دریا کا) بندر - قلعہ کا نام

درپیش lit. in front. سامنے

درج m. a little casket in which they deposit gems. ڈبہ جسمیں زیور وغیرہ رکھتے ھیں

درجات (pl. of درجہ), steps, degrees, &c. جمع درجہ کي

درجہ m. step, stair, gradation, degree, rank, station, act (of a play), a degree of a circle. رتبہ - درجہ

درخش f. lightning, light بجلي - روشني

درخشان a. shining, brilliant, glittering. چمکتا ھوا - جگمگاتا ھوا

درخشیدن inf. to shine, to glitter, light of the world. چمکنا - روشني دینا

درخود a. worthy, fit, able لائق - سزاوار

درد durd, f. sediment, dregs, lees - تلچھٹ گاد

دردمند a. afflicted, compassionate, sympathizing. دکھي - دکھہ والا

دردا inter. alas ! woe's me ! افسوس

درر (pl. of در), pearls. جمع در کي

درز m. sewing, a rag, a slip of cloth, a long strip of cloth, a narrow shred, a rent, split or fissure in a garment, &c. شگاف

درزن f. a needle. سوئي

درساعت adv. immediately, instantly, forthwith, at once. في الفور

درس m. reading, learning to read, lecture, lesson سبق - کنٹھ کرنا

درست a. right, fit, proper, just, true, well, safe, sound, entire, straight, accurate, a coin. ٹھیک - چست - اچھي

درشت a. rough, hard, stiff, rigid, stern, morose, oppressive, fierce. سخت - کھردرا

درشتي f. severity, fierceness. سختي - بد خلقي

درع m. an armour, a coat of mail. زرہ جو لڑائي کے وقت پھنتے ھیں

درفشہ m a sword. تلوار

درفشان a. shining, splendid چمکنا

درفشیدن inf. to shine, to tremble. چمکنا - کانپنا

درک m. understanding, knowledge, comprehending, (in law) a contingency, a possible event پانا - معلوم کرنا

درکات (pl. of درکہ and درکت) steps for descending, descents, apartment of hell. منازل - دوزخ - دوزخ کے مقامات

درکار کردن id. to instruct anybody, to expend something for somebody. کسي کو تعلیم کرنا - کسي کے لیئے کچھہ خرچ کرنا

درکشا m. a key. کلید - کنجي

درکل adv. all, whole, entirely. کُل - تمام

در کل فرومازدن id. to be humble or submissive. عاجز ھونا

در لو زینۂ سیر کردن / در مغز بادام سیر آمیختن } id. to disturb peace, to interfere in one's luxury, to produce grief in one's enjoyment. کسي کے عیش و عشرت میں خلل ڈالدینا - کسي کي خوشي میں غم پیدا کردینا

درما m. a hare. خرگوش مشھور جانور

درمان m. medicine, cure. دوا - علاج

درماندن inf. to be humble, to be helpless, to be in distress. عاجز ھونا - ناچار ھونا

درماندہ a. helpless, destitute, without remedy. ناچار - عاجز

درماھہ m. / درماھي } monthly wages, salary. تنخواہ ماھواري

در سر کردن id. to perish, to ruin, to destroy. برباد کرنا

در رکاب ایستادن id. to serve properly, to obey. دل سے خدمت کرنا

در زمین استخوان یافتن id to find the trace of anything after a search. تلاش کے بعد کسي چیز کا نشان پا جانا

درم ریز a. bounteous, charitable, munificent. بخشش کرنے والا

درمکنون m a rare pearl, a. very costly, valuable. موتي یکتا - بیش قیمت

درن f. a leech, a blood sucking wormlike animal. جونک جو لگانے سے خون کو چوس لیتي ھے

درندہ a. tearing, rapacious, fierce, ravenous (animal). پھاڑنے والا

درنگ m. delay, hesitation, late. - تاخیر - دیر فرصت

درو m. reaping, cutting corn at harvest. کھیتي کاٹنا

درود f. congratulation, benediction, salutation, blessing. مبارکبادي فرشتونکي جانب سے بمعني استغفار اور مومنوں کي طرف سے دعا - خدا تعالی کیطرف سے رحمت مراد ھوتي ھے

دروگر m. a carpenter. نجار - بڑھئي

دروردن inf. to reap, to mow. کاٹنا (کھیتي کا)

دروش n. a lancet. نشتر فصد کھولنے کا

دروغ m. a lie, falsehood, false. - جھوٹ بھتان

دروغ زن / دروغ گو } m. a liar. کاذب - جھوٹا

درون پرور m. God Almighty. مراد حق تعالی سے

دروزہ m. beggary, mendicancy. گدائي - بھیک مانگنا

درو m. a big pearl. بڑا موتي

درہ m. a valley or glen between hills, with a stream flowing or winding through it, a depth, a pass. کشادگي درمیان دو پہاڑ کے

دِرہ dira, m. a scourge. چھڑے کا تسمہ جس سے مجرم کو مارتے ھیں

درھم a. angry, higgledy-piggledy, confounded, sad. غصہ - خفا - ملاجلا - غمگین - رنجیدہ

دري durri, f. a big bright star. ستارہ بڑا روشن

دریابار m. a large river, a land reclaimed from a river, an island, a city situated on the bank of a river. بڑا دریا - ملک جو دریا کے کنارے پر ھو - جزیرے

دریاے خون m. divine love; عشق الھي

دریاے هفت اختر m. the seventh sky. ساتوان آسمان

دریافتن inf. to inquire, to investigate, to perceive, to understand. پانا - تحقیق کرنا

دریچہ m. a window. کھڑکي

دریدہ a. torn. پھٹا ھوا

دریدہ دھن a. plain-spoken, saying whatever comes uppermost, a fool. منھ پھٹ - بیھودہ

دریدن inf. to tear. پھاڑنا

دریغ m. a sigh, sorrow, repugnance, disinclination, inte. alas! افسوس - حسرت - غم

دریغا interj. alas! افسوس ھے - غم ھے

دریوزہ } f. beggary, begging. - بھیک مانگنا
دریوزگي } گدائي

دزد m. a thief, a robber. چور - چوري کرنے والا

دزدیدن inj. to steal, to rob. چرانا

دزدي f. the act of stealing, theft, robbery, stealth. چوري

دژ m. a fortress a. bad. قلعہ - بد

دژم a.. melancholy, grieved, black, dark, sick, bad-tempered, passionate. - غمگین افسردہ - بیمار - بددماغ - خشمگین

دساتیر (pl. of دستور), manners, customs. جمع دستور کي

دست m. hand, cubit, profit, gain, victory, conquest, assembly, council, strength, power, way, mode, rule, once. a menister (of a king) - ھاتھہ - فائدہ - نفع - نفرت - ظفر - غلبہ - شدر - مسند - قوت - قدرت - طاقت - طرز - روش - قاعدہ - ایک مرتبہ وزیر بادشاہ کا

دستار m. a turban. پگڑي

دستابہ زمین زدن id. to desire justice, to be submissive, to implore earnestly and humbly, to beseech. - کسي سے انصاف چاھنا عاجزي کرنا - گڑگڑانا

دستارچہ m. a handkerchif, a waist-band a gift, reward, congratulation. - کمر بند - رومال - ھدیہ - مبارکباد

دستار خوان m. a table-cloth. دستر خوان جس پر کھانا رکھہ کر کھاتے ھیں

دست از چیزے برکندن id. to leave business, to desert, to abandon, and decline to do a thing. کسي شے سے ھاتھہ اُٹھا لینا - ترک کردینا

دست از دامن داشتن id. to forsake, to leave, to give up, to desert. کنایہ ھے چھوڑ دینے سے

دست از کار داشتن id. to resign, to give up working, to decline, to serve. کنایہ ھے خدمت ترک کرنیسے

دست از هم دادن id. to differ from, to form a distinction. متفرق ھونا

دست افزاز m. a workman's tool. ھتیار کاریگر کا

دست افشاندن id. to reject, to repel, to refute, to give up, to dance. - رد کرنا - ترک کرنا - ناچنا

دست انداز m. a plunderer, a. tyrant. - لٹیرا ظالم

دستانہ m. a glove, a gauntlet. ھاتھہ کا غلاف

دستاویز f. signature, a note-of-hand, bond, little deed, etc. سند جسے اپنا مطلب ثابت کر سکیں

دست باف m. an easy work. آسان کام

دست بالا کردن id. to complain, to cry for help. فریاد کرنا

دست بہ امان دادن id. to follow a spiritual guide, discipleship. مرید ھونا کسي پیر کا

دست بد ندان بودن } id. to be ashamed, to
دست بد ندان کردن } regret, to be sorry, to be penitent. پیشمان ھونا - افسوس کرنا

دست بوبر نهادن id. to salute. سلام کرنا

دست بر پشت چنبر کردن id to tie the hands of of a criminal behind his back. کسي گنھگار کي مشکین کس لینا

دستبرد m. plundering, conquest, bravery, daring. مال کا لوٹ لینا - دلیري - فتح - غلبہ

دست پرمل a. uneasy, restless. بیقرار - اضطراب

دست بر دل گذاشتن } id. to comfort, to con-
دست بد دل نهادن } sole. دوسرے کو تسلي دینا

دست بر روے دست id. to be out of work, to be suspended (from work). بیکار رھنا - معطل ھونا

دست بر فلک زدن id. to pray, to supplicate. دعا کرنا

دست بر لب زدن id. to be astounded, to strike dumb with amazement. امر عجیب اور غریب کہ ظہور پر تعجب سے چپ رھنا

دست بستہ *a.* with close hands (a token of respect), ready, obedient, miserly, niggardly, wonderful. - مستعد - مطیع - بخیل - کنجوس عجیب و غریب

دست بقچہ *m.* a bundle of cloth. کپڑون کي گٹھري

دست پناہ *m.* tongs. چمٹا آگ پکڑنے کا

دست پیش داشتن *m.* to forbid, to prohibit, beggary. منع کرنا - گدائي

دست جستن *id.* to beg. گدائي کرنا

دست دادن *id.* to procure a thing, to obey a master. کسي چیز کا میسر آنا - کسي پیر کي بیعت کرنا

دست داشتن *id.* to forgive, to pardon. کنایہ معاف کرنے سے

دست در آستین کشیدن *id.* to be cut of work, to be suspended, to give up work or service. بیکار رهنا - معطل هونا - کام و خدمت کا ترک کرنا

دست در کمر داشتن *id* to walk affectedly or coquettishly, to express tenderness or kindness by gestures, blandishment. اتھلا کر چلنا - خود نمائي - ناز و انداز

دست رنج *m.* profession, occupation, workmanship, art, labour, toil, wages. - کسب - پیشہ کاریگري - صنعت - محنت - مشقت - مزدوري - اجرت

دست زور *m.* conquest. غلبہ

دست ستون زنخ کردن *id* to be astonished, to be careful. کنایہ هے متحیر هونے اور فکر کرنے سے

دست شستن *id* to be hopeless. نا امید هونا

دست فرو کوفتن *id* to be engaged in combat. کشتي لڑنے پر کسي سے امادہ هونا

دستک *f.* clapping of the hands, tapping at a door, a pass, passport, summons, commission. هاتھہ پر هاتھہ مارنا - تالي

دستکار *m.* a handicraftsman, dexterous. کاریگر - هاتھہ کا چالاک

دست کش *m.* a led horse, a guide (of the blind), a captive, a gift, a staff, conquest. تحفہ - عصا - لاٹھي - مغلوب

دست کلیم *m.* the sun. کنایہ آفتاب سے

دستگاہ } *f.* power, ability, strength, goods,
دستگہ } effects, head quarter. - قدرت سامان - اسباب - مقام صدر

دستگیر *m.* a patron, protector, a helper, an assistant, a captive, a prisoner - مددگار قیدي - گرفتار

دستمال *m.* a handkerchief, a captive, a prisoner, bad, unlucky. هاتھہ رہ رومال جس سے کو پونچھتے هیں - زبون - قیدي

دستمایہ *m.* a capital, stock in trade. - سرمایہ پونجي

دست مجلس *m.* a president, the head of a council. میر مجلس

دست مرد *m.* a friend, a helper, an assistant, a companion. دوست - مددگار

دست موسیٰ *m.* the sun. کنایہ آفتاب سے

دست مزد *f.* wages, salary. اجرت مزدوري

دستنبو } *m.* a nosegay, a bouquet, a bunch
دستنبویہ } of flowers or fruits to regale the sense of smell. - گلدستہ خوشبو سونگھنے کا میوہ خوشبودار جو سونگھا جاوے

دست و پا try, endeavour, effort, investigation, search. کوشش - تلاش

دست و دل strength, power, might, courage. قوت - همت

دستور *m.* custom, fashion, mode, manner, a minister, senator, model, regulation, law, leave, permission. - قانون - قاعدہ - طرز آئین - رخصت - اجازت - وزیر - امیر - صاحب مسند

دستہ *m.* a handle, a pestle, a quire of paper, a bundle consisting of twenty-four arrows, a handful, a skein, a division of an army, a brigade, a friend, a helper, a body of men, a bunch of flowers. قبضہ چھري یا تلوار وغیرہ کا - یار - مددگار - گروہ آدمیونکا - پھول یکجا بندھے هوئے

دست یافتن *id.* to prevail, to gain the victory or superiority, to gain over by persuation. غالب هونا

دسم *f.* a smooth thing. چکني چیز

دشت *m.* a desert, forest, a plain. - صحرا بیا بان

دشخوار *a.* difficult, hard. مشکل - کٹھن

دشنہ *m.* a poniard, a dagger. خنجر ایک قسم کا هتھیار هے

دشنام abuse, scurrility. برا نام - گالي

دشوار *a.* difficult, arduous. مشکل

دعا *f.* benediction, salutation, congratulation, prayer, wish, imprecation. - مانگنا خواهش کرنا

دعابت *f.* disposition, temper, good-naturedness, witticism. مزاج - ظرافت - خواهش طبعي

دعا کردن } *id.* to give leave, to dismiss, to
دعا گفتن } part. رخصت کرنا - رخصت هونا

دعائم *m.* (*pl.* of دعامہ) pillars of a throne or a building. تخت کے پائے - عمارت کے ستون

دعوت *f.* claiming (a relation), adoption. نسب میں دعوی کرنا - متبنی کرنا - بیٹا بنانا

دعوات (*pl.* of دعوت), prayers, convocations invitations جمع دعوت کي بمعني دعا کي

دعوي عكسے نشاندن *id*. to prove by arguments or reasons. دليلون اور گواهون سے ثابت كرنا

دغدغه *m*. anxiety, fear, apprehension, alarm, disturbance, tumult. خوف - تشويش - خطره

دغدغه *dagdiga*, *m*. tickling. گدگدي كرنا

دغا *m*. vice, corruption, treachery, depravity, luxuriant and entangled herbage, a villain, a pickpocket, *adj*. false, deceitful, base (as coin). - مكر - حيله - فريب - عيب مكار - فريبيا - دغاباز - پهوٹي چاندي يا سونا

دف *daf*, دف *duff*, } *m* a small tambourine. نام باجه كا جو مشهور هے

دفاتر (*pl*. of دفتر) books. جمع دفتر كي - مجموعے كاغذات كے

دفائن (*pl*. of دفينه), things buried or hidden, more particularly hidden or buried treasures. جمع دفينه بمعني مال مدفون كے

دفتين دفتي } *f*. the boards of the binding of a book, pasteboard. خوشنويسوں اور نقاشونكا مقوره جس ميں كاغذ به احتياط ركهے جاتے هيں - پٹهه كتاب كا

دفعتاً *adv*. often, all at once. ايكبارگي - ايک مرتبه

دفعات (*pl*. of دفعه). جمع دفعه كي

دفينه *m*. buried or hidden treasures, hoard. گڑا هوا مال

دق *m*. a kind of cloth, a darwesh's dress, beggary, objection. گدائي - ايک قسم كا لباس پشمينه - اعتراض كرنا

دق *diqq*, *a* subtile, thin, minute, *f*. a hectic fever. باريک - تپدق - نام ايک مرض كا جو آدمي كو دبلا كرديتا هے

دقاق *diqaq*, *a*. minute, intelligent, *m*. a shred, a chip. جمع دقيق كي - باريكيان

دقاق *daqaq*, *m*. a corn-grinder, a washerman who beats clothes, a flour merchant, the titular name of a saint. - كوٹنے والا كسي چيز كا دهوبي جو كپڑون كو كوٹتا اور چهانتا هے - آٹا پيسنے والا - آٹا پيسنے والا - لقب ايک ولي كا

دقائق (*pl*. of دقيقه), subtleties, difficulties, flour meal, minutes, moments, minutiæ. جمع دقيقه كي - مشكل - باريک - اور اطيف چيزين

دق ولق *m*. an extensive and uncultivated plain. وه جنگل جس ميں گهاس تک بهي نهو

دقيانوس *m*. the king Decius. ايک بادشاه كافر اور ظالم

دقيق *a*. difficult, abstruse, fine, minute, *m*. flour, meal. مهين آٹا - باريک چيز - كم اور تهوڑي شئے - دشوار بمعني مشكل

دقيقه *m*. minute, a moment of time, anything small, a subtle question, a trifling business. ايک چيز - ساٹهوان حصه نجوم كا

دک *dak*, predestination, accident, shock, a mendicant, a beggar, *a*. strong.

دک *m*. a mountain, a hill, guide. - كوه - پهاڑ راهنما

دكانين (*pl*. of دوكان), shops. - جمع دوكان كي دوكانين

دكانچه *m*. a small shop. چهوٹي دوكان

دگدگ *f*. chattering (of teeth). آواز دانت كٹكٹانے كي

دگر *adv*. again, once more, another, after. اور چيز اور شخص - بعد

دگلا *m*. kind of quilted vest worn as armour or under armour. سپاهيونكي قبا جو مشهور هے

دلارا *m*. a beloved, an epithet of a sweetheart. دل كا آراسته كرنے والا بمعني معشوق

دلارام *m*. (*lit*. heart-easing), a sweetheart, (in *Sikadar nama*) it comes for Roshnak daughter of Dara (Darius). دل كا تسلي دينے والا يعني معشوق - سكندر نامه ميں مراد روشنک دارا كي بيٹي سے

دلاسه *m*. comfort, soothing, encouragement, consolation. تسلي

دلافگار *a*. broken hearted, a lover. - دل جسته عاشق سے مراد هے

دلال *m*. a broker, a salesman. وه شخص جو بائع اور مشتري ميں سودا كرادے

دلال *m*. looking (haughtily or amorously) through half-shut eyes, looking with affected anger (as lovers), *ciacdus libidine infamis*. غمزه - آنكهه سے اشارے كرنا

دلالت *f*. direction, indication, sign, token, argument, demonstration, brokerage. راه دكهانا - وجهه ثبوت

دلاله *f*. a procuress, an old gobetween. كٹني - وه عورت جو دوسري عورتوں كو بدراه اور خراب كردے

دلاويز *a*. transporting, heart-pleasing. - دلپسند جو دل كو بهاوے

دلائل (*pl*. of دليل) proofs, arguments. جمع دليل كي

دلباز *a*. clever, artful, bold. چالاک - نڈر

دل بچيزے دوختن *id*. to draw one's heart or attention towards anything. دل كو كسي چيز كي طرف متوجه كرنا

دل بدريه كردن *id* to be bounteous beyond measure to be extremely munificent. حد سے زياده سخاوت كرنا

معشوق
دلبر *m* a sweetheart.
دل بر لب دویدن *id.* to shed tears of blood, to weep bitterly. لہو کے آنسوؤں سے رونا
دلبستہ *a.* afflicted, attached, enamoured. دل لگا ھوا
دلبند *a* attractive, heart-stealing, (*met.*) a son. مجازاً فرزند
دلتنگ *a* miserly, niggardly, sad, grieved. کنجوس - بخیل - رنجیدہ
دلدادگان *m* the lovers مراد عاشقوں سے
دل دادن *inf.* to encourage. دلیر کرنا
دل کردن *inf.* to be restless. بیقراري کرنا
دل دویدن *id.* to fall in love, to be greedy. عاشق ھونا - لالچ کرنا
دلستاں / دلربا / دلدار } *m.* a sweetheart, a mistress. مراد معشوق سے
دل شب *n.* the midnight. آدھي رات
دلفین / دلفن } a dolphin. ایک قسم کي مچھلي
دلق *m* a mendicant's habit, made of patches and shreds, low, mean, contemptible. فقیروں کي گدڑي - نالائق - کمینہ
دلک *m.* setting of the sun, darkness, blackness. زوال آفتاب - غروب - سیاھي
دلگرم *a* full of love. پر محبت
دلو *dalv*, *m.* a bucket, an urn, the sign Aquarius, the hopper of a mill, hardship, calamity. - ڈول - نام برج کا آسمان پر - سختي - بلا
دلوک *m.* the setting of the sun. آفتاب کا قریب غروب کے ھونا
دل و جان یکے کردن *id.* to labour hard. کسي کام میں بڑي محنت کرنا
دلہ *f.* a wild cat, a white fox, name of an artful woman. جنگلي بلي - سفید لومڑي - ایک مکار عورت کا نام
دلہاث *m.* lion. شیر درندہ
دم *m.* blood. خون - لہو
دم *m.* breath, life, charm, incantation, fraud, deceit, a draught (of water), wind blown out of a blacksmith's bellows, pride, edge and sharpness of a sword, time. سانس - ت - افسون - منتر - فریب - مکر - پاني کا ایک گھونٹ - لوھار کي دھونکني کي ھوا - غرور - تلوار کي باڑھ اور تیزي - ھنگام - وقت
دماء (*pl.* of دم) blood. جمع دم کي معنے خون
دمادم *adv.* incessantly, continually پے درپے - دمبدم

دمار *n.* ruin, destruction. ھلاک - ھلاکي
دماغ *m.* the brain, pride, haughtiness, the organ of smell, intoxication, desire, wish. مغز سر - مجازاً تکبر - غرور - طاقت - نشہ - خواھش
دماغ رسانیدن *inf* to be well pleased. خوش ھونا
دماغ سوختن *inf.* to labour hard, to be very careful, to be very deliberate. سخت محنت کرنا - بہت فکر کرنا - زیادہ غور کرنا
دمامہ *m.* a kettle-drum. نقارہ - نفیري
دمامیل (*pl.* of دمل), *m.* boils, swellings, tumours, abscesses. پھوڑے
دمان *a.* powerful, terrible, fierce. جوش مارنے والا - پھنکار مارنے والا - خشمناک
دمباز *m.* a wheedler, deceiver. فریبي - دغاباز
دم بستن *id.* to hold one's tongue, to be quiet. چپ ھوجانا
دم تسلیم *pl.* the time of bidding farewell, *i. e.* death. مرنے کا وقت
دم خوردن *id.* to be deceivd, to be cheated. فریب کھانا
دم در کشیدن *id.* to be silent, to be quiet. چپ ھوجانا
دمدمہ *m.* a cavalier, (in fortification) a mound, a raised battery, deceit, fraud, flattery, a kettle-drum, fame, report. - فریب - چاپلوسي - مکر - حیلہ - نقارہ - شہرت - چار دیواري جو قلعہ کے گرد ھوتي ھے - دھس (جو لڑائي میں مورچال بناتے ھیں)
دم زدن *inf.* to breathe, to talk. بات کرنا
دمساز *a* concordant, harmonious, agreeable. دوست موافق
دم سرد *a* a cold sigh. آہ - نا اُمید
دمشق *n.* Damascus, the former capital of Syria. نام ایک شہر کا جو پایہ تخت ملک شام کا تھا
دم صور *m.* the judgment day, the doomsday. روز قیامت
دم طاؤس *m.* the sky. کنایہ آسمان سے
دمع *m.* a tear, shedding tears, cataract (of the eye). آنسو - آنسو بہانا - آنکھہ کے ایک مرض کا نام
دمعہ *m.* a tear. آنسو
دم گاہ *m.* a lash, a whip, a kettle-drum. بڑا کوڑا جس سے بیل یا گدھے وغیرہ ھانکے جائیں - نفیري
دم لابہ *a.* wagging the tail (like a dog), flattery, cajolery, humility. - کتے کا دم ھلانا - چاپلوسي - خوشامد - عاجزي
دمن *m* the orbicular dung of cattle. غلیظ اور گوبر وغیرہ کا ڈھیر

دموع (*pl.* of دمع), tears. جمع دمع بمعني انسو كي

دمه *m.* a pair of bellows, a blowing pipe. دهونكني - پهكني

دميدن *inf.* to blow, to expand, to break forth (as the dawn of day). - پهوكنا - اگنا طلوع كرنا

دميم *m.* ugly, deformed. بد صورت - زشت رو

دناءت *f.* meanness, baseness, discouragement, miserliness, unworthiness, foolishness, imprudence. - كمينه پن - زبوني - نالائقي پست همتي - كنجوسي

دنانير (*pl.* of, دينا). جمع دينار كي

دنب *f.* the tails of animals. جانوروںكي دم

دنبال / دنباله } *m.* a tail, the stern of a vessel, the rudder, after, behind. پيچها كسي چيز كا - جانوروںكي دم

دنبه *m.* a kind of sheep with a thick tail, trick, fraud, deceit, hypocricy. ميڑها جس كي دم چوڑي هوتي هے يعني چكني - مكر - فريب

دنبه نهادن *id.* to deceive, to defraud, to cheat. فريب دينا

دندان *m.* a tooth. دانت

دندان پلند *m.* an old horse. كنايه بوڑهے گهوڑے سے

دندان بر جگر افشردن *id.* to be prepared to die, to dare to do a hard work. مرنے پر آماده هو جانا - سخت اور دشوار كام كرنے كي جرات كرنا

دنداں بكام فرو بردن *id.* to be successful, to gain one's object, to gain the superiority over some one, to prevail, to be furious, to lose one's temper. كامياب هونا - مقصد كا پورا حاصل كرنا - كسي پر غالب آنا - غضب اور غصه كرنا

دندان تيز كردن *id.* to be greedy. لالچ كرنا

دندان دراز *m.* greedy. لالچي

دندان زني *f.* to be equal, to cope with, to be hostile. برابري كرنا - دشمني كرنا

دندان سفيد *a.* laughing, smiling. - خندان هنستا هوا

دنداں نمودن *id.* to laugh. هنسنا

دندانه *a.* resembling a tooth. مشابه دانت كے

دنداني كردن *id.* to put one to shame or disgrace. شرمنده كرنا

دنس *m.* dirtiness, filth. چرك - ميل

دنگ *a.* mad, insane, *a* distracted, confounded, careless, foolish. ديوانه - حيران - احمق

دني / دنيه } *a.* mean, paltry, base, foolish, discouraged نا كسي - نالائق - پست همت - كمينه

دنيا پرست *m.* a miser, a niggard. بخيل - كنجوس

دو *m.* wilderness, jungle, wood. بيابان

دواب *m.* (*pl.* of دابه), animals, quadrupeds, cattle, beasts. چوپائے مثل گهوڑے - گدهے - اونٹ وغيره كے جن پر سوار هوتے هيں اور بوجه لادتے هيں

دوات *f.* an inkstand, ink. وه برتن جس ميں سياهي لكهنے كي ركهكر لكها كرتے هيں

دواج *duwaj*, / دوٓاج *duwaj*, / دواج *dawwaj*, } *m.* a quilt, a coverlet. بالاپوش - لحاف

دوار *m.* vertigo, giddiness. ايك مرض كا نام جس ميں آدمي كا سر پهرا كرتا هے يعني گردش سر

دوادو *f.* labour and fatigue, toil, trouble. دوڑ - دهوپ

دوازده *a.* and *m.* twelve. باره (۱۲) ٫

دوازدهم *ord.* of twelve, the twelfth part. بارهواں حصه

دوال *duwal*, / دوال *dual*, } *f.* a leather strap, a belt, a sword. چمڑے كا تسمه

دوالك *m.* a kind of gambling. ايك قسم كا جوا

دوالك بازي *f.* hypocricy, fraud, deceit, shamelessness. مكاري - بيحيائي

دوام *m.* perpetuity, persevering, always, eternally. هميشگي

دوان *a.* running, walking fast. دوڑتا هوا

دوانيدن *inf.* to cause to run, to drive about. دوڑانا

دوائر (*pl.* of دائره), circles, circumferences, etc. جمع دائره كي

دوپرويزني *f.* fine flour. ميده

دوپيازه *m.* a kind of rich stew made with butter, onions and sundry other good things. وه گوشت جس ميں پياز تلي هوئي ڈالكر پكاتے هيں

دوپيكر *m.* the sign Gemini. برج جوڑا بصورت دو كودك برهنه كے آپس ميں ملا هوا هے - عربي توامان

دوتا / دوتاه / دوتاو } *a.* double, doubled, bent, bending the body, a kind of cloth. جهكا هوا - كپڑا

دوتار *m.* a kind of two stringed instrument like a guitar. نام باجه كا مثل ستارے كے

دوچار *a.* meeting, visiting. ملاقات - مقابل

دوحه *m.* a tree. درخت

دوخت *f.* sewing, a stitch. سلائي - سينا

دوختن (*r.* دوز) to stitch, to sew, to pin, as with an arrow. سينا

دود *m.* smoke, vapour, a sigh, grief, sorrow. دهواں - غم - رنج - سانس

دود *m.* worms (*sing* is دوده). كيڑے

دودہ *m.* a family, relative, lampblack applied to the eyes. خاندان - خویش و تبار - چراغ کا کاجل

دود بر آوردن *id.* to ruin, to spoil, to destroy. خراب و هلاک کرنا

دود آهنگ } دود کش } *m.* a hole or a window for smoke to pass in. وہ سوراخ جسمیں سے دهواں باهر جائے

دود کردن *inf.* to show, to publish, to manifest. ظاهر کرنا

دودالعربی *m.* silk-worms. ریشم کے کیڑے

دودمان *m.* generation, race, tribe. - خاندان - قبیلہ - کنبہ

دور *m.* revolution (of time or of any body), circular motion, the windlass or capstan of a ship, a species of argument, reasoning in a circle, age, vicissitude, circuit. - گردش گول هونا - ایک شے کا اُسي کے نفس پر ٹهرنا - زمانہ

دوران *m.* time, age, fortune, vicissitude, a revolution period, a circle, cycle, giddiness. زمانہ - گردش زمانہ - گردش سر

دور اندیش *a.* far-seeing, of deep reflection. جو شخص دور کي بات سوچتا هو - انجام بیني

دور ترک *a.* very far, distant. بهت دور

دور دست *f.* a place where it is hard to reach. وہ مقام جهان پهونچنا دشوار هو

دورو *m.* tow-faced, a kind of small drum played on both ends. منافق آدمي

دوستکامي *f.* a toast, drinking a cup to the health of some one. اپنے حصہ کا پیالہ شراب دوسرے کي تواضع کرنا - جام شراب جو دوست آپس میں ایکدوسرے کو دیتے هیں کہ فلان شخص کي یاد پر نوش کیا جاوے

دوش *m.* the shoulder, a kind of lac, *adv.* last night. مونڈها - گذري هوئي رات

دوش زدن *inf.* (*lit.* to shake one's shoulder) to warn, to caution. آگاہ کرنا

دوشنبہ *n.* Monday. پیر کا دن

دوشندہ *m.* a milkman. دودهہ دوهنے والا

دوشیدن *inf.* to milk (a cow or buffalo). دودهہ دوهنا

دوشیزگي *f.* virginity. کنوارا پن

دوشیزہ *f.* virgin. کنواري عورت

دوصاد *f.* both the eyes. کنایہ هے دونون آنکهون سے

دوصحن *n.* heaven and earth. آسمان و زمین

دو طفل هندو *f.* the eyeballs, the pupils of the eyes. آنکهونکي پتلیان

دوغ *m.* butter-milk. متهہ - گهي نکلا هوا دودهہ

دوک *m* a spindle. چرخہ کا تکلا

دوکدان *m.* a spinning wheel. چرخہ

دوگان *adv.* double two-fold دوگنا

دوکَن *n.* the world and eternity دنیا اور آخرت

دول (*pl.* of دولت), riches. جمع دولت کي

دولاب } دولابہ } *m.* a wheel for drawing water with. چرخ - گراري کنوین کي

دوم *a.* second, inferior, second sort. دوسرا

دو مست آهو both the eyes of a sweetheart. کنایہ هے معشوق کي دونون آنکهون سے

دو مغز *m.* an almond. کنایہ هے بادام سے

دومو *a.* gray-headed. جس کے بال سفید اور سیاہ ملے هوئے هون

دون *a.* base, mean, ignoble, poor, vile, *a.* near, by, under, little. - حقیر - کمینہ - سفلہ تحت - نزدیک - تهوڑا

دونان *n.* the base and mean people. کمینے اور خسیس لوگ

دونیم two equal parts of a thing دو حصے برابر ایک شئے کے

دویدن *inf.* to run, flow, to make haste. - دوڑنا جلدي کرنا

دویست *a.* and *n.* two-hundred. دوسو

دہ *a.* and *n.* ten. دس

دہ *m.* a village. گانون

دها *n.* wisdom, keenness, perception. عقلمندي

دها *daha, m.* the ten days of the *Muharram*, the models of the tombs of *Hasan* and *Husain* or the model of a building containing the tombs, which are carried about in procession during those ten days. On the tenth day, the tombs are buried or in some places thrown into water, the building if made of cheap materials shares the same fate, if costly, it is carried back and deposited in the *dargah* or *karbala*. محرم کے دس دن - حسن اور حسین کي قبرونکے نمونے

دهات (*pl.* of داهي) the wise. عقلمند

دهات *m.* (Ar. *pl.* of دہ), villages, the country, as opposed to towns. جمع دہ بمعني گانون کے

دهاقین (*pl.* of دهقان) *m.* the peasants, the farmers, the villagers. - جمع دهقان کي - کسان لوگ دهاتي لوگ

دهان *m.* mouth, an orifice. منهہ

دهان بند *f.* a charm. تعویز (هندي)

دهانہ *m.* the mouth of a river (موهانہ) دهانہ دریا کا

دهانیدن *inf,* to cause to give. دلوانا

دہ دل } a. heroic, valiant, brave, care-
دہ دلہ } ful, troubled, hypocrist, atheist.
بہادر - متردد - پریشان - منافق

دہ دہی m. pure gold, a. artful, cunning, bright. زر خالص - کامل - عیار - روشن

دہر m time, an age, custom, habit, mode, manner, solicitude, the world, atheism, fortune chance, adversity, danger. رات دن - زمانہ - دنیا

دہرد m. a poniard a kind of dagger. ایک قسم کا ھتھیار مثل خنجر کے

دہریہ m. an atheist. وہ شخص جو زمانہ کو خدا تصور کرتا ھے

دہزدہ m. a depopulated village, ویران گانوں

دہش charity, bounty, liberality. - انعام دینا بخشش - سخاوت

دہشت f. fear, dread, amazement, confusion. خوف - حیرت - پریشانی

دہقان m. foolish, ignorant, m a village, a peasant, a farmer, the headman of a village. گنوار - کسان - رئیس - قریہ

دہقانیت f. rusticity, boorishness, husbandry, agriculture. گنوار پن

دہکیا m the headman of a village, a landowner, a zamindar. رئیس قریہ - زمیندار

دہل m. a kind of drum. ایک قسم کا ڈھول

دہل دریدن id. to stop one from singing. کسی کو گانے سے منع کردینا اور چپ کردینا

دہل دریدہ a. disgraced, dishonoured, silent رسوا - خاموش - چپ

دہلیز f a portico, a threshold. چوکھٹ - شروع مکان کا

دہم the ordinal of ten, tenth دسواں حصہ

دہمت f. blackness, darkness سیاھی - تاریکی

دہ مرہ a. false, talkative, fool, m a babbler جھوٹا - گپی - بیہودہ بکنے والا

دہن m. mouth. منہہ

دہن m. oil, ointment. تیل - روغن

دہن تیغ f. the edge of a sword. تلوار کی دھار

دہن تلخ بودن id. to lodge a complaint against any one. کسی کا گلہ کرنا

دہن مصری n. the balm of Gilead balsam. روغن بلسان

دہنیت f. oil, ointment, fatness. چربی - چکناھٹ

دہور (pl of دہر) the worlds, etc جمع دہر کی بمعنی دنیا - زمانہ

دہ ہلال the round ends of the ten fingernails. دسوں انگلیوں کے ناخنوں کے سرے جو گول ہوتے ہیں

دہ یک ستان m. a tax-collector. خراج تحصیلنے والا - محصول لینے والا

دی a. yester, last, as yesterday, yesternight. شب و روز گذشتہ

دی n. name of a Persian month corresponding to the tenth Hindu month, the full moon of which is near *Leonis Regulus* (Jan-Feb) نام ماہ شمسی کا جبکہ آفتاب برج جدی میں رہتا ھے - تقریباً ماہ ماگھہ (ھندی)

دیار a (pl. of دار), a country, region. جمع دار بمعنی گھر - ملک وغیرہ کے

دیر *daiyyar*, m an inhabitant, an inmate (of a house), occupants باشندہ - صاحب خانہ

دیانت f. conscience, honesty, justice, piety, virtue. دینداری - راستی

دیبا m. brocade, cloth of gold. ایک قسم کا باریک ریشمی کپڑا

دیباچہ } m. preface exordium, introduction
دیباچہ } preamble of a manuscript volume, which portion is generally illumined, face, countenance, cheek. شروع اور آغاز کتاب کا - کتاب کا خطبہ - چہرہ - رخسارہ

دیت f. the price of blood, fine or mulct of retaliation for murder. خون بہا - خون کے عوض کا روپیہ

دیجور m. the night of conjunction of sun and moon, a dark night, without moonlight, everything black. اندھیری رات - مطلق اندھیری - تاریکی

دیدار m sight, look, interview, seeing (a person), an overseer or inspector - منہہ چہرہ - بینائی - دیکھنا

دیدان (pl. of دودہ). worms. جمع دودہ بمعنی کیڑے کی

دیدبان m guard, vidette, a spy a messenger. - وہ سوراخ جس میں سے نشانے کو تکیں جاسوس - مخبر

دیدن inf. to see, (met.) to encounter, experience, to perceive in general. دیکھنا

دیدن f. habit. خو - عادت

دیدہ برھم نہادن id. to die. مرجانا

دیدہ بر دوختن id. pride, superciliousness, ogling, coquetry. کنایہ ھے اغماض اور غرور سے

دیدہ سرخ کردن id. to be greedy, to fall in love. لالچ کرنا - کسی پر عاشق ھونا

دیر m. a temple, where idol are worshipped (in Arab. convent, a monastery). بتخانہ - مندر

دیر شدن id. to be finished, to die, to be spoiled. تمام ھونا - خراب ھونا - فوت ھونا

دیر کہن } *f.* the world. کنایہ ھے دنیا سے
دیرمسدس }
دیر مینا *m.* the sky. کنایہ ھے آسمان سے
دیروز *adv.* yesterday. گذرا ھوا کل کا روز
دیرینہ } *a* old, ancient, wise, cunning. - پرانا - چالاک
دیرین }
دیز *m.* colour, external form. لون - رنگ
دیشب *adv.* last night. گذري رات
دیک } *m.* a cock. مرغ - خروس
دیکہ }
دیگ پر باد کردن *id.* to put the *deg* (a pot, or caldron) on fire to cook something. چولھے پر دیگ چڑھانا کھانا پکانے کے لیئے
دیگدان *m.* a fire-place, a trivet. چولھا
دیگدان سرد *m.* a miser, a niggard. مود بخیل
دیگر *a.* and *pron.* other, another, again. اور - دوسرا
دیم *m.* face, countenance, light. - منھہ - چہرہ - روشني
دیمہ *m.* a kind of leather. ایک قسم کا چمڑا
دین *dain*, *m.* debt, loan. قرض - اُدھار
دینار *m.* the name of a coin equivalent to Rs. 2-8 of Indian money. ایک سکہ کا نام جو اڑھائي روپیہ کا ھوتا ھے
دینار سرخ *m* a gold coin. سونے کا سکہ
دین درست *m.* the Mohammedan religion. دین اِسلام
دینہ *a.* yesterday. کل کا روز (گذرا ھوا)
دیوار بلند *a.* wealthy, rich. کنایہ دولت مند سے
دیوان نهادن *inf.* to judge, to do judgment. عدالت کرنا
دیوانہ *a.* mad, insane, foolish. پاگل - سڑي
دیواني *f.* the office of the king's *diwan*, and superintendence of the administration of civil justice. کچھري عدالت کي جس میں نالش قرض اور داد و ستد کي کیجاوے
دیو باد *m.* whirlwind. آندھي کا بگولا
دیوث *a* disgraced, dishonoured, shameless, a pimp. بیعزت - بیشرم - بھڑوا
دیوچہ *m.* a leech, a white ant. جونک - دیمک
دیودار *m.* a species of pine (*pinus devadaru*). ایک پہاڑي درخت کا نام جس کے جهاز کے مستول بنتے ھیں
دیوسار *a.* demon-like. مانند دیو
دیو سفید *m.* the name of a demon whom Rustom had slain in Mazandran, a rebellious demon. وہ دیو جس کو رستم نے مازندران میں قتل کیا تھا

دیولاخ *m.* an abode of demons. دیوں کے رھنے کا مقام
دیومار *m.* a big serpent, a dragon. اژدھا
دیو مردم *m.* a man of the woods, a wild man, an orang-outang. بن مانس
دیو مرید *m.* Satan (who is very rebellious and wicked). کنایہ شیطان سے جو بڑا سرکش اور بد ھے
دیون (*pl.* of دین) debts. جمع دین بمعني قرض کے
دیو هفت سر *m* the globe. زمین کا کرہ
دیرہ *m.* a silk-worm. ریشم کا کیڑا
دیہ *m.* a village. گانوں
دیهیم *m.* a royal crown. تاج بادشاهي

— ذ —

ذ *zal*, called *dal-imu'jama*, is the ninth letter of the Arabic alphabet, and the eleventh of the Persian. It is pronounced by the Arabs like *th* in the English word *thou*. In reckoning by ابجد it stands for 700.

ذاب *m.* defect, blemish, *a.* very thirsty, melted. عیب - بڑا پیاسا - پگھلا ھوا
ذابح *m.* a sacrificer, a butcher. ذبح کرنے والا
ذات *f.* master, possessor, the soul, essence, substance, nature. صاحب - مالک - هر شے کي حقیقت اور ذات
ذات بهشت *m.* God Almighty. مراد حق تعالی سے
ذات انشمال *f.* the left hand-side, the sinners, the infidels (for, on the judgment day their actions will appear on their left hands. جانب دست چپ - مراد گنهگاروں سے اور کافروں سے اس لیئے کہ قیامت کے روز اُن کے بائیں هاتھہ میں ان کے نامهاے اعمال آئینگے
ذات الیمین towards the right hand side, the virtuous, the elected (for, on the judgment day their actions will appeat on their right hands. - جانب دست راست مومنوں سے مراد ھے جن کے نامہ اعمال داهنے هاتوں میں بروز قیامت آئین گے
ذات البین *m.* a mediator. درمیاني اور قضیہ دلال
ذات البروج *m.* the eighth heaven, the throne of God. آتھواں آسمان - کرسي
ذاکر *a.* remembering, grateful, one who remembers or praises God. ذکر کرنے والا - یاد کرنے والا

ذاهل *a*. careless, forgetful. بهولنے والا - غافل

ذائب *a*. melting, tending to soften. - گلنے والا پگهلنے والا

ذائق *a* tasting, one who tastes. چکهنے والا

ذائقه *m*. the sens of tasting, the palate. مزه چکهنے كي قوت جو زبان ميں هے

ذب *a* driving, desisting, depriving, avoiding, becoming thin, *m*. a wild bull. هنكا دينا - باز ركهنا - دور كرنا - دبلا هونا - جنگلي بيل

ذباب *f*. a fly. مگس - مكهي

ذبابي *a*. green-coloured (an emerald). سبز رنگ زمره كي صفت ميں آتا هے

ذبال the *pl*. of ذباله جمع ذباله كي

ذباله *f*. the wick (of a lamp). فتيله - بتي چراغ كي

ذبح *f*. a sacrifice, slaughter. گلا كاٹنا جانور كا شرعي طور پر

ذبيح الله *m*. the sacrifice of God, a name of Ismail. إسمعيل كا نام

ذبر *a*. writing. لكهنا

ذبول *zubul*, *a*. thinness, faded state. - لاغري پژمردگي

ذبيح } ذبيحه } *a*. sacrificed, *m*. a sacrifice. وه جانور جو شرعي طور سے ذبح كيا جاوے

ذخائر (*pl*. of ذخيره), victuals, provision, treasures, stores. - جمع ذخيره كي - گودام خوراك

ذر } ذرا } *m*. an atom, a little. تهوڑا

ذرات (*pl*. of ذره), atoms, particles. - ذرے تهوڑے حصے

ذراري (*pl*. of ذريت) *f*. sect, tribe, race. جمع ذريت بمعني نسل كي

ذراع *m*. a yard, a cubit, two bright stars in the head of Gemini. بازو - هاتهه كا گز

ذرائع (*pl*. of ذريعه), means. جمع ذريعه بمعني وسيله كي

ذرع *a*. measuring, strength, power. ناپنا هاتهه كے گز سے - طاقت

ذرع *m*. greed, avarice, the young one of a wild-cow. لالچ - جنگلي گاے كا بچه

ذرق *f*. the dung of a bird. پرند كي بيٹ

ذروه *m*. the summit of a mountain, a peak, height of a mountain. پهاڑ كي چوٹي - بلندي پهاڑ كي

ذريت *zarriyat*, *f*. race, lineage, descent. اولاد - نسل

ذريعه *m* medium, means, a document. وسيله - واسطه - دستاويز

ذعات *m*. deadly, venom. زهر قاتل

ذعف (*pl*. of ذعات), poisons جمع ذعات بمعني زهر كي

ذفر *f*. a strong smell, a strong scent. تيز خوشبو - تيز بدبو

ذفيف *f* haste, quickness, light. - زود جلدي سبک

ذقن *m*. the chin, the beard. زنخدان - تهوڑي

ذكا *zaka*, *m*. vivacity, acuteness of genius, penetration. - ذهانت - عقل - طبيعت كي تيزي عقلمندي

ذكا *zuka*, *m*. the sun. آفتاب

ذكر *m*. remembrance, memory, commemoration, mention, praise, fame, recital, relation, reciting the *Kuran*, repeating the names, attributes and praises of God. ياد كرنا زبان ميں

ذكر *zakar*, *m*. *membrum virile*, male, the masculine gender. مرد كا عضو تناسل - نر جو ضد ماده هے

ذكور (*pl*. of ذكر), males. بهت سے مرد

ذكوة *m*. a sacrifice, slaughter جانور كا بطرر شرع ذبح كرنا

ذكي *a*. acute, ingenious, nery, flaming. ذهين - تيز فهم - عقلمند

ذل *zull*, *m*. baseness, meanness. ذلت - خواري

ذل *zill*, *m*. gentleness, ease, obedience. نرمي - مطيع هونا

ذلاقت *f*. eloquence, fluency. تيز زبان - فصاحت

ذلق *m*. a prompt and ready or eloquent tongue, restlessness, excrement (of a bird.) تيز زباني - بے آرام هونا - پرند كا بيٹ كرنا

ذلول *a*. gentle, kind, obedient. - نرم - مطيع تابعدار

ذليق *a*. eloquent. تيز زبان

ذلک *dem. pro*. that. وه

ذليل *a*. abject, submissive, mean, contemptible, wretched, base, obedient, easy, soft. - خوار - بے عزت - گنهگار - نرم - آسان مطيع - تابعدار

ذم *m*. blame, reproach, accusation, detraction. هجو كرنا - برائي كرنا

ذم *a*. very thin and week. نهايت دبلا اور لاغر

ذمائم (*pl*. of ذميمه) crimes, misdeeds, base qualities. برائيان - بدياں - شرارتين

ذمت *f*. treaty, covenant, security, rank. عهد - پيمان - عهده - ضمانت

ذمه *m*. trust, charge, obligation, subjection, duty, service, fidelity, lineage, refuge, shelter. عهد - امان - زنهار - پناه

ذمي *m.* an infidel (*i. e.* person who is not a *Musalman*) subject to a *Muhammedan* government. كافر جزيه دينے والے مطيع اسلام

ذميم } ذميمه } *a.* blameable, culpable. بد اور خراب چيز - زشت

ذنب *m.* a tail, (in astronomy) the tail of the dragon, the descending node. - دم پونچھ - ذنب الفرس ايک ستاره کا نام

ذنب *m.* a crime, sin, fault. گناه - قصور

ذنوب (*pl.* of ذنب), sins, faults, crimes. جمع ذنب بمعني گناه کي

ذنوب *m.* a bucketful of water, a pail, a horse with a long tail. - پاني کا بهرا هوا ڈول ڈول - گهوڑا لمبي دم والا

ذو *zu*, *m* a lord, a master, (in *comp.*) possessed of or endowed with as *zu-l-jalal*, glorious, splendid. خداوند - صاحب

ذوات *pl.* of ذات جمع ذات کي

ذوابه *m.* a curl, ringlet, sidelock. سر کے آگے کے بال - گيسو

ذوائب (*pl.* of ذوابه) rings, curls, sidelocks. جمع ذوابه بمعني گيسو کے

ذوب *a.* melting, getting warm, becoming hot, intensity of heat. - پگهلنا - سخت هونا آفتاب کي گرمي کا

ذوجسدين *m.* the planet Mercury. مراد ستاره عطارد سے

ذو ذوابه } ذوذنابه } *m.* a comet (tailed). ايک ستارے کا نام هے جو کبهي کبهي بشکل جهاڑو کے نکلتا هے

ذوفنون *m.* a man knowing many arts, a skilled man, a handicraftsman, a learned man. ايک شخص جو کئي فن جانتا هو - جسکو کئي طرح کے علم آتے هوں

ذوق *m.* taste, delight, joy, pleasure, voluptuousness. مزه چکهنا - چکهنا - لذت و مزه (فارسي ميں) نشاط و خوشي سے بهي مستعمل هے

ذوالجلال *a.* glorious, splendid, respectable, (stands for God). - صاحب شوکت - صاحب عزت دبدبه والا - مراد خدا سے

ذوالالباب *a.* intelligent, keen, sharp, wise, intellectual. - صاحب مغز - صاحب عقل - تيز فهم عقلمند

ذوالحجه *m.* the name of the last month of the Mahomedan year. بارهوان مهينه قمري

ذوالفقار *f.* the name of *Ali's* sword. علي کي تلوار کا نام

ذوالقعد *m.* the eleventh month of the *Muhamedan* lunar year, consisting of thirty days گيارهوان مهينه قمري

ذوالقربى *m.* a kinsman. رشتهدار لوگ

ذوالقرنين *m.* lord of the two horns, (*i. e.* of the East and West), an epithet of Alexander the Great. لقب هے سکندر کا - اس لئے که وه دنيا کي دونوں سمتون يعني مشرق و مغرب تک پهونچا تها

ذوالنون *n.* (نون a fish), a title of Jonas, who remained in the maw of a fish for 7 days (according to the Muhamedans). مراد يونس سے هے

ذوالمنن *m.* the lord of favours, *i. e*, God. صاحب احسانوں کا يعني خداے تعالى

ذوناب *m.* a ravenous, animal (like a lion, a tiger, a wolf). کنايه هے جانور درنده سے

ذهاب *n.* departure, failure (of one's senses, etc). جانا - گذرنا اور چهوڑنا

ذهب *m.* gold, the yolk of an egg. - سونا - زر زردي (انڈےکي)

ذهل *m.* forgetting, leaving, carelessly abandoning. غافل هونا

ذهلت *f.* carelessness. غفلت

ذهن *m.* understanding, memory, genius, ability. فهميدگي - زيرکي - عقل

ذهن *zihn*, *m.* a river, a whirlpool, the bed of a river. دريا - بهنور - دريا کي ته

ذهول *m.* } ذهولت *f.* } oblivion, forgetting, carelessness, غفلت - فراموشي

ذهين *a.* sagacious, ingenious, sharp, intelligent. عقلمند - وه شخص جس کا ذهن تيز هو

ذي (*obj. case* of ذو *zu*), a lord, a master, (in *comp.*) possessed of, endowed with as ذي هرش *a.* sensible. خداوند - صاحب

ذياب (*pl.* of ذيب), wolves. جمع ذيب بمعني بهيڑے کي

ذيب *m.* a wolf. گرگ - بهيڑيا

ذي بال *m.* a man of position or rank, honourable, respectable. صاحب شان - صاحب عزت

ذي سلم *m.* the name of a place, سلم is a thorny tree. نام ايک مقام کا - سلم (ايک خاردار درخت)

ذيل *m.* the skirt of a garment, the train of a robe, the last, hinder, or supplementary part of anything, the sequel, that which follows or is annexed, as a list of particulars mentioned in a letter. دامن

ذي الحجه (see ذوالحجه)

ذي القعده (see ذوالقعده)

— ر —

ré or **ra**, called *rae muhamla*, and *rae gair mankula*, is the tenth letter in the Arabic, and twelfth in the Persian alphabets. Its sound is that of *r* as pronounced by the Scotch and Irish, that is, it is much more marked than the English *r*. It is interchangable with *lam*, as دجرا for دجلہ, the river Tigris, تروار for تلوار, a sword. In almanacs it is astronomical character for the moon and in dates it denotes the month ربیع الاول. In reckoning by ابجد it stands for 200.

رابض *m.* a commandant of a garrison. قلعدار

رابطہ *m.* conjunction, bond, connection لگاؤ - علاقہ

رابع *a.* the fourth. چوتھا

رابعہ *f.* the fourth thing (*fem.*), name of a pious woman who used to live in Bussorah and who was the fourth daughter of her father. چوتھي چيز مونث - نام ايک پارسا عورت کا جو بسرہ میں رھتي تھين - اور يہ اپنے باپ کی چوتھي لڑکي تھين اِس ليئہ رابعہ اُن کا نام ھوا

راتع *m.* a grazing animal. چرنے والا

راجع *a.* attentive, returning - رجوع ھونے والا - واپس ھونیوالا

راجل footman, one going on foot, a foot-soldier. پيادہ - پيدل چلنے والا

راجي *a.* hoping, asking, interceding, a client. اُميد وار

راح *m.* wine, enjoying satisfaction, also (*pl.* of راحت) the palm (of a hand), road, way. شراب - شاد ھونا - خوشي - اور جمع راحت کي - ھاتھہ کي ھتيلي - راہ

راحت *f.* quiet, repose, ease, tranquility, palm (of a hand). آرام - آسائش - ھاتھہ کي ھتيلي

راح ريحاني *n.* a kind of wine distilled from the flowers. ايک قسم کي شراب جو پھولوں سے بنائي جاتي ھے

راحل *a.* marching, going. کوچ کرنے والا

راحلہ *n.* a company travelling together for mutual security, a caravan, an animal who may be used both for riding and carrying loads. سواري کا جانور خواہ اُس پر سوار ھوں خواہ بوجھہ لادين - قافلہ

راد *a.* charitable, hospitable, brave. - سخي - بہادر

راد *m.* rejecting. رد کرنے والا

رادفہ *a* following, blowing of the horn (or trumpet) the second time (on judgment day). پيچھے آنے والي - پھونکنا صور کا دوسري دفعہ بروز قيامت

رادي *f.* charity, hospitality, valour, bravery, wisdom, intelligence. - سخاوت - جوانمردي - حکمت - شجاعت - عقلمندي

راز *m.* a secret, a mystery. بھيد - پوشيدہ بات

رازدان *m.* trusty, confident, faithful. بھيد کا جاننے والا

راز زمين means greenness and flowers. مراد سبزہ اور پھولوں سے

رازق *m.* sustainer, cherisher, affording sustenance, a title of the Deity. رزق دينے والا

رازي *f.* of or relating to Ray (name of a city). منسوب طرف رے کے جو ايک شھر کا نام ھے

رازيانج } *m.* aniseed (*Pimpinella anisum*).
رازيانہ } باديان - سونف

راسب *f.* settling at the bottom (as dregs). تہہ نشين - نيچے بيٹھہ جانے والا

راست مزہ *a.* of sweet taste. شيرين مزہ

راس المال *m.* the principal or capital stock. سرمايہ تجارت کا

راست *a.* right, true, good, just, sincere, right (opposite of left), straight, even, level, actually, certainly. - درست - سچ - ٹھيک دھنا ھاتھہ

راستباز *a.* faithful, to be depended on, (*lit.* one who plays or acts fair.) سچا

راستي *f.* truth, fidelity, justice, loyalty, rectitude. درستي - سچائي

راسخ *a.* firm, durable, constant, rooted, sincere, learned. استوار - مضبوط

راسو *m.* a mongoose (*Viverramungo*) نيولا مشھور جانور کا نام

راسيہ *a.* firm, durable, constant - استوار مضبوط

راسيات (*pl.* of راسيہ.) جمع راسيہ کي ھے

راشي *m.* a heap, a quantity, a heap of corn. تودہ اور انبار غلہ کا

راشد *a.* pious, faithful, orthodox, following the right path. ھدايت يافتہ - راہ راست پانيوالا

راشي *m.* one who bribes. رشوت دينے والا

راصد *m.* an astrologer. مراد نجومي سے - منجم

راعي *m.* a shepherd, a manager, a ruler, a governor, a protector. نگھبان - والي - چرواھا

راغ *m.* a forest, a jungle, a declivity, the lower part of a mountain, the top of a hill, a pleasant verdant meadow, a villa, a summer-house. جنگل - پھاڑ کا دامن - سبزہ زار

راغب *a.* desirous, curious, willing, wishing. رغبت کرنے والا

رافت *f.* kindness, favour. مهرباني

رافضي } رافضه } *m.* a heretic, particularly a *Shi'a.*

رافع *a.* elevating, repelling, carrying off, a plaintiff, a demander of justice. بلند کرنے والا اٹھانے والا - داد خواه

راقف *a.* shining, flashing. چمکنے والا

راقب *m.* a rival, an observer. منتظر - انتظار کرنے والا

راقم *m.* one who writes, a writer. لکھنے والا

راقي *m.* a magician, an enchanter - منتر باز جادوگر

راقص *m.* a dancer, name of a star. - ناچنے والا نام ایک ستاره کا

راکب *m.* a rider, *adj.* mounted (on a horse, ship, &c.) سوار

راکع *m.* one bowing the head in humility and reverence, as in prayer. خدا کے سامنے جھکنے والا - رکوع کرنے والا

رام *a.* obedient, *m.* a domestic, one who receives orders. تابعدار - فرمانبردار - هلاملا

رامح *m.* a lancer, a cavalry soldier, armed with a lance. نیزه دار - نیزه مارنے والا

رامش *m.* harmony, modulation, hilarity, mirth, rest, ease. نغمه - سرود - راگ

رامشگر } رامشي } *m.* a musician, a singer. - مطرب گویا

راندن *inf.* to expel, to drive out, to drive off or away. ھ نکالنا - چلانا

رانین *n.* drawers, trousers. ازار - پاجامه

روند *m.* rhubarb. ایک دیو کا نام (ریوند)

راوغ *rawig, m.* a deceiver, treacherous, cunning, hypocrite. فریبي - مکار - دغاباز

راوي *m.* an historian, the author of a fable, romance, fiction, etc., a narrator. روایت کرنے والا - کهاني کهنے والا

راهب *m.* a monk, a Christian priest. - زاهد گوشه نشین - ترساؤنکا پادري

راه برداشتن *id.* to undertake a journey, to travel. سفر کرنا

راهبر *m.* a guide, conductor. راه بتلانے والا

راه بریدن *id.* to travel. سفر کرنا

راه پیش گذشتن *id.* to guide to lead. رهنمائي کرنا

راه دادن *id.* to permit, to allow, to accept. اجازت دینا - منظور کرنا

راهدار *m.* an officer employed in collecting land duties, also a road patrole, it also means a thief. راه کا نگهبان - سڑک کا چوکیدار - چور

راه رخت *f.* the right road. راه درست

راه عدم کوپ شدن *id.* to die. مرجانا

راه کوه رفتن *id.* to copulate, coition, sodomy, مجازاً اغلام کرنا

راهن *rahin, m.* a mortgagor, one who borrows on a pledge or pawn. کسي چیز کا گروه رکهنے والا

راه نما *m* a conductor, a guide. راه دیکهانے والا

راهوار *a* ambling, a pace (in horsemanship), a gait generally taught to *tangans.* رفتار گهوڑے کي

راهي *m* a traveller, wayfarer. راه - مسافر چلنے والا

رای *f.* wisdom, opinion, thought, counsel. عقل - تجویز - خیال - دانائي

رایات *pl.* of رایت جمع رایت کي

رایت *f.* a standard, a banner, a lance. - نیزه علم لشکر کا

رائج *a.* customary, current, usual, common. جاري - جو شے پهیلي هوئي هو

رائحه *m.* fragrance, perfume, an odour. - بو خوشبو

رای زن *a.* wise, intelligent. عقلمند - دان - هات

رائش *m.* one who bribes, a broker. رشوت دینے والا - دلال

رائض *m.* a horse-breaker, a jockey, a good rider. چابک سوار

رائق *f.* clear running water (of a stream). پاني جاري اوز صاف

رائگان *a.* gratis, gratuitous, in vain. - مفت بے عوض - ضائع

رب *m.* a lord, protector, preserver, a name of God. خدا - پالنے والا - خداوند - پروردگار تعالی جل شانه

رب *rubb* or *rub, m.* juice, rob, syrup. انگور اور انار اور سیب وغیره کا پاني نچوڑا هوا اور آگ پر پکایا هوا

ربا (in *comp.*) ravishing, stealing. لیجانے والا

ربا *riba, a.* increasing, *m.* interest (on money). بڑهنا - سود

رباب *n.* a kind of violin, a rebeck, white cloud, name of a beautiful woman with whom Raad had fallen in love, name of a place in Mecca, name of a mountain in Medina. نام ایک مشهور باجه کا - ابر شفید - نام ایک خوبصورت عورت کا جس پر رعد عاشق تها - نام ایک موضع کا مکه میں - مدینه میں ایک پهاڑ کا نام

رباط *n*. an hotel, an inn, a caravanserai. سراے - مسافر خانة

رباط *ribat*, (*pl*. رباطات), a rope, a ligament. وة چيز جس سے دوسري چيز کو خوب کس کے مضبوط باندهين

رباعي *f*. a quatrain, a stanza of four lines. وة چار مصرع جن کا پهلا اور دوسرا اور چوتها مصرعة هم قافية هو

رباعي *rubai*, *m*. a camel seven years old, a horse, a bullock or a goat four years old. اونٹ سات برس کا - گهوڑا اور بيل اور بکرا چار برس کا

رباني *a*. of or relating to رب (God), divine, godly. منسوب طرف رب کے

ربانيدن *inf*. to seize, to carry off. اچک کرلينا

ربح *m*. interest, profit (in a trade), gain. نفع - سود

ربط *m*. connection, friendship, practice, habit, use, binding. لگاؤ - علاقة

ربع *m*. fourth part, a quarter. چوتها حصة کسي چيز کا

ربع *m*. a house, an inn, the storey (of a house), stage.

ربع شداد *m*. the garden of Aram made by Shedad. باغ ارم سے مراد هے

ربع مسکون *m*. the fourth part of the world, which is believed to be peopled, while the remaining three quarters are supposed to be inhabitable. زمين کا چوتها حصة جو آباد هے

ربنا *rabbna*, *int*. Oh ! Our Lord ! اے پرور دگار همارے

ربودن *inf*. (*r*. ربا), to rob, to carry off. اُچک لينا - جلدي سے بة زور کسي سے کسي چيز کا لے بهاگنا

ربوة *m*. a heap, a mound, the holy city. تودة - اُونچي زمين - ٹيلا - بيت المقدس سے بهي مراد هے

ربيب *m*. a step-son by a former husband. وة لڑکا جو عورت اپنے پهلے شوهر کے نطفة سے ليکر دوسرے شوهر کے گهر ميں آوے - پس اس دوسرے شوهر کا وة لڑکا ربيب کهلائيگا

ربيبة *f*. step-daughter, daughter by a former husband. وة لڑکي جو پهلے خاوند کي هو اور اُسکي مان اُسے اپنے ساتهة دوسرے شوهر کے گهر ميں لے آوے - شوهر ثاني کي ية ربيبة هے

ربيع *f*. the spring, the spring harvest, or grain sown in October and November and cut in the spring months (March-April) as peas, wheat, etc. موسم بهار اور ية هند ميں چيت بيساکهة اور دوسري ولايتون ميں بيساکهة جيٹهة هے

ربيع الاول *n*. the third Muhammedan month تيسرا مهينة قمري

ربيع الاخر } ربيع الثاني } *m*. the fourth month of the Muhammedan year. چوتها مهينة قمري

رتب *n*. the open space between the first and the middle finger. وة کشادگي جو کلمة کي اُنگلي اور بيچ کي اُنگلي کے درميان هوتي هے

رتبة *m*. rank, dignity, degree, stair, step درجة - مرتبة

رتق tying, fastening. باندهنا

رث *a*. old, ancient, evil state. - پرانا - کهنة بد حالي

رثاث (*pl*. of رث) جمع رث کي

رجا *f*. hope, prayer, supplication, intercession, confidence, trust, fearing. - اُميد بهروسا - اُميد رکهنا - ترسيدن - ڈرنا

رجال *m*. (*pl*. of رجل) men. جمع رجل بمعني مرد کي

رجالا *a*. mean, vile, base. کمينة

رجب *m*. the seventh month of the *Muhammedan* year, it is also called رجب المرجب *rajjabulmurajjab*, or the sacred رجب (from رجبا to fear, to reverence) because in the time of paganism it was unlawful to go to war in that month. مسلمانون کا ساتوان مهينة

رجز a species of metre or verse. نام ايک بحر کا اُنيس بحرون شعر سے وزن اُس کا چهة مرتبة مستفعلن هے

رجع returning, coming back. - لوٹنا - پهرنا واپس آنا

رجعت *f*. a return, returning to earth after death, the word in its primitive sense means restitution, in law, it signifies a husband returning to or receiving back his wife after divorce, and restoring her to her former situation. بازگشت - اور بازگشت يعني رجوع شوهر کے طرف زوجة طلاق دي هوئي کے مدت عدة اندر

رجف } رجفة } *m*. earthquake. زلزلة - بهونچال

رجل *m*. the foot. پا - پانون

رجل *m*. a man (*pl*. رجال). مرد جو حد بلوغ کو پهونچ گيا هو

رجل *rajil*, long hanging hair. سر کے لمبے بال لٹکے هوئے

رجلة *m*. purslain (*portulaca oleracea*). خرفة کا ساگ .

رجم *m.* detestation, repulse, dejection, stoning to death, abusing, the punishment for adultery, according to the Muhamedan law (founded on the Jewish law). - پتھر مارنا - سنگ سار کرنا - نفرین کرنا - گالي دينا

رجيع *f.* anything stopped, stool, excrement, dung, cud. جو چيز کے رد کي جاوے - آدمي کا گو - گوبر - جگالي

رجيم *a.* stoned, driven, an epithet of Satan. سنگ سار کيا گيا - هنکايا گيا - شيطان کي صفت

رحا / رحي *m.* and *f.* a mill, a flour-mill. - آسيا چکي

رحال (*pl.* of رحل) جمع رحل کي

رحاج *a.* broad, open, wide. فراخ - کشاده

رحل *rahl, m.* departing, travelling, a mansion, a resting place, a pack-saddle, a dorser, *met.* a kind of desk or stool on which the *Kuran* is placed. - مسکن - منزل - اسباب اونت کا پالان - مجازاً لکڑي کے دو تختے جو شکل مخصوص سے بنائے جاتے هيں اور جن پر قران شريف رکھکر تلاوت کرتے هيں

رحلت *f.* marching (particularly to the other world), death. کوچ - کوچ کرنا

رحم *m.* mercy, kindness, pity. - مهرباني کرنا بخشش کرنا

رحم *rihm,* the womb. زهدان يعني بچه دان

رحماء (*pl.* of رحيم) kind, merciful. جمع رحيم کي - مهربان

رحمان *a.* merciful, forgiving (an epithet of God.) مشتق رحمت سے بخشنے والا

رحمت *f.* pity, mercy, kindness. - بخشش مهرباني

رحيض *f.* anything washed or cleansed. دھوئي هوئي اور صاف چيز خواه کپڑا خواه هاتھه وغيره

رحيق *f.* the best wine, pure wine, the real stuff. شراب خالص اور صاف

رحيل *n.* a journey, a march, departure. کوچ

رخ *m.* the cheek, the castle at chess, face, point, side, quarter. چهره - منهه

رخا softness, mildness, laziness, idleness, luxury. نرمي - سستي - فراخي عيش کي

رخام *m.* alabaster, marble. - پتھر سفيد اور نرم سنگ مرمر

رخت *m.* goods and chattels, property, apparatus, furniture, apparel, wisdom, sense. اسباب - سامان - جامه - لباس - خوش - عقل

رخت انگندن *id.* to settle in one place, to dwell, to reside. مقيم هونا - کسي جگهه بود باهش اختيار کرنا

رخت بودن *id.* to travel. سفر کرنا

رخت بستن *id.* to march, to depart. کوچ کرنا

رخت کش *m.* a traveller. مسافر

رخسار / رخساره *m.* the cheek, the air, mein, complexion. گال - کله

رخش *n.* lightning, splendour, effulgence, a roon coloured horse, the name of Rustam's famous horse.

رخسان *a.* shining, resplendent, bright. چمکتا هوا - روشن

رخش عنان تاب *m.* a fleet horse. نهايت چالاک گھوڑا جس کو چابک کي ضرورت نهو!

رخش بيجاده نهل *m.* a rose tree. گلاب کا درخت

رخشيدن *inf.* to flash, to glitter, to shine. چمکنا

رخص *a.* soft, delicate. نرم - نازک

رخصت *f.* leave, license, conge, dismission, discharge, permission, cheapness. - ارزاني اجازت - چھٹي

رخ کسي بردن *id* to disgrace, to dishonour. کسي کي آبرو ريزي کرنا

رخم *m.* thick milk, kindness, mildness, friendship, name of a place between Syria and Najad, name of the valley of a mountain in Mecca, name of species of eagle, shaped like a vulture and of the size of a raven. گاڑھا دودھه - مهرباني - نرمي - دوستي نام ايک مقام کا درميان شام اور نجد کے - نام ايک پهاڑ کے دره کا مکه معظمه مين - نام ايک پرند مرده خور کا

رخنه *m.* a fracture, a hole, a notch, a cleft, perforation, flaw, defect, dispute. سوراخ ديوار کا - مطلق سوراخ - اور کنايه عيب اور فساد

رخو *m.* mildness, idleness. نرمي - سست هونا

رخيدن *inf.* to pant, to be out of breath, to breathe quickly. هانپنا - جلدي جلدي سانس لينا - بوجهه - دوڑنے وغيره سے سانس کا پھولنا

رخيص *a.* cheap, a fancy dress. - ارزان - سستا جامه نازک

رخيم *f.* soft or mild words, *m.* an old man soft of words, a pious man, a saint. سخن نرم اور سليس - آدمي ضعيف اور نرم آواز - کنايه مرد زاهد سے

رد *m.* rejection, resistance, refutation, (*met*). vomiting, the layer of a wall. - پھير دينا پھير لينا - واپس لانا - نه ماننا - ردهٔ ديوار

رسا *a.* arriving, quick of apprehension, skilful, capable, clever. پهونچنے والا

رسالت *f.* mission, appostleship. - پیام پهونچانا پیامبري

رساله *m.* mission, sending a letter, etc., a book, an essay, a small tract. چهوٹي كتاب نامه

رسام *m.* an artist, a delineator, (in *Sikandar-nama*) name of a blacksmith who had made a mirror for Alexander. - مصور - نقاش سكندر نامه میں ایک لوهار کا نام جس نے سکندر کے لیئے بڑي تدبیر سے ایک آئینه بنایا تها

رسان (in *comp.*) conveying, bearing. پهونچا دے - پهونچنے والا

رسانیدن *inf.* to convey, to bear, to carry. پهونچانا -

رسائي *f.* access, entrance, wisdom, quickness, apprehension, cleverness, skill. پهنچ

رسائل (*pl.* of رساله), books, messages, essays. جمع رساله كي - بهت سے مكتوب - بهت سے رسالے

رست *a.* free, secure, firm, steady. - رها كيا هوا آزاد

رست *rust, a.* growth, increase, *a.* courageous, hearty, bold. اُگا - درخت كا اُگنا

رستا خیز
رستخیز } *m.* the judgment day. قیامت

رستگار *a.* free, safe, liberated, virtuous, generous. خلاصي پانے والا

رستم *m.* name of a celebrated warrior, hence this term is applied to a hero in general, he was one of the twelve champions of Persia. His combat with *Asfandiyar* is famous in the East, it lasted two days, and as the brazen body of his enemy was proof against his arrows, he at last killed him with his mace. He was son of *Zal*, who was son of *Sam*, son of *Nariman*. He was general of *Kaikaus* and considered by the Persians descended from *Mamun*, son of Benjamin, son of Jacob. He overcame Afrasiyab, king of Turkistan, who was joined by the Indians and Tartars, nevertheless he fell into disgrace with his master, principally on account of his rejecting the religion of *Zoroaster*, and and it was upon this occasion he killed *Kaikaus's* son *Asfandiyar*, above mentioned. Rustam himself is said to have been killed by the wound of an arrow in an engagement with *Bahman* (or *Artaxerxes Longimanus*), son of *Asfandiyar*, but, according to *Shahnama*, he was treacherously murdered by his own bastard brother. نام مشهور پهلوان كا

ردا *rida, f.* a cloak or mantle (worn by dervises), an upper garment of fine linen unsewed or sewed if made of other (cloth), reaching to the middle of the leg, any kind of cloak put on when going out. اوڑهني كي چادر

رداپوش *m.* a saint, a mendicant. كنايه هے زاهد اور فقير سے

ردف *m.* a buttock, to come behind, to follow, riding behind another on the same horse. - ردف يعني چوتڑ - كسي كے پيچهے پيچهے آنا سوار كے پيچهے ايک گهوڑے پر بيٹهنا

ردكردن *id.* to vomit. قے كرنا

ردوبدل *f.* argument, discussion, altercation. ٹیڑهي باتیں - خراب باتیں جو بحث اور لڑائي كے وقت زبان پر آتي هیں

رده *m.* a row, a layer or line. صف - قطار

ردي *a.* rejected, *m.* rejected things. - بگڑا هوا ناقص - زبون

رديف *f.* a man riding behind another on the same horse, the rhyming word of a *ghazal* or *qasida*. وه شخص جو ايک گهوڑے پر كسي سوار كے پيچهے سوار هو - وه لفظ جو مكرر مصرعوں كے آخر میں آوے

رديف سرطان *m.* a lion, the sign or constellation Leo (in astronomy). برج اسد

رذالت *f.* meanness, worthlessness. - نالايقي كمينه پن

رذاله *n.* worst, unworthy, mean, vile. - نالائق كمينه

رذائل (*pl.* of رذيلت) جمع رذيلت كي

رذيل *a.* mean, base, low, vile. نالائق - كمينه

رذيلت *f.* meanness, baseness, worthlessness, نالائقي - كمينه پن

رذيله *f.* meanness, baseness, worthlessness, a woman who is base or vile. نالايقي - كمينه پن - عورت نالائق اور كمیني

رز *f.* a vineyard, grape. درخت انگور كا - انگور

رزاق an epithet of the Deity, the great provider of daily bread. - بڑا رزق دينے والا مراد خدا تعالى سے

رزايا (*pl.* of رزيه) troubles, misfortunes. جمع رزيه بمعني مصيبت كي

رزق *m.* food, wealth, allowance, support, subsistence, daily bread. - كهانا - خوراک روزي

رزم *m.* war, battle, combat. جنگ - لڑائي

رزمگاه *f.* the battle-field. ميدان جنگ

رزمه *m.* a large bundle of clothes. كپڑوں كي بڑي گٹهري

رزيدن *inf.* to colour, to paint. رنگنا

رس (in *comp.*) arriving, happening, touching at. پهونچ - پهونچنے والا

رستم يكدست n. name of a wrestler who was born one-handed. نام ايک پهلوان کا جو ماں کے پيٹ سے ايک هاتهه کا پيدا هوا تها

رستن (r. رو) inf. to escape, to be saved. چهوٹنا

رستن rustan, inf. to grow, to flourish. اُگنا

رستني f. a vegetable. گهاس پات درخت وغيره جو زمين سے اُگے

رسته m. a road, path, street, a row or line of warehouses, partic. saved, escaped. صف - قطار - بازار کي دوکانين جو دوز تک برابر هوں مجازاً راه و بازار - اور بمعني آزاد اور رهائي پائے هوئے کے

رسته rusta, m. a market-town, partic. grown, sprung up vegetation, strong, firm. اُگي هوئي چيز - مضبوط

رستي rusti, f. comfort, ease, leisure, gift, sustenance, allowance, daily food. - راحت فراغت - نعمت - رزق - روزي

رسد f. a store of grain laid in for an army, etc., grain, provision. حصه - غله کا قافله

رسغ f. a wrist. کلائي (هاتهه کي)

رسل rusul, m. (pl. of رسول), prophets, apostles. جمع رسول کي

رسم f. way, custom, law, model, plan. - قاعده قانون - دنيا کي ريت مجازاً وظيفه و مشاهره

رسميات (pl. of رسمي), usages, customs, etc. جمع رسمي کي - ريت والي چيزين - دستور کی باتين

رسن m. string, cord, rope. رسي

رسن باز m. a rope-dancer. بازيگر - نٹ

رسن درگردن آفتاب کردن met. the hair and face of a mistress. مراد زلف و چهره معشوق سے

رسوا a. disgraced, infamous, ignominous. ذليل - خوار

رسوائي f. ignominy, infamy. ذلت - خواري

رسوب f. dregs, sediment. درد (فارسي) - تلچهٹ (هندي)

رسوخ m. } firmness, constancy, steadiness, steady, friendship.
رسوخيت f. } مضبوطي - محکمي

رسول m. a messenger, an apostle, the prophet *Muhammad*. قاصد - پيام ليجانے والا - پيغمبر جو صاحب کتاب هو

رسوم (pl. of رسم), fees, duties, taxes, customs. جمع هے رسم کي - محصول - دستورات

رسيدن inf. to arrive, to reach, to ripe (fruit). پهونچنا - ميوه کا پکنا

رسيده a. arrived, at hand, used (in *comp*) بمعني پخته

رسيله m. a letter, essay, book. مکتوب - خط

رش a. dripping, flowing of tears, falling of drops, drizzling. ٹپکنا پاني کا - آنسون کا ٹپکنا آنکهون سے - منهه کي پهوهار پڑنا

رشا n. a rope, cord. رسي

رشادت f. instruction, teaching, walking on a right path, acting lawfully. - هدايت راه راست پر چلنا

رشاش } n. falling of blood or water by
رشاشه } drops. پاني يا خون جو کسي جگهه پر ٹپکے

رشتن inf. to spin, to wrap round. کاتنا

رشته m. string, line, series, relationship, connection, kin, macaroni, vermicelli, the guinea-worm. دهاگا - تاگا - سويان - ايک بيماري کا نام جس ميں پاؤں ميں زخم هوجاتا هے اور سوت کے مانند تار نکلتا هے - نارو (هندي)

رشته بانگشت بستن id. to remember, to call to memory. کنايه هے ياد رکهنے سے

رشته پيچان (met.) a coiled snake. کنايه لپٹے هوئے سانپ سے

رشته دراز دادن id. to give time or leisure. مهلت اور فرصت ديلا

رشته زدن id. to measure. ناپنا

رشحه a. dripping, drop, sweat, juice. جسم سے پسينه کا ٹپکنا

رشد m. rectitude, being in the right way (spiritually). هدايت - نيک راه پر چلنا

رشف a. sipping, sucking, n. a drop. چوسنا

رشک m. malice, spite, envy, emulation, jealousy. حسد - ڈاه

رشکين a. envious, spiteful. حسد کرنے والا

رشمير m. a white ant. لکڑي کهانے والا کيڑا - ديمک (هندي)

رشوت f. a bribe. وه چيز جو کسي کو دين تاکه وه شخص ناحق کي کارسازي کرے

رشيد sagacious, intelligent, wise, m. a guide, a conductor, an epithet of the Deity, name of Khaqani's son راه راست دکهانے والا - هدايت يافته - خدا تعالی کا نام - خاقاني کے بيٹے کا نام

رصاص m. tin, lead. قلعي - رانگ

رصد درکار بستن id. to end a thing well, to make the end of a thing excellently well. انجام کو خوبي سے پهونچانا

رضا f. consent, acquiescence, permission, leave, resigning to the will of God, a title of Moses. خوشنودي - راضي رهنا بنده کا خدا کي مرضي پر خواه راحت هو خواه رنج - موسی کا لقب

رضاع } f. act of sucking, infancy, بچپنا
رضاعت } دوده پينا - شير خوار کي

رضوان *m.* good pleasure, consent, willing, name of an angel who is a porter of Paradise. خوشنودي - رضامندي - نام فرشتہ کا جو بہشت کا دربان ھے

رضوي / رضويہ } *a.* of or relating to Imam Ali Musa Raza. منسوب طرف حضرت إمام علي موسى رضا کے

رضيہ *f.* got consented, agreed. - راضي شدہ راضي کي گئي

رطب *rutab*, *m.* (*pl.* of ارطاب), ripe dates. خرما تر و تازہ

رطب *ratb*, *a.* moist, green, fresh, tender. وہ چيز جو اپني رطوبت اصلي سے تر ھو

رطب اللسان *a.* grateful, thankful, (*lit.* moist-tongued). تو زبان مراد شکر گذار سے

رطل *m.* a pound weight consisting of twelve ounces, a cup of wine. آدہ سير کا وزن - پيالہ شراب کا

رطل گران *m.* a large cup of wine, a large measure. بڑا پيالہ شراب کا - بڑا پيمانہ

رطوبت *f.* humidity, moisture, freshness. تري - نمي

رعا *ri'a*, green grass, fodder, a drove of oxen, a flock of sheep, rulers, governors, cowherds. هري گهاس - بيل اور بکري کا گلہ - حاکم لوگ - چرواهے

رعا *a.* grazing, to cause to graze. چرنا - چرانا

رعات (*pl.* of راعي), shepherds, protectors, watchmen, guards, *met.* kings, rulers. چرواهے - نگہبان لوگ مجازاً بادشاهون اور حاکموں کے معني ميں آتا ھے

رعاث *n.* an embroidered cloth worn as an ornament over the sides of a turban, a comforter. گوشوارہ - گلوبند

رعاف *m.* to bleed at the nose. وہ خون جو دماغ سے ناک کي راہ آوے - نکسير

رعايا (*pl.* of رعيت), subjects, tenants جمع رعيت کي

رعايت *f.* observation, respect, honour, kindness, favour, guarding, protecting, paying attention, remission, indulgence. کسي چيز کي نگاهداشت کرنا - لحاظ کرنا - طرفداري کرنا

رعب *m.* fear, terrifying, trembling with fear. ڈر - خوف

رعد *m.* thunder, fulmination, name of Rabab's lover. آواز ابر کي - عاشق رباب کا نام

رعشہ *m.* the shaking palsy. کپکپي - ايک قسم کي بيماري جس سے هاتهہ اور دوسرے عضا بغير قصد اور ارادہ کے لرزتے هيں

رعنا *a.* moving gracefully, beautiful, lovely, graceful, delicate, proud. - ناز و انداز بناؤ سنگهار - زيبا - خوشنما - چالاک - صاحب غرور

رعنائي *f.* graceful, gait, beauty, loveliness, grace. خود آرائي - زيبائي

رعونت *f.* ignorance, idleness, rebellion, pride, ornament, beauty, elegance. - ناداني - سستي سرکشي - غرور - خود آرائي - زينت

رعي *f.* grazing, causing to graze, watchfulness. چرنا - چرانا - نگہباني

رعي *f.* green grass used as fodder for the animals. هري گهاس چرپاؤں کے کهانے کے قابل

رعويت *f.* pride, haughtiness. - غرور - گهمنڈ شيخي

رغام *f.* earth mixed with sand خاک بالو ملي هوئي

رغائب (*pl.* of رغيبہ) desirable things, lovely things. مرغوب چيز

رغاب *n.* soft earth. نرم زمين

رغيب *m.* / رغبت *f.* } strong desire, avidity, wish, curiosity, esteem, affection, pleasure. خواهش کرنا - لالچ کرنا - اندازہ سے زيادہ اور بہت کهانا

رغد luxury, gift, enjoyment, pleasure, delight. عيش - نعمت - خوشي

رغم *m.* looking down, shame, reproach, repugnance, abhorrence, contempt. خاک آلودہ هونا - مکروہ رکهنا - ذليل و خوار هونا

رغو *m.* cough, foam, froth. کف - پهين - جهاگ

رغيف *f.* a small cake. چهوٹي موٹي روٹي - ٹکيا

رف *m.* shining, glittering, eating much, kissing (a woman) with tips of the lips, sucking (the lips) when kissing, sucking milk (a colt), a flock of sheep, large camels, defending, preserving, favouring, serving, honouring, swelling with moisture (herbage), winking or twinkling with the eye, moving tremulously, sewing any garment in order to lengthen it. بہت کهانا - عورت کے هونٹهوں کا بوسہ لينا - کسي کے ساتهہ نيکي کرنا - کسي چيز کے رنگ کا چمکنا - چوسنا - گاے بکري کا گلہ - بڑے اونٹ

رفات *a.* broken, shattered, torn to pieces. ٹوٹا هوا - ريزہ ريزہ

رفاق (*pl.* of رفيق), friends, companions, associates, etc., جمع رفيق کي - دوست - آشنا لوگ

رفاہ / رفاهت / رفاهيت } *f.* content, affluence, enjoyment of life, repose, quiet, tranquillity. تن آساني - فراخي عيش کي

رفت (in *comp.*) going, motion. گيا - رفتہ چال

رفتار *f.* gait, pace, walk.

رفت گذشت *phr.* past and gone. گيا - گذرا

رفتن *inf.* to depart, to go away, (*met.*) to die. جانا - چلنا - مجازاً مرنا

رفتن *ruftan*, *inf.* to sweep, to brush. جھاڑو دينا - بہارنا

رفرف *a.* fluttering, flapping (of bird's wings); a niche in a wall, green cloth, a pillow, a tent, name of the place occupied by Israfil, name of a mare on whom *Muhammad* had ridden on the eve of his ascension to heaven. بازو پهٹ پهٹانا پرندہ کے واسطے نيچے اترنے کے - عمارت - کا طاق - جامۂ سبزہ - تکيۂ - خيمہ - نام مقام اسرافيل عليہ السلام کا - نام مرکب جس پر محمد شب معراج سوار ہوئے تھے

رفراف *m.* an ostrich. شتر مرغ

رفس *a.* kicking, thumping. ٹھوکر مارنا

رفض *m.* schism, heresy. abandoning, (particularly one's religion). چھوڑنا - ترک کرنا

رفع *m.* elevation, promotion, ascending, finishing, completing, settling, deciding, repelling. بلند کرنا - آٹھانا - کسي کلمہ کو حرکت پيش کي دينا - غلہ کا اٹھانا - موقوف کرنا - برطرفي

رفعت *f.* elevation, promotion, dignity, eminence, nobility. بلندي مرتبہ کي - بلند قدر ہونا

رفق *m.* benevolence, kindness, courtesy. نرمي - مهرباني

رفقا (*pl.* of رفيق). جمع رفيق کي

رفو *m.* darning, a darn. سوت وغيرہ سے کپڑے کا جوڑنا

رفيع *a.* high, sublime, elevated, exalted. بلند مرتبہ - بلند آواز - شريف

رفيف *a.* shining, a soft cloth, the Daurian lily (*Lilium dauricum*). چمکنا - جامۂ نرم

رفيق *m.* a friend, ally, associate, companion, (esp. in journey). ساتھي - همسفر - دوست

رق *f.* slavery, bondage, devotion. بندگي غلامي

رق *raq. m.* parchment, vellum. هرن کي جهلي جس پر لکھتے هيں

رقاب (*pl.* of رقبہ), necks, slaves. جمع رقبہ بمعني گردن کي - غلامان

رقابت *f.* expectation, watchfulness, rivalry. انتظار - نگهباني - رقيب هونا

رقاد *f.* sleep, to go to sleep. نيند - سو رهنا

رقاص *m.* a dancer, a jumper, the balance wheel of a watch. ناچنے والا

رقاع (*pl.* of رقعہ), notes, etc., also a species of handwriting. جمع رقعہ بمعني خط وغيرہ کي

رقائم (*pl.* of رقيمہ), letter, notes. جمع رقيمہ بمعني خط کي

رقبا (*pl.* of رقيب), watchmen, guard, protectors. جمع رقيب کي بمعني نگهبان کي

رقبہ *m.* the neck, a slave purchased with money. گردن - بندہ غلام

رقبہ *raqba*, *m.* inclosure, esplanade, environs. وہ زمين جو ندي کنارے هو - اب مطلق زمين گانوں کے متعلق کو کہتے هيں

رقت *f.* softness, fineness, minuteness (*met.*) weeping, love, affection. نرمي - ملائميت - باريکي - پتلا پن - مجازاً رونے - الفت اور محبت کے مستعمل هے

رقص *a.* dancing, skipping about, ambling, capering. ناچنا اور کبهي مراد سير سے

رقص حار پارہ
رقص رداني
رقص کجکلاہ
} *n.* three kinds of dancing. تينوں قسم هيں ناچ کي

رقطا *n.* every thing with white and black spots (of a feminine gender). هر چيز مونث جس پر سياہ اور سفيد نقطے هوں

رقعہ *m.* a bit, a piece, a note; epistle, card. پيوند - چتهڑا - خط - چٹهي

رقم *f.* writing, handwriting, character, a mode of arithmetical notation, chiefly taken from the initials of the Arabic words denoting the numbers, arithmetic, manner, kind method, sort, a royal edict. لکهنا - مهر کرنا - خط - لکها هوا - حرفوں پر نقطہ لگانا

رقود *a.* sleeping, dreaming, (also *pl.* of راقد), sleepers. سونا - خواب کرنا - (جمع راقد کي) سونے والے

رقوم (*pl.* of رقم). جمع رقم کي

رقوب *m.* expecting, watching, contemplating the stars, waiting. انتظار ديکهنا - انتظاري

رقيب *m.* a rival, an enemy, one who watches, a guardian. پاسبان - نگهبان - اور وہ دو شخص جو ايک معشوق پر عاشق هوں

رقيبان راز *m.* the prophets and the apostles. کنايۂ انبيا و اوليا سے

رقيبان شب *m.* guards, watchmen. چوکيدار - پاسبان

رقيت *f.* obedience, slavery. بندگي - غلامي

رقيق *a.* subtile, minute, thin, fine. پتلا - باريک

رقيمہ *m.* an apistle, note, letter. خط - لکهي هوئي شے

رقيہ *f.* name of the daughter of Muhammad. محمد کے ايک دختر کا نام

رکاب *m.* camels used for riding, *f.* a stirrup. سواري کے اونت - حلقه لوهے کا جو گهوڑے کے زين پر باندهتے هيں اور بوقت سواري کے پاون اُس ميں رهتے هيں

رکاب *m.* a long octangular cup, a dish, a plate. لمبا پياله هشت پهلو - چهوٹي کشتي

رکابدار *m.* a keeper of the dishes, a groom. وه شخص جو رکاب پکڑے اپنے آقا کو گهوڑے پر سوار کرائے - وه شخص جو رنگ برنگ کے کهانے پکائے

رکاز *m.* valuable fossils or mines, treasures buried in the earth. According to Gladwin, there are three legal terms which particularly belong to mines and buried treasures, and which are employed for the use of distinction, معدن *ma'dan*, the place in which the ore or metal is naturally produced, کنز *kanz*, treasure, or the property buried in the ground, and رکاز *rikaz*, applied equally to either-to معدن literally, and to کنز metaphorically. In all parts of Asia it is common practice to bury treasure, treasures are hidden in the ground on the commencement of a war or other troubles, and it frequently happens that the depositors perishing, the treasure remains concealed, perhaps, for many years, till it be discovered by accident, and at a time when no legal claimants are to be found. خزانه جو زمين ميں گڑا هو -

رکاکت *f.* idleness, slothfulness, decrepitude, minuteness, disgrace, dishonour. - سستي ضعيفي - باريکي - اور بمعني بيعزتي کے بهي هے

رکبه *m.* a knee. گهٹنه - زانو

رکض *a.* striking with the heel, spurring, a sort of spur, etc., for urging on a horse, to spur. گهوڑے کو سواري ميں ايڑ لگانا

رکن *m.* a relative, a pillar, a prop, aid, support, a grandee, the feet of a verse. - خويش قريب - جانب قوي اور جزو اعظم هر شے کا - قوت ستون - کهمبا

رکن حطيم
رکن يماني } *n.* name of the two pillars of Kaaba. کعبه کے دو رکنوں کا نام

رکعت *f.* a genuflexion, gesticulations, etc., performed when reading the Kuran. قران پڑهتے اُٹهنا - بيٹهنا

رکني *m.* pure gold. زر خالص

رکوب *a.* riding, mounted on, perpetration (of a crime.) سوار هونا

رکوا *m.* a leather bucket. چمڑے کا ڈول

رکوع *a.* bowing the head in humility and reverence, as in prayer, or towards one of old age. عجز يا تعظيم سے سر جهکانا نماز پڑهتے وقت

رکيب *n.* a stirrup, a beast for riding upon, a companion in riding. رکاب - اصاله رکاب کا

رکيدن *inf.* to grumble, to murmur. بڑبڑانا

رکيک *a.* fine, minute, subtile, thin, idle, old, disgraced, contempted, despised, shameless, immodest. - سست - ضعيف - باريک - حقير بيعزت - بيغيرت - بيحيا

رکين *a.* strong, steady, firm, powerful. مستحکم - استوار - مضبوط

رکيه *m.* a well, a river. کنوان - ندي

رکي (*pl.* of رکيه), wells, rivers. - جمع رکيه کي کنوان - ندياں

رگ *f.* a vein, a fibre. نس - ناري

رگزن *m.* a surgeon, a bleeder, a phlebotomist. فصاد - رگ کهولنيوالا

رگ گفتن *id.* to be idle, to neglect one's duty. سستي کرنا

رگ گردن (*met.*) pride, rebellion. غرور - سرکشي

رم *m.* flight, elopement. بهاگنا

رماح (*pl.* of رمح), spears, lances. - جمع رمح کي نيزے

رماح *rumah*, *m.* lancers, lancemakers. برچهي والے - برچهي بنانے والے

رماد *n.* ashes, dust. راکهه - خاکستر

رماز *m.* a proposer of riddles, enigmas, etc., one who speaks mysteriously. - معما طلب پهيلي بوجهنيوالا

رماعه *m.* the palate, the slit in the roof of the mouth. تالو (هندي)

رماک *m.* the sails (of a boat). کشتي کے بادبان

رمال (*pl.* of رمل) sands. جمع رمل بمعني ريت اور بالو کي

رمال *m.* a soothsayer, a fortuneteller, prophet, conjuror. نبي - جادو گر

رمان *ramman*, *m.* the pomegranate. انار (ميوه)

رمانيدن *inf.* to drive off, to put to flight. بهگانا

رمح *m.* a spear, a lance. بهالا - نيزه

رمد *n.* an eye-disease in which the whites of the eyes become red and cause much pain, opthalmia. بيماري آنکهه کي جس ميں آنکهه کي سفيدي لال هوجاتي هے اور بهت درد کرتي هے

رمز *m.* a wink, nod, sign, a riddle, enigma, mysterious talking, ambiguous expression. اشاره - کنايه - پوشيدگي

رمش *n.* flight, running. بهاگنا

رمضان *m.* the name of the ninth *Muhammadan* month, during which those who profess that religion are interdicted from eating, drinking and conjugal duty between the morning dawn and appearance of the stars at night, in short, this is their Lent. On the 27th of this month the *Kuran* began to descend from heaven, and every prayer offered up on that night will be complied with, also the prayers offered upon the 19th, 21st and 23rd days of this month are supposed to be peculiarly efficacious. نام نوين مهينے قمري کا جس ميں مسلمان روزہ رکهتے هيں •

رمق *m.* the last breath, the departing soul or spirit. بقيۂ جان

رمکہ *f.* a mare. مادہ اسپ - گهوڑي

رمل *ramal, m.* sand, geomancy, foretelling by figures. ريگ - بالو - نام ايک علم کا جس سے احوال گذشتہ اور آيندہ بشرط کامل هونے کے معلوم هوتا هے

رمنہ *m.* a park, a chase (for game), a place to roam in. چراگاہ - وہ مقام جهان هرن وغيرہ چرتے هيں

رموز (*pl.* of رمز), winks, enigmas. - اشارے کنائے - پوشيدگياں •

رمہ *m.* a flock, a herd, a multitude, an army. ريوڑ بکريوں کا

رمي *a.* throwing, casting, shooting with a bow and arrow, accusing, abusing, increasing. پهينکنا - تير مارنا - تهمت لگانا - گالي دينا - زيادہ کرنا

رميدن *inf.* to fly in terror. بهاگنا - وحشت کر کے بهاگ جانا

رميم *a.* curious, putrified, decayed. - بوسيدہ کهنہ - پراڈا

رميہ *a.* shooting but once with a bow and arrow. ايک مرتبہ تير مارنا

رن *n.* labour, toil. محنت - مشقت

رنجانيدن *inf.* to give pain or trouble, to enrage. دکهہ دينا - خفا کرنا

رنجش *f.* grief, affliction. رنج - دکهہ

رنجور *a.* sick, afflicted, infirm. بيمار - روگي

رنج *m.* sorrow, trouble, pain. - تکليف - دکهہ رنج

رنجيدن *inf.* to be grieved or vexed. آزردہ هونا

رند *m.* a reprobate, a drunkard, a debauchee, a vagabond. وہ منکر جس کا انکار شرعي باتوں سے از روے عقلمندي کے هو نہ بسبب جهالت کے

رندانہ کرد "acted like a *rind*" (a reprobate). يعني رندوں کي طرح کام کيا

رنگ *m.* colour, share and fortune, defect, blemish, shame, toil; labour, grief, sorrow, strength, power, ability, life, soul, a powerful camel, property, goods, gold, profit, gain, a mendicant's habit, manner, method, a wild goat, a wild bull, artfulness, cunningness, fraud, guile, growing, vegetating, good, excellence, happiness, gladness, joy, healthiness, shamefulness, modesty, shame, blood, beauty, elegance, gaiety, pleasantness, facetiousness, a small capital, gold, silver, theft, robbery, gambling, money got in gambling, master, ruler, governor, father, a maternal uncle, a dot, an excellent workman, a tambourine, anger, wrath, sewing silk, embezzlement, fraud, deceit, goods and chattels, likeness, similarity. لون يعني رنگ - حصہ و نصيب - عيب و شرم - رنج و محنت - قوت و توانائي - جان - زبردست اونت - مال و زر - نفع و فائدہ - فقيروں کي گدڑي - طرز روش - پهاڑي بکرا و بيل - مکر و حيلہ - زمين سے اُگنا - خوبي - خوشي و تندرستي - شرمندگي و شرم - خون - رونق و لطافت - تهوڑي پونجي - سونا - چاندي - چوري - جوا اور جوے کا روپيہ - صاحب و حاکم - باپ - ماموں - نقطہ - عمدہ کام کرنے والا - جهانجهہ - غصہ و غضب - ابريشم - خيانت - مال و اسباب - مثل و مانند

رنگ آميز *m.* a painter, an artist. نقاش - مصور

رنگ بست *m.* a permanent colour, a never-fading colour. وہ رنگ جو هميشہ پايدار اور مضبوط اور برقرار اور بے تغير هو

رنگ بر رو شکستن *id.* to grow pale (from fear, astonishment or shame.) چهرہ کے رنگ کا زرد هو جانا غيرت اور شرم يا خوف سے

رنگ بروے کار آوردن *id.* to do a work splendidly, to do a thing elegantly. کسي کام کو نهايت رونق دينا

رنگ بر آب ريختن
رنگ بر آب زدن } *id.* to suggest a new plan in a work, to be considerate in the formation of a new plan. فکر کر کے کوئي تازہ منصوبہ کسي کام ميں پيدا کرنا

رنگ دامن *id.* to be changed, to be stupified. متغير هونا

رنگريز *m.* a dyer, one whose busines is to dye. رنگنيوالا

رنگریز *m.* a painter, an artist, a mason (dyer is wrong). نقاش - مصور - معمار - کپڑا رنگنے والا غلط ھے.

رنگ ریختن *id.* to lay the foundation of a building, to found, to establish, to lay the base of. عمارت کا نیو ڈالنا - کسي کام کي بنیاد قائم کرنا

رنگ زنده *m.* green colour (or paint.) سبز رنگ

رنگ کردن *id.* to deceive, to cheat, to defraud. دغا کرنا - فریب دینا

رنگ گردتن *id.* to be changed. متغیر هونا

رنگ نه بستن *id.* to be profited, not to be benefitted by, to be frustrated. فائدہ نه اٹھانا

رنود (*pl.* of رند), جمع رند کي

رو *m.* face, surface, sake, cause, reason. منهه - رخ - چهرہ - وجهه - سبب

رو انداختن *id.* to request, to be humble, to beseech, to implore earnestly and humbly. سوال کرنا - عاجزي کرنا - گڑگڑانا

رو از سنگ داشتن *id.* to be immodest, to be shameless. بیحیا هونا

رو آوردن *id.* to be attentive, to turn to. متوجه هونا

رو دادن *id.* to occur, appear or present itself, to happen. واقع هونا

روابط (*pl.* of رابطه). جمع رابطه کي

روات (*pl.* of راوي), hisstorians, narrator, etc. جمع راوي بمعني بات کے نقل کرنے والا وغیرہ کي

رواح *m.* afternoon. قریب شام کا وقت

رواحل (*pl.* of راحله). جمع راحله کي

روازن (*pl.* of روزن), windows, holes. جمع روزن کي بمعني کهڑکي - سوراخ - روشندان

رواشن (*pl.* of روشن). جمع روشن کي

روافض (*pl.* of رافض or رافضي), heretics, particularly Shi'as. جمع رافضي کي منسوب طرف رافضه کے جو گروہ لشکر کا هے جو اپنے سردار کو چهوڑ دے

رواق *m.* a portico, a gallery, a balcony. چهجه مکان کا

رواق میم *m.* the fourth heaven. کنایه چوتهے آسمان سے

روان *n.* life, soul, *a.* flowing, running, text, reading, *adv.* at once, presently. - روح - جان - بهتا هوا - جاري - (مثل پاني کے) - فوراً - في الحال - جلد

روایت *f.* a history, narrative, tale, fiction, fable کسي کي بات نقل کرنا - کسي کي بات دهرانا

روائح (*pl.* of رایحه), fragrance, smell. خوشبو

روب (in *comp.*) sweeping. جهاڑو دینا

روبان *m.* a sweeper, sweeping. - جهاڑو دینے والا - جهاڑتا هوا

روباح *f.* a fox. لومڑي

روباہ بازي *f.* stratagem, wile, trick, deceit, evasion, subterfuge, spying, endeavouring to find out a secret, pumping a person for that same purpose. مکر - فریب - دغابازي

روباہ زرد *m.* the sun. کنایه آفتاب سے

روبچیزے انداختن *id.* to turn to anything, to attend towards. کسي چیز کے طرف متوجه هونا

روبدیوار *a.* confounded, perplexed. کنایه حیران سے

روبکار *a.* ready for business, intent on, cause, etc. brough to court. سامنا - مجازاً وہ کاغذ جس میں حاکم کے سامنے فیصله لکها جائے

روبیدن *inf.* to sweep, to brush. - جهاڑو دینا - جهاڑنا

روپوش *a.* hiding one's face, concealed. چهپا هوا

روث *m.* dung, excrement, stool. - سرگین - گوہ - گوبر

روح *f.* soul, spirit, kindness, blessing, Kuran, the name of Christ, name of the angel Gabriel. جان - بولتا - رحمت - قران - نام عیسی کا - نام جبرائیل فرشته کا

روح *f.* comfort, ease, refreshment, freshness, coolness, fine cool breeze, fragrance. آسایش - فرحت - تازگي - خنکي - ٹهنڈي هوا - خشبو

روحاني *a.* spiritual. منسوب طرف روح کے

روحانیان *m.* the angels and the genii. فرشتے اور جن

روح المعظم } *m.* name of the angel Gabriel.
روح الامین } جبرائیل فرشته کا نام هے

روح القدس *f.* the holy spirit, the angel Gabriel, the spirit which had descended on Jesus Christ. نازل روح جو حضرت عیسی پر هوئي تهي - جبرائیل فرشته

روح الله *f.* the spirit of God, Jesus Christ- عیسی

روح اعظم *f.* sulphuric acid. گندهک کا تیزاب

روح توتیا *f.* zinc, which is burnt and applied in eye sores, wine. جست ایک مشهور دهات جس کو جلا کر آنکهه میں بطور سرمه لگاتے هیں - شراب

روح حیواني *f.* the spirit which causes the life to exist in the body and whose seat is heart. وہ روح جس سے زندگي قائم رهتي هے اور اُس کا مقام دل هے

روح مجرد *f.* soul, spirit, the angel Gabriel, Jesus Christ. مطلق روح - کنایه عیسی اور جبرائیل سے

روح مکرم *f.* the angel Gabriel. جبرائیل فرشتہ

روح نباتي *f.* the life of herbs or vegetables. نباتات کي روح

رود *m.* a river, a brook, a canal, the string of a musical instrument, gut, intestine, a gut or sinew used as a bow-strign. نہر جوکے جاري ھو - ندي - نالا - نام ایک باجہ کا - بکري وغیرہ کا رودہ - کمان کا رودہ - تانت

روداد *m.* an account to circumstances. - کیفیت حال

رود خانہ *m.* the bed or channel of a river. وہ زمین جس پر پاني کا سیلاب جاري ھو

رودہ *m.* a gut, an intestine, string of a bow or of a musical instrument, تانت - انتڑي

روز امید بیم / روزبازخواست } *m.* the judgment day. روز محشر

روز بخش *m.* the day without beginning or eternity. روز ازل

روز درمھنت گذار *m.* a traveller. کنایہ مسافر سے

روز دگر *m.* the judgment day. روز قیامت

روز دیدشدن *id.* wasting the day. ضایع ھونا روز کا

روزسیاہ *m.* the bad day, the day of lamentation. روز بد - ماتم کا روز

روز عذر آوري *m.* the judgment day. روز قیامت

روزگار *m.* service, earning, the world, time, age. - زمانہ - مجازاً بمعني مدت - فرصت - شغل - پیشہ - نوکري

روزن *m.* a hole, a window. سوراخ - کھڑکي

روزنامہ / روزنامچہ } *m.* a daily account-book. کتاب جس میں ھر روز کا حساب لکھا جائے

روزہ مریم *m.* silence. خاموشي

روسا (*pl.* of رئیس), nobles, grandees, heads. جمع رئیس کي بمعني سردار کي

روساختن *id.* to be ashamed, to be modest or bashful, to photograph, to draw a portrait of. شرمندہ ھونا - تصویر کھینچنا

روستا *m.* a village, a peasant, a villager. قریہ - گانوں - مخفف روستائي بمعني دھقاني کا

روسپي *f.* a courtesan, a harlot. فاحشہ اور بد مکار عورت

روسرکہ کردن *id* to be displeased, to frown. ناک بھوں سکیڑنا - چیں بجبیں ھونا

روسفید *a.* honourable respectable, exalted, wealthy, rich. معزز - ممتاز - دولتمند

روسیا *a.* black in the face, (*met.*) disgraced, unfortunate, a criminal. گنہگار - خطاکار

روش *f.* custom, fashion, institution, law, rule, an avenue, walk, passage, way. - رفتار طرز - طریقہ - طور - ڈھنگ - مجازاً باغ کي روش مشہور و معروف

روشناس *a.* a famous person, renowned, an acquaintance, beautiful, elegant. - شخص جان پہچان - خوبصورت

روشنان *m.* the stars, the planets. آسمان کے ستارے

روشن ضمیر *a.* enlightened (in mind). روشندل

روشن قیاس *a.* wise, enlightened, sensible. صاحب عقل

روشن کتاب *n.* Kuran, Alooran. قران

روض (*pl.* of روضہ), gardens. جمع روضہ بمعني باغات کي

روضہ *m.* a garden, a green-sward a mausoleum, a shrine or tomb of a reputed saint. باغ - سبزہ زار

روضہ جاوید *m.* the paradise, the nature of God. کنایہ جنت سے یا ذات خدا تعالی سے

روعت / روع } *a.* fearing, terrifying, frightening, astonishing, surprising, fear, dread, fright. - ڈرنا - ڈرانا - تعجب میں لانا خوف - ڈر

روم *n.* wisdom, sense, heart. عقل - دل

روغن *m.* grease, oil, boiled butter, varnish. تیل

روغن قاز مالیدن *id.* to flatter, to cajole, to cheat, to deceive. - خوشامد کرنا - فریب دینا دغا کرنا

روف *a.* forgiving, merciful. بڑا مہربان

روفرمودن *id.* to put to shame. شرمندہ کرنا

روفگندن *id.* to implore earnestly and humbly. عاجزي کرنا - گڑگڑانا

روکردن *id.* to be acquired, to give attention, to appear or present itself to light. حاصل ھونا - توجہ کرنا - ظہور کرنا - روبرو کرنا

رو گردانیدن *id.* to turn away the face, not to accept or admit. منہہ پھیر لینا - نہ ماننا

روگرفتن *id.* to hide one's face, to conceal. منہہ چھپانا

رونداشتن *id.* to be shameless, to be immodest. بیحیا ھونا

رونق *f.* beauty, elegance, splendour, ornament, gaiety, (*met.*) order, symmetry. چمک - زیبائش

روئیدن *inf.* to grow, to vegetate (a plant). اُگنا - درخت کا جمنا

روئین *m.* brass, bell metal, of metal. دھات کا - کانسے کا - پیتل کي کوئي شے بني ھوئي

روئیں تن *m.* an epithet of Asfandiyar, whose body was impenetrable to weapons. لقب اسفندیار کا جس کے بدن پر کوئي ھتیار اثر نہ کرتا تھا

روئين خم (in *Sikandarnama*) a kettle-drum. سکندر نامہ میں ایک جگہہ مراد نقارہ سے ھے

روے آهن m. a helmet, a headpiece, a head-armour. کلاہ آھني يعني خود

رويا m. a vision, a dream. خواب - سپنا

روے بند m. a veil, a hood for the face, a kind of veil covering the whole body from head to foot, with eye-holes to it. - نقاب برقع

رويت f. shape, appearance, seeing, aspect of the planets. آنکھہ سے دیکھنا - جاننا

روے چيزے نداشتن id. not to dare to come before any one for shame. شرمندگي سے سامنے نہ جاسکنا

رويداد m. account of circumstances, fact. حال - حقيقت

رويدستي خوردن id. to be deceived, to receive a blow. فريب کھانا - تھپڑ کھانا

رويہ *raviya*, m. custom, fashion, institution, law, rule, mode of procedure. - طريقہ دستور

رہ f. a road, path, time or turn (*i. e.*, twice, three times, etc.), manner, law, custom, an arrow. - راستہ - راہ - مرتبہ دفعہ و بار - قاعدہ قانون - آھنگ - نغمہ

رہا a. released, escaped, free. - چھوٹا ھوا آزاد - خلاص

رہان (*pl.* of رھن), pawns, pledges, laying wagers. گرو کرنا - شرط کرنا - شرطيں

رہاندن } رہانيدن } inf. to set free, to release. - چھڑانا رھائي دلانا - قيد سے آزاد کرنا

رہ انجام m. a fleet horse, a messenger. گھوڑا تيز رفتار - قاصد

رہ آورد n. rarity, present curiosity. - سوغات تحفہ جو مسافر دوسرے شھر کي عمدہ چيز اپنے دوست کے واسطے بطريق ھديہ لاتے ھيں

رہائي f. liberation, escape, relief, acquittal, discharge, freedom, release. چھٹکارا

رہبان (*pl.* of راھب), monks, etc. جمع راھب بمعني زاھد - پادري وغيرہ کي

رہبر m. guide, a conductor. ھادي - رھنما

رھج m. dust, clouds of dust, noise. - گرد غبار - شور - غل

رہ جام يافت *phr.* "became successful." کامياب ھوا

رہ داشتن id. to await, to wait for some one, to travel, to protect the way. انتظار کسي کا کرنا - سفر کرنا - حفاظت راہ

رہزن m. highwayman, a robber, a plunderer. چور - لوٹيرا - جو راہ ميں مسافرونکو لوٹتا ھو

رھش f. root, foundation, base. - بيخ - جڑ - بنياد ديوار کي نيو

رھط m. a band, a company, crew. آدميوں کا گروہ

رھگذار } رھگذر } m. a wayfarer, traveller, a public road, a path, way, (*met.*) cause, reason. مجازاً - شاھراہ - سڑک - عام راہ بمعني سبب

رھن m. a pledge, a pawn, anything given in security for a loan. گرو - گرو کرنا مال يا زمين کا کسي کے پاس گرو رکھنا

رھنما m. one who shews the road, a guide, a conductor, a pilot, a spiritual guide. راہ دکھلانے والا - پير

رھوار m. ambling, smooth-going horse, a sound-roadster. گھوڑا تيز رفتار

رھي f. slave. بندہ - غلام

رھيدن inf. to be released, to be free, to be liberated. چھوٹنا - رھائي پانا

رھين f. anything pawned, property mortgaged. وہ چيز جو گرو رکھي ھوئي ھو

ري a. giving water to drink. سيراب کرنا

ري *rai*, in name of the capital of Persian *'Iraq* (Parthia), there is another city of the name in *Khurasan* (Bactriana). نام ايک شھر کا

ريا m. hypocrisy, dissimulation, subterfuge, evasion, affectation. ظاھرداري - دل ميں جو بات ھو اُس کے بر خلاف کام کرنا لوگوں کے دکھلانے کو

رياح (*pl.* of ريح), winds, storms. جمع ريح بمعني آندھي - ھوا کي

رياحين (*pl.* of ريحان), odoriferous herbs. نباتات - پھول خوشبودار

رياست f. government, command, dominion. سرداري

رياض (*pl.* of روضہ), gardens. This word (both in the *pl.* and *sing.*) is a favourite title of numerous books on various subjects, such as *rauzatu s-safa*, the garden of "purity," name of a universal history. جمع روضہ بمعني باغ کي

رياضت f. abstinence, austerity. - محنت کرنا مشقت کرنا

رياضي m. mathematics, the abstract sciences. حکمت کي تين قسموں طبعي - رياضي - الھي ميں سے ايک قسم ھے

رياکار a. hypocrite, deceiving, artful, cunning, m. an atheist. فريبي - مکار - منافق

ریان *a.* juicy, sappy, flourishing, fresh. سیراب - تر و تازہ

ریب *raib*, *m.* doubt, suspicion, scandal, necessity, bad fortune. شک - گمان

ریب المنون *m.* occurrences, accidents, happenings, events. حادثے زمانے کے

ریباری *m.* a camel-rider. سانڈنی سوار

ریبت *f.* doubt, suspicion, accusation, false charge. شک - گمان - تہمت

ریچار / ریچال / ریچالہ *m.* a pickle, vegetables preserved in vinegar. اچار - آچار

ریح *f.* wind, odour, exhalation. مطلق بو خواہ خوشبو ہو خواہ بدبو - وہ ہوا جو دنیا میں چلتی ہے - وہ ہوا جو پیٹ میں گھومتی ہے

ریحان *m.* an odoriferous plant, sweet basil, greenness, vegetation (*met.*) wine. - سبزہ ایک قسم کے پھول کا نام - ہرنہاس خوشبودار - مجازاً شراب

ریحانی *a.* of or relating to, or smelling of ریحان *m.* a species of Arabic handwriting so called, a kind of green coloured wine, a kind of tobacco. - منسوب طرف ریحان کے ایک قسم کا عربی خوشخط - ایک طرح کی شراب سبز رنگ - ایک قسم کا خوشبودار تمباکو

ریخ *m.* thin excrement in diarrhoea. پتلا گوہ انسان یا حیوان کا

ریختن (*r.* (ریز)) *inf.* to pour out, to scatter. ڈالنا - پیٹنا

ریختہ پا *a.* swift, *m.* a beautiful horse. تیز قدم - گھوڑا خوبصورت

ریدن *inf.* to go to stool. ہگنا

ریز / ریزان (in *comp.*) pouring, scattering, dropping, shedding, etc. - ڈالنا - گرانا - ڈالتا ہوا - گراتا ہوا

ریزش *f.* a running at the nose, a running, flowing in small quantities, pouring, scattering. ڈالنا - گرانا

ریزہ *m.* a scrap, piece, bit. ٹکڑا - روا

ریزہ خوانی *f.* act of singing with a warbling tone. ٹکٹری کے ساتھ گانا

ریزہ کاری *f.* working finely. مہین کام کرنا

ریستن *inf.* to go down in a pond or well, to give a turn or a circle, to lament, to go to stool. - حوض یا کنووں کے اندر اترنا - بل دینا - نوحہ کرنا - ہگنا

ریسمان *f.* string, cord, thread, rope. - سوت ڈوری - رسی

ریسمان باز *m.* a conjuror, a tumbler, one who exhibits feats of activity. بازیگر - نٹ

ریسمان دراز کردن *id.* to give time or leisure, to make one independent. مہلت دینا - دوسرے کو خود مختار کردینا

ریسیدن *inf.* to spin. کاتنا

ریش *resh*, *m.* a wound, a sore, pus, matter, (in *comp.*) wounding, etc. زخم - زخمی

ریش *rish*, *f.* beard. ڈاڑھی

ریش *f.* feathers of birds, fine garments, abundance of sustenance, competence. پرندوں کے پر - عمدہ لباس - معاش کی فراخی

ریش بابا *n.* a kind of grape. ایک قسم انگور کی

ریش برباد *n.* pride, vanity, arrogance. - غرور تکبر

ریشخند *a.* laughing, risible, ridiculous, *f.* a laughing stock, risibility. - ہنسی - دل لگی - تمسخر - کسی کو مسخرہ بنانا

ریش گاؤ *a* foolish, ignorant, silly, greedy, an idiot. احمق - نادان - لالچی

ریعان *n* the prime or best part or anything, commencement of everything, youth. شروع ہر چیز کا - نوجوانی

ریق *f.* spittle, saliva, a breakfast. - تھوک ناشتا

ریگ *f.* sand. بالو - ریت

ریگ بوم *m.* a region of sand, a desert. ریگستان

ریگ ریختن *id.* to spoil. خراب کرنا

ریم *f.* pus, matter, humour, dregs, dross, lees, rheum. - میل خواہ جسم کی خواہ کپڑے کی پیپ جو پھوڑے سے نکلتی ہے - کثافت لوہے یا چاندی وغیرہ کی

ریمگین *a.* dirty. میلا کچیلا چرک آلودہ

ریمن *a.* dirty, rebellious, artful, luscious, evil, bad. - میلا - چرک آلودہ - سرکش - مکار - بدنفس - خراب

ریو *m.* fraud, deceit, stratagem. - مکر حیلہ فریب

ریوند *f.* rhubarb. اصالہ راوند کا ایک دوا ئے مسہل بہت مشہور ہے

ریہ *m.* the lungs. شش (فارسی) پھیپھڑا (ہندی)

رئیس *m.* a prince, a chief, head, principal, president, commander, captain, pilot, citizen, (in *Sikandarnama*) name of the king. سردار اور سکندر نامہ میں ایک مقام پر نام بادشاہ کا

— ز —

ز *ze* called za,e mu'jama or za,e ma nkuta, the eleventh letter of the Arabic, and the thirteenth in the Persian alphabets, its sound is that of the English *z*. In almanacs it stands for Saturday, and for the sign Scorpion. In Persian poetry it is used with the vowel *i* for *az*, *zi baski* for *az baski*, inasmuch as. In reckoning by ابجد it stands for seven.

زا (in *comp.*) born, descended as *mir za* (مرزا) born of a noble.

زاج alum. پھٹکري

زاحل *a* exhausting, tiring, perishing, wasting. تھک جانے والا - زائل ہونے والا

زاخل *m*. the name of a plant (*Euphorbia neriifolia Roxb.*) درخت تھوھڑ کا جو کڑوا اور زھردار ھوتا ھے اور اُس میں سے دودھ بھي نکلتا ھے

زاد *m*. increase, food, provisions, fare and provisions. توشہ جو مسافر سفر میں اپنے ساتھہ رکھتے ھیں - راہ کا خرچ و نھانا وغیرہ

زاد / زادہ } *m*. born (a son, a child), used in *comp.* as آدم زاد, a man, one born of the human race. - پیدا کیا - جنا - فرزند - سن و سال

زاد بوم *f*. birth-place, native country, abode, home. وطن جھاں آدمي پیدا ھوا ھو

زادۂ خاک (*met.*) gold, silver. کنایہ سونا چاندي سے

زادراہ *m*. way charges, provisions. راہ کا خرچ - توشہ راہ کا

زادن *inf*. to bring forth young. جننا

زار *m*. desire, wish, a groan, lamentation, afflicted, emaciated. - ضعیف - خوار - عاجزي - اندوہ - غم

زار (in *comp.*) implies place, multitude. ھر چیز کي انبوھي - جیسے لالہ زار گلزار

زار نالي *f*. weeping in helplessness or restlessness, imploring earnestly. بیقراري سے رونا - عاجزي سے فریاد کرنا

زاري *f*. crying, sighing, groaning, lamentation, weeping. رونا - عاجزي کرنا - ضعیفي

زاریدن *inf*. to weep, to cry, to lament. رونا

زاغ *m*. a crow. کوا (ایک مشھور پرند)

زاغپا *m*. reproof, rebuke, name of a bird. سرزنش - طعنہ - نام ایک پرند کا

زاغ شب *n*. the hair. کنایہ سرکے بالوں سے

زاک *n*. alum. پھٹکري

زال *a*. old, decrepit, grey-haired (man or woman), the name of the father of *Rustam* and son of *Sam*, son of *Nariman*. He was so called because he came into the world with white hair, and a red countenance, the former like that of an old man, the latter of golden hue. بوڑھي عورت بوڑھا مرد - جس کے بال سفید ھوگئے ھونگے - نام رستم کے باپ کاجسکے پیدایشي سب بال سفید تھے

زانو *m*. the knee, the lap. گھٹنا

زانو تہ کردن / زانوزدن } *id*. to sit near one respectfully, to pay honour, or respect. کسي کے پاس نھایت ادب سے بیٹھنا

زاني *m*. an adulterer, a whoremonger, a fornicator. حرامکار - زنا کرنے والا مرد

زانیہ *f*. a whore, a strumpet, an adulteress, a prostitute. زنا کرنے والي عورت

زاوي *f*. a piece, corner, edge. ریزہ - گوشہ ھر چیز کا

زاویہ *m*. an angle (in geometry), a corner, a retired place, etc. کنج - مکان کا گوشہ - ھر چیز کا کونہ

زاھد *m*. a monk, a hermit, a recluse, *adj*. religious, devout. وہ شخص جو دنیا کي رغبت اور خواھش نہ رکھے اور صرف خدا سے تعلق رکھے

زائد *a*. redundent, superfluous. زائدالوصف *a* بے بیان - بڑھا ھوا beyond description.

زائیدن *inf*. to bring forth young. جننا بچہ کا

زائچہ *m*. horoscope, astronomical table, casting. جنم پتر - قرعہ پھینکنا

زائر *a*. visiting, a visitor, one who visits holy places. ملنے والا - زیارت کرنے والا

زائل *a*. deficient, failing, perishing, vanishing. دور ھونے والا - جاتا رھنے والا

زباب *m*. large rats. بڑے چوھے

زباد *n*. a kind of perfume called زباد, or vulgo, obtained from a civet cat. نام ایک خوشبو کا جو جنگلي بلاؤ کے خصیہ کا عرق ھے جو مثل شھد کے گاڑھا ھوتا ھے - ھندي میں اُسے مشک بلائي کھتے ھیں

زبان آور *a*. eloquent, voluble, *m*. a poet, a linguist. شاعر - فصیح - صاحب زبان

زبان بر دیوار مالیدن *id*. contentment, confidence, trust. قناعت - توکل

زبان بر خاک مالیدن *id*. to be humble or submissive, to humiliate, to implore earnestly. عاجزي کرنا

زبان بکسے یکے کردن *id*. to be of the same voice as another. کسي کے کلام کي موافقت کرنا

زبان بلا مسمار دوختن *id.* to hold one's tongue, to be quiet. چپ رهنا

زبان بند *m.* a written deposition, a kind of amulet. وه تعويذ جو واسطے زبان بندي دشمنوں اور بدگوئیوں کے لکھا جاتا ھے

زبان بند خرد *n.* wine. کنایه شراب سے

زبان تر کردن *id.* to talk, to speak. بات کرنا

زباندان *m.* a poet, *a.* eloquent. شاعر - فصیح و بلیغ

زبانداز *a.* abusing, *m.* a babbler. بیهوده گو

زبان در کشیدن *id.* to be quite, to be silent. چپ هوجانا

زبان دادن *id.* to give a promise, to form a condition. اقرار کرنا - شرط کرنا

زبان زده *a.* famous, renowned. مشهور و معروف

زبان سوختن *id.* to hold one's tongue, to forbear from speaking or talking. بات کرنے سے بالکل زبان کو بند کر لینا - گفتگو ترک کردینا

زبان فروش *m.* a babbler. بهت بکنے والا

زبان سنگین *a.* dumb. گونگا

زبانگیر *m.* a spy. جاسوس

زبانه *m.* flame, the tongue of a balance, small (goldsmith's) scale. لپٹ آگ کي شعله - ترازو کي ڈنڈي - کانٹا

زباني (*pl.* of زبني), rebellious, porters of hell. سرکش لوگ - دوزخ کے نگهبان اور موکل

زبد / زبده / زبدة } *m.* (from زبد, to churn) the best of anything, cream, butter, foam, froth, cough. مسکه - جهاگ - کف

زبر *a.* above, superior, the vowel point *fatha* or short. *a.* writing, wise, powerful, strong, yelling in anger. لکهنا - عقل - مضبوط - فصه سے چیخ کر بولنا

زبر *zubur,* correspondences, communications, writings, iron sheets, tablets, the preserved tablet. کتابیں - تحریریں - لوهے کے پتر - تختیاں - لوح محفوظ

زبر *zibr,* a book. کتاب

زبر *a.* reading by memory, learning by rote. حفظ پڑهنا - یاد پڑهنا

زبره *m.* a writing, a book. ایک تحریر - ایک کتاب

زبرج *n.* strength, power, force, ornament, decoration, light red coloured cloud. زور - زینت - آرائش - هلکا ابر سرخ رنگ کا

زبرجد *m.* a kind of emerald, a chrysolite, a topaz, a beryl, jasper. ایک قسم کا جوهر هے سبز رنگ زردي مائل مثل زمرد کے

زبرقان the moon on the 14th day of a lunar month, name of a companion of Muhammad, a man with a scanty beard, it sometimes means white paper also. چودهویں رات کا چاند - نام ایک صحابي کا - وه شخص جسکي ڈاڑهي بهت کم هو - سفید کاغذ کے معني میں بهي آتا هے

زبل *n.* dung, stool, excrement, لید - گوبر - گوه

زبور *m.* a writing, the Psalms of David.

زبون *a.* bad, ill, unlucky, wicked, a dupe, a capture, humble, a kicking camel. بد - بدتر - بیوقوف - عاجز - قیدي - اونٹ لات مارنے والا

زبیب *f.* currants, raisins - مویز - خشک انگور داکهه (هندي)

زبیده *f.* name of the queen of Harun Rashid, who was very brave and virtuous. هارون رشید کي بیوي جو نهایت بزرگ همت اور نیک تهي

زجاج *m.* a glass, a cup, a chandelier. - شیشه کانچ - جهاڑ فانوس

زجاج *zijaj, m.* many ostriches. بهت سے شتر مرغ

زجاجه *m.* a glass, a chandelier, name of a village in Egypt. شیشه - کانچ - قندیل شیشه کي - نام ایک گاؤں کا مصر میں

زجر *m.* threatening an impediment, opposition, violence, forbidding. - روکنا - باز رکهنا منع کرنا - فارسي کے محاورے میں بمعني مار گهڑکي - جهڑکي آتا هے

زجیر *m.* one who forbids or stops one from doing a thing. منع کرنے والا - باز رکهنے والا

زچه *f.* a laying-in woman. وه عورت جس نے ابهي بچه جنا هو

زحام *n.* abundance, plenitude, sufficiency. البرهي - بهتایت

زحل *m.* the Planet Saturn, نام ایک ستارهٔ مشهور کا جو ساتوین آسمان پر هے هندي میں اسکو سنیچر کهتے هیں

زحم *m.* disquietude, pain, scarcity, poverty, sickness, multitude, crowd. زحمت - انبوه - تنگي

زحمت *f.* disquietude, pain, trouble, injury, sickness, affliction, a crowd, multitude. تکلیف - دکهه - رنج - تنگي - لوگوں کي کثرت

زحیر *n.* dysentry. (*met.*) unhappy, anxious, sorry. پیچش کي بیماري - مجازاً ناخوش - آزرده

زخ *m* noise, sound, sound of a bell. - شور غل - گهنٹه کي آواز

زخار *zakhkhar, a.* raging, overflowing, full and swelling (the ocean.) دریا موج مارنے والا جس کا پاني کناروں سے بڑه نکلے - دریا کا لبالب هونا پاني سے

زخار a. raging, overflowing. لبالب بھر جانا دریا کا پانی سے اور بلا نکلنا کناروں سے

زخرفه m. external show, hypocrisy, treachery, deception. - زینت - ظاھري - مکاري دغابازي

زخم تیز } m. a deep cut or wound.
زخم دامن دار } گھرا گھاؤ

زخم درست m. the death. کنایه موت سے

زخم کوس m. a large kettle drum. بڑا نقارہ

زخمه m. the bow or plectrum of a musical instrument. (met.) copulation. ساز بجانے کي چیز - مضراب - نقارہ کي چوب - ڈنکا وغیرہ - حرکت جمع

زد p. t. beat, a beating, striking, smiting مارا - چوٹ مارنا

زدا m. a purifier, a cleanser. - صاف کرنے والا پاک کرنے والا

زدودن inf. to polish, to burnish, to scour زنگ چھڑانا - صیقل کرنا

زد و کب m beating, assault and battery مار پیٹ

زدن (ر. زن), to strike, to beat, to raise a noise. (1) تیغ زدن to strike (with a sword). تلوار مارنا (2) کباب زدن to eat. کھانا (3) ساغر زدن to drink. پینا (4) مشق زدن to do, to exercise. کرنا (5) it comes in the meaning of "to resemble" in the sentence like این رنگ بفلان رنگ میزند this colour resembles the colour of etc. یہہ رنگ فلانے سے مشابہ ھے (6) زنگ زدن to open. کھولنا (7) قرعہ زدن to throw, to cast (a lot) ڈالنا (8) عنان زدن to turn. پھیرنا (9) آتش زدن to burn. جلانا (10) شعله زدن to kindle to inflame. بھڑکنا (11) روغن زدن to anoint, to rub. ملنا (12) خیمه زدن to arouse, to produce. کرنا ۔ برپا (13) نقش زدن to write. لکھنا (14) تخت زدن to place, to keep رکھنا (15) فرش زدن to spread (a carpet, etc.) بچھانا (16) تاج زدن to put on, to wear. پہننا (17) گرہ زدن to tie (a knot). باندھنا (18) قفل زدن to lock. بند کرنا (19) طبل زدن to beat, to plap. بجانا (20) بوسه زدن to kiss. بوسہ کا لینا (21) راہ زدن to plunder. لوٹنا (22) حرف زدن to speak, to say. کہنا (23) آبله زدن to come out, to appear. نکلنا (24) نمک زدن to sprinkle. چھڑکنا (25) آب زدن to let to fall, to cause to drop. گرانا (26) پا زدن to pass over, to travel. راہ طے کرنا (27) تات زدن to cut. کاٹنا (28) قلم زدن to write. لکھنا etc., etc.

زده a. struck, affected by, arrayed, drawn up, used in comp., as وحشت زده panic-struck. مارا ھوا - چوٹ کھایا ھوا

زر m. gold, riches, wealth, money, a gold coin, very old (man or woman) Zal the father of Rustum, the champion wrestler. طلا - سونا - کبھي چاندي - روپے اور نقد پر بھي اس کا اطلاق کرتے ھیں - اور بمعني اشرفي کے بھي اور بمعني نہایت بوڑھے (خواہ مرد خواہ عورت) کے بھي استعمال ھوتا ھے - زل جو رستم پہلوان کا باپ تھا

زراب n. wine of golden hue, dissolved gold. شراب زرد رنگ - حل کیا ھوا - سونا

زراد خانه m. an armoury, a repository of arms. صلاح خانه

زراعت f. agriculture, husbandry, tillage, cultivation. کھیتي - کھیتي کرنا

زرافه zuraf, } m. the giraffe, the camelo-
زرافه zurrafa, } pard, the tallest of animals. شتر گانوں - پلنگ

زر افشان شدن id. to be liberal, to show generosity, to praise, to eulogise. سخاوت کرنا کسي کي تعریف کرنا

زراق zarraq. m. artful, cunning, quarrelsome. مکار - نفاق والا

زر اندودن id. to gild, to overlay with gold in leaf or powder. ملمع کرنا

زربات n. brocade, cloth of gold. سنہري

زربفت m. brocade, cloth, cloth interwoven with gold and cotton threads. کپڑا چاندي اور سونے کے تاروں اور سوت سے بنا ھوا

زر پرست a. greedy, avaricious, covetous. روپیہ کا لالچي

زر تشت } m. Zoroaster. the founder of the
زردشت } sect of Magi, or fireworship-
زر دهشت } pers. یہہ شخص منوچہر بادشاہ کي نسل سے تھا اور دفیشا مورت حکیم کا شاگرد تھا اُس نے گشتاسپ بادشاہ کے زمانہ میں نبوت کا دعوی کیا اور آتش پرستي کا دین ایجاد کیا

زرت } n. name of a grain, a species of mil-
زرد } let. چوا جو ایک مشہور غلہ ھے

زر جعفري n. gold of the purest kind. خالص سونا

زر خشک } m. pure gold. خالص سونا
زر خلاص }

زرد zarud, eating much, an armour, بہت کھانا ۔ زرہ

زرد آب m. pus, the soft yellowish substance formed in suppuration, matter of a sore. پیپ - زرد پاني ۔ صفرا

زرد آلو m. an apricot. ایک مشہور میوہ جسے خشک کرکے خوباني بناتے ھیں

زرہ چشم m. a preying bird like a falcon or a hawk. شکاري مرغ مثل باز اور باشہ اور جرہ وغیرہ کے

زرد چوب n. turmeric, an Indian plant of the ginger family, yielding a condiment, a yellow dye, and a test for alkalies (*Cucoma longa*). هلدي

زردرخ (*met.*) a lover. کنایہ عاشق سے

زر دست افشار m. a kind of very valuable and pure gold which was to be found in the treasury of Khusru Parwez, and was soft as wax. نام ایک قسم کے بیش قیمت اور خالص سونے کا جو خسرو پرویز کے خزانے میں موجود تھا اور جو مثل موم کے نرم تھا

زردک f. carrot, *adj.* yellowish. گاجر

زردوزي f. embroidery. چاندي یا سونے کے تاروں کا کام

زردہ دهي / زردہ مهي } n. pure gold. خالص سونا

زر سارا m. pure gold خالص سونا

زر سرخ m. gold, pure gold of red colour, a gold coin. سونا - اشرفي

زر سفید m silver, a rupee, money, a suit in cards. چاندي - روپیہ

زر صامت m *lit* silent gold (or money) gold, silver, coin, money, goods, property, slaves, etc. اصلي معني زر خاموش اور مراد أسے بهي یهي سونا - چاندي - اشرفي روپیہ - مال وغیرہ هے

زرع a. sowing, a sown field, seed time. - کهیتي کهیتي کرنا

زرق m. turning the eyes ; (in Pers.) hypocrisy, fraud, detraction, turning blind. جهوټهہ - مکر - نفاق - آنکهونکي گردش - اندها هونا

زرق *zurq* (*pl.* of ازرق) blue-eyed, blind men, heaps of sand, pure water. نیلي آنکهہ والے - نابینا لوگ - ریت کے ڈهیر - صاف پاني

زرق *zurraq.* (*pl.* of زراریق) m. a bird o prey, a hawk, a falcon. ایک مرغ شکاري - بعضے کهتے هیں باز سفید

زر قلب m. base gold, counterfeited gold. کهوټا سونا

زرک m. bits of go eaves. سونے کے ورق کے ریزے

زرگر m. a goldsmith, jeweller. سنار

زرگل m. the yellow stamina of a rose. گلاب کا ریزہ

زر مغربي m. pure gold, (*met.*) the sun. خالص سونا - مجازاً کنایہ آفتاب سے

زرنب f. name of a drug, saffron. زعفران

زرنباد n. Zedoary, a Chinese root. نام دوا کا هندي نرکچور

زر نگار a. ornamented with golden figures. وہ چیز جس پر سونے کے نقش بنے هوں

زرنیخ m. orpiment, yellow arsenic. هرتال

زرود n. name of a place on one's way to Mecca, where water is scarce. نام ایک موضع کا مکہ معظمہ کي راہ میں جهان پاني نهیں ملتا هے

زرہ m. the iron armour made with rings. چلتہ

زرہ گوش m. an atheist. an infidel. منافق

زرین a. golden, embroidered. سونے کا کام کیا هوا

زرین بیضہ خور n. Joseph's cap (in Yusaf Zeleka). یوسف زلیخا میں مراد یوسف کي ٹوپي سے هے

زرین درفش n golden banners. علم زرین

زرین درخت m. an orange or a citron tree, (in *Sikandarnama*) Alexander's throne. ترنج کا درخت - سکندر نامہ مین مراد سکندر کے تخت سے

زرین ستون m. (in *Sikandarnama*) slaves with golden belts. سکندر نامہ میں مراد غلامان زرین کمر سے

زشت a. deformed, ugly, inhuman, hideous. برا - بهونڈا - بدشکل

زشتي f. ugliness, deformity, (*met.*) evil, wickedness. برائي - بدشکلي

زعاف m. sudden death (by poison) a deadly poison. وہ زهر جو فوراً هلاک کرڈالے - ناگهاني موت

زعاق a. bitter and saltish, impregnated with salt, brine. شور - مزہ - کهاري اور کڑوا

زعرور m. a kind of fruit, a plum. ایک قسم کا میوہ - ایک قسم کا بیر

زعفران f. saffron (hence *Ital.*) zafferano) کیسر

زعم f. greediness, avarice, covetousness. طمع کرنا - لالچ کرنا

زعم n. respo ity, standing for one's security ضامن هونا

زعیم a. resp nsible, m. a gu de, a pleader, an advocate, a nobleman, a lord. - ضامن - پیشوا وکیل - کفیل - رئیس قوم

زغال m. o arcoa , live coal. کوئلہ

زغد a. giving milk of a mother to her baby, suckling, nursing. ماں کا بچہ کو دودهہ پلانا

زغن f. a kite, a black sparrow. چیل (ایک پرند)

زغند f. sally, flight, levity, leaping, bounding. جست - کود پهاند - هرن کي چوکڑي

زغیر f. linseed, flax seed. کتان - السي (هندي)

زفاف *m.* leading the bride home to her husband's house دلہن کو دلہا کے گھر روانہ کرنا

زفان *zufan*, tongue, language, dialect. زبان

زفت *a.* hard, fat, strong, pungent, sharp, astringent. - درست - سخت - فربہ - موٹا - مستحکم - مضبوط - تیز مزہ جو زبان کو کاٹے

زفت *zuft*, miserly, bad tempered, of a bad taste. بخیل - بدخو - بدمزہ

زفر *a.* prolonging one's breath, causing one to drink water, depriving, hearing a sound, burning a fire, brightening. سانس کو کھینچ کر بلند کرنا - پانی پلانا - باز رکھنا - آواز کا سننا

زفر *zifar*, *m.* a load, luggage, bag and baggage. بوجھ - اسباب مسافر کے

زفر *zufar*, *m.* a valiant man, lion, tiger, a river, a canal, a channel, great generosity, a great gift, a porter, a fat camel, an army, a troop, a multitude, a crowd. مرد دلیر - شیر جو درند مشہور ھے - دریا - پانی کی بڑی نہر - بوجھ اٹھانے والا - اونٹ فربہ اور موٹا - لشکر - فوج - گروہ آدمیوں کا

زق *ziqq*, *f.* a water-bag made of skin. مشک پانی وغیرہ کی

زقوم *m.* a kind of thorny tree, *Euphorbia neriifolia Roxb*) an infernal tree (mentioned in the *Kuran*), the fruit of which is said to be the heads of devils whereof the damned shall eat. درخت تھوھڑ کا جو کڑوا اور زہردار ھوتا ھے اور اس میں سے دودھ نکلتا ھے ایک درخت دوزخ میں جو خوراک دوزخیونکی ھوگی

زک *zakk*, walking with short weak steps (through sickness or infirmity), to move about slowly. ناطاقتی اور دبلاپے سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا اور آھستہ آھستہ زمین پر چلنا

زک *f.* injuring, deceiving, defeating, accusing, disappointing. ھرا دینا - الزام دینا

زکاء *a.* increasing, multiplying, prospering, flourishing, enjoying, luxuriating. - بڑھنا پھولنا - زیادہ ھونا - عیش و عشرت کرنا

زکاب *f.* ink, writing fluid. لکھنے کی سیاھی

زکام *m.* rheum, defluxion, a cold. سردی کی بیماری جس میں ناک بہتی ھے

زکریا *n.* the prophet Zecheriah. نام ایک پیغمبر کا

زکرہ *m.* a cask or bag of wine شراب کی مشک

زکوۃ *f.* alms, a portion of a Musalman's property given in charity agreeably to the rules laid down in the *Kuran*, the fortieth part of one's property to be given in charity every year as enjoined by the *Kuran*. چالیسواں حصہ مال کا جو خدا کی راہ میں ھر سال دینا مسلمانوں پر فرض ھے اور یہہ صدقہ شرعی ھے

زکی *a.* pure, pious, continent, one who regularly pays the *zakat* (ذکاۃ) پاک - صاف

زکیک *a.* walking slowly. آھستگی کی چال

زکیدن *int* to mutter something to oneself through rage or anger. آپ ھی آپ غصہ اور تھر سے بڑبڑانا

زلات *f.* mistake, errors, blunders, slips. لغزشیں - غلطیاں

زلازل (*pl.* زلزلہ) earthquakes, commotions, (*met.*) misfortunes, afflictions. جمع زلزلہ بمعنی بھونچال کی

زلال *a.* pure, limpid, wholesome, *m.* water which is pure, etc. پانی شیرین اور صاف

زلزال *a* trembling, shaking. ھلنا - لرزہ کرنا

زلزلہ *m.* an earth quake. بھونچال - زمین کا لرزنا

زلف *f.* a curling lock, a ringlet, whisker, one part of the night. - ایک حصہ رات کا بالوں کی لٹ جو کانوں کے قریب ھوتی ھے

زلفت *f.* rank, class, dignity, nearness, proximity, a part of the night, (*met.*) friendship. - درجہ - منزلت - نزدیکی - ٹکڑا رات کا مجازاً دوستی

زلفین *f.* chains, locks. زنجیریں

زلق *m.* slipping, a grassless level plot, masturbation, onanyism. پھسلنا - زمین برابر جس میں گھاس تک نہو - ھاتھہ سے انزال کرنا

زلل *m.* erring, blundering, stumbling, falling, deficiency, loss. لغزش - نقصان

زلو *zalu* } *f.* a leech, a bloodsucking
زلوک *zuluk* } wormlike animal. جونک

زلہ *zalla*, *m.* victuals carried home by the guests from an entertainment. جھوٹا کھانا آگے کا بچا ھوا

زلیبیا *m.* a kind of sweetmeat. جلیبی جو مشہور مٹھائی ھے

زم *n.* name of a river in Maroh. شہر مرو میں ایک ندی کا نام

زمام *f.* a rein, a bridle. مہار - اونٹ کی نکیل

زمان } *m.* time, epoch, moment, an age,
زمانہ } the world, fortune, the heavens, tense, death. - وقت - عرصہ - زمانہ - ساعت - موت - عہد - فرصت

زمخت *a.* astringent. کسیلا مزہ مثل ھڑ وغیرہ کے

زمر *a* playing on a flute or a piccolo. بانسری بجانا

زمرد *m.* the emerald. ایک جوهر سبز رنگ بیش قیمت

زمره *m.* a troop, a group, crowd, multitude. جماعت - گروه آدمیوں کا

زمزم *m.* the name of the well at Mecca, called also Hagar's well. کعبه کے پاس ایک کنواں هے

زمزمه *m.* singing, a concert, to sing softly. راگ - گیت آهسته گانا

زمستان *m.* weinter ; wisdom جاڑا - فصل سرما

زمم *a.* steady, firm, resolution, intention, idea· استوارا- قصد - اراده

زمن *m.* (*v.* زمان) time, affliction, etc. - زمانه وقت - آفت

زمن *zamin, m.* a cripple, a man who is involved in worldly troubles and adversities. اپاهج - وه جو دنیا کي آفت اور مصیبت میں مبتلا هو

زمهریر *m.* cold, intense cold. سخت سردي

زمي *dim* of زمین مخفف زمین کا

زمین *a.* a cripple. اپاهج

زمین دیوار *f.* a kind of exercise, placing the hands on the ground, and then bending down so as almost to touch the earth, with the breast. نام ایک ورزش کا جس کو ڈنڈ پیلنا کهتے هیں

زمین دوز *m.* a kind of tent. ایک قسم کا خیمه

زمین در زمین *f.* the whole earth, the universe. تمام زمین

زمین زاده *a.* created out of dust (a man). خاکي پیدائش

زمین کینه *a.* very malicious and spiteful. بڑا کینه والا

زمین مرده *f.* a barren land, a land unfit for cultivation. وه زمین جو قابل کهتي کے نهو

زن *f.* a woman, a wife. جورو - عورت

زنا *f.* adultery, fornication. حرام کاري - فیو منکوحه عورت سے صحبت داري کرنا

زنا *zanna,* a great adulterer, a fornicator. بڑا زنا کرنے والا

زنار *f.* a belt, the Brahmanical sacred thread. جنیو - وه دهاگا جو هندو لوگ گلے میں پهنتے هیں

زنانیر (*pl.* of زنار) pebbles, stones, flies. جمع زنار کي اور بمعني سنگریزے - چهوٹي مکهیاں

زن بهره *m.* a pimp, one who gives his wife for unlawful purposes and lives on what she earns. قرم - قرمساق - بهڑوا

زنبق *m.* a flower, the jasmine, lily, iris. ایک پهول نهایت خوشبودار اور تیز بو - گل چنبه - گل چمیلي

زنبور *m.* a hornet, a wasp, a bee (*pl.* زنابیر) بهڑ جو مشهور ڈانک مارنے والي مکهي هے

زنبورک *f.* a large gun, a small cannon which is carried on the camels. بڑي بندوق - چهوٹي ترپ - جو اونٹوں پر لے جاتے هیں

زنبوره *m.* a small cannon, name of the point of a musical instrument, the barbed head of an arrow. - چهوٹي ترپ - نام ایک سازکا تیر کي پهال

زنبیل *f.* a basket, a purse, a wallet. - تهیلي جهولي

زنجبیل *f.* dry ginger, name of a fountain in Paradise. سونٹهه - سوکهي هوئي ادرک - نام ایک چشمه کا بهشت میں

زنجیرمو *m* a man with curling locks (of hair). گهونگر والے بالوں والا

زنجیري *m.* a captive, a prisoner, a mad man. قیدي - دیوانه

زنخ / زنخدان } *m.* the chin, the pit in the chin, taunt, a fool, an idiot - ٹهوڑي طعنه - بیهوده

زنخ زدن *id.* to talk a nonsense, to babble. بیهوده گوئي کرنا

زنخواستن *inf.* to want a wife (to marry). عورت کي طلب گاري کرنا

زند *f.* the wrist-bone. بند دست - کلائي کي هڈي

زندان *m.* a prison, a jail or gaol. قید خانه

زندانیان *m.* prisoners, captives. - قیدي لوگ بندهوے

زند باف / زند خوان } *f.* a nightingale, a dove, a turtle-dove. بلبل - فاخته - قمري

زندلات *f.* a nightingale, a turtle-dove, a dove, a sweet singing bird, a captive. - بلبل قمري - فاخته - پرند خوش آواز اور بمعني قیدي

زندقه *m.* impiety, heresy, atheism. - کفر ناپاکي - منافقت

زنده رود *m.* a large rivor, name of a great canal in Ispahan. بڑي ندي - بڑي نهر کا نام اصفهان میں

زنده شدن باد *phr.* blowing of the wind. هوا کا چلنا

زندیق *n.* an infidel, a fire-worshipper, an atheist, one of a bad religion. - بیدین - کافر بے ایمان - ملحد

زنگ *n.* a bell, a gong, a conch, name of the country of Zanguebar, in Africa, rust, dross (of metals), moonlight, sunshine, water, wine, *a.* fierce, sharp. - گهنٹه - گهنٹالا ناقوس - نام افریقه کے ایک ملک کا - میل لوهے وغیره کا - چاندني - دهوپ - تند - تیز - پاني - شراب

زنگلہ } *m.* a cymbal, a bell, small bells
زنگولہ } worn round the legs while dancing. جھانجھہ - گھنتہ - گھونگھرو

زنگلہ شاوران *m.* name of a very famous Persian wrestler. نام ایک بہت بڑے پہلوان ایراني کا

زنگي *m.* an Ethiop, negro. مالک زنگ کا - حبشي

زنہار care, caution, protection, shelter, refuge, promise, covenant, treaty, security, fear, dignity, complaint, abstinence, sorrow, grief, haste, sense, *adv.* never. - پناہ امان - مہلت - بچاؤ - عہد - پیمان - امانت - خوف - شکوہ - شکایت - پرھیز - حسرت - افوس - شتاب - جلد - ھوش - آگاھي اور بمعني ھرگز کے بھي ھے

زنہار خوار *m.* one making a breach of promise, breaking a treaty. عہد کا توڑنے والا

زنہار خواہ *m.* one seeking a shelter. پناہ مانگنے والا

زنیق *f.* firm, steady, strong, established محکم - استوار

زواجر (*pl.* of زاجرۃ) prohibition, forbidden things, things prohibited by law. - موانع روکنے والي چیزیں

زوار *m.* a visitor, a pilgrim. بہت تجارت کرنیوالا

زوال *m.* decline, misery, wretchedness, changing from one state to another, to be at a distance from a place, to perish, to annihilate. جاتا رھنا - ایک حال سے دوسرے حال میں ھو جانا - کسي جگھہ سے دور ھوجانا - نیست و نابود ھوجانا

زواھر (*pl.* of زاھرہ), flowers, ornaments, *a.* bright, high. کھلا ھوا پھول - روشن - بلند

زوایا (*pl.* of زاویہ), corners, angles. گوشے - کونے

زوائد (*pl.* of زائدہ), additions, augmentations. جمع ھے زائد کي - وہ اشیا جو مطلب سے زیادہ ھوں

زوج *m.* a couple, pair, alike, a spouse, a husband, an even number. - جوڑا - جفت (خواہ مرد خواہ عورت) - عدد جب اُس کو نصف کریں تو دونوں ٹکڑے اُس کے بغیر ٹوٹنے کے برابر رھیں جیسے چار - چھہ - آٹھہ وغیرہ

زوجہ *f.* a wife. جوڑا - منکوحہ عورت

زود *a.* quick, swift, soon, suddenly. - جلد شتاب

زود خیز *a.* cunning, sly, artful. چالاک

زود سیر *f.* unstable, inconstant, irresolute. ناپائدار چیز

زور *zur, m.* a lie, a falsehood, deception, fraud. جھوٹھہ - فریب

زور آزما *m.* a wrestler, powerful. پھلوان

زورق *n.* a small ship, a skiff, a boat. چھوٹي کشتي

زورمند *a.* robust, powerful. طاقتور - زورآور

زورہ *m.* spine, the backbone or spinal column. ریزہ کي ھڈي

زوزہ *m.* lamentation, cry, tumult, disturbation. نوحہ - گریہ - ماتم - شور - غوغا

زوزن *n.* name of an ancient city in Khurasan between Herat and Shahpur. نام ایک شہر کا خراسان میں درمیان ھرات اور شاھپور کے

زولیدن *inf.* to be entangled, to be involved in a quarrel or difficulties. اُلجھنا

زہ *inter.* good! excellent! *f.* a bowstring, fringe, border, edge. کلمہ تحسین کا یعني شاباش - آفرین - چلہ کمان کا - ھر چیز کا کنارہ جیسے زہ گریبان - زہ حرض

زہ *f.* offspring, childbirth. نطفہ - بچہ - فرزند

زھاد (*pl.* of زاھد), religious men, pious men, saints, *a.* abstinent. عابد - زاھد لوگ - پرھیزگار لوگ

زھادپ *f.* abstinence, piety, religiosity. تقوی اور پرھیزگاري - زھد

زھد *m.* continence, devotion, abstinence. پرھیزگاري کرنا - تقوی کرنا

زھدان *m.* the womb, the matrix. بچہ دان رحم عورتوں کا جس میں مرد کا نطفہ قرار پاتا ھے

زھرا *n.* an epithet of Fatima. لقب فاطمہ کا

زھربا *m* a poisoned food. زھر ملا ھوا کھانا

زھرِدارو an antidote, a remedy for poison. تریاق

زھرگیا *n.* the name of poisonous grass. ایک زھردار گھاس کا نام

زھرناب *m.* bitter water. کڑوا پاني

زھر نوشیدن *inf.* to endure one's harsh treatment. دوسروں کے سخت کلام کي برداشت کرنا

زھرہ *m.* the planet Venus, name of a woman with whom Harut and Marut (the two angels had fallen in love, the Quraish tribe (because they are of a white complexion and handsome.) نام ایک ستارہ کا جس کو سوک کہتے ھیں - نام ایک عورت کا جس پر ھاروت اور ماروت فرشتے دونوں مائل ھوئے تھے - اور بمعني سفید رنگ اور حسین - نام قبیلۂ قریش کا

زھرہ *zuhra, m.* bile, gall-bladder, spirit, boldness, pluck. پتہ - دلیري - شجاعت - قوت

زھرہ باختن *id.* to be timid or coward. نامردي کرنا

زھف *a.* becoming light or easy, running. ھلکا ھونا - دوڑنا

زهق *a*. perishing, annihilating, dying. نيست و نابود هونا - موجانا

زهق *zahiq*, *a*. swift-running. تيز رفتار

زهق *zahaq*, the land of a jungle where there are no trees or water. زمين ايسے جنگل کي جس ميں درخت اور پاني نهو

زهمت *f*. the unpleasant rank or stinking smell of rotten meat or fish. سڑے هوے گوشت اور مچهلي کي بدبو جو ناگوار گذرے

زهوق *a*. perishing, annihilating, destroying, repellation, annulment. نيست هونا - هلاک هونا - باطل هونا

زهي *inter*. bravo! well done! admirable! there! lo! behold! - کلمه تحسين کا هے - آفرين - شاباش

زهير *a* opened, bright, shining, a tree laden with buds or blossoms. کهلا هو - تاباں روشن - درخت کليوں سے لدا هوا

زي *st*, estimation, idea, limit, side, near, and *dim*. of زيست - اندازه - حد - طرف - نزديک - اور مخفف زيست کا

زي *f*. life, life-time. حيات - زندگي

زي *zii*, garment, dress, cloth. لباس - جامه - پوشاک

زياد } augmentation, surplus, addi-
زيادت } tion, *adj*. great, excessive,
زيادتي } more, too much. - زياده هونا
زياده } بهت افزوں

زياده سري *f*. boastfulness, arrogance, pride, rebellion, selfishness. غرور - سرکشي - خودپسندي

زيارت *f*. pilgrimage, visiting. ملاقات کسي بزرگ سے - آدمي يا مزار وغيره کو ديکهنا

زيافت *f*. perfidious, impious, false, faulty, defective, base (as coin). کهوٹا هونا - کهوٹاپن

زيان *m*. loss, damage, deficiency. - نقصان - حرج

زيب ornament, elegance, beauty. - زينت - زيبائش

زيبا *a*. adorned, beautiful. - لائق - آراسته - زيب اور زينت دينے والا

زيبق *m*. quicksilver. پاره

زيبيدن *inf*. to adorn, to decorate. - زيبا هونا - آراسته هونا

زيتون *m*. an olive-tree. ايک مشهور درخت کا نام

زيت *f*. olive oil. زيتون کا تيل

زيج *m*. astronomical tables, of which there are several in the Persian language, a mason's rule. نجوميوں کي کتاب جس ميں حرکت آسمانوں اور ستاروں کي نقشوں ميں لکهي هوتي هے

زير *zer*, *prep*. under, below, the vowel-point called by the Arabian *kasra*, correspondent to *i* in *fit*. نيچے

زير *zir*, *f*. a fine soft sound, the smallest string of a lute, &c., the treble. آواز باريک جو بم کے مقابلے ميں هوتي هے - نام ايک پردے کا موسيقي سے

زيرافگن *n*. a carpet, a bedding; name of a *rag* or musical mode sung at dawn in autumn. دري - توشک - نام ايک راگ کا بهيروں

زيرا } *conj*. because, because that, since,
زيراکه } on account. اسواسطے - اسليئے

زيربا *m*. a kind of dish. ايک قسم کا کهانا

زيربند *m*. a martingale. وه تسمه جو گهوڑے کے نيچے باندها جاتا هے

زير بار شدن *inf*. to be indebted, to undergo a great expense. وه شخص جس پر بوجهه پڑا هو

زير جامه *m*. an underdrawer, trousers. پاجامه - ازار

زير چلق *a*. defeated, soft, obedient, subjected, under command. - محکوم - مغلوب - نرم - فرمانبردار

زيردست *m*. a subject, a vassal, *adj*. powerless, under command, hidden, concealed. مغلوب - پوشيده

زيرک *a*. ingenious, intelligent, sagacious, penetrating, acute. عقلمند - دانا - حکيم

زيروزبر *m*. change, alteration, overpower, overturn. اُلٹ پلٹ - اوپر نيچے

زيست *f*. life, living, existence, زندگي - جينا

زيستن (*r*. زي) *inf*. to live, to exist. جينا

زيف *f*. light or clipt money, current, but not receivable at the public treasuries. کهوٹا روپيه اور اشرفي يعني ٹکسال باهر جس کا چلن نهو

زينب *f*. name of one of *Muhammad's* wife. محمد کي بيبيوں ميں سے ايک کا نام

زينت *f*. ornament, beauty, elegance, dress, decoration. آرائش - سجيلاپن - وه چيز جس سے آرائش کريں مثل عمده کپڑوں اور زيور وغيره سے

زين *m*. ornament, honour. آرائش - عزت

زين *f*. a saddle. کاٹهي گهوڑے کي

زينهار (see زنهار).

زينه *m*. a ladder, stairs, steps. سيڑهي

— ژ —

ژ *zae* called *zae farsi* or *ajami*, is the fourteenth letter of the Persian alphabet and has no corresponding character in the Arabic alphabet ; its sound is that of *s* in the English word pleasure, or of *z* in azure.

ژاژ *m.* a kind of thistle, idle, trifling or indecent speech. ایک گھاس هے سفید اور سخت اور کانٹوں والي اور بدمزہ - سست

ژاژ خاے *m* a trifler, one who speaks obscenely, one who talks nonsense. وہ شخص جو بیہودہ اور بے معني اور بیفائدہ باتیں کرے

ژاغر *m.* the first stomach (a membranous sack) of the birds. پرند جانوروں کا پوٹہ

ژالہ *m.* hail, hoar, frost, it means dew in the following couplet by *Sa'di,* ژالہ بر لالہ فرود آمدہ هنگام سحر * راست چوں عارض گلبوے عرق کردۂ یار, a kind of floating boat made of inflated skin-bags which are tied together and on which sticks are fixed firmly and closely, and grass is spread to form seats. اولا جو آسمان سے برستا هے - شبنم - جالہ جو چند مشکوں کو پھلا کے آپس میں باندھہ کے اوپر مشکوں کے لکڑیاں باندھہ کے گھاس وغیرہ ڈال کے اُس پر بیٹھتے هیں اور دریا کے پار اترتے هیں

ژخ *m.* a wart, a mole, lamentation, cry, complaint, noise. مسہ جو آدمي کے بدن پر سیاہ رنگ کا هوتا هے اور بمعني نالہ اور فریاد اور شور کے بھي

ژرد *a.* eating much, gluttony, excess in eating. کھانا بہت کھانا

ژرف *a.* deep, being far below the surface, descending far downward. عمیق - گھرا

ژفک *n.* slime, viscous substance exuded by certain animals. لعاب

ژکیدن *inf.* to fear, to dread. ڈرنا

ژند *n.* an old garment, a mendicant's habit, a patched garment, a rag, flint, everything big, small and dreadful, name of a book of Zoroaster which, he said, descended on him from heaven, name of a mountain. پرانا کپڑا - گدڑي چیتھڑا - چقماق اور هر چیز بڑي اور ننھي اور خوفناک - نام کتاب زرتشت آتش پرست کا جس کو وہ کہتا تھا کہ آسمان سے مجھ پر اُتري - نام ایک پہاڑ کا

ژندباف *n.* a nightingale, a turtle-dove, a dove, all singing birds like these. - بلبل - قمري فاختہ - اور مثل اُن کے جو خوش آواز پرند هو

ژندرود *m.* name of a canal in Ispahan. نام نہر کا اصفهان مین

ژندي *f.* state of being old, oldness. - کہنگي پرانا پن

ژولیدہ *a.* confounded, confused, scattered, intricate, entangled. - پریشان - درهم برهم اُلجھا هوا

ژولیدن *inf.* to be entangled, to be intricate, to be confounded. اُلجھنا - پریشان هونا

ژهیدن *inf.* to leak (as a roof by rain). چھت کا ٹپکنا مینھہ وغیرہ سے

ژیان *a.* formidable, rapacious, terrible, fierce, furious. - خشمناک - غصہ میں بھرا هوا تندخو - اُس لفظ کا اطلاق کل درندوں اور شکاري جانوروں اور شکاري پرندوں پر هوتا هے - اور بعضوں نے انسان کو بھي اِس لفظ میں داخل کیا هے

ژیغ ژیغ *a.* by drops, (falling) by drops قطرہ قطرہ

— س —

س *sin,* usually named *sin-e-muhmala* or *sin-e-gair manqula,* is the fifteenth letter in the Persian and the twelfth in the Arabic. In almanacs it represents the sun, and a sextile aspect of the planets. In reckoning by ابجد its value is sixty.

سا added to a substantive denotes similitude. مانند - مشابہ - موافق

سابح *m.* a fleet horse, a swimmer. گھوڑا نہایت دوڑنے والا - آدمي پاني میں تیرنے والا

سابع *ord.* of seven, the seventh. ساتواں حصہ

سابق *a.* former, preceding, formerly, of yore, time past, a teacher. - اگلا - بڑھا هوا سبقت لیجانے والا - لڑکوں کا سبق دینے والا

سابقہ *a.* preceding, past, ancient, as former friendship, previous intimacy, the first wife. وہ امر جو پہلے سے کسي کام کے سر انجام کا وسیلہ هو - زمانہ سابق کے معرفت اور جان پہچان - پہلي عورت

سابقہ سالار *m.* a head, a noble, a chief. سردار

سابقین *m.* the people of former time, men of past ages. اگلے زمانہ کے لوگ

ساتر *a.* covering, hiding, concealing. ڈھکنے والا - چھپانے والا

ساتگین *m.* a large cup of wine. بڑا پیالہ شراب کا

ساج *m.* the teak tree (*tectona grandis*), a kind of stone used for polishing swords etc., name of a bird. سال کي لکڑي - ایک قسم کا پتھر جس سے تلوار وغیرہ کو صیقل کرتے هیں - نام ایک پرند کا

ساجد *m.* one who is prostrate in adoration, an adorer, a worshipper. - سر جھوکانے والا سجدہ کرنے والا

ساجور *m.* a dog's collar کتے کے گلے کا پٹہ

ساچق *m.* hinna, sweets, dresses, etc., presented to the bride, on the day of marriage, wedding gifts of various kinds. ایک دو روز اول شادي کے کچھ گھوڑے میوہ اور شیرینيء نقل وغیرہ کے مع لباس دلہن کے جو دلہا کے گھر سے دلہن کے گھر لیجاتے هیں

ساچمہ *m.* shots collectively, bullets collectively, a missile from a gun. چھرا جو بندوق میں بھرکر مارتے هیں

ساحبہ *m.* a heavy rain. باران شدید

ساحت *f.* an area or inclosed space, court, quadrangle, shore or coast, tract of country. میدان - آنگن - صحن

ساحر *m.* an enchanter, a magician, a necromancer. جادوگر

ساحرہ *fem.* of ساحر. مونث ساحر کي - جادوگرني

ساحق *m.* a grinder. پیسنے والا - رگڑنے والا

ساحل *m.* the sea-shore. دریا کا کنارہ

ساختن (r. ساز), to make or form, to counterfeit. موافقت کرنا - بنانا

ساخت *a.* make, construction, manufacture, pretence. بناوٹ - بناؤ - بنانا

ساختہ رو *a.* modest, bashful, cynical, morose, stern, hard-favoured, ugly. - شرمندہ - ترشرو منھہ بنائے ہوئے

سادات (double *pl.* of سائد), lords, etc. جمع الجمع سائد کي

سادس *ord.* of six, sixth. چھٹا حصہ

سادگي *f.* plainness, want of ornament, artlessness, simplicity, openness. - صفائي بے آرائشي

سادہ *m.* a youth, a young lad, an idiot, a fool, anything unadorned (or unornamented), *a.* pure, empty, freedom, at leisure. - لڑکا بے ڈاڑھي والا - احمق - نادان خالص - خالي - فارغ - بے نقش کي کوئي چيز

سادہ پرکار *n.* a mistress who may be very saucy and artful. معشوق جو بڑي شوخ اور عیار هو

سادہ دل *a.* artless, simple, stupid. - نادان احمق

سادہ روے *a.* not having whiskers (a young lad), a mistress. بے ڈاڑھي مونچھ کا اور کنایہ معشوق سے

سادہ لوح *a.* artless, simple, stupid, unmannerly. احمق - بے شعور

ساذج *n.* name of an aromatic leaf (*Laurus cassia*) نام ایک دوا کا جس کو تیزپات کہتے هیں (هندي)

سار *m.* the name of a black bird of a musical note, it is a particle denoting plenty, magnitude, or similitude, as کوهسار a mountainous country, عنبر سار full of ambergris, شاهسار like a king, sometimes used for سر the head, as نگونسار inverted, with the head undermost, a camel نام ایک پرند سیاہ رنگ خوش آواز کا - اور بہت سے معنوں میں استعمال هوتا هے

سارا *a.* pure, excellent, sweetsmelling, undefiled, as عنبر سارا the most odoriferous ambergris. خالص اور یہہ لفظ سوائے عنبر اور مشک اور زر کے اور کي صفت واقع نہیں هوتا هے - اور کشف میں لکھا هے کہ سارا ایک قسم عنبر کي هے

ساربان } ساروان } *m.* a camel driver. شتربان

سارق *m.* a thief, a plunderer, (*pl.* سارقین). دزد - چور

سارہ *m.* a kind of sheet, a bribe, name of the wife of Abraham, Sarah. ایک قسم کي چادر - رشوت - نام زوجہ حضرت ابراهیم کي

ساري *a.* passing, penetrating, pervading, flowing, infecting, contagious. - اثر کرنے والا کسي چيز کے کل اجزا میں پہونچ جانے والا

ساز *m.* arms, apparatus, accoutrements, harness, furniture, a musical instrument, concord, ability, pomp, dignity, hospitality, feast, reception, fraud, deception, profit, similitude, a juggler, a conjuror, *a.* powerful, strong, able, active, alert. بناؤ - باجہ - سامان سفر - استعداد - کام کي رونق - تجمل - لڑائي کے هتھیار - مہماني - ضیافت - چاق - توانا - مکر - حیلہ - مانند - مثل - موافق - نفع - نت

سازش *f.* combination, collusion, confederacy, union, accord. لگاؤ - میل - اتفاق

سازیدن *inf.* to join, to unite, to combine, to amend. سازش کرنا - موافقت کرنا - راست کرنا

ساس *m* a bug, a flea, a louse. کہٹمل جو بودار کیڑا ہوتا ہے اور چارپائي میں ہوتا ہے

ساسان *m.* name of king Behman's son, who had escaped for fear of his sister Huma and had turned a fakeer. نام بہمن بادشاہ کے بیٹے کا جو اپني بہن ہما کے خوف سے بہاگ کر فقیر ہوگیا تہا

ساطر *m.* a butcher. قصاب

ساطع *a.* high, shining, bright. بلند - چمکتا ہوا

ساطور *m.* a butcher's knife, a dagger. قصاب کا چہرا - خنجر

ساعات (*pl.* of ساعت), moments, minutes, hours, etc جمع ساعت بمعني گہڑي - لمحہ وغیرہ کي

ساعت *f.* a moment, minute, hour, a watch or clock. دہڑي گہڑي - گہنٹا

ساعت سنگین *f.* inauspicious moment. منحوس ساعت

ساعد *f.* the arm from the wrist to the elbow, the fore-arm. بازو مگر فارسي کے استعمال میں ہاتہہ کي کہني سے نیچے اور ہتیلي سے اوپر کو ساعد کہتے ہیں

ساعور *m.* an oven, a fire place. روٹي پکانیکا تنور

ساعي *m.* one who attempts or endeavours, a recommender, *adj* earnest, eager, a backbiter. - کوشش کرنے والا - درخواست کرنے والا - چغل خور - بدگوئي کرنے والا

ساغر *m.* a cup, a goblet, a bowl پیالہ شراب کا

سافر *m.* one about to travel, a traveller, apparent, a lean horse, a broad faced woman. سفر کرنے والا - مسافر - ظاہر - عورت رو کشادہ - گہوڑا کم گوشت یعني دبلا

سافل *prep* below, under, low, beaten, defeated. نیچے والا - زیر - پست

ساق *n.* the calf of the leg, the trunk of a tree, the stalk of a herb. پنڈلي

ساق عروس *n.* name of a Persian sweetmeat. ایران میں ایک مٹھائي کا نام

ساقط *a.* falling, worse, bad, worthless. گرنے والا - گرا ہو - نکما

ساقي *m.* a cup bearer, a page. شراب پیلانے والا

ساکت *a.* silent, quiet, at rest. چپکا - خاموش

ساکن *n.* an inhabitant, *adj.* quiet, peaceable, a quiescent letter, *i. e.*, a consonant not followed by a vowel ٹہرا ہوا - بے حرکت

سالار *m.* a chief, head, leader, prince, captain. سردار

سالار خوان *m.* a-cook, the superintendent of a kitchen. بکاول - باورچي

سالخورد *a.* old, aged, decrepit. - کہنہ - بوڑھا - پرانا

سالغ *m.* a bull or a goat six years old. چہہ برس کا بیل یا بکرا

سالف *a.* former, past. اگلا - قدیم جو پہلے گذر گیا ہو

سالک *salik*, going, *m.* a traveller, (*met*) a devotee, a class of *Muhammadans* who observe the law and lead a domestic life, (*pl* سالکان). - راہ چلنے والا - ایک قسم صوفیوں کي جمع سالکان

سالم *a.* safe, free, perfect, full, healthy. ثابت - تندرست - پورا

سالوس *m.* } hypocrisy, trick, subterfuge,
سالوس *f.* } fraud. فریبي - زبان دراز - چرب زبان - مکار - فریب

سالوک *m.* a great traveller, a tourist, an explorer, a thief, a plunderer. بڑا سفر کرنے والا - سیاح - چور - لٹیرا

سالیان (*irr. plu.*) years. برس - سال

سام *m.* death, destruction, gold, silver, name of a mountain, name of a celebrated hero in old Persian romance, father to *Zal*, and grandfather to *Rustam*, name of Noah's son *Sam*, pain, fire. - موت - ہلاکي - سونا - چاندي - نام ایک پہاڑ کا - نام رستم کے دادا کا - نوح کے بیٹے کا نام - درد - ورم - آگ

سام *samm*, one who poisons or mixes poison in some one's food. زہر دینے والا - کہانے میں زہر مخلوط کرنے والا

سام ابرص *n.* a large and venomous kind of lizard, an iguana. نام ایک زہر دار چہپکلي کا - گوہ

ساماخچہ } *n.* a kind of bodice, worn by In-
ساماکچہ } dian women. عورتوں کا سینہ بند جسے انگیا کہتے ہیں

سامر *m.* a story-teller, a narrator. - قصہ گو داستان کہنے والا

سامري *n.* name of a magician, said to have been contemporary with Moses, *adj.* Samaritan. نام ایک ساحر کا جس نے موسی کي قوم کو گمراہ کیا تہا

سامرہ *m.* Samaria. نام ایک قصبہ مشہور کا حرمین میں

سامع *m.* a hearer, a listener. سننے والا

سامعہ *n.* power of hearing, the ear. کان میں جو قوت سننے کي ہو

سامي *a.* exalted, sublime, high. بلند - اونچا

سان like, *m.* likeness, sign, a piece, part, portion, similitude, custom, mode, way, nature, habit, consequence, arrangement, *f.* a whetstone, a grindstone. رسم - طرز - روش - عادت - مانند - مثل - سامان - سرانجام - سوهان - تكڑا - پارہ - حصہ - تلوار يا چھري پر باڑہ ركھنے كا پتھر

سانح } سانحہ } *m.* an event, occurrence. ظاهر هونے والا - پيش آنے والا

سانون *f.* a hamper, a small basket, a small box. پٹاري - صندوقچہ

ساهرہ *m.* a level ground, hell, the judgment day. زمين هموار - دوزخ - قيامت

ساے (in *comp.*) rubbing, polishing, diffusing, resembling. گھِس - رنگ

سائبان *n.* a canopy, the roof or fly of a tent, a parasol, an umbrella. چھپر - ديوار گير جو آگ سے بچاوے

سائم *m.* one who keeps a fast, one who stays in a mosque and passes his time in devotion. (*fem.* سائمات). روزہ دار - مسجد ميں رهكر عبادت كرنے والا - مونث سائمات

سائر *m.* the whole, the remainder, going, walking, wandering, tax, duty levied on personal property, in opposition to that levied on land, which is denominated *mal*, "land customs, duty levied on transit of goods, this tax has lately been abolished."—(B). باقي - تمام - سير كرنے والا

سائغ *a.* agreeable, pleasant to the taste گوارہ - خوش مزہ

سائل *m.* one who asks, an interrogator, questioner, a beggar, a mendicant. - مانگنے والا - چاهنے والا - پوچھنے والا - جاري هونے والا

سائبہ *m.* a term applied to camels, goats, &c. وہ چوپايہ جو باهر چرا كريں

سايہ افگندن *id.* to attend to, to form a friendship or love. توجہ كرنا - محبت اور شفقت كرنا

سايہ دست *n.* help, assistance. مدد - اعانت

سايہ پک كلاہ *m.* a royal pomp and show. شاهي فرو شوكت

سائيدن *inf.* to grind, to rub, to polish. پيسنا

سب *sabb*, abuse, cutting, curtailing, lancing. دشنام - گالي - كاٹنا - قطع كرنا - نيزہ مارنا

سب *sib*, *n.* a turban, a sheet (of cloth), a rope, a fine cloth, *a.* abusing. - چادر - پگڑي - رسي - مهين كپڑا - بهت گالي دينے والا

سبا *m.* a country (Sheba) in Arabia Felix, where they suppose *Balkis*, the queen who visited Solomon, to have reigned نام اُس شهر كا جسكي بلقيس زوجۂ حضرت سليمان حاكم تهي - اور يہ ملک يمن ميں هے

سبابہ *n.* the forefinger. پهلي انگلي هاتهہ كي انگوٹھے كے پاس والي

ساحت *f.* swimming in water. پاني ميں تيرنا

ساح *m.* a swimmer. تيرنے والا

سباخ *n.* lands impregnated with salt كهاري زمين

سباع (*pl.* of سبع), lions, wild beasts. درندے جانور مثل شير بهيڑيے وغيرہ كے

سباق *f.* act of surpassing or excelling (in running). دوڑنے ميں ايک دوسرے پر پيشي اور سبقت ليجانا

سباک *m.* one who moulds or casts a coin, a goldsmith. سكہ ڈهالنے والا - روپيہ اور اشرفي بنانے والا - زرگر - سنار

سبال (*pl.* of سبلت), moustaches, whiskers. جمع سبلت بمعني مونچهہ كے

سبت *m.* Saturday. هفتہ كا دن - سنيچر

سبحان *m.* praising, glorifying (God), a title of the Deity. اسم مصدر هے - حق تعالى كو پاكي كے ساتهہ ياد كرنا

سبحان اللہ *int.* O God! O Holy God! a term of surprise. پاک هے اللہ - پاكي سے خدا كو ياد كرتا هوں

سبحان حي الذي لايموت "Holy is He (alive, God) Who shall never die." پاک هے وہ زندہ جو كبهي نہ مرے گا

سبحہ *m.* a rosary, a chaplet for repeating prayers تسبيح

سبد *m.* a basket. ايک ٹوكرا

سبزان *n.* mistresses of a dark complexion. معشوقان سبز رنگ

سبزان چمن *m.* the trees. كنايہ درختوں سے

سبز بختي *f.* good fortune, luck. خوش نصيبي

سبز پا *a.* unfortunate, unlucky, ill-omened. منحوس اور نا مبارک قدم

سبزہ پوش *m.* an angel, the prophet Khizr. فرشتہ - خضر پيغمبر

سبز شدن *inf.* to grow, to appear, to be respectable. اُگنا - ظاهر هونا - معزز هونا

سبزطاؤس *m.* the sky, the firmament. كنايہ آسمان سے

سبزک *m.* the Jay bird (*Coracias*). نيلكنٹھہ مشهور پرند هے

سبز وار *n.* the name of a city in Persia. نام ايک شهر كا ايران ميں

سبزہ *m.* verdure, incipient beard, bloom, a green stone worn in the ear as an ornament, the jay bird, the sweet basil. *Ocymum basilicum*). نيلكنٹھہ - هرياول - سبز روئيدگي - خط رخسار

سبزہ آخور *n.* the green grass used as fodder for the horses, etc. هري گهاس چرپايوں کے کهانے کي

سبزہ بيگانہ *m.* self-growing verdure. خود رو سبزہ جس کو کسي نے بويا نہو

سبپ *m.* wood, forest, wilderness. - جنگل بيابان

سبط *m.* a grandchild, progeny, a tribe, family. بيٹے کي اولاد - قوم - قبيلہ

سبط *sabt* / سبط *sabat* / سبط *sabit* } long, straight, over-hanging hair (not curly). لمبے اور سيدهے اور لٹکے هوئے بال جو گهونگر والے نہوں

سبع *card.* seven. سات ٧

سبع *sub'*, ravenous beasts like lions, tigers, wolves, bears, etc. - درندے جانور مثل شير بهيڑيے - ريچهہ وغيرہ کے

سبع *sub'*, *ord.* the seventh part, a seventh, the seventh part of *Kuran* also called *Manzil.* کسي چيز کا ساتواں حصہ - قران کا ساتواں حصہ جسے منزل بهي کہتے هيں

سبع المثاني stands for *sura-ul-hamd,* some say it means the whole *Quran.* کنايہ سورہ الحمد سے - بعضے کہتے هيں کنايہ تمام قران شريف سے مراد

سبع شداد stands for the seven heavens. ساتوں آسمان سے

سبعہ الوان *m.* the seven chief colours, black, white, red, green, purple, yellow and blue. سياہ - سفيد - سرخ - سبز - زرد - نيلا

سبعہ طوال / سبعہ معلقات } the seven famous eloquent poets of Arabia who had fixed up seven poems on the gate of the temple of Mecca to advertise their perfection. عرب کے فصيح اور بليغ اور مشہور سات شاعروں نے سات قصيدے کہکر کعبہ کے دروازہ پر نظر کي راہ سے لٹکا ديئے تهے تاکہ لوگوں پر ان کا کمال ظاهر هو

سبعين *card.* seventy. ستر (٧٠)

سبق بردن *id.* to surpass, to excel. - غالب هونا سبقت ليجانا

سبقت *f.* excelling, surpassing, preceding, aggression. آگے جانا - پيشي ليجانا

سبک *a.* (light either in weight or character), debased, unsteady, active, cunning, shrewd, unconcerned, haste. هلکا - مجازاً بيوقار - چست - چالاک - بے تعلق - شتاب - جلدي

سبک *sabak*, casting, moulding, melting, dissolving. ڈهالنا سکہ کا - چاندي سونے کا گلانا

سبکپا *a* light of foot, a courier. تيز رفتار

سبک جولان / سبک خيز } *a* active, swift, shrewd, vigilant, alert. چالاک - تيز قدم

سبک رو *a.* swift-footed, light of steps تيز رفتار

سبک روح *a.* of a cheerful spirit, jovial, unconcerned, inceremonious, free from malice or pride, active, alert, swift. ظريف - خوش گفتار - بے تعلق - بے تکلف - بے کينہ - بے غرور - چست - چالاک - تيز رفتار

سبکسر *a.* light-headed, contemptible. - کمينہ فرومايہ

سبک سير / سبک عنان } *a.* swift, active, swift-footed. تيز رفتار

سبک مغز *a.* fool, an idiot. بے عقل - بے وقار

سبکائي / سبکي / سبکگي } *f.* lightness, levity, frivolity, rashness, folly, affront, indignity, dishonour. - هلکا پن - بيعزتي بيقدري

سبل *n.* inflammation of the eye, redness in the eye, an eye-disease, a hair in the eye which causes much pain. آشوب چشم - سرخي جو آنکهہ ميں پيدا هوجاتي هے - ٹيڑها بال جو آنکهہ کے اندر پيدا هوجاتا هے - نام ايک مرض کا آنکهہ ميں

سبل *subul,* (*pl.* of سبيل), ways, means, institutions. جمع سبيل بمعني راہ کي

سبلت *f.* a moustache, whisker. مونچهہ

سبو *m.* a cup, a glass, an ewer, a jar, a pitcher. ٹهليا - گهڑا

سبوح *subbuh,* holy, an epithet of God. بڑا پاک - يہہ خدا کا نام هے

سبوم *m.* one who praises a lot. بهت تعريف کرنے والا

سبوس *m.* bran, chaff, sawdust. - آٹے کي بهوسي چوکر - چهانن گيهوں وغيرہ کي

سبوسہ *m.* a kind of scales or dandruff formed on the head. بفا جو سر ميں هوجاتي هے

سبيل *f.* a road, way, path, mode, manner, water or sherbet distributed to thirsty travellers during the first ten days of the *Muharram.* - راہ - راستہ - سڑک - وقف - پاني اور شربت جو راہ خدا ميں وقف کرے

سپارش / سفارش } *f.* a recommendation, intercession, introduction, entrusting. کسي سے کسي کے حق ميں کوشش کرنا - سپرد کرنا کوئي شے کسي کو

سپاس *f.* praise, thanksgiving. - تعريف کرنا دل و زبان سے کسي کا شکر کرنا

سپاس بردن *id.* to praise, to be thankful. تعريف اور شکر کرنا

سپاناخ *m.* spinach (a kind of green). پالک کا ساگ

سپاہ *f.* (used in the *pl.*) soldiers, an army. فوج

سپاهان *n.* Ispahan, a city in Persia. نام ایک شہر کا ایران میں

سپر *f* a shield, a target. ڈھال

سپر افگندن / سپر در آب انداختن } *id.* to lose courage, to be timid, to prove a coward in war. جنگ میں نامردی کرنا

سپردن *inf.* to give in charge, to consign, to hand over, to be contented. سونپنا - سپرد کرنا - امانت رکھوانا - قناعت کرنا

سپردن *sipardan, inf* to walk, to go, to tread, to finish. راہ چلنا - جانا - پامال کرنا - تمام کرنا

سپرز *m.* the spleen, the milt. تلی جو پیٹ کے اندر ہوتی ہے

سپر غم *m.* the name of an herb (*Ocymum pilosum, Roxb*) ویحان جس کو فارسی میں نازبو اور ہندی میں مروہ کہتے ہیں - اس کے سونگھنے سے دل کو قوت اور فرحت حاصل ہوتی ہے گویا سپر ہے غم کی

سپری *f.* completed, concluded, worthless تمام اور آخر ہوئی شے - ناچیز

سپری شدن *id* to pass, to end, to be over, to be settled. طے ہونا - گذرنا - تمام ہونا - آخر ہونا

سپستان *m.* name of a glutinous fruit (*Coria myxa*) or (*Cordia latifolia, Roxb.*) لسوڑا جو ایک مشہور درخت کا پھل ہے

سپش *sipush,* louse, a wingless insect, parasitic on man and other animals. جوں جو آدمی کے سر اور کپڑوں میں پڑجاتے ہیں

سپند *m.* name of a mountain, a kind of black seed which is burnt to avert evil influence, wild rue. نام ایک پہاڑ کا - کالا دانہ جو نظر بد کے لئے جلاتے ہیں

سپندان *m.* black seed, mustard, a fire-place (*contr.* from of (سپنداں). کالا دانہ - رائی - اور بمعنی انگیٹھی مخفف سپندان کا

سپوختن / سپوزیدن } to prick, to pierce, to goad, to thrust into. چبھونا

سپہ *contr.* from of (سپاہ), an army, etc. مخفف سپاہ کا

سپہبد *m.* a captain, commander. - سردار لشکر سپہ سالار

سپہر *m.* the sky, the heaven. آسمان

سپید *f.* white, name of a fort in Turan, name of a river, name of a demon. ایک رنگ مشہور ہے - نام قلعہ طوران کا - نام ایک ندی کا - نام ایک دیو کا

سپید بخت *a.* lucky, fortunate, good luck. نیکبخت - خوش نصیب

سپیدست *a.* liberal, munificent, an epithet of Moses, a thief, a robber, a triator, following a perfidous profession. - مرد سخی لقب موسی کا - چور - دغاباز - خیانت پیشہ

سپید شدن *id.* to come into light, to be revealed, to be made known (*met.*) to be famous and respectable, to win honour and fame. ظاہر اور آشکارا ہونا - مجزاً نامور اور معزز ہونا

سپید کار *a.* one who is virtuous, sober and abstinent. وہ شخص جو نیک اور متقی اور پرہیز گار ہو

سپیدہ *n.* name of a medicine, the dawn of day. نام ایک مشہور دوا کا - کنایہ روشنی صبح سے

سپیدہ دم *n.* the morning, dawn, the white hair. صبح صادق - اور مراد سفید بالوں سے

ست *sitt,* six, six women. چھہ - چھہ عورتیں

ستا *a.* praising canopy. *contr.* of ستار three cups of wine drunk at breakfast. تعریف کرنا - شامیانہ - مخفف ہے ستارہ کا - تین پیالے شراب کے جو نہار مونھہ پیتے ہیں

ستار *sattar, m.* one who covers, an epithet of God. بڑا چھپانے والا - نام خدا کا

ستارہ *m.* a star, a kind of firework, name of a musical instrument with three strings, a guitar, luck, fortune, tears. تارہ جو آسمان پر چمکتا ہے - ایک قسم کی آتشبازی - ایک قسم کا باجہ - نصیب - طالع - آنسو

ستارۂ سحر / ستارۂ صبح } *m.* the planet Venus, which appears in the morning and sometimes in the evening, the sun. ستارہ زہرہ جو صبح ہوتے طلوع کرتا ہے اور کبھی یہہ ستارہ شام کو بھی طلوع کرتا ہے - اور بمعنی آفتاب کے بھی لکھا ہے

ستارہ شمردن *id.* vigils, night-watchings. تمام رات جاگنا

ستاخ / ستاک } *n.* a small tender shoot or branch, a twig, a branch. (of a tree). درخت کی نازک اور نرم ٹہنی اور بمعنی مطلق شاخ درخت کے بھی آتا ہے

ستان in *comp* seizing taking, as. کشورستان one who seizes a country. لینا

ستان a termination denoting place, situation, threshold, flowers of defferent kinds, a man lying on his belly. - آستان - چوکھٹ جس جگہہ بہت انبوہ کسی چیز کا ہو جیسے گلستان - بمعنی مطلق جگہہ کے بھی آتا ہے - وہ شخص جو چت لیٹا ہو

ستاندن } *inf.* to seize, to take away. لينا
ستدن }

ستائش *f.* praise, returning thanks - تعريف دعا - شکر

ستبر *a* thick, coarse, fleshy, fat موٹا - دلدار

ستخر *m.* a tank. a pond. تالاب

ستر *m.* concealing, covering, veiling, suppressing, privities. پردہ پوش - مستور - چھپانا

ستر *m.* a shield, a target. ڈھال - سپر

ستردن *siturdan, inf.* to shave, to scrape, to pull out the hair. صاف کرنا - مونڈنا

سترگ *a.* big, bulky, corpulent, quarrelsome, passionate. بڑا بزرگ - کلان

سترنج *n.* the grains of different kinds mixed together. دو تين غلے باهم ملے هوئے

سترون *a.* barren (applicable to females). بانجهہ عورت جس کے کبھي بچہ نہيں هوتا

ستم *m.* tyranny, oppression, injury, violence, injustice. ستم - بے انصافي

ستمديدہ }
ستمرسيدہ } *a.* oppressed, injured, subjected to tyranny. مظلوم - جس پر ظلم هوا هو - ستايا هوا
ستمکش }
ستم زدہ }

ستمگار }
ستمگر } *m.* a tyrant. an oppressor, *adj.* tyrannical, oppressive. - ظالم ظلم کرنے والا
ستمور }

ستنبہ *a.* odious, abominable looks, hated, disgusting, dreadful, awful, name of the demon who frightens a man in sleep. صورت مکروہ اور خوفناک - نام اُس ديو کا جو خواب ميں ڈراتا هو

ستودن *inf.* to praise. تعريف کرنا

ستودان *m.* the grave yard of the fire-worshippers. گور خانہ يعني مقبرہ گبرون اور آتش پرستونکا

ستودہ *a.* praised, laudable. سراها هوا - تعريف کيا هوا

ستور *m.* an animal, quadruped, beast of burden, cattle, - چوپايہ مثل بيل اونٹ - خچر گدھے وغيرہ کے

ستوقہ *m.* a base coin. کھوٹا سکہ

ستون *m.* a pillar, a column, a prop. - پيلپايہ - تھم مکان کا

ستوہ *f.* distress, affliction, uneasiness, indigence, *a.* melancholy, helpless, distressed, tired. عاجز - تھکا هوا - طول

ستون *card.* sixty. ساٹھہ

ستہ *sitta, m.* six, six men. چھہ - چھہ مرد

ستہ *sita, m.* a base coin. کھوٹا سکہ this word derives from سہ تہ three layers, because a base coin has two layers of silver on each side of a copper coin (which is between the two layers of silver). کھوٹا سکہ اصل اسکي سہ تہ تهي اسلئے کہ کھوٹے روپيہ ميں خرزوں طرف دو پرت چاندي کي هرتي هے اور بيچ ميں تانبے کي اور ستوقہ اسي کا معرب هے

ستي *n.* iron, steel, a kind of spear. - لوها فولاد - ايک قسم نيزہ کي

ستہر *v.* covered, hidden, abstinent, sober, temperate, abstemious. چھپا هوا - پرهيزگار

ستيز *n.* contention, battle, combat, anger, passion, anmity, hatred. - جنگ - لڑائي جھگڑا - غصہ - دشمني

ستيزہ *m* controversy, altercation, quarrelling, contention. لڑائي - جنگ - جھگڑا

ستيزيدن *inf.* to fight, to quarrel. لڑنا

ستيہش *f.* battle, fight, war. لڑائي - جنگ

ستہيدن *inf.* to fight, to quarrel. لڑنا - جنگ کرنا

سجا *m.* an envelope, the cover (of a letter), introduction, preface, heading or salutation of a letter. خط کا لفافہ - ديباچہ - نامہ کا شروع

سجاد *sajjad, m.* an adorer, one bowing the head and body in adoration. سجدہ کرنے والا

سجادہ *m.* a carpet or mat on which *Muhammadans* kneel at prayers, an altar, a mosque. مصلی - جاے نماز - نماز کے پڑھنيکا بچھونا

سجاف *f.* border (tacked to the outer part of a garment, flouncing. گوٹ جو جامہ کے چاروں طرف لگائي جاتي هے اوسے سنجاف کہتے هيں

سجال *m.* (*pl.* of سجل), buckets or pails full of water, boasting. جمع سجل يعني دلوں پر آب يعني ڈول پاني سے بهرا هوا - اور مصدر بهي هے بمعني آپس ميں فخر کرنا

سجاوندي کردن *phr.* to paint, to engrave. کندہ نقاشي کرنے سے

سجايا (*pl.* of سجيہ). dispositions, habits, qualities, nature. عادتين - خصلتين

سجدات (*pl.* of سجدہ) جمع سجدہ کي

سجدہ *m.* touching the ground with the forehead as an act of adoration or worship to God, name of a chapter of the *Kuran.* خدا کے آگے زمين پر سر رکھنا - نام ايک سورہ قران کا

سجع *m.* rhyme, metre, cadence, poesy, sweet notes of singing birds. نثر ميں دو آخري الفاظ کا برابر هونا - قافيہ بندي - خوش آواز پرندوں کي - آواز

سجل *m.* a register, the decree of a judge, written attestation of a notary, seal of a judge (*sigillum*). قبالہ - چمک - حکمنامہ قاضي کا

سجل *n.* a large bucket filled with or containing water. بڑا ڈول بھرا ھوا پانی کا

سجن *m.* a prison-house, a gaol. - قید خانہ جیل خانہ

سجنجل *sajjanjal*, *n.* spectacles, a mirror, a pure, clear. آئینہ

سجده *n.* an act of prostration with the forehead touching the ground, adoration. سجدہ کرنا

سجود صدی *n.* act of bowing before or after wrestling. اصطلاح میں کشتی گیروں کی وہ سجدہ جو قبول لڑنے کشتی کے یا بعد تمامی کشتی کے کرتے ھیں

سجیل *m.* hard stones, or bricks made from them, and hardened in hell-fire on which are inscribed the names of men, with a catalogue of their sins. کچا پتھر - کنکھڑ

سجین *m.* the prison where the culprits are subjected to a great torture, name of a book in which the deeds of man are recorded, name of a place in hell. وہ قید خانہ جہاں گنہگاروں پر بڑا عذاب ھوتا ھے - وہ کتاب جس میں گنہگاروں کے اعمال لکھے جاتے ھیں - نام ایک مقام کا دوزخ میں

سجیں *m.* a captive, disposition, nature, temper. قیدی - خو - خصلت

سجیہ *sajiya*, *n.* disposition, nature, temper. عادت - خو - خصلت

سجیات *f.* dispositions, tempers, habits, nature. خصلتیں - عادتیں

سحاب *m.* a cloud, quicksilver. - ابر - بادل پارہ

سحبان وائل *n.* name of an Arabian orator whose eloquence is said to have been unrivalled. نام ایک عرب کے مرد کا جو بڑا فصیح و بلیغ گذرا ھے

سحج *a.* scraping, picking, scratching the skin, name of a disease in the stomach. چھیلنا - کھال کا اُدھیڑنا - نام بیماری شکم کا

سحر *m.* the dawn of day, (*pl.* of اسحار) صبح سے پہلے کا وقت - جمع - اسکی اسحار ھے

سحر *sihr*, *m.* enchantment, magic, fascination. افسون - جادو - فریفتہ کرنا

سحر گاہ
سحر گاہان } *m.* the morning, the dawn. صبح کا وقت

سحرہ (*pl.* of ساحر), magicians, enchanters. جمع ساحر بمعنی جادو گر کے

سحق *a.* grinding, rubbing, whetting, old garments. گھسنا - رگڑنا - جامہ کہنہ

سحنہ *m.* feature, form and mouth of a man, soft and delicate skin of a cheek. شکل اور منھہ اور صورت آدمی کی - نرمی اور نار کی جلد رخسار کی

سحور *m.* the meal which Musalmans make a little before dawn, during the month of *Ramzan*, to enable them to fast till night.

سحیق *f.* ground very fine. بہت باریک پسا ھوا

سحیل *n.* a twisted thread. بٹا ھوا دھاگا

سخافت *f.* lightness, foolishness, ignorance. سبکی - ھلکا پن - بیعقلی - نادانی ہ

سخا
سخاوت } *f.* liberality, generosity. - سخی ھونا بخشش کرنا

سخت جان *a.* cruel, tyrannical, oppressive, despotic. سنگدل - بے رحم

سخت خوردن *id.* to suffer much pain or trouble. بڑی تکلیف اُٹھانا

سخت زہ *n.* a bow, which cannot be bent easily. کڑی کمان

سخت کمان *m.* a wrestler or a powerful archer. کنایہ پھلوان اور تیر انداز شہزور سے

سخت گرفتن *id.* to be importunate, to insist upon anything, to tempt, to urge (a person). کسی کام میں بجد ھونا

سختن *inf.* to weigh. تولنا - وزن کرنا

سختہ *sukhta*, weighed, *m.* a grave and reasonable man. تولا ھوا - وزن کیا ھوا - مرد معقول اور سنجیدہ

سخرہ
سخریہ } derision, ridicule, a ridiculous person, a drudge, or one who is pressed to labour without any remuneration. تمسخر - خوش طبعی - وہ شخص جس پر ھنسیں اور جسکو مسخرہ بناویں

سخط
سخطا } *m.* anger, rage, passion, fury, displeasure. غصہ - غضب - قہر - ناخوش ھونا

سخف becoming light, ingenious. - سبک ھونا نظارت ھونا

سخن *m.* speech, language, thing, business, affair.

سخن پرداز *m.* a narrator of stories, eloquent. کنایہ قصہ کے راوی سے

سخن چین *a.* fault-finding, an eavesdropper, a spy, an informer, a back-biter. - عیب جو چغل خور

سخن سنج *m.* weigher of words, a poet, a wise man. مراد شاعر سے

سخنگوے پیشینہ (in *Sikandarnama*) the poet Firdausi. سکندر نامہ میں مراد فردوسی شاعر سے

سخوط *a.* odious, repulsive, abominable مکروہ

سخونت *f.* warmth, heat. گرمي - گرم هونا
سخون *m.* boiling soup. جلتا هوا شوربا
سخن *m.* speech, talk, language سخن - کلام
سخي *m.* liberal, munificent. - بخشش کرنے والا خدا کے نام پر دینے والا
سخيف *a.* void of understanding, ingenious, foolish, light, very thin cloth. کم فهم - تنگ ظرف بیهوده - هلکا - جهر جهرا کپڑا
سخين *f.* every thing hot, especially hot water. هر چیز گرم خصوصاً آب گرم
سد *f.* a wall, barrier, impediment, ditch, rampart, an obstruction of any kind, an obstacle دیوار - روک - حائل - اور مانع در چیز میں - بند کرنا
سداب *m.* the herb rue. ایک گهاس هے مثل پودینه کے - تتلي (هندي)
سدابي *n.* the green colour. کنایه سبز رنگ سے
سدر *m.* a plum tree. درخت بیر کا
سدر *sadir,* confounded, agitated, dimness in the eyes, حیران - سراسیمه - آنکهه کي تیرگي
سدرة *m.* a species of the lote tree on the seventh heaven.
سدرةالمنتهي *m.* a tree in Paradise, the man sion of the angel Gabriel. ساتویں آسمانپر ایک درخت بیر کا جس کو سدرة المنتهي بهي کهتے هیں - اِس جگهه سے آگے جبرئیل فرشته نهیں جاسکتا
سدس *ord.* the sixth part, one sixth. چهٹها حصه
سدق *m.* a quiver ترکش
سدوم *n.* Sodom, name of a judge of Sodom. ایک شهر کا نام - لوط کے شهر کے قاضي کا نام
سده (in medicine) an obstruction, scybala stoppage of nose, coryza, threshold. - آستانه چوکهٹ - گره جو انتڑیوں یا رگوں میں مواد غلیظ کي پڑ جانا - نام بیماري کا جس سے سوراخ ناک کا بند هو جاتا هے
سدید *a.* right, proper, strong. - راست - درست - مضبوط
سدیر *n.* name of a mansion which Numan Bin Manzar had made for Bahram Gor. نام محل کا جس کو نعمان بن منذر نے بهرام گور کے لئے بنایا تها
سدیس *m.* a bull, an ox, a horse six years old, a camel 8 years old بیل - بکرا اور گهوڑا چهه برس کا - اُونٹ آٹهه برس کا
سدیر *m.* name of the demon who had stolen Solomon's ring, name of a Brahman. نام اُس دیو کا جس نے سلیمان کي انگوٹهي چرائي تهي
سر *m.* the head, top, pinnacle, origin, point beginning, chief, principle, intention, end, aim, will, love, desire, care, thought, force, strength, head, chief, intention. سر - فکر - خیال - ارادہ - شروع خواهش - سودار - مقدم - اوپر - خلاصه

سر *sirr, m.* a secret, a mystery, copulation, cloud, fornication, adultery, origin, virtuous, good soil, noble origin or descent. بهید - راز - جماع - ابر - بادل - زنا - اصل - نیک زمین - نسب عمده
سر *Surr, f.* happiness, gladness, navel, the end of the umbilical cord, name of a village. خوشي - شادي - ناف - نام ایک گانوں کا
سر *sarr, a* a virtuous man, one doing good, jovial, one keeping happy and glad. مرد نیک - نیکي کرنے والا - شاد اور خوش کرنے والا
سرا *f.* a caravanserai, a house, a mansion. مکان - گهر
سراوضراء *phr.* comfort and grief. بمعني راحت و رنج
سراب *n.* a vapour resembling the sea at a distance formed by the rays of the sun or moon or a sandy plain, glare (*Fr mirage*). بالو جو مسافر کو دهوپ میں اور کبهي چاندني میں بهي دور سے مثل بهتے هوے پاني کے معلوم دے
سراپا *m.* the whole body, the figure. *adv.* totally, from end to end, praise of the whole body of a mistress, an armour. تمام و کمال - اول سے آخر تک - معشوق کے تمام اعضا کي تعریف - خلعت
سرا پرده *m.* a royal tent, pavilion بارگاه شاهي بڑا پرده جو بطور دیوار کے آگے کهینچتے هیں
سرابستان *m.* a kitchen garden. وه باغ جو گهر میں هو
سرابیلي *n.* effeminate, an hermaphrodite, eunuch *exoletus, quicorpus prostituit cinœdiz.* هجڑا - مخنث - هیز
سوراج *m.* a lamp, the sun. چراغ - آفتاب
سراج *sarraj, m.* saddler, a groom, a harness-maker. گهوڑے کے زین بنانے والا اور بیچنے والا
سراچه *m.* a small tent, a small house. چهوٹا خیمه - چهوٹا مکان
سراخ *m.* a divorce, dissolution of a marriage contract between. طلاق - عورت کي رهائي مرد کے نکاح سے
سرادقات *m.* canopies, tents, pavilions. سر پردے - خیمے
سرار *n.* the last night of every month. هر مهینه کي آخري شب
سراري (*pl.* of سریه), concubines. حرمیں - وه لونڈیاں جن سے جماع کي هو
سرار چیزے بیرون آوردن *id.* to be perfectly at leisure from a work, to be at rest, to be disengaged کسي کام کے کرنے سے فرصت پانا

سرا زیر sloping (little used). ڈھالو مقام

سراسر *adv.* entirely, wholly, all. - تمام و کمال - بالکل

سرح (*pl.* of سرع) the green bran ches of a vine. جمع سرع کي - درخت انگور کي تازہ شاخیں

سراغ *m.* search, inquiry; sign, mark, trace, spying. کھوج تلاش

سر آغوش *n.* a small bag for keeping hair of women. - عورتوں کے بال رکھنے کي تھیلي - گیسو پوش

سرافراز *a.* exalted. بلند ھونا

سر افتادن *id.* to go beyond a limit. حد سے بڑھ جانا

سر افگندن *id.* to be cast down, to be abashed, to implore earnestly, to be humble. گردن نیچے ڈالنا - عاجزي اور فروتني کرنا - شرمندہ ھونا

سرافگندگي *f.* humility, submissiveness. عاجزي

سرافیل *m.* the angel who has the charge of the blowing horn. نام ایک فرشتہ مقرب خدا کا جو صور کو لئے ھوے ھے

سراقہ *m.* name of a chief of the Quraish tribe. نام ایک سردار قریش کا

سرامد *a.* perfect, complete, accomplished, approved, overcoming, master of any art, etc. سردار - برگزیدہ - غالب

سرامدن *inf.* to be complete, to be finished. تمام ھونا - پورا ھونا

سران *m.* chiefs, nobles, heads. سردار لوگ

سرانجام *m.* conclusion, end, accomplishment, (*met*) apparatus, utensils, furniture, goods and chattels, materials, ingredients. ھر کام کا آخر - ھر چیز کا آخر - مجازاً اسباب و سامان

سراندیپ *n.* the island of Ceylon. ھندوستان میں دکھن طرف ایک جزیرے کا نام

سرانداز *n.* one walking affectedly, a kind of veil worn by women when going abroad. ناز و غرور سے اٹھلا کر چلنے والا - ایک قسم کي چادر

سراویل *m.* trousers, drawers. ستھنا - پاجامہ

سرآوردن *id.* to bring to an end, to conclude, to perfect. آخر کو پھونچانا - تمام کرنا - کامل کرنا

سرائیدن *inf.* to sing, to play on an instrument. گانا - الاپنا

سرائندہ *m.* a singer, player. گانے والا

سرایت *f.* effect, contagion, pestilence. - تاثیر اثر کرنا ایک چیز کا دوسري چیز میں گذر جانا - ایک شے کا دوسري شے سے

سرائر (*pl.* of سریرہ) *f.* mystries, secrets. جمع سریرہ کي پوشیدگیاں - بھت سے بھید

سراپچہ *m.* a small house, a small tent. چھوٹا مکان - چھوٹا خیمہ

سرب *m.* lead. سیسہ

سرباختن *id.* to fight, to quarrel. جنگ کرنا

سرباز *a.* brave, heroic, valiant, fearless warrior. بھادر - جنگ میں بے خوف و خطر لڑنے والا

سرباز ماندن *id* to be left confounded, to be distressed, to be agitated. حیران رھجانا

سربازاري *m.* a vagrant, a wanderer, a vagabond, a tramp. آوارہ شخص

سربال *m.* a long robe, a kind of loose vest, whatever thing a man uses for wearing. پیراھن - جو چیز کہ آدمي کے پھننے میں مستعمل ھو

سربخش *m.* a great part or portion. بڑا حصہ

سر بر خط نھادن
سر بر خط فرمان نھادن } *id* to obey, to reverence, to worship, to be submissive. اطاعت کرنا

سر براہ کردن *id* to bring on the road, to complete work, to arrange, to manage. راہ پر لانا - پورا کرنا کام کا - انتظار کرنا

سربراہ *m.* a superintendent, a manager, a superior. منتظم - مھتمم

سربراھي *f.* management, supervision, superintendence. اھتمام - انتظام

سربرآوردن *id.* to show, to reveal, to make known, to appear. ظاھر کرنا - ظاھر ھونا

سربرداشتن *id.* to be exalted, to rebel. سر بلند کرنا - سر اُٹھانا - حاکم سے پھر جانا - بغلي ھوجانا

سربرزدن *id.* to come to pass, to befall, to happen, to come to pass suddenly. ایک بات کا واقع ھونا - اچانک ھوجانا

سربرگوفتگان *m.* the rebels, the unlawful. اطاعت نہ کرنے والے

سربستہ *a.* covered, tied, hidden. - بندھا ھوا پوشیدہ

سر بسوے راہ افگندن *id.* to attract, to divert ones mind or attraction. کنایہ ھے مائل کرنے سے

سرپازدن *id.* to kick. ٹھوکر مارنا

سرپرست *n.* a servant, a tutor, a guardian. خانہ زاد - خادم - مربي

سرپنجگي *f.* strength of fist, oppression. - زور شدت - ظلم

سرپوش *m.* a cover, a lid. دیگچي وغیرہ کا ڈھکنا

سرپوشیدہ *f.* a virgin. مراد کنواري لڑکي سے

سرپي *f.* a kick. ٹھوکر

سرپیچ *n.* a diadem, a turban, an ornament in front of a turban. نام ایک جزائ عدد کا جو عمامہ یا پگڑي پر لٹکایا یا باندھا جاتا ھے

سرپیچیدن *id.* to disobey, to rebel. نافرماني کرنا

سرتابي *f.* disobedience, rebellion, حکم نہ مانننا - سرکشي کرنا

سرتافتن *id.* to disobey, to rebel. نافرماني کرنا

سرتاسر *adv* entirely, the whole, all. تمام و کمال - سب کا سب

سرتنہا *a.* alone. اکیلا

سرتیز *f.* pointed thing, (*met.*) rebellious, warlike. نوکدار چیز - مجازاً سرکش - جنگجو

سرتیغ کوہ *n.* the peak, the summit of a mountain. پہاڑ کي چوٹي

سرج *m.* a horse's saddle. گھوڑے کا زین

سر جنبانیدن *id.* to praise, to stop one from doing a thing, to forbid. تعریف کرنا - کسي کو کسي کام سے منع کرنا

سرچشمہ *m.* a spring, a fountain, a source or fountain-head. سوتا پاني کا

سرچنگ *m.* a thump, a rap, a slap. کسي کے سر پر زور سے ہاتھہ مارنا - دھول (ھندي)

سرچین *a.* fine, selected, substance, gist. - عمدہ خلاصہ - چنا ھوا

سرح *a.* grazing, causing to graze, a quadruped, lofty trees, every tree which has no thorn, easiness. - چرنا - چرانا - جانور چرانے والا - بڑے اور بلند درخت - ھر درخت جس میں کانٹا نہو - آساني

سرحان *m.* a wolf. گرگ - بھیڑیا

سرحد *f.* boundary, extremity, frontier, limit, confines. حد

سرحساب *a.* warning, caution, care. آگاہ - خبردار

سرخاب *m.* name of a bird (*Anas casarca*), cosmetic, wine, name of a canal near Cabool, name of a book in geomancy, name of Rustam's son (also Sohrab). نام ایک مشھور پرندہ کا - گلگونہ - غازہ - شراب - نام نھر کا قریب قابل کے - نام ایک کتاب کا علم رمل میں - نام رستم کے بیٹے کا جس کا نام سھراب بھي ھے

سرخاریدن *id.* to hesitate, to make an excuse, to be hopeless, to delay. - تامل کرنا - بہانا کرنا - نا اُمید ھونا - دیر کرنا

سرخط *m.* dignity, rank, extremity, end, conclusion, tenor. - پایہ - رتبہ - کسي چیز کي انتھا علم موسیقي کي اصطلاح میں بمعني آواز بلند

سرخچہ *m.* chicken-pox, the measles. چیچک جو اکثر لڑکوں کے نکلتي ھے جس کو خسرہ کھتے ھیں

سرخرو *a.* honourable, happy, successful. خوش - کامیاب

سرخس *n.* name of a large city in Khorasan خراسان میں ایک بہت بڑے شھر کا نام

سرخ شدن *id.* to be in a fury or rage. غصہ اور غضب میں ھونا

سرخط *m.* an agreement to hire service, a bill of sale, certificate of service performed. کرایہ نامہ مکان کا - نوکري نامہ یعني یادداشت روز نوکري کي

سرخوش *a.* cheerful, gay, merry, tipsy. وہ شخص جو شراب کے نشہ میں خوش ھو

سرخود *a.* independent, self-supporting. جو کسي کا مطیع نھو - خود مختار

سرخیل *n.* a general or commander of an army or division. سردار - امیر

سرداب / سردابہ *m.* a vault, an apartment underground meant for living during summer. تہخانہ جو زمین کے نیچے بناتے ھیں گرمیوں میں رھنے کے واسطے

سردادن *id.* to free, to release, to discharge (a gun), to let an animal go. - رھا کرنا جانوروں کا چھوڑ دینا - بندوق و توپ کا فیر کرنا

سردر آمدن براہ *id.* to start, to depart. روانہ ھونا

سردردي *f.* labour, toil, trouble. محنت - تکلیف

سر در سپر چیزے کردن *id.* to lose one's life in a certain desire or in hope of acquiring a thing, to endeavour one's best in a certain work. کسي چیز کي خواھش میں اپني جان کا دیدینا - کسي کام میں انتھا کي کوشش کرنا

سردر کلاہ کسے نھادن *id.* to obey, to be subjugated, to obey some one, to serve. کسي کا مطیع و تابعدار ھونا

سر در کشیدن *id.* to rebel, to disobey, to be independent. - تابع نھونا - خود سر ھونا سرکشي کرنا

سر در ھوا *a.* anxious, confounded, agitated, scattered. مشتاق - پریشان - آوارہ

سردست افشاندن *id.* to be in a fury or rage, to lose one's temper. کنایہ ھے غصہ اور غضب کرنیسے

سر دست *a* contemptible, mean, low, a mendicant's staff. حقیر - کم رتبہ - نام فقیروں کي لاٹھي کا

سردستي گرفتن *id.* to help. مدد کرنا

سرد مھر *a.* merciless, not loving. - بے محبت بے رحم

سرر (*pl.* of سریر), thrones. جمع سریر بمعني تخت کي

سررشتہ *m.* an office, employment, connexion, affinity, a rope, thread, card, desire. مجازاً مدعا - مقصود - معاملہ - دفتر حسابي

سرزدہ آمدن و رفتن *id.* to come suddenly and go back without anybody's seeing him. بے خبر اور یکایک آنا اور چلا جانا

سرزلف *n.* hair, locks (of hair), coquetry, blandishment, an anger in love. زلف - ناز غمزه - معشوقانه غصه

سرزنش *f.* rebuke, reproof, reprimanding, reproaching. ملامت - برا بهلا کهنا

سرسام *m.* delirium, frenzy, a tumour or inflammation of the brain. *adj.* stupified. ايک دماغ کي بيماري جس ميں آدمي بيهوش هو جاتا هے دماغ ميں ورم پيدا هونے سے يهه مرض هوتا هے

سرسال the beginning of the year. شروع سال

سر سخت خوردن *id.* to be greatly shocked, to get much injury, to sustain a great harm. سخت صدمه پهونچنا

سرسري *a.* easy, facile, careless, low, mean. کمينه - بدون تامل کے - بغير سونچے سمجهے کوئي کام کرنا

سرشار *a.* full, brimful, redundant, glutted, intoxicated. لبريز - لبالب

سرشت *f.* creation, nature, temperament, constitution, disposition, complexion, intellect. پيدائش - خلقت - طبيعت - خو - خمير

سرشتن *inf.* to knead, to mix, to ferment, to mix a moist thing with a dry thing. گوندهنا - ملانا - خمير کرنا - تر چيز کو خشک چيز ميں ملانا

سرشدن *inf.* to be, to issue, to flow, to be discharged (as a gun). هونا - جاري هونا - توپ وغيره کا چهوتنا

سرشستن از مرض *id.* to get a recovery, to be restored from sickness. مهلت پانا

سرشف *n.* a kind of mustard seed (*Sinapis dichotoma, Roxb.*) سرسوں

سرشک *m.* a tear, a drop. آنسو آنکهه کا - قطره

سرشيپ *a.* hanging the head, on one's belly. سرنگوں - اوندها

سرشير *f.* cream (of milk). دودهه کي ملائي

سرصالحان *m.* the head or preacher of a mosque. مراد خطيب مسجد سے

سرطان *m.* a crab, the sign Cancer, a cancer, a disease incident to the feet of cattle. کيکڑا - نام چوتهے برج کا آسمان پر جو بشکل کيکڑے کے هے - نام ايک ورم سوداوي کا جو نهايت سخت هوتا هے اور هر روز بڑهتا جاتا هے اس ميں سرخ اور سبز رنگين کيکڑے کے هاتهه پاؤں کے مانند دکهائي ديتے هيں

سرع *m.* the branch of a vine. درخت انگور کي شاخ

سرع *a.* running. دوڑنا

سرعت *f* haste. شتابي اور جلدي کرنا کام ميں

سرغليمان *f.* the part of a *hukka* which contains the tobacco and the charcoala ball. حقه کي چلم

سرغنه *m.* a chief, a great personage. *adj.* unparalleled. بڑا - بے مانند سردار

سرف *m.* negligence, error, extravagance, ambition, greed, avarice. غفلت کرنا - خطا کرنا - مال کا بے اندازه اور بيهوده خرچ کرنا - کسي چيز کا لالچ کرنا

سرف *sarif, m.* ignorant, criminal, sinner. نادان - خطا کار

سرفتيله چوب شدن *id.* to copulate, to come together, as different sexes. کنايه هے جماع کرنے سے

سرفرازي *f.* exaltation, distinction, pride, promotion (also سرفرازي). سربلندي - غرور

سرفرود آوردن *id.* to bend down one's head (in submission), to accept one's decision, to be humble or submissive. سر نيچے کرنا - بات کا ماننا - عاجزي کرنا

سرفروبردن *id.* to look down (from shame), to be bashful, to be ashamed. شرمنده هونا

سرفه *surfa*, a moth, a caterpillar, the cough. ايک کيڑا سفيد رنگ کا هوتا هے جو درخت اور لکڑي ميں سوراخ کرتا هے - سعال (عربي) - کهانسي (هندي)

سرقت *f.* stealing, robbing. چوري کرنا

سرقه *m.* plegiarism, theft. چوري

سرکاري *f.* superintendence, *adj.* belonging to the state, or to the government. - داروغگي مختاري - مهتمي

سرکردن *id.* to begin, to conclude, to finish, to make perfect. شروع کرنا - تمامي کو پهونچا دينا - کامل کرنا

سرکش *a.* disobedient, rebellious, mutinous. مغرور - باغي - پهيرا هوا

سرکشيدن *id.* to disobey, to rebel, to be exalted. حکم نه ماننا - نافرماني کرنا - بلند هونا

سرکمند *n.* a place of refuge, a shelter, cause, reason. جاے پناه - جاے حفاظت - سبب

سکنجبين *f.* oxymel, lime-juice or vinegar or other acid mixed with honey or sugar. سکنجبين کا شربت - اصلي ترکيب اس کي سرکه اور انگبين يعني شهد

سرکن *m.* a captain, a commander. فوج کا سردار

سرکوب *m.* an officer, a manager, a superintendent. افسر - انتظام کرنے والا

سرکوچکي *f.* contempt, disregard, baseness, meanness, foolishness. - بيقدري - حقارت - کمينه پن

سرکه جبين *a.* surly, morose, cynical. - ترشرو - بد خلق

سرکه فروختن *id.* to turn up one's nose, to be displeased. ناک بهوں سکيڑنا

سرگذشت *f.* an event, accident, transaction, account of circumstances. - واقعه - حادثه - ماجرا

سرگران *a.* tipsy, drunk, proud, angry, sad. خفا - غصه - متکبر - مست - رنجيده

سرگردان *a.* distressed, humble, confounded, stupefied, wandering, straying. پريشان

سرگرم *a* intent on, attentive, clever, laborious, inflamed with love. - چالاک - محنتي - کسي کام ميں مشغول - مست

سرگروه *m.* the chief of the troops, etc., leader, commander, a chief of fakeers, a provincial. ايک قوم کا سردار

سرگزه } *n.* a tax, a poll-tax levied on the
سرگزيه } infidels. جزيه جو کافروں سے ليا جاتا هے

سرگشته *a.* afflicted, astonished, at a loss, wandering, perplexed. حيران - بهٹکا هوا

سرگشتگي *f.* astonishment, affliction, - حيراني - تردد - بيقراري

سر بخش گرفتن *id.* to obey, to be humble. تابعدار هونا

سرگوشي *f.* whispering, deliberation. کسي کے کان ميں بات کهنا

سرگين *m.* dung, especially cowdung. - گوبر - جانوروں کا گوه

سرما *m.* the winter, the cold season. جاڑا

سرمايه *m.* stock in trade, capital. پونجي

سرماے گل *m.* the season of spring (when the roses in India bloom). گلابي جاڑا جو گلاب کهلنے کي فصل ميں هوتا هے

سرمد *a.* eternal, everlasting, also night and day. هميشه - دائم - اور کنايه هے شب و روز سے بهي

سرمست *a.* dead drink. متوالا - جو نشے ميں چور هو

سرمق *m.* name of a kind of greens (*chenopodium album*) بتهوے کا ساگ

سرمه بگلو کشيدن *id.* to be dumb (the people say that eating collyrium in a great quantity makes a man dumb). - کنايه گونگا هونے سے - کهتے هيں که سرمه کهانے کي کثرت سے آواز بند هو جاتي هے

سرمه چوب *f.* a needle, or piece of wire for tinging the eyelids with collyrium. سرمه لگانے کي سلائي

سرمه چشم one whose eyes are stained with collyrium (*surma*). وه شخص جس کي آنکهه ميں سرمه لگا هو

سرمه خوردن *id.* to become dumb. گونگه هونا

سرمه سليماني *m.* a kind of collyrium by applying which to the eyes one could see buried treasures, etc. وه سرمه جس کے لگانے سے دفينوں وغيره کو ديکهه سکتے هيں

سرناے *m.* a kind of pipe, a clarion. نفيري مشهور باجه هے

سرنافه کشادن *id.* to anoint with attar. عطر ملنا

سر نامه *m.* address, title, superscription of a letter. خط کے لفافه پر جو پته اور نشان مکتوب اليه کا لکهتے هيں

سرنگردتن *id.* not to agree with, not to conform with. موافقت نه کرنا

سرنگو *a.* hanging the head, abashed, vile, backward, topsy-turvy, upside down. سر کے بل اور اوندهے منهه

سرنوں *adv.* anew, afresh, over again. نئے سر سے

سرنوشت *f.* destiny, fortune, fate, the divine decree. تقدير - نصيب - حکم ازلي

سرنهادن *id* to sleep, to travel, to obey. سو رهنا - سفر کرنا - اطاعت کرنا

سرو *n.* horns (of animals), a cup. بل حيوان کي شاخ يعني سينگ - پياله (شراب کا)

سرو *saro*, *m.* the cypress tree. نام ايک مشهور درخت کا جو سيدها اُگا هوا هوتا هے

سروازدن *id.* to turn away one's face. منهه پهير لينا

سروالة } *m.* drawers, trousers. پاجامه - ازار
سروال }

سروبن *a.* complete, full, whole. تمام - پورا

سروبند *n.* time, period as, فلاں امر در سرو بند فلاں بادشاه واقع شده بود such and such a thing had taken place in the time of king so and so. عهد - عصر - زمانه

سرو برگ *m.* thought, idea, care. خيال - پروا

سروپا *a.* all, the whole. تمام - پورا

سروجوئبار *m.* a cypress growing on the bank of a river. ندي کناره کا سرو

سرود *m.* a song, modulation, melody. - راگ نغمه - گيت

سرودن *inf.* to sing. گانا

سرور *m.* pleasure, joy, cheerfulness. خوشي

سرور *sarvar*, *m.* a chief, principal, leader, name of a *Muhammadan* saint سردار

سرو رعنا m. a beautiful cypress tree, a mistress خوشنما سرو - معشوق

سروري f. chiefship, leadership. سرداري - صاحبي

سروسايه n. pomp, display of power and wealth, grandeur, dignity. دبدبه شوکت سے

سروش m. Gabriel, an angel, a voice from heaven, the seventeenth day of the solar month. نام جبرئيل فرشته کا - وه فرشته جو خوش خبري لاوے - وه شمشي مهينه کي سترهوين تاريخ - آواز غيب

سروق m. a burglar. بڑا چور

سروکلان (in *Sikandarnama*) Firdausi's Shahnama. سکندر نامه ميں مراد شاهنامه فردوسي سے

سرون m. horns (of animals). سينگ حيوان کا

سرون *surun*, a buttock, the rump. - سرين چوتڑ

سره m. current (as coin), pure, undefiled, good, worthy. - بے عيب - خلاصه - خالص پاکيزه کهرا جو کهوٹا نهو

سره *surah*, n. the novel, the umbilical card. نات

سرهنگ m. a general, a commander, captain, chief, overseer, a foot soldier, a Police Inspector. - فوج کا سردار - نقيب - چوبدار پهلوان - کوتوال - پياده دستکي حاکم

سري *sari*, a. walking in the night. رات کو چلنا

سري *sari*, f. chiefship, *adj*. good. - مرد بزرگوار سرداري

سرکردن *id*. to command. سپه سالاري کرنا

سريان m. act of dissolving (as sugar in water). جانا ايک چيز کا دوسري چيز کے اجزا ميں جيسے شکر کا پاني ميں گهل جانا

سريپه m. a wagtail (*Motacilla*). ايک مشهور پرند - ممولا

سرير m. a throne, a cot or bedstead, a royal gift, a country. تخت - ملک - شاهي نعمت

سريرت f. a secret *met*. nature, disposition. بهيد - جو چيز کے پوشيده کي جاوے - مجازاً - خصلت - طبيعت

سريش m. glue, starch. ايک قسم کا چيپ

سريع a. quick, nimble, ready. - جلدي کرنے والا تيز - جلد

سرين n. the buttocks, the rump. چوتڑ

سرين شکستن *id*. to make defective. مراد عيب دار کرنے سے

سريه f. a concubine. لونڈي جو جماع کرنے کے واسطے اس کے مالک نے اپنے ليئے مقرر کي هو

سزا f. (literally) one's desert, (generally means) correction, punishment, retribution. بدله - لايق - موافق

سزاوار a. worthy, excellent, able, applicable, meritorious. لايق - مناسب

سزيدن *inf*. to be able, to be worthy of. لايق هونا

سست راے } a. foolish, ignorant, silly.
سست ريش } m. an idiot. - نادان - احمق بيوقوف

سطبر a. fat, corpulent, bulky, stupid. - موٹا گنده - بهدا

سطح f. a platform, a terrace, a flat roof, surface, superficies, area. - هر مکان کي چهت اصطلاح علم هندسه ميں وه چيز جس ميں فقط لمبائي چوڑائي هو اور گهرائي نهو

سطر f. a line, row, rank, series, lineament, delineating, describing. - لکهنا - رسته - صف لکير - کتاب کي لکير

سطرلاب (*contr*. from of استرلاب) an astrolabe. مخفف اسطرلاب کا - اور يهه ايک آله هے جس سے آسمان اور ستاروں کا حال معلوم هوتا هے

سطل m. a large basin. طاشت - تسله

سطوت n. dominion, majesty, power, authority, awfulness, force, violence, invasion, attack. دبدبه - قهر - سختي کرنا - حمله کرنا دشمن پر

سطوح (*pl*. of سطح). جمع سطح کي

سطور (*pl*. of سطر). جمع سطر کي

سطوع m. exaltation, rising up. بلند هونا

سطيح name of one of the Khaiber forts. نام ايک قلعه کا خيبر کے قلعوں سے

سعاد f. name of a very handsome Arabian woman. نام ايک عورت کا عرب ميں جو بڑي خوبصورت تهي

سعادت f. felicity, happiness, good fortune. نيک بخت

سعال n. cough. کهانسي

سعايت f. backbiting, to speak evil of secretly. چغلي کهانا - بدگوئي کرنا

سعتر n. name of a grass which resembles the tresses of a mistress. *f*. *origanum*, a woman that loves a woman, *instrumentum in modum virgæ virilis, confectum exserico vel simili materia, quo, admedium corporis sibi alligato meretrices utuntur*. ايک گهاس هے جو معشوقوں کي زلف سے تشبيه ديتے هيں

سعد m. felicity, prosperity, propitiousness, good fortune. *a*. good, name of a king. نيک - نيک بختي - نام ايک بادشاه کا

سعد *suad*, name of a sweet smelling grass (*Cyperus pertenius*.) ناگر موتها (هندي)

سعد اکبر / سعدالسعود } *m.* the planet, Jupiter. ستارہ مشتري

سعدین (*du.*), fortunate plaents, such as Jupiter and Venus. ستارۂ زهرہ اور ستارۂ مشتري دونوں کو ملا کر کہتے هیں

سعدي *n.* the celebrated poet and moralist of *Shiraz*, author of the Gulistan etc. ایک بہت بڑے شاعر کا نام

سعر *m.* rate. نرخ - بھاؤ

سعي *f.* endeavour, attempt, effort, enterprise, purpose, running seven times between *Safa* and *Moroh* which is considered a part of a *Hajj*. جلدي کرنا - کوشش کرنا - حاصل کرنا - دوڑنا درمیان صفا اور مروہ کے سات مرتبہ اور یہہ بھي لوازم حج هے

سعید *a.* fortunate, happy, august. - نیک مبارک - نیک بخت

سعیر *m* a flame, a kindled fire, that portion of hell which is destined for idolaters. آگ کا شعلہ - بھڑکي هوئي آگ - نام چوتھے طبقہ کا سات طبقوں دوزخ سے

سغب *a.* becoming hungry or thirsty. بھوکھا هونا - پیاسا هونا

سغب *sagab*, a hungry, thirsty, hunger. - بھوکھا پیاسا - بھوکھہ

سغبان *a.* past, gone by. گذرا - گذشتہ

سغراق *m.* a large cup. بڑا پیالہ

سغري *m.* hard or uncarded cotton, immodesty, shamlessness. سخت روئي - بیحیائي

سفاح *m.* adultery, fornication. زنا کرنا - حرام کاري کرنا

سفارت *f.* making peace (between others), writing, collecting or binding a book. ایلچپي گري کرنا

سفاک *m.* a shedder of blood. خون ریز - قتل کرنے والا

سفال *m.* earthenware, pebble. ٹھیکري - مٹي کا برتن

سفال گر *m.* a potter. کمہار برتن بنانے والا

سفالینہ *m.* earthenware. مٹي کا برتن

سفانت *f.* the art of ship-building. جہاز بنانا

سفاهت *f.* stupidity, folly, buffoonery, meanness, insolence. بیوقوفي - احمق پن - کمینہ پن

سفائن (*pl.* of سفینہ), boats, ships, vessels, books of verses. جمع سفینہ کي کشتیان - اشعار کي بیاضیں

سفتن *snj.* to bore, (a pearl, etc.) بیندھنا

سفت *n.* a hole, bored, a man's shoulder. سوراخ کیا - چھید - سوراخ دوش

سفت *sift*, *a.* firm, thick, close, (a cloth). - گاڑھا سنگین - موٹا

سفتہ *sufta*, *a.* bored, pierced, (a pearl), a kind of arrow. پرویا هوا - ایک قسم کا تیر

سفتہ گوش *m* a slave, a maid-servant, a bond maid, *a.* obedient, subordinate. - غلام لونڈي - جو شخص کسي کا مطیع هو

سفر *sifr*, a book, letter, a note. کتاب - نامہ

سفر *sifr*, towrite. لکھنا

سفرجال *n.* a quince. بهي جو مشہور پھل هے

سفرہ *m.* a tablecloth, a napkin, a large leathern bag for holding food so formed as to serve, also for a table when spread, the anus. مسافرت کا توشہ دان - مجازاً - وہ دستر خوان جس پر کھانا چنا هوا هو - پاخانہ نکلنے کا مقام

سفک *a.* shedding, effusion (of blood). خون کا گرنا - قتل کرنا

سفل *sufl* or *sifl*, *m.* meanness (of origin), ignoble, inferior. پستي - نیچپائي

سفلہ *a.* ignoble, mean, contemptible, stingy, miserly, envious. کمینہ - نالایق

سفلي *a.* infernal, lower, inferior. - پستي بہت نیچي

سفن *m* an axe, any hard skin like that of an alligator with which they cover the handles of swords, etc., to form a firm grip. لکڑي چھیلنے اور تراشنے کا بسولا - گھڑیال وغیرہ کا سخت چمڑا جو تلوار وغیرہ کے قبضہ پر منڈھ دیتے هیں - تاکہ گرفت اچھي هو

سفن (*pl.* of سفینہ) boats, ships, vessels. جمع سفینہ - بمعني کشتي کي

سفود *suffud*, *f.* a spit, a skewer. کباب کي سیخ

سفوف *m.* a medicine, taken dry and unmixed, a powder, (in opposition to an electuary). کسي دوا کا چھنا هوا آٹا

سفہ *f.* want of sense, ignorance, foolishness. عقل کي کمي - ناداني - بیوقوفي

سفہا (*pl.* of سفیہ), the fools, the idiots. جمع هے سفیہ کي - نادان لوگ

سفیدار *m* the name of a wood, the white poplar. نام ایک درخت کا جس کي لکڑي سفید هوتي هے اور شاخیں بہت نازک کہ ذرا سي هوا میں هلنے لگتي هیں - اور اس درخت میں پھل نہیں هوتا

سفید بخت *a.* fortunate, lucky. - خوش نصیب نیک بخت

سفید چشمي *f.* immodesty, shamelessness. بیحیائي

سفید شدن } *id.* to appear, to be honourable. نمایاں اور نمودار ہونا - معزز ہونا
سفید گردیدن }

سفید مہرہ *m.* a large shell, a conch. - بڑي کوڑي - سنکھ

سفیر *m.* an envoy, an ambassador. - ایلچي قاصد - میانجي

سفینہ *m.* a ship, a boat, a vessel, a blank book, common-play book, a book of verses. کشتي ناؤ - شاعروں کي بیاض

سفینہ کردن *id.* to show, to publish, to make known. ظاہر کرنا

سفیہ *a.* foolish, stupid, ignorant. نادان -کم عقل

سقا *saqqa, m.* a water-carrier, a cup-bearer, the pelican, "so called from a tradition, which deposes that when on one occasion there befell a severe drought at Mecca, a number of these sagacious birds brought water in their large beaks for the relief of the inhabitants of that sacred city."—Binning. وہ شخص جو پاني پلاوے اور جس کا پاني پلانے کا پیشہ ہو - نام ایک پرند کا جو اپنے پوٹے میں پاني بھر رکھتا ہے

سقا *siqa,* a leather bag for carrying water, a water-bag. پاني وغیرہ کي مشک

سقائے مرغان *m.* a pelican. حواصل جو ایک پرند مشہور ہے

سقال *n.* a man's beard. آدمي کي ڈاڑھي

سقام (*pl.* of سقیم), invalids, sick people. بیمار لوگ

سقلم *n.* a disease, a sickness. مرض - بیماري

سقایت *f.* watering, irrigating. - پاني دینا سیراب کرنا

سقاے نیل *m.* a cloud. کنایہ ابر سے

سقر *m.* hell, or rather that portion of it which is alloted to the Magi or fire-worshippers, name of a mountain in Mecca دوزخ - نام ایک پہاڑ کا مکہ میں

سقراط *m.* Socrates. نام ایک بڑے حکیم کا

سقرلات } *f.* broad cloth. بالوں کا کپڑا جسے بانات کہتے ہیں
سقرلاطا }

سقط *a.* dying (appleed to brute animals eps. a horse or an ass. - چوپائے جانوروں کا مرنا خصوصاً گھوڑے اور گدھے کا مرنا

سقط *f.* miscarriage, fire, sparks struck from steel, *a.* act of slipping down (a heap of sand), falling flat (on the ground), getting tired, a raw or unpripe date. بچہ نا تمام جو ماں کے پیٹ سے گرپڑے - چنگاري جو چقماق سے نکلے - بالو کا تودہ - پھسلنا - اوندھے منہہ گر پڑنا - گھوڑے کا گرجانے سے سست ہوجانا کچا خرما

سقط *saqat, m.* abuse, abusive language, an error, blunder, mistake, defect, anything of a base or useless nature merchandise of a perishable quality, either spoiled or spoiling. خطا اور سہو کرنا لکھنے اور حساب میں - کسي چیز کا گرا ہوا ٹکڑا - ناقص پونجي - بیہودہ - کم قدر ہوجانا - مجازاً برا اور بد ہونے کے مستعمل ہے

سقط شدن *inf.* to die (applied to brute animals), to miscarry, to be valueless حمل عورت کا گر پڑنا - کم قدر ہوجانا

سقطہ *m.* a piece (of anything) falling on the ground, a piece of cloud. وہ ٹکڑا جو کسي چیز میں سے گرپڑے - ابر کا ٹکڑا

سقطہ *saqta,* slipping, falling down. - پھسلنا گر پڑنا

سقف *f.* roof, ceiliug, canopy, the sky, a platform. مکان کي چھت

سقلات } *f.* broad cloth, scarlet cloth. بالوں کا کپڑا جسے بانات کہتے ہیں
سقلاطا }

سقم *a.* disease, sickness, pain, evil. - بیماري دکھہ - برائي

سقمونیا *m.* scammony (Hippoc. and Diosc, dried juice exuding from the root of *Convolculus scammonea*). ایک قسم کا گوند ہے کسي درخت کا فارسي میں اس کو محمودہ کہتے ہیں

سقنقور *m.* a skink (*Lacerta scincus*) ایک جانور ہے مثل سوسمار یعني گوہ کے بالو میں رہتا ہے اور اس کا گوشت کھانا نہایت مقوي باہ ہے

سقوطر *m.* name of an island (Socotra) which produces good aloes. نام ایک جزیرے کا جہاں ایلوا بہت خوب ہوتا ہے

سقوف (*pl.* of سقف), etc. جمع سقف یعني چھت کي

سقیط *f.* snow, ice, hail, dew. *m.* a man void of understanding or sense. برف - اولا - شبنم مرد ناقص عقل

سقیفہ بستن *id.* to tell a lie, to slander, to caluminate. کنایہ ہے جھوٹ بولنے اور افترا کرنے سے

سقیم *a,* sick, infirm, weak, *met* useless thing, defective. بیمار - مریض - مجازاً چیز ناقص اور عیب دار کے بھي آتا ہے

سک *m.* the hole of a scorpion, spider, snake, etc., name of a perfume, a blocked way. بچھو مکڑي سانپ وغیرہ کا سوراخ - نام ایک خوشبو کا - بند رستہ

سک *sik,* vinegar. سرکہ

سکاچه *m.* a nightmare. عربي كا بوس - شكل خوفناک جس سے آدمي سوتے میں ڈرتا ھے

سکاری *a.* dead drunk. نشے میں مست لوگ

سکاف *sakkaf, m.* a shoemaker. کفشگر - موچي

سکاک *m.* an ironsmith, a goldsmith, a cutler. لوھار - سنار - وہ شخص جو روپیۂ اشرفي پر سکہ لگاوے

سکاک *sikak (pl.* of سک *sakk),* nails, iron links. جمع سک بمعني لوھے کي کیل - کڑي وغیرہ

سکان *sukkan (pl.* of ساکن*), m.* inhabitants. rudder, helm. رھنے والے کشتي کا دنبالہ

سکن *m.* a cutler, one who makes knives. چھري بنانے والا

سکبا a kind of soup made of wheat, vinegar, candy, meat and raisins. ایک قسم کي آش جو گیھوں سرکہ مصري گوشت اور کشمش سے بناتے ھیں

سکتہ *m.* a trance, an apoplexy, a pause, (in Quran), vacancy. ایک بیماري ھے جس میں آدمي کي حس و حرکت جاتي رھتي ھے اور مریض مثل مردہ کے معلوم ھوتا ھے - قران پڑھنے میں مقامات مخصوص پر ٹھہر جانا

سکر *m.* intoxication, unconsciousness, drunkenness. نشہ - بیھوشي - مستي

سکر *sukkar,* sugar. معرب شکر کا

سکرۃ *f.* unconsciousness, intoxication, intensity of grief. بیھوشي - رنج و غم کي سختي

سکرات (*pl.* of سکرۃ). جمع سکرۃ کي

سکرانہ *f.* woman who may be dead drunk. عورت نشہ میں مست

سکن *m.* a dwelling, love, affection, friendship, *sakn,* inmates of a house, those giving comfort such as, a wife, a son, a friend, name of a man, gift, blessing, grace. محبت - الفت - جن سے آرام حاصل ھو جیسے بیوي - بیٹا - دوست - نام ایک مرد کا - رحمت - برکت

سکنات (*pl.* of سکنہ) dwellings, etc. جمع سکنہ بمعني مسکن کي

سکنج *n.* an ulcer on the lip, a fetid breath. گندہ دھن جس کے منھہ سے نہایت بدبو آوے

سکندر *n.* Alexander the Great. یا شاہ سکندر اسکندر روم کے بادشاہ کا نام

سکنہ (*pl.* of ساکن), inhabitants. - جمع ساکن کي رھنے والے لوگ - باشندے

سکني *f.* residence. *a.* staying, dwelling, fixing up one's residence. شکونت رھنا - قیام کرنا

سکوت *f.* silence, quietness, peace. - خاموشي چپکا رھنا

سکونت *f.* dwelling, habitation, residence, tranquillity. رھنا - آرام

سکون *a.* being quiet, having no vowel (a consonant), tranquillity, ease, dwelling. ٹھہرنا - آرام کرنا

سکہ *m.* a street, a lane, a road, a date tree, a level road, a coining die, stamped coin. کوچہ - گلي - بازار - خرما کا درخت - ھموار راستہ

سکہ زر کردان *id.* to act according to one's instruction. کسي کے کہنے پر عمل کرنا

سکہ مردي *f.* shame, honour, courage, beard, a penis. غیرت - حمیت - آبرو - ڈاڑھي - عضو تناسل

سکیزہ *m.* jumping, leaping. کودنا - جست لگانا

سکیزیدن *inf.* to jump, to leap, to kick, to be broken. - کودنا - جست لگانا - لات مارنا ٹوٹ جانا

سکین *n.* a knife. چاقو - چھري

سکینت *f.* comfort, ease, tranquillity. - آرام آسائش

سگال *n.* thought, suspicion, word, enmity, calumny. اندیشہ - فکر - خیال

سگالش *f.* thought, suspicion, consultation. فکر - اندیشہ - مشورہ

سگالیدن *inf.* to suspect, to resolve, to consult, to think. - اندیشہ کرنا - مشورہ کرنا قصد کرنا

سگ جان *a.* ambitious, greedy, avaricious, hard spirited. سخت جان - لالچي

سگ قرچہ *m.* a wild dog. جنگلي کتا

سل *sal, a.* act of drawing a sword (surg) operation. - (تلوار یا خنجر وغیرہ کا کھینچنا رگ کا کاٹنا (طبیبوں کي اصطلاح میں)

سل *sill, m.* consumption, a hectic fever, نام ایک مرض کا جس میں پھیپڑے میں زخم پڑ کے منھہ سے خون آتا ھے اور تپ بھي ھوتي ھے

سلاب *m.* the mourning clothes. ماتمي کپڑے

سلاح *f.* arms, weapons, implements of war, armour, a sharp cutting thing like knife. ھتیار لڑائي کا - جو چیز کے تیز اور کاٹنے والي ھو مثل چھري کے

سلاح *sulah m.* stool, excrement, dung. آدمي یا جانور کا گوہ

سلاحدست *m.* a soldier who is armed. سپاھي ھتھیار بند

سلاحف (*pl.* سلحفات), tortoises. جمع سلحفات بمعني کچھوے کے

سلاخ *m.* a skinner. کھال کھینچنے والا

سلاخي *sallakhi,* skinning. کھال کھینچنے

سلاس *f.* insensibility, unconsciousness. بیھوشي

سلاست *f.* facility, ductility, easiness, gentleness, perspicuity, clearness. - آسان - نرم ھموار - رواني - ھمواري - صلاحاً رواني کلموں کي آساني سے کہ اُن میں ثقیل الفاظ نہوں

سلاسل (pl. of سلسلہ), chains. - جمع سلسلہ کي لوھے کي زنجيريں

سلاطين (pl. of سلطان), kings, rulers. جمع سلطان بمعني بادشاہ کي

سلاف m. the juice of grapes dripping of itself before being pressed down, also wine. انگور کا شيرہ جو قبل نچوڑنے کے خود بخود ٹپکے - شراب کے معني ميں بھي مستعمل ھے

سلاک m. a bar of silver or gold. چاندي يا سونے کي سلاخ

سلالم n name of one of the Khaiber forts. نام ايک قلعہ کا خيبر کے قلعوں سے

سلاميات f. name of the bones of human foot or fingers. انسان کے ھاتھہ اور پاؤں کي اُنگليوں کي ھڈياں

سلامہ f. safety, salvation, recovery, tranquillity, health, name of a very pretty woman and a mistress of Arabia. بے گزند ھونا - بے عيب ھونا - رھائي پانا - فارسي ميں يہہ لفظ بمعني سلامتي کے بہت آتا ھے - نام ايک خوبصورت عورت اور معشوقہ کا عرب ميں

سلب m. a negative argument in logic, plunder. ليجانا - نيست کرنا

سلت f. barley, a famous grain. جو ايک غلہ مشہور ھے

سلت a. beating, cutting one's nose. کسي کو مارنا - ناک کاٹ ليڈا

سلجوق m. name of a great king. نام ايک بڑے بادشاہ کا

سلجم (properly شلغم), turnip (a vegetable). شلغم جو ترکاري ھے

سلحشور m. a champion, gladiator, horse-breaker. وہ شخص جو ورزش اور استعمال ھتھياروں کا بہت کرے

سلحفات n. a tortoise. باخلہ - کچھوا (ھندي)

سلخ f. skinning, flaying, the end of the month, or the day of the new moon. پوست اتارنا - کھال کھينچني - وہ دن جس دن نيا چاند ديکھا جاوے

سلس a. easy, docile, gentle, mild, ductile. نرمي - ھمواري

سلس salis, a. easy, soft, level, obedient. - نرم ھموار - تابعدار

سلسل } m. limpid water, cold and clear
سلسال } water. - پاني ميٹھا اور خوش مزہ پاني سرد و صاف

سلسبيل m. name of a fountain in Paradise, soft thing, pure sweet running water, wine. - نام ايک چشمہ کا ھے بھشت ميں - چيز نرم بہتاھوا صاف پاني اور بمعني شراب

سلسلہ m. a chain, series, concatenation, succession, name of a book. لوھے سونے چاندي وغيرہ کي زنجيريں - نام ايک کتاب کا - مجازاً نسل اور اولاد اور قرابت اور ترتيب اسامي بزرگان کے

سلطان m. a prince, a sovereign, a king, an absolute monarch, an emperor, discussion, argument. - بادشاہ اولي - حجت - قدرت قھر - غلبہ

سلعہ m. a wart, a mole. مسا جو اکثر آدمي کے جسم پر نکل آتا ھے

سلف a. past, preceding, former (times), m. ancestors, money advanced for merchandise, etc., a purse, a bag, the past, former times. گذشتہ - گذرنا - اگلے جو گذر گئے - باپ دادا

سلف silf, m. a brother-in-law, husband of a wife's sister. سالي کا شوھر

سلفہ m. something to break one's fast. ناشتاشکن - نہاري

سلق m. beet-root (*Beta vulgaris*) a wolf. چقندر جو مشہور ترکاري ھے - گرگ نر يعني بھيڑيا

سلق n. a level plain. دشت ھموار

سلقل m. the left hand (سل, left, قل a hand). باياں ھاتھہ

سلک silk, m. a thread, string, order, series, train, a road, a path. لڑي - ڈورا جس ميں موتي وغيرہ پرو ويں

سلم n. name of Faredoon's eldest son. فريدون کے بڑے بيٹے کا نام

سلم silm, } n. a little board like a slate
سلم salm } which children write on.
سلم salam } لڑکوں کے لکھنے کي تختي

سلم silim, (in the language of the law) a contract of sale, causing an immediate payment of the price and admitting a delay in the delivery of the wares, name of a tree. نام ايک قسم کي بيع کا اور وہ کسي چيز کي قيمت کو پہلے ھي سے چند شرطوں پر مالک کو ديديني قبل تيار ھونے اُس چيز کے جيسا کہ اکثر زميندارون کو غلہ کي قيمت ديديتے ھيں

سلم salam, m. peace, safety, saluting, submitting, cultivating, peace, friendship, love. صلح - آشتي - محبت

سلم sullam, m. a staircase, a ladder. - سيڑھي لکڑي کا زينہ

سلمی f. name of a beautiful woman of Arabia, met. a mistress, also the name of a tribe and mountain in Arabia. نام ايک معشوقہ خوبصورت کا عرب ميں - مجازاً ھر معشوقہ کو کہتے ھيں - عرب کي ايک سبط اور پہاڑ کا نام

سلمان *m.* name of a famous poet who was also called Salman Saoji, the name of a companion of Muhammad who was also called Salman Farsi. نام ایک معروف شاعر کا جسے سلمان کہتے هیں - نام ایک صحابي کا جن کو سلمان فارسي کہتے هیں

سلنج *m.* a lip-clipt man. وہ شخص جس کا هونت کٹا هوا هو

سلوی *n.* quail. بودنہ فارسي - بٹیر (هندي)

سلوت *f.* contentment, cheerfulness, felicity, carelessness, comfort, ease, consolation بے غمي - بیفکر هو جانا - آرام - خوشي - تسلي

سلہ *salla, m.* a basket, a hamper, a bag. ٹوکري - پٹارہ - تھیلي

سلیب *a.* plundered, robbed. - لوٹا هوا - اسباب چھینا هوا

سلیس *a.* easy, not abstruse, simple. - رواں هموار

سلیط *a.* talkative, eloquent, abusive, an olive, oil of sesamum seeds. تیز زبان - زبان دراز - فصیح - زیتون - تل کا تیل

سلیطہ *f.* an abusive woman. عورت زباندراز

سلیقہ *m.* nature, genius, good disposition, knack, knowledge, dexterity, address شعور - طبیعت - سرشت

سلیل *f.* a naked sword, a son, a child. ننگي تلوار - فرزند - بچہ

سلیم *a.* pacific, mild, affable, perfect, healthy, a simpleton, a man bitten by a snake. درست - سلامتي کا مالک - مرد سادہ دل اور احمق - وہ شخص جسے سانپ نے کاٹا هو

سم *samm, m.* poison, venom, the eye of a needle. زهر - سوئي کا ناکا

سم *sum, m.* a hoof, foot (of a horse, etc.) گھوڑے وغیرہ کا ناخن

سماء *m.* the heavens, the sky, the firmament, a cloud, roof of a house, a canopy, altitude, a horse's back. آسمان - مکان کي چھت سائبان - ابر - گھوڑے کي پیٹھ

سمات (*pl.* of سمت), *f.* signs, marks, (*pl.* of سمت *samt.*) right ways, intentions, directions. - جمع سمت بمعني راہ راست - ارادہ - جانب صورت (جمع سمت) بمعني نشان - داغ

سماجت *f.* deformity, shamefulness, turpitude, adulteration, entreaty, humiliation (used adjectively), deformed, filthy, base, *met.* flattery, intoxicated. - زشتي - عیب ناکي مجازاً مست - خوشامد

سماحت *f.* valour, bravery, beneficence, liberality. جوانمردي - بهادري

سماخ *m.* a hole in one's ear. کان کا سوراخ

سماد *m.* cowdung mixed with earth. گوبر مٹي ملا هوا

سمار water mixed with milk. دودهہ اور پاني ملا هوا

سماروغ *m.* a white mushroom resembling an egg. سفید پھول چتر کے جو زمین نمناک پر اُگتا هے - هندي میں اُسے بھوین چھتر - نکرمتہ کہتے هیں

سماط *n.* a order, a series, a row, a line, a table covered with victuals. - صف - رستہ قطار - دستر خوان جس پر کھانا چنا هوا هو

سماع *m.* hearing, listening, singing, a song, ecstacy occasioned by hearing singing, particularly among darweshes when hearing hymans, the sense of hearing. - سنا مجازاً بمعني وجد - ناچ - گانا - راگ کا سننا سننا

سماعت *f.* hearing.

سماعي *f.* what has been heard, traditional, (in gram.) irregular. سنا هوا

سماق *m.* sumach (*Rhus coriaria*). نام ایک دوا کا اور یہہ ایک ترش مزہ میوہ هوتا هے

سماق *sumaq, m.* porphyry, the hardest species of marble. ایک قسم کا پتھر هے

سماک (*pl.* of سمک), fishes, name of the two stars. جمع سمک بمعني مچھلي کي - نام دو ستاروں کا

سم الحمار *n.* rhododaphne or rose bay (*Nerium oleander.* کنیر کا درخت - حرز هرہ

سم الفار }
سم الکہار } *m.* arsenic, (*lit.*) poison for mice or rats, ratsbane. سنکھیا

سم الخیاط *m.* the eye of a needle. سوئي کا ناکہ

سمان the twenty-seventh of each solar month. مہینہ شمسي کي ستائیسویں تاریخ

سمان (*pl.* of سمین) fat, corpulent. جمع سمین بمعني موٹا کي

سماني *f.* a quail. بودنہ - بٹیر - سلوی

سماوات (*pl.* of سماء), the clouds. جمع سماء بمعني آسمان کے

سماوي *a.* heavenly, celestial. منسوب طرف سماء کے - آسماني - آسمان کا

سمت *f.* a way, path, a part, side, quarter, intention, resolution, form, way. - راہ راست روش نیک - قصد - ارادہ - صورت - شکل - طور

سمت *f.* mark, sign. داغ - نشان - نقش

سمت الراس the point of the heavens directly over head called in astronomy the *zenith.* جانب - سر - آسمان کا بیچو بیچ

سمج }
سمچہ } *m.* a vault, a house under ground to keep the cows and goats in comfort during summer. وہ تہہ خانہ جس میں بیلوں اور بکریوں وغیرہ کو واسطے آرام کے گرمیوں میں رکھتے هیں

سمح *a.* a valiant, brave. جوانمرد - جوانمرد هونا

سمر *m.* evening conversations, night darkness, time, a vestibule, an adventure befalling any one. *sunur,* narration, a small lake. - کهاني اور مجازاً بمعني سخن کے بهي آتا هے قصه پڑهنا - رات کي بات

سمسام *n.* a sword, a dagger, *a.* active, light. تلوار - خنجر - چالاک - هلکا

سمسار *m.* a broker. دلال - میان جي

سمسم *simsim,* the grain sesame (*Sesamum orientale*), name of a colour. - تل . کنجد مشهور غله هے . نام ایک رنگ کا

سمسم *m.* a fox. روباه - لومڑي

سمسمة *m.* a red ant. (*pl.* سماسم). ایک سرخ چونٹي (جمع سماسم کي)

سمع *m.* hearing, the ear. سننا - قوت سننے کي

سمع *m.* the young one of a wolf. بهیڑیے کا بچه

سمک *samk, n.* a height, depth, profoundity. مکان کي چهت کا اونچا کرنا - بلند کرنا کسي چیز کا - کسي چیز کي بلندي

سمک *samak, n.* a fish on which the earth is supposed to rest, a fish in general, the sign *Pisces.* مچهلي - مگر فارسي میں اُس مچهلي کے معني میں مستعمل هے جو زمین کے نیچے هے اس مچهلي کي پیٹهه پر یهه زمین رکهي هے جس پر انسان چلتا پهرتا هے

سمکیان *n.* all the living beings anhabiting the earth which rests on the fish. (سمک)

سمن *m.* butter, grease, tallow. گهي - روغن

سمن *saman, m.* jasmine, lily of the valley; (in *Sikandarnama*) the stars. چنبیلي کا پهول - سکندر نامه میں مراد ستارون سے هے

سمند *m.* a horse of noble breed, a steed, bay (colour of a horse with black tail. وه گهوڑا جس کا رنگ زرد هو اور دم سیاه هو

سمندر *samandar, m.* a salamander, a kind of lizard formerly believed, able to live in fire. ایک جانور هوتا هے مثل بڑے چوهے کے یه آتشکده میں پیدا هوتا هے اور جب آگ سے باهر نکلتا هے تو فوراً مرجاتا هے

سمنة *m.* nut of the *Chironjia sapida.* چرونجي میوه مشهور هے

سمو *summu,* height, elevation. بلند هونا - بلندي

سمي *a.* high. بلند

سمور *m.* a weasel, marten, a sable, fur, sable skin. لومڑي کي قسم کا ایک جانور جس کا پوست سرخ مائل سیاهي اور تیر کي هوتا هے اس کي کهال کي پوستین بناتے هیں اور اس جانور کے پوست کو بهي سمور کهتے هیں

سموسیرة *n.* the night. کنایه رات سے

سموط (*pl.* of سمط) strings. جمع سمط کي بمعني موتیون کے ڈورے

سموک *a.* becoming high, (also *pl.* of سمک, a fish). بلند هونا - (جمع سمک - مچهلي)

سموم *f.* a hot suffocating wind in Africa and Arabic commonly called the simoom. هوا گرم هلاک کرنے والي جو افریقه اور عرب میں چلتي هے

سموم (*sumum,* (*pl.* of سم) poison. جمع سم بمعني زهر کے

سمي *m.* a namesake. همنام - مانند

سمیج *a.* bad, milk which has lost its flavour. زشت - برا - دوده جس کا مزا بگڑ گیا هوا

سمید *f.* a bread, a loaf. روٹي - غذا میده کي

سمیر both *sing.* and *pl.*) *m.* a narrators, a story tellers, narrators, story tellers. یهه لفظ مفرد و جمع دونوں آیا هے . قصه کهنے والا قصه کهنے والے

سمیع *m.* a hearer, a listener, an epithet of God. سننے والا - ایک نام هے خدا کے ناموں سے

سمیطة *m.* a string of pearls. موتیون کي لڑي

سمیل *f.* slime, moist earth or mud. پتلي کیچڑ

سمین *a.* fat, plump, well fed, grease. - فربه موٹا - چربي

سمینه *m.* a kind of very fine cloth. نام ایک کپڑے کا جو نهایت باریک هوتا هے

سن *m.* an age, period of life, a tooth. - دانت سال - مقدار عمر

سنا *m.* light. روشني

سناء *m.* height, the plant senna. بلندي - نام ایک دوا کا

سنابل (*pl.* of سنبله), cluster, bunches جمع سنبله بمعني خوشه کي

سنام *m.* the hump of a a camel. - کوهان شتر اُونٹ کي پیٹه کا کوبڑ

سنان *f.* the sharp point of a spear, arrow, needle, etc.); a whetstone. نیزے اور تیر کي نوک - تیزي هر چیز کي - تلوار تیز کرنے کا پتهر

سنبک *f.* a small boat. چهوٹي کشتي

سنبل *m.* spikenard (to which the locks of a mistress are compared), an ear of wheat or barley. ایک گهاس هے خوشبو جس کو کتب طب میں سنبل الطیب لکهتے هیں - هندي بالچهڑ - گیهوں اور جو کي بالي - زلف معشوق

سنبلة *m.* an ear of wheat or barley, the sign Virgo, exudation of sweat. گیهوں اور جو وغیره کي ایک بالي - نام چهٹا برج کا آسمان پر - کبهي پسینا کے قطروں سے مراد لیتے هیں

سنبوسہ *m.* a kind of small pastry of minced meat of a triangular form. تکونے جو نام ھے ایک قسم کے لذیذ کھانے کا

سنبہ *m.* a gimlet a borer. سوراخ کرنے کا آھني آلہ - برما (ھندي)

سنت *sunnat, f.* (*lit.* a religious ceremony necessary to be performed, that which is constantly repeated or performed), it denotes, first, circumcision, it is also applied to denote the traditions, of *Muhammad*, ordinance, way, mode, institution, command. راہ - دوش - عادت

سنج in *comp.* it denotes one who weighs or examines, as. نغمہ سنج a measurer of sounds, *i. e.*, musician, cymbals.

سنج *sinj, a.* elected, chosen, *m.* a choice. چنیدہ - چنا ھوا

سنجاب *m* ermine, the grey squirrel ایک جانور جو چوھے سے بڑا ھوتا ھے اسکي کھال کي پوستین بناتے ھیں اور اُس جانور کي کھال کو بھي سنجاب کھتے ھیں

سجار *n.* name of a city three days' journey from Mosul, a place which was *Sultan Sanjar's* birthplace. نام ایک شھر کا موصل سے تین منزل کے فاصلہ پر - نام ایک موضع کا جھان سلطان سنجر پیدا ھوا تھا

سنجد *m.* a kind of fruit. نام ایک میوہ کا

سنجر *m.* name of a just and wise king. نام ایک شاہ عادل کا

سنجق *m.* a standard, an army, banner, an emblem of an army, a waist band, a cumerbund, a girdle. - فوج کا نشان و جھنڈا کمربند

سنجیدن *inf.* to weigh, to measure. - تولنا وزن کرنا

سنجیدہ *a.* weighty, grave, considerate, weighed, fine. وزندار - لایق - عمدہ

سند *sanad, f.* a prop, anything on which one leans or is supported, relation, connexion, height, *met.* signature, a deed, the seal of a magistrate, a patent grant or charter, from a man in authority, a recommendation, a certificate. وہ چیز جس سے پیٹھہ لگا کر بیٹھیں - نسبت کرنا ایک چیز کا دوسري چیز سے - بلندي کسي چیز کي - مجازاً بمعني سرٹیفکٹ - سفارش نامہ

سند *sind,* a bastard, wicked, rascal, the name of a district, the country along the Indus or *Sindh,* the Indus. - بد - حرام زادہ - شریر - نام ایک ملک کا ھندوستان میں - نام دریائے اٹک کا جو ھندوستان میں ھے

سندان *sindan, f.* an anvil, the iron on which the knocker of a door strikes. آھرن - نھائي جس پر لوھا اور چاندي کوٹکر بڑھاتے ھیں

سندروس *m.* sandrak or sanda rach, a resin supposed to be produced by the *juniperus communis,* but now proved to exude from a species of thuia (*Thuia articulata, Vahl*). ایک گوندھے زرد شفاف مثل کھربا کے

سندس *m.* brocade; silk wrought with gold and silver (the people belonging to Paradise will be clad in this costly cloth.) دیبا کي ایک نھایت بیش قیمت اور باریک اور نازک اور لطیف بھشتیوں کا لباس انثر اسي کا ھوگا

سنع *f.* beauty, comeliness, grace. - خوبصورتي جمال

سنگ *m.* a stone. *met.* weight, rank, value, cost, a kind of dagger worn on the waist, a quoit. - پتھر مجازاً - مقدار - گراني - بھاري پن - وزن - مرتبہ - قیمت - قدر - چکچکي جس کو نوجوان بڑھتے وقت اصول سے بجاتے ھیں - نعل جس کو کشتي کیر اُٹھاتے ھیں

سنگ بست *a.* strong, firm, well established, a house built entirely of stones, unripe fruit. محکم - مضبوط - وہ عمارت جوتمام پتھر کي بني ھو - کچا میوہ

سنگ بر سرماندن *id.* disturbance, tumult, clamour. فساد اور آشوب عظیم سے کنایہ ھے

سنگ بوم *n.* stony soil. پتھریلي زمین

سنگ پشت / سنگپش / سنگپوست } *m.* a tortoise, a turtle. کچھوا

سنگ ترازو *m.* a weight (*i. e.* the standard by which things are weighed). تولنے کے باٹ (ھندي)

سنگ جاني *f.* cruelty, oppression. - بیرحمي سخت جاني

سنگچہ *m.* hail. اولا جو آسمان سے گرتا ھے

سنگ دردھان انداختن *id.* to be silent, to hold one's tongue, to be quiet. کنایہ ھے چپ رھنا

سنگ در موزہ اُفتادن *id.* to be uneasy, to be restless, to find no comfort. کنایہ ھے بے آرام اور بیقرار ھونے سے

سنگخوارک / سنگخوارہ } *f.* a species of bird, called by the Arabs. قطا *qata.* ایک قسم کا پرند جسے عربي میں قطا کھتے ھیں

سنگدل *a.* hard-hearted, cruel. بے رحم - سخت دل

سنگدلي *f.* cruelty, hard-heartedness. - بے رحمي سخت دلي

سنگر *n.* a small spear. چھوٹي برچھي

سنگ رو *a.* immodest, shameless. - بے حیا - بے شرم

سنگریز *m.* event, occurrence, calamity. دنیا کا حادثہ

سنگ زر *m.* a touchstone, assay. کسوٹي

سنگسار *m.* one who stones (to death), a slinger. ایک قسم کي سزا جس میں آدمي کمر تک گاڑا جاتا ھے اور اُسے اس قدر پتھر مارتے ھیں کہ وہ مر جاتا ھے

سنگستان *m.* a stony country, a hill where there are only stones. پہاڑ جہاں نرے پتھر ھوں

سنگلاخ }
سنگلاخہ } *m.* a hard ground full of stones, a place where there may be stones in abundance. زمین سخت کہ جب اُس کو کھودیں پتھر اُس میں سے بہت نکلیں - وہ مقام جہاں پتھر بہت ھوں

سنگ نسو *m.* marble. سنگ مرمر

سنگي *f.* a thing made of stone. پتھر کي چیز

سنگین *a.* heavy, stony, weighty, solid, thick. وزني - بھاري

سنگ یمن *m.* cornelian, a red gem. کنایہ عقیق سے

سنمار *m.* one who does not sleep at night, a thief, a robber, name of mason who had built the mansion Khurnaq. وہ شخص جو رات کو نہ سوئے - چور - نام معمار کا جس نے قصر خو رونق بنا یاتھا

سنن (*pl.* of سنت), customs, rules, etc. جمع سنت بمعني طاریقہ کي

سنوات *n.* (*pl.* of سنہ), years. جمع سنہ بمعني سال کي

سنوح *n.* happening, an occurrence. حادثہ کا پیدا ھونا

سنور *n.* a cat. گربہ - بلي

سنون *m.* tooth-powder, dentifrice. دوا جو دانتوں پر ملیں

سنہ *m.* nodding, sleepiness. غنودگي - اونگھ

سنہ *sunna*, *f.* a daughter-in-law, a son's wife. بہو - بیٹے کي جورو

سني *sanni*, }
سنیہ *sannyia*, } *a.* high, bright, shining. بلند - روشن - چمکتا ھوا

سنیع *a.* good, excellent, well. خوب - نیک

سنین (*pl.* of سنہ), years, years of famine, etc. جمع سنہ بمعني سال کي - قحط کے سال

سو *f.* a side, direction, part, towards, in the direction of. طرف - جہت

سو *f.* wine, water. پاني - شراب

سوء *f.* equality, equal, intermediate, a peak, noon. برابري - برابر - درمیان - پہاڑ کي چوٹي - دن - دوپہر کا وقت

سوابق (*pl.* of سابقہ), past events, past meetings. جمع سابقہ کي - پچھلي ملاقاتیں

سواحل *m.* banks, shores of a river. دریا کے کنارے

سواد *m.* blackening, root, smoke, environs, suburbs, reading, ability. - سیاهي رنگ کي عمارات شہر کے - ذہن - مسودہ - ملکہ

سودا برکردن *id.* to read. پڑھنا

سواد حبش *n.* heap of charcoal. کنایہ کوئلوں کے ڈھیر سے

سواد کردن *id.* to write. لکھنا

سوار *siwar*, *m.* an ornament worn on the wrists by women. نام ایک زیور کا جو ھاتھ میں پہنتے ھیں

سواران آب *m.* water-bubbles. پاني کے بلبلے

سواطع (*pl.* of ساطعہ), a high place. جمع ساطعہ بمعني بلند کي

سواع *m.* one of the antediluvian idols which Noah preached against and were afterwords taken by the Arabs for Gods. *Sawa* was adored under the shape of a woman by the tribe of Hamadan, or, as others write, of Hudbail in Rohat. This idol laying under water for some time after the Deluge, was at length, it is said, discovered by the devil, and was worshipped, by those of Hudbail, who instituted pilgrimages to it, a part of the night. قوم نوح علیہ السلام کے بت کا نام جو ایک عورت کي شکل پر تھا - ٹکڑا رات کا

سواقي (*pl.* of ساقیہ) *f* small rivers, جمع ساقیہ بمعنے چھوٹي ندي کي

سواک *m.* rubbing the teeth, a dentifrice. مسواک

سواک *sawak*, *m.* weak steps. ضعیف چال

سواکن (*pl.* of ساکنہ), inhabitants. جمع ساکنہ کي رھنے والے

سوالف (*pl.* of سالفہ) past. جمع سالفہ کي - گذرے ھوئے

سوانح (*pl.* of سانحہ), accidents, occurrences, incidents, events. جمع سانحہ کي - پیش آنے والي چیزیں (مگر استعمال اس کا واردات متوحش اور نا پسندیدہ میں ھوتا ھے)

سوچي *m.* a water-carrier, a cup-bearer, a wine merchant. آبدار - ساقي شراب کا - میفروش (ترکي زبان میں سو بمعني پاني اور شراب کے ھے)

سوختن (*r.* سوز) to burn, (according to the Persian poets this word means sufferings in love and to burn oneself in the love of a mistress). جلنا

سوختگي *f.* burning, vexation, heart-burning. جلن

سود (*pl.* of (آسود) black. جمع اسود بمعني سياه كي

سودا *m.* melancholy, love, ambition, desire, concupiscence, madness, atrabilis. - ديوانگي عشق

سودا *a.* black, *m.* one of the four humours of the human body. سياه - نام ايک خلط كا چار خلطوں ميں سے

سوداگريان *n.* the merchants. سوداگر لوگ

سودائي *a.* mad, insane, melancholy. - پاگل سڑي

سودن *inf* to wear, to rub گهسنا - رگڑنا

سور *f.* a fortification, the city-wall, the wall of defence, leavings of food. - قلعه كي ديوار شهر كي فصيل - شهر پناه كي ديوار - جهوٹا كهانا

سور (*pl.* of سوره) chapters of the Kuran. قرآن كي سورتيں

سور *a.* feast, a marriage feast, a banquet; red colour. جشن - عروسي - شادي - رنگ سرخ

سورت *f.* cruelty, oppression violence, injury, anger, intensity of heat. - تيزي - تندي ظلم - غصه - تيزي هر چيز كي

سوره *m.* a chapter of the *Kuran*, of which there are 114, sovereign, power, majesty, rank, dignity. - قرآن مجيد كا ٹكڑا جو مقرر هے بزرگي - شرف - مرتبه

سوري *f.* a kind of red flower, any red flower. نام پهول سرخ رنگ كا - هر پهول جو سرخ رنگ هو

سوز *m.* burning vexation, heart-burning, ardour, a stanza of *marsiya* مرثيه or elegiac poem. سوزش - جلن

سوزاں *a* burning. جلتا هوا

سوزانيدن *inf.* to burn. جلانا

سوزن *f.* a needle. سوئي

سوزني *f.* a kind of coverlet, an embroidered cloth. وه كپڑا جس پر سوئي كا كام كيا هوا هو

سوزيدن *inf.* to burn (in a transitive or intransitive sense). جلنا

سوس *f.* reality, origin, nature, disposition, temper, white ant, liquorice (Glycyrrhiza). اصل - طبيعت - ديمک - ديوچه جو ريشمي كپڑے پشمينه وغيره كو خراب اور تباه كرديتا هے - نام ايک درخت كي جڑ كا جسے ملهٹي كهتے هيں

سوسن *f.* a lily (to the leaf of which is compared the tongue of a man). نام ايک قسم كے پهول كا اس كے پتے كو زبان سے تشبيه ديتے هيں

سوسمار *m.* a porpoise (Delphinus), an iguana, گوه مشهور جانور هے

سوط *m.* a whip, a lash. كوڑا - تازيانه

سوغات *f.* a rarity, present, curiosity. - تحفه هديه

سوفار *m.* and *f.* the notch of an arrow. تير كا دهن

سوق *m.* a street, (also *pl.* of ساق), calf (of foot). بازار اور جمع ساق - بمعني پنڈلي كي بهي

سوگ calamity, misfortune, affliction, lamentation, grief. مصيبت - ماتم - غم

سوگوار *a.* grievous, afflicting. مصيبت زده - ماتمي

سوم / سومين } *m.* third part, one-third. تيسرا حصه

سونش filings of gold and silver. چاندي اور سونے كا برادة

سوهان *m.* a file. ريتي - لوهے كا اوزار جس سے لوها وغيره رگڑتے هيں

سوهان گير *a.* soft. كنايه نرم اور ملائم سے

سوءالمزاج *n.* disease, sickness. مرض - بيماري

سوء دماغ *m* brain-sickness. مرض دماغ

سوے *f.* side, path, quarter, towards. - طرف جانب

سوے *n.* wine, water. پاني - شراب

سوے كسے گرفتن *id.* to go towards any one, to go in the direction of a thing. كسي كي طرف جانا

سويت *f.* equality, moderation. برابري - اعتدال

سويدا *m.* a black spot on the heart black, blackish. نقطه سياه جو دل پر هوتا هے

سويق *m.* parched grain, reduced to meal and made into a paste. ستو

سه *a.* and *n.* three. تين

سها *m.* an obscure star in the constellation of the Great Bear. نام ايک باريک ستاره كا جو بنات النعش ميں هے

سهام *m.* a number of arrows, parts. بهت سے تير - بهت سے حصے

سهام *saham*, *m.* intensity of heat during summer, hot wind. فصل گرما ميں گرمي كي شدت - هوا كي نهايت گرمي

سهام *sahham*, *m.* a skilled archer. بڑا تير انداز

سه بعد length, breadth, depth. - لمبائي چوڑائي - گهرائي

سهب *m.* a level ground. زمين هموار

سه برگه *m.* name of a flower. نام ايک پهول كا

سهد *f.* wakefulness, vigilance. بيداري - جاگنا

سهد *m.* a man who sleeps for a short time. وه آدمي جو كم سوتا هے

سهر *m.* insomnia. ايک مرض جس ميں انسان كو نيند نهيں آتي

سهراب *m.* name of Rustam's son who was killed by him by mistake. نام رستم کے بیٹے کا جو رستم کے هاتهه سے دهوکهے میں مارا گیا

سه شنبه *m.* Tuesday. منگل کا دن

سهف *a.* becoming very thristy. نهایت پیاسا هونا

سهک *a.* wearing, rubbing, grinding, act of being blown away of the dust by the wind. گهسانا - پیسنا - هوا کا خاک کو اُڑا لیجانا

سهک *f.* fishy smell, smell of meat, rust. مچهلي کي بو - گوشت کي بو - لوهے کا زنگ

سهم *m.* an arrow, the transverse beam of a house, a lot, a share, a portion, the segment of a circle, segment, a versed sine. تیر - کڑي اور دهني جوچهت میں ڈالتے هیں - وه تیر جس سے قرعه ڈالتے هیں اور فال لیتےهیں - حصه

سهم *m.* terror, fear, dread, gravity, venerableness. خوف - ڈر

سهمناک } سهمگین } *a.* frightful, horrible, terrific. خوفناک - هولناک

سهو *f.* an error, mistake, fault, inadvertency, forgetfulness, negligence. - بهول چوک فراموشي اور بهول جانا - غافل هونا

سهواً *adv.* erroneously, inadvertently. بهولکر

سهولت *f.* facility, ease, smoothness, plainness. آساني

سهوم *suhum*, *f.* cynicism, surliness, sternness. ترشروئي

سهوم *m.* an eagle. عقاب پرند مشهور هے

سهي *a.* straight. *f.* a cypresstree. - راست سیدها - خصوصاً وه سرو جو سیدها هو

سهیل *m.* the star Canopus, name of a fort, name of a person. نام ستارهٔ مشهور کا - نام قلعه کا - نام شخص کا

سهیم *m.* a partner, an associate, a companion. شریک - حصه دار

سي *a.* and *n.* thirty. تیس

سي ام *ord.* of thirty, thirtieth. تیسواں حصه

سي *f.* evil, sin, fault. بدي - برائي - گناه

سي الخلق *a.* bad-tempered, of a sour or sullen disposition. بد خلق - بدمزاج

سیات *f.* sins, evils. گناه - برائیاں

سیاح *m.* a traveller, a pilgrim. - سیر کرنا سفر کرنا

سیادت *f.* dominion, rule, sovereignty, reigning governing. بزرگي - سرداري

سیار *m.* wanderer; a person taking the air or travelling for amusement, wandering, moving. سیر کرنے والا - تیز چلنے والا

سیاره *m.* a caravan, a planet. - قافله - کارواں وه ستاره جو حرکت کیا کرتا هے

سیاست *f.* government, administration of justice, punishment, pain, chastisement, pang, agony. حکومت کرنا - رعیت پر تنبیه کرنا اور روکنا - لوگوں کو گناه اور جرم کرانے سے بوسیله خوف اور مار کے

سیاطا (*pl.* of سوطا), a lash, a whip. جمع سوط بمعني تازیانه کي

سیاع *m.* a plaster. کهگل جس سے دیوار لیپتے هیں

سیاف *m.* a swordsman, a slayer, an executioner, an assassinator. تلوار مارنے والا - قاتل جلاد - خونریز

سیاق *m.* arithmetic or enumeration by the Arabic alphabet, accounts, causing to act, urging, contest. علم حساب - چلانا - رواں کرنا

سیاقت *f.* conflict, contest, driving, stimulating, urging onward, counting. رواں کرنا - چلانا

سیال *a.* flowing rapidly like a torrent, liquid. بهتي هوئي چیز - جاري - پتلي

سیاوش } سیاوخش } *n.* name of the son of king Kaikaos. بادشاه کے بیٹے کا نام

سیاهان *m.* thieves, robbers. کنایه هے چوروں سے

سیاه بستان *f.* a woman whose children don't live. وه عورت جس کا فرزند زنده نه رهتا هو

سیاه پیر *m.* old negro slave. بوڑها غلام حبشي

سیاه چال *m.* a well filled up with rubbish in which they imprison the culprits. اندها کواں جس میں گنهگاروں کو قید کرتے هیں

سیاه چشم *a.* black eyed, a bird of prey like a falcon, is also used in praise of a mistress. کالي آنکهه - شکاري پرند مثل شاهین وغیره کے - معشوق کي صفت میں بهي آتا هے

سیاه دست *m.* a miser, niggard. بخیل - کنجوس

سیاه سال *m.* a season of dearth or famine. قحط کا سال

سیاه قلم *m.* a delineation, a mistress of a dark or sallow complexion. بغیر رنگ کي تصویر - سانولے رنگ کي معشوق کو بهي کهتے هیں

سیاه کار *a.* wicked, criminal, culprit. بد کار - گنهگار

سیاه گوش *m.* name of an animal (*Felis caracal Gmel*, *Persian lynx*, *Penn.*) ایک درنده هے تئے سے چهوٹا اور بلي سے بڑا گلابي رنگ مائل سیاهي دونوں کان سیاه نوکدار نهایت تیز اور جلد چلنے والا

سیاه و سپید *n* east and west, night and day, Zanguebar (in Africa) and the Turkish empire, safety, welfare, peace and depravity, wickedness, idolatry and Islam. کنایه پورب پچهم اور رات و دن اور زنگ و روم اور ... و ... اور کفر و اسلام سے

سياهه *m.*. an account-book or written account, a list, inventory. متصديان دفتر ني اصطلاح ميں وہ روز نامچه جس ميں آمدني نقد يا جنس كي هر روز بطريق اجمال بلا تفصيل ايک جگهه لكهه ليا كريں

سياهي نمودن *id.* to appear. ظاهر هونا

سيب *f.* gift, blessing. بخشش - عطا

سيب سمر قند *m.* an apple of Samarkand, famed for its excellency. سمر قندي سيب جو مشهور هيں لذت ميں

سيخ شدن *id.* to be straight. سيدها هونا

سيد *m.* a lord, a prince, the title is assumed by all those Musalmans who are or pretend to be descendants of the prophet Muhamed through his son-in-law and successor *Ali* and his daughter *Fatima*. پيشوا - سردار - بزرگ

سيدالبشر *m.* the prince of mortals. انسان كا پيشوا يا سردار

سيدالمرسلين }
سيدالانبيا } *m.* (the head of the apostles or prophets), are epithets of *Muhammad*. - رسولوں كا سردار محمد كا نام

سير *m.* a wolf. گرگ - بهيڑيا

سير (*pl.* of سيرت), virtues, morals, qualities, dispositions, knowledge of a history. جمع سيرت كي - عادتيں - خصلتيں - علم تواريخ

سير *f.* perambulation, taking the air, perusal (of a book), amusement, moving about, a thong, a strap of leather. رفتار - چلنا - هوا كهانا - كتاب پڑهنا - چمڑے كا تسمه

سير *ser*, full, satiated, tired, distressed, tired of life. پر - آسوده - بيزار - رنجيده

سير *sir*, *m.* garlic, water-mint. لهسن

سير آمدن *id.* to be grieved, to be distressed, to be troubled. رنجيده هونا - تنگ هونا

سيرت *f.* disposition, temperament, nature, qualities, conduct, manners. - خصلت - خو عادت

سير چشم *a.* satisfied, satiated, not greedy. آسوده - بے طامع

سيستان *n.* name of a place where Rustam used to live. نام ايک شهر كا جس ميں رستم پهلوان رهتا تها

سيف *f.* a sword, striking with a sword, hair on the tail of a horse. - شمشير - تلوار تلوار مارنا - گهوڑے كے دم كے بال

سيف *sif.* *m.* bank, margin, shore. دريا اور جنگل كا كناره

سيفوز *m.* name of a kind of black silken cloth. نام ايک قسيم كے كپڑے عمده ريشمي سياه رنگ كا

سيل *f.* flowing, current, a torrent, flood, walking or going about for amusement. پاني جاري جو بهت هو - جاري هونا پاني يا جوں كا

سيلاب *m.* a flood, torrent, or inundation, abounding with water. پاني كي رو - بهيا

سيلان *a.* flowing of water or blood. جاري هونا پاني يا خون كا

سيلان *m.* the island of Ceylon. نام جزيرۂ لنكا كا

سيلي *f.* a blow with the edge of the open hand, a slap, a cuff. طمانچه - تهپڑ - مكا

سيم *m.* silver, (in *Sikandarnama*) Naushaba. چاندي اور سكندر نامه ميں ايک مقام پر مراد نو شابه سے

سيم بوسنگ زدن *id.* to copulate, to come together as different sexes. كنايه هے جماع كرنے سے

سيم سوخته *m.* soft and pure silver. چاندي نرم اور خالص

سيم كش *a.* extravagant, wasteful. فضول خرچ

سيما *f.* the forehead, face, countenance, aspect, similitude. پيشاني - چهره

سيما *adv.* especially, chief. خاص كر

سيماب *m.* quicksilver. پاره

سيماب در گوش *a.* deaf. بهرا

سيماب شدن *id.* to escape, to fly away. بهاگجانا

سيمرغ *m.* (*lit.* of the size of thirty birds), a fabulous bird that haunts the mountain قاف *qaf*, the Phœnix. نام ايک پرند كا جس كو عنقاهي كهتے هيں

سيميا *m.* magic, necromancy. علم طلسم جس سے ليجانا اپني روح كا دوسرے بدن ميں هوسكے اور اشاے موهوم جن كا حقيقت ميں وجود نهو فقط لوگوں كو دكهلا سكيں

سيمين سيب }
سيمين گوئي } *f.* chin of a mistress. كنايه معشوق كي تهوڑي سے

سيمين *n.* teeth. كنايه دانتوں سے

سيورغال an assignment of land for charitable purposes, a grant of land revenue without any stipulation of military service or other conditions. انعام - مدد معاس

سيوف (*pl.* of سيف), swords. جمع سيف بمعني تلوار كي

سيول (*pl.* of سيل), floods, torrents, etc. جمع سيل بمعني بهيا گئي

سيه بهار *m.* greenness, green-sward. - بهار سبز بڑي هرياول

سیہ بادام *m.* an eye of a mistress. معشوق کي آنکھہ

سیہ چردہ *a.* black, dark, sometimes (dark or sallow complexion).

سیہ خانہ *a.* unfortunate, vagrant, homeless, *m.* a gaol, a wild Arab's tent. بد بخت - خانہ ويران يعني جس کا گھر نهو - قيد خانہ - عرب کے جنگلي لوگوں کے رهنيکا خيمہ

سیہ سوختہ *a.* wholly burnt. بالکل جلا هوا

سیہ کردن چشم *id.* to give a light or refreshment to the eyes. آنکھہ کا روشن کرنا

سیہ کاسہ *m.* a miser, a niggard. بخيل - کنجوس

سیہ کردن to *id.* plunder, to lay waste, to ruin, to depopulate. ويران کرنا

سیہ گلیم *a.* unfortunate, unlucky, poor. بد بخت - بے دولت

سیہ مست *a.* dead drunk. بد مست - نشہ ميں بالکل چور

سیہ نامہ *a.* wicked, culprit, criminal. - بد کار گنهگار



— ش —

ش *shin*, called *shin-e-mu'jam* or *shin-e-manquta*, is the sixteenth letter of the Persian and the thirteenth of the Arabic alphabets. Its sound is that of *sh* in English, or *ch* (as *cheval*) in French, and of *sc* (as *soimia*) in Italian, in reckoning by ابجد its value is 300.

شاب *m.* a young man under thirty-four years of age. جوان - گبرو

شاباش *inter.* (for شادباش) bravo ! excellent ! rest you merry. کلمہ تحسين اور آفريں کا

شاپور *m.* name of a king, name of an athlete, name of an artist who acted as a messenger between Khusru and Shirin. نام بادشاہ کا - نام پهلوان کا - نام مصور کا جو خسرو اور شرين کے درميان ميں پيغامبر اور مياں جي تھے

شاة *f.* a she-goat. بکري

شاتو *n.* a ladder. نردبان - سيڑهي

شاخ *f.* a bough, branch (of a tree), stalk of corn or a flower, etc. a horn, a piece of cloth, a cup of wine, a goblet. - ٹهني ڈالي - حيوان کا سينگ - کپڑے کا ٹکڑا - شراب کا پيالہ - صراحي

شاخ بديوار *a.* obstinate, rebellious, proud. گردن کش - مغرور

شاخ آهو *f.* a bow. کنايہ کمان سے

شاخچہ *m.* a small branch, a twig چهوٹي ٹهني

شاخچہ بندي *f.* accusation, calumny, aspersion, grafting or budding. تهمت لگانا - کسي پر بهتان اٹھانا - درخت کا پيوند کرنا

شاخدار *a.* horny, branched, selfish, proud, vain. خود بين - مغرور

شاخ سست *f.* the world کنايہ دنيا سے

شاخسار *f.* full of branches, a garden, بهت سي ڈاليان - جهاں پر بهت سے درخت هوں

شاخشانہ is applied to various reports, calumnies, or complaints کسي بات ميں پے لگا ديني

شاخ شاخ *m.* pieces, bits ٹکڑے ٹکڑے

شاخص *a* confounded, agitated, astonished. حيران - بهوچکا

شاخ گل *f.* (*met.*) a mistress, a sweetheart کنايہ معشوق سے

شاخل *n.* species of pulse *Cytisus cajan*). ارهر جو غلہ مشهور هے

شاد } شادان } *a.* pleased, delighted, cheerful, exulting, glad. خوش - خرم

شاداب *a.* fresh, verdant, moist, pleasant, agreeable, succulent, well-watered. - سيراب ترو تازہ - پا آب

شاد بهر *a.* lucky, fortunate, happy, cheerful. خوش وقت - خوش نصيب

شاد خوار *a.* satisfied, full, in affluence and ease. آسودہ - خوش حال

شاد دروان *m.* a floor, a curtain, a bedding, a canopy. - فرش - بچهونا - پردہ - شاميانہ - سائبان

شاد کام *a.* happy, glad, name of king Faredoon's brother. خوش - نام فريدوں بادشاہ کے بهائي کا

شاد گرنہ *m.* a quilt, a bedding, a female dancer and singer توشک - بچهونا - جس پر سوتے هيں - عورت گانے والي - ڈومني

شادمان *a.* pleased, delighted, happy, merry. خوش و خرم

شادن *m.* a fawn. هرن کا بچہ

شاذ *a.* uncommon, lone, separate, rare, miraculous, wonderful, irregular. *adv.* seldom. نادر - کم - جدا - تنها - اکيلا

شار *m.* a city, a high building, alloy, a very fine coloured cloth, letting the water to fall, a starling, a broad way. شهر - بلند عمارت - ملوني جو سونے اور چاندي ميں هوتي هے - کپڑا باريک اور رنگين جيسے هندي ميں ساڑي کهتے هيں - نام ايک پرند کا جسے مينا کهتے هيں - راہ کشادہ

شارب m. one who drinks, a moustache. پینے والا - مونچھہ

شارح m. a commentator, a guard placed over fields, against birds, etc. - شرح کرنے والا کھول کر بیان کرنے والا

شارع f. a high road, a right road, a broad open road, a beginner, a doctor, a commentator, a religious instructor. - راہ راست راہ کشادہ - بڑا رستہ - شروع کرنے والا - صاحب شرع جو لوگوںکو دین کی تعلیم کرے

شارع f. a turban دستار - پگڑی

شارت f. an old she-camel. بوڑھی اُنٹنی

شارق a. resplendent, shining, bright. m. the sun. روشن - چمکنے والا - اور بمعنی آفتاب کے

شارقہ m. bright thing, illuminating, sunlight. روشن چیز - آفتاب کی روشنی

شارک m. a species of starling famed for its talkativeness. مینا مشہور پرند ھے

شارمار m. a kind of big snake, a serpent. ایک قسم کا بڑا سانپ

شاروب m. a broom. جاروب - جھاڑو

شارہ m a king of embroidered turban, a kind of fine thin cloth. منقش پگڑی جیسے ھندی میں چیرہ کہتے ھیں - ایک قسم کا باریک اور رنگین کپڑا

شازب a. hard, dry, weak, thin, lean. - سخت خشک - لاغر

شاش n. urine. پیشاب

شاشیدن inf. to make water, or pass urine. پیشاب کرنا

شاشدان m. a piss-pot, a chamber pot. موتنے کا برتن

شاطر a. wanton, valiant, clever, sly, fearless, impudent, bold, (substantively) a chess-player, an expert player in general, a messenger, a pick-pocket, a thief, a chief soldier, a man who ill-treats his family. - دلاور - چالاک - پیک - قاصد - شطرنج باز - بیباک - شوخ - گرہکٹ - چور - سپاھی - جو اپنی خاص وردی پہن کے شاہ کی سواری کے آگے دوڑے - وہ شخص جو اپنے اھل و عیال کے ساتھہ برائی سے پیش اوے

شاطن a. wicked, malignant, bad. خبیث - بدکار

شاطی n. bank, shore. دریا اور ندی کا کنارہ

شاع a. apparent clear, public, known, revealed. آشکارا - ظاھر

شاعر m. intelligent, a poet. شعور مند - شعر بنانے والا

شاغل a. attentive, occupied, employed, diligent, busy, forbidding. - مشغول ھونے والا مصروف ھونے والا - منع کرنے والا

شافع a. deprecating, interceding, pleading, (sub.) a patron, an advocate. - شفاعت کرنیوالا کسی کو بچھوادینیوالا - سفارش کرنیوالا

شافعی n prope. one of the chiefs of the four principal sects of the Mahomedan religion. a. following the sect of Shafi'i. ایک امام اھل سنت کا نام جو اپنے دادا شافع کی طرف منسوب ھے

شافی a. healing, salutary, one who healeth. شفا دینے والا - آرام دینے والا

شاق } a. difficult, perplexing, trouble-
شاقہ } some, hard. دشوار - مشکل - سخت

شاک m. an armed soldier. a. suspicious. سپاھی ھتھیار بند - شک کرنیوالا - گمان لیجانے والا

شاکر a. grateful, praising, thanking. شکر کرنے والا

شاکی m complainer, a back biter, lamenting, querulous گلہ کرنیوالا

شاگرد m. a scholar, disciple, apprentice, a servant. خادم - نوکر - خدمتگار - مجازاً اُستاد کا شاگرد

شاگرد و ستقم m. the prophet Muhamad. حضرت محمد سے مراد ھے

شالھنگ m. fraud, treachery, hypocrisy, cruelty, violence, oppression, pledge, pawn, mortgage. - مکر - حیلہ - ظلم و ستم گرو - رھن

شام m. Syria, also the city of Damascus. نام ایک مشہور ملک کا

شام m. the evening meal, supper. شام کا کھانا

شاماخ m name of a grain (*Panicum colonum*). ساتوان غلہ مشہور ھے

شامت f. bad fortune, adversity. - بدشگونی بد فالی

شامت a. rejoicing or laughing at another's misfortune. کسی کی خرابی پر خوش ھونیوالا

شامخ a. high, elevated, proud. - صاحب غرور بلند - اونچا

شامہ m. the sense of smelling. قوتیہ سونگھنے کی

شامی f. supper, the evening meal, the evening time. adj. Syrian, relating to Syria or Damascus. شام کا وقت - شام کا کھانا - ملک شام کا

شان f. business, affair, dignity, state, condition, degree, constitution, nature, disposition. عظمت - شوکت - کام - حال - حق

شان (for ایشان), m. a honeycomb. بھڑوں کا چھتہ جس میں شہد بھي هو

شانه m. a comb, a crest, the shoulder, a kind of arm. کنگھي - کندھا - نام ایک هتھیار کا

شانه بہ n. of less value. کم قیمت

شانه در آب گذشتن id. to ornament, to be ready to dress, to embellish. مراد هے بناؤ سنگار پر مستعد هونے سے

شانه سر m. the bird called. هد هد or hoopoe. هد هد مشهور پرند هے

شانه کاري f. artfulness, fraud, flattery. فریب - خرشامد

شانه کردن id. to deck, to adorn, to ornament. آرائش کرنا

شانه گرداني f. turning away one's face, turning one's back, denial. کسي کي طرف سے منھه کو پھیر لینا - پیٹھه کا پھیر لینا - انکار کرنا

شاني n. an enemy, a foe. دشمن - بیري

شاه اسپر غم m. an odoriferous plant (*Ocymum pilosum*), sweet basil. ریحان جس کو نازبو کہتے هیں

شاه چین m. (*lit.* the king of China) the sun. کنایه آفتاب سے

شاهد m. a witness, (in Pers.) a. excellent, beautiful, f. a sweetheart, a female friend, a beloved object; one of the epithets of Mohamd. a festival, the Judgment day. حاضر - گواه - نام محمد کا - روز جمعه - روز عرفه - (فارسي) خوب اور خوشنما - صاحب حسن - خوبصورت - معشوق

شاهد باز a. wicked, bad, malignant. - فاسق بد کار

شاهد غیب n. God, Almighty. مراد حق تعالی سے

شاهد العمرک m. the prophet Mohamd. مراد محمد سے

شاهراه f. the highway. راه کشاده

شاه عرب m. the prophet Mohamd.. مراد محمد سے

شاهق a. high, elevated, a high building, a pulse. بلند - بلند عمارت - ایک قسم نبض کي

شاه لشکر m. a captain, a commander. لشکر کا سردار

شاه مغرب m. the moon-on the moonlit night. چاند - رات کا چاند

شاه نحل m. a drone. شهد کے مکھیوں کا سردار

شاهین m a royal white falcon, a string in the centre of the beam of a pair of scales, the beam of a pair of scales پرند شکاري جو مشهور هے - ترازو کي وه رسي جو بیچ میں هوتي هے - ترازو کي ڈنڈي

شایا a. legal, worthy, suitable, agreeable. لایق - سزاوار

شایبه m. admixture, contamination. - آلودگي آمیزش

شایستن } inf. to be fit or becoming, to
شائیدن } suit. لایق هونا

شایستگي f. affability, fitness, aptitude, convincing. لیاقت

شایسته a. worthy, honourable, suitable, proper, well-bred, polite. لایق - بهتر

شایع a divulged, published, diffused, distressed. عام - ظهور - مشهور

شائق a. full of desire, eager, desirous, fond, lascivious. شوقین - مشتاق

شائک m. a thorny tree. درخت خاردار

شب f. night. رات

شب shabb, m. youth, prime of life, adolescence, kindling fire; war, battle, height. جواني - جوان هونا آگ روشن کرنا - جنگ - لڑائي هر چیز کي بلندي

شب shabb, alum. پھٹکري

شباب (pl. of شاب) young, etc. جمع شاب بمعني جوان کي

شباب m. comfort, luxury, enjoyment. - عیش نشاط

شباروز adv. night and day, always. رات دن

شباط m. name of a Roman month equivalent to Phagun of the Hindi and February and March of the English month. نام ایک رومي مهینے کا جو هندي میں مطابق ماه پھاگن کے هوتا هے

شباک (pl. of شبکه), nets, etc. جمع - شبکه بمعني جال کي

شباک shabbak, m. a borer. سوراخ کرنے والا

شبان shubban, (pl. of شاب), young, a youth. جمع شاب بمعني جوان کي

شبان shuban, a shepherd, a pastor. - چرواها گڈریا

شباروز (contr. form of شبانه روز), night and day, the civil day of twenty four hours. مخفف شبانه روز کا - رات دن

شبان وادي ایمن m. the prophet Boses. کنایه هے موسی سے

شبانگه f. the evening. شام کا وقت

شب آهنگ n. nightingale, the evening star. بلبل جو پرند مشهور هے - نام ایک ستاره کا جو اکثر سر شام سے نمایاں هوتا

شب برات f. the fifteenth day of the month شعبان shaban, on which the Musalmans make offerings and oblations n the names of deceased relations. پندرهویں شب ماه شعبان کي

شب پوش *n.* a sleeping suit, a cap. رات کے کپڑے - ٹوپي

شب پرہ *m.* a bat, a flying fox. چمگادڑ مشہور پرند ھے

شبت *m.* a spider. عنکبوت - مکڑي

شب چراغ *m. lit* night-lamp, a carbuncle, a brilliant gem. ایک جوھر ھے جو رات کو مثل چراغ کے چمکتا ھے

شب چک see. شب رات

شبح *m.* body. جسم - بدن

شبخیز *m.* one who rises at night for the purpose of praying, *a.* devout, pious. رات کو اُٹھنے والا - رات کو عبادت کرنے والا

شبخون *m.* a night attack, (in *sikandar-nama*) battle, war. پوشیدہ حملہ جو رات کو دشمن پر کیا جاوے - سکندر نامہ میں مطلق جنگ - لڑائي

شب دیجور *f.* a pitch dark-night بہت اندھیري رات

شبدیز *m.* a horse of a dark rusty colour, a horse of noble breed, name of a famous horse belonging to *Kae Khusru*, an ancient Persian king. مشکي گھوڑا - خسرو پرویز نے گھوڑے کا نام جو سیاہ رنگ یعني مشکي تھا

شبر *f.* a span, palm. بالشت - بدست - وجب

شبر
شبیر
مشبر
n. name of the tree sons of Aaron (ھارون), Muhamad had given these names to his grandsons Hasan, Husain and Mahsan. تینوں نام ھارون کے بیٹوں کے تھے - محمد نے اپنے نواسوں حسن - حسین اور محسن کو یہ نام دئے تھے

شبرنگ *a.* black, dusky, obscure. *m.* name of Siyaosh's horse. کالا - مشکي - سیاوش کے گھوڑے کا نام

شبر *m.* a thief, a robber. دزد - چور

شب زندہ دار *m* one who wakes up the whole night and passes his time in devotion. وہ شخص جو تمام رات عبادت کرنے میں جاگتا رھے

شبستان *m.* a bed, a bed-chamber, a sleeping room. رات کے رھنے کا مکان

شبع *n.* fulness, satiety. سیري - سیر ھونا - پیٹ بھرا ھوا کھانے سے

شب قدر *f.* the night of power, the 23rd (according to the Shihas) and the 27th according to the Sunnites) of *Ramzan*, on which the *Quran* is said to have descended from heaven, the divine worship of this night is considered to be equal to the devotion of one thousand months. بموجب اکثر قول کے شیعوں کے نزدیک تیسویں اور سنیوں کے نزدیک ستائیسویں شب ماہ رمضان کي ھے - اس رات کي عبادت ھزار مھینوں کے برابر ھے

شبک
شبکہ
m. a fowler's net, a wire fencing or net. صیاد کا جال - لوھے وغیرہ کي جالي

شبکات (*pl.* of شبکہ), nets ; etc. - جمع شبکہ کي جالیاں وغیرہ

شبکور a night-blind. رات کا اندھا - رتوندیا

شبگرد *m.* a watchman, an inspector of police. چوکیدار - کوتوال

شبگوں *a.* dark as night, black. اندھیرا - کالا

شبگیر *m.* early dawn, a cricket, a nightingale, or any animal that sings at night, a servant that works or travels in the night time, a man who rises early at the dawn of day, for divine worship. پچھلي رات - جھینگر - بلبل - آدھي رات کے بعد اور صبح کے پہلے سفر کرنا - نام ایک پرند کا جو پچھلي رات کو بولتا ھے - وہ شخص جو پچھلي رات عبادت کرنیکے لئے اُٹھے

شبم *m.* winter, the cold season, becoming cold. جاڑا - سرما - سرد ھونا

شبم *f.* any cold thing. سرد چیز

شب مردگان *n.* night sleepers, those sleeping the whole night. رات بھر سونے والے

شبنم *f.* night mositure, dew. *m.* a kind of very fine cloth, a very fine muslim and gauze. اُوس جو رات کو گرتي ھے - نہایت مہین اور عمدہ کپڑے کا نام

شبو *shubbo*, *m.* namo of a very fragrant flower (*Polianthes tuberosa*). ایک قسم کا پھول ھے جس کي خوشبو رات کو پھیلتي ھے

شبہ *m.* a bead, an agate, a coral. (ھندي) پوتھہ

شبہہ *m.* brass. پیتل

شبہ *shibh* or *shabah*, an image, resemblance, similitude. مثل - مانند - نظیر

شبیار *m.* aloes. ایک کڑوي دوا جسے ھندي میں ایلوا کہتے ھیں

شبیخون see. شبخون

شبیع *a.* very wise, intelligent. بڑا عقلمند

شبینہ *a.* stale, last night's. (ھندي) رات کا باسي

شبیہ *a.* alike, resembling. *f.* a picture, likeness, resemblance. - مشابہ - مثل - مانند اصطلاحاً تصویر جو مطابق شکل اور صورت کسي شخص کے کھینچي ھو

شپش *m.* a wingless, insect, parasitic on man and other animals. جوں جو آدمي اور جانوروں کے پڑ جاتے ھیں

شپلق *m* a slap. طمانچہ - تھپڑ

شپلیدن *inf.* to squeeze, to whistle. - نچوڑنا - سیٹی بجانا

شتي *a.* distinct, different, various. - متفرق - الگ الگ

شتا *m.* winter, the cloth season. - موسم سرما - جاڑا

شتاب *m.* haste, quickness, *a.* quick, speedy, quickly, expeditiously, soon. جلد - تیز

ستابان *a.* hastening, hurrying, running. دوڑتا هوا - جلدي کرتا هوا

شتابانیدن *inf.* to cause to hasten. جلدي کرنا

شتاوتن *inf.* to run. دوڑنا

شتالنگ *m.* the ankle. وہ هڈي جو پیر اور پنڈلي کے جوڑ پر هے - ٹخنہ

شتر *m.* a camel. اونٹ

شتر *shatr*, *m.* corner, edge, border, name of a fort in Persia. کنارہ - گوشہ - نام ایک قلعہ کا ایران میں

شتر بان *m.* a camel-driver (or keeper) اونٹ کا نگهبان

شترپا *m.* a sunflower (*Helianthus*). سورجمکهي ایک پهول کا نام

شتر دل *a.* coward, timid, pusillanimous. ڈرپوک - نامرد

شتر کینہ *a.* bearing malice (for which the camel is remarkable). منافق

شتر گربہ *m.* two things not agreeing with each other, two indifferent things, everything improper. وہ چیزیں جو آپس میں مخالف هو - وہ چیز نامناسب

شتر مرغ *m.* an ostrich. مشهور جانور هے جوبي میں اُسے نعامہ کهتے هیں

شتلہ *m.* oppression, violence, wrong. - ظلم کرنا - زبر دستي - ظلم

شتم *a.* contempt, contumely, reproach, outrage, injury, villainy, abuse not amounting to slander. گالي - گالي دینا

شتیت *a.* scattered, dispersed. - پرا گندہ بکهرا هوا

شتیم *a.* of a sour or sullen temper, surly, peevish, morose. ترشرو - زشت رو

شج *m.* a wound or personal injury short of destroying life, breaking of the bones or head, mixing of water with wine. سر کا پهوٹ جانا اور هڈي کا ٹوٹ جانا - شراب کا پاني میں مل جانا

شجاع *a.* brave, intrepid, bold, valiant. بهادر - جوانمرد - دلیر

شجاع *m.* a big snake a serpent, the brave man. ایک قسم کا بڑا سانپ - بهادر اور دلیر لوگ

شجاعت *f.* bravery, valour, boldness. - بهادري - جوانمردي

شجر *m.* a tree, a plant. وہ درخت جس کي جڑهو

شجرہ *m.* a tree, a plant, *met.* a genealogical tree, account of descent, pedigree. - درخت - مجازاً نسب نامہ

شجعہ *m.* the brave, heroes. بهادر لوگ

شجعان (*pl.* of شجاع), the brave, the warlike, heroes, serpents. جمع شجاع کي - بهت سے بهادر لوگ - بهت سے سانپ

شجن *m.* grief, necessity, need, bitter winter. زهرہ - حاجت - غم - بڑا جاڑا

شجو *m.* grief, affliction, necessity, need, requirement. غم - اندوہ - حاجت

شجوب *n.* destruction, plundering, destroying, pillars (of a house). هلاک هونا - هلاک کرنا - عمارت کے ستون

شحام *m.* a tallow-chandler, a grease merchant. چربي بیچنے والا

شحامت *f* becoming fat or greasy. موٹا هونا

شحم *n.* fatness, greasiness. چربي - موٹاپا

شحنہ *m.* a police officer, a viceroy, a lieutenant. کوتوال

شحنگي *f.* superintendence, police. کوتوال گري

شحون *a.* strong, great, robust. قوي - بزرگ

شحیح *m.* a miser, niggard. بخیل - کنجوس

شحیم *a.* fat, corpulent, fleshy. موٹا فربہ

شخ *n.* hard ground, top of a hill, peak of a mountain, valley, (*contr.* from of. شاخ, a branch, a horn). پهاڑ - پهاڑ کے دامن کي زمین سخت زمین - جو چیز کے سخت اور محکم هو - مخفف شاخ کا - خواہ درخت کي ڈالي هو خواہ حیوان کا سینگ

شخار *n.* a kind of mineral alkali, *natrum*, impure carbonate of soda. ایک قسم نمک کي جسکو هندي میں سجي کهتے هیں

شخالیدن *inf.* to prick, to pierce, to scratch, to peal off. چبهونا - چهیلنا

شخ کمان *m.* an archer of a great strength. بڑا طاقتور - تیر انداز

شخل *n.* complaint, a shout, a clamour. فریاد - نعرہ

شخناہ *n.* enmity, hatred, malice. - عداوت دشمني

شخوب *a.* becoming lean, becoming lean for want of, wanting flesh and fat on the body. لاغر هونا - دبلا هونا - بهوکهہ اور دبلاپے سے بے حیثیت هو جانا

شغول *n.* complaint, clamour, noise, shout. فریاد - نعره

شغوریدن *inf.* to withoer, to fade, to complain. کمھلانا - فریاد کرنا

شخیص *a.* fat, fleshy. موٹا - فربه

شخیدن *inf.* to slip, to slide. پھسلنا

شد *v. t* was, became, went. هوا - گیا - گذرا

شد *shadd*, force, running to battle, ascending, rising, the mark. تشدید, reduplication of a letter. مضبوط کرنا - توت دینا - بلند هونا - آفتاب کا - فارسیوں کي اصطلاح میں بلند کرنا - آواز الفاظ کا

شداد *shidad*, (*pl.* of شدید), *a.* strong, violent vehement. جمع شدید کي - مضبوط چیزیں

شداد *n.* Shadad the first king of the Adites, was the son of Ad, of whom the Eastern writers deliver many fabulous things particularly that he finished the magnificent city his father had begun, wherein he built a fine palace, adorned with delicious gardens, to embellish which he spared neither cost nor labour, proposing thereby to create in his subjects a superstitious veneration of himself as a god. This garden or paradise was called the garden of Iram, and is mentioned in the Quran, and often alluded to by the Oriental writers. قوم عاد کا بادشاه جسنے باغ ارم بنوایا تها اور دعوی خدائي کا کرنے لگا

شدائد (*pl.* of شدیده) adversities, troubles, tribulations, disagreeable events. - تکلیفیں سختیاں

شدت *f.* violence, force, vehemence, adversity, affliction, difficulty. سختي - تکلیف

شده *a.* attacking once. ایک بار حمله کرنا

شدح *a* becoming fat. موٹا هونا

شدن *inf.* to be, to become, to go. هونا - جانا

شدومد *shadd-o madd*, emphasis, energy, (Pers). ceremony, pomp, splendour. فارسي میں بمعني تکلف و شان و شوکت کے مستعمل هے

شده *m.* a banner, a flag. a banner or banners which are carried with the تعزیه *taziya*, in the *Moharrum*. - علم - نشان - جهنڈا

شدیاز *m.* ground tilled and dressed for sowing. کهیتي کے واسطے زمین گوڑي گئي اور درست کي گئي

شدید *a.* difficult, afflicting, violent, strong, intrepid, miserly, *m.* a lion, name of king Shadad's brother who was also a king. سخت - محکم - استوار - دلیر - بخیل - شیر درنده نام شداد بادشاه کے بهائي کا

شر *f.* wickedness, depravity, malignancy, a satan, a devil, an idol. بدي - برائي - ابلیس - بت

شرا *m.* purchase, sale, traffic. مول لینا - بیچنا

شراب پشت دار *f.* a kind of wine distilled from the effective drugs. وه شراب جس کو مقوي باه دوائیں ڈالکر کهینچا هو

شراب زدگي *a.* becoming dead-drunk. نشه شراب سے بهت بیهوش هوجانا

شراب طهور *a.* purifying wine (from the fountain of Paradise), which will be served to the heavenly people. پاک شراب جو بهشت میں مومنوں کو ملیگي

شراب گذشته *f.* wine which has lost its flavour and effect. بے مزه شراب جس میں نشه نه رها هو

شرار *m.* a spark of fire. آگ کي چنگاري

شراره *m.* a spark of fire, flash, gleam. ایک چنگاري آگ کي

شراسیف (*pl.* of شرسوف), ribs. جمع شرسوف کي - پسلیاں پیٹ کي

شرافت *f.* nobility, greatness. بزرگي

شرائط (*pl.* of شرط), agreements, stipulations, conditions. جمع شرط کي - شرطیں

شرائع (*pl.* of شریعت). جمع شریعت کي

شرائک (*pl.* of شریکه). جمع شریکه کي

شرائین (*pl.* of شریان), arteries. اچهلنے والي رگیں

شرب *m.* drink, drinking. پاني کا حصه جو ملے

شرب *sharab*, *m.* the place at the root of a tree for holding water, the excavation in which a tree is to be planted. درخت کے تهالے

شرب الیهود *a.* drinking wine secretly, formerly the Jews used to drink wine secretly for fear of being seen in the act by the Mahomadans). چهپا کر شراب پینا

شربتي *n.* a kind of very fine silken cloth, name of a sweetmeat, name of a fruit, name of a colour. نام ایک ریشمي کپڑے کا جو نهایت باریک اور نازک هوتا هے - نام ایک متهائي کا - نام ایک میوه کا - ایک طرح کا رنگ

شرح *f.* explanation, commentary, allowance, pay, rate. کهولنا - ظاهر کرنا - کهولکر بیان کرنا مطالب کا - کسي کتاب کي تفسیر

شرحه شرحه *m* pieces, bits. تکڑے تکڑے

شرح کشاف خواندن *id.* to prattle, to prate, to utter foolishly. ... یه هے زیاده گوئي اور بیهوده گفتگو سے

شرذمة *m.* party of a few men, the slice of a fruit. تھوڑے آدمیوں کي جماعت - میوہ وغیرہ کا ایک ٹکڑا

شرر *n.* a spark of fire, malice. ایک چنگاري آگ کي

شررہ *m.* a spark of fire, (*pl.* of شرير) the wicked, etc. ایک چنگاري آگ کي - جمع شریر بمعني بد اور برے کي

شرزہ *a.* raging, fierce, roaring, (generally used for a lion or a tiger). خوفناک - غصہ سے بھرا ہوا - مہیب - یہ لفظ اکثر شیر اور پلنگ کي صفت میں آتا ھے

شرسوف *n.* a rib. پیٹ کي ایک پسلي

شرطا *shurt,* شرطا *shart,* } *f.* wind in favour of a ship (or a boat). ہوا جو موافق کشتي کے ہو

شرط *f.* condition, agreement, stipulation, wager, sign, mark, signal. بدنا - لازم کرنا - وہ چیز جس پر کسي چیز کا ہونا منحصر ہو - عہد - پیمان

شرطا *m.* pawns, soldiers, policemen. کوتوال کے پیادے

شرع *m.* the precepts of Mohammad, law, equity, a highroad. راہ راست جو خدا تعالی نے اپنے بندوں کے لئیے پیدا کي ھے اور اُس پر چلنے کا حکم ہو

شرف *m.* nobility, eminence, rank, excellency, hump (of a camel), a whip, a lash. بزرگي - جاے بلند - بلندي - اونٹ کا کوبر - تازیانہ کوڑا

شرف *sharf,* surpassing one in nobility, honour, etc. بزرگي میں کسي پر غالب ہونا

شرفا (*pl.* of شریف) nobles, grandees. جمع شریف بمعني نیک کے

شرفہ *m.* the steeple of a building, goods of excellent quality. عمارت کا کنگورہ - عمدہ مال

شرق *m* the east, rising of the sun, bright, shining, light coming out of a hole. آفتاب - روشن - روشن ہونا - آفتاب کے نکلنے کیجگہہ - وہ روشني جو سوراخ سے نکلے

شرقہ *m.* grief, sorrow, affliction, *a.* making sad. غم - رنج - غمگین - کسي کو رنجیدہ کرنا

شرقیہ *m.* a place facing the east. وہ مقام جس کا رخ پورب ہو

شرک *shirk, m.* company, society, partnership, paganism, infidelity, (*i. e.* ascribing plurality to the Deity). خداے لاشریک کے ساتھہ کسي کو شریک کرنا - اور یہہ کفر ھے

شرک *m.* a fowler's net, an open and clear way, name of a district in Hedjaz. صیاد کا جال - راہ کشادہ اور ظاہر - نام ایک موضع کا حجاز میں

شرکا (*pl.* of شریک), partners, associates. جمع شریک کي - حصے دار لوگ وغیرہ

شرکت *f.* going partners, partnership, society. شریک ہونا

شرکہ *m.* a fowler's net. دام صیاد

شرمہ *a.* ashamed, abashed. شرمندہ - خجل

شرمسار *a.* much ashamed, very bashful. بہت شرمندہ

شرمک *f.* colocynth, wild gourd, a fruit of beautiful appearance, but bitter taste (*Cucumis colocynthis.*) جنگلي خربوزہ جو دیکھنے میں خوش رنگ اور خوبصورت ہوتا ھے اور مزہ میں نہایت کڑوا ہندي اندراین

شرود *m.* a fugitive, a runner, a runaway. بھاگ نے والا

شرور (*pl.* of شر), wicked deeds. جمع شر کي - بدیاں - شرارتیں

شروق *a.* rising (of the sun), cleaving a goat's ear. *met.* light. آفتاب کا نکلنا - بکري وغیرہ کا کان چیرنا - مجازاً روشني

شرہ *m.* desire, appetite, avidity, gluttony. حرص کا غالب ہونا - لالچ

شرہ *a.* avaricious, greedy. حریص - لالچي

شرہ *shirrah, m.* avarice, greed, luxury, desire, avidity, youth, enjoyment, pleasure, wickedness, depravity. حرص - لالچ - عیش - نشاط - تیزي - جواني - بد ہونا

شري *n.* a forest, a wood, red spots on the body from fever. وہ صحرا یا جنگل جس میں بہت درخت ہوں - سرخ چھیٹے جو جسم پر پڑ جاتے ہیں - ہندي (پتي)

شریان *f.* an artery. ہر رگ اُچھلنیوالي

شریح *m.* a piece of meat (cut). گوشت کا ٹکڑا کٹا ہوا

شریح *m.* name of a famous Mahomadan Judge. نام ایک مشہور قاضي کا

شریر *a.* vicious, wicked. بہت بڑا بد اور برا

شریطہ *m.* agreement, covenant, pledge, stipulation. عہد - پیمان

شریعت *f.* a large canal, a quay for drawing water, the laws of *Mohammad,* law, justice, equity. بڑي نہر اور جاري - پنگھٹ (ہندي) راہ راست خدا کي پیدا کي ہوئي بندوں کے لئے بابت معاملات اور عبادت کے

شریف *a.* noble, eminent, excellent, illustrious, a title given to the rulers of Mecca. مرد بزرگ اور بڑے مرتبہ کا - ہر شے بزرگ قدر - آدمي اصیل اور نجیب - حاکم مکہ معظمہ کا

شست *f.* aim, a large fishing-hook (not used in angling with the hand, but left attached to a strong line which is fastened to the shore), the handle of a bow, thumb, a thumb-stall (used to defend the thumb in pulling the string of a bow, a razor, a lancet, string of a music, the brahminical thread, a musical plectrum or bow. - نشان - مچھلي شکار کرنے کا کانٹا - حجام کا نشتر - باجہ کا تار - زنار - تير کي گرفت - مضراب ستار بجانے کي - کمان کا حلقہ - انگوٹھا

شست گیر *m.* an archer, a bowman. تير انداز

شست میر *m.* a skilled archer. بڑا کامل هنر تير انداز

شستن (r. شو), to wash. دھونا

شش *m.* the lungs. هندي پھيپھڑا

ششپر *n.* an iron mace the head of which is hexagonal. لوھے کے گرز کي ايک قسم جس کا سر چھہ پہلو کا هوتا هے

شش جہ *n.* the six directions of the earth *viz.* east, west, north, south, heaven, and earth. - اطرات عالم يعني پورب - پچھم - اُتر - دکھن - نيچے - اوپر

شش خانہ *n.* six planets, Saturn, Moon, Mars, Mercury, Jupiter and Venus. چھہ سير کرنے والے ستارے سواے آفتاب کے يعني چاند - زھرہ - مشتري - مريخ - عطارد - زحل

ششدر *a.* confounded, perplexed. عاجز - حيران

شش عرہ *m.* the six surfaces, seat of destruction, humility, confusion. شش جہت - هلاکي اور تباهي کا مقام - عاجزي - حيراني

شش روز *n.* the six days during which God created the whole universe. پيدايش کے چھہ روز جن ميں حق تعالی نے کل مخلوقات کو پيدا کيا

شش سري *n.* fine pure gold. خالص اور عمدہ سونا

شط *shatt*, a river, a canal, bank, shore. - ندي - نهر - دريا کا کنارہ

شطاح *a.* meretricious, lascivious, obscene, shameless, heresy. بيغيرت - بيحيا

شطحيات *f.* nonsensical talks, heresy, heterodoxy. بيهودہ باتيں - کلمات - ظاهر شريعت کے زبان پر لانا

شطر half of every thing, a piece, side, direction. - هر چيز کا نصف - هر شے کا ٹکڑا - جانب - طرف

شطرنجي *m.* a man who excels in chess *f.* a kind of spotted carpet. شطرنج کھيلنے والا نام ايک قسم کے فرش کا

شطن *n.* a big rope. بڑي رسي

شطير *adv.* far, near. دور - نزديک

شظايا *m.* teeth of every thing, pieces, fibres, parts. هر چيز کے دندانے - هر شے کے ٹکڑے - هر چيز کے ريشے

شظيہ the *sing* of شظايا. مفرد شظايا کا

شعار *m.* an under garment, mark, signal, sign, habit, custom, in *comp.* it denotes distinction, habit, etc., as گرم شعار distinguished for generosity. - نيچے پهننے کا جامہ - نشان - عادت - معمول

شعاع *f.* light, splendour, lustre, the rays of the sun, sunshine. - روشني - چمک - کرنيں - دھوپ

شعب *shi'b. m.* a pass through a mountain, a path through mountains. پهاڑ کا درہ - وہ رستہ جو پهاڑ ميں هو

شعب *n.* a crevice, a cleft, a cave. - درز - شگاف - غار

شعب (*pl.* of شعبہ). جمع شعبہ کي

شعاب (*pl.* of شعب), passes, crevices clefts. جمع شعب بمعني پهاڑ کي راہ - درز - شگاف کي

شعات *f.* madness, insanity, silliness. - ديوانگي - سڑي پن

شعات *shi'af*, red hair of the head. سر کے بال جو سرخ هوں

شعبان *m.* the eight Arabian month, the fourteenth day is a festival (called برات), on this day an angel is supposed to examine a record, on which is written the names of the living. آٹھواں مهينہ قمري مسلمانوں کا

شعبدہ *m.* sleight of hand, juggling, conjuration. بازي جو کسي فن اور سحر سے کريں

شعبدہ باز *m.* a juggler, conjuror. بازيگر - نٹ

شعبہ *m.* a small water-channel, piece of a thing, branch of a tree. نهر جو اور کسي نهر سے نکلا هو - ٹکڑا هر شے کا - درخت کي شاخ

شعر *n.* hair, a kind of fine silken cloth. آدمي وغيرہ کے بال - ايک قسم کا باريک ريشمي کپڑا

شعرا (*pl.* of شاعر), poets. جمع شاعر کي - شعر کهنے والے

شعري *a* excelling in poetry, the daystar. شعر خواني ميں مشاق - نام ايک ستارہ کا جو بڑا اور بهت روشن هوتا هے

شعري شامي } *m.* name of a star which
شعري غميصا } appears in the north. ايک ستارہ هے جو بطرف شمال طلوع کرتا هے

شعرا يماني } *m.* name of a star which rises
شعرا عبور } in the south. نام ايک ستارہ کا جو بطرف جنوب طلوع کرتا هے

شعشعہ m. sunlight, wine, act of mixing water with wine. روشني آفتاب كي - شراب - پاني ملانا شراب ميں

شعلہ چراغ m. flame whirling round quickly in a torch lighted at both ends and whirled round so as to from a double circle of fire. شعلہ گهوڑا گرد بهت جلد پهرنے والا جيسے بنيٹي ميں دونوں طرف لكڑي ميں دو مشعليں روشن بندهي هوتي هيں

شعلہ زادہ m. Satan, the devil. - شيطان سے ابليس

شعور m. wisdom, intelligence, knowledge, good management. جاننا - دريافت كرنا

شعير n. barley. جو جو مشهور غلہ هے

شعيرہ m. a grain, a haft, a handle, gripe of a sword, a sacrifice in a pilgrimage to Mecca, everything bearing a mark. ايک دانہ - دستہ چهري كا - تلوار كا قبضہ - هر چيز كا دستہ - قرباني حج كي - هر چيز جس پر نشان هو

شغ m. hollow horn of an animal. حيوان كا سينگ جو كهوكهلا هو

شغاد m. name of Rustam's brother. رستم پهلوان كے بهائي كا نام

شغال m. jackal. گيدڑ مشهور جانور

شغب m. noise, tumult, quarrel. - شور - خروش - فتنہ - فساد

شغبہ m. skin. *met.* base, low, mean, enamoured. - بدن كي كهال مجازاً بمعني ذليل و خوار فريفتہ

شغف n. deep love, forming friend ship or love. محبت كي شدت

شغل m. occupation, employment, stopping. كام - بے فرصتي - روكنا

شفا *shifa*, f. recovery from sickness, convalescence, medicine, remedy, cure, name of a book compiled by Bu Ali Sina. صحت اور تندرستي بعد مرض كے - نام كتاب كا بو علي سنا سے

شفا *shafa*, f. end of one's life, end of all things. عمر كا آخر - هر چيز كا آخر

شفا جرف n. edge, border, bank, shore. كنارہ ندي اور جنگل كا

شفاعت f. deprecation, intercession, recommendation, entreaty. خواهش كرنا - سفارش كرنا

شفاف a. transparent, clear, very thin, opaque. وہ صاف شے جس كے آر پار نظر گذر سكے - مثل شيشہ بلور و پاني وغيرہ كے

شفاہ (*pl.* of شفت), lips. جمع شفت بمعني هونٹهہ كي

شفت m. the mouth, lip. لب - هونٹهہ

شفتالو m. a peach, the kiss of a mistress. مشهور ميوہ كا نام - بوسہ معشوق

شفتين m. both the lips. دونوں هونٹهہ

شفرہ m. a currier's knife with which they cut leather. موچيوں كي رانپي جس سے چمڑہ كو كاٹتے هيں

شفشاهنگ m. an instrument for drawing wire سناروں كي جنتري جس ميں تار كهينچتے هيں

شفع n. the number two, the day of a sacrifice, forming a pair, anxiety, wish. دو كا عدد - قرباني كا دن - جوڑا كرنا - كسي چيز كي خواهش كرنا

شفعہ m. any possession coveted, right of pre-emption in favour of a person whose possessions adjoin to a land offered for sale. زمين يا آسمان كي همسائيگي

شفعاء m. pleaders, advocates, mediators. بخشانے والے آدميوں كے گناہ كے - سفارش كرنيوالے

شفق f. evening, twilight, the horizon. In *Sikandarnama*, it comes for Roshnak's mother. سرخي جو صبح شام كو آسمان كے كناروں پر دكهائي ديتي هے - سكندر نامہ ميں مراد روشنک كي ماں سے هے

شفقت f. clemency, kindness, fear, compassion, mercy, affection, commiseration, sympathy. قرباني - ترس - خوف

شفن a. wise, intelligent. دانا - عقلمند

شفوت a. weak, infirm, thin, lean. دبلا هونا

شفون *shufun*, a. looking with a side glance, leering, ogling. آنكهہ كي كنكهيوں سے ديكهنا

شفون *sha/un*, m. an ogler. آدمي كنكهيوں سے ديكهنے والا

شفيع m. advocate, patron, possessing a right of pre-emption founded on contiguity. سفارش كرنے والا

شفيق a. merciful, compassionate, affectionate. مهربان

شق *shaqq*. m. trouble, labour, suspense, dawn of day, a fissure, crack, rent, a large division of a country, teething name of one of the Khaiber forts. سخت هونا كام كا كسي پر - كسي كو رنج ميں ڈالنا - شگاف - دراز نكلنا دانت كا - نام ايک قلعہ كا خيبر كے قلعوں سے

شق *shiqq*, a piece, the half, one side trouble, difficulty. (*met.*) a brother, a friend. كسي چيز كا ٹكڑا - هر چيز كا آدها - سختي - شدت - دوست - بهائي

شقا m. unfortunate, ill-fated. بدبخت هونا

شقاق *m.* enmity, opposition. - دشمني كرنا مخالفت كرنا

شقاقل *m.* a wild carrot. جنگلي گاجر

شقاوت *f.* hard heartedness, misery, disgrace, poverty, villainy. بد بختي - سنگدلي

شقائق (both *sing.* and *plu.*) *m.* a tulip. *met.* flowers. لاله كے پهول - مجازاً بمعني مطلق پهولوں كے بهي آتا هے

شقائق النعمان *m.* the anemone (king Na'man used to love this flower very much). ايک قسم كا لاله جو نهايت سرخ هوتا هے

شقدار *m.* on officer appointed, to collect the revenue from a certain division of land. حاكم ديهات كا - پرگنوں كا عامل

شقر *m.* a kind of tulip growing on the hills. لاله كوهي - پهاڑي لاله

شقل *m.* copulation, weighing dinars and dirams. جماع كرنا - تولنا دينار و درم كا

شقو *a.* becoming unfortunate. بد بخت هونا

شقوت *f.* ill-luck, misfortune بد بختي

شقه *m.* labour, toil. مشقت - محنت

شقي *a.* cruel, hard-hearted, wretched, miserable, villainous, vicious. بدبخت - سنگدل

شقيع *a.* vile, detestable, deformed, ugly, bad. زشت - برا - قبيح

شقيق the half of every thing, a brother. هر چيز كا آدها - بهائي

شقيقه *m.* the temples of the head, neuralgia. كنپٹي - آدهے سر كا درد

شک *m.* a mouse, a rat. موش - چوها

شكاست *a.* becoming bad tempered, passionate. بدخو هونا

شكال *n.* a rope used for fastening the feet of horses and camels, art, trick, deceit وه رسي جس سے گهوڑے اور اونٹ كے هاتهه پاؤں باندهيں - مكر - حيله

شكافتل *inf.* to split, to break, to rend. - چيرنا پهاڑنا

شكايت *f.* lamentation, complaint, accusation. گله كرنا - گله

شكر *m.* thanks, gratitude دينے والے كي تعريف كرنا

شكر *f* sugar. (*met.*) lips and kiss of a mistress, name of a beautiful woman whom king Khusru had wedded. مشهور متهائي هے مجازاً لب معشوق اور بوسه - ايک عورت خوبصورت كا نام جس كے ساتهه خسرو بادشاه نے نكاح كيا تها

شكر *shikr, a.* broken, preying. شكسته - شكار كرنے والا

شكر *m.* a hornet, a large bee or beetle. بهونرا - زنبور سياه

شكر *shakr. f. vulva coitus.* عورتوں كي شرمگاه

شكرانگيختل *id.* to cause to laugh, to tickle. كسي كو هنسانا

شكرپا *a.* lame. لنگڑا

شكر پاره *f.* a charming mistress, gracious, amiable. معشوق شيريں حركات

شكر پور *m.* a kind of sweetmeat, a kind of pastry filled with candy and blanched almonds. ايک قسم كي متهائي - سنبوسه جس ميں قند اور مغز بادام بهرا هو

شكر توي *f.* a kind of white country sugar. سفيد شكر

شكر خراب *f.* sweet sound sleep. خواب خوش

شكر خوردن *id.* to enjoy, to feel the taste. لذت پانا

شكر خند *a.* smiling sweetly, speaking gently with a smile of love. تبسم - مسكراهت

شكر خش *m.* a model, a sample. كسي چيز كا نمونه

شكردن *inf.* to break, to take prey. - توڑنا شكار كرنا

شكرريز *a.* scattering sugar, mellifluous, weeping through excessive joy, any thing sacrificed on the bride and bridegroom on the nuptial day. سخن شيريں - گريه شادي يعني وه رونا جو نهايت خوشي ميں آتا هے - وه چيز جو برات كي رات كو دلها اور دلهن پر سے نچهاور كرتے هيں

شكر رنگ *a.* displeased, angry, out of humour. ناخوش - بيزا

شكر لب *a.* sugar-lipped, a mistress, a man whose upper lip is cloven, melodious, possessing a sweet sound. معشوق - وه شخص جس كا اوپر كا هونٹهه چرا هوا هو - خوش آواز

شكر لنگ *m.* a man who is slightly lame. كسي قدر لنگڑا آدمي

شكره *m.* hawk, falcon. (*falco*). شكاري پرند مشهور هے

شكستل *inf.* to break, to be dispersed, to bear malice. توڑنا - دشمني كرنا - جدا هوجانا

شكس *m.* a miser, niggard. بخيل - كنجوس

شكسته رنگ *a.* withered, faded, yellow. مرجهايا هوا - زرد رنگ

شكسته ناخن *a.* infirm, powerless, weak. بے قوت

شكم بنده *m.* an epicure, a glutton. *a* greedy. بهت نهانے والا - لالچي

شگفت *m.* wonder, astonishment. - عجيب تعجب

شكم خا يدن *id.* to make an excuse, to epologise. بهانه كرنا - عذر كرنا

شکن *f.* shrinking, shrivelling, constringing, a curl, ply, fold, furrow, (in *comp.*) it denotes breaking, overthrowing, &c. هر چیز کا خم - معشوقوں کے زلفوں کے پینچ

شکم در خویش دزدیدن *id.* to fear, to be frightened. ڈرنا

شکنبه *m.* the stomach. حیوانوں کا معدہ

شکنج *f.* shrinking, shrivelling, fold. - پینچ شکن

شکنج *f.* a pinch, a close compression, as with the fingers. چٹکي

شکنجیدن *inf.* to nip, to pinch. چٹکي لینا

شکنجه *m.* the rack or torture, stocks (for the legs), a press. عذاب - ایک قسم سزا دینے کي - نام ایک آلہ کا جس سے مجرم کو عذاب پہونچایا جاتا ھے

شکنجه کردن *id* to torment, to torture, to oppress. رنج دینا - ستانا - تنگ کرنا

شکوی *m.* complaining, upbraiding. - گلہ کرنا شکایت - گلہ

شکوهیدن *inf.* to fear, to be frightened, to be proud, to boast, to talk ostentatiously. ڈرنا - خوف کرنا - عظمت اور بوائي کا اظہار کرنا - غرور کرنا

شکور *a.* very grateful, thankful, an epithet of God. بہت شکر کرنے والا - نام خدا کا

شکوک (*pl.* of شک). doubts, suspicious. جمع شک بمعني گمان کي

شکوک *shakuk,* *a.* suspicious, mistrustful. بڑا شک کرنے والا

شکولیدن *inf.* to disperse, to scatter. پراگندہ کرنا

شکوہ *f.* dignity, pomp, splendour, grandeur, magnificence. بزرگي - شان - شوکت

شکوہ *m.* fear, dread. خوف - ڈر

شکوفہ *m.* a flower, a bud, a vomit. - پھول کلي - قے

شکیب *n.* patience, endurance, comfort, rest. صبر - آرام

شکیبا *a.* patient, long-suffering. صبر کرنے والا

شکیبیدن *inf.* to bear, to have patience. صبر کرنا

شکیل *a.* well-shaped, beautiful, pretty, handsome. شکل دار - خوبصورت

شکیمہ *m.* the bit of a bridle, nature, disposition, temper. - گھوڑے کا دھانہ - طبیعت - سرشت - خصلت

شکیفتن *inf.* to be patient. صبر کرنا

شگال *m.* a jackal. گیدڑ - شغال

شگ *m.* a black hornet. زنبور - سیاہ بھونرا

شگرف *a.* rare, fine, good, beautiful, excellent, glorious, great, proper. - نیک - عجیب - زیبا - بزرگ - نادر

شگفت *m.* wonder, astonishment. تعجب - عجیب و غریب

شگفتن *inf.* to blossom, expand, (a flower). کلیوں کا کھِلنا

شگن *shugun,* *m.* augury, omen. شگون - فال

شل *shall,* driving, sewing, drying clothes, one who can take nothing in his hands (from sickness), paralytic, having the hand luxated. - کپڑے کا چلانا - ھانکنا - سینا - خشک کرنا - وہ شخص جس کے ھاتھہ اور پانوں حرکت نہ کرسکیں اور کام کرنے سے معذور ھیں

شل *shil,* *f.* a small spear. چھوٹي برچھي

شل *shul,* *n.* the name of a fruit (*Cratoeva* or *Æglemarmelos*) نام میوہ کا ھندي بیل

شلاق flagellation, a blow, a thump, *met.*) impudent, a fomenter of disturbances, etc. تھپڑ مارنا - مکے اور گھونسے مارنا - مجازاً شوخ اور فتنہ انگیز

شلائیں *a.* impudent, unhappy, strong, luxurious, (*met.*) a lover. - شوخ - ناخوش - مستحکم - آرام طلب - مجازاً بمعني عاشق

شلتاق *n.* a dispute with one upon false grounds, litigation, tumult. جنگ - فساد

شلتوک *n.* rice, paddy. دھان - شالي

شلخ origin, descent, a discharge, *sperma, viri, vulva.* - اصل - نسل - نطفہ - اندام نہاني - عورت کي شرمگاہ

شلف *f.* a prostitute. فاحشہ عورت

شلک *f.* a round, a discharge of fire arms. آواز بندوق کي جو یکبارگي سر ھو وے

شلنگ *f.* leaping, striding, bounding, frisking, jumping. ایک جگھہ سے دوسري جگھہ پر کود کے جانا - پھلانگ مارنا

شلم *m.* the holy city. بیت المقدس

شلوار *m.* trousers. ازار - پاجامہ

شلہ *m.* *vulva,* an idol, an idolater. عورت کي شرمگاہ - بت - بت پرست

شلہ *m.* the law of retaliation. قصاص - خون کے عوض میں قاتل کو قتل کرنا

شلیل *n.* kind of peach. ایک قسم کا شفتالو

شم *shamm,* smelling. سونگھنا

شم *sham,* *n.* hatred, unconsciousness, nail (of a finger), fraud, complaint, lamentation, tail, distress, perplexity - نفرت - بیہوشي - ناخن - فریب - پریشاني - فریاد - نوحہ - دم

شم *shum*, *a.* tatooing, pricking the skin and stain the punctured spot with colours. گدنا - نقطے صورت وغيرہ جو ہاتھہ پانوں پر نقش کرتے ہیں

شما (*pl.* of تو sec. *pers. pron.*) you. تم

شماتت *f.* rejoicing at the calamity or misfortune of another. کسي کي خرابي پر خوش ہونا

شماسياں *a.* fire-worshippers, sun-worshippers. آتش پرست لوگ - آفتاب پرست لوگ

شمال *shamal*, *m.* the north wind. قطب شمالي کي طرف سے جو ہوا چلتي ہے

شمال *shimal*, the left hand, habit, a small cloth bag put on a fruit to preserve it, north. باياں ہاتھہ - عادت - تھيلي جو درخت کے پھلوں پر براے حفاظت چڑھا ديتے ہيں - قطب شمالي کي طرف

شمامہ *m.* a perfumed pastille, a kind of wild melon. دستنبو اور يہہ ايک گلولہ ہوتا ہے جس کو عطر وغيرہ خوشبو دار چيزوں سے ترکيب ديکر گول بناتے ہيں اور ہاتھہ ميں رکھکر سونگھا کرتے ہيں - ايک قسم کا جنگلي خربوزہ

شمامچہ *n.* a fragrant thing for smelling. خوشبودار چيز جو سونگھي جاے

شمائل (*pl.* of شمال). excellences, virtues, talents, abilities, left hands, forms, faces, young shoots (of a tree). - خصلتيں - عادتيں - بائيں ہاتھہ - شکليں - صورتيں - درخت کي کوپليں

شمائم (*pl.* of شميمہ), scents. جمع شميمہ کي

شمبليت } *n.* name of a very beautiful
شمبليد } yellow flower, seeds of fenugreek. نام ايک پھول کا جو بہت خوشنما زرد رنگ ہوتا ہے - تخم جلبہ يعني ميتھي کے بيج

شمر *shamar*, *m.* a tank, a pond, cream. - تالاب - حوض - دودھ کي بالائي

شمر *shamr*, *a.* walking affectedly or coquettishly. اتّھلا کر چلنا

شمر *shimar*, *m.* the name of one of *Yazids* generals, who slew *Husain* in the plains of *karbala* and hence the word now signifies vile, infamous. نام قاتل امام حسين کا

شمس *m.* the sun. آفتاب - سورج

شمسہ *m.* a lattice, a skylight, a gilded orb. تابدان - موکہا جس سے روشني آوے - قرص سونے کا ملمع کيا ہوا

شمشاد *m.* the box-tree (Meninsk). (*met.*) applied to the form of a mistress. نام ايک درخت کا جو نہايت خوشنما اور بلند ہوتا ہے اس کي لکڑي بہت مضبوط ہوتي ہے - چونکہ يہہ درخت نہايت خوبصورت ہوتا ہے اس سبب سے معشوقوں کے قد کو اس سے تشبيہ ديتے ہيں

شمشير *f.* a scimitar, sword. تلوار

شمع *f.* a lamp, a candle, wax. موم - چراغ

شمعون Simeon, a disciple of Christ, a brother of Joseph. نام ايک شخص کا اصحاب عيسي سے - يوسف کے بھائي کا نام

شمل *a.* dispersed, scattered, confounded, gathering, separating, dispersing. - پراگندہ پريشاني - پرا گندہ ہونا - جمع ہونا - اکٹھا ہونا - الگ الگ ہونا

شمن *m.* an idol or image, idolatary, an idolater. بت - بت پرست

شموخ *a.* boasting, bragging, assuming authority. غرور کرنا - بلند ہونا

شموس *shumus*, (*pl.* of شمس), suns. جمع شمس بمعني آفتاب کي

شموس *shamus*, *a.* rebellious, bad tempered, a vicious horse, wine. سرکش - بدخو - گھوڑا سرکش - شراب

شموع *shumu*, *n* (*pl.* of شمع), lamp, wax. جمع شمع کي - موم - چراغ

شمول *n.* wine, wine cooled by the north wind. شراب - شراب جو شمالي ہوا سے سرد ہو گئي ہو

شمہ *shamma*, *m.* perfume, odour. (*met.*) an atom, a particle, a little. تھوڑي بو - ذرّہ - بمعني اندک اور کم کے مستعمل ہے

شمہ *shima*, *n.* cream. دودھ کي بالائي

شميدن *inf.* to run, to be unconscious, to be confounded or perplexed, to fear, to smell. بھاگنا - بيہوش ہونا - پريشان ہونا - ڈرنا - سونگھنا

شميدہ *a* perplexed, confounded, unconscious. پريشان - بيہوش

شمير *m.* a fast runner. تيز چلنے والا

شميم } *n.* odour, perfume وہ خوشبو جو سونگھي
شميمہ } جاوے

شنا *a.* swimming, a kind of exercise placing the hand on the ground, and then bending down so as to almost touch the earth with the breast. پاني ميں تيرنا - ايک قسم کي ورزش جسے ہندي ميں ڈنڈ کہتے ہيں

شنات (*pl.* of شاني) foes, enemies. جمع شاني کي - دشمن لوگ

شنار *m.* a swimmer, unlucky, unblest. تيرنے والا - منحوس - نامبارک

شنارت *f.* enmity, opposition. دشمني

شناعت *f.* evil, wickedness, taunt. - زشتي - بدي طعنہ - بد ہونا - برا ہونا

شنان *f.* enmity, opposition دشمني

شناوري *f* act of swimming. پاني ميں تيرنا

شناه (*v* شنا), swimming. تيرنا

شنائع *f.* evils. بديان - برائيان

شنجرف *m.* red lead, minium. زنجفر (عربي) اينگر (هندي)

شنشنه *n.* habit, nature, disposition, temper, (esp. bad habit, etc.) - عادت - طبيعت - خو - خصلت - استعمال اس كا بمعني خوے بد هے

شنعت *f.* evil, baseness, brutality, turpitude, crime. - بدي - برائي - زشتي

شنفتن *inf.* to hear, to listen. سننا

شنقار *m.* a falcon. نام ايک پرند شکاري کا

شنگ *m.* a thief, a robber, (*met.*) amorously playful, beautiful, elegant, handsome, witty. - چور - ڈاکو - راهزن - مجازاً بمعني طرحدار - شوخ - ظريف - دللگي باز - اطلاق اُس کا معشوق پر هوتا هے

شنگرف *m.* vermilion, red sulphide of mercury, cinnabar. ايک معدني چيز هے سرخ رنگ جس کو هندي ميں اينگر کہتے هيں

شنگرف سودن برلاجورد *id.* day break, dawn of day, appearance of the morning's red light on the sky. سرخي صبح کا آسمان پر نمودار هونا

شنگل *a.* saucy, impudent, cunning, artful, a thief, a robber, a highwayman. - شوخ - عيار - راهزن

شنو *n.* a kind of exercise, placing the hands on the ground, and then bending down so as almost to touch the earth with the breast. نام ورزش کا هندي ڈنڈ

شنوا *m.* hearing, hearer. سننے والا

شنوسه *f.* sneezing, sneeze. عطسه - چهينک

شنوع *f.* inconvenience, villiany, evil, dishonesty. قباحت - برائي

شنون *a.* fat, corpulent, lean, thin. - موٹا اور دبلا

شنيدن *inf.* to hear, listen, to smell. - سننا - سونگهنا

شنيع *a.* base, bad, abominable, shocking, adulterous. بد - زشت - برا

شوا *a.* roasted, fried, roasted meat. - بهنا هوا - بهنا هوا گوشت

شوات *n.* a Brahmini duck, bustard, a turkey. سرخاب - چرز - فيل مرغ

شوار *n* household goods, *vulva*, the anus, face, countenance, dress. گهر کا اسباب - عورت کي شرمگاه - مرد کے پاخانه کا مقام - صورت - لباس

شوارع (*pl.* of شارع) high roads, straight roads. برے راستے - سيدهي راهيں

شوارق *f.* lights, illuminations, illuminated things. روشنياں - روشن چيزيں

شواظ *m.* a flame (of fire). آگ کا شعله

شواغل *pl.* of شغل جمع شغل کي

شواکل *pl.* of شاکله جمع شاکله کي

شوال *m.* the tenth month of the *Muhammadan* year, on the first day of which the festival of *Bairam* or *'id* is celebrated, being the first day after the *Musalman* Lent, and on this day it is customary to make presents, etc. مسلمانوں کا دسواں مهينه

شواهد *pl.* of شاهد, a witness. جمع شاهد بمعني گواه کي

شوائب *f.* mixtures, contaminations, stains, foulnesses. آميزشيں - آلودگياں

شوب *m.* mixing, mixture, soup. ملانا - آميزش - شوربا

شوخ *a.* mischievous, playful, saucy, brisk, cheerful, sly, humorous, wanton, strong, insolent, presumptuous. - بيباک - دلير - جلد - چالاک

شوخ ترازو *m.* a traitor, deceiver, treacherous, one who weighs less. دغا باز - کم تولنے والا

شوخگن *n.* dirty (body or cloth). - ميلا بدن - ميلا کپڑا

شور *m.* cry, noise, outcry, fame, love, phrensy, madness, *a.* salt, very bitter. غل - آواز بلند - شهرت - عشق - جنون - نمکين - نمک

شور } *m.* counsel, consultation, advice.
شوری } مشوره کرنا

شوراندن *inf.* to baffle, to confound, to perplex, to scatter. پريشان کرنا

شورابه *m* salt water, brine, brackish. آب شور

شور بخت *a.* unfortunate, wretched, infamous. بدبخت

شور مور *n.* a kind of small ant. ايک قسم کي چهوٹي چونٹي

شوره *m.* nitre, saltpetre, nitrate of potassium, a kind of grass, a kind of tamarisk tree, marshy, barren ground. ايک چيز هے مشهور مثل نمک کے - نام ايک گهاس کا - زمين نمناک - کهاري زمين - ايک قسم جهاڑ کي

شوره بوم *f.* barren ground. زمين ناقص اور نمکين

شوريده *a.* disturbed, mad, distressed. (*met.*) desperately in love, a lover. - کڑوا مزه - پريشان حال - مجازاً بمعني ديوانه - مستانه - عاشق

شوريده راه *a.* depraved, abandoned, erring, wondering, on the wrong road. گمراه

شوشر *m.* a heap, mound, eminence, a bar of gold, silver, iron, etc. - هر چيز کا تودہ - پشته - چاندي سونے لوہے وغيره کي سلاخ

شوق *m.* desire, inclination, love, gaiety, cheerfulness, curiosity. آرزو منت کرنا - نسي چیز کي طرف دل کي خواهش - مشتاق هونا

شوق *a.* eager, desirous, *m.* lovers. مشتاق لوگ - عاشق لوگ

شوکت *m.* a thorn, a thistle, power, strength, swiftness, severity, dread, fright, awe. کانٹا - قوت - تیزي - شدت - هیبت

شوم *a.* black, unfortunate, unlucky, unhappy, disgraceful, vile, miser, niggard بدفالي - منحوس

شوهره *m.* a garland, a wreath (worn on the head by a bridegroom and bride at the marriage ceremony). پهولوں کا سهر جو دولها اور دولهن کے سر پر باندهتے هیں

شوے *m* a husband. شوهر

شه *m.* a king, a check (at chess), (in *comp.*) great, large, excelling, etc. شاه - بڑا

شهاب *shahab, m.* a famous red colour, a puppy. نام ایک مشهور سرخ رنگ کا - کتے کا پلا

شهاب *shihab, m.* bright stars, falling stars, twinkling, shining, flame. - آگ کا بلند شعله روشن ستاره - وه چیز جو مانند ستاروں کے بشکل انار آتشبازي کے چهوٹتي هوئي آسمان پر دوڑتي هے

شهادت *f.* evidence, testimony, true witness, martyrdom, bearing witness as to the unity of God and mission of *Muhammad.* خبر درست - گواهي دینا - سچي گواهي - قتل هونا خدا کي راه میں بیگناه - شهید هونا - گواهي دینا خدا کي وحدانیت اور محمد کي رسالت پر

شهادت مشرب *m.* a martyr. مراد شهید سے

شهامت *f.* greatness, ability, power, generosity, activity, gladness, bravery, valour. بزرگي - توانائي - چستي - شاد ماني - دلیري

شهب *n.* bright stars, the last three nights of every month. ستارے روشن - هر مهینه کي آخیر تین راتیں

شهبره *f.* an old woman. بوڑهي عورت

شهدا (*pl.* of شهید), martyrs. جمع شهید کي

شهر *m.* a lunar month. چاند کا مهینه

شهر بند *m* a fort, a gaol, a prisoner, a cell, closet, chamber, illuminations, a man who is not permitted to leave a country without a ruler's permission. - قلعه - قید خانه قیدي - حجره - شهر کي آرائش - وه شخص جو حاکم کے حکم سے شهر کے باهر نه جانے پاوے

شهرت *f.* renown, fame, drawing a sword, divulging, celebrating. ظاهر کرنا - تلوار کهینچنا

شهر تاش *m.* a townsman, one of the same city, a neighbour. - ایک شهر کا باشنده - هم شهر همسایه

شهر خدا *m.* the seventh month of the *Muhammadan* year, it is also called *rajab-e-murajjab*, or the sacred رجب (from رجبا to fear, to reverence), because in the time of paganism it was unlawful to go to war in that month. رجب کا مهینه - ساتواں مهینه قمري مسلمانوں کا

شهر نبي *m.* Medina. مدینه

شهرگ *f.* the great vein in the arm. ایک بازو کي نبض

شهررا *shah-rawa,* (*lit.*) "king's currency," depreciated money, made of leather. ایک قسم کا کهوٹا روپیه جو ایک بادشاه ظالم نے زبردستي اپنے ملک میں رائج کیا تها

شهره *m.* a garland, a wreath (worn on the head by a bridegroom and bride at the marriage ceremony). پهولوں کا سهره جو دولها دولهن کے سر پر باندهتے هیں

شهر یار *m.* wise and just king, a prince. بادشاه بزرگ و عادل

شهقه *n.* shouting. نعره مارنا

شهلا *a.* having dark grey eyes, with a shade of red, a narcissus (resembling a human eye). سیاه آنکهه جس میں سرخي کے ڈورے بهي هوں - ایک قسم نرگس کي مشابه انسان کي آنکهه کے

شهله *f.* an old woman. بوڑهي عورت

شهناز *f.* a bride, name of Jamshed's sister whom *Zuhak* had married, a mode in music. دولهن - نام جمشید کي بهن کا جس کو ضحاک نکاح میں لایا تها - نام ایک راگ موسیقي میں

شهنائي *f.* a clarion, a hautboy. نام ایک مشهور باجه کا - اس کو سرنا بهي کهتے هیں

شهنشاه *m.* a great king, an emperor. بادشاه اعظم الشان - بادشا هونکا بادشاه

شه نیمروز *n.* king of *Nimroz, i. e.,* Rustam, the champion wrestler and Adam (because one thousand years of this world are equal to one day of that world and as Adam had stayed for 500 years in paradise, according to this world's calculation which are equal to half a day of that world, hence he is called. شه نیمروز or the king of half-a-day. کنایه رستم پهلوان اور آدم سے

شهوار *a.* worthy of a king, regal, the most precious kind of pearl. چیز عمده لایق بادشاه کے

شهوت *f.* concupiscence, lust, desire, appetite. آرزو - شوق - خواهش دل - بهوک - خواهش جماع کي

شهوت پرست *a.* addicted to lasciviousness, adulterous. بد كار - زنا كار

شهود (*pl.* of شاهد), evidences, testimonies. *adj.* manifested, presenting. جمع شاهد بمعني گواه كے - حاضر هونا

شهور (*pl.* of شهر), months. جمع شهر بمعني مهينه كي

شهي *f.* royalty, *a.* royal, kingly, every thing sweet, a kind of sweetmeat made of flour, *ghi* and sugar, anything desirable, relationship of son-in-law. - بادشاهي دامادي - هر چيز جو ميٹهي هو - حلوا - مرغوب شے

شهيد *a.* killed, (sub) witness, a martry, an epithet of God, Omniscient گواه - وه شخص جو راه خدا ميں بيگناه قتل هوا هو - وه شخص جسكے علم سے كوئي چيز پوشيده نهو - نام حق تعالي كا

شهيدي *n.* a kind of water-melon which is red inside. وه تربوز جو اندر سے سرخ هو

شهير *a.* famous, renowned. مشهور

شياد *shiyad*, *m.* an impostor, a cheat. - مكار فريب دينے والا

شيار *m.* the week day, Saturday. - هفته كا دن سنيچر

شيات *f.* compounded medicines for an eye-disease. چند دوائيں مرض چشم كے لئے

شيات نبض *f.* a medicine (white lead), an unfailing remedy for an eye-disease. خاص دوا آنكهه كي

شيب *m.* old age, having white hair - بڑهاپا سفيد بال هونا

شيب *m.* declivity, descent, *adv.* under, below. ي ے مجهول سے مخفف هے نشيب بمعني پستي كا

شب و تيب *a.* afflicted, astonished, perplexed confounded, inebriated. سرگشته - مدهوش

شيبان *n.* name of a pious man, name of a tribe. نام ايک ولي كا - نام ايک قبيله كا

شيبت *n.* old age. بڑهاپا

شيبيدن *inf.* to tremble, to knead (flour). (*met.*) to fall in love, to be enamoured. كانپنا - آٹا گوندهنا - مجازاً فريفته اور عاشق هونا

شيپور *n.* a kettle-drum, نام ايک باجے كا جو لڑائي كے وقت بجاتے هيں - اسكو نفيري اور نائے رومي بهي كهتے هيں

شيث *m.* the prophet Enoch, a son of Adam. نام آدم كے بيٹے كا اور پهلا پيغمبر تهے

شيخ *m.* a venerable old man; a chief, a prelate, a title taken by the descendants of the prophet, and given to those who become proselvtes to *Muhammadanism.* خواجه نهايت بوڑها - بزرگ

شيخ الرئيس *n.* an epithet of Bu Ali Sina. لقب بو علي سينا كا

شيخوخت *f.* old age. بڑهاپا

شيخ نجدي *n.* an epithet of Satan. لقب شيطان كا

شيد *n.* deceit, hypocrisy, imprisonment. مكر - فريب - قيد

شيد *m.* the sun, the sunlight, *a.* clear, shining. آفتاب - آفتاب كي روشني - صاف

شيد *m.* plastering. ديوار كا ليپنا خواه كهگل خواه چونے سے

شيدا *a.* mad, deeply in love. مدهوش - ديوانه

شيدمان *m.* a wolf. گرگ - بهيڑيا

شير *shir*, *m.* milk. دوده

شيراز *m.* a city in the south of Persia, celebrated as the birth place of the poets *Sa'di* and *Hafiz.* نام ايک شهر كا ايران ميں

شيران پولاد خاے *m.* the wrestlers, strong men. پهلوان لوگ

شير بها *n.* wedding gifts carried in procession from a bridegroom to a bride. وه چڑهاوا جو دولها كے طرف سے دولهن كو جاتا هے - بري (هندي)

شير خدا (*lit.*) "Lion of God" a title of Murtaza Ali. اسدالله - لقب هے حضرت مرتضی علي كا

شير خشت *f.* a species of manna نام دواے مسهل كا جو سفيد مثل گوند كے نرم هوتي هے

شير خانه *m.* a grog shop, a distillery. شرابخانه

شير شاد روان *n.* the picture of a lion painted on a carpet or a curtain. تصوير شير كي جو فرش اور پردا وغيره پر كهينچتے هيں

شيرک شدن *id.* to be brave, to be bold, to overcome. دلير هونا - غالب هونا

شيرگرداں *m.* the sun, the sign or constellation Leo آفتاب - برج اسد

شير ماهي *f.* a very big fish out of the tooth of which handles are made. ايک بهت بڑي مچهلي جس كے دانت كے دستے بنتے هيں

شير مرغ *n.* a curio, a rarity. چيز عجيب اور كمياب اور نادر

شير واشكر *m.* a kind of silk cloth. ايک قسم كا نفيس ريشمي كپڑا

شيروان *m.* name of a city. نام ايک شهر كا

شيرويه *a.* brave valiant, bold. *n.* name of Khusru Parwez's son. شجاع - مرد دلير نام خسرو پرويز كے بيٹے كا

شير هشن *id.* to regret, to feel sorry, to kick at a served dish full of milk, *i. e.*, wilfully rejecting a gift.- حسرت اور افسوس كرنا - موجوده نعمت كا چهوڑ دينا

شیریں *a.* sweet, pleasant, gentle, affable. *f.* beauty, splendour, name of Farhad's mistress. میٹھا - عزیز - مرغوب - نام فرہاد کي معشوقہ کا

شیز *n.* ebony wood. آبنوس کي لکڑي

شیشاک *m.* a kid one year old, a lamb. بکري کا بچہ جو ایک برس کا ہو

شیشہ بندي *f.* whistling. سیٹّي بجانا

شیشہ باز *a.* deceitful, treacherous, a sect of jugglers. مکار - دغاباز - ایک فرقہ بازیگروں کا

شیشہ بر سر بازار شکستن *id.* to divulge a secret. کنایہ ھے بہید کے ظاھر کردینے سے

شیشہ جان *a.* delicate-minded, of a delicate temper. نازک دل - نازک مزاج

شیشہ دل *a.* coward, timid, pusillanimous. نامرد - ڈرپوک

شیشہ ساعت *n.* a watch-glass بالو کي گھڑي

شیطان *m.* the devil, Satan, God's enemy, a demon, a serpent. *a.* rebellious, disobedient. خدا کا دشمن - دیو - سانپ - سرکش - نافرمان

شیطاني شدن to pollute oneself while sleeping, nocturnal pollution. خواب میں محتلم ھونا

شیعہ (both *sing.* and *plu.*) *m.* a follower of the sect of *'Ali*, a sectary. *a.* obedient, helping. مطیع - تابعدار - مدد کرنے والے - وہ لوگ جو مذھب امامیہ رکھتے ھیں

شیعي *a.* of or belonging to the sect of, 'Ali, a Shiite. منسوب طرف شیعہ کے

شیفتہ *a.* distracted, mad, enamoured. عاشق - مدھوش

شیلان *m.* a table cloth, a round piece of cloth spread on the ground. (*met.*) food, dinner, the Jujube tree and fruit. کھانے کا دستر خان - مجازاً طعام - عناب جو ایک مشھور میوہ ھے

شیلانچي *m.* a cook, superintendent of a kitchen. باورچي خانہ کا داروغہ

شیم (*pl.* of شیمہ), *f.* habits, natures, tempers. عادتیں - خصلتیں

شیم *f.* a ground which is never tilled. وہ زمین جو کبھي جوتي نہ گئي ھو

شیمہ *n.* habit, nature, temper, disposition. طبیعت - خصلت - عادت

شیم *shim*, *f.* a kind of scaled fish. ایک قسم کي مچھلي چھلکوں والي

شین *f.* disgrace, shame, villainy, defect, vice, evil. زشتي - برائي - عیب

شیوا *a.* fluent, eloquent. فصیح - بلیغ

شیوا زبان *a.* fluent, eloquent. فصیح - بلیغ

شیوہ *m.* business, trade, profession, art, manner, custom, habit, amorous, look. ناز - کرشمہ - طرز - روش - طریقہ - ھنر

شیوع appearing, coming to light, getting a currency. ظاھر ھونا - رواج پانا

شیون *shewan*, grief, lamentation, complaint نوحہ - ماتم - نالہ - فریاد - زونا

شیون *shoun*, (*pl.* of شان and شین), جمع شان اور شین کي

شیہ *m.* the neighing of a horse. آواز گھوڑے کي - صہیل (عربي)

— ص —

ص called *sad-i-mahmala* or *sad-i-gair mauqut*, the seventeenth letter of the Persian and the fourteenth letter of the Arabic alphabets, Strictly speaking, this letter is purely Arabian or Semitic, but in a few Persian words it has, in modern times, been substituted for the original *sin*. It is used as an abbreviation for *safar*, the name of the second month of the Arabain Calendar. In reckoning by ابجد its value is 90.

صبر *a.* patient, enduring, an epithet of Job, the patriarch. صبر کرنے والا - لقب ایوب کا

صابي *m.* an apostate, one who renounces his religion. ایک دین سے دوسرے دین کے طرف پھرنے والا

صاحب *m.* a lord, master, friend, a minister, *a.* possessed of, endowed with, etc. - مالک یا وزیر - خداوند

صاحب الزمان *m.* a title of Imam Muhammad Mehdi. لقب امام محمد مہدي کا

صاحب جوزا *m.* the planet Mercury. ستارۂ عطارد اسلئے کہ جوزا خانہ عطارد ھے

صاحب خبر *m.* an ambassador. کنایہ ایلچي سے

صاحب فراش *m* an invalid confined to his bed. کنایہ جو مریض چل پھر نہ سکے

صاحبقران *m.* an invincible hero, a great emperor. *lit.* lord of the auspicious conjunction, *i. e.*, one who was born under a peculiarly favourable aspect of the planets, as was the case with Timur or Taimur (vulgarly called Tamerlane), who is accordingly called. صاحبقران by his biographers. وہ شخص جس کے نطفہ کے قرار پاتے وقت زحل اورمشتري یا زھرہ اور مشتري کو قران ھو یعني یہہ دونوں ستارے ایک ھي برج میں ھوں اور یہہ بات سالہاے دراز کے بعد ھوتي ھے - ایسا مولود ضرور بادشاہ ھوتا ھے اور اسکي بادشاھي دیر تک رھتي ھے امیر تیمور کا بھي لقب صاحبقران ھے

صاحبہ *f.* a lady, mistress, wife, a hand-maid, a fellow companion. - سہیلی - عورت جورو - ہم صحبت

صاحبی *f.* a kind of grape so called, a kind of striped silk cloth. - ایک قسم انگور کی نام ایک قسم کے دھاری دار ریشمی کپڑے کا

صاحوی *a.* clever. *m.* a fair day, a cloudless day. ہوشیار - بغیر ابر کا دن

صادر *a.* produced, derived, happened, arrived, passed, issued. ایک جگہہ سے نکلنے والے

صادق *a.* true, just, sincere, applicable. سچا - درست آجانا معنی کا کسی شے پر

صارخ *m* a screamer, one who shrieks or cries. چیخ نے والا - چلانے والا

صارم *n.* a keen edged sword. *m.* a brave man, hero. تیز تلوار - مرد دلیر اور بہادر

صاع *n.* a weight equivalent to 234 tolas. ایک وزن ہے جو دو سو چونتیس (۲۳۴) تولہ کا ہوتا ہے

صاع ستار *m.* a mendicant receiving alms on *Id-ul-fitr* day. زکوۃ - فطرہ لینے والا

صاعقہ *n.* lightning, thunderbolt, death, a fatal calamity. - بجلی جو ابر سے زمین پر گرے موت - عذاب - ہلاک کرنے والا

صاف *f.* clearness, purity, sincerity, candour, a filter, or cloth through which drinks, medicines, etc., are strained. صاف - بے کھوٹ - وہ کپڑا جس میں دوا یا شراب وغیرہ چھانیں

صاقور *n.* an axe, a hatchet. تبر - کلہاڑی

صالب *m.* a burning fever without shivering. تپ گرم بغیر لرزہ کے

صالح *a.* good, apt, proper, fit. *m.* a man of probity and honour, a sedate steady man, name of a patriarch. نیک جو گنہگار نہو - نام ایک پیغمبر کا

صالحہ *f.* (of صالح), virtuous, chaste, virtue, virtuous deeds, name of a mountain in Damascus on which is the grave of *Shaikh Mohi-ud-din ibn-ul Arbi.* - نیک عورت نیکی - اعمال نیک - نام ایک پہاڑ کا دمشق میں جس پر شیخ محی الدین ابن العربی کی قبر ہے

صالغ *m.* a bull or a goat six years old. بیل اور بکری چھہ برس کی

صامت *a.* silent, inanimate, irrational. *n.* gold, silver. خاموش - چپکا - سونا - چاندی

صانع *sanē*, *m.* creator, framer, artificer, کاریگر - بنانے والا

صائب *a.* right, straight, hitting the mark, title of a poet *Muhammad Ali.* رسا - پہونچنے والا - درست - تخلص ایک شاعر کا جن کا محمد علی نام تہا

صائغ *m.* a goldsmith. زر گر - سنار

صائل *m.* an invader, one who attacks. حملہ کرنے والا

صائم *n.* one who keeps a fast. روزہ دار - روزہ رکہنے والا

صائم الدھر *sa'imu-d-dahr*, *m.* one who fasts always. وہ شخص جو ہمیشہ روزہ رکھے

صبا *f.* a gentle breeze, an easterly breeze, a morning breeze, a mode in music. وہ ہوا جو مشرق سے چلتی ہو یعنی پروا ہوا - اور کبھی مراد صبح کی ہوا سے

صبا *siba*, *m.* childhood, boyhood. - لڑکپن کودکی

صباء inclination, desire, wish, playing with children, love making, amorous play. خواہش کرنا دل کا کسی چیز کی طرف - لڑکوں کے ساتھہ کہیلنا - عاشقی

صباء *f.* the morning, dawn of day, beautiful, excellent. صبح کا تڑکا - خوب - خوبصورت

صباح *sabbah*, *a.* beautiful, handsome, of a white (fair) complexion, very beautiful, the flame of a lamp. صاحب حسن - گوری رنگت والا - بہت خوبصورت - شعلہ قندیل کا

صباح الخیر (morning salutation), good day, good morning to you. وہ ایک کلمہ ہے جو آپس میں صبح کو کہتے ہیں

صباحت *f.* beauty, gracefulness. خوبصورتی گوری رنگت کے ساتھہ

صبار *a.* very patient, enduring. بڑا صبر کرنیوالا

صباغ *m.* a dyer, one whose business is to dye. رنگریز - رنگنے والا

صباغ الارض *m.* the sun. مراد آفتاب سے اسلئے کہ تمام جمادات اور نباتات اور حیوانات کو رنگ اسی آفتاب کے اثر سے پہونچتا ہے

صباغ فلک *m.* the moon. کنایہ چاند سے

صبب *f.* descent, declivity, slope, falling in love with someone. - پست زمین - نشیب زمین کسی پر عاشق ہونا

صبح صادق / صبح آخیرین / صبح دوم / صبح راستین } *f.* dawn of day.

صبر *sabir*, *n.* a species of aloes. ایلوا - ایک تلخ گوند مشہور ہے

صبغ *a.* dying, colouring. رنگنا

صبغ *m.* dye, paint, colour. رنگ

صبغۃ اللہ *m.* the Moslem faith. کنایہ دین محمدی سے

صبوح *n.* wine which is drunk in the morning. وہ شراب جو صبح کو پی جاتی

صبوح *subuh*, *n.* the dawn of day. وقت صبح

صبوحي *n.* a morning draught, a wine bottle, drinking wine in the morning. صبح کي شراب - وقت صبح شراب پينا

صبور *a.* patient, mild, enduring. وہ شخص جو صبر کرے

صبوري *f.* patience, forbearance. - تحمل کرنا کام ميں جلدي نہ کرنا - صبر کرنا

صبي *m.* weanling, a child newly weaned. وہ لڑکا جس کا دودھ چھٹ گيا ہو - يعني دودھ نہ پيتا ہو

صبي *n.* childhood, boyhood طفلي - کودکي - لڑکپن

صبيان (*pl.* of صبي), boys, youths. جمع صبي کي - لڑکے

صبيح *a.* beautiful, of a fine complexion. خوبصورت - سفيد رنگ يعني گوري رنگت والا

صبيہ *f.* a damsel, a girl, a child, a daughter. لڑکي - دختر

صحاب (*pl.* of صاحب), companions. جمع صاحب کي يار لوگ

صحابت *f* society, companionship. - يار هونا صحبت ميں رهنا

صحابہ *m.* associates, companions. - هم صحبت يار لوگ

صحاح *n.* health, recovering from an illness, a dictionary. *a.* perfect, right, healthy. تندرستي - عيب سے پاک هونا - مرض سے صحت پانا - تندرست - صحيح - نام کتاب لغت کا

صحاح (*pl.* of صحيح), healthy people. جمع صحيح کي تندرست لوگ

صحاري (*pl.* of صحرا), deserts. جمع صحرا بمعني جنگل کي

صحاف *sihaf*, *n.* large cups or glasses. بڑے بڑے پيالے اور کاسے

صحاف *sahhaf*, *m.* a bookbinder, a bookseller, a librarian. - کتاب کي جلد بنانے والا کتاب بيچنے والا

صحائف (*pl.* of صحيفہ), books, pages, leaves. جمع صحيفہ کي - کتابيں

صحب (*pl.* of صاحب), companions, friends, associates. اسم جمع صاحب بمعني يار کي

صحرا *m.* a desert, a plain. ميدان - ريگستان

صحراے جان *n.* a purgatory. عالم ارواح

صحف (*pl.* of صحيفہ), book, etc. جمع صحيفہ کي - کتابيں

صحن *m* a tray, a large dish or plate, a courtyard, an area, a level plot. - بڑا طباق بڑا طشت - گهر کا آنگن - هموار زمين

صحن پالودہ *n.* *vulva.* کنواري عورت کي شرمگاہ

صحنک *f.* plate, a small dish. چهوٹا طباق اور رکابي

صحيح *a.* accurate, just, pure, perfect, entire, sound, certain. تندرست - عيب سے پاک

صحيفہ *m.* a book, a leaf, a page, a letter. کتاب - رسالہ

صخاب *m.* a complainant, a plaintiff, one who sues justice. فرياد کرنيوالا

صخب *n.* complaint, lamentation, cry for help. فرياد اور زاري کرنا

صخر *m.* a big stone. بڑا پتهر

صخريہ *m.* a stony country. سنگستان

صد *n.* ten times ten, a hundred, the number 100. سو - ايک سو جو عدد مشهور هے

صدا *f.* sound, tone, echo, voice, noise. آواز گونج - وہ آواز جو گنبد اور کنويں اور پهاڑ وغيرہ سے واپس آتا هے

صدارت *f.* a high seat or office, the office of prime minister or of chief justice, beginning, commencement, access, entrance. بالانشيني - نام ايک منصب کا جو قريب وزارت کے هوتا هے - پيش رسائي - شروع - اگلادا کرنا

صداع *m.* headache, vertigo, megrim. درد سر

صداق *m.* a marriage settlement made by the husband on the wife. عورت کي مهر

صداقت *f.* friendship, sincerity. دوستي - سچاپن

صدپا *m.* a centipede. کنکهجورا

صد برگ *m.* (*lit.* a hundred leaves), a kind of flower (*Rosa glandulifera*, *Roxb*), marigold. گيندا مشهور درخت کا پهول هے

صدر *f.* the breast, exaltation, pre-eminence, chief, supreme, government, beginning commencement. - سينہ - اول هر چيز کا - اوپر ابتدا - بالانشين - امير

صدغ / صدغہ } *n.* the temple of the head. - شقيقہ کنپٹي

صدغين *f.* both the temples of the head. دونوں کنپٹياں

صدف *f.* a shell, a pearl, mother of pearl, a small wine-glass, name of the three stars round the axis. - سيپي - شراب کا چهوٹا پيالہ - نام تين ستاروں کا جو قطب کے گرد هيں

صدق *m.* truth, veracity, sincerity, praise, a good name. سچائي - سچ - تعريف - نام نيک

صدق *m.* a lance which is straight and hard, an upright man. *a.* righteous, perfect (thing). نيزہ سيدها اور سخت - مرد راست اور کامل - هر چيز کامل

صدق *sudq*, *pl.* *a.* truthful, veracious. سچ بولنے والے

صدقة *m.* alms, propitiatory offerings, voluntary alms in contradistinction to those enjoined by law. خدا کے نام پر جو فقیروںکو دیں

صدقة جارية *m.* a well, canal, a bridge, a mosque. نہر - کنواں - پل - مسجد وغيرة

صدمة *m.* a blow, a stroke of fortune, adversity, collision, an adventure. دو چیزوں کا آپس میں رگڑنا اور ضرر پہونچانا

صدور (*pl.* of صدر), breasts, ministers, etc. جمع صدر کي - سينے - امير لوگ وغيرة

صدوق *a.* true, faithful, a sincere friend. بہت بڑا سچ بولنے والا

صديد *f.* pus, matter of a sore, the soft yellowish substance formed in suppuration, water becoming thick by boiling long. پیپ جو زخم سے نکلتي ھے - کھولتا ھوا پاني جو بہت جوش دينے سے گاڑھا ھوجائے

صديق *siddiq*, *a* truthful, a faithful witness of the truth, an epithet, applied to the first Caliph. بڑا سچا - کسي کي بات کو بڑا سچ جاننے والا - لقب اول خليفه کا

صراح *m.* extract, substance, name of a dictionary, ink, liqour in which no water has been mixed. خلاصة هر چیز کا - خالص - نام ایک کتاب لغت کا - روشنائي - وہ شراب جس ميں پاني نہ ملا ھو

صراحت *f.* manifestation, appearance, publication, being pure or genuine, palpableness, pureness. آشکارا ھونا - ظھور

صراخ *sarrakh*, *m.* a peacock مور - طاؤس

صراط *f.* a road, a straight road, a bridge called in Arabic al-Sirat, which the *Muhammadans* say is laid over the midst of hell, and described to be finer than a hair and sharper than the edge of a sword. Some will pass over this bridge with the speed of lightning, some like a horse that runs, some, their backs laden with their sins, will go over slowly, others will fall and certainly enter the fire. راہ راست - سيدھا رستہ - نام ایک پل کا جو دوزخ پر ھوگا بال سے زيادہ باریک اور تلوار کي دھار سے زيادہ تيز

صرام *f.* adversity, calamity, hardship, war, battle. سختي - بلا - جنگ

صرام *sarram*, a currier. چرم گر - چمڑا بنانے والا

صرامت *f.* valour, cleverness, cutting, curtailing, greatness, superiority. دلاوري - چالاکي - کاٹنا - قطع کرنا - بزرگي

صرح *m.* a palace, castle, mansion, a lofty building, publication. محل - قصر - عمارت - عالي - اور بمعني ظاھر کرنا

صرح *n.* every thing pure. ھر چيز خالص

صرخة *m.* scream, shriek, cry, complaint, torment, torture. چيخ - فرياد - عذاب

صرد *surd*, *m.* a butcher bird (*Lanius*). ایک پرند بڑے سر کا جو چڑیا کو شکار کرتا ھے - فارسي کاک - ھندي لٹورا

صرصر *f.* a cold boisterous wind, a stormy wind. باد تند - آندھي

صرع *f.* the epilepsy, the falling sickness. نام مرض کا جو زمين پر گرا ديتا ھے ھندي - مرگي

صرف *sirf.* pure, unmixed, pure wine. ھرشے خالص - شراب خالص

صرف *a.* changed or expended, *m.* expenditure, a crucible, melting pot, the orthographical and etymological parts of grammar, trick, art, accident, shock, mishap, vicissitudes of fortune, changing, converting, turning, increase, gain. روپيہ اور اشرفي کا پرکھنا - خرچ کرنا - بوتقہ - سونا چاندي گلانے کي کھريا - حيلہ - حادثہ - زمانہ کي گردش - کسي چيز کا اوندھا کرنا - نام علم مشھور کا

صرفة *f.* expense, profusion, profit surplus, redundancy, addition, art, trick, the twelfth mansion of the moon, a star in the tail of Leo. خرچ کرنا - فائدہ - افزوني - نفع - حيلہ - مکر

صرفي *m.* an etymologist, a grammarian. علم صرف جانيوالا

صرم *f.* smallness, shortness. کوتاھي

صروف *n.* occurrences, happenings, accidents, shocks, revolutions. حادثے - زمانہ کي گردشيں

صرة *surra*, *m.* a purse (filled with gold or silver). تھيلي - ھميان

صرة *sirra*, *m.* winter, sound, voie, noise, complaint. جاڑا - آواز - فرياد - غل - شور

صريح *a.* apparent, palpable, evident. ظاھر - آشکارا

صريخ *m.* a complainant, one who sues for justice, a hoarse voice. فرياد کرنے والا - داد خواہ اور بمعني آواز سخت کے بھي

صرير *n.* grating, scratching sound of a pen, or of a door or rusty hinges, sound of a boot or shoe in walking, sound produced by the locust. آواز قلم کي جو لکھتے وقت نکلتي ھے - دروازہ کي آواز بند کرتے وقت - جوتي کي آواز چلتے وقت - ٹڈي کا شور و غل

صرير *f.* grating sound of a door or of a water-pulley, pure silver, fresh milk. دروازه اور گراري كي آواز - خالص چاندي - دودهه تازه

صعاب (*pl.* of صعب), hardships, difficulties, etc. جمع صعب كي دشواريان

صعب *a.* hard, difficult, arduous, rough, troublesome, disagreeable, disobedient, stubborn, perverse. *m.* a lion. - سخ دشوار - سر كش - شير درنده

صعرو (both *sing.* and *pl.*) the onager or wild ass. - مفرد اور جمع دونون - ايک گورخر بهت سے گورخر

صعق *a.* becoming unconscious, dying, a thunderbolt, becoming unconscious by a thunderbolt. بيهوش هونا - مرجانا - بجلي كا گرنا - بجلي كا كسي كو بيهوش كر دينا

صعقه *m.* unconsciousness, stupefaction, بيهوشي - بيهوش هونا

صعلوک *m.* a fakeer, a drawesh, a mendicant, a recluse. فقير - درويش

صعوبت *f.* difficulty, trouble. سختي - دشواري

صعود *su'ud*, *m.* ascent, surmounting. اوپر چڑهنا - بلندي پر چڑهنا

صعوه a wagtail (*Motacilla*). *m.* a kind of sparrow with a red head, a sort of water-fowl. معمولا پرند مشهور هے

صعيد *f.* dust, face of the earth. خاک - روے زمين - مٿي

صغار (*pl.* of صغير), small, base, low. جمع صغير كي چهوٿے - خرد - كوچک - خوار لوگ

صغارت *f.* smallness, minuteness. - چهوٿائي خردي

صغر *f.* smallness, minuteness. - خردي - چهوٿائي چهوٿا پن

صغير سن *z.* of a tender age, childhood, infancy. خرد سالي - لڑكپن

صغرى *f.* a small woman, every thing small (in the fem. gender). چهوٿي عورت هر چيز مونث جو چهوٿي هو

صغير *a.* slender, inferior, junior. خرد - چهوٿا

صفا *f.* purity, cleanness, true friendship, name of a hill in Mecca. *a.* pure, perfect. صفائي - پاكي - دوستي خالص - نام ايک پهاڑكي كا مكة معظمة ميں - پاكيزگي

صفات (*pl.* of صفت), good qualities. جمع هے صفت كي

صفاد *f.* iron fastenings to the legs of criminals. بيڑي اور زنجير وغيره جس سے قيدي باندهيں

صفاهان *n.* Ispahan in Persia, famous for its collyrium, a species of melody peculiar to Ispahan. نام شهر كا (اصفهان) جهان كا سرمه مشهور هے - نام ايک راگن كا موسيقي ميں

صفائح (*pl.* of صفيحه), broad planks or sheets, stones, broad pieces of every thing. جمع صفيحه كي - تختے چوڑے - پتهر - هر چيز كے چوڑے ٿكڑے

صفت *f.* praise, quality, attribute, manner, description, a noun adjective, like, resembling. - كسي كے حال كا بيان كرنا - گن - تعريف علامت - نشان كسي شے كا

صفح forgiveness, pardon, remission. معاف كرنا - كسي كے گناه كا

صفر *m.* a cipher, *a.* empty, hollow. چهوٿا دائره اس شكل كا (٥) تهي - خالي - كهوكهلا

صفر *suf*, *m.* brass, bell-metal. - زردي - روئين كانسي

صفر *safar*, *m.* the second month of the *Muhamadan* year. On the 20th day of this month is held the festival of *Sar-o-tan*, in commemoration of the junction of the head and body of *Husain*. The 28th and the last days of this month are reckoned unfortunate, the former on account of *Hasan's* being poisoned by his wife, the latter, because destructive vegetables are supposed to be produced on that day. نام دوسرے مهينة قمري كا

صفرا *m.* bile, yellow, a bow. - صفرا - پته - هر شے زرد رنگ - كمان

صفراوي *a.* bilious. منسوب طرف صفرا كے

صفرت *sufrat*, *f.* yellowness. زردي

صفرت *safrat*, *f.* hunger, *a.* hungry. - بهوكهه بهوكها

صفصاف *n.* a willow tree. بيد كا درخت

صفع *a.* giving a blow on the neck. گردن پر گهونسا مارنا

صفوة *n.* extract, substance. *a.* clear, elected, chosen. خلاصه - صاف برگزيده

صفوريه Zipporah, the daughter of Jethro and wife of Moses. بيٿي شعيب كي جو موسى كے نكاح ميں آئي تهيں

صفوف (*pl.* of صف), ranks, files, lines. جمع صف كي قطاريں

صفي *a.* elected, choseness, righteous. *m.* a true friend, every thing pure and clean, a she camel giving plenty of milk, an epithet of Adam. - بر گزيده - دوست خالص - هر چيز صاف اور خالص - وه اونٿني جو بهت دودهه دے - لقب آدم كا

صفيه *f.* a righteous or elected woman, name of a wife of *Muhammad.* عورت برگزيده - نام ايک زوجۂ محمد کا

صفيحه *n.* a broad sword, everything broad. چوڑي تلوار - هر چيز چوڑي

صفير *f.* sound, whistling, a hissing noise, blowing, singing (as a bird). آواز پرند جانوروں کي - سيٹي بجانا - آواز جو پرندوں کے بلانے کو کرتے هيں

صفيق *m.* a hard leather, thick cloth. سخت چمڑا - سنگين کپڑا

صقار *saqqar, m.* an eavesdropper, a tell-tale, a backbiter, a sycophant, an infidel, a wine merchant. - لتړا - سخن چين کافر - شراب بيچنے والا

صقالت *f.* polishing, burnishing. صقيل کرنا

صقال *saqqal, m.* a burnisher, a polisher. صقيل کرنے والا

صقر *m.* a kind of hawk, a vulture, a falcon, sour milk, sour wine, splitting wood with an axe, breaking stones with an iron instrument, heat of summer. چرغ جو پرند شکاري هے - هر پرند جو شکار کرے مثل باز - شاهين وغيره کے - کهٹا دودهه - کهٹي شراب - کلهاڑي سے لکڑي چيرنا - دهوپ کا تيز هونا

صقيع *f.* dew. اوس - شبنم

صقيل *a.* bright, shining. روشن - چمکتا هوا

صکاک deeds, bonds, writings, messages. قبالے - نامے

صکاک *sukak, f.* wind, atmosphere, air. هوا

صکوک (*pl.* of صک), messages, deeds, etc. جمع صک بمعني قبالہ کي

صکيک *a.* infirm, weak, impotent. ضعيف - ناتواں

صل *sall, a.* filtering wine. صاف کرنا شراب کا

صلا *n.* voice, invitation, information, annunciation. دعوت عام کرنا - واسطے کهانا کهلانے يا کچهه ديئے کے آواز دينا

صلا *a.* broiled, roasted grilled. برياں - بهنا هوا

صلابت *f.* firmness, hardness, severity, majesty, awe, dignity. سختي - سخت هونا

صلات *silat,* (*pl.* of صله), gifts, presents, awards. جمع صله بمعني انعام کي

صلات *f.* prayer, especially one of the five stated prayers enjoined on good Musalmans in the course of the twenty-four hours, the first chapter of the *Quran.* دعا خاصکر جو پانچ دعائيں جو مسلمانوں پر فرض هيں

صلاح *f.* peace, concord, treaty, rectitude, integrity, advice, counsel. *a.* advisable. آپس ميں صلح کرليدا - دوستي

صلاحيت *f.* virtue, chastity, integrity. - نيکي نيک هونا

صلاصل (*pl.* of صلصل), doves, large cups. جمع صلصل بمعني فاختہ کي - بڑے پيالے

صلايه *m.* a slab of stone on which spices etc. are ground, a round stone to grind the spices. سل و بٹا دونوں کو کهتے هيں

صلب *f.* crucifixion. سولي پر چڑهانا

صلب *m.* a whetstone. سخت پاؤں رکهنيکا پتهر

صلبي *a.* descending from, begotten by. پشت کا - نسل کا

صلت *f.* broad forehead, publication, manifestation, charity, benevolence. کشاده پيشاني - آشکارا - ظاهر - سخاوت

صلح کل *f.* perfect reconciliation, treaty, truce, concord. هر مذهب کے آدمي سے دشمني نه رکهنا - دوستي دشمن سب کے ساتهه محبت سے پيش آنا

صلحا (*pl.* of صالح), the pious, the just, men of wisdom or counsel. جمع صالح کي نيک آدمي

صلحه *m.* friendship. دوستي

صلد *f.* hard and clean thing. سخت اور صاف

صلدم *m.* lion, everything hard and stiff. شير درنده - هر چيز سخت اور کڑي

صلصل *n.* a dove, hair on the forhead of a horse. فاختہ مشهور پرند - گهوڑے کے پيشاني کے بال

صلصله *m.* sound of a bell chain or iron. زنجير اور گهنٹه اور لوهے کي آواز

صلف *a.* eating a tasteless meal, clouds which thunder much but rain very little, a braggart, a boaster, false praise. بے مزا کهانا - وه ابر جس ميں گرج يعني گڑگڑاهت زياده اور مينه کم هو - گپ مارنے والا - جهوٹي تعريف کرنے والا

صلم *a.* clipping the whole ear. جڑ سے کان کات لينا

صلواة *f.* prayer, benediction, compassion or mercy of God. نماز - درود - دعا - آميزش - رحمت

صلوات (*pl.* of صلواة), prayers, benedictions. جمع صلوات کي

صلوح *f* destructive, calamity, adversity, hardship. سختي اور بلا - هلاک کرنے والي

صله رحم *a.* loving and treating one's relatives nicely. محبت رکهني اور سلوک کرنا اپنے عزيزوں اور رشته داروں سے

صله *m* conjunction, connection a present, gift, award. بخشش - عطا - انعام - ملانا - پيوند - خوشي

صليب *a.* hard, three-cornered. *m* a crucifix, a cross. سخت - کڑا - سولي

صم (*pl.* of اصم) *a.* deaf. کم سننا - بهرا هونا

صم *summ*, *m.* the deaf, a number of hard stones. بهرے لوگ - بهت سے سخت پتهر

صم *simm*, *m.* the valiant, the brave, a lion. مرد دلير - شير درندہ

صما *samma*, *f.* a deaf woman, a hard stone, misfortune, calamity. بهري عورت - سخت پتهر - سختي زمانہ کي

صمات *f.* silence, quietness. - خاموش رهنا - چپ رهنا

صماخ *m.* the hole in the ear. کان کا سوراخ

صماد *m.* a solid thing. ٹهوس چيز

صمام *m.* a stopper, a cork. - شيشہ کي ڈاٹ - بوتل کا کاگ

صمت *f.* silence. خاموشي

صمد *m.* a lord, the master of a family, the Most High, perpetual, eternal, a man who is neither hungry nor thirsty. - بزرگ - بے نياز - بلند - دائم - وہ شخص جو بهوکها اور پياسا نهو

صمديت *f.* greatness, lordship, act of being free from vices. بزرگي - بے نيازي - انساني عادتوں سے پاک هونا

صمصام *n.* a naked sword, a sharp sword. شمشير براں - تيز تلوار

صمصم *m.* a miser, niggard. مرد بخيل

صمغ *n.* gum. گوند - ژو

صمم *m.* deafness. بهرا پن

صمم (*pl.* of صمہ), the brave, the valiant tigers, lions, a male serpent. جمع صمہ کي - دلير لوگ - بهت سے شير درندے - نر سانپ

صموت *a.* silent, quiet. خاموش اور چپ رهنا

صم و بکم (*pl.* of اصم and ابکم), the deaf and dumb. بهرے اور گونگے لوگ

صمہ *simma*, *m.* a lion, a valiant man, a male serpent. شير - مرد دلير - نر سانپ

صميم *a.* pure, unmixed, sincere, extract, substance, gravity, centre, middle, deaf, marrow of a bone, severity of weather, a righteous man. خلوص - خالص - هر چيز کا خلاصہ - هر چيز کا درميان - بهرا آدمي - هڈي کا گودہ - گرمي اور سردي کي شدت - مرد خالص

صميل *a.* dry. خشک

صناديد (*pl.* of صنديد) princes, chiefs, etc جمع صنديد کي - بزرگ لوگ

صناديق (*pl.* of صندوق): boxes, trunks. جمع صندوق

صناع *a.* industrious, dexterous, very skilful. بڑا کاريگر

صناع *m.* (*pl.* of صانع), artificers, workmen. جمع صانع بمعني کاريگر کي

صناعت *f.* art, trade, profession. - کاريگري - پيشہ - هنر

صنان *f.* stinking smell of an armpit. بدبو بغل کي

صنائع *f.* arts, contrivances, workmanships. جمع صنعت کي کاريگرياں

صنج *m.* a kind of guitar, cymbals. چنگ ايک باجہ مشهور هے - جهانجهہ

صندلي *f.* a kind of chair, a small throne. چهوٹا تخت - چوکي

صنديد *a.* exalted, great, brave, valiant. *m.* a gentleman, rain with big drops. - بزرگ - بهادر - شريف - جوانمرد - مينهہ بڑي بڑي بوندوں والا

صنع *n.* workmanship, creation, work, action, kindness, favour. - کاريگري - کام بنانا - پيدا کرنا - کسي پر نيکي کرنا

صنعت *f.* profession, trade, art, workmanship. پيشہ - هنر - کاريگري

صنف *f.* species, kind, sort. ايک قسم اقسام هر نوع سے جيسے نوع انسان کي صنفيں يعني قسميں چيني اور ترکي اور حبشي وغيرہ هيں

صنق *f.* stinking smell of an armpit. بدبوے بغل کي شدت

صنق *f.* a stinking smell, offensive smell, a rotten thing. بڑي بدبو - سڑي هوئي چيز

صنم *m.* an idol. (*met.*) a mistress, sweetheart, a bad smell. - بت - مجازاً بمعني معشوق - بدبو

صنم *m.* a man whose body emits a stinking smell. مرد گندہ بو

صنوان *n.* many date trees growing from one root, two rivers springing from one spring, brothers by one parents. خرمے کے کئي درخت جو ايک جڑ سے نکلے هوں - دو ندياں جو ايک چشمہ سے نکلي هوں - بهائي جو ايک ماں باپ سے هوں

صنوبر *m.* fir, pine, any cone bearing tree. درخت چلغوزہ جس کو هندي ميں چير کهتے هيں - درخت سرو کو بهي صنوبر کهتے هيں

صنوف (*pl.* of صنف), جمع صنف کي

صنيع *f.* sharp flashing sword, creation, created beings. تلوار تيز اور چمکتي هوئي - مخلوق

صنيعہ *m.* goodness, beauty, virtue, art. - هنر - نکوئي

صواب *m.* (hitting the mark) rectitude, a virtuous action, a happy issue, success. راست - درست - بر خلاف خطا کے - راستي - درستي

صوابديد *f.* counsel, plan, contrivance. *a.* right, proper. صلاح - تجويز - درست

صوارف (*pl.* of صارفه), occurrences, cycles, revolutions. جمع صارفه كي - حادثے - زمانه كي گردشيں

صوارين *f.* sharp and cutting swords. - تلواريں تيز اور كاٹنے والیں

صواع *m.* a large wine glass, a measure. بڑا پياله شراب پينے كا - نام ايک پيمانه كا

صواعق (*pl.* of صاعقه), lightnings, etc. جمع صاعقه كي بجلياں

صواغ *a.* casting, moulding. قالب ميں كسي چيز كا ڈھالنا

صواغ *m.* a moulder, a goldsmith, (*met*) one who teaches a false thing. - ڈھالنے والا ڈھليا - سنار - اصطلاحاً - جھوٹھه بات بتانے والا

صوامع (*pl.* of صومعه), temples, monasteries. بتخانے - عبادت خانے

صوب *m.* side, track, way, a right way. - طرف جانب - راستي - سيدها چلنا

صوبه *m.* a province. بادشاهت كا ايک حصه

صوبه دار *m.* the chief (or lieutenant) of a province, a military officer, among Indian troops, whose rank corresponds to that of a captain. حاكم صوبه كا

صوت *f.* sound, voice, clamour, noise, calling for help, shout, shriek of distress. آواز - آواز كرنا

صور *f.* a blowing horn, a trumpet, a clarion, the blowing horn of Israfil which he would blow on the day of judgment جانور كي سينگ جس كو بجاتے هيں - وه صور جسے اسرافيل محشر كے روز پھونكينگے

صور *suwar*, (*pl.* of صورت) figures, forms. جمع صورت كي - صورتيں

صورت بازي *f.* assuming various characters and disguises, mimicry. اپني صورت كو دوسرے كي وضع اور شكل پر بنانا - بهروپ (هندي)

صورت نشا *n.* an artist, a painter. مصور - نقاش

صورت گري *f.* the art or profession of painting or statuary. - صورت بنانا - مصوري - نقاشي تصوير بنانا

صوري *f.* externally, apparently. - ظاهري منصوب طرف صورت كے

صوف *m.* wool, and applied to silk, thread and cotton, a kind of coarse cloth made from the sheep's wool. پشم - اون - ايک قسم كا موٹا كپڑا بھيڑي كے بالوں كا

صوفي *a.* wise, pious, intelligent, *m.* a *sūfi*, or one of a peculiar sect of Musalman devotees (so called), who are said to be free-thinkers or pantheists on matters of religion : outwardly they confirm to the vulgar creed, but are looked upon with great suspicion by the more orthodox - پشم پوش بالوں كا كپڑا پهننے والا - صوفي وه شخص جو اپنے دل ميں خدا كے سوا كسي كا خيال نه آنے دے اور اپني خاطر كو آلائش دنيا سے پاک صاف ركھے

صولت *saulat*, *f.* violence, fury, impetuosity, dignity, rank, fear. دبدبه - رعب - هيبت

صولجان *m* a crooked stick or club like a hockey stick. چوگان - ڈنڈا جس كا سر كچھ يعني خم هو

صوم (both *sing.* and *pl.*) *m.* fasting a fast, one who fasts, those who keep fast. - روزه ايک روزه دار - بهت سے روزه دار (جمع اور مفرد دونوں)

صوم العذرا } صوم مريم } *m.* a fast in which a man keeps silent for the whole day *lit.* Miriam's fast. روزه مريم يعني رات كو نيت كرنا اور دن بھر كسي سے بات نكرنا

صومعه *m.* Christian church, a monastery, a cloister, a cell, a hermitage, (*met.*) a mosque. نصاري كا عبادت خانه

صوں *n.* protection, safety, vigilance. نگهباني - حفاظت

صهال *m.* a horse who neighs much. بهت آواز كرنے والا گھوڑا

صهال *m.* *suhal*, neigh, voice of a horse. گھوڑے كي آواز

صهب *m.* a roan colour, bay (colour of a horse). سرخي - يا رنگ تيره مائل به سرخي جيسے رنگ كميت گھوڑے كا

صهبا *m.* a kind of wine extracted from the white grapes, name of a town in Khaiber. سفيد انگور كي شراب - نام ايک موضع كا خيبر ميں

صهر *m.* a father-in-law, a son-in-law, a near relative, a brother-in-law (*pl.* is اصهار) سسرا - داماد - عزيز قريب چاهے شوهر كا هو چاهے زوجه كا بهنوئي - جمع اصهار كي

صهور *a.* corpulent, fleshy, fat, stout. - جسيم تناور - موٹا

صهيل *f.* the neigh of a horse. گھوڑے كي آواز

صياح *n.* cry, lamentation, clamour. - آواز بلند نوحه - فغاں

صياد *m.* a hunter, a fowler. شكاري شكار كرنيوالا

صياغ *m.* a moulder, a goldsmith. ڈھالنے والا - سنار

صياغت *f.* the business of a goldsmith. سناري

صیام (*pl.* of صوم), fasts. جمع صوم بمعني روزہ کے

صیانت *f.* defence, guarding, keeping, preserving, support. بچانا - حفاظت - نگهباني

صیب *m.* a raining cloud. ابر برسنے والا

صیت *f.* fame, renown, celebrity, challenge, welfare. آوازہ - شہرت - ذکر خیر

صید *f.* game, prey, animal pursued, fished for, etc. preying. وہ جانور جس کا شکار کریں - شکار کرنا

صیرف } صیرفي } *m.* a banker or money-changer, an examiner of coins, jewels and precious stones, an intruder, title of a penman, title of a poet. صراف جو روپیہ اور اشرفي کو پرکھتا هے - کاموں میں داخل و تصرف کرنے والا - لقب ایک خوشنویس کا - لقب ایک شاعر کا

صیرورت *f.* shifting, moving from one place to another, wandering. ایک جگہہ سے دوسري جگہہ کو جانا - چلنا - پهرنا

صیغہ *m.* a mould (for casting metal), a word declinable and derivative, the mood of a verb, conjugation, derivation, trade, profession, a form of words used in marriage ceremonies and other occasions, such as the adoption of children, etc. creation, way mode, marriage. دهات کے قالب میں ڈهالنا - خلقت - طریقہ - اصل بنا هوا لفظ اصطلاح خاص میں بمعني نکاح کے بهي آتا هے

صیف *n.* summer, especially May and June. گرمي کا موسم - گرما

صیقل *m.* a burnisher, a polisher, scouring, polishing, clearing, furbishing, the polishing instrument. تلوار آئینہ وغیرہ کا چمکانے والا یعني روشن اور صاف کرنے والا - تلوار کا صاف کرنے والا - صاف کرنے کا اوزار - صیقل کرنا - زنگ دور کرنا - صاف کرنا

صیقلي (*pl.* is صیاقلہ), a burnisher, furbisher, polisher, the polishing instrument, a whetstone. صیقل کرنے والا - صاف کرنے والا - اوزار صاف کرنے کا - پتهر بارهہ رکهنے کا

صین *sin.* (for چین), the empire of China. معرب چین شهر مشهور کا

صیود *m.* a hunter, a fowlar. شکاري شکار کرنے والا

— ض —

ض *zad*, called *zadi mu'jama* or *zad-i-manquta*, is the eighteenth letter of the Persian and the fifteenth of the Arabic alphabet, this letter is purely Arabic, and is said to have a mixed sound of *th*, and *w*, only to be acquired from natives of Arabia Proper, but in Persia and India its sound is the same as that of *ze*, in reckoning by ابجد it stands for 800.

ضاب *m.* name of a tree which is a bitter as a colocynth or *Euphorbia neriifolia*, *Roxb.* ایک درخت جو مثل تهوهڑ اور اندرائن کے کڑوا هے

ضابط *m.* a manager, a governor, ruler, master, possessor. انتظام کرنے والا

ضابطہ *m.* canon, ordinance, law, regulation, a list, a catalogue. قاعدہ - دستور

ضاجر *a.* sorry, sad, restless, uneasy. بے آرام - غمگین مضطرب - بیقرار

ضاحک *m.* a satirist, mocker, laughing, name of a poet. هنسنے والا - هنستا هوا

ضار *a.* harmful, injurious, hurtful. - مضر ضرر پهونچانیوالا

ضارب *a.* beating, bruising, striking, stamping, coining, the dark night. - مارنے والا اندهیري رات

ضاري *m.* chasing a game, pursuing, chaser (as a dog), etc., شکار کے پیچهے دوڑنے والا

ضاغوط *a.* feeling suffocation (in sleep.) ایک حالت جس وہیں آدمي سوتے میں معلوم هوتا هے کہ کوئي اس کا گلا گهونٹے دیتا هے

ضال *m.* a prevaricator, straying. گمراہ - راہ بهٹکا هوا

ضالہ *n.* a lost thing. وہ چیز جو کهو گئي هو

ضالین *n.* erring people, going astray from the right road. گمراہ لوگ

ضامن *m.* a surety, a sponsor, security, bail. خاطر جمع کرنے والا - کفیل - وہ شخص جو کسي کا طرفدار هو

ضائع *a.* lost, destroyed, perished, fruitless, abortive. - کهویا هوا - بیفائدہ - برباد هوا - کهویا گیا

ضب *zabb, m.* a propoise (*Delphinus*), anger, rage, malice, envy, spite, sleeping on the ground, a disease in which the lips bleed, inflammation, swelling. سوسمار ایک جانور هے - غصہ - کینہ - زمین پر سونا - هونٹهہ کي ایک بیماري جس میں هونٹهہ سے خون جاري هو جاتا هے - ورم

ضباب (*pl.* of ضب). جمع ضب کي

ضباح *n.* howl of a fox. لومڑي کي آواز

ضبط *m.* government, direction, discipline, confiscation of property, regulation, check, control, watching. نگاہ رکھنا هر شے کا اس کي حد پر - انتظام

ضبع *m.* a hyena, an animal between the wolf and dog, the Indian badger, a wolf. کفتار - بجو - هنڈار

ضبع *zaba, m.* arm, armpit. بازو - بغل

ضبور *m.* lion, tiger. شیر درندہ

ضجه *m.* noise, tumult, clamour, shriek. غل - شور - چیخ

ضجر *a.* melancholy, gloomy, sad, a narrow place. غمگین - تنگ جگهه

ضجر *n.* restlessness, grief, sorrow, uneasiness, agitation, flutter. دلتنگي - بے آرامي - رنج - غم - بیقراري - دل کا تڑپنا

ضجرت *f.* grief, sorrow, uneasiness. تنگدلي - غم سے بے آرامي

ضجع *m.* sideways, sleeping on the side. کروٹ سے سونا

ضجوع *m.* a large iron bucket, a woman who is not of the same opinion as her husband, unwise. بڑا ڈول - وہ عورت جو مخالف شوهر کے هو - ضعیف عقل

ضجز *a.* melancholy, peevish, fretful. تنگدل - مضطرب - غمگین

ضجیج *f.* making a noise, shouting, shrieking. غل کرنا - چیخنا

ضجیع *f.* sharing the same bed, a bed-fellow, a spouse. همخوابه - هم بستر

ضحی *m.* breakfast time, that part of day about half way between sunrise and meridian (*i. e.* the brightest part of the day). پهر دن چڑهے کا وقت

ضحاء *m.* whatever eaten between sunrise and meridian, breakfast, collation. چاشت کا کهانا

ضحاک *zahhak, m.* a great joker, a great laugher, a bright clear way, name of a Persian king famed for his cruelty and oppression. بڑا هنسنے والا - راہ روشن اور آشکارا - نام ایک بادشاہ ظالم کا

ضحک *m.* laughing loudly and indecently, laughing heartily. آواز سے هنسنا - قهقهه

ضحک *m.* monthly discharge of a woman, flash, squealing of a monkey. عورت کا حائض هونا - ابر سے بجلي کا چمکنا - بندر کا چیخنا

ضحکه *m.* a droll, jester, a buffoon, a fool, a laughing-stock. وہ لوگ جس پر هنسیں - مسخرہ

ضحکه *m.* laughing only once. ایک مرتبه هنسنا

ضحل *m.* a tittle water. تهوڑا پاني

ضحو / ضحوہ *m.* that part of the day about half way between sunrise and meridian, brightest part of the day, breakfast, caliation. پهر دن چڑهے کا وقت - روشن - کهانا چاشت کا

ضحوک *m.* a great joker, a bright and broad way, an easy way. بهت بڑا هنسنے والا - راہ روشن اور آشکارا اور کشادہ

ضحوکه *m.* a droll, a laughing-stock, a thing accasioning laughter. وہ چیز جو لوگوں کو هنساوے - وہ شخص جس پر لوگ هنسیں

ضخام *a.* bulky, great, heavy bodied, every thing great. بڑے ڈیل ڈول کا - بزرگ جثه - هر چیز جو بزرگ اور بڑي هو

ضخامت *f.* being great, thick, and bulky, corpulence, fatness. - جسامت - موٹا هونا - فربهي - موٹاپا

ضخیم *a.* fat, corpulent, great, thick or bulky thing, bulky figured. موٹا - موٹي چیز - بزرگ جثه

ضد *f.* contrary, opposite, difference. (*pl.* اضداد). برخلاف - برعکس

ضدید *f.* unfavourable wind. باد مخالف - هوا ناموافق

ضر *zarr m.* loss, damage, injury, distress, hardship, weakness, infirmity. گزند - سختي - بد حالي - لاغري - دبلا پا - زیان - نقصان

ضر *zirr, f.* bigamy. پهلي زوجه کي موجودگي میں دوسري عورت کرنا

ضرار *m.* hardship, distress, loss, damage. سختي - گزند - ضرر

ضراب *zarrab, m.* coiner, a mintmaster. روپیه اشرفي پر سکه لگانے والا

ضرارت *f.* causing injury, harming, giving trouble, becoming blind. گزند اور ایذا پهونچانا - صدمه دینا - اندها هونا

ضراط *zurat,* fart, emission of wind downwords, flatulence. پاد - یعني وہ ریاح جو پیٹ سے آواز کے ساتهه نکلے

ضراط *zarrat, m.* a man having a propensity for breaking wind backwards, a farting fellow. پادنے والا - پدوڑا

ضراعت *f.* humility, submission, apology. زاري - عاجزي - فروتني

ضرام *n.* splinters, small pieces of wood. فروزینه - چهپٹیاں لکڑي کي

ضرب *f.* a blow, violence, multiplication in arithmetic, mode (of speech), form, species, striking, stamping, coining money, struck, running, like, resembling, swimming, sending one to sleep, last word of a poem. مارنا - بیان کرنا - ملانا ایک چیز کا دوسري چیز میں - دوڑکر چلنا - مثل - مانند - ہر چیز کي قسم - ظاہر کرنا - پانی میں تیرنا - کسي کو سلادینا - لفظ آخر شعر کا

ضرب *zarab*, white and thick honey. شہد سفید اور گاڑھا

ضرب الفتح *m.* triumph, a joy for victory. خوشي کا شادیانہ جو بعد فتح کے نوبت اور نقارہ بجاتے ہیں

ضرب المثل *f.* a proverb. کہاوت

ضربہ *m.* a blow, one single blow, hurt caused by a blow. a dice. جو مارنے سے چوٹ پہونچے - پانسہ

ضرح *m.* grave digging. قبر کھودنا مردے کے لیئے

ضرر *m.* injury, damage, detriment, loss, ruin, affliction, anguish. تکلیف - دکھہ

ضرس *m.* a jaw-tooth or grinder. دندان بزرگ - دندان آسیا - ہندي ڈاڑھہ

ضرط *m.* farting, passing wind from the stomach downwards. پادنا

ضرع *n* the udders of a cow, a she-goat, etc. گاے اور بکري وغیرہ کے تھن

ضرع *zarā'*, *m* apology, humility, submission; young of a horse scarcely able to run, a small thing. *a.* weak, lazy, of a tender age, losing favour. زاري - فروتني - عاجزي - سست - ناتواں - گھوڑے کا بچہ جو ابھي دوڑ نہ سکتا ہو - چھوٹي چیز - خرد سال - کم سن - خوار ہونا

ضرع *a.* worthless, old, infirm, unlucky, wicked, a dupe. خوار - زبون - ضعیف

ضرغام *m.* a ravenous tiger, a lion. شیر درندہ

ضروب *f.* species, kinds, sorts, varieties. انواع و اقسام

ضرہ *f.* a rival (wife), contemporary wife (one wife is سوت to another), breast, distress, adversity, trouble, hurt, harm, a millstone. وہ عورت جو پہلي عورت پر لائي جاوے پس ہر عورت دوسري عورت کي ضرہ یعني سوت اور سوکن ہوئي - چھاتي - سختي - ایذ - چکي کا ایک پاٹ

ضریبہ *m.* habit, nature disposition, a sword, sharpness of a sword one who has got a cut with a sword [illegible]

ضریس *a.* very hungry. بہت بھوکہا

ضریم *f.* a grave, sepulchre, tomb, (*pl.* ضرائم) قبر - جمع ضرائم ہے

ضریر *a.* blind, ill, weak, infirm. - نابینا - اندھا - بیمار - دبلا

ضریع *f.* name of a poisonous thorny grass, name of a thing which the inmates of hell will be forced to eat. It is said to be hotter than fire, more bitter then aloes and more stinking than a rotten carcass. نام ایک زہریلي گھاس کانٹوں دار کا - نام ایک چیز کا دوزخ میں جو آگ سے زیادہ تیز ہوگي اور ایلوے سے زیادہ کڑوي اور مرے ہوئے مردار سے زیادہ گندي اور بدبودار یہ اہل دوزخ کو کھلائي جائیگي

ضریک *m.* a fakeer, mendicant, poor, blind, crippled, fool, a simpleton, a vulture. (*pl.* ضرکا) فقیر - بدحال - محتاج - نابینا - اندھا - اپاہج - بیوقوف - کرگس نر - گدھہ - (ہندي)

ضریم *a.* burnt. سوختہ - جلا ہوا

ضعاف (*pl.* of ضعیف). جمع ضعیف کي

ضعط *m.* strangulation, compression of the windpipe, throtling. گلا گھونٹنا

ضعف *adv.* twice, doubly. در چندان - دوگنا

ضعف *m.* infirmity, weakness, imbecility of mind or body. سستي - ناتواني - کمزوري

ضعف *m.* unconsciousness, insensibility. بیہوشي - نقصان عقل

ضعفا (*pl.* of ضعیف), weak persons. جمع ضعیف کي

ضعیف *a.* weak, infirm, impotent, emaciated, feeble, frail, old. ناتوان - ناطاقت - بوڑھا

ضغائن (*pl.* of ضغینہ), malice, spite. جمع ضغینہ بمعني کینہ کي

ضغث *f.* a broom. (*pl.* اضغاث). جھاڑو

ضغط *a.* squeezing, compressing, rubbing, grinding. نچوڑنا - بھینچنا - دیوار وغیرہ پر زور سے رگڑنا

ضغطہ *m.* compressing but once. ایک مرتبہ بھینچنا

ضغن *m.* malice, spite, envy. کینہ

ضغینہ *m.* malice. کینہ

ضفادع (*pl.* of ضفدع), frogs. جمع ضفدع بمعني مینڈک کي

ضفائر (*pl.* of ضفیرہ). جمع ضفیرہ کي

ضفدع *m.* a frog, toad, a swelling in the throat. مینڈک - نام ایک ورم کا حلق کا

ضفہ *ziffa*, *m.* bank, shore. ندي اور دریا کا کنارہ

ضفیر *f.* plaited hair. گندھے ہوے سر کے بال

ضفیرہ *m.* the hair done up in a knot behind. گندھے ہوے بالونکا جوڑا جو عورتیں سر پر باندھتي ہیں

ضل } m. an error, fault, vice, ruin, perdi-
ضلال } tion. گمراهي - بد - برا

ضلالت } f. depravity, error, deviation. گمراهي
ضلت }

ضلع f. a rib, the præcordia, a side bone, a part, a division, a district. پسلي - پهلو كي هڈي - سلطنت كي شاخ

ضلوع (pl. of ضلع). جمع ضلع كي

ضايل a. depraved, erring, straying. - گمراه راه بهولا هوا

ضلول } a. greatly depraved, erring much.
ضليل } بهت بڑا گمراه

ضم zamm, m. contraction, conjunction, incorporation, the mark or primitive vowel pesh, or short u. ملنا - ملانا ايک چيز کا دوسري چيز ميں - نام ايک حرکت کا جس کو پيش کهتے هيں

ضماد f. a plaster, ointment, embrocation, a bandage or fillet for binding the head or a wound. ليپ - دوا کسي قدر پتلي جسي هوئي

ضمان m. accepting, the being security or surety for another. - قبول کرنا - کفالت کرنا کفيل هونا - ضامن هونا

ضمد m. anointing, plastering, putting ointment. زخم پر مرهم لگانا - ليپ کرنا

ضمر a. delicate of body, delicately formed in every limb. لطيف بدن - نازک اندام

ضمر zumr, } n. weakness, thinness, lean-
ضمر zumur, } ness, emaciation. لاغري - دبلا پا

ضمن m. the cover of a letter, the contents, anything comprehended, contained, or inserted, subject, an idea, conception, obligation, aid, favour. اندرون - اندر

ضمور n. infirmity, weakness, leanness. - ضعيف لاغري - دبلاپا

ضمور a. weak, lean, infirm, old. - لاغر - دبلا ضعيف

ضمه zamma, m. the short vowel u, the whiskers. پيش کي حرکت جيسے دودهه کي پهلي دال پر هے

ضمير f. the mind, heart, thought, reflection, sense, conception, idea, comprehension, secret, the personal pronoun. - انديشه خاطر - دل کا اندر - وه چيز جو دل ميں رهے پوشيدگي - بهيد - اسم غير ظاهر

ضميران n sweet basil. سپر غم - ريحان - نازبو

ضميم a. mixed, included, joined. شامل کيا گيا - ملاهوا

ضميمه m. an addition, augmentation. وه شے جو کسي اور شے پر زيادہ کر کے لگاديويں

ضمين m. a sponsor, a surety. کفيل - ضامن

ضناک f. a fat woman. موٹي عورت

ضناگ m. cold. زکام

ضنت f. miser, niggard, miserly, niggardly. بخيل - بخيلي - کنجوسي

ضنک a. short, narrow, shortness, scarcity. تنگ - تنگي هر چيز کي

ضني a. weak, infirm, lean. لاغري - دبلا

ضنين m. a miser, a niggard. بخيل - کنجوس

ضنيک a. poor, lean, emaciated, foolish, ignorant. مفلس - دبلا - بيوقوف

ضو } f. sunlight, light, splendour, bril-
ضيا } liancy, resplendence. روشني آفتاب کي - روشني

ضوابط (pl. of ضابطه), rules, laws. جمع ضابطه کي - قواعد

ضواحک n. the fourteeth between the grinders and the canine teeth. چار دانت هيں جو درميان کچليوں اور ڈاڑهوں کے واقع هيں

ضور f. keen appetite. کڑي بهوکه

ضوميران m. the sweet basil. سپر غم - ريحان - نازبو

ضهد m. anger, rage, wrath, indignation. بهر لرنا - غصه کرنا

ضهره m. a reservoir. پاني کا حوض

ضهول m. a well which has very little water, a she camel or a goat giving a little milk. وه کنواں جس ميں پاني کم هو - کم دودهه کي اونٹني يا بکري

ضهيا f. a woman who does not menstruate, a woman having no milk. وه عورت جس کو حيض کا خون نه آوے - وه عورت جس کے دودهه نهو

ضياح m. adulterated milk. دودهه اور پاني ملا هوا

ضياع (pl. of ضائع and ضيعه), cultivable lands. جمع ضائع اور ضيعه کي زمينيں کهيتي کي

ضياعات f. cultivable lands. زمينيں کهيتي کي

ضيافت f. a feast, a banquet, convivial entertainment, hospitality, invitation. مهماني کا کهانا کهلانا

ضير n. loss, injury, damage, harm. گزند - نقصان

ضيع n. act of wasting or perishing. ضائع اور هلاک هونا

ضيعه m. destruction, desolation, waste, profession, trade, cultivable land. ضائع اور هلاک هونا - تجارت - پيشه - کهيتي کي زمين

ضيغم n. a lion. a. biting, tearing, devouring. شير درنده - گزنده

ضیف (both *sing.* and *pl.*) *a.* hospitable, convivial. *m.* a stranger, a guest, the sun about to set. مہمان اور مہمانان جمع اور مفرد دونوں آیا ھے - کسي کو مہمان رکھنا - آفتاب کا نزدیک بہ غروب ہونا

ضیف *n.* the side. پہلو

ضیق *zaiyiq, a.* contracted, narrow, (*met.*) a narrow-hearted miser تنگ - بخیل - کنجوس

ضیق *ziq, m.* anguish, vexation, melancholy, affliction, anxiety, doubt, oppression of spirit, or anything that tortures the mind تنگ - تنگي - تنگ ہونا

ضیق النفس *m.* a disorder o respiration, characterized by difficulty of breathing, cough and expectoration, the asthama. تنگي سانس کي مشہور مرض ھے - دمہ (ھندي)

ضیم oppression, cruelty, injustice, not fearing an injury for taking a vengeance. کسي پر ظالم کرنا - ستم کرنا - بدلہ لینے میں ضرر سے اندیشہ نہ کرنا

ضیمران *m.* the sweet basil. - سپرغم - نازبو - ریحان

ضیوف (*pl.* of ضیف), guests. جمع ضیف بمعني مہمان کي

ضیون *m.* a tom cat. بلي کا نر - بلاؤ

ط

to,e or *ta* called *ta,e muhmala* or *ta,e ghair manquta*, is the nineteenth letter of the Persian and the sixteenth of the Arabic alphabet. This letter is purely Arabic or Semitic, but it is sometimes introduced in certain Persian words which were originally written with *te*. In Arabic its genuine sound is stronger and harsher than that of the *te*. In reckoning by ابجد it stands for 9, and in almanacs for the sign Capricorn.

طاب *a.* sweet, agreeable, good, pure, excellent. خوشبو - پاک - لذیذ

طابق *a.* agreeing with, corresponding. مطابق ہونا

طابہ *m.* the date wine, Medina. - شراب - خرما - مدینہ

طاجن *n.* a frying pan. کڑاھي

طاحون } طاحونہ } *m.* a millstone, a grinder آسیا - چکي

طارف *f.* fresh, new and good articles, fresh stock. تازہ نیا اور بہتر مال

طارق *n.* accident, name of a star which appears a little before the morning, any thing that may appear in the night, a man who may travel in the night, a thief. حادثہ - شدید - وہ ستارہ جو قریب صبح کے نکلتا ھے - ھو شے جو رات کو ظاہر ھو - وہ شخص جو رات کو راستہ چلے - چور

طارم *m.* any building of a circular form with an arched or cupola roof, a vault of heaven, a high building. - لکڑي کا مکان بلند مکان

طاري *a.* happening, intervening, evident, descending. یکایک ظاہر ھونے والا - نیچے اُترنے والا - امر جو یکایک عارض ھوجاوے

طاس *m.* brocade, a big tray, a cup, goblet, bowl, the vessel in which water is cooled. بڑا طشت - نام ایک جامہ زرتار کا - وہ ظرف جس میں پاني یا شراب پیئیں

طاسک *n* a small tray or dish تصغیر طاس کي چھوٹا طشت

طاطا *a.* very quarrelsome, valiant. *m.* an intoxicated or strong camel. وہ شخص جو بڑا جھگڑالو ھو - دلیر - مست اُونٹ

طاطا *m.* bowing the head in humility and reverence, as in prayer. سر نیچا کرنا جیسے رکوع میں

طاعات (*pl.* of طاعت), acts of devotion. جمع طاعت کي

طاعت *f* devotion, obedience, obsequiousness, بندگي - عبادت

طاعن *m.* a lancer, an asperser, a slanderer, a calumniator. نیزہ مارنے والا - طعنہ دینے والا

طاعون *m.* and *f.* plague, pestilence. - شامت مرض و بائي - مرگ عام

طاغوت *m.* name of an idol, name of a demon, a priest, a sorcerer, devil, a chief of the depraved. - نام بت کا - نام دیو کا - کاھن شیطان گمراہوں کا سردار

طاغي *a.* violent, refractory. *m.* an insurgent, a leader of rebels, in Gulistan, in one place, it stands for Pharoah. - پھرا ھوا باغي - مفسد حد سے گذر جانے والا گلستان میں ایک مقام پر مراد فرعون سے ھے

طاغیہ *m.* lightning, a scream of pain. - بجلي عذاب کي چنگھاڑ

طافح *a* overflowing (pond or cistern). (*met.*) dead drunk, full of liquor. - لبالب - بدمست شراب سے چھکا ھوا

طاق *m.* an arched building, cupola, a recess in a wall, a window, unique, singular, alone, odd (not even), fold, ply, a kind of vest. - محراب - جهجها بني هوئي - خمدار روئي دار جيكه - تنها - مفرد - اكيلا

طاقچه *m.* (*dim.* of طاق) little recess, a niche, a small window. چهوٹا طاق

طاق خر پسته *m.* a litter. مواد عماري سے

طاقديس *m.* name of Khusru Parwez's throne which was studded with precious stones. خسرو پرويز كے تخت كا نام جو جواهر سے ٹك جڑاؤ تها

طاق نہ } طاق مينا } طاق نيلو فر } *m.* the heaven. مراد آسمان سے

طاقه *m.* a single garment or piece of cloth. ايک عدد كپڑے كا

طاقي *f.* a kind of cap. ايک قسم كي ٹوپي

طالب *a.* asking, demanding, interrogating, *m.* an inquirer, a seeker. طلب كرنے والا - ڈهو نڈهنے والا

طالح *a.* wicked, villanous. بدكار آدمي - بد آدمي

طالع *a.* rising (as the sun), arising, appearing. *m.* fortune, prosperity, destiny (good or bad), the dawn, the new moon. طلوع كرنے والا نصيب - صبح كاذب - ماه نو

طالعه *m.* rising, a light. طلوع كرنے والي - روشني

طالق *f.* a woman free from the bond of marriage, a she-camel set free for grazing, free, released. - عورت رها شده قيد نكاح سے اونٹني چرائي پر چهوڑي هوئي - رها - آزاد

طالوت *n.* king Saul, so called by the *Muhammadans.* بادشاه ساول - بموجب مسلمانوں كے بني اسرائيل كا سردار

طامات *n.* falsehood, doubtful words, bragging, without certainty. - گپ - جهوٹهه شيخي - جو صوفي لوگ اپنے كمالات كے اظهار ميں كر دين - باتيں بے اصل اور پريشان

طامث *tamis, f.* a menstruous woman. حيض والي عورت

طامع *a.* covetous, greedy, desirous. طمع كرنے والا - لالچي

طامه *m.* hardship, adversity, distress, trouble, the day of judgment. سختي - بلا - قيامت

طامهٔ كبري *m.* the judgment day. قيامت

طاؤس *m.* a peacock. مور مشهور پرند هے

طاؤس پر گنده *a.* unsightly, ugly, ungainly. بے رونق - بدنما

طاؤس عرش *m.* the angle Gabriel. مراد حضرت جبرئيل سے

طاهر *a.* pure, unsullied, chaste جو پاک - ناپاک نهو

طائحه *m.* a fatal shock, an accident, a man thus killed. اور مرد - هلاک كرنے والا حادثه هلاک شده

طائر *a.* flying. *m.* a bird, brain, action. اُڑنے والا پرند - دماغ

طائر سدره } طائر قدس } *m.* the angel Gabriel. جبرئيل فرشته

طائع *a.* obedient. فرما بردار

طائف *a.* circumambulating, night patrol, a vision, a dream, vile thoughts or suggestions of Satan, a city in *Hadjza*, a police inspector. طواف كرنے والا - خيال جو نيند ميں دكهائي دے - سپنا - ايک شهر كا نام حجاز ميں - كوتوال اس وجه سے كه وه رات كو شهر ميں حفاظت كے لئے پهرتا هے

طائفه *m.* people, nation, tribe, party, a troop, a band (particulary of musicians and dancing women), a piece, suit, equipage. آدميوں كا گروه - جماعت - كسي چيز كا ايک ٹكڑا

طائل *n.* gain, advantage, greatness, increase, richness. فائده - افزوني - تونگري

طب *f.* medicine, the practice, or science of physic, the practice of medicine, a sheet (of cloth), softness. علم بيدک - بيماريوں كے علاج كرنے كا علم - علم جسم و جان كا - نرمي - چادر

طبابت *f.* the practice of physic. حكيمي - فن طب

طباخ *m.* a cook. باورچي - پكانے والا

طباشير *f.* the sugar of the bamboo. معرب تباشير كا هندي بنسلوچن

طباشير صبح *f.* the whiteness of the dawn. صبح صادق كي سفيدي

طبا طبا *m.* a title of Ishmael the son of Abraham. لقب اسمعيل بن ابراهيم كا

طباع *tabba', a.* wise, intelligent, quick of apprehension, keen of perception. *m.* a potter, one who makes swords, a moulder. عقلمند - صاحب طبيعت - تيز فهم - تلوار بنانے والا - ڈهليا

طباع *tiba', (pl.* of طبيعت and طبع), natures, etc. سرشت اور خو آدمي كي جو كبهي زائل نهو

طبال *m.* a drummer, one who beats a kettle-drum. نقارچي

طبانچه *m.* a slap, box, or blow. طمانچه - تهپڑ

طبائع (*pl.* of طبيعت), natures, etc. جمع هے طبيعت كي

طبخ *m.* cooking پكانا

طبر خون red willow, a kind of red and bitter wood, red sandal-wood, anger, a fire place, hearth. - بید سرخ - لکڑي سرخ رنگ تلخ مزہ صندل سرخ - غصہ - آتشدان

طبر خون زدن id. to kill, to destroy, to perish. ہلاک کرنا

طبر زد n. sugar-candy, conserve of roses, fine hard-white sugar. معرب تبر زد کا - مصري

طبع f. nature, genius, temperament, quality, disposition, sealing, printing, stamping, coining, moulding, making earthenwares, making swords. - سرشت آدمي کي - پیدایش خو - خط وغیرہ پر مہر کرنا - نقش کرنا چھاپنا - چاندي سونے پر سکہ لگانا - قالب میں کوئي چیز ڈھالنا - تلوار بنانا - مٹي کے برتن بنانا

طبع *tiba'*, m. a spring of water, a canal, defect, dirt, filthiness wickedness, evil, vice چشمہ - پاني کي نہر - میل - عیب - زشت - برائي

طبع *taba'*, m. rust on a sword knife, etc. تلوار وغیرہ زنگ

طبع *tabi'*, m. an unambitious person. آدمي پست ہمت

طبعي a. natural, constitutional. منسوب طرف طبیعت کے

طبق m. a viscous substance used to catch birds, bird-lime, a flight of locusts, a band, a group, a collection (of men). لاسا جس سے پرندوں کو شکار کرتے ہیں - آدمي اور ٹڈي کا گروہ

طبق *tabaq*, m. fold, layer, story of a house; a plate, tray, a dish, a leaf, a disk, gold leaf, tinfoil, etc., a platform consecutive, one thing following another, earth, a group, band, party, collection (of men), a flight of locusts, *vulva*, a horse disease. - تہ - پرت - طبقہ - وہ چیز جو برابر اور موافق دوسري چیز کے ہو - خوانچہ وغیرہ - روے زمین - آدمي یا ٹڈي کا گروہ - عورت کي شرمگاہ - نام ایک گھوڑے کي بیماري کا

طبق m. mode, custom, way. طریق - دستور

طبقات (pl. of طبقہ), جمع طبقہ کي

طبقري . name of a town. نام ایک موضع کا

طبقہ m. a story, floor. stage, degree, class, order, rank, shelf. درجہ

طبل m. a drum, a tambourine. دھول - بڑا نقارہ

طبل از زیر گلیم بر آمدن id. disclosure of one's secret. کنایہ ہے کسي کے بھید ظاہر ہوجانے سے

طبل خوردن id. to flee, to run away. بھاگنا

طبل درزیر گلیم بودن id. act of remaining one's secret under cover. کنایہ ہے کسي کے بھید پوشیدہ رہنے سے

طبلہ m. a small drum, a small box, a small basket, a hamper. چھوٹا صندوقچہ - پٹاري

طبن m. a very wise man. بڑا عقلمند آدمي

طبي f. udders (of animals). چوپایوں کے تھن

طبیب m. a physician, doctor. علاج کرنے والا

طپیدن inf. to be heated. (*met.*) to be agitated, to be uneasy. گرم ہونا - مجازي معني بیقرار ہونا

طبیخ n. decoction, the preparation obtained by boiling some medicine in water, a burnt brick. - کسي چیز کا پاني جوش کیا ہوا جو شاندہ کسي دوا کا - اینٹ پختہ

طبیخ m a melon. خربوزہ

طبیعت f. disposition, temperament, nature, constitution, essence, property. - مزاج - خو - عادت - پیدائش

طبیعي f. natural, constitutional, innate, intrinsic. ذاتي - خلقي - پیدائشي

طحاب n. name of a town. نام ایک موضع کا

طحال n. spleen, the milt, name of a place. تلي - نام ایک مقام کا

طحال *tuhal*, n. a disease in the spleen. نام ایک بیماري کا جو تلي میں پیدا ہوجاتي ہے

طحش n. copulation, coition. عورت سے جماع کرنا

طحطح / طحطاح a. breaking, scattering, confounding dispersing. توڑنا - پریشان کرنا

طحل a. furious, outrageous. غضبناک

طحلب n. the green scum on the surface of stagnant pools. کائي جو پاني پر جم جاتي ہے

طحن m. act of grinding grain or corn. غلہ کا آٹا کرنا

طحن m. flour, finely ground meal of wheat and other corn. آٹا

طر *tarr*, a. act of sharpening (an arrow), cutting or sawing, slapping, boxing, falling down, standing on tiptoe to take a thing beyond reach. - تیز کرنا پیکان کا - کاٹنا - چیرنا - تپیڑ مارنا - گرپڑنا - اُچک لیجانا

طر *turr*, a whole, all. ہمہ - تمام - جمیع

طرابلس *tarabulus* m. name of a city in Syria, the city of Tripoli. ایک شہر ہے شام میں - ایک شہر مغرب میں

طرائیث n. name of a fruit. نام ایک میوہ کا

طراح *tarrah*, m. an architect, a mason. نقاش - معمار

طراحي f. architecture, masonry. نقاشي - معماري

طراد n. a small light boat. چھوٹي ہلکي کشتي

طرار *tarrar*, a pickpocket, a cutpurse, a chatterer, a clack. چور - گرہ کاٹنے والا - تیز زبان

طراز *m.* lace, fringe, embroidery, etc. any ornament on the border of a garment; (in *comp.*) adorning, painting, and ornamenting. منجات - آرائش - نقش و نگار هر چهزکا -

طراز *m.* name of a city in the limits of Turkistan, the inhabitants of which are very handsome. نام ایک شهر کا حدود ترکستان میں جہاں کے لوگ خوبصورت هوتے هیں

طرازیدن *inf.* to paint, to ornament, to adorn. نقش کرنا

طراق *n.* noise made by striking with a whip. وہ آواز جو تازیانہ یعنی کوڑا مارنے میں نکلتی ھے

طراوت *f.* freshness, verdure. تازگي

طرائف *f.* fine things, anything new, fresh and agreeable. چیزیں عمدہ اور نفیس - مال تازے اور نئے اور لطایف

طرائق *n.* the gentlemen, the favourite ones, loved ones, a sect, a nation.. - اشراف لوگ عزیز لوگ - قوم کا گروہ

طرب *f.* cheerfulness, mirth, hilarity, joy, fondness, desire. خوشي - شادي - شوق

طربال *m.* a high tower, a lofty building, a huge wall, a high church. بلند - بلند عمارہ عمارت - بلند اور لمبي دیوار - گرجا گهر بلند

طرح *f.* position, model, design, establishment, ejection, throwing, painting and ornamenting, mode, custom, act of selling a thing on a higher price by an oppressive person to one under his power. دور کرنا - مکان کي نیو کا ڈالنا - نئي عمارت کا نمونہ - گرانا کسي کام سے کنارہ کرنا - نقاشي - زبردست کا اپني چیز کو کراں قیمت پر زبردست کے هاتهہ بیچنا - وضع - ڈهنگ - طور

طرح انداختن / طرح ریختن / طرح کردن } *id.* to found, to lay the base of, to establish a thing, to institute. کسي چیز کي بنا ڈالنا

طرد *m.* driving (a fly, wasp, mosquito, ant serpent, etc.) طور (*pl.* of طرہ see طرہ w) جمع طرہ کي

طرز *f.* form, manner, fashion. ڈهنگ - طرح

طرش *n.* deafness. بهرا پن

طرطوس *m.* name of a wrestler, name of a city. نام ایک پهلوان کا - نام ایک شهر کا

طرف *f.* direction, side, margin, corner, quarter, extremity, towards, a piece, part, (in Pers.) an opponent, enemy, time. کنارہ - جانب - سمت - جهت - کسي چیز کا ٹکڑا اور حصہ - فارسي میں مقابل اور حریف کے معني میں آتا هے - نیز بمعني وقت کے آتا هے جیسے طرف صبح و طرف شام

طرف *tarf, n.* an eye, changing eyes, feeling pulsation in the eye lashes, squinting, ogling, having the eyelids joined, moving them quickly, corner, a golden swordbelt. آنکهہ - آنکهہ کا پهرنا - آنکهہ کے پپوٹے کا پهڑکنا - کنکهیوں سے دیکهنا - پلکونکا چهپکانا گوشہ - کنارہ - قاب طلائي جو کمر میں باندهتے هیں

طرفا *m.* name of the tamarisk tree (*Tamarix Indica* or *Divica*). جهاؤ کا درخت

طرف بستن *id.* to be profitted by, to be benefitted by, to gain, to acquire. فائدہ حاصل کرنا - نفع اٹهانا

طرفتہ العین *n.* the twinkling of an eye, *i. e.*, very short time. - ایک مرتبہ پلک کا جهپکانا مراد اس سے بہت تهوڑا زمانہ هوتا هے

طرفدار *m.* a partisan, a follower, a sectary, an assistant, a subordinate officer of revenue and police. حاکم سرحد کا

طرفدار پنجم *m.* Mars, called also. جلاد فلک کنایہ مریخ سے

طرف شدن *id.* to oppose, to confront. مقابل اور حریف هونا

طرف ؟ *f.* the world. مراد دنیا سے

طرف گرفتن *id.* to retire (sitting in a corner), to defend, retirement, withdrawl from worldly affairs, seclusion. - گوشہ میں بیٹهنا کسي کي حمایت کرنا - گوشہ نشیني

طرفہ *turfa, a.* wonderful, strange, anything new, rare or agreeable. (*met.*) a mistress, sweetheart. - نئي چیز - عمدہ - عجیب تحفہ - مجازاً بمعني معشوق

طرفہ *tarfa, m.* twinkling of an eye, a blear. ایک دفعہ پلک جهپکانا - سرخي کا نقطہ آنکهہ میں

طرفین (*pu.* of طرف), both sides, both parties. دونوں جانب

طرق (*pl.* of طریق), ways, modes, etc. جمع طریق کي - راستے - راهیں

طرق *a.* beating, breaking, pairing copulation, coming in the night, insensibility, musical sound. مارنا - توڑنا - نر کا مادہ سے جفتي کهانا - رات کو آنا - عقل کي سستي - آواز راگ اور باجوں کي

طرق *tirq*, fatness, greasiness, strength چربي - موٹاپا - طاقت

طرقوازن *m.* a mace bearer, a herald. چوبدار - نقیب

طرم *n.* thick honey. گاڑها شهد

طرموث *turmus*, ignorant, foolish. جاهل

طروب *tarub, a.* happy, glad, joyful, merry. شادمان - خوش و خرم

طاروب *turub*, *m.* joys, gladnesses. خوشیاں - شادیاں

طره *turra*, *m.* a ringlet, a curl, gallery, edge, point, an ornament worn in the turban, a tassel. زلف - پیشاني کے بال - مکان کا چھجا - ھر چیز کا کنارہ - مقیش کا پھندنا

طري *f.* fresh, now. تازہ - نیا

طرید *a.* rejected, excluded, reprobated, repulsed, confuted. *m.* an apostate. ھنکایا گیا - مردود

طریدہ *m.* (*met.*) an attack, invasion. مجازاً بمعني حملہ

طریر *m.* a handsome person, beautiful man. *a.* agreeable. مرد خوبصورت - خوش لقا

طریف *a.* rare. wonderful, strange. - غریب نادر - نو زاد - عجیب

طریق *a.* pounded, beaten; wounded, hurt. *f.* way, road, manner, custom, fashion, religion, rite, profession, (also) shy, abashed, ashamed. کوٹا گیا - مضروب - مارکھایا ھوا - چوٹ کھایا ھوا - رستہ - راہ - اور بمعني خیال - شرمندہ کے بھي آتا ھے

طریقت *f.* way, path, manner, mode, religion, sect, the better sort of people راہ - صفائي باطن کي

طریق گشته *p. t.* got ashamed, got abashed. شرمندہ ھوا

طریقه *m.* way, path, manner, mode, religion, sect. راہ - طور - راستہ - ڈھنگ - روش - مذھب

طریقه *tirriqa*, *n.* laziness, weakness. - سستي ناتواني

طسوج *tassuj*, *m.* edge, corner, one-twenty-fourth part. کنارہ کونا - چوبیسواں حصہ ھر چیز کا

طشت (*pers.* تشت) a large basin, ewer or cup. معرب تشت کا - تسلہ

طشت کسے از بام افتادن *id.* (the secret) to be divulged, to be disgraced. کسي کا بھید ظاھر ھو جانا - رسوا ھو جانا

طعام *m.* victuals, eating. خورش - کھانا

طعان *m.* striking with a spear, (*pl.* of طاعن), lancers. نیزہ مارنا - جمع طاعن بمعني نیزہ مارنے والے کي

طعم / طعمه } *m.* food, bait, dinner, provisions. کھانے کي چیز - طعام خورش

طعم *m.* taste, savour, flavour. مزہ - لذت

طعمه *m.* tasting, relishing. ایک مرتبہ چکھنا

طعن *m.* striking with a spear, blame, fault-finding, disapprobation reviling, chiding, walking. نیزہ مارنا عیب گیري کرنا

طعنه *m.* striking once with a spear, fault-finding, taunting, reproach, ignominy, disgrace, aspersion. - ایک مرتبہ نیزہ مارنا عیب جوئي کرنا - کسي کے کام میں عیب نکالنا

طغان *m.* name of a Turk king, (also *contr.* of طغیان). نام ایک بادشاہ ترک کا - مخفف طغیان کا بھي ھے

طغان شاہ *m.* name of a great king of the descendant of Afarasayab. نام ایک بادشاہ عظیم القدر کا اولاد افراسیاب سے

طغرا *m.* a sort of writing in complicated in which a royal title is prefixed to public papers or mandates. ایک قسم کا خط ھے پیچیدہ حرفوں کا جس میں نام یا القاب بادشاھوں کا فرمان پر لکھا جاوے

طغرل *m* name of a king of the Seljuk dynasty. نام ایک بادشاہ کا اولاد سلجوق سے

طغرل *tughrul*, *m.* a kind of falcon. نام ایک پرند شکاري کا جس کو ھندي میں بحري کہتے ھیں

طغیان *m.* (*met.*) abundance, plenitude, rebellion, sedition, perverseness, insolence, oppression exceeding the limit. مجازاً بمعني زیادتي - کثرت - مگر استعمال اس کا نامرغوب کي افزوني میں آتا ھے اور اسي باعث سے کبھي بمعني ظلم اور نافرماني کے بھي آتا ھے

طغیاني *f.* excess, a flood, overflowing. - زیادتي کثرت

طفاوہ *m.* a luminous ring round the sun. دائرہ جو آفتاب کے گرد واقع ھوتا ھے

طفل *m.* an infant, a young animal. نیا پیدا بچہ خواہ آدمي کا ھو خواہ حیوان کا

طفل چھل روزہ *m.* Adam کنایہ حضرت آدم سے

طفل شب *m.* the moon. کنایہ چاند سے

طفل ھندو *m.* the pupil (of an eye). آنکھہ کي پتلي

طفولیت *f.* infancy, childhood. طفلي - لڑکپن

طفیف *f.* small quantity, little, incomplete. قلیل - تھوڑا - ناتمام

طفیل *tufail*, *f.* one who uninvited accompanies one of the guests to a feast, a parasite, a glutton, (used as a preposition) by means of, through, the merits or agency of. وہ شخص جو بے بلائے کسي مھمان کے ساتھہ کسي ضیافت میں جاوے - پیٹو محاورہ فارسي میں مجازاً بمعني وسیلہ اور ذریعہ کے بھي آتا ھے

طل *tall*, *n.* dew. شبنم - اوس

طلاب *tullab*, (*pl.* of طالب). جمع ھے طالب کي

طلا *m.* gold, gold fringe, an ointment, liniment, embrocation, plating. سونا - پتلي دوا جو کسي عضو پر ملیں - ملمع کرنا - ملمع

طلاق *talaq*, *f.* divorce, repudiation, expansion, opening of heart, joy, freedom, luxury. - چھوٹ جانا عورت کا قید نکاح سے - کشادگي - آزادي - عيش و نشاط

طلاق شکم *m.* stool, purge, evacuation. پيٹ کي رواني - دوستوں کا آنا

طلاقت *f.* eloquence, glibness of tongue, pronunciation. - زبان کي کشادگي - لقلقہ - تيز زباني

طلاوت grace, beauty, elegance, refreshment, excellence, goodness, magic, enchantment, acceptance, agreement. - خوبصورتي - ترو تازگي - رونق - خوبي - قبوليت - سحر - جادو

طلائي *a.* golden, made of gold, or covered with gold. سونے کي چيز

طلاے دستہ افشار *m.* in Khusru Parwez's treasury there was a kind of gold which was as soft as wax. خسرو پرويز کے خزانہ ميں ايک سونا بيش قيمت مانند موم کے نرم تھا اس کو زردست افشار بھي کہتے هيں

طلايہ *m.* night watch, patrol, rounds, picket. فوج جو شهر اور لشکر کي رات کو محافظت کرتي هے

طلب *f.* desire, wish, inquiry, demand, request, application, sending for in (*comp.*) seeking, searching. مانگنا - خواهش کرنا

طلب *m.* collection, multitude, band, party, group (of men). آدميوں کا گروه

طلبہ *talaba*, *pl.* of طالب جمع طالب کي

طلبہ *m.* desire wish, requirement. - مطلوب - آرزو - خواهش

طلبيدن *inf.* to call, to desire, to wish, to request. بلانا - چاهنا - مانگنا

طلح *m.* the flower of a date tree, a plantain-tree. شگوفہ خرمہ درخت موز - کيلا

طلسم *m.* a talisman, anything to cause astonishment, wonder, marvel, a formidable figure painted on the treasuries. جو تماشہ بشکل عجيب وغريب نظر ميں دکھائي دے - وہ صورت و شکل ڈرونی اور مهيب جو خزانوں کے اوپر بنا ديتے هيں

طلسمات (*pl.* of طلسم) talismans, spells. جمع طلسم کي

طلع *m.* the flower of a date tree, approximation, calculation, quantity, degree. - شگوفہ خرما اندازہ - مقدار

طلع *tila*, *m.* secret, mystery; knowledge of a mystery. راز - بهيد سے واقفيت

طلعت / طلعہ } *n.* aspect, countenance, appearance. رخ - منهہ - ديدار - منهہ ديکهنا

طلق *talq*, *m.* the pangs of childbirth, talc, mica, a deer, a hound. (*met.*) wine. درد زہ - جننے کا درد جو عورتوں کو بچہ هوتے وقت هوتا هے - ابرق - هرن - شکاري کتا - مجازاً بمعني شراب

طلق *tilq*, *m.* divorce, repudiation. *a.* free, lawful. رها شدہ - آزاد - حلال

طلق *a.* eloquent, voluble. تيز بان - زبان آور

طلق روان (*met.*) wine. کنايہ شراب سے

طلق روان گوهري (*met.*) grape wine. انگور کي شراب

طلق الوجہ *m.* beautiful, of an open countenance, gay, cheerful, smiling. - کشادہ رو - خوبصورت - خندان

طلق اللسان *a.* eloquent, glib of tongue. کشادہ زبان - فصيح

طلل *m.* body, stature, size, ruins of a building. جسم - کالبد - تن بدن - ڈيل ڈول - ويران مکانوں کے نشان

طلوب *talub*, *m.* an inquirer, seeker. بمعني طلب

طلوع *m.* rising (as the sun, etc.,) appearance of the stars, coming out, putting out; manifestation, appearance. - آفتاب کا نکلنا - هر ايک ستارہ کا ظاهر هونا - باهر نکلنا - هر چيز کا ظاهر هونا

طليعہ *tali'a*, (*pl.* طلائع) *m.* the vanguard or picket, an advanced post, the forlorn hope, a spy, a sentinel. وہ لشکر جو فوج کے آگے آگے واسطے دريافت کرنے دشمن اور پاني وغيرہ اور اترنے کي جگهہ کے جايا کرتا هے - سپاہ - محافظ شهر اور لشکر کي بوقت شب - جمع طلائع

طليق *a.* divorced, released, freed. - قيد سے آزاد - رها شدہ

طليق الوجہ *a.* of an open countenance, gay, cheerful, smiling. کشادہ رو - خندان

طليق اللسان *a.* eloquent, glib of tongue. تيز زبان - فصيح

طماع *m.* covetous, extremely greedy. بڑا لالچي

طمع *tumm'a*, (*pl.* طامع), greedy. جمع طامع بمعني لالچ کي

طماعت *f.* greediness, avarice. لالچ کرنا - طمع کرنا

طمانيت *f.* comfort, rest, repose, tranquillity. تسلي - اطمينان

طمروس *m.* a liar. جهوٹها - دروغگو

طمس *n.* obliteration, abolition, destruction. نابديد کرنا - کسي چيز کا نشان تک مٹا دينا - هلاک کرنا

طمطراق *m.* magnificence, grandeur, pomp. کروفر - شان - تجمل

طمع *f.* avarice, greediness, desire, covetousness, avidity لالچ - حرص - اميد

طمع *tim'a*, *m.* avaricious, greedy, covetous. لالچي - حريص

طاموس n. abolition, annihilation, state of becoming old, perishing, effacing. معدوم هونا - پرانا هونا - محو كردينا - مٿا دينا

طاميس a blind. اندها - نا بينا

طاناب f. a tent rope, a measure for measuring land, formerly made of rope. - رسي خيمه كي ڈوري

طناز a. facetious, jocose, jocund, ludicrous, playful, mirthful, saucy, impudent. اشاروں ميں بات كرنے والا - كنايه ميں بات كرنے والا - ناز كرنے والا - شوخ

طناب m. (pl. اطناب), a tent rope. خيمه كي ڈور

طانبك (cor. of طنبك), a small drum. معرب تنبك كا - ڈهولكي

طانبور m. a Turkish guitar with six wires or strings (Menin.) a drum (in Hind). طنبور مشهور باجه هے

طانجير m. a pot, a small caldron. پتيله - ديگچه

طانز f. mirth, joking, pleasantry, ridiculing, sneering, taunting. - ناز رمز كي باتيں طعنه - مسخره پن

طانطانه m. sound (of a guitar, drum, etc) rumour, pomp, dignity, state. آواز طنبوره اور باجه وغيره كي - آواز ڈهول اور نقاره - كروفر - دبدبه

طانك f. sound, voice. صدا - آواز

طانين f. humming, buzzing, tinkling, clinking. آواز مكهي اور زنبور اور مچهر وغيره - چهوٹي مكهيوں كي - بهنبهناهٹ - طشت اور لگن كي آواز

طوارق (pl. of طارقه). جمع طارقه كي

طواف m the pilgrims, being arrived at Mecca, immediately visit the temple, and then enter on the performance of the prescribed ceremonies, which consist chiefly, in going in procession round the Kaaba. In compassing the Kaaba, which they do seven times, beginning at the corner where the black stone is fixed, they use a short quick pace the three first times they go round it, and a grave, ordinary pace the four last. This procession is called *tawaf*, turning, encompassing, pilgrimage خانه كعبه كے ارد گرد گهومنا - كسي چيز كے گرد پهرنا

طواف *tawaf*, m. a devoted servant, one who observes *Tawaf* وه خادم جو نرمي اور مهرباني سے اپنے مالك كي خدمت كرے - طواف كرنے والا

طوالت f. prolonging, prolixity. درازي

طوامير pl. of طومار (see below). جمع طومار كي

طوائح n. calamities, accident, troubles حادثے - واقعے جو هلاك كرنے والے هوں - آفتيں

طوائف f. (pl. of طائفه) troops, bands, tribes, nations. جمع طائفه بمعني گروه

طوبى (fem. of اطيب), more holy, more fragnant, (sometimes it means) luxury, happiness, comfort, ease, name of a remarkable tree in Paradise, called Tuba, or the tree of happiness. Concerning this the Muhammadans say that it stands in the palace of Muhammad, though a branch of it will reach to the house of every true believer, that it will be laden with pomegranates, grapes, dates, and other fruits of surprising bigness, and of tastes unknown to mortals. So that if a man desire to eat of any particular kind of fruit, it will immediately be presented to him, or if he choose flesh, birds ready dressed will be set before him according to his wish. They add that the boughs of this tree will spontaneously bend down to the hand of the pers on who would gather of its fruits, and that it will supply the blessed not only with food, but also with silken garments and beasts to ride on ready saddled and bridled, and adorned with rich trappings, which will burst forth from its fruits, and that this tree is so large, that a person mounted on the fleetest horse would not be able to gallop from one end of its shade to the other in a hundred years a. excellent, sweet. مونث هے اطيب كا بمعني پاك تر - خوشبو دار تر - اور كبهي بمعني عيش اور خوشي كے - نام ايك درخت كا بهشت ميں جس كي ايك شاخ كل بهشتيوں كے مكانوں ميں هوگي اور اس ايك شاخ سے طرح طرح كا ميوه اور خوشبوئيں حاصل هونگي

طود m. a mountain. بڑا پهاڑ

طور m. a mountain, particularly mount Sinai. مطلق - پهاڑ - طور سينا

طور m. once. (met.) mode, manner, condition, state, (pl. اطوار). ايك مرتبه اطوار اسكي جمع هے - مجازاً بمعني ڈهنگ - وضع

طوس m. name of a city in Persia, the birth place of the poet Firdausi. نام ايك شهر كا فارس ميں

طوع m. obeying, obedience. رغبت - اطاعت

طوعاً *tau'an*, adv. willingly. از روے فرمانبرداري كے

طوعاً و كرهاً adv willingly, or unwillingly, nolens volens. طاعت و فرمانبرداري اور كراهت اور دهينگا - دهينگي سے

طوغ *tūg*, an ensign, flag, standard, co'ours. نشان و جھنڈا فوج کا

طوف *m.* surrounding, perambulating, pilgrimage, the procession round the temple of Mecca. کسي چیز کے گرد پھرنا - مطلق سیر اور گشت کے معني میں بھي آتا ھے

طوفان *m.* an inundation or deluge, the universal deluge, a hurricane, a storm of wind and rain. سیلاب پاني کا جو ڈبوھے - سخت آندھي - ھر چیز جو بہت غالب ھو اور کل کو گھیر لیوے

طوق *m.* power, strength, a collar, a necklace, chain, a ring. - طاقت - توانائي - گردني بند - گول پٹہ - حلقہ - ھر چیز جو گول ھو

طوق بردن *id.* to surpass, to excel. سبقت لیجانا

طوق و طاج (*met.*) throne and crown. مراد تخت و تاج سے

طول *m.* favour, excelling, surpassing one in honour and greatness power, gift, blessing. احسان - کسي پر بیشي لیجانا - بزرگي اور فضل میں کسي پر غالب ھونا - قدرت - تونگري - بخشش عطا

طول (*tūl.*) *m.* length. *a.* long, tall, extensive, lasting long. درازي - لمبائي - لمبا ھونا

طول *m.* a rope confining a grazing animal within certain limits, a tether. بڑي رسي جس کے ایک سرے سے چوپایہ کا پانؤں باندہ کے چرنے کو چھوڑ دیں

طول امل *tul-i amal*, *m.* greed, avarice (for worldly things.) کنایہ حرص سے

طومار *m.* a book, a volume, a roll, an account book, a story, a message, a letter. نامہ - کتاب بڑا مکتوب - خط

طوي *tu'i*, *f.* a feast, an entertainment. واؤ معروف سے معرب ھے توي کا - شادي عروسي (ترکي)

طوي *m.* name of a plain in Syria called also the valley of Emen. نام ایک میدان کا شام میں اس کو وادي یمن بھي کہتے ھیں

طوع *m* hunger, appetite. گرسنگي - بھوکھ

طویل *a* long, tall, prolix, a metre in prosody. لمبا - دراز - نام ایک بحر کا انیس بحروں شعر سے

طویلہ *m* a long rope with which cattle are tied, a tether, footband, fetter, hence. (*met.*) a stable, a stall, a string (of pearls). لمبي رسي جو گھوڑوں کے پیروں میں باندھتے ھیں - بعد پچھاڑي مجازاً اصطبل - وہ مکان جس میں بہت سے گھوڑے باندھے جاتے ھیں موتیوں کي لڑي

طویلہ بستن *id.* to pitch a tent. خیمہ برپا کرنا

طویلہ بیرون زدن *id.* to appear, to come out. کنایہ ھے ظاھر ھونے اور باھر نکلنے سے

طویلہ در *m.* a string of pearls. موتیوں کي لڑي

طہارت *f.* purity, cleanliness, sanctity, ablution, ceremonial purification, purification after a natural evacuation. - پاکي - پاکیزگي - پاک ھونا - اور بمعني وضو اور استنجا کے مستعمل ھے

طہر *m.* purification, cleanliness, purity of woman after their courses or childbirth. پاکي - پاکیزگي - پاک ھونا عورت کا حیض سے

طہماسپ *m.* name of one of the Iran kings who was famous for his justice and generosity. نام ایک بادشاہ ایران کا جو بڑا عادل اور سخي تھا

طہمورث *m.* name of an Iran king who is said to have reigned for 700 years, called also *Deoband.* نام ایک بادشاہ ایران کا جس نے سات سو برس بادشاھت کي تھي

طہور *tahur*, *m.* purification, cleansing. - پاک پاک کرنے والا - پاک ھونا وہ چیز جس سے دوسري چیز پاک کي جاوے

شراب طہور *m.* the wine of paradise, which the faithful will be freely allowed to drink, since it will not inebriate, as that we drink here. The flavour of this wine we may conceive to be delicious without a description, since the water of Tasnim and the other fountains which will be used to dilute it is said to be wonderful sweet and fragrant. بہشت کي شراب جو مومنوں کو ملیگي

طہیر *f.* purifying, cleansing, pure, holy. پاک کرنے والا - پاک

طي *tai*, *m.* hunger, rolling up, folding. بھوکھ - گرسنگي - لپیٹنا

طیار *a.* flying, fleet (a horse or arrow), a winged animal in general, intelligent, quick of apprehension, a title of Jafar the son of Abi Talib and a cousin of Muhammad. (*met.*) steady, ready. اڑنے والا - پرند جو خوب اڑ سکے - بہت خوب اڑنے والا - تیز فہم - لقب جعفر بن ابي طالب کا - مجازاً آمادہ اور مستعد کے مستعمل ھے

طیارہ *m.* a boat, a ship, a fleet horse. کشتي اور جہاز اور گھوڑے تیز رفتار سے

طیاس *m.* stupid, foolish, devoid of understanding, nonsensical. - سبک عقل - ھلکا - بیہودہ آدمي

طیان *m.* hungry. *m.* a potter, name of a poet who was a babbler. - گرسنہ - بھوکھا - کمہار - نام ایک شاعر کا جو بیہودہ گو تھا

طايب *a.* good, sweet, agreeable, tasteful, lawful. پاک - حلال - لذيذ - مزه دار

طيب *tib, m.* perfume, odour, essence, delight, pleasure, jocularity, pleasantness, taste, cleaning. - خوشبو - خوشي - پاک هونا - خوش طبعي - مذاق

طيب الادا *m.* eloquent, tuneful, melodious, of a sweet voice. خوش آواز - اور خوشگو

طيبات *taiyibat*, (*pl.* of طيبة), good works, etc. pleasures humours. ظرافتين - دل لگيان

طيبه *f.* purification, temper, jocularity, humour. *a.* lawful. - پاک هونا - حلال هونا - مزاج - خوش طبعي اور مذاق

طيبه *m.* Medina. مدينه منوره

طير *tair, m.* flying, a bird (also birds), (both *sing.* and *pl.*) - جمع اور مفرد دونوں - ايک پرند - بهت سے پرند

طيران (*pl.* of طير), flights. جمع طير کي - اُڑنا

طيرگي *f.* lightness of weight, levity of conduct. سبکي - خفت

طيره *m.* anger, wrath, lightness of weight, levity. غصه - غضب - خفت

طيره *tirah,* ill omened, inauspicious. فال بد - براشگون

طيش *m.* levity, lightness, foolly. (*met.*) anger, passion, irritability. سبکي - سبک هونا - هلکا پن - عقل کا زائل هوجانا - مجازاً بمعني غصه - بيدماغي - خفگي

طيف *taif, m.* anger, passion, madness, a phantom, spectre, apparition, a ghost. غضب - غصه کا جوش - ديوانگي - خيال جو خواب ميں دکهائي دے

طي کردن *inf.* to wrap, to fold, to settle. لپيټنا - فيصله

طيلسان (for تالسان) a kind of sheet which the orators of *Khutba* or the Muhamadan Judges, (ecclesiastic) put on their shoulders. (*pl.* طيالسه). معرب تالسان کا ايک قسم کي چادر هوتي هے جو خطبه پڑهنے والے اور قاضي لوگ اپنے کاندهوں پر ڈالتے هيں - طيالسه اس کي جمع هے

طي لسان *n.* (*lit.*) folding up the tongue, silence, quietness, ability or power of speaking. زبان کا لپيٹ لينا - مراد اس سے خاموشي هے - کنايه استعداد کلام اور قوت گويائي سے بهي هوتا هے

طين *n.* earth, clay, mud, loam. - خاک - مٹي - نمناک

طينت *f* a piece of clay, nature, temperament, disposition, genius, genesis, creation. ڈهور مٹي - سرشت - خو - پيدائش - خلقت

طيني *f.* earthy, muddy, made of clay. - گلي مٹي کي چيز

طيور *tuyur*, (*pl.* of طير), birds. جمع طير بمعني پرند کي

طيهوج *m.* name of a bird of the partridge kind smaller than a *Bartavelle* (or the Greek partridge), some say it means a quail. معرب طيهو کا اور طيهو ايک پرند هے مشابه کبک سے جس کو چکور کهتے هيں ليکن چکور سے چهوٹا هوتا هے - بعضے کهتے هيں که هندي ميں اس کو لوا کهتے هيں

— ظ —

ظ *zo'e* or *za'* called *za'e mu'jama* or *sa'e manquta,* is the twentieth letter of the Persian and the seventeenth of the Arabic alphabet. This letter is purely Arabic, in reckoning by ابجد it stands for 900.

ظاعن *m.* a traveller. مسافر

ظالم *m.* a tyrant. *a.* tyrannical, barbarous, cruel, oppressive. (*met.*) applied by the poets to a beloved person or mistress. ظلم کرنے والا - معشوق

ظامي *m.* thirsty. پياسا - تشنه

ظان *zann, m.* suspicious, an accuser, a slanderer, calumniator. تهمت - بد گمان - لگانے والا

ظاهر apparent, manifest. *m.* the outward or external appearance, in opposition to باطن (the intrinsic), an epithet of God. کهلا هوا نام خدا کا

ظبا *ziba, m.* (*pl.* of ظبي), deers. جمع ظبي بمعني هرن کي

ظبي *m.* a deer, a chevril, a gazelle. هرن

ظبيتا *f.* a roe, *vulav, pudendum tum maris tum feminæ,* a small leathern bag, a chatty, a jar. آهوے ماده - هرن کي ماده - عورت اور حيوان کي شرمگاه - چهوٹي ٹهيلي چمڑے کي - خم - مٹکي - مشهور

ظراف *m.* very wise, jocular, hilarious, very witty, humorous. نهايت عقلمند شخص - بڑا خوش طبع - بڑا دل لگي باز

ظرافت *f.* beauty, politeness, elegance, gallantry, wit, humour, jocularity. - خوش طبعي عقلمندي

ظرف *m.* a vase, vessel. *a.* ingenious, wise, in grammar, an adverb, ambition, capacity, aspiration. عقلمندي - برتن - حوصلہ (محاورہ فارسي ميں)

ظرفاء (*pl.* of ظريف). جمع ظريف کي

ظروف (*pl.* of ظرف), vessels. جمع ظرف بمعني برتن کي

ظريف *a.* ingenious, polite, gallant, witty, jocose, elegant, in conversation. - عقلمند زيرک - خوش طبع

ظعائن (*pl.* of ظعينہ), litters used on elephants or camels in which rich men or Arabian ladies travel. جمع ظعينہ کي بمعني هودج

ظعان *n.* a rope used for tying a litter. وہ رسي جسے هودج کسيں

ظعن *m.* marching, travelling, walking. کوچ کرنا - سفر کرنا - سير کرنا

ظعين *m.* a traveller, a goer. - کوچ کرنے والا جانے والا

ظعينہ *f.* a lady sitting in a litter. وہ عورت جو هودج ميں بيٹھي هو

ظفر *m.* victory. فتح - فتحمندي

ظفر *m.* nail (of a finger). ناخن

ظفرہ *m.* a haw or web in the eye (*unguis*). آنکھ کي بيماري يعني ناخنہ جو آنکھ ميں پڑ جاتا هے

ظل *zill*, *m.* a shadow, an idea, thought, model, sample, part of a night, the prime of youth, severity of heat, a piece of cloud obscuring the sun, darkness, ظل also means heaven. - سايہ - خيال - نمونہ - رات کا ايک ٹکڑا - اول جواني - گرمي کي شدت - وہ ابر جو آفتاب کو چھپالے - رات کي اندھيري - بهشت کے معني ميں بھي آيا هے

ظل الله *zil-l-llah*, the shadow of God. (*met.*) a just kind. سايہ خدا کا - اصطلاح ميں بادشاہ عادل کو کهتے هيں

ظلال *zilal*, *m.* (*pl.* of ظل), shadows. جمع ظل بمعني سايہ کي

ظلام *zalam*, *m.* darkness of the first part of the night. اول شب کي تاريکي

ظلام *zilam*, (*pl.* of ظلمت), darkness. جمع ظلمت بمعني اندھيري کي

ظلام *zallam*, *m.* a great oppressor, an atrocious tyrant - بڑا ظلم کرنے والا - سخت ظالم مطلق ظالم کے معني ميں بھي آتا هے

ظل زمين *n.* the night. کنايہ رات سے

ظل ظليل *m.* a prolonged shadow, everlasting shadow. سايہ دراز اور کشيدہ - هميشہ رهنے والا سايہ

ظلف *zilf*, the cloven hoof (as that of a cow, goat etc.) (*pl.* اظلاف). چرا هو سم جيسے کھر هوتا هے

ظلف *zuluf*, *n.* hard things. سخت چيزيں

ظلف *zalif*, *n.* a high place, a hillock, a high mound. جاے بلند - اونچا ٹيلہ

ظلال *zulal*, *m.* canopies, clouds. - بهت سے سائبان - بهت سے ابر

ظلام *zalam*, *n.* darkness. تاريکي - تاريک هونا رات کا

ظلم *zalm*, *m.* water, snow, ice, whiteness of the teeth. پاني - برف - دانت کي سفيدي

ظلم *zulam*, (*pl.* of ظلمت), darkness. جمع ظلمت بمعني اندھيري رات کي

ظلمات (*pl.* of ظلمت). *f.* darkness, regions of darkness, a dark place where the water of immortality is said to be. جمع ظلمت کي تاريکياں

ظلماني *f.* not transparent, dim; dark. وہ شے جو شفاف نهو - تاريک

ظلمت *f.* darkness, obscurity. تيرگي - اندھيرا

ظلمہ *m.* (*pl.* of ظالم). جمع ظالم کي

ظلول *a.* shadowing. سايہ کرنا

ظلوم *a.* cruel, most oppressive, tyrannical. سخت ظالم - بڑا ظلم کرنے والا

ظلہ *zulla*, *m.* canopy, gallery, a cloud, a covering, anything shady. - سائبان - چھجہ ابر جو آفتاب کو چھپالے - وہ چيز جو سايہ کرلے

ظليف *a.* bad, worthless, unlevel ground, a hard task, hardship, difficulty. بد - خراب - خار - خوار - زمين سخت اور اونچي نيچي - کام سخت و دشوار - سختي - مشکل - رائگاں چيز

ظليل *f.* shady, affording shelter, covering. دائمي - سايہ - سايہ دار جگھہ - وہ چيز جو سايہ کرلے

ظليم *a.* oppressed, injured. مظلوم - جس پر ظلم هوا هو

ظما *zama*, *m.* thirst, being very thirsty. پياس - پياسا هونا

ظما (*pl.* of ظمان), thirsty ones. جمع ظمان بمعني پياسے کي

ظمان *a.* thirsty. تشنہ - پياسا

ظن *zann*, *m.* suspicion, jealousy, opinion, thought, idea, slander, false accusation. گمان - وهم - تهمت

ظنت *zinnat*, *f.* false accusation, slander. تهمت

ظنون (*pl.* of ظن), suspicions, thoughts, opinions. جمع ظن بمعني گمان کي

ظنون *zanun, m* suspicions, an old unaspiring man, a well having a little water. مرد بد گمان - مرد ضعيف اور كم حوصله - كنواں كم پاني كا

ظنين *a.* suspected, accused, supposed. وه شخص جس پر تهمت لگائي گئي هو

ظهار *m.* helping, supporting, a formula of repudiation, or saying what is tantamount to and has the effect of regular divorce, as "You are my mother," or "I sucked the same breast as you," a penance is requisite to do away the effect of such a speech. هم پشت هونا - موافق هونا - كهنا مرد كا اپني منكوحه عورت سے كه تو مجهپر مثل پشت ماں كے هے - شرع ميں اس كهنے سے مرد پر وه عورت حرام هو جاتي هے اور جب تك مرد كفاره نه دے حلال نهيں هوتي هے

ظهر *n.* the back. پشت - پيٹهه

ظهر *zahr, m.* back-ache. درد پشت - پيٹهه كا درد

ظهر *zuhr, m.* mid-day, or a little time after the sun has passed the meridian, when it is most sultry. زوال آفتاب كا وقت

ظهور *m.* appearing, arising, apparency, climbing, ascending. ظاهر هونا - چڑهنا

ظهير (both *sing.* and *pl.*) *m.* an assistant, associate, ally, a man who has got the backache. جمع اور مفرد دونوں هے - هم پشت - مددگار - پشت پناه - وه شخص جس كي پيٹهه ميں درد هو

ظهيره *m.* mid-day, noon. دوپهر كا وقت

ظيان *f.* wild jasmine, honey. جنگلي چمبيلي - شهد

ظئر *f.* a wet-nurse, a milk-nurse. دائي يعني آيا جو دوسرے شخص كے بچه كو دودهه پلاوے

— ع —

ع *'ain*, called *'ain-i-muhmala* or *'aini gair manquta*, is the twenty first letter of the Persian and the eighteenth of the Arabic alphabet. This letter is peculiarly Arabic or Semitic. It is of the class of guttural letters, being formed in the lower part of the throat, by a compression of the fauces stronger and deeper than that used in the formation of the *hamza*, or initial *alif*. In reckoning by ابجد it stands for 70.

عابد *m.* an adorer, a votary, a worshipper of God, a recluse. عبادت كرنے والا - پوجاري

عابر *m.* passing over, crossing over a passenger. راه سے گذرنے والا - پل پر سے اُترنے والا - پار دريا كے جانے والا

عاتق *f.* released, free, old wine, a large skin-bag, a young woman, a virgin, old things (inanimate) رسا شده - آزاد - پراني شراب - بڑي مشك - نوجوان عورت - وه عورت جس نے ابهي شوهر نه كيا هو - هر چيز پراني مگر غير جاندار

عاتي *a.* exceedingly rebellious, revolting or disobedient, very proud, arrogant. حد سے گذر جانے والا - سركش - نافرمان - مغرور - متكبر

عاج *m.* ivory, (sometimes it means) whiteness. هاتهي دانت - اور كبهي مراد سفيدي سے بهي هوتا هے

عاجز *a.* impotent, weak, exhausted, dejected, hopeless, submissive. ناچار جس سے كچهه نه هو سكے

عاجل *m.* one who is hastening, fleeting, *a.* transitory, agilee. (*met.*) the world. جلد باز - جلدي كرنے والا - مراد دنيا سے

عاجله *m.* not giving time, the world. بے مهلت - دنيا

عاد *'ad, n.* the Adites, the tribe of Ad were descended from Ad, the son of Aws, the son of Aram, the son of Sem, the son of Noah, who after the confusion of tongues, settled in all Ahqaf, or the winding sands in the province of Hadramaut, where his posterity greatly multiplied. The descendants of Ad in process of time falling from the worship of the true God into idolatry, God sent the prophet Hud (who is generally agreed to be Heber) to preach to and reclaim them. But they refusing to acknowledge his mission, or to obey him, God sent a hot and suffocating wind, which blew seven nights and eight days together, and entering at their nostrils passed through their bodies, and destroyed them all, a very few only excepted, who had believed in Hud and retired with him to another place. Before the Adites were thus severely punished, God, to humble them and incline them to hearken to the preaching of his prophet, afflicted them with a drought for four years, so that all their cattle perished,

and themselves were very near it; upon which they sent Luqman (different from one of the same name who lived in David's time) with sixty others to Mecca to beg rain, which they not obtaining, Luqman with some of his company stayed at Mecca, and thereby escaped destruction, giving rise to a tribe called the latter Ad, who were afterward changed into monkeys. Some commentators on the Quran tell us that these old Adites were of prodigious stature, the largest being 100 cubits high, and the least 60. هود پيغمبر كي قوم كا نام اور پهلا لوگ عاد بن سام بن نوح كي نسل سے تهے

عادات (*pl.* of عادت). جمع عادت كي

عادت *f.* habit, custom, usage. خو - خصلت

عادل *a.* just, sincere, upright. منصف - انصاف كرنے والا

عادي *a.* accustomed, addicted, passing, surpassing, transgressing, unjust, wicked relating to Adites. *m.* an enemy, tyrant. خو گرفته - هر چيز كي عادت هوجائے - جس كو كسي چيز كي عادت پڑگئي هو - منسوب طرف قوم عاد كے - منسوب طرف عادت كے - اور بمعني دشمن و ظالم

عاذر *m.* the scar of a wound, immoderate flux of the menses, an apologist, stool. زخم كا نشان - آدمي كا پاخانه - يعني گوه

عاذل *a.* reproaching, censuring, blaming, reviling. ملامت كرنے والا

عار *f.* bashfulness, modesty, reproach, disgrace, ignominy, shame, defect. شرم - عيب

عارض *m.* the general of an army, a muster-master, a commander, captain, an accident, a black cloud, the cheek, accident, cloud. - فوج كا بخشي - لشكر كا شمار كرنے والا - سالار فوج - لاحق هونے والا - ابر سياه - رخسارة اور بمعني مطلق ابر كے بهي -

عارضه *m.* any thing necessary to be done, an accident, an event, an obstacle, impediment, sickness, sorrow, grief, (*pl.* عوارض). حاجت - رنج - بيماري - جمع عوارض هے

عارضي *f.* accidental, not innerent, adventitious, casual. لاحقي جو اصلي نهو

عارف *a.* wise, sagacious, ingenious, patient. *m.* a holy man. پهچاننے والا - جاننے والا - صبر كرنے والا - ولي خدا

عارفه *f.* a wise woman, a patient woman, a holy woman. پهچاننے والي - صبر كرنے والي عورت - عورت

عاري *a.* naked, free from, void of. - خالي - ننگا برهنه

عاريت *f.* borrowing any thing which is itself to be returned, it differs from قرض inasmuch as in the latter term, it is not understood that the identical articles are returned, but simply their equivalent. مانگنا - مانگ كر كوئي چيز ليني - كوئي چيز مانگے ديني

عازم *m.* applying the mind to an undertaking, intending, determining. قصد اور ارادة كرنے والا

عاسل *m.* one taking out honey. شهد نكالنے والا

عاس *m.* a very old man. بهت بوڑها آدمي

عاشر *m.* } the tenth. دسواں حصه
عاشرہ *f.* }

عاشق *m.* a lover, an inamorato. - عشق ركهنے والا چاهنے والا

عاشورا }
عاشوراہ } *m.* the tenth of Muharram. دسويں تاريخ ماه محرم كي

عاصف *n.* heavy storm of wind, a stormy day. تيز آندهي - وه روز جس ميں سخت آندهي چلے

عاصفه *m.* a stormy wind, a storm, (*pl.* عواصف). بهت تيز هوا - وه روز جس ميں تيز آندهي چلے - جمع عواصف

عاصم *a.* virtuous, protected, safe. *m.* keeper, observer, guardian. - نگاه ركهنيوالا - باز ركهنيوالا

عاصي *a.* disobedient, criminal, rebellious, sinful. *m.* and *f.* a rebel, a sinner, a black cloud which may not rain. - گنهگار - مجرم خطا كار - نافرمان وه ابر سياه جو برسے نهيں

عاطر *a.* odoriferous, benevolent, generous. خشبو دار - فياض

عاطف *a.* kind, benevolent, loving, turning. مڑنے والا - مهرباني كرنے والا

عاطفت *f.* kindness, benevolence, affection مهرباني كرنا - مهرباني

عاطل *a.* naked, empty, void, useless, worthless. برهنه - خالي - بيكار

عاف *m.* forgiving. خطا معاف كرنے والا

عافيت *f.* health, safety, ease, comfort. آرام

عافين (*pl.* of عاف), forgiving people. جمع عاف كي - معاف كرنے والے خطاؤں كے

عاق *a.* disobedient, rebellious (children). سوتيلے ماں اور باپ كے ساتهه

عاقب *m.* a deputy, a substitute, viceregent پيچهے آنے والا - وه شخص جو كسي كا نائب هو

عاقبت *f.* the end, conclusion, success. *adv.* finally, at last. آخر - انجام

عاقر m. and f. barren, impotent. بانجھ جس کے لڑکا پیدا نہو مرد ھو خواہ عورت اس میں مذکر و مونث برابر ھے

عاقل a. wise, sensible. m. a sage. - عقلمند - زیرک - دانا

عاقلہ f. a wise woman, etc عقلمند عورت

عاکف a. assiduous, diligent, one who sits in devotion in a corner of a mosque. گوشہ نشین - مسجد میں ایک گوشہ کے اندر عبادت کے لئے بیٹھنے والا

عاکفان (pl. of عاکف). جمع فارسي ھے عاکف کي

عاکفین Ar. pl. of عاکف. جمع عربي ھے عاکف کي

عالم m. the world, the universe, time, state, condition, people, mankind in general. جو چیز کے سوائے خدا تعالی کے ھے وہ عالم ھے - جہان - مخلوقات - فارسي محاورہ میں بمعني حالت و صورت کے بھي

عالم 'alim, a. sage, intelligent, learned. جاننے والا - علم والا - پڑھا ھوا

عالم آب m. intoxication (of wine). کنایہ ھے نشہ شراب سے

عالم اسباب m. the world. کنایہ دینا سے

عالم آرا m. world-adorning. دنیا کا آرائش دینیوالا

عالم افروز m. world-illumining, the sun. مراد آفتاب سے

عالم برزخ n. death, the region of spirits. موت - قیامت کے درمیان روحوں کے رھنے کا مقام

علم معني f. the spiritual or invisible world. وہ عالم جو محسوس نہوسکے

علم ناسوت m. the transitory world. - عالم فاني دنیا

عالم حیواني m. the world of the bodies. عالم اجسام کا

عالم گرد
عالم نورد } a. world traversing, a great traveller. بڑا سفر کرنے والا

عالمي a. worldly, mundane, existing in this world. عالم کا رھنے والا - دنیا کا

عالمیاں (pl. of عالمي), people of this world, men, mankind in general. - جمع ھے عالمي کي - اس دنیا کے لوگ - آدم زاد

عالي a. high, sublime, eminent, grand. بلند - برتر

عالیجناب
عالي قدر
عالي حضرت } high in rank, station, etc. بلند درگاہ - بلند مرتبہ

عام 'am, m. a year. برس - سال

عام 'amm, a. common, public, plebeian, the vulgar, the common people, famous, spreading. پھیلا ھوا - مشھور - نک کو گھیرے ھوئے آدمي عام ضد خاص کا

عامر
عامرہ } n. inhabiting, populating, abundant, royal, imperial, name of a tribe. آباد کرنے والا - آباد - بني عامر قبیلہ کا نام

عامل m. an agent, a ruler, a governor, a superintendent of the finances, a collector of the revenues. - حاکم - عمل کرنے والا کاریگر

عامل دریہ
عامل کان } m. the sun. کنایہ آفتاب سے

عامہ 'amma, m. famous, common. - مشھور - عام - ضد خاصہ

عامي a. ignorant, foolish, vulgar. - ناخواندہ جاھل

عاند m. an enemy, opposing, resisting. - دشمن عناد رکھنے والا

عانہ m. the belly below the navel, the pubes. پیڑو

عاہات f. adversities, misfortunes, calamities. آفتیں - سختیاں

عاھت f. adversity, trouble, misfortune, calamity. آفت - بلا - سختي

عاھث n. frolicsome, given to pranks. کھیل کود کرنے والا

عاھر m. an adulterer, a fornicator, libidinous. حرامکار - زنا کرنے والا

زعاھل a husbandless woman, a widow. وہ عورت جس کے شوھر نہو

عاھن m. poor, needy, sluggard, lazy. - محتاج - مردسست و کاھل

عائب m. vicious, faulty, infamous. عیب کرنے والا - عیبي

عائد a. turning towards, happening, referring to, coming back, being restored (as money lent, etc.) returning. - ألٹ کرنے والا عود کرنے والا

عائق a. restraining, intervening. m. a forbidder, a preventer. روکنے والا - حائل - مانع

عائل m. a mendicant, a fakeer, a dervesh. فقیر درویش

عائلي f. devoteeism, poverty. فقیري درویشي

عب 'ubb, n. a sleeve. آستین

عبا m. a kind of cloak or habit worn by darweshes. کملي - نام ایک لباس خاص کا

عباد 'ibad, (pl. of عبد), servants of God. جمع عبد کي خدا کے بندے

عباد 'ubbad, (pl. of عابد), holy men, saints جمع عابد کي عبادت کرنے والے

عبادت f. divine worship, adoration. - پوجا بندگي

عبارت *f.* style (in writing,) speech, word, dialect, idiom, a trope, or figure, a phrase. بیان - بات بیان کرنا

عباس *m.* a lion, name of *Muhammad's* uncle, name of Ali's son who was martyred in *Karbala*, name of a plant, marvel of Peru (*Mirabilis jalapa*). شیر درندہ - محمد کے چچا کا نام - علي کے صاحبزادے کا نام جو کربلا میں شہید هوئے - نام ایک پودے کا

عباسیان *f.* descendant of 'Abbas, *Muhammad's* uncle. عباس کے چچا کي اولاد

عبث *a.* vain, idle, absurd, trifling, profitless *adj* in vain, uselessly. بے فائدہ - بیهودہ

عبد *m.* a servant (of God), a devotee, a slave. بندہ - غلام

عبدالمطلب *m.* the name of *Muhammad's* grandfather. محمد کے دادا کا نام

عبدالمناف *m.* the name of *Muhammad's*, great grandfather. نام محمد کے دادا کے دادا کا

عبدالجنۃ *m.* the nightmare. کابوس جس سے آدمي سوتے میں ڈرتا هے

عبدہ (*pl* of عابد), devotees, worshippers, adorers. جمع عابد کي عبادت کرنے والے

عبر *'abr, f.* interpretation of a dream, fore telling. خواب کي تعبیر کہنا - انجام کي خبر دینا

عبر *'ubr, f.* everything in abundance, a party, group, collection, name of a tribe, a woman whose son is dead. - هر چیز بہت - گروہ نام قبیلہ کا - وہ عورت جس کا فرزند مرگیا هو

عبر *'abar,* } *m.* shore, a landing place, a
عبر *'ubar,* } quay, wharf.

عبر *'ibr,* a custom, collected on a landing-place, tax. محصول جو کشتي سے اُترتے هوئے اور دریا سے پار جاتے هوئے لیا جاتا هے

عبر *'ibar,* getting a warning, weeping. عبرت پکڑنا - رونا

عبرت *f.* an example, warning. (*met.*) fear. اندیشہ - نصیحت پکڑنا

عبرہ *m.* a custom collected from the passengers of a boat or ship, a passport, a permit, passing, crossing (a river). (*met.*) a tax, poll tax. وہ محصول جو کشتي اور جہاز کے مسافروں سے لیا جائے - راهداري کا محصول - بمعني عبور کے بهي آتا هے - کبهي مجازاً بمعني خراج ملک کے بهي آتا هے

عبري } *f.* Hebrew, Hebraic. زبان اهل
عبراني }
کنعان کي

عبق *f.* fragrant, aromatic. خوشبو دار چیز

عبقري *f.* fine and rare garment, every thing fine. هر لباس - لطیف جو عجیب و غریب هو - هر چیز جو نفیس اور عمدہ هو

عبودیت *'ubudiyat, f.* servitude, devotion, subjection, reverence. بندگي - غلامي

عبور *'ubur, m.* passing, crossing (a river), a ford or pass. - راہ سے گذر جانا - پل کے پار جانا دریا کو اُترجانا

عبوس *'abus, a.* cynical, morose, surly, stern, hard favoured, ugly ترش رو - بد خلق

عبوست *'ubusat, f.* cynicism, surliness. ترش روئي

عبہر *'abhar,* the narcissus. زرد نرگس

عبید *m* many slave. بہت سے غلام

عبید *'ubaid, m.* a slave, servant, devotee. چهوٹا غلام

عبیر *'abir,* ambergris, saffron, or any other grateful perfume, a perfume made of musk, sandal, rose and saffron and sprinkled on clothes. نام ایک خشک خوشبو کا جو مشک اور صندل اور گلاب اور زعفران ملا کر بناتے هیں اور کپڑوں پر چهڑکتے هیں

عتاب *m.* reproach, rebuke, anger, displeasure, fondling. - ملامت کرنا - غصہ کرنا - ناز کرنا خفگي - غصہ - ناز

عتاد *n.* preparation (for a journey), luggage, goods. سفر کي تیاري - اسباب سفر کا

عتاق *'itaq,* manumission of a slave. آزادہ هونا لونڈي و غلام وغیرہ کا

عتاقت *f.* emancipation, manumission, liberation. آزاد هونا

عتب *a.* getting angry, expressing anger or displeasure. غصہ کرنا - خفگي ظاهر کرنا

عتبہ *m.* threshold, a *fakir's* residence. - دهلیز آستانہ - چوکهٹ

عتبات *f.* thresholds, adversities, calamities. چوکهٹیں - سختیاں - بلائیں

عترت *f.* children, kindreds, dear ones. - اولاد یگانے - عزیز

عتق *f.* freedom, liberation, manumission. آزادي - آزاد هونا

عتل *m.* a glutton, a monstrous eater, a tyrant, a stern voice. - بہت کهانے والا - ظالم سخت آواز

عتو *'utu, n.* rebellion, سرکشي

عتید *f.* present, supply. حاضر - موجود - مهیا

عتیق *a.* old, honourable, great, selected, chosen, free. پرانا - بزرگ - برگزیدہ - آزاد

عثار } *adv.* falling headlong, falling
عثرات } precipitately. سر کے بل گرنا

عثر *a.* falling down. گرپڑنا

عثرت f. a slip, a stumble, an error, falling headlong, (pl. عثرات) لغزش - سر کے بل گرنا

عجاب a. rare, wonderful, a surprise. - انوکھا تعجب

عجاج m. clouds of dust, dust, vapour. - گرد غبار

عجادات f. seeds of a grape. انگور کے دانے

عجان n. weak or thin people. دبلے اور لاغر لوگ

عجالت f. haste, speed, anticipation. جلدي کرنا

عجائب (pl. of عجيب), wonders, curiosities. جمع عجيب کي - عجيب چيزيں

عجائز (pl. of عجوز) old women. - جمع عجوز کي بڑھيا عورتيں

عجب *'ajab*, a. wonderful, rare, etc. - تعجب انوکھا پن

عجب *'ajb*, m. pride, haughtiness, selfishness. تکبر - غرور - خود بيني

عجب n. proud. مرد متکبر - صاحب غرور

عجز *'ajz*, } m. weakness, impotence, submis-
عجز *'ijz*, } sion, wretchedness. - عاجز هونا ناتواني - عاجزي

عجز *'ajz*, m. the backside, buttock, hip چوتڑ - هر چيز کا پيچها

عجزة (pl. of عاجز). جمع عاجز کي

عجف *'ajaf*, weakness, thinness, leanness. لاغري - دبلاپا

عجيف *'ajif*, a. weak, lean, thin لاغر - دبلا

عجل m. a calf, young of a cow, name of a tribe. بچھڑا - نام ايک قبيلہ کا

عجيل *'ajil*, m. a runner. دوڑنے والا

عجلت f. haste, speed, velocity. شتابي - جلدي

عجم *'ajm*, n. the act, art or system of punctuating a writing, punctuation, using the vowel points. حرفوں پر نقطے دينا - حرفوں کے اعراب

عجم *'ujm*. barbarous, blunt, Persians, all people not Arabian, the dumb, the dumb inhabitants. گونگي زبان لوگ - ملک عجم کے باشندے - گونگے لوگ - گونگے باشندے

عجم *'ajam*, m. countries not Arabian, Persian, all people not Arabian, seeds or stones of dates, grapes, etc. وہ ملک جو سواے عرب کے هو خصوصاً بمعني ايران و طوران اور مردم غير عرب کو بهي کهتے هيں - چهوهارے اور انگور اور هر چيز کي گٹهلي اور تخم

عجمي a. Persian, barbarian. مراد ايراني اور فارسي سے هے

عجين m making yeast. آٹے وغيرہ کا خمير کرنا

عجوز f. an old woman. بڑھيا - بوڑھي عورت

عجول *'ajul*, a. hasty, quick, expeditious, distressed, confounded. حيران - بهت دوڑنيوالا

عجه *'ujja*, } m. omelet, fried eggs, a kind
عجه *'ajja*, } of dish made of eggs. مرغيوں کے انڈے کا کهانا جو تلا جاتا هے

عجيزة m. impotent, one destitute of the power of begetting children. نامرد - جو جماع پر قادر نہ هو

عجيل a. hasty, quick, expeditious. - باشتاب جلدي کرنے والا

عجين n. yeast, paste, plaster. خمير

عد *'add*, counting, numbering. شمار کرنا - گننا

عدا (pl. of عدو), enemies. جمع عدو بمعني دشمن کي

عداة (pl. of عادي), enemies, tyrants, the rebellious. جمع عادي - ظالم کرنے والے - حد سے گذر جانے والے - دشمن

عداد m. number, gift, time of death. - شمار بخشش - وقت موت

عدالت f. a court of justice, law, equity, equality. انصاف - برابري - عدل هونا - لايق گواهي کے هونا - مجازاً بمعني انصاف کي کچهري کے بهي

عداوت f. enmity, hatred, strife. دشمني

عدت *'iddat*, f. numbering, counting, the time of probation which a divorced woman must wait before she can be remarried, for a divorced woman it is three months, for a widow, 4 months ten days, for a pregnant woman as soon as she has given birth to a child. شمار - گنتي - وہ مدت کہ جس ميں عورت بعد طلاق کے دوسرا شوهر نہ کرسکے - يهہ مدت طلاق والي کے لئے تين مهينہ - بيوہ کيلئے چار مهينہ اور دس روز - اور حاملہ کے لئے جب لڑکا پيدا هو جائے

عدد number. گنتي - شمار - هندسہ

عدس m. a kind of pulse (*Ervum hirsutum* or *Cicer lens*). مسور مشهور غلہ هے

عدل m. justice, equity, a. just, virtuous, (law) one worthy of a witness, a proverb, saying, maxim, like, simile. - برابر کرنا انصاف - انصاف کرنے والا - نيک مرد - جو شرعاً گواهي کے لايق هو اور بمعني مثل - نظير - مانند

عدم *'adam*, m. non-existence, non-entity, nothing, privation, cessation, discontinuance, forbidding. - نهيں - نفي - نهونا - نيستي - فقيري - کم کرنا - منع کرنا

عدم *'udim*, m. poor, needy. فقير - محتاج

عدن f. Eden, Paradise, place for eternal residence, settling permanently in a place. جگہ هميشہ رهنے کي - بسنے جگہ ميں هميشہ رهنا - بهشت کے باغ جس ميں بهشتي لوگ هميشہ رهينگے

عدن *'adan*, *f.* name of a town in the south of Arabia which produces fine and costly pearls, Aden. نام ايک جزيرہ کا حدود يمن جہاں سے موتي عمدہ حاصل ہوتا ھے

عدو *m.* an enemy, a foe. دشمن - بيري

عدوان enmity, tyranny, oppression, cruelty, (also *pl.* of عادي, an enemy, a tyrant) دشمني کرنا - ظالم - ستم اور جمع عادي بمعني دشمن و ظالم کي

عدول *'udul*, *m.* declining, refusing, disobeying, revolting, (also *pl.* of عادل). پھر جانا راہ سے - رو گرداني کرنا - سرتھہ پھير لينا - اور جمع عادل کي بھي ھے

عدول *'adul*, *m.* a truthful witness, a truthful man, one who is abstinent, good and just. گواہ مقبول آدمي - پرھيزگار نيک مرد - بڑا عادل

عدوہ *m.* bank, shore, edge. ندي اور دريا کا کنارہ

عدوہ *'udoh*, *n.* a distant place. جاے دور

عدوہ *'idoh*, *n.* a high place. بلند جگہہ -

عديل *a.* alike, equal (in rank or position), just, equitable. *m.* a distributor of justice, two men sitting on both sides of a camel's litter one is the عديل of the other. قدر اور مرتبہ ميں برابر - وہ دو شخص جو ايک انباوہ ميں دونوں طرف بيٹھيں ھر ايک دوسرے کا عديل ھا

عديم *a.* destitute, deprived, incomparable not to be found, poor, ignorant, mad. نا پيدا - گم - ناياب - فقير - نادان - ديوانہ

عذاب *m.* pain, misfortune, torment, martyrdom, punishment. دکھہ

عذاب الحريق *m.* torture of hell. عذاب دوزخ

عذار *m.* the face, the cheeks. چہرہ - رخسار

عذب *m.* sweet and tasty water, palatable food, name of a tree. - پاني ميٹھا اور خوش مزہ خوش مزہ اور شيريں کھانے کي چيز - نام درخت کا

عذب *'azib*, *m.* water on which green scum is formed. پاني جس پر کائي جمي ھو

عذر *m.* excuse, apology. بہانہ - معذور رکھنا

عذراء *f.* a virgin, name of Wamaq's mistress, the sign Virgo, an unstringed pearl کنواري لڑکي - بن بدھا ھوا موتي - نام وامق کي معشوقہ کا - نام برج سنبلہ کا کہ وہ لڑکي کي شکل پر ھے

عذرزنان *m.* menstruation, the monthly discharge of a woman. کنايہ حيض سے

عذر لنگ *m.* a lame excuse. بہانہ - سست اور ضعيف جو قابل قبول کرنے کے نہو

عذرہ stool, dung, the excrement of animals. آدمي اور چوپايہ کا

عرا *m.* a court, a court yard. درگاہ - مکان کا صحن

عراد *m.* a jungle in which even grass doesn't grow, a barren land. وہ جنگل جس ميں گھاس تک نہو

عرات *m.* (*pl.* of عاري), the naked, bare. جمع عاري بمعني ننگے و برھنہ کے

عرادہ *'arrada*, *m* a small warlike engine for flinging stones, a ballista. چھوٹا منجنيق جس ميں پتھر رنھہ کر گھما کر دشمن کو مارتے ھيں

عراضہ *m.* a gift, a present, a choice gift for a friend. کسي قسم کا تحفہ جو مسافر اپنے دوستوں کے واسطے لاوے

عراق *n.* name of a territory between Persia and Arabia, which is divided into two portions, *viz* عراق عرب the ancient Babylonia or Chaldea, and عراق عجم comprehending Medea. عراق عرب اور عراق عجم

عراقين (dual. of عراق), the two *Iraqs*, the cities of Basra and Kufa. عراق کا تثنيہ ہے يعني عراق عرب اور عراق عجم - کبھي اس لفظ سے مراد کوفہ اور بصرہ ھوتي ھے

عراک *m.* collecting, gathering, crowding. انبوھي کرنا

عراک *'arrak*, *m.* one who pulls (twists rubs or boxes the ears), a fighter. - حوب ملنے والا گوشمال دينے والا - کان اينٹھنے والا - جنگ کرنے والا

عرائس (*pl.* of عروس), a spouse in general, a bride. جمع عروس کي عورت ھو يا مرد جس کي ابھي شادي ھوئي ھو - مگر اکثر اطلاق اس کا نئي دلہن ھي پر کرتے ھيں

عرب *m.* Arabia, an Arabian. - ملک مشہور ھے اور اس ملک کے شہروں کے رھنے والوں کو بھي عرب کہتے ھيں

عربان (Pers. *pl.* of عرب), the Arabians. جمع فارسي عرب کي ھے يعني وہ لوگ جو باشندے شہر کے ھيں ملک عرب سے

عربدہ *m.* a conflict, dispute, battle, antipathy, ill-temper. لڑائي - جنگ - بدخوني

عربستان *m.* the land of the Arabs, also a province of Persia so called. عرب کا ملک

عربي *f.* } of or belonging to Arabia, the
عربيہ *m.* } Arabic language, etc. منسوب طرف عرب کے

عرج *f.* born-lameness, lameness. - لنگڑا ھونا پيدايشي لنگڑا پن

عرجون *n.* a dry and crooked branch of a date tree, etc. خرما وغيرہ کي شاخ خشک و کج

عرخو braking of a dog or frowing of a cat in rags. کتے کے بھونکنے کي اور بلي کے غرانے کي آواز بروقت غصہ کے

عرس 'irs, f. a spouse, a woman who has got a husband. خاوند والي عورت - زن شوهر دار

عرس 'urs, عرس 'urus, } m. a marriage feast, oblations, offerings to a saint. (met.) a festival held a year after the death of a saint or a great man on the day he was dead. - طعام عروسي - شادي كا كهانا مجازاً اس كهانے كو بهي كهتے هيں جو كسي بزرگ كے روز وفات سال بهر كے بعد فاتحه دلوا كے تقسيم كرتے هيں

عرش 'arsh, m. a roof, a throne, the ninth heaven where the throne of God is. - تخت چهت

عرشيان m. the angels. مراد فرشتے سے

عرصه m. a plain, an area, a court, a chess-board. (met.) time, while, interval. - ميدان مكان كا صحن - بساط شطرنج كي - مجازاً بمعني فاصله

عرصات (pl. of عرصه), the judgment day. جمع عرصه كي اور بمعني قيامت

عرض 'arz, f. request, a petition, breadth, goods, reproach, madness. ظاهر كرنا كسي چيز كا كسي شخص پر - چوڑان - اسباب گهر كا - ملامت - ديوانگي

عرض 'araz, f. an accident, anything that befalls one, disease, complaint, sickness. وه چيز جو دوسري چيز كے سبب سے قائم هو - وه بيماري جو بسبب كسي مرض كے هو جيسے درد سر كا بسبب تپ كے هو

عرض irz, m. honour, fame, reputation, the body. ناموس - آبرو - عزت - جسم - بدن - جسد

عرض n. part, side, edge. جانب - طرف - كناره

عرض بيگي m. the person who presents all petitions either written or by word of mouth before a king. وه شخص جو لوگوں كي حاجتوں اور سوالوں كو بادشاه سے عرض كرے

عرض سمر f. pleasure of life, enjoyment, luxury. كفايه زندگي كي لذت سے

عرض گاه m. a muster of troops. ميدان شمار فوج كا

عرضه 'urza, m. courage, fraud, trick, excuse, love, affection, also a shield, scabbard همت - حيله - بهانه - محبت اور بمعني ڈهال كے بهي مستعمل هے

عرعر m. the pine tree (Pinus longifolia).

عرف known (the name by which a person or thing is generally called or known), equivalent to our terms, "commonly called," "alias" etc, recognition, goodness, favour مشهور - پهچان - نيكي - احسان

عرف 'arf, a good smell, perfume, odour. بوے خوش - خوشبو

عرفا 'arafa, (pl of عارف), the ingenious, the intelligent judges, magistrates. - پهچاننے والا جاننے والا

عرفات n. name of sacred hill, some twelve miles from Mecca, where the pilgrims halt. نام ايک پهاڑي كا جو مكه سے قريب باره ميل پر واقع هے

عرفان f. wisdom, knowledge, (also means) shame. پهچاننا - ليكن بمعني پهچاننے اور معرفت خدائے تعالى كے مستعمل هے - اور بمعني شرم و حيا كے بهي آيا هے

عرفه m. the ninth of Zil-hajja (the last month of the Muhamadan year) on which the Hajis stand in the plain of Arafat. نويں تاريخ ذالحجه كي اور يهه تاريخ حاجيوں كے كهڑے هونے كي هے مقام عرفات ميں

عرفي m. name of a Persian poet تخلص مشهور شاعر كا

عرق 'irq, f. a vein, a sinew, a slender root of a tree, a barren land. - نس - بدن كي رگ درخت كي باريک جڑ - زمين شور جس ميں كچهه نه اُگے

عرق 'araq, m. sweat, perspiration, sap, juice, essence, spirit. جسم كا پسينه وه پاني جو دواؤں كے بخار سے حاصل هو

عرق 'irq, m. milk which has lost its flavour. وه دودهه جس كا مزا بگڑ گيا هو

عرق بهار m. essence of the flowers of an orange or citron tree, wine. نارنج و ترنج كے پهولوں كا عرق - شراب

عرق چين n. a skull-cap, a handkerchief. پگڑي كے نيچے كي ٹوپي - رومال

عرق ريز m. a servant, oppressed, ashamed, shamefulness. - خدمتگار - خادم - جفاكش شرمنده - شرمندگي

عرق ريختن id. to try hard, to be ashamed. بڑي كوشش كرنا - شرمنده هونا

عرق كردن id. to be ashamed. شرمنده هونا

عرق مدني f. the guinea-worm. نام مرض جس كو رشته (فارسي) كهتے هيں اور هندي ميں ناروا

عرقيه m. a small handkerchief used for wiping perspiration. چهوٹا رومال جس سے پسينه پونچها كرتے هيں

عرم f. bank (raised to separate fields or stopping water), a border, a dam or dyke. پاني كے روک كي مينڈ

عروب f. a woman much loved by her husband, a woman loving her husband much, a woman of smiling countenance. وه عورت جس كے ساتهه اُس كا شوهر بهت محبت ركهتا هو - وه عورت جو اپنے شوهر كے ساتهه بڑي محبت ركهتي هو - وه عورت جو خنده پيشاني اور خنده رو هو

عروج *m.* ascent, rising. چڑھنا - بلند هونا

عروس *'arus, f m.* bridegroom, bride, a spouse in general. دولها - دلهن - مگر عرف میں اکثر اطلاق اس کا دلهن هي پر هوتا هے

عروس سان بهاري flowers and greenness of spring. کنایه گل اور سبزه وغیره سے جو فصل بهار میں هوں

عروس جهان *m.* the moon. مراد چاند سے

عروس عدن *m.* the moon and the night. کنایه چاند اور رات سے

عروس عرب *m.* a square building, the temple of Mecca کعبۀ شریف

عروسک *f.* dolls, a child's puppets, a kind of apricot. گڑیاں جن سے لڑکیاں کهیلتي هیں - نام میوه کا زرد آلو کي قسم سے

عروسي *f.* a marriage feast, nuptial. شادي نکاح کي

عروض *f.* versification. *m.* Mecca and Medina, with their adjacent territory. نام علم شعر کا

عروض *'uruz,* requesting manifestation. ظهور - عارض هونا

عروق *'uruq,* (*pl.* of عرق), veins, sinews, etc., slender roots of a tree. جمع عرق کي - بدن کي رگیں - درخت کي باریک جڑیں

عروه *m.* a handle. هر چیز کا دسته جو هاتهه سے مضبوط بکڑ سکیں

عروة الوثقى *m.* a firm grip or grasp. مضبوط گرفت

عریاں *m.* naked, bare, stripped, deprived or void of. برهنه - ننگا

عریش a camel's litter ; a bamboo screen on which the vine creeps. هودج - ٹٹي جس پر انگور کي شاخیں پڑي رهتي هیں

عریض *a.* large, broad, wide, expanded چوڑا

عریضه *m.* a petition, memorial. عرضي - عرض کیا گیا

عریکه *m.* nature, disposition, bump of a camel. طبیعت - اونٹ کي پیٹهه کا وهڑ

عز *'izz, m.* glory, dignity, grandeur, *a.* rare, excellent, glorious. عزت - ارجمندي

عز superiority, conquest, assault, heavy rain. غلبه - باران سخت

عزا *'aza, m.* complaint, condolence, lamentation. ماتم پرسي - شکایت کرنا - مصیبت پر صبر کرنا

عزى *'uzza,* Al Uzza, as some affirm, was the idol of the tribes of Quraish and Kinanah, and part of the tribe of Salim, others tell us it was a tree called the Egyptian thorn, or acacia, worshipped by the tribe of Ghatiaan first consecrated by one Dhalim, who built a chapel over it, called Boss, so contrived as to give a sound when any person entered. Khalid Ibn Walid being sent by Muhammad in the eighth year of the Hijra, to destroy this idol, demolished the chapel, and cutting down this tree or image, burnt it, he also slew the priestess, who ran out with her hair dishevelled, and her hands on her head as a suppliant. The name of this deity is derived from the root *azza,* and signifies the *most mighty.* ایک بت کا نام جو درخت تها جس کو خالد ابن ولید نے جلا دیا اُسے عربي لوگ پوجتے هیں

عزازیل *m.* Satan, the devil, whom Muhammad names Iblis, from his *despair,* was once one of those angels who are nearest to God's presence, called *Azazil,* and fell, according to the doctrine of Quran, for refusing to pay homage to Adam at the command of God. شیطان کا نام جو نافرماني کے سبب سے نکال دیا گیا

عزائم *m.* charm, incantation for calling genii and fairies, verses from Quran read for the cure of a disease, devine duties منتر - اور افسوں اور دعائیں جو واسطے حاضر هونے جنوں اور پریوں کے پڑهیں - قرآن مجید کي آیتیں جو واسطے بیماروں کي شفا کے پڑهتے هیں - فرائض خدا کے جو اپنے اپنے بندوں پر واجب کئے هیں

عزب *'azab,* unmarried person, a woman without a husband. مرد مجرد جس کے جورو نهو - زن بے شوهر

عزت *f.* grandeur, power, honour, respect, glory. حرمت

عزرائیل *m.* the angel of death, who separates men's souls from their bodies. ملک الموت جو روحوں کو قبض کرتا هے

عزل *m.* removal from office, retiring. بیکاري - بیکار کرنا - جدا کرنا

عزل *'azal,* becoming armless. بے هتیار کا هونا

عزل *'uzul, m.* an armless man. بے سلاح - بے هتیار والا

عزلت *f.* retirement (from office, etc.), dismissal, discharge, sitting separate from wife and children for devotion. گوشه نشیني زن فرزند سے هو کر بیٹهنا عبادت کے لئے

عزم *m.* design, intention, purpose, revolution, undertaking. اراده - قصد - کسي چیز پر قصد دلي کرنا

عزمات (*pl.* of عزم). جمع عزم کي

عزوجل *'azz-wa-jall*, *Ar. phr.* "He is honoured and glorified," *i. e.* God, the Almighty. غالب هوا اور بزرگ هوا - يعني خدا

عزوم *f.* an old she-camel, an old woman. بوڑهي اونٹني - بڑهيا عورت

عزهات *a.* impotent. سست جس كي قوت باه جاتي رهي هو

عزير *'uzir, m.* name of a prophet. نام ايک پيغمبر كا

عزيز *a.* dear, excellent, beloved, surpassing, noble. *m.* a worthy or pious, personage, a great man, a saint, a title of the king of Egypt, formerly it was a title of the Egyptian ministers. قادر - نمياب - غالب كسي پر - ارجمند - مرغوب - پيارا - اب لقب بادشاه مصر كا هے - زمانه قديم ميں يهه لقب مصر كے وزيروں كو ملا كرتا تها

عزيم *m.* a bitter enemy, a deadly foe. دشمن قوي - سخت دشمن

عزيمت (V. عزم), design, purpose, charm, spell, verses used in spells, a divine duty. قصد دلي - اراده - خدا كا فريضه - دعا - منتر - افسون

عسار *n.* poverty, indigence. درويشي - مفلسي

عسارت *f.* difficulty, distress, poverty. - سختي دشواري - تهيدستي

عساكر (*pl.* of عسكر), armies, troops. جمع عسكر بمعني لشكر كي

عساله *m* a bee, a honey-comb. - شهد كي مكهي شهد كا چهتا

عسجد *m.* gold, pearl, sapphire, etc. - زر - سونا جواهر مثل موتي وغيره كے

عسر *f.* difficulty. دشواري

عسر *'asir*, difficulty, (used only in Arabic phrase). دشوار - مشكل

عسرت *'usrat, f.* difficulty, distress, poverty. تنگي مفلسي - دشواري

عسس *'asas*, (*pl.* of عاس), the patrol, the night watch, a police officer. وه شخص جو رات كو شهر كي حفاظت كرے - كوتوال

عسقلان *n.* name of a city in Syria. نام شهر كا شام ميں

عسكر *m.* an army, force, troop, anything in abundance, darkness (of the night), a quarter in *Neshapur*, name of a town in *Samirra*. - لشكر - فوج - هر چيز جو بهت هو تاريكي رات كي - نام محله كا نيشا پور ميں - نام سامره كے ايک قصبه كا

عسل *'asal, m.* (honey of bees or of dates). شهد

عسل *'asl, a.* mixing honey in a dish, praising much, marrying a woman. كهانے ميں شهد ملانا - كسي كي خوب تعريف كرنا - عورت كا نكاح كرنا

عسن *'usun, n.* old grease or fat. پراني چربي

عسن *'usn, n.* fatness, strength. فربهي - موٹاپا

عش *'usshu, m.* a bird's nest. آشيانه يعني پرند كا گهونسلا

عشاء *'isha, f.* the first watch of the night, the prayers said when going to rest. تاريكي رات كي جو وقت نماز كا هے - اور اس نماز كو بهي عشا كهتے هيں

عشاء *'isha, m.* supping, supper, treating with a supper. وه كهانا جو شام كو كهاتے هيں

عشا (without a *hamza* (ء) it means night-blindness. بغير همزه كے - شب كوري - رتوندي

عشاق *'ushshak*, (*pl.* of عاشق), lovers, a mode of music. جمع هے عاشق كي - نام ايک راگ كا جو دو گهڑي دن رهے گاتے هيں

عشائر (*pl.* of عشير), tribes, families جمع عشيره كي - كنبے - قبيلے

عشب *f.* green grass. هري گهاس

عشرة *'ashr*, taking the tenth part of a thing. كسي چيز ميں سے دسواں حصه ليناْ

عشره *'ushr*, the tenth part, a tithe, ten sentences of Qurán. دسواں حصه - دس آئتيں قران كي

عشر *'ushar, m* curled flowered gigantic swallowort (*Asclepias gigantea*), celebrated among native practitioners for its many medicinal qualities, all herbs which produce milk. ايک درخت كڑوا قاتل جسے آک اور مدار كهتے هيں - هر نبات كو بهي كهتے هيں جس ميں سے دودهه نكلے

عشر *'ashar, a.* and *n.* ten, ten women. - دس اور دس عورتيں

عشره *m.* ten men, ten (number). - دس مرد دس عدد

عشرات (*pl.* of عشر), tens (as twenty, thirty, forty, etc.) جمع عشره كي دهائياں

عشرت *f.* society, pleasant and familiar conversation, pleasure, delight, enjoyment, happiness. - خوش دلي - خوش زندگاني كرنا باهم عيش

عشر عشير *a.* hundredth, one of a hundred equal parts. دسواں حصه

عشره كامله *m.* ten perfect things, ten days which the *Hajis* are enjoined to observe fast, three days during a pilgrimage to Mecca and seven days after the *pilgrimage*. دس چيز كامل - كنايه دس روزوں سے جو حاجي لوگ ركهيں - تين روزے ايام حج ميں اور سات روزے بعد حج كے

عشرين a. and n. twenty. بيس

عشق m. love, a lover. اشد محبت كرنے والا

عشقباز m. a lover, a man of gallantry. عاشق - چاهنے والا

عشق پيچان / عشقه } m. the name of a flower (*Ipomœaquamoclit*). ايک بيل مشهور هے اس كا پهول سرخ هوتا هے

عشم n. a dry bread. خشک روٹي

عشوة *'ashwa*, m. an obscure, concealed, dangerous affair, a fire seen from a distance at night, the beginning of darkness at night, چهپا كر كام كرنا - آگ جو رات كو دور سے دكهائي دے - تاريكي

عشوة *'ishwa*, m. coquetry, ogling, blandishment, amorous, playfulness. ناز - فريب - وه چهٹت معشوق كي جو عاشق كو فريفته كرے -

عشي n. the night meal. رات كا كهانا

عشيت f. the evening time. شام كا وقت

عشير m. a kindred, a neighbour, the tenth part, one who dwells in the same place with another. كنبے كا آدمي - همسايه - دسواں حصه كسي چيز كا - وه شخص جو دوسرے شخص كے ساتهه ايک جگهه پر زندگي بسر كرے

عشيرة m. a family, a tribe, an inmate. كنبه - قبيله - اهل خانه

عشيقة f. a mistress, a sweetheart. معشوقه

عصا m. club, stick, staff, mace. لاٹهي

عصابة m. a bandage, a fillet, a turban, striped cloth of Yaman, or Arabia Felix, a group, a multitude. وه چيز جس سے سر كو باندهيں - پٹي - دستار - پگڑي - ايک قسم بردیماني كي - گروه آدميوں كا

عصات f. (pl. of عاصي), the sinners. جمع عاصي بمعني گنهگار كي

عصار m. an oil-maker or presser, an oil-man. روغنگر - تيلي

عصارة *'usara*, m. expressed juice ; dregs after the Juice is expressed. هر چيز نچوڑي هوئي كا پهوک - هر چيز نچوڑي هوئي كا روغن - رس - پاني

عصافير (pl. of عصفور), sparrows. جمع هے عصفور بمعني گنجشک كي

عصب m. a tendon, a nerve, a ligament. پے - پٹهے

عصبات m. kinsmen, sons. خويشاں اور فرزندان نرينه

عصبة m. tendon, a kinsman, a son. (pl. اعصاب (عصب). جمع - پٹهه - خويش اور فرزند نرينه عصب و اعصاب

عصبيت f. consanguinity, relationship, partiality, strength. طرفداري - مضبوطي - خويشاوندي

عصر m. time, age, the last day, name of a prayer, expressing grapes, etc. زمانه - روزگار - آخر روز - نام نماز كا - نچوڑنا انگور وغيره كا

عصفر *'usfur*, m. saffron in the flower (*Carthamus tinctorius*). كسنبه - هندي - گل كا چيره - جو كپڑا اس ميں رنگا جاتا هے أسے معصفر (معصفر) كهتے هيں

عصفور m. a sparrow. گنجشک چڑيا

عصمت f. defence, protection (especially from sin), hence chastity, honour, integrity, continence. گناه سے اپنے كو باز ركهنا اس طرح كے تمام عمر ميں كبهي كوئي گناه كبيره نه كيا هو

عصمور f. the block over which a well rope traverses, a bucket for drawing water, (pl. of عصامير). پاني بهرنے كي گراري - پاني بهرنے كا ڈول جمع عصامير

عصو a. striking some one with a club. لاٹهي سے كسي كو مارنا

عصوف *'usuf*, blowing hard of wind. هوا كا بهت زور سے چلنا

عصوف *'asuf*, storm, hurricane, tempest. آندهي

عصوم m. a monstrous eater, a glutton. بهت كهانے والا

عصيان m. (real meaning) becoming hard-hearted. (*met*). sin, transgression, rebellion, opposition. - اصلي معني سخت هونا - اصطلاحي گناه

عصيب a. beautiful, well-shaped, powerful, strong, firm, a relative. - طرحدار - استوار رشته دار

عصيدة m. a kind of sweetmeat made of flour, ghee and sugar. ايک قسم كا حلوا

عصير m. expressed juice of grapes, sap of vegetables or fruits, (sometimes it means) grape wine. انگور وغيره كا نچوڑا هوا شيره - هر چيز كا نچوڑا هوا پاني - كبهي بمعني شراب انگوري كے بهي آتا هے

عض act of biting. دانت سے كاٹنا

عضاد m. a man or woman dwarfish in growth and size. چهوٹے قد اور موٹے ڈيل كا خواه مرد هو خواه عورت كا

عضاد *'izad*, m. an ornament worn on the wrists by women. كنگن عورتوں كا زيور

عضال m. a hard job, a difficult work, a serious disease. دشوار كام - سخت بيماري

عضب n. a sword. تلوار

عضبيت f. fluency, eloquence. تيز زباني

عضد *m.* the arm (from the shoulder to the elbow), name of 'Azad ud-daula Delmi king of Shiraz. بازو - نام عضدالدولة ديلمي بادشاه شيراز کا

عضد *'azd*, helping, befriending. - مدد کرنا ياري کرنا

عضل *'azl*, stopping a widow from marrying a second man, a hard labour, a difficult task. - باز رکھنا بيوہ عورت کو دوسرا شوھر کرنے سے سخت اور دشوار ھونا - سخت کام

عضل *'izl*, *a.* very bad, deformed, ugly. بد شت - بهت برا

عضل *'azl*, difficulties, adversities, calamities. سختياں - بلائيں

عضل *'azal*, (*pl.* of عضلة). جمع عضلة کي

عضلة *m.* a tendon, muscle. پٹھا

عضو *m.* member, a joint. ٹکڑا بدن کا

عضو *adv.* breaking to pieces. ٹکڑے ٹکڑے کرنا

عضوب (*pl.* of عضب). swords. جمع عضب کي تلواريں

عضوم *m.* a monstrous eater, a glutton. بسيار خوار - بهت کھانے والا

عطا *f.* a gift, present, favour. بخشش - دينا

عطار *m.* a perfumer, a druggist, name of a celebrated Persian poet. - خوشبو بيچنے والا عطر بيچنے والا - گندھي

عطارد *m.* Wednesday, the planet Mercury, pewter, prince's metal. بدھ - دبير فلک - جو ستارہ مشهور آسمان پر ھے - کيميا گروں کي اصطلاح ميں بمعني جست کے ھے

عطار کرخ *n.* name of a quarter in Bagdad. نام ايک محلہ کا بغداد ميں

عطاس *m.* sneezing, sneeze, a sickness causing one to sneeze. چھينک - وہ عارضة جس سے چھينکيں آويں

عطاش *'itash*, *m.* the thirsty ones. - تشنگان پياسے

عطاش *'utash*, *m.* a sickness in which one feels very thirsty. پياس کا مرض جس ميں بڑي پياس لگتي ھے

عطايا (*pl.* of عطية), gifts, favours, presents. جمع عطية کي بخششيں

عطب *'utub*, *m.* cotton. پنبہ - روئي

عطب *'atb* *f.* softness, mildness, delicacy. نرمي - نازکي

عطب *'atab*, destruction, ruin. ھلاک ھونا - ھلاکي

عطر سا ے perfume mixed. عطر ملا ھوا

عطريات *pl.* perfumes, scents. خوشبودار چيزيں

عطاس } *m.* sneezing, a sneeze. چھينک
عطسة }

عطاش *atash*, *f.* thirst. تشنگي - پياس

عطشان *m.* } very thirsty, burning with thirst
عطشي *f.* } or desire. تشنہ - پياسا

عطف *'alf*, *m.* going astray, wrapping, desiring, favour, affection, kindness, a present, bountp, connecting, joining, flouncing, border - پھر جانا - لپيٹنا - خواھش کرنا - مھرباني - دامن کي سنجاف

عطلت *f.* state of being out of employment. بيکاري

عطوف *a.* kind, friendly, affectionate - مھربان - شفيق

عطوفة *f.* a kind woman. مھربان

عطوفت *f.* inclination, kindness, fovour, affection. مھرباني - شفقت

عطيات (*pl.* of عطية) gifts, favours. جمع عطية کي بخششيں

عطية *m.* gift, present. بخشش - انعام

عظام *'izam*, (*pl.* of عظم), bones, (*pl.* of عظيم), the great. - جمع عظم کي - هڈياں - جمع عظيم کي بزرگ لوگ

عظم *m.* a bone. استخوان - هڈي

عظم *'uzm*, greatness, magnificence, pomp, pride. بزرگي - بڑائي

عظما (*pl.* of عظيم), supreme, the very greatest. بزرگ لوگ

عظمی *f.* a great woman, anything (*fem.*) which is great and magnificent. ھر چيز مونث جو بڑي اور بزرگ ھو

عظمة *f.* greatness, magnificence, magnitude, aggrandisement. بزرگي - قدر

عظيم *a.* great, higher in dignity, large. بزرگ - بڑا

عفاريت (*pl.* of عفريت), horrible demons or giants. جمع عفريت بمعني ديو کي

عفاف abstaining, chastity, abstinence. پارسائي - پرهيزگاري

عفت *f.* purity, chastity, continence, virtue, abstinence, modesty. - پرهيزگاري - پارسائي حرام چيزوں سے کنارہ کشي کرنا خاص کر شهوت حرام سے

عفريت *m.* anything frightful or horrible, a giant, a demon, spectre, ogre. - ديو - خبيث نهايت بد

عفص *m.* gall (both the tree and the nut). مازو - مشهور دوا کا نام

عفص *'ifs*, *f.* everything bitter and astringent. ھر چيز جسکا مزہ کڑوا اور کسيلا ھو

عف عف the barking of a dog, an imitative sound like our *bow-wow*. آواز کتے کي

عفن stinking, filthy, foul. گندہ - بدبو
عفو m. absolution, forgiveness. خطا کا معاف کر دینا - حالت قدرت میں کسي سے بدلا اور عوض نه لینا
عفو 'affu, m. most merciful, forgiving. بہت بڑا خطا کا معاف کرنے والا
عفوصت f. astringency, constipation, bitterness. کسیلا پن
عفونت f. corruption, infection, stink (especially of a carcass). بدبو - سڑاندھ
عفیف a. temperate, abstinent. پارسا - پرهیزگار
عفیفه f. a chaste, modest woman. عورت پارسا اور پرهیز گار
عقاب 'uqab, m. an eagle, every thing high, ammonia. نام ایک پرند شکاري کا - هر چیز اونچي - کیمیا گرون کي اصطلاح میں بمعني نوشادر
عقاب 'iqab, m. chastisement, pain, trouble. عذاب کرنا - عذاب - دکھ
عقاب انگن m. a slave, a servant, i. e. one who wears a ring in his ear as a badge of servitude. کنایه حلقه بگوش سے - غلام - خادم
عقاب آسمان m. the constellation of the Eagle, some say it means a vulture. چند ستارے جو بصورت عقاب کے هیں اُن کو نسر طائر کہتے هیں - بعض کہتے هیں که گدھه کو کہتے هیں
عقار 'uqar, n. wine, a kind of red cloth. شراب - ایک قسم کا سرخ کپڑا
عقار 'aqqar, m. water, a land fit for cultivation, a date-tree, household goods, a village. پاني - زمین کھیتي کي - درخت خرما - گھر کا اسباب - گانوں کي زمین
عقار 'uqqar, n. any medicine of the kind of the root of grass. دوا جو گھاس کي جڑ کي قسم سے هو
عقارب 'aqarib. (pl. of عقرب), scorpions. جمع عقرب بمعني بچھو کي
عقاقیر (pl. of عقار 'uqqar), the herbal roots (as medicines). جمع عقار کي
عقائد (pl. of عقیده), articles of faith, religious tenets. جمع عقیده کي - وه چیزیں جن کو حق اور سچا جان کر دل میں مضبوط کرلیں
عاقب 'aqib, m. the rear, the heel, a son, a grandson. prep. behind, after, in the rear, in pursuit. پانوں کي ایڑي - بیٹا - پوتا - پیچھے
عقب 'uqub, m. end, consequence, accomplishment, result. انجام - عاقبت - کام کا اخیر
عقب 'aqb, pursuing, coming behind. کسي چیز کے پیچھے آنا

عقبات (pl. of عقبه), difficult ways. جمع عقبه کي - راهیں دشوار گزار
عقبان (pl. of عقلب), chastisements, troubles, pains. جمع عقلب بمعني عقاب کي
عقبان 'uqban, (pl. of عقاب), eagles. جمع عقلب کي - پرند مشہور
عقبیٰ m. end, conclusion, the future or next world. آخرت - دوسرا جہان
عقبه m. a strait, a narrow way, a position of hardship or difficulty, hard task. وه راه جس سے گذرنا مشکل هو امر سخت اور عظیم
عقد 'aqd, m. a knot, the marriage knot, marriage, a compact, agreement, selling. گره لگانا - عهد کرنا - نکاح کرنا - بیچنا
عقد 'aqad, m. a stutter, broken utterance of words. زبان کا لکنت کرنا
عقد 'iqd, m. a necklace, a bules, a string (of pearls, etc). موتیوں وغیره کا هار
عقد 'uqd, (pl. of عقده), knots, etc. جمع عقده بمعني گره کي
عقدرواں m. the marriage. نکاح
عقد زنان m. the marriage. کنایه نکاح سے
عقده 'uqda, m. a knot, the marriage knot an excresence (especially at the joints, or where bones have been broken), a node, an impediment in speech, perplexed affairs, entangled things, confused words. گره - کنایه مشکل بات سے
عقر 'uqr, a marriage portion or dower, becoming impotent. عورت کا زر مهر - مرد خواه عورت کا بانجھ هونا
عقر 'aqar, shaking of feet through fear. خوف سے پیروں کا کانپنا
عقرب m. a scorpion, the sign scorpio. (met.) unlucky, unfortunate. بچھو - نام آٹھویں برج کا آسمان پر جو بشکل بچھو هے - مجازاً بمعني منحوس آتا هے
عقربي n. kind of finest pearl. ایک قسم هے عمده لعل کي
عقعق 'aq'aq, m. a wild raven. جنگلي کوا - سیاه رنگ کا پرند
عقل f. wisdom, opinion, sense, understanding, an angel. خرد - دانائي - فرشته
عقل اول m. the angel Gabriel, Mahomet, the ninth heaven, where the throne of God is. کنایه حضرت جبرائیل - محمد اور عرش اعظم سے
عقلا (pl. of عقیل and عاقل), the wise, the prudent. جمع عقیل بمعني عقلمند کي

عقل کل *m.* the angel Gabriel, Muhammad's light, the ninth heaven where the throne of God is. کنایہ حضرت جبرئیل اور نور محمدي سے اور کبھي کنایہ عرش اعظم سے بھي

عقلي reasonable, rational, judicious. جو بات صرف ذهن میں آوے اور خارج میں موجود نهو

عقوبت *f.* punishment, torment, chastisement, torture عذاب - دکھہ - سزا

عقود *'uqud*, (*pl.* of عقد). جمع عقد کي

عقور *m.* a biting dog. کاٹنے والا کتا

عقوق *f.* disobedience of parents. نافرماني ماں اور باپ کي کرنا

عقول (*pl.* of عقل). جمع عقل کي

عقول عشرہ *m.* the ten angels who, as the learned say, created the whole universe by God's command. دس فرشتے جنھوں نے بموجب مذهب حکما حکم خدا سے کل عالم کو پیدا کیا

عقوہ *m.* a plain, a courtyard. میدان - مکان کا صحن

عقیان *m.* gold. زر

عقیب *f.* following, behind, in the rear. - پیرو جو چیز کے پیچھے هو

عقیدہ *m.* faith, belief, a fundamental article of religion, fidelity. دل کا بھروسہ - مذهب

عقیق *m.* a cornelian, a red gem. (*met.*) a lip, (In *Sikandarnama*) *Roshanak*, *Dara's* daughter. نام ایک سرخ پتھر کا اور مراد لب یعني هونٹھہ سے - اور سکندر نامہ میں مراد روشنک دارا کي بیٹي سے

عقیقہ *m.* the hair upon new-born infants, the sixth or seventh day after childbirth, or a feast given on that day, a goat sacrificed on such occasions. لڑکے کے نام رکھنے کي ضیافت بچہ کے سر کے بال مونڈنا ساتویں دن روز پیدائش سے - وہ بکري وغیرہ جو پیدائش مولود کے پہلے هفتہ میں واسطے بچہ کے قرباني یعني ذبح کرتے هیں

عقیل very wise, prudent. *m.* name of Abi Talib's son. مرد بزرگ اور بڑا عقلمند - نام ابي طالب کے بیٹے کا

عقیلہ *f.* a wise woman, any thing that cannot be matched or which may be the best of its kind, a grandee, a pearl, a tether. عورت عقلمند اور سردار قوم کي - هر چیز جو اپني جنس میں بهتر اور بهت مقبول - بزرگ قوم موتي - چوپایہ کے پاؤں باندهنے کي رسي

عقیم *a* barren, having no children. بانجھ خواہ مرد خواہ عورت

عکاشہ *f.* a spider. عنکبوت - مکڑي

عکرمہ *f.* a pigeon, a dove. مادہ کبوتر - کبوتري

عکس *m.* reflection, inversion, a shadow or reflected image, the contrary, opposite, spite, opposition الٹا کرنا - اُلٹنا - کوتنا - وہ شکل جو کسي چیز کي آئینہ یا پاني میں دکھلائي دے

عکہ *m.* a kind of wild piebald crow, name of a place. ایک قسم ابلقي جنگلي کوے کي - نام مقام کا

عکہ *'ukka*, *m.* a jar for storming ghee, a mound of sand, intensity of heat. گھي وغیرہ رکھنے کا برتن - بالو کا تودہ - گرمي کي سختي

علا *m.* glory, sublimity, exaltation, superiority. *a.* most high or glorious. بلندي - بزرگي

علي *m.* most high. اوپر

علات *f.* an anvil, an iron block on which smiths hammer and shape their work. سندان - نهائي (هندي)

علاج *m.* a remedy, cure, medicine. چارہ - تدبیر

علاف *'allaf*, *m.* a grass-seller. گھاس کا بیچنے والا

علاقہ *m.* relation, connection, interest, pretension, right, commerce, correspondence, communication. - دل کا لگاؤ کسي چیز سے - تعلق مناسبت درمیان دو چیز کے - کسي کے ساتھہ دل ربط رکھنا - روزي حاصل کرنے کا وسیلہ

علاقہ دستار *m.* an ornament worn in the turban. پگڑي کا طرہ

علي الخصوص *adv.* in particular, especially, همیشہ

علي الدوام *adv.* perpetually.

علي الصباح *adv.* early in the morning. صبح - تڑکے

علي الحال *adv.* presently, urgently, quickly, just now. بهت جلد - ابھي

علي الزام *adv.* (*met.*) contrariwise, on the contrary, in spite of, on the other hand. برعکس - برخلاف

علي الاطلاق *a.* free, liberated. بے قید

علالا *m.* tumult, noise, uproar. شور - غوغا - غل

علالہ *'ulala*, *m.* remnant, fragment, a scrap. هر چیز کي باقي - تھوڑي شے

علام *'allam*, omniscient, God. بهت بڑا جاننے والا

علامات (*pl.* of علامت). جمع علامت کي

علامت *f.* a mark, badge, sign, token, emblem, device. نشان - پتہ

علامہ *'allama*, } *m.* very wise, very learned.
علامي *'allami*, } بهت هي بڑا دانا اور جاننے والا

علانیہ *adv.* openly, publicly. ظاهر - کھلم کھلا

علائق (*pl.* of علاقہ). جمع علاقہ کي

علت *f.* disease, weakness, cause, pretence filth, dirt. مرض - سبب - وجهه

علت اولی / علت اصل } *n.* the first angel (Gabriel). کنایه عقل اول سے

علت آفتاب *m.* the yellow jaundice. کنایه مرض یرقان سے

علت نامه *'illat namma*, a real cause. سبب کامل

علت فاعلي *n.* an agent in the formation of a substance. جس نے کوئي شے بنائي هو

علت مادي *f.* matter used in the formation of that substance, material cause, or the matter of which the thing is made. وه ماده جسے وه شے بني هو

علت مشائخ an old man's disease. ایک بڑهاپے کي بيماري

علف *m.* grass, hay, fodder, food for cattle. چرپایوں کا چاره - گهوڑے کي گهاس

علفزار *n.* pasturage, a meadow. چراگاه

علق *'alaq*, *m.* clotted blood, a leech, hanging, suspending, adhering. - جما هوا خون - هر چيز جو دوسري چيز ميں لٹکي هوئي يا چهٹي هوئي هو - نام ایک سياه رنگ کيڑے کا جسے جونک کهتے هيں

علل (*pl.* of علت), diseases, infirmities, causes, pretences, etc. جمع علت کي بمعني سبب اور مرض کي

علم *'alam*, *m.* a spear, standard, banner, ensign, sign, mark, (in grammar) a proper name, a mountain, famous, noted, embroidery. - فوج کا نشان و جهنڈا - کوه - پهاڑ - مشهور - معروف - نام خاص جو کسي کا هو جس سے کوئي عورت یا مرد مشهور هو - کپڑے پر جو بيل بوٹے بنے هوتے هيں

علم *m.* science, knowledge. آگاه هونا - جاننا - عقل

علم انگندن *id.* to beat a retreat, to draw back, not to oppose. کسي کے مقابله سے بسبب خوف وغيره کے بهاگ جانا - مقابله نه کرنا

علم اليقين *m.* certain knowledge, demonstration, perfect belief کسي چيز کا کمال يقين کے ساتهه جاننا معه اسکي کيفيت اور ماهيت کے اس طور کے اصلا شک و شبهه کي نه [illegible] باوجوده اس چيز کو نديکهنے کے نهو

علمن appearance, manifestation. ظاهر - ظاهر هونا

علم شدن *id.* to appear, to be manifested, to be famous ظاهر اور مشهور هونا

علم لدني *m.* knowledge imparted by God without any study on the part of the receiver, divine revelation. وه علم جو حق تعالی کسي کو محض اپنے فضل و کرم [illegible] بغير اس کے که وه شخص کسي استاد سے پڑهے

علو *m.* an eminence, height, sublimity. بلندي - اونچائي

علوفه *m.* stipend, salary, daily pay, subsistence money. تنخواه - مزدوري

علوق *m.* hanging, suspending, adhering, making friend. اٹکنا - چهٹنا - درست رکهنا

علوم (*pl.* of علم), sciences. جمع هے علم کي

علوي a descendant or follower of *'Ali* the son-in-law of *Muhammad*. وه لوگ جو اولاد علي سے هوں

علوي *'ulwi*, *a.* lofty, sublime, celestial, heavenly. آسماني جيسے فرشته - ستاره

علویان *m.* the angels, stars. فرشتے - ستارے

علي *m.* a man's name, the name of *Muhammad's* son-in law, he was, according to the Sunnites, the fourth caliph or successor of Muhammad, but the Shiites make him the direct successor, not acknowledging the other three caliphs. نام محمد کے داماد کا جو چهوتها خليفه تها بموجب سنيوں کے

علي *'alli*, *a.* high, lofty, an epithet of God Almighty, name of Haidar. بلند - حق تعالی کا نام - نام حيدر کا

عليا (*f.* of اعلی) a thing happening long after. جو چيز که بهت بعد هو

عليقه *m.* the bag out of which horses eat their corn. توبڑه جس ميں دانه رکهکر گهوڑے کے منهه پر باندهتے هيں کهانے کے لئے

عليل *a.* weak, sick, indisposed. بيمار - مريض

عليم *a.* wise, learned, knowing. - جاننے والا - صاحب علم

عليه *m.* high, possessing a high rank. - بلند - بلند مرتبه

عليين *f.* high windows in heavenly buildings, lofty houses in paradise, the book in which the good deeds of the virtuous will be recorded, the paradise. بهشت کي اونچي کهڑکياں - بهشت کے بلند مکان - نيک بندوں کے اعمال کي کتاب

عم *'amm*, *m.* uncle, father's brother. - چچا - باپ کا بهائي

عماد *m.* a prop, a pillar, a support, lofty houses, (*pl.* of عماده but it is used both as *sing.* and *plu.*) ستون - کهمبے - بلند عمارتيں - جمع عماده کي - ليکن يه لفظ مفرد اور جمع دونو آيا هے

عمادات *m.* pillars. عمارت کے ستون

عماري *f.* camel's saddle, or that which fastens, the two parts of a camel's load, a litter in which people sit on an elephant, when it has no canopy it is called a هودج (*haudaj*), a coffin. اونٹ كي محمل - هودج جو هاتهي كي پيٹهه پر كسا جاتا هے

عمال (*pl.* of عامل), agents, etc. جمع هے عامل كي - حاكم - كار گزار جو سركار كي طرف سے مقرر هوں

عمامه *m.* a turban, a tiara. دستار - پگڑي

عمان *a.* the southern coast of Arabia. عرب كا جنوبي كنارا

عمان *m.* (Pers. *pl.* of عم), uncles, (Ar. *pl.* of عم is عمام). جمع فارسي هے عم كي بمعني چچا

عمائم (*pl.* of عمامه), turbans. جمع عمامه بمعني پگڑي كي

عمد wilful, a legal turn analogous to the "malicium" of Roman law, intention, purpose, desire, wish, raising a pillar, striking with a club or battle-axe. اپنے اختيار سے كام كرنا - قصد - اراده - ستون كهڑا كرنا - گرز مارنا

عمداً *adv.* deliberately, purposely. ارادةً - قصداً - قصد سے

عمران *n.* population, name of Moses' father, name of *Mariam's* father, name of a Abu Talibs uncle. - آبادي - نام موسى كے والد كا - نام مريم كے والد كا - نام ابو طالب كے چچا كا

عمرانات (*pl.* of عمران), populations. جمع عمران بمعني آبادي كي

عمره *m.* pilgrimage to Mecca, visiting a wife while in the house of her parents. مكه كا حج كرنا

عمر و زيد *Umar* and *Zaid*, two celebrated gentlemen of straw, like our "John Nokes and Thomas Styles," who figure largely in Muhammadan legal and scholastic discussions. عمر و زيد جو اكثر نظيروں ميں پيش كئے جاتے هيں

عمش *f.* weak-sightedness. - بينائي كي كمزوري - ضعيف بصر

عمق *m.* depth, profundity, bed of a river or a well. گهراؤ - كنويں دريا وغيره كي تهه

عمق *a.* becoming deep. گهرا هونا

عمل *m.* action, operation, work, practice, effect, dominion, territory, rank. - كار - كام - عهده

عملخانه *m.* a workshop, a tribunal, a Court, hall, hall of audience. كارخانه - ديوان خانه

عمل گيسو *m.* name of a musical mode. نام ايك راگ كا جس كو هندي ميں [illegible] كهتے هيں

عمله *'amala*, (*pl.* of عامل), agents, officers, subordinates. كام كرنے والے جو اپنے هاتهه سے كام كريں - جمع عامل كي

عمله *'imla, m.* work, action, wages, hire. - كار - كام - عمل

عمله *'amla, m.* virtue, favour, kindness. - نيكي

عملي *a.* artificial, practical. جو منسوب طرف عمل كے هو

عمليته practice (*pl.* عمليات). عمل كرنا

عمو *'ammu, m.* uncle, father's brother, a paternal uncle. چچا - باپ كا بهائي

عمو *'amu, f.* deviation, depravity, humiliation, submission. گمراهي - خرابي - عاجزي

عمود *m.* a pillar, a tent pole, a mace, a club, the tongue of a balance, head, chief of a tribe, the penis, a perpendicular (in geometry). - ستون - كهمبا - خيمه كي چوب - گرز - ترازو كي ڈنڈي كا كانٹا - سردار قوم كا اور كنايه آله تناسل سے بهي - علم هندسه ميں سيدها خط جو سيدهے خط پر واقع هو اور زاويه قائم پيدا كرے

عموز *m.* the gums (of the teeth). دانتوں كے بيچ كا گوشت - مسوڑے

عموم *a.* common, general, universal, surrounding, encircling, freedom. - عام هونا - سب جگهه هونا - سب كو گهير لينا - بے قيد هونا

عموماً *adv.* commonly, generally. - عام طور سے - خاص كر كے

عمه *'amma, f.* father's sister, aunt. - پهوپهي - باپ كي بهن

عمي *'umi,* (*pl.* of اعمى), the blind. جمع اعمى كي - اندهے

عميا *f.* a blind woman, every thing (*fem.*) blind, secrecy, concealment, a hidden thing. اندهي عورت - هر چيز مونث جو اندهي هو - پوشيدگي - چهپي هوئي چيز

عميد *m.* a leader, a chief (of a tribe). قوم كا پيشوا

عميق *a.* deep, profound, far, distant. - گهرا - دور دراز

عميم *a.* full, complete, universal, common. عام - شامل - سب كو گهيرنے والا

عن *prep.* from, with, after, on, concerning, above, before. بمعني از - سے

عنا *f.* distress, trouble, labour, grief. - تكليف دكهه - رنج - مشقت

عناب *m.* a fruitseller, one who sells grapes. انگور بيچنے والا

عناب *'unnab*, *m.* the jujube tree and fruit. نام میوۂ مشہور کا

عناد *m.* enmity, obstinacy, perverseness, resistance, quarrelling, fighting. - دشمني بیر - لڑائي لڑنا

عنادل (*pl.* of عندلیب) the nightingales. جمع اندلیب کي - بلبلیں

عناصر (*pl.* of عنصر), elements. جمع عنصر کي

عناق *'anaq*, *m.* a kid, a lamb (four months old), distress, trouble, a difficult work, a horse having a beautiful neck, name of an animal. *Felis caracal Gmel.*, *Persian lynx, Penn*). - بکري کا بچہ چار مہینے تک کا سختي - بلا - کام سخت اور دشوار - گھوڑا خوش گردن - سیہ گوش جو ایک جانور ھے

عناق *'inaq*, act of embracing each other, locking in each other's arms. آپس میں گلے ملنا

عنان *f.* reins, a bridle. لگام - باگ

عنان برعنان *a.* equal, even. برابر - ھمسر

عنان برکشیدن *id.* to make the horse to run. گھوڑا دوڑانا

عنان باز کشیدن *id.* to give up, to abandon, to renounce. ترک کرنا - چھوڑ دینا

عنان تاب شدن *id.* to depart, to leane, to start. روانہ ھونا

عنان تافتن *id.* to beat a retreat, to draw back, to cease opposing, to turn away the face, to be dejected or cast down. مقابلہ سے پیٹھہ پھیر لینا - روگرداني کرنا - عاجز ھونا

عنان تازي *f.* courage, audacity, boldness, bravery, temerity, valour. جرات کرنا

عنان خوش کردن *id.* going and coming. جانا اور آنا

عنان در عنان آوردن *id.* to be equal, peer, coeval. مقابل ھونا - برابر ھونا - ھمسر ھونا

عنان دادن *id.* to make the horse to run. گھوڑا دوڑانا

عنان دردیدن *id.* to renounce, to give up, to leave, to desert, to abandon. - ترک کرنا - چھوڑ دینا

عنان راندن *id.* to start, to leave, to depart. رواں ھونا

عنان زنان رفتن *id.* a fast-going horseman, swiftness of a rider. کنایہ ہے سوار کے بہت جلد اور نہایت تیز جانے سے

عنان کشیدن *id.* to obey, to be subjugated. اطاعت کرنا

عناقید (*pl.* of عنقود) bunches of grapes. جمع عنقود کي - انگور کے گچھے

عنایت *f.* favour, gift, present, intention, inspection, superintendence, care. - مہرباني قصد کرنا - کسي چیز کا اھتمام کرنا

عنایت *'anayat*, *f.* suffering for another. دوسرے کے کام کے لئے آپ رنج و تکلیف اٹھانا

عنب *m.* the grape. انگور مشہور میوہ ھے

عنبر *m.* ambergis, a rich perfume, fragrant, solid, opaque, ashcoloured, substance obtained from the bees'-wax. ایک عمدہ مشہور خوشبو ھے - خوشبو موم جو بعض کوھستان ھند اور چین میں شہد کي مکھیوں سے حاصل ھوتا ھے

عنبر چہ } عنبرینہ } *m.* an ornament for the neck full of *ambar*. ایک قسم کا عورتوں کا زیور جو گلے میں پہنا جاتا ھے اور اندر اس کے عنبر بھرا ھوتا ھے

عنبرین *a.* of or resembling ambergris (as to smell or colour), everything fragrant and black. عنبر کي سي خوشبودار شے - ھر چیز خوشبو - سیاہ رنگ

عنت *'anat*, *n.* sin, adultery, dispute, destruction, ruin evil, submission, humility, hard labour. - گناہ - ساد - زنا - ھلاکي - خرابي عاجزي - سخت کام میں پڑنا

عند *prep.* near, close to, nigh. نزدیک

عندلیب *f.* a nightingale. بلبل

عنصر a primary element, a fundamental part or principle, one of the four elements, *viz.*, water, fire, air and earth. (*pl* عناصر). اصل - بنیاد - جزو اصلي - طبیبوں کي اصطلاح میں ایک ان چاروں میں سے - پاني - آگ - ھوا - خاک

عنصري *a.* elementary, name of a Persian poet contemporary with Firdausi. منسوب طرف عنصر کے - تخلص ایک شاعر کا

عنصل *n.* a sea leek, squill. - جنگلي پیاز - پیاز نرگس - پیاز موش

عنف *n.* anger, quarrel, fighting, severity, fierceness. غصہ - تندي - سختي - لڑنا - تیزي

عنفوان *'unfuwan*, *m.* the beginning (of any thing), vigour, the flower of youth. اول ھر شے کا - آغاز جواني

عنق *f.* the neck. گردن

عنقا *m.* the phœnix, a fabulous bird called by the Persians *simurg*, a griffin. *f.* a woman with a long neck. *a* adversity, trouble, severity, occurrence. (*met.*) rare, curious, wonderful, scarce. سیمرغ - لمبي گردن کي عورت - سختي - بلا - زمانہ کا حادثہ

عنقریب *adv.* nearly, shortly, near, soon. نزدیک - ابھي

عنقود *m.* a bunch of grape. انگور کا خوشہ

عنکبوت *f.* a spider. مکڑي

عنکبوتیہ *m.* thin skin, a pellicle. جھلي

عنوان *m.* title, address, superscription of a letter, preface, the ornamented title-page of a book, that whereby anything is known, that which is understood by anything, be ginning of all things. سرخي - مطلب کي - سرنامہ - دیباچہ - اول ہر چیز کا

عنود *'anud, m.* erring, wandering, depraved, querulous. گمراہ - لڑنے والا

عنید *a.* quarrelsome, pugnacious, contentious, rebellious. لڑاکا - سرکش

عنیف *a.* fierce, bad-tempered, quarrelsome, a harsh word. تند - سخت خو - لڑاکا - سخت بات

عنیق *f.* the neck, the one throwing his arm round the other's neck. گردن - دوسرے کے گلے میں باھیں ڈالنے والا

عنین *a.* impotent, weak, frail. نامرد - جو مرد عورت کے کام کا نہو

عوا *'awwa, m.* a whining dog, a dog expressing distress by a plaintive drawling cry. وہ کتا جو بہت فریاد کرے

عوا *'uwa, m.* the cry of a dog, jackal, fox and deer. بھیڑیے اور کتے اور لومڑي اور ھرن کي آواز

عوار *m.* defect, flaw. عیب - شگاف

عوار *'uwwar, m.* a swallow. *a.* weak, infirm, cowardly. (*pl.* is عواریر). ابابیل جو ایک پرند مشہور ھے - کم طاقت - بد دل - (جمع عواریر)

عوارات (*pl.* of عوار), many defects, etc. بہت سے عیب

عوارض (*pl.* of عارضہ). جمع عارضہ کي

عوارض *'uwariz, m.* name of mountain where is the grave of *Hatim.* نام ایک پہاڑ کا جہاں حاتم کي قبر ھے

عوارف *n.* acquaintances, the patient, the kind ones, perfumes. (*met.*) gifts, favours. پہچاننے والے - صبر کرنے والے - احسان کرنے والے - خوشبوئیاں - مجازاً بمعني بخششوں کے بھي آیا ھے

عوارہ *'awwara, m.* cowardly, impotent, weak. بد دل - کم طاقت

عواصف *f.* tempests, hurricanes, violent storms. سخت اور تیز آندھیاں

عواطف *f.* kindnesses, favours. مہربانیاں

عواقب (*pl.* of عاقبت), ends, consequences, posterity پیچھے آنے والے - وہ چیز جو کسي چیز کے پیچھے آویں - کاموں کے انجام

عوالم (*pl.* of عالم), the worlds. جمع عالم بمعني جہان کي

عوالي (*pl.* of عالیہ), lofty things. بلند چیزیں

عوام (*pl.* of عامہ), the vulgar, the populace. جمع عامہ کي - نکے آدمي - عم لوگ

عوام *'awwam*, a horse graceful (in walking). گھوڑا خوش رفتار

عوامل (*pl.* of عاملہ), rulers, governors, agents, (in *gram.*) words which govern others. جمع عامل کي - عمل کرنے والے - حاکم لوگ - کارندے

عوان *f.* woman having a husband, a middle-aged woman, middle-aged, a cow of middle age, anything of middle rank, state, size or quality. شوھر والي عورت - ادھیڑ عورت - ادھیڑ گائے - ھر شے میانہ سال

عوان *'awwan, a.* cruel, tyrant, threatening, speaking snappishly. *m.* a body-guard, soldier, captain attending on a king. ظالم - سخت گیر - جھڑکنیوالا - بادشاھي سرھنگ

عوائب (*pl.* of عائبہ) blemishes, defects, faults, vices. جمع عائبہ بمعني عیب کي

عوائد (*pl.* of عائدہ), returning people, advantages, benefits, kindnesses, favours. جمع عائدہ کي - واپس آنے والے لوگ - فائدے - مہربانیاں

عوائق (*pl.* of عائقہ), obstacles, blocks, hinderances, impediments. جمع عائقہ کي - روکنے والي چیزین - حادثے - موانع

عوج *m.* Og name of a person of gigantic stature and who (according to the Muhammadans) lived for 3,500 years, king of Bashan of gigantic stature, (according to the Christians) who opposed the passage of the Israelites through his territories, Deut. 3:1. He was a giant, Josh. 13:12, and his long iron bedstead was regarded as a curiosity, and was preserved as a memorial of his stature Deut. 3:11. نام ایک شخص بہت بڑے لمبے قد کا جس کي تین ھزار پانچ سو برس کي زندگي ھوئي - اس قدر دراز قد تھا کے نوح کا طوفان کا پاني اُن کي کمر تک تھا

عوج *f.* crookedness, crossness. کجي - ٹیڑھا ھونا

عود *'aud, m.* wood, timber, the wood aloes, a kind of fragrant wood, agallochum *Aquillaria agallocha*), a species of lute or harp. ھر درخت کي لکڑي - نام ایک سیاہ رنگ کي لکڑي خوشبودار جسے خوشبو کے لئے جلاتے ھیں - نام بربط مشہور باجے کا

عود *'aud, m.* returning, an old camel. لوٹنا - پھرنا - بوڑھا اونٹ

عود الصليب *m.* a kind of particular wood of which the Christians make crosses. نام ایک درخت خاص کي جس کي عیسائي صلیب بناتے هیں

عود سوز *n.* a censer in which they burn aloes wood. ایک قسم کي انگیٹھي جس میں عود جلاتے هیں

عود قماري *m.* a kind of fine wood aloes brought from Qamar. وہ عود جو شہر قمار سے لایا جائے اور بہت عمدہ هوتا هے

عودي relating to aloes wood, or its colour, a kind of black silk. منسوب طرف عود اور اُس کے رنگ کے - ایک قسم کا سیاہ رنگ کا ریشم

عوذ } عوذہ } *'auz, m.* refuge, asylum, fleeing to God for protection. پناہ مانگنا

عور *a.* naked, monocular, one eyed. ننگا - برهنہ

عورت *f.* the particular parts of man or woman which are concealed through modesty, in Arab pudendum, (it sometimes means) difficulty. مرد و زن کي شرم گاہ - وہ چیز جس کے دیکھنے اور دکھانے سے شرم آوے - مجازاً دشواري و سختي

عوز *m.* a grain (seed) of the grape. انگور کا دانہ

عوز *'auz,* want, indigence, poverty, wanting, missing. حاجت - فقیر هونا - گم هونا

عوص *f.* difficulty, indigence, distress. - سختي دشواري

عوض *m.* reward, retribution, return, anything substituted for another, exchange, ready money. بدلہ کسي چیز کا - قائم مقام

عوق *n.* name of Og's father. نام عوج کے باپ کا

عوق *m.* prohibiting, forbidding, hindering, stopping. روکنے والا - منع کرنے والا

عوق *auq. f.* hunger. گرسنگي - بھوکھہ

عول *m.* a man who is burdened with a large family, adoption, maintenance, liberality, superiority, conquest, cruelty, oppression, providing children with bread, a burdensome duty, disgracing, increasing, ascending, climbing, wailing. - عیالدار کسي کا روٹي کپڑا اپنے ذمہ لینا اور اُس کو اپنے عیال میں لینا - بخشش بہت کرنا - غلبہ کرنا - ظلم کرنا - اپنے عیال کو روٹي کپڑا دینا - کام کا دشوار هونا - کسي کو بدنام کرنا - زور سے رونا

عول *m.* trust, reliance, help, assistance, seeking assistance. اعتماد و بھروسہ کسي پر کرنا - یاري - مدد - مدد چاهنا

عون *m.* aid, assistance. - مددگاري یاري - مدد کرنا

عون *'aun, a.* middle-aged. میانہ - سال بمعني ادهیڑ هونا

عویص } عویصہ } *a.* difficult, hard. مشکل - دشوار

عهد *m.* contract, compact, obligation, promise, treaty, time, season, conjuncture, reign (of a king, prince, etc.,) an oath, a vow, a mandate, will, or testament, lifetime, modesty, partiality, honour, recognizing, sifting, fulfilling one's promise, ascribing divinity to God only. - زمانہ روزگار - پیمان - قسم - سوگند - زینہار - نصیحت - وصیت - امان - نگہداشت - حیا - رعایت - حرمت - پہچاننا - چھاننا - قول کو وفا کرنا - خدا کو ایک جاننا

عهدہ *m.* a commission, office, rank, post, respodsibilty. منصب - رتبہ - ذمہ داري

عهر *f.* adultery, fornication. حرامکاري - زنا

عهن *'ihn, f.* coloured wool. - اُون رنگي هوئي پشم رنگین

عهن *'ahn, m.* settling in a place, coming out from a place, endeavouring, trying, fulfilling one's wishes soon, act of becoming dry (of the palm leaves). کسي جگہہ مقیم هونا - کسي جگہہ سے نکلنا - کسي کام میں کوشش کرنا - جلدي سے کسي کي مراد بر لانا - درخت خرما کے پتون کا خشک هو جانا

عهود (*pl.* of عهد). جمع عهد کي

عهون (*pl.* of عهن). جمع عهن بمعني پشم رنگین کي

عهید coeval, contemporary, confederate, accomplice, old ancient. قسم - هم پیمان - هم عهد - هم زبان - هم عصر - کهنہ - دیرینہ

عیادت *f.* visiting (of the sick). بیمار پرسي

عیاذ *f.* refuge, shelter, protection. - پناہ پناہ لینا

عیاذاً باللہ *'iyazan bi-l-lah, interj.* may God avert or forbid, the shelter of God. پناہ خدا کي

عیار *'ayar, m.* a mark, proof, test, standard, assay, touch, touchstone, a small (goldsmith's) scales. - چاشني سونے اور چاندي کي کسوٹي لگانا - سونے اور چاندي کا اچھا برا زمانہ - تولنے کا کانٹا

عیار *'aiyar, a.* cunning, sly, shrewd. *m.* a knave. چالاک - بہت آمد و رفت اور بڑا حرکت کرنے والا - بہت چلنے والا

عیاري *f.* cunningness, artfulness. چالاکي

عیاش *a.* luxurious, jovial. - بہت عیش کرنے والا اچھي اور خوش زندگي بسر کرنے والا

عیال *m.* family, children, domestics. زن و فرزند - جورو لڑکے - دوسرے رشتے دار وغیرہ

عیاں *'ayan*, *a.* clear, manifest, public, conspicuous, visible. آنکھ سے دیکھنا - مجازاً بمعني ظاهر

عیب *m.* fault, defect, a vice, blemish, sin, disgrace, infamy, loss. برائي - نقصان - کمي

عیب بردن to show one's fault, to seize upon another's fault. عیب کا ظاهر کرنا

عیبۃ *m.* portmanteau, a leathern bag for carrying clothes, etc., in travelling, a tool box. چمڑے کا صندوق - جامہ دان - هتهیار رکھنے کا بکس

عید *f.* a solemnity, festival, holy day. خوشي اور جشن کا روز

عیر *'air*, *m.* the onager or wild ass. جنگلي گورخر - شهري گدها

عیر *'ir*, *m.* a caravan, any animal that may be used for carrying a load of grain. قافلہ - هر چوپایہ جس پر غلہ لاویں

عیس *m.* a camel of reddish white colour, (sometimes it means), a caravan. اونٹ سفید رنگ سرخي مائل اور کبهي مراد قافلہ سے بهي

عیسی Jesus, our Lord. نام پیغمبر کا

عیش *m.* pleasure, delight, luxury. خوش زندگاني کرنا - ناز و نعمت میں زندگي بسر کرنا

عیشۃ *'isha*, *m.* a luxurious life. اچهي زندگي

عیص *m.* a very shady tree; Esau, the son of Isaac. درخت بهت گهنا - نام اسحاق کے بیٹے کا

عیقۃ *m.* shore, bank, edge. ندي کا کنارہ - ساحل

عیل *'ail*, wandering, travelling, itinerating. فقیر هونا - سیر کرنا - بهت پهرنا

عیلۃ life or state of a *darwesh*. - درویشي فقیري

عین *m.* the eye, sight, the very essence or best part of a thing, a fountain, the sun, money, gold, etc., goods, rain, a sweeper, a chief, head, everything fine, brothers by the same parents, a man, inmate, a tribe, a spy, a guard, vidette, a citizen, casting an evil eye, a guide, leader, grape, knee. *a.* very, exact, real, intrinsic, just. آنکھ چشمہ پاني کا - آفتاب - زر سرخ اشرفي - مال - مینھ - بازار - مهتر - سردار - هر چیز عمدہ - هر شے کي ذات - وہ بهائي جن کے ماں باپ ایک هوں - شخص - ایک آدمي - نفس - هر چیز کي حقیقت - اهلخانہ - قوم - جاسوس - دیدبان - جگہ پاني جاري هونے کي - دیدار - اهل شهر - کسي چیز کو نظر لگانا - پیشوا - انگور - زانو

عین (*pl.* of عیناء), women with beautiful eyes. جمع عیناء کي - زنان خوش چشم

عیناء *f.* a woman having a beautiful eye خوش چشم عورت

عین الحیواۃ *m.* the fountain of the water of life. چشمہ آبحیات

عین القطر *m.* fountain of resin, brimstone and molten copper, oil of turpentine, a kind of black oil giving a bad smell, which is rubbed on the mangy camel's skin. چشمہ رال - چشمہ گندهک - چشمہ پگھلے هوے تانبے کا - نام ایک سیاہ روغن بدبودار کا جو خارشتي اونٹوں کي جلد پر ملتے هیں

عین الهر *m.* name of a precious stone resembling the eye of a cat. نام ایک جوهر قیمتي کا جو بلي کي آنکھ سے مشابہ هے - هندي لهسنیا

عین الدیک *m.* the cock's eye, a little red seed (*Abrus precatorious*). - آنکھ مرغ کي گهنگچي (هندي)

عین الیقین *m.* ocular demonstration. بعد دیکھنے کے کسي چیز کي کیفیت اور ماهیت کو بخوبي دریافت کر لینا نهایت یقین کے ساتھ

عینین (*pl.* of عین), the two eyes. دونوں آنکھیں

عیوب (*pl.* of عیب), vices, defects. جمع عیب کي

عیوق *'aiyuq*, *m.* the red and bright star Capella. سرخ رنگ و روشن ستارہ کا نام

عیون (*pl.* of عین), eyes, fountains (of water), name of a book. آنکھیں - پاني کے چشمے - جمع عین کي - نام ایک کتاب کا

عیول *f.* life or state of a *darwesh*, devoteeism, poverty, humility. درویشي - فقیري

عیول *'aiyul*, itinerating, wandering. - سیر کرنا بهت پهرنا

— غ —

غ *gain*, called *gain i mujama* or *gain-i-manquta*, is the twenty-second letter of the Persian and the nineteenth of the Arabic alphabet. This letter is Arabic or Persian. In reckoning by ابجد it stands for 1000.

غاب (*pl.* of غابۃ), a jungle, forest, a desert, wilderness, wood. جنگل - صحرا - خصوصاً جس میں شیر رهے - جمع غابۃ هے

غابات *n.* the forests, jungles, woods. بهت سے جنگل

غابۃ *m.* a forest, a jungle, descent, declivity. جنگل - زمین نشیب

غابر perishing, lasting, coming and going, left. هلاک هونے والا - باقي ماندہ آنے اور جانیوالا

غابن m. lazy, disinclined to exertion, slothful. جو شخص کام کرنے میں سست هو

غادر m. a cheat. a. deceitful, faithless. بیوفا - جو وعدہ وفا نہ کرے

غادیہ m. morning, the morning rain, clouds gathering in the morning. صبح - صبح کے وقت کا مینھہ - وہ ابر جو صبح کو پیدا هو

غار m. a cavern, a cave, a pit, a den, a low ground. گڑھا - پہاڑ کي کھو - جنگلي جانوروں کے رہنے کا بل - زمین پست

غارژرت m. the world. مراد دنیا سے

غارت rapine, plunder, devastation. - لوٹ مال لوٹ لینا

غارتیدن inf. to plunder, to devastate, to ruin. غارت کرنا - لوٹنا

غارس m. a gardener. باغبان

غارق m. drowning person. غریق - ڈوب جانے والا

غاریقون m. agaric. دوا مسہل بلغم کا

غازہ m. red colour with which women paint their face, cosmetic. ایک قسم کي سرخي (گلگونہ) جو عورتیں اپنے منھہ پر ملتي هیں

غازي m. a conqueror, a hero, particulary so if he has fought against and slain one or more infidels. کافروں کا جنگ میں قتل کرنے والا

غازي m. juggler, a dancer. دار باز - نٹ

غاسق m. moon, the Pleiades, night. - چاند پروین - رات

غاشیہ m. a saddle-cloth or cover, a porter's burden, the judgment day, hell fire, an internal disease. a. covering, rendering unconscious. - گھوڑے کا زین پوش - پالان قیامت - دوزخ کي آگ - وہ بیماري جو اندر جسم کے هو - بیھوش کرنے والي - اور ڈھانپ لینے والي

غاشہ the jesters, the jokers. باقان ریش مسخرے لوگ

غاصب m. one seizes another's right by violence. غیر کا حق بجبر لینے والا

غافر a. pardoning, forgiving, hiding (one's fault). m. one who pardons. - چھپانے والا گناہ بخشنے والا

غافل a. senseless, stupid, apathetic, negligent, indolent, imprudent, careless, thoughtless, not on one's guard. - بیخبر غفلت والا

غاق n. the cry of the rook or crow, caw. کوے کي آواز

غالب a. overcoming, excelling, powerful. زبردست - غلبہ والا

غالي a. dear, rebellious. مہنگا - حد سے گذرنے والا

غالیچہ m. a small carpet. گلگاري کیا هوا اوني بچھونا

غالیہ m. a kind of strong perfume. ایک قسم کي مشہور خوشبو

غامض m. a pit. a deep, abstruse, difficult, obscure, a low ground. گڑھا - گہرا - زمین پست - کلام پوشیدہ اور دیر فہم

غاني a. rich, wealthy, independant, a singer. توانگر - دولتمند - بے نیاز - راگ گانے والا

غانیہ (pl. of غواني), a woman whose ornaments are her youth and beauty, a woman who is faithfully devoted to her husband, a woman who does not desire intercourse with men other than her husband inspite of her youth. وہ عورت جو حسن و جواني کے سبب سے زیور اور زینت سے بے نیاز هو - یا وہ عورت جو کے سواے اپنے شوهر کے اور مردوں کي پرواہ نہ کرے - یا وہ عورت پارسا نہ باوجود جواني کے اُس کو خواهش مرد کي نهو خواہ اُس کا شوهر هو خواہ نهو - جمع غواني هے

غاوي a. evil, depraved, wicked. گمراہ

غائب باز m. a perfect chess-player. بڑا کامل شطرنج باز

غایت adv. very, extremely, chiefly. f. the end, extremity, excess, a standard, flag, purport, aim. - کسي چیز کي انتہا - آخر - علم نشان - جھنڈا - غرض - مطلب

غائص m. a diver. غوطہ مارنے والا پاني میں

غائط m. excrement, dung. آدمي کا پاخانہ یعني گوہ

غائلہ m. vice, badness, trouble, calamity, accident, sudden. شر - بدي - آفت - ناگھاني - بلا

غائي relating to غایت. منسوب طرف غایت کے

غب f. a tertian ague, visiting every alternate day, visiting once in a week. وہ تپ جو ایک روز درمیان دیکے آوے - باري کا بخار - هفتہ میں ایک مرتبہ کسي کي ملاقات کرنا - ایک روز آنا اور ایک روز نہ آنا

غب ghubb, m. a billowy river, a swelling in large waves. دریا بہت موج مارنے والا

غبار f. dust, vapour, clouds of dust, impurity, foulness. (met.) vexation, affliction, perplexity. مٹي ملي هوئي هوا - گرد - مراد رنج و کدورت سے

غباوت f. inadvertency, stupidity. - کند ذهني کم فہمي

غبب m. a dew-lap, a double chin. - لٹکا هوا گوشت جو ٹھوڑي کے نیچے هوتا هے - طوق گلو

غبراء *n.* a ground covered with dust. زمین گرد آلودہ

غبرہ *m.* dust, clouds of dust, a land full of trees. گرد و غبار - وہ زمین جس میں بہت سے درخت ہوں

غبغب *m.* a dew-lap, a double chin. گوشت لٹکا ہوا نیچے ٹھوڑي کے - یہہ گوشت موٹے آدمي کے حسن اور خوبصورتي میں داخل ھے

غبن *ghabn*, *m.* fraud, deceit, loss (of money, etc.,) neglect. خرید و فروخت میں نقصان اٹھانا - فراموشي - بھول

غبن *ghaban*, *m.* weakness in mind, mistake, forgetfulness. *a.* weak in mind, liable to deception. تدبیر اور رائے میں سست عقل ہونا بھول جانا

غبن فاحش *a.* gross fraud, applied especially to the forced sale of a property far below its value. صریح خسارہ اور بڑا نقصان جو کسي چیز کي خرید میں پہونچے

غبوق wine taken in the evening or early in evening. آخر روز اور سرشام کي شراب

غبي *a.* weak in mind, forgetful, negligent, imprudent. کند ذھن - کم عقل

غبین *a.* weak in mind, imprudent, forgetful. ضعیف رائے - سست عقل

غث *ghas*, *a.* weak, thin, lean, vicious, perverse, depraved, corrupt, rotenness. (*met.*) rotten meat, pus, matter of a sore. - لاغر دبلا - فاسد - خراب - سڑ جانا گوشت وغیرہ کا - مجازاً سڑا ہوا گوشت - پیپ

غثر *m.* worthless, low, sordid, mean, ignoble. فرومایہ - کمینہ

غثي *f.* sickness at the stomach, nausea. جي کا متلانا

غثیان *f.* nausea, sickness. متلي

غچک *f.* a musical instrument like a fiddle. نام ایک باجہ کا جو بہت مشہور ھے - ھندي سارنگي

غد *n.* yesterday morning, the morning of the day last past. کل کے دن کي صبح

غدا *n.* to-morrow, the day after the present. فردا روز - کل کا دن جو ہوگا

غدام *n.* the morning meal, breakfast. صبح کا کھانا

غداۃ *n.* the morning time. وقت صبح

غدار *ghaddar*, *a.* fraudulent, sly, a cheat. بہت بڑا غدر کرنے والا - بڑا بیوفا

غدد (*pl.* of غدر), see blow. جمع غدو کي

غدر *m.* perfidy, fraud, villany, ingratitude, faithlessness. بیوفائي - بیوفائي کرنا

غدر *ghudr*, *a.* faithless, perfidious بیوفا

غدر *ghadar*, darkness (of the night). تاریک ہونا رات کا

غدق *m.* water in abundance. أبسیار - بہت پاني

غدو *ghudu*, *a.* the morning. وقت صبح

غدو *n.* to-morrow, the day after the present فردا - کل کا روز

غدوہ *n.* from early in the morning till sunset. صبح صادق سے طلوع آفتاب تک

غدور *a.* very faithless, very deceitful. بہت بڑا بے وفا

غدیر *m.* a pond. تالاب جس میں پاني بارش اور جھیل کا جمع ہوجاے

غدیر *ghaddir*, *a.* fraudulent, perfidious. بہت بڑا بے وفا

غذ *ghazz*, act of flowing matter from a sore. زخم سے پیپ کا جاري ہونا

غذا *m.* the camel's urine. اونٹ کا پیشاب

غر *ghurr*, *m.* the famous people, the great grandees, whiteness of the foreheads. مشہور لوگ - بزرگ لوگ - پیشانیوں کي سفیدیاں

غر *ghar*, *a.* bad hearted. *f.* a prostitute. بد دل - عورت فاحشہ

غرا *m.* glue, a tenacious viscid matter. سریش - چپکنے والي چیز

غراء *f.* white, bright, splendid. ھر چیز مونث جو سفید اور روشن ھو

غراب *n.* a crow, raven, rook or jackdaw, a kind of Arab ship. زاغ - کوا - ایک قسم کي کشتي

غراب البین *m.* a kind of wild and black crow which has a red bill, the Arabs say that it is very unlucky to see this kind of crow before setting on a journey. ایک قسم جنگلي کوے کي جو سیاہ رنگ اور سرخ چونچ کا ھوتا ھے

غراب سیہ *m.* the night. مراد رات سے

غرار *n.* loss (of money etc.,) want of sense, foolishness, ignorance, custom, way, fashion, example, sharpness of the sword, deficiency in quantity or quality. کمي اور نقصان ھر چیز میں - کم عقل - نادانی روش، طرز - نمونہ - طور - طریقہ - تلوار کي تیزي - کسي چیز کي مقدار

غرارہ *m.* inexperienced, act of being deceived. ناآزمودہ کار ہونا - کسي کے فریب میں آجانا

غرارہ *ghirara*, *m.* a large sack. غلہ کي گون

غرار *a.* frowning, haughty brave. بھوں سکیڑے ہوئے - بہادر - مغرور

غرام *n.* greed, ambition, love, madness, distraction, ruin, trouble, adversity, evil. حرص - لالچ - عشق - محبت - شيفتگي - هلاک - عذاب - دائمي - بدي

غرامت *f.* debt, mulct, fine, shame, trouble, torture. تاوان - تاوان زده هونا - پشيماني - عذاب

غران *a.* rapacious, fierce. غصه سے شور کرنے والا - چيخنے والا - ڈراوني آواز نکالنے والا

غرانيق (*pl.* of غرنوق). جمع غرنوق کي

غرانيق العلا *m.* the idols. مراد بتوں سے

غرائب (*pl.* of غريبه), rare or wonderful events, strange things. جمع غريبه کي - اشياے عجيب

غرائر (*pl.* of غراره), sacks of grain, also (*pl.* of غرير), good qualities, the responsible people, inexperienced young men, also (*pl.* of غرار). جمع غراره کي - غله کي گونين - اور جمع غرير کي - نيک خصلتيں - ضامن لوگ - وه جوان جو کار آزموده نهوں - اور جمع غرار کي

غرب *m.* a large bucket for drawing water, a water-pot, a pitcher, sharpness (of the sword or tongue), sharpness of everything, a fleet horse, the west (where the sun and moon set), separation, parting, concealing, hiding, settling at the bottom, a fistula, an ulcer in the corner of the eye. بڑا ڈول پاني بهرنے کا - پاني رکهنے کا برتن - تلوار اور زبان کي تيزي - هر چيز کي تيزي - گهوڑا تيز رفتار - چاند اور سورج کے ڈوبنے کي جگهه - دور هونا - فراق - جدائي - چهپ جانا - نيچے بيٹهه جانا - گوشهٔ چشم کا ناسور

غرب *ghurb*, being for from one's country. وطن سے دور هوجانا

غرب *ghurub*, *a.* rare, wonderful, strange. عجيب و غريب - نادر

غربا (*pl.* of غريب), the poor, or the strangers. جمع غريب بمعني مسافر کي

غربال *f.* a sieve, a riddle, a sycophant, a small tambourine. آٹا چهاننے کي چلني - لتراآدمي - دف باجه

غربت *f.* travelling, being far from one's country and friends, exile, wretchedness. مسافرت

غربي *a.* western, occidental, a kind of red colour, date, wine. منسوب طرف غرب کے - ايک رنگ هے سرخ - خرما کي شراب

غربيله *m.* trick, artifice, pretence, coquetry. نخره

غرث *f.* hunger. گرسنگي - بهوکه

غرثان *a.* hungry. گرسنه - بهوکها

غرچک *a.* foolish, silly, ignorant. احمق - نادان

غرچه *a.* foolish, silly, bad, wicked, cowardly, pusillanimous. نادان - زبوں - هيز - نامرد

غر دل *a.* cowardly, pusillanimous, fearing, weak-minded. بد دل - ڈرپوک - بودا

غرر *gharar*, *n.* light, danger, agreement, condition. روشني - خطر - شرط جو کسي چيز کي خريد و فروخت ميں کريں

غرس *m.* planting (a tree), a black crow. زميں ميں درخت بٹهلانا - وه درخت جو زمين ميں بٹهايا گيا هو - کالا کوا

غرش indignation, wrath, anger, rage, passion. غصه ميں شور کرنا

غرض *f.* aim, mark. (*met.*) design, view, wish, intention, end, business, meaning, need, occasion, use, want, interestedness, selfishness, hatred, spite. *adv.* in short, in a word, in fine. نشانه - مجازاً حاجت - مقصد

غرغره *m.* gargling, choking sound, sound coming from a boiling pot, a rattling noise in the throat, which, dying people are afflicted with. پاني حلق ميں پهرانا - وه هوا جو گلا گهٹنے ميں نکلے - گهرا

غرف (*pl.* of غرفه), the windows. جمع غرفه کي - کهڑکياں

غرفه *a.* an upper apartment, a window, a parlour, a handful of water. بالا خانه - جو کوٹهے کے کناره پر هو - دريچه - کهڑکي - ايک چلو پاني

غرق *m.* drowning, sinking. *a.* drowned, immersed, sunk. ڈوب جانا - سر سے پاني کا اونچا هو جانا

غرق *ghirq*, a drowned, a drowning man. غريق - ڈوبا هوا

غرقاب deep-water, a whirlpool. بڑا گهرا پاني

غرقه *m.* drowned. ڈوبا هوا

غرم *m.* fine, debt, loss. تاوان - نقصان

غرنوق / غرنيق } *m.* a fowl of a large breed, young man of a fair complexion and very delicate, name of an idol. ايک پرند جو پاني ميں رهتا هے اس کا رنگ سياه هوتا هے اور گردن دراز هوتي هے - وه جوان جو گورا رنگ خوب صورت نازک بدن هو - نام ايک بت کا بهي

غروب *m.* setting (of the sun, etc.,) the west. ڈوبنا چاند و سورج وغيره کا

غرور *m.* a deceiver, artful, the world, devil, a gargle. فريب دينے والا - دنيا - شيطان - دوا ئي کا پاني جس سے غرغره کريں

غرہ *ghurra*, *m.* a white spot in the forehead of a horse, finest, best, whiteness, the forehead. (*met.*) the first day of the moon. گھوڑے کي پیشاني کي سفیدي - بھتر اور عمدہ ھر چیز سے - مجازاً پھلي تاریخ چاند کي

غرہ *gharra*, haughty, proud, misled, deceived. *m.* pride. فریفتہ ھونا - غرور کرنا

غریب *m.* a foreigner, a stranger. *a.* poor, mild, humble, rare, wonderful, strange. مسافر - نادر - مجازاً بمعني محتاج

غریبي *f.* separation, parting. جدائي گھر بار سے

غریدن *ghuridan*, *inf.* to shout with a fearful noise. ڈروني آواز سے چلانا

غریز *f.* good disposition, good nature, a security, an unexperienced youth. خصلت نیک - ضامن - وہ جوان جو ناآزمودہ کار ھو

غریز } nature, meekness, gentleness.
غریزت } اصل - طبیعت - سرشت

غریزي *a.* innate, natural. اصلي - طبعي - خلقي

غریق *m.* a drowning person. *a.* immersed, drowned. ڈوبا ھوا

غریم *m.* a creditor, a debtor, the one fined. قرضدار - قرضخواہ - تاوان زدہ

غرین *m.* a wood, forest, or thicket, frequented by lions. وہ بیشہ اور جنگل جس میں شیر رھتا ھو

غریو *gharew*, *m.* noise, tumult, cry for help, a gurgling noise in the throat, growling, screaming. شور - فریاد - غل - چیخ کي آواز - غوغا

غریوان *m.* one who laments, screams or exclaims. شور کرنے والا - چیخنے والا

غزا *m.* making war (against infidels). - جھاد کافروں سے جنگ کرنا

غزات (*pl.* of غازي), conquerors, heroes, particularly so if they have fought against and slain infidels. جمع غازي - بمعني قاتل کفار کي

غزال *m.* a young deer, a fawn, the gazelle, the sun, a delicate young person. ھرن کا بچہ - ھرنوٹا - آفتاب

غزال *ghazzal*, *m.* a rope seller. رسي بیچنے والا

غزالہ *m.* a young deer, a fawn. (*fem.*) the sun. ھرن کا بچہ جو مادہ ھو - آفتاب

غزل *m.* spinning, twisting, forming by convulotion (as ropes), thread, rope. - کاتنا رسي بٹنا - سوت - رسي

غزل *ghazal*, *f.* an ode, a short poem or amatory sonnet. وہ کلام جس میں عورتوں کے حسن و جمال کي تعریف اور عشق و عاشقي کا ذکر ھو

غزل *ghizl*, *m.* a repeater of odes. غزل خواں

غزنہ } *m.* the name of the birthplace
غزني } of Sultan Mahmud Ghazni. نام
غزنین } اُس شھر کا جھاں سلطان محمود غزنوي پیدا ھوا تھا

غزوات (*pl.* of غزوہ). جمع غزوہ کي

غزوہ *m.* waging war against infidels, for the defence of Islam (in case Mahomet or an Imam be present otherwise that war will be called سریہ). جنگ مسلمانوں کي کافروں سے دین اسلام کے لئے بشرطیکہ محمد یا امام وقت اُس جنگ میں ھمراہ ھوں

غژب *m.* the fresh and ripe seed of the grape. انگور کا پختہ اور تازہ دانہ

غژم *m.* the fresh and ripe seed of the grape. انگور کا پختہ اور تازہ دانہ

غژیدن *inf.* to move along, rubbing on the ground, as a child on his buttocks before he is able to walk. مثل لڑکوں کے چوتڑوں کے بل بیٹھے بیٹھے ھاتھوں کو زمین پر ٹیک کے چلنا

غساق any stinking or filthy thing like matter of a sore. گندہ اور بد بو چیز مثل پیپ کے

غسال *m.* one whose business it is to wash the bodies of the dead. مردوں کے بدن دھونیوالا

غسالہ *n.* dirty water with which anything has been washed, bathing. وہ پاني جس سے ھاتھہ مونھہ دھویں . وہ پاني جو بعد دھونے کے کسي جگھہ گرے

غسق *f.* the darkness of the first part of the night. اول شب کي تاریکي

غسک *m.* a bug. ایک چھوٹا کاٹنے والا جانور کھٹمل (ھندي)

غسل *m.* bathing, ablution. تمام بدن سے نھانا

غسل *m.* water used for bathing, an alkali or flour used in bathing (as a substitute for soap). وہ پاني جس سے دھوئیں - سر دھونے کي چیز مثل بیسن وغیرہ

غسل خانہ *m.* a bath, bagnis. کنایہ حمام سے

غسلین *m.* the water with which a wound has been washed, the blood, pus and filthy water which will flow from the wounds of the damned, name of a tree in hell, name of a fountain in hell. وہ پاني جس سے زخم دھویا ھو - وہ خون اور پیپ اور گندہ پاني جو اھل دوزخ کے بدنوں سے جاري ھوگا - نام ایک درخت کا دوزخ میں - نام ایک چشمہ کا دوزخ میں

غسول *m.* the water with which anything has been washed, anything with which one may wash his head (as alkali, soap, wort, etc.) وہ پاني جس سے کوئي چيز دھوئي جائے - وہ چيز جس سے سر وغيرہ دھوئيں مثلاً ز رہ مٹي ريٹھا وغيرہ

غسيل *a.* washed, bathed, cleansed. دھويا گيا - نہلايا گيا

غشاء *n* garment, vestment, membrane, cover, case, a thin skin, pellicle, the caul. پوشش - پردہ - غلاف - جھلي

غش *gaish, f.* foulness, defect, perfidy, treachery, embezzlement, malice, impiety, meanness. کدورت - عيب - خيانت - کمينہ پن - بدباطني - کھوٹا پن

غش *ghash, m.* imposture, hypocrisy, embezzlement, adulteration, stupor, fainting. منافق پن - خيانت کرنا - کسي کم چيز کا - کسي قيمتي دھات خوشبو اور شراب وغيرہ ميں ملانا - بيہوشي

غش *ghush, m.* hypocrite, an atheist, an embezzler, traitor, treacherous, internally evil, wishing evil. منافق - خيانت کرنے والا - دغا باز - بد - باطن - بد خواہ

غشاوہ *m.* membrane, caul, pellicle. - جھلي پردہ

غشي fainting, being stupified, concealing, hiding, whipping, striking with a lash, visiting, cheating. - بيہوش ہونا - بيہوش کرنا عورت سے جماع کرنا - پوشيدہ کرنا - چھپانا - کوڑا مارنا - خيانت کرنا

غشيان *ghishyan, coitus concubitus.* عورت سے جماع کرنا -

غشيان *ghashayan,* fainting, being stupified. بيہوش ہونا

غصب *ghasab, m.* violence, injustice, force, oppression, ravishing, plunder. کسي کي چيز کو ظلم سے چھين لينا - کسي کا حق جبر سے لے لينا

غصص (*pl.* of غصہ), جمع ھے غصہ کي

غصن *n.* the branch (of a tree). درخت کي شاخ

غصون (*pl.* of غصن) young branches. جمع غصن کي - درخت کي شاخيں

غصہ *m.* strangulation, suffocation, (*met.*) anxiety, grief, anger. - گلو گير - وہ اندوہ رنج جس سے گلا گھٹ جائے - مجازاً بمعني خفگي

غض *ghuzz,* closing the eyes tightly, speaking slowly, enduring. آنکھوں کا بھينچ کر بند کرنا - دھيمي آواز سے بولنا - تحمل اور برداشت کرنا

غضاريف (*pl.* of غضروف). جمع ھے غضروف کي

غضب *m.* violence, oppression, injustice, compulsion, passion, rage, vengeance, anger. *a.* angry. غصہ - غصہ کرنا - خفگي - قہر

غضب *ghazb, m.* a furious man or snake. بڑا غضبناک آدمي ھو سانپ

غضبان *a.* angry, enraged, (Pers.) a stone thrown towards the enemies with a sling or ballista. وہ شخص جو غصہ و قہر ميں بھرا ہوا ھو - خشمناک - قہر ناک - استعمال فارسي ميں وہ پتھر جو منجنيق سے دشمن کيطرف پھيکتے ھيں

غضروف *f.* gristle, cartilage. وہ نرم ھڈي جو چبانے کے قابل ھو - کري (ھندي)

غضنفر *m.* a lion, a champion, a hero. شير درندہ - شير نر - بہادر

غضوب *a.* very passionate, very angry, furious. بڑا غضبناک - بڑا خشمگين

غضيض *f.* a fresh and tender bud of a tree. نازک کلي درخت کي تازہ

غطارس
غطاريس } *m.* a cruel man, merciless, proud, boastful. - مرد ظالم صاحب غرور

غطريف *a.* honourable, gentle, great, brave. بزرگ - شريف - جوانمرد

غطاش weak-sightedness. ضعف بصر

غطيط *m.* a breathing with a rough, hoarse noise in sleep, a snore, a smothered sound. آواز خر خر کي جو بعض آدميوں کے گلے سے سونے ميں نکلتي ھے - وہ آواز جو گلا گھونٹنے اور ذبح کرتے وقت گلے سے نکلے

غفار *m.* forgiving (the Deity), hiding. بڑا چھپانے والا - بڑا بخشنے والا - نام ھے حق تعالي کے ناموں سے

غفار *ghufar, m.* the hair on the calf of the leg, forehead, the nape of the ear and both sides of the beard. پنڈلي اور پيشاني اور گردن اور گدي اور ڈاڑھي کے دونوں جانب کے بال

غفر *m.* pardon, remission of sins, forgiveness, hiding goods, tinging the hair. چھپنا - گناہ کا بخشنا - اسباب کا چھپا کر رکھنا - بالوں پر خضاب لگانا

غفران *m.* pardon, remission of sins, forgiveness. بخشش - گناہ کا معاف کرنا

غفلت *f.* carelessness, negligence, inadvertency, neglect. بھول - چوک - چوک جانا

غفور *a.* clement, forgiving, merciful, one of the epithets of the Deity. بڑا بخشنے والا گناھوں کا - ايک نام ھے حق تعالي کے ناموں سے

غفیر *m.* hiding, forgiving, a helmet, a head-piece. جم غفیر so large a gathering of men as to cover the face of the earth. چھپانے والا - لوھے کا خود جو تمام سر کو چھپا لے - اور جم غفیر اتنا بڑا گروہ آدمیوں کا جو روے زمیں کو چھپا لے

غل *ghull*, *m.* an iron necklace, collar-band, thirst, great thirst, inflammation of the heart. لوھے کا طوق - بند - تشنگي - پیاس - سوزش قلب

غل *ghill*, *m.* hatred, malice, perfidy, fraud, cheat, trick, envy. - کینہ - خیانت - کدورت کھوٹا پن - کسي کي طرف سے کینہ رکھنا

غلا *m.* famine, dearth, scarcity of corn and everything. قحط - گراني غلہ وغیرہ کي

غلات *ghallat*, (*pl.* of غلا). جمع غلا کي

غلاظ *ghulaz*, *a.* fat, fleshy, bulky, hard, rigid, stiff, coarse. موٹا - دلدار - سخت - درشت

غلاظ (*pl.* of غلیظ) (which see). جمع غلیظ کي

غلاظت *f.* thickness, spissitude, coarseness, hardness, roughness, roughness of manners. موٹا پن - سختي - درستي

غلاف *m.* a case, a cover, a sheath, the prepuce. اوپر کا پردہ - خواہ پوشش

غلالہ *m.* an under waistcoat. شلوکہ جو زرہ یا کپڑوں کے نیچے پہنتے ھیں

غلالہ *ghalala*, *m.* (Pers.) lock of a mistress. فارسي میں زلف معشوق سے مراد ھے

غلام *m.* (in Pers.) a male slave, (in Arab.) a boy or youth, a young man at maturity. لڑکا مجازاً بندہ - نوکر

غلبہ *m.* superiority, conquest, assault, strength, prevalency, predominancy. زبر دستي - زور - غالب آنا

غلبات (*pl.* of غلبہ), جمع غلبہ کي

غلت *a.* blundering, erring, making a mistake. سھو کرنا - غلطي کرنا

غلتبان *m.* a pimp, a wittol, a mean scoundrel.

غلس *n.* the darkness of the last part of the night. آخر شب کي تاریکي

غلط *m.* an error, a mistake. *a.* wrong, erroneous. سخن اور حساب و کتاب میں خطا کرنا

غلطاق *m.* a shirt. کرتا

غلطان *a.* rolling, wallowing. لڑھکتا ھوا

غلطک turning (in bed), the wheel (of a carriage). کروٹ - بدلنا - گاڑي کا پہیہ

غلط کردن *inf.* to disannul, to waste, to spoil. ضائع کرنا

غلطیدن *inf.* to roll, to wallow, to sleep on the sides. لوٹنا - کروٹ سے لیٹنا

غلظ *ghilaz*, *f.* thickness. موٹا پن - دلدار ھونا

غلظ *ghalz*, *n.* hard and unlevel ground. زمین سخت و نا ھموار

غلظت *f.* thickness. موٹا پن - دل - موٹائي

غلغل twittering (of birds), chirping. پرند جانوروں کا شور کرنا مستي سے

غلغلہ *m* noise, tumult. شور - غوغا - غل

غلف *ghalaf*, covering, sheathing, putting in a case. کسي چیز کا غلاف میں کرنا

غلف *ghulaf*, (*pl.* of غلاف). جمع ھے غلاف کي

غلف not circumcise, plenitude of luxury. ختنہ نہ کرنا - فراخي عیش کي

غلق *a* closing (a door). دروازہ کا بند کرنا

غلق *ghalaq*, *m.* a latch. کلیدان - مغلاق

غلق *ghuluq*, a closed door. بند - دروازہ

غلل *ghalul*, (*pl.* of غلیل), the thirsty ones. جمع غلیل کي - پیاسے

غلل *ghalal*, *m.* burning sensation, burning heat, thirst. سوزش - جان - پیاس

غلمان *m.* (*pl.* of غلام), boys, the beautiful youths who will attend on the righteous in Paradise. - جمع ھے غلام بمعني امرد لڑکے کي بہشت کي مخلوق بصورت امرد لڑکوں کے اھل جنت کي خدمت میں رھینگے

غلمت *f.* burning passion, (lust). تیز شھوت ھونا

غلمت *ghalumat*, *f.* violent lust and its conquest. تیزي شھوت کي اور غلبہ آسکا

غلمہ (*pl.* of غلام), boys. جمع غلام کي - امرد لڑکے

غلو *a* act of raising one's hand high, gathering crowd, transgressing, excess rebellion. ھاتھہ بلند کرنا - ھجوم - اور بمعني حد سے گذر جانے کے بھي آیا ھے

غلو *ghulu*, (Pers.) tumult, noise. شور - غوغا

خلول *ghalul*, *m.* a food which can soon be digested by the old and the weak people. وہ کھانا جو بوڑھے اور کمزور آدمي جلد ھضم کرلیں

غلول *ghalul*, unjust appropriation of a portion of the spoil. اسباب غنیمت میں خیانت کرنا

غلولہ *n.* a small ball, a pellet. گولي

غلہ *m.* the produce of the earth, grain, corn. آناج

غلي *f.* boiling of a pot, seething of a kettle. اُبلنا دیگ وغیرہ کا

غلیان *a.* boiling over, fermenting. - جوش مارنا ابلنا - جوش

غلیان the pipe, etc., in which tobacco is smoked, a hookah. قلیان - حقہ

غليث *n.* barley and wheat mixed. جو اور گیہوں ملا ہوا

غليظ *a.* thick. (*met.*) filthy, dirty. - موٹا دلدار - مجازاً ناپاک

غليل *f.* thirst, burning, pain, heart-burn, envy, malice, thirsty. - پیاس - سوزش - کینہ بغض - تشنہ - پیاسا

غليواز *m.* a kite. چیل مشہور پرند ہے

غماء (both *sing.* and *plu.*) senseless, unconscious. مفرد اور جمع دونو آیا ہے - وہ شخص جو بیہوش ہو

غماء *ghima*, *n.* the root of a house. مکان کي چھت

غمار *n.* abundance, plenitude, superfluity. انبوھي - بسياري - کثرت

غماز *m.* a coquette, ogler, one who winks, censurer, an informer, talebearer, backbiter. - آنکھہ سے اشارہ کرنے والا - غمزہ کرنے والا - سخن چین - چغلخور

غماض *ghimaz*, dozing, nodding from sleepiness. اونگھنا

غمام } *m.* a cloud. سحاب - ابر
غمامہ }

غمان *a.* sorrowful, sad, grieved. - غمناک رنجیدہ

غمائم (*pl.* of غمامہ), clouds. جمع غامہ بمعني ابر کي

غمخوار *a. lit.* devouring sorrow, *i. e.* afflicted, sad, condoling, pitying, an intimate friend. یار - دوست

غم خوردن *id.* to suffer grief, to have patience. غم کھانا

غمد *m.* the scabbard, a sheath, the case of a sword or knife. چھري اور تلوار کا میان

غمدان *n.* the world. کنایہ دنیا سے

غمر *n.* much water, abundance, plenitude, superfluity, malice, thirst. *a.* brave, liberal, covering of anything by water. بہت پاني - انبوھي - کثرت - کینہ کرنا - پیاسا ھونا - جوانمرد - سخي آدمي - پاني کا کسي چیز کو چھپا لینا

غمر *ghimr*. *n.* malice, envy, thirst. - کینہ تشنگي - پیاس

غمر *ghumr*, *a.* ignorant, inexperienced, fool. نادان - احمق - نا آزمودہ کار

غمرات *f.* adversities, troubles, groups (of men). سختیاں - آدمیوں کي کثرتیں

غمز *a.* winking, throwing an amorous glance, squeezing hard, pressing hard, compressing accusing, backbiting, eaves dropping. - اشارہ کرنا - سخت نچوڑنا - نکیدہ سے تنگ بھینچنا - تہمت کرنا - سخن چیني - چغلخوري

غمزدگي *f.* grief, sorrowing. غمزدہ ھونا

غمزہ *m.* a wink, an amorous glance, ogling, squeezing hard, compressing tightly. آنکھہ اور بھوں سے معشوق سے اسپارہ کرنا - سخت نچوڑنا - تنگ بھینچنا

غمس immersing in water, sinking, setting (of a star). پاني میں ڈبو دینا - ستارہ کا ڈوبنا

غمض dozing, nodding from sleepiness. اونگھنا

غمکدہ *m.* a house mourning. (*met.*) the world. غم کا گھر - اور کنایہ دنیا سے

غمگسار *a.* afflicted, sad, condoling, pitying, an intimate friend. - دکھہ دور کرنے والا غمخوار

غموص *f.* a false oath which one takes knowingly. جھوٹي قسم جو جان بوجھکر کھائے

غموس *n.* name of one of the forts of Khaiber, a false oath. نام ایک قلعہ کا خیبر کے قلعوں سے - سو گند دروغ

غموض *f.* difficulties, secrets of an art. ھر فن کي مشکلیں ھر علم و ھنر کي پوشیدگیاں

غموم (*pl.* of غم), sorrows, griefs. جمع غم کي

غمہ *ghumma*, *m.* grief, sorrow, hidden, secret, bed of a river, bottom. - غم - اندوہ پوشیدہ کام - دریا اور ھر چیز کي تہ

غنا *f.* riches, wealth. تونگري - دولتمندي

غنا *ghina*, *f.* a song, melody, modulation, a musical note. گانا - راگ - نغمہ

غنا *ghana*, profit, gain. سود - نفع - فائدہ

غنائم (*pl.* of غنیمت), spoils, prey, plunder, enemies, plunderers. جمع غنیمت کي - لوٹ کے مال وغیرہ

غنج *n.* blandishment, a wink, an amorous glance or gesture. - معشوق کا کرشمہ و ناز حرکت چشم و ابرو

غنجار *m.* cosmetic, an external application to improve the beauty. دلگونہ - دواے مرکب جو عورتیں زیادتي حسن کے لئے منھہ پر ملتي ھیں

غنچہ *m.* a bud. کلي - بغیر کھلا ھوا پھول

غنچۂ آب *m.* a bubble, a small vesicle of fluid inflated with air. حباب - پاني کا بلبلہ

غنم *f.* a she-goat, a sheep. بکري مشہور جانور

غنودن *inf.* to does, to nod from sleepiness. اونگھنا

غنہ *ghunna*, *m.* a sound through the nose, the buzzing of flies, quiescent, nasal. ناک میں بولنے کي آواز

غني *m.* independent, rich, wealthy, opulent. بے پروا - دولتمند

غنيت *f.* opulence, richness, wealth. - بے نيازي دولتمندي

غنيم *m.* an enemy, a plunderer. - لوٹنے والا لوٹيرا - دشمن

غنيمت *f.* plunder, spoil, abundance, good fortune, affluence. لوٹ کا مال - لوٹ

غواهي (*pl.* of غاديه), the clouds. - جمع غاديه کي صبح کے ابر

غواشي (*pl.* of غاشيه), curtains, tents, internal diseases, stupefying, visiting people, saddle cloths or covers. - جمع غاشيه کي پردے - خيمے - اندروني بيماريان - زيارت کرنے والے - زين پوش - بے هوش کرنے والے

غواص *m.* a diver (for pearls, etc). واسطے موتي وغيره نکالنے کے - دريا ميں غوطه لگانے والا

غوامض (*pl* of غامضه), intricate questions, hidden meanings. کلام کي پوشيدگياں اور دقتيں - باريک معاني

غواني (*pl.* of غانيه), women devoted to their husbands, women who are regardless of the ornaments because of their youth and beauty. جمع غانيه کي - وه عورتيں جو اپنے حسن و جواني کے سبب زيور اور آرائش سے بے پروا هوں - وه عورتيں جن کو باوجود جواني کے خواهش مردوں کي نهو

غوايت *f.* depravity, deviation. گمراهي

غوائل (*pl.* of غائله), adversities, calamities, troubles, misfortunes, vices. - جمع غائله کي سختياں - بلائيں - بدياں - برائياں

غوث *m.* one who attends to a complaint, a defender, complaint, cry for help, a title of Muhammadan saints, whose ardour of devotion according to vulgar tradition, is such, that in the act of worship their head and limbs fall asunder. - فرياد رس فرياد

غوچ *m.* a horned ram used to fight. شاخدار مينڈها لڑائي کا

غوچي *n.* a small pit, a cavity. چھوٹا گڑها

غوچه *m.* the crest of a cock, a comb. مرغ کي کلغي

غور depth, bottom, a low ground, act of going down, useful. گهرائي - هر چيز کي گهرائي اور ته - پست زمين - نيچے جانا - فائده پهونچانا

غوره *m* unripe and sour grape. کچا انگور جس کا مزه کھٹا هو

غوزه *m.* a pod of cotton. روئي کا پھل جو ابھي چٹکا نهو

غوطه *m.* dipping, diving, a dip, a dive, name of a place. پاني کے اندر جانا - نام ايک شهر کا

غوغا *m.* noise, disturbance, uproar, clamour, a large party, the flight of locusts, complaint. - شور - غل - آدميوں کي بڑي جماعت کثير ٹڈي دل - فرياد

غوغائيان گلبن (*met.*) the nightingales. کنايه بلبلوں سے

غوک *m.* a toad, a frog, butt for archers. مينڈک - عربي ضفدع

غول *m.* an imaginary species of sylvan demons, of different shapes and colours, supposed to devour men and animals. ايک قسم ديو اور جن کي جو جنگل ميں رهتے هيں

غول *m.* the ear, a crowd, a troop, a gang. گوش - فوج کا انبوه - گروه

غول سيه (*met.*) the night. کنايه رات سے

غوي *a.* depraved, erring, wandering, abandoned, unprincipled. گمراه - بے راه

غي *f.* depravity, deviation, name of a desert in hell. گمراهي - گمراه - نام ايک صحرا کا جهنم ميں

غيات listening to complaints, redressing wrongs, assistance, redress, succours. فرياد رسي - فرياد - فرياد کو پهونچنے والا جس کے سبب سے خلاصي پائيں

غيار *m.* any piece of dress which distinguishes a class, a piece of yellow cloth suspended near the shoulders by the Jews. وه کپڑا جس سے ذات ميں تميز هو سکے - زرد کپڑا جو يهودي لوگ اپنے کپڑے پر نزديک شانه کے سي ليتے هيں

غيات *m.* one having a very long beard. جس کي ڈاڑهي بهت لمبي هو

غياص *a.* diving, studying deeply. - غوطه مارنا باريکي ڈهونڈهنا

غيب *a.* latent, concealed, absent, invisible, mysterious, a low ground, doubt, suspicion. پوشيدگي - ناپديدگي ناپديد هونا - پست زمين - شک - گمان

غيبت *f* slander, detraction, anything secretly whispered of an absent person. کسي کے پيٹھه پيچھے اُس کو برا کهنا اور اُس کا عيب بيان کرنا

غيبوبت *f.* disappearing, concealing (*met.*) separation, absence. ناپديد هونا - غائب هونا - مجازاً بمعني جدائي اور مفارقت کے بهي

غيبه m a quiver, a case or sheath for arrows. تير كش تيروں كا باوان منهه

غيث f. the rain.

غيداق n. name of a place in Turkistan. نام مقام كا تركستان ميں

غيداقي f. a kind of very strong and sharp pointed arrow ايک قسم تير كي جو نهايت آبدار اور مضبوط هوتا هے

غير other, different, foreign (subs.) a stranger. adv. except, unless, in comp. it denotes negation or the absence of a thing. سواے - علحدہ شے

غير مكرر m. a stranger. اجنبي شخص جس سے پہلے ملاقات نهو

غيراز except, besides, other than. سواے

غيرت f. jealousy, emulation, modesty, bashfulness, honour, courage, a nice sense of humour. رشک كرنا - شرم

غير متناهي a. unlimited, boundless. جس كي انتها نهو

غير واقع a. a false statement, unusual. جهوتهه - خلاف دستور

غير و قوعي unworthiness, indecency, impoliteness, unreality, want of real existence, scarcity of water - نالائقي - ناشايستگي - بےاصل امر جس كا وجود نهو

غيض m. a desert, forest, jungle. (met.) a small gift. - بهت تهوڑا پاني - صحرا - جنگل مجازاً بمعني بخشش كے بهي

غيض ghiz, n. a bud, a flower. شگوفه - كلي

غيطله m a desert, jungle. صحرا - جنگل

غيظ m. great anger. سخت غصه

غيف m. flight of birds, flock of birds. پرندوں كا گروه

غيل n. desert, a jungle, a field of sugarcane. صحرا - جنگل - نيستان

غيلان (pl. of غول), demons. جمع غول بمعني ديو كي

غيم m. the cloud which may cover the whole sky. وه ابر جو آسمان كو چهپا لے

غين m. the cloud, the cloud which may cover the whole sky, thirst, darkness, obscurity, the nineteenth letter of the Arabic and the twenty-second of the Persian alphabet. (met.) the nightingale. ابر - وه ابر جو آسمان كو چهپالے - تشنگي - پياس - تيرگي - اندهيري - نام ايک حرف تهجي سے - مجازاً بمعني بلبل

غيوب (pl. of غيب), جمع غيب كي

غيور a. jealous in point of honour or of love, very shy, an epithet of the deity. بڑا رشک كرنے والا - بڑا شرم كرنے والا - بڑا غيرت دار

غيوم (pl. of غيم), clouds. جمع غيم بمعني ابر كي

— ف —

ف fe or fa, is the twenty-third in the Persian and the twentieth letter of the Arabic alphabet. Prefixed to Arabic words (with the short a as fa) it denotes, and, then, as فقط and that is all, merely, only. Its sound is precisely that of the English f. In reckoning by ابجد it stands for 80.

فئه m. a band, troop, levy of people, company, crew. آدميوں كا گروه

فاتح m. one who opens, a conqueror. شروع كرنے والا - كهولنے والا

فاتحه f. commencement, exordium, the first chapter of the Quran, which being repeated when praying for the souls of the dead, the word comes to mean prayers offered up in the name of saints, etc., and, vulgarly, oblations made to saints, etc. fem. of فاتح one who opens (a woman). نام قران شريف كي پهلي صورت كا - مجازاً ديباچه - اول اور شروع كسي چيز كا مونث فاتح كا - كهولنے والي عورت

فاتر a. lazy, wicked, bad, tepid water. - سست زبوں - نيم گرم پاني

فاتق a. tearing, rending, spliting. پهاڑنے والا

فاتک a. brave, valiant, heroic. - دلير - شجاع بهادر

فاتن a. deceiving, misleading, enamouring, fasinating, a devil. گمراه - فريفته كرنے والا كرنے والا - مفتون كرنے والا - شيطان

فاجر fajir, m. a fornicator, an adulterer, a sinner. a. sinful, unchaste. - مرد بدكار گنهگار - حرامكار - زاني - زنا كرنے والا

فاجره f. an adulteress, a sinful woman. بدكار اور حرامكار عورت

فاحش a. obscene, indecent, impudent, shameful, enormous, gross. بدي ميں حد سے گذرنے والا - هر بدي جو حد سے گذر جائے

فاحشه f. a harlot, a prostitute, anything abominable or sinful. - بد عورت - زن بدكار عورت زنا كرنے والي - گناه - برا كام - بدي هر چيز جس كا كرنا شرع ميں منع هے

فاختہ *f.* a dove, name of a colour. مشہور پرند کا نام - رنگ کا نام

فاخر *m.* a boaster, an agotist. *a.* excellent, precious, honourable. فخر کرنے والا - تحفہ عمدہ - معزز

فاخرہ *a.* excellent, best, costly. ہر چیز عمدہ اور بیش قیمت

فاذا verily then, in that case. اُس حالت میں

فار (*pl.* of فارہ), rats, mouses, the pods of musk. جمع فارہ کي - بہت سے چوھے - نافۂ مشک

فارعہ *f.* a good tempered woman, a woman of an amiable disposition. عورت خوش طبع

فارد *a.* alone, sole, singular. جدا - اکیلا - یگانہ زمانہ

فارس *faris*, *m.* a horseman, a rider, a cavalier, one of the southern provinces of Persia, ancient Parthia. گھوڑے کا سوار - گھوڑے کا مالک - نام ایک ولایت کا

فارغ *a.* free, at leisure, ceasing from labour, absolved, discharged, contented. خالي - بے کام

فارغ البال *a.* independent, free from care, contented. فارغ دل - جس کو کچھہ کام نہو - بے اندیشہ - بے فکر

فارغ خطی *f.* a written deed of release or full acquittance. لادعوی اور آزادي نامہ

فارق *a.* distinguishing, separating. فرق کرنے والا - جدا کرنے والا

فاروق *m. lit.* a distinguisher between right and wrong, a title of Omar the second Caliph, a kind of treacle or theriaca esteemed an antidote against poison.

فارہ *m.* a rat, a mouse, a pod of musk. ایک چوھا - مشک کا نافہ

فاز *a.* wise, fast, going. عقل مند - تیز رفتار

فاژہ *m.* a grape, a yawn, opening in fissures. دھن درہ - انگڑائي - جماھي

فاس *n.* an axe for hewing wood. لکڑي چیرنے کي کلھاڑي

فاسخ *m.* ruining, corrupting, perversing, violating (an agreement, etc). تباہ اور فاسد کرنے والا - تباہ اور فاسد ہونے والا - ارادہ اور قصد کا توڑنے والا

فاسد *m.* vicious, perverse, depraved, corrupted, ruined. بد - بگڑا ہوا - خراب - تباہ

فاسق *m.* fornicator, an adulterer, a sinner, a worthless fellow. بدکار مرد

فاسقہ *f.* an adulteress, an unchaste woman. بدکار عورت

فاش *a.* apparent, manifest, known. - ظاہر آشکارا

فاصل *a.* separating. جدا کرنے والا

فاصلہ *m.* separation, space, intermediate space, distance. دوري - فرق

فاضل *a.* excellent, learned, virtuous, abundant. خوب - صاحب فضل - افزوں

فاضلہ *m.* and *f.* great, abundant, a gift, a virtuous woman. - بزرگ - افزوں - زیادہ - عطا - بخشش - عورت صاحبۂ فضل

فاطر *m.* creator. پیدا کرنے والا - خالق

فاطن *a* wise, learned. دانا - عقلمند

فاطمہ *f.* the daughter of the prophet *Muhammad*, and the wife of the Caliph 'Ali. محمد کي دختر اور خلیفہ علي کي بي بي کا نام

فاطمیت *f.* the *Fatimite* dynasty which reigned in Egypt from A. D. 908 to 1171 فاطمہ کي پشت جس نے مصر میں سنہ ۹۰۸ ع سے ۱۱۷۱ ع تک سلطنت کي

فاعل *a* making, doing, acting. *m.* an agent, the participle, active, the nominative. کرنے والا - کام کرنے والا

فاق *f.* the notch of an arrow, arrow. تیر کا سوفار

فاقد *m.* a loser, missing. گم کرنے والا

فاقد البصر *m.* a blind man. اندھا آدمي

فاقع *m.* fresh yellow colour. زرد رنگ ڈھڈھا

فاقہ *m.* poverty, necessity, want, (in Pers.) a fast, fasting (from want, not as a religious duty). بھوکھا رھنا - فقیري - حاجت

فاکر *m* caring (for a work). کسي کام میں فکر کرنے والا

فاکھہ *m.* a fruit, (*pl.* فواکھہ). میوہ - پھول مثل انگور سیب انار وغیرہ کے

فال *m.* an omen, augury, presage, enchantment. شگون

فالج *m.* the palsy (particularly, hemiplegia). نام مرض کا جس میں آدمي کا آدھا بدن ڈھیلا اور بے حرکت ہوجاتا ھے

فالق الاصباح *m.* God Almighty. حق تعالی

فالودہ *m.* a kind of flummery or sweetmeat. ایک مشہور شے جسے چاولوں کي پیچ جما کر بناتے ھیں

فالیز *f.* a field of melons خربوزوں کا کھیت

فام joined to nouns of colour, implies a tendency to such colour, as سیاہ فام blackish colour. رنگ - لون

فانوس *m.* and *f.* an eavesdropper, backbiter, a shade (to keep the wind from a candle), a lantern سخن چين - لترا - فانوس جس ميں شمع جلاتے هيں

فانوس خيالي } *f.* a paper lantern which
فانوس خيال } revolves by the smoke of the candle within, and has on the side of it figures of various animals ايک كاغذ كا فانوس جس ميں چراغ جلا كر ركهه ديتے هيں اور اس كے گرد كاغذ كي تصوير كسي طرح كي كات كر لگا ديتے هيں جس وقت وه گهومتي هے تو بهت اچها معلوم ديتا هے - قنديل (هندي)

فاني *a.* frail, transitory, inconstant, perishable. *m.* a very old man. مرنے والا - فنا هونے والا - بڑا بوڑها آدمي

فانيد *f.* white sugar, candy. شكر سفيد - مصري

فائت *a.* perishing, transitory. نيست هونے والا

فائح } *m.* a perfume, a scent, fragrance.
فائحه } خوشبو - وه چيز جس ميں سے خوشبو آوے

فائده *m.* profit, gain, advantage, utility. نفع - سود

فائز *a.* overtaking, reaching, obtaining, obtaining release, freedom, conquest, wish. پهونچنيوالا - پانے والا - خلاصي اور رهائي اور فتح اور مراد پانے والا

فائض *m.* liberal, munificent, one who bestows favour. فيض دينيوالا

فائق *m.* superior, paramount, selected, chosen, great, better, abundant, name of of a book. بلند هونے والا - فوقيت اور بزرگي ركهنيوالا - بهتر - برگزيده - افزوں - نام كتاب كا

فبها *int.* excellent ! brave ! very well, so be it, in addition to. بهتر - بهت خوب - پس ساتهه اس كے

فتا *m.* a youth. *a.* brave, liberal, munificent. مرد جوان - بهادر - سخي

فتات *f.* a young woman. عورت جوان

فتاته *m* scrap, piece, bit. هر چيز كا ريزه

فتاح *m.* one who opens, a conqueror, commander, one of the epithets of God. - كهولنيوالا حكم كرنے والا - نام هے ايک خدا كے ناموں سے

فتادن *int.* to fall, etc گرنا - گر پڑنا

فتاده *a.* fallen, prostrate. گرا هوا

فتح *f.* an aperture, opening, victory, triumph, conquest. كهولنا - مجازاً جيتنا ملک كا

فتح الباب beginning of the rainy season. آغاز موسم برسات كا

فتحه *m.* the vowel point *zabar*, or short. *a.* (so called by the Arabs), the beard. زبر جو حرف كے اوپر لگاتے هيں

فتر *fitr*, space between the thumb and the index finger, difference between the two things. كشادگي درميان انگوٹهے اور شهادت كي انگلي كے - فرق درميان دو چيز كے

فتر *fatar*, *n.* idleness, slothfulness, weakness, poverty. سستي - ناتواني

فتراک *n.* cords fastened to a saddle on both the sides meant for hanging game to, saddle straps. جو تسمه شكار وغيره باندهنے كے لئے زين كے دهنے اور بائيں لٹكاتے هيں

فترات (*pl.* of فترت). جمع فترت كي

فترت *f.* weakness, laziness, the period between the two prophets. - ضعف - سستي ناتواني - وه زمانه جو درميان دو پيغمبروں كے هو

فتش *m.* searching, seeking - جستجو كرنا ڈهونڈ كرنا

فتق *m.* expansion, openness, tearing, rending, a rupture or hernia. - كشادگي - پهاڑنا نام ايک بيماري كا جس سے خصيه بڑهه جاتا هے

فتن (*pl.* of فتنه), جمع فتنه كي

فتنه *m.* calamity, madness, temptation, seduction, astonishment, surprise, deviation, depravity, blasphemy, infidelity, disgrace, dishonour, misleading, goods, children, descendant. (*met.*) a lover, enamoured, also a mistress. - عذاب - ديوانگي آزمائش - حسرت - تعجب - گمراهي - كفر - رسوائي - گمراه كرنا - مال - اولاد - اصطلاحاً بمعني عاشق - فريفته - اور بمعني معشوق كے بهي آيا هے

فتنه بر چيزے شدن *id* to be enamoured, to be fascinated or charmed with a thing. كسي چيز پر عاشق اور فريفته هونا

فتوى *m.* a judicial decree, judgment, sentence delivered by a judge. - حكم شرع شرعي فيصله

فتوت *f.* bravery, liberality generosity. جوانمردي - مروت

فتوح (*pl.* of فتح), victories. (*met.*) abundance, easy circumstances, income received gratuitously. - جمع هے فتح كي كشايش - شادي

فتوحات (*pl.* of فتوح). جمع هے فتوح كي

فتور *m.* infirmity, weakness, laziness. (*met.*) badness, depravity, misery, evil. - سستي خرابي - برائي

فتى *fata*, *a.* valiant, brave, a young man from his puberty to the fortieth year of his age, liberal, munificent. - جوانمرد بهادر - جوان ابتداے بلوغ سے چاليس برس تک - سخي

فتيان *m.* young men. جوان لوگ

فتی m. a young man. مرد جوان

فتیان fityan, m. young man, brave men. جوان لوگ - جوانمرد لوگ

فتیان fatayan, m. two young men, day and night. دو جوان - رات و دن

فتیلہ m. a twisted thing, a wick. بٹي هوئي چيز - بتي

فج fijj, a. unripe, raw. خام - کچا - نا پختہ

فجاء } suddenly, in no time, unexpectedly, catching unawares. - ناگاہ
فجاۃ } يکا يک پکڑنا

فجاجت f. unripeness, rawness. - خامي کچا پن - نا پختگي

فجار (pl. of فاجر), fornicators, adulterers, etc. جمع فاجر بمعني بدکار کي

فجر f. morning, dawn of day, early, issuing water, sinning, fornicating. صبح تڑکا - پاني جاري کرنا - زنا اور گناہ پر آمادہ هونا

فجر n. bravery, valour, charity, gift, favour. جوانمردي - کرم - بخشش - احسان

فجر fujur, (pl. of فاجر), the sinful, etc. جمع فاجر بمعني بدکار کي

فجرہ (pl. of فاجر), adulterers, the sinful. جمع فاجر کي - زنا کار لوگ - بدکار لوگ

فجعت f. affliction, calamity, trouble, misfortune درد مندي - مصيبت

فجل fujul, m. a radish, a. thick. مولي جو مشہور ترکاري هے

فجل laziness, slothfulness. سست هونا

فجور fujur, n. wickedness, sin, lust, adultery, apostacy, recovery (from an illness), weaksightedness, falsehood, disobedience, infidelity. گناہ کرنا - حق سے ناحق کي طرف پهر جانا - دين سے برگشتہ هونا - بيماري سے اچها هونا - بينائي کا کم هوجانا - جهوٹهہ بولنا - نافرماني کرنا - زنا کرنا

فجور m. adulterous, wicked. مرد بدکار - حرامکار

فجوہ m. an aperture, opening between the two mountains, a broad piece of land, a pit, a cave. - دو پهاڑوں کے درميان کا شگاف زمين - گڑها

فجيعت f. misfortune, calamity, violent pain. درد سخت - مصيبت

فحاش m. salacious, obscene, talking indecently, very wicked. بہت بڑا بدکار - بڑا بد زبان

فحاوي (pl. of فحواء). جمع فحواء کي

فحش m. obscenity (in word or deed), ribaldry, bawdry. حد سے گذرنا بدي کا

فحشا m. obscenity, adultery. - زنا - برا کام - حرامکاري

فحص m. seeking, searching. جستجو - کسي چيز کو ڈهونڈهنا

فحل m. male, masculine, the star Canopus. نر - مادہ کا ضد - ستارۂ سهيل

فحم m. charcoal. زگال - کوئلہ

فحوي } m. style, contents, signification, sense, meaning. - مضمون - معني - مطلب
فحواء }

فحول (pl. of فحل), males, maleanimals. جمع فحل بمعني نر کي

فخ m. a noose, snare, a fowler's net, the chase. ايک قسم کا پهندا جس سے پرندوں کا شکار کرتے هيں

فخ snoring, weakness in the legs. سوتے ميں خراٹے ليتا - پاؤں کي کمزوري

فخار m. boast, pride, coquetry, blandishment. ناز کرنا - فخر کرنا

فخار fikhar, m. a great boaster, very graceful or coquettish. بڑا ناز کرنے والا

فخت f. the moonlight. چاندني - چاند کي روشني

فخذ f. the thigh. ران - جانگهہ

فخر m. glory, nobility, ornament, grace, boasting, egotism, pride, ostentation. گهمنڈ - غرور - ناز

فخري f. a kind of grape so called. ايک قسم انگور کي

فخفرہ m. barley, bran, husks of ground wheat. جو ايک غلہ مشہور هے - گيہوں کے آٹے کي بهوسي

فخور m. a great boaster, very coquettish. بہت بڑا ناز اور گهمنڈ کرنے والا

فخور fukhur, boasting, pride, blandishment, coquetry. ناز کرنا - غرور کرنا

فدا f. sacrifice, consecration, redemption, devoting one's self to save another, ransom, exchange, cartel. - سر بها - سر خريد کسي قيدي کي اپنا هو يا غير اپنے مال کو ديکر جان بچا لينا - اپنا مال ديکر اپنے کو خلاص کر لينا اور خريد لينا - جو چيز کي تصديق کي جاوے

فدامت f. severity, fierceness, the act or habit of oppressing. درستي - جفا کاري

فدان m. a yoke, gear connecting draught animals by passing across their necks. جوا جو بيلوں کي گردن پر رکهکر هل يا گاڑي وغيرہ ميں جوتتے هيں

فد فد m. a desert, a plain, a level ground. صحرا - زمين هموار

فدک *n.* name of a town in which Mohammad had a garden of the date palm trees. نام ایک گانوں کا جس میں محمد کا ایک حقیقے کا باغ تھا

فدوي *m.* devoted, a devoted servant, subject or vassal: sacrificing. قربان هونے والا - کسي کے عوض اپني جان دینے والا

فدیہ *m.* a ransom, price paid for redemption or pardon, sacrificing one's self for the salvation of another, devotedness, allegiance. وہ مال جو عوض کسي قیدي کے دیکر اُس کو سرکار سے خرید لیں - سربہا - صدقہ

فر *m.* state, pomp, dignity, splendour, glory, lustre, beauty, grace, divine light. شان - شوکت - دبدبہ - نور - زیبا

فر *farr,* (both *sing.* and *pl.*) a fugitive, fugitives. بهاگنے والا - بهاگنے والے

فرا *prep,* back, behind, again, above, on, over, towards, near, far high. - آگے - نزدیک دور - اوپر - بلند

فرا *m.* an onager or wild ass. گور خر مشہور جانور هے

فرات *m.* sweet water, the river Euphrates. آب شیرین - نام ایک ندي کا عرب میں هے

فرا تر *prep.* before, earlier than. پیشتر

فراخ *a.* ample, abundant, large, wide, (*met*). plentiful, much. وسیع - کشادہ - چوڑا - مجازاً بمعني بہت کے آتا هے

فراختن *inf.* to raise aloft, to exalt, to elevate. بلند کرنا - اونچا لیجانا

فرا خوري *f.* politeness, affability, ability, fitness, aptitude. شایستگي - لیاقت - سزاواري

فراخور *m.* polite, worthy, fit, quadrating, corresponding. شایستہ - لایق - سزا وار

فراخي *f.* abundance, cheapness, prosperity, happiness, a girth. کشادگي - وسعت

فرادي (*pl.* of فرد), alone, single, solitary, one by one. - ایک ایک - الگ الگ - تنہا تنہا جمع فرد کي

فرادیس (*pl.* of فردوس), paradise. جمع فردوس کي

فرار *firar,* flight, running away, fearing. بهاگنا - بهاگجانا - ڈرنا

فرار *farrar, m.* a fugitive, a man who has absconded, a runaway. بهاگنے والا

فرا رسیدن *inf.* reaching, arriving. پهونچنا - آگے پهونچنا

فرار ختن *inf.* going, proceeding. جانا - آگے بڑهنا

فراري *m.* a person who has absconded, a runaway. بهاگا هوا - بهگوڑا

فراز *m.* ascent, acclivity, *a.* high, aloft, exalted, expanded, tied, broad, wide, below, descent, declivity, low, closed, near, forward, in front of, bright, collecting, gathering, rebellious. *prep.* near, behind, on, *m.* penis, (*comp.*) exalting, elevating. - کهلا هوا - پهیلا هوا - بندها هوا - کشادہ - بند - اوپر - بلند - نشیب - نیچے - پست - چوڑا - چکلا - عقب - پیچهے - قریب - نزدیک - آگے - حضور - روشن - جمع - فراهم - بلندي - پستي - سرکش - آلت - تناسل

فرازي *f.* highness, exaltation. بلندي

فرازندہ *m.* one who exalts. بلند کرنے والا

فرازیدن *inf.* to exalt, to elevate, to raise aloft. بلند کرنا - کهڑا کرنا

فرس *m.* a lion. شیر درندہ

فراس *m.* a groom, a syce. سئیس - گهوڑے کا خادم

فراست *firasat, f.* penetration, sagacity, understanding, acuteness, physiognomy. دانائي - عقلمندي - تیزي فهم کي - قیافہ - علم صورت و سیرت

فراست *farasat, f.* riding, understanding the qualities in horses. - گهوڑے کي سواري کرنا گهوڑوں کے اچهے برے هونے کي شناخت

فراست شناس *m.* physiognomist. قیافہ - شناس

فراستوک *m.* swallow. ابابیل جو پرندہ مشہور هے

فراسخ *pl.* of فرسخ (see below). جمع فرسخ کي

فراش *firash, m.* sleeping-suits, carpet, floor bedding, a sleeping partner (women), spreading of bedding, a bird's nest. شب خوابي کپڑے - جامۂ خواب - مطلق فرش بچهونا - عورت رات کو ساتهہ سونے والي - بچهونا بچهانا - پرند کا آشیانہ

فراش *farash,* (*pl.* of فراشہ), butterflies, moths. جمع فراشہ کي - پروانے جو رات کو شمع پر گر گر جلتے هیں

فراش *farrash, m.* a servant whose business it is to spread the carpets, etc., a sweeper. فرش بچهانے والا - مکان صاف کرنے والا

فراشہ *m.* a moth, a butterfly. ایک پروانہ جو شمع پر گرتا هے

فراشہ *farrasha,* (*met.*) broom. جاروب - جهاڑو

فراغ cessation from labour, repose, rest, leisure, happiness, competency. کام سے فرصت پانا

فراغبالي *f.* competence, ease, rest, leisure. خالي هونا - فرصت

فراغت *f.* leisure, repose, abundance, ease, happiness, competency. خالي هونا - فرصت

فراق *m.* distance. separation, distinction, absence, جدائي

فراگرفتن *inf.* to learn to occupy, to take possession of, to remember, to know. سیکھنا - قبضہ میں کر لینا - یاد کر لینا - معلوم کرنا

فرامرز *n.* name of Rustum's son, نام رستم پہلوان کے بیٹے کا

فراموش forgotten, forgetfulness. بھول چوک

فراموشیدن *inf.* to forget. بھولنا - بھول جانا

فرامین (*pl.* of فرمان), orders, royal commands, mandates, precepts. جمع فرمان کي شاهي پروانے

فراوان *a.* much, abundant, copious, sufficient, opulent. بہت - کثیر - زیادہ

فراویز *f.* border (tacked to the outer part of a garment), flouncing. دامن کي سنجاف

فراهت *f.* mastery, skilfulness, expertness, graceful walk (of a horse). کسي فن میں أستاد هونا - عقلمندي - أستادي - گھوڑے کي خوش رفتاري

فراهم *m* collection, contraction, *a.* collected, gathered. اکٹھا - جمع

فرائج (*pl.* of فروج), chickens. - جمع فروج کي مرغي کے چوزے

فرائد (*pl.* of فریدہ), alone, solitary. جمع فریدہ بمعني تنہا کي

فرائض (*pl.* of فریضہ), the divine positive commands, the knowledge of dividing inheritances agreeably to law. جمع فریضہ کي - خدا کا حکم یا فرمود جس کا بجا لانا واجب هے مثل نماز روزہ زکوۃ وغیرہ کے - نام علم تقسیم میراث کا

فربہ *a.* fat, stout, corpulent. موٹا

فربهي *f.* fatness, strength. موٹا پا

فربي *a.* fat, stout, large (used by Anwari). فربہ - کلاں - انوري شاعر اپنے کلام میں لائے هیں

فرت *f.* quick, hastily, speed. شتابي - جلدي

فرتوت *a.* very old and decrepit. - بڑا بوڑھا بڑي عمر کا جو کسي کام کے نہ رہا هو

فرث *m.* dung, especially cowdung. - سرگین گوبر

فرج *farj, f. pudendum tum maris tum feminæ*, hole, crevice, crack, flaw, fissure, cleft, opening, a window, sawing, disappearance of grief and sorrow, joy. - عورت کي شرمگاہ رخنہ - سوراخ - چھید - شگاف - دراز - توڑني - کھولنا - چیرنا - غم و رنج کا بر طرف و زائل هونا

فرج *faraj, f.* cheerfulness, delight, pleasure, comfort, rest, serenity. کشایش - آسایش - آرام

فرج (*pl.* of فرجہ), fissures, cracks, crevices. جمع فرجہ بمعني شگاف کي

فرجام *m.* end, conclusion, issue, prosperity, happiness, utility, *a.* worthy - انجام - انتہا آخر - لایق - عاقبت

فرجد *m.* a great grandfather. دادا کا باپ

فرجہ *m.* difference, a fissure, crack, crevice, کشادگي - تھوڑا - فرق جو درمیان دو چیز کے هو - کسي چیز کا شگاف

فرجہ *m.* freeing from poverty and hardship. تنگي اور ترشي سے باهر هونا

فرح *farah, a.* joyful, pleased, satisfied, cheerful. شادان - خوش - مسرور

فرح *firah, f.* happiness, joyfulness, satisfaction, cheerfulness. شادي - خوشي - سرور

فرح آباد *n.* name of a place in Iran. نام شہر کا ایران میں

فرحت *f.* delight, pleasure, cheerfulness, joy, amusement. شادي - خوشي - خرمي

فرخ *farkh,* (*pl.* of فراخ), a chicken, chick, the young of all birds. جمع اس کي فراخ هے - مرغي کا چوزہ - هر پرند کا بچہ

فرخ *farrukh, a.* happy, fortunate, blessed, beautiful. مبارک - همایوں - خوبصورت

فرخار *n.* name of a city in Turkistan the inhabitants of which are very beautiful, a temple. نام شہر کا ترکستان میں جہاں کے باشندے نہایت خوبصورت هوتے هیں - بتخانہ

فرخسج *a.* wicked, bad, depraved, ugly, deformed. زشت - برا - بد صورت

فرخسیر *n.* name of one of the emperors of Delhi, A. D. 1713, etc. نام دهلي کے ایک بادشاہ کا

فرخندہ *a.* happy, fortunate, blessed. - مبارک همایوں

فرد *f.* one, single, odd, verse, piece, an individual. طاق - تنہا - اکیلا

فردا *adv. n.* tomorrow, (*met.*) the day of resurrection (to express the rapidity and certainty of its approach.) کل کا روز جو آنے والا هے - مجازاً قیامت کا دن

فردوس *m.* a garden, paradise. میوہ دار درختوں کا باغ - بہشت کا نام

فردوسي *n.* name of a celebrated poet of Tus in Persia, about A. D. 1000. He was the author of Shahnama. نام شاعر کا جو طوس کا باشندہ تھا وہ مصنف شاهنامہ تھا

فرزان *n.* wisdom, learning, knowledge, skill, cleverness. حکمت - علم - دانش

فرزانگي *f.* wisdom, science, excellence. - دانائي عقلمندي

فرزانه *a.* wise, intelligent, excellent, distinguished. حکیم - دانا - عقلمند

فرزدق *m.* the title of a famous poet Himam Bin Ghalib of Arabia. لقب ایک شاعر مشهور کا ملک عرب میں - نام ان کا همام بن غالب تھا

فرزند *m* a child, son or daughter. بیٹا هو خواه بیٹي

فرزين *farzin*, فرزين *firzin*, } *f.* the wazir or minister (which the Europeans call queen) at chess. وزیر نام مهرهٔ شطرنج کا

فرزين نهادان *m.* the wicked, vicious, bad. کنایه کج نهادوں یعني خراب آدمیوں سے

فرس *faras*, *m.* a horse, the knight in chess گھوڑا

فرس *furs*, *m* the Persians. فارس کے ملک کے رهنے والے

فرس انگندن *id.* to be humble or submissive, to be beaten, to beat a retreat. عاجز اور مغلوب هونا

فرس طنبور *n.* the bridge of a guitar. خرک یعني وه لکڑي یا هڈي جو طنبور اور ستار وغیره کے تونبےے پر هوتي هے اور تار اس پر سے دوڑتے هیں - گھوڑچ - (هندي)

فرس گشتن *id.* to try hard, to use great labour and exertion for the accomplishment of an object. کنایه کمال کوشش اور دوڑ دھوپ کرنے سے

فرستادن *inf.* to send. بھیجنا

فرسخ فرسنگ } *m.* parasang (or measure of about 18,000 feet), a measure of three miles or knots, a league. تین میل کي مقدار اور هر میل چار گز کا هوتا هے

فرسودن *inf.* to be worn out, to be obliterated. گھسنا

فرسوده *a.* worn out, obliterated. چیز پراني اور بے کام

فرسوده روز گار *a.* experienced, skilful by use or observation. تجربه کار - زمانه کا نشیب و فراز جھیلا هوا

فرش *m.* spreading, carpeting, bedding, a cushion, mat, carpet. بچھونا - بچھانے کي چیز

فرشته *m. lit.* sent by God, an angel, an apostle, prophet, missionary, holy messenger. خدا کا بھیجا هوا - خدا کا قاصد نوراني

فرص *furas*, (*pl.* of فرصت), جمع فرصت کي

فرص *faras*, sawing, cutting, splitting. - کاٹنا چیرنا - پھاڑنا

فرصاد *m.* the mulberry fruit. شهتوت مشهور میوه هے

فرصت *f* leisure, freedom, ease, convenience, opportunity, relief, rest. - آرام پانا مهلت دینا:

فرض *m.* a divine command, a duty, the mission of which is considered as a mortal sin, an obligation, stipulation, estimation, fixing a positive time. حکم خدا کا واجب کیا هوا - اندازه کرنا - بخشش کرنا - مشخص کرنا - کسي چیز کا بوقت معین کرنا

فرط superfluity, abundance, conquest, predominance. زیادتي - بهتایت

فرع *f.* a bough, the branch (of a tree particularly the top branches) شاخ - درخت کي ٹھني

فرعون *n.* Pharoah, a title common to the kings of Egypt about the time of Moses, as that of Ptolemy was in the time of the Romans, (*met.*) any cruel tyrant, rebellious or proud. لقب هے بادشاه مصر کا موسی کے وقت میں - مجازاً بمعني سرکش اور مغرور

فرعي *f.* unreal, relating to فرع - جو اصلي نهو - منسوب فرع سے

فرغر *m.* a small tank. چھوٹا تالاب

فرغل (*corr.* of فرگل), wrappers, great coats, cloaks. معرب فرگل کا - لبادے روئي بھرے هوئے

فرغند *f.* the air-creeper (*Cuscuta reflexa*) : it has no root or leaves, but grows on the tops of the trees. اکاس بیل جو درختوں پر اُگتي هے

فرغنده *dim.* of فریغنده مخفف هے فریغنده کا

فرفخ *m.* purslain. (*Portulaca oleracea*). خرفه کا ساگ

فرفره *m.* a whirligig, a kind of toy which the children spin or whirl round. پھرکي جو لڑکے چلاتے هیں

فرق *farq*, *m.* difference, distance, distinction, dispersion, the head, the line on the top of head where hair is parted, the top of anything, summit, *a.* distant, separate, distinct, *int.* away! aside! کسي چیز کو آپس سے جدا کرنا - سر کے بالوں کے بیچ کي نشاني - مانگ (هندي) - اور بمعني سر بھي

فرق *firq*, *n.* a goat, deer, cow, etc., a flock, herd, a mountain, an eminence, bank, a ridge, a low hill, a fissure, crack, crevice, cleft, a scrap, piece. - بکري یا هرن یا گاے وغیره گله - پهاڑ - پشته - ٹیله - شگاف - درار - کسي چیز کا ٹکڑا

فرق *furq*, separating (truth from falsehood), the Quran. جدائي - قران

فرق *faraq*, fearing, the morning, the dawn. ڈرنا - صبح

فرق *fariq*, *m.* one who fears, small green grass covering the surface of the earth. ڈرنے والا - هري اور چھوٹي گھاس جو زمین کو چھپا لے جس کو سبزہ کہتے هیں

فرق *firaq*, (*pl.* of فرقه), nations, tribes, groups (of men) etc. جمع فرقه کي

فرقان *m.* from the word *faraqa*, to divide or distinguish, the Quran (as distinguishing or separating truth from falsehood). نام قران کا - درمیان حق اور باطل کے فرق کرنے والا

فرقت *f.* distance, separation, distinction, absence, bereavement. جدائي

فرقد *m.* a calf, name of one of the two stars near the pole. گوساله - گاے کا بچھوا - ایک ستارہ اُن دو ستاروں سے جو نزدیک قطب شمال کے هیں

فرقدان } فرقدین } *m.* the two stars near the pole, in the constellation of the lesser bear. نام اُن دو ستاروں کا جو قطب شمال کے پاس هیں اور گرد قلب کے گھومتے هیں اور شام سے صبح تک ظاهر رهتے هیں

فرقه *m.* a religious or philosophic sect, a tribe, troop, company, society. قوم - گروہ

فرقیر *m.* a violet. بنفشه کا پھول

فرمان *m.* a mandate, command, order, a royal patent, according to Gladwin it denotes a grant, decree, patent or command of the emperor, a royal commission or mandate. حکم شاهي - شاهي پروانه

فرمانده *m.* a ruler, governor, king. - حاکم - بادشاہ

فرمان رسیدن (*met.*) die, (arrival of death). کنایه موت کے آنے سے

فرمائش *f.* an order (particularly for goods etc.,) commission, anything commissioned, pleasure, will, commands. بطور حکم شفارش کرنا - بطور حکم کچھه کام کرانا یا کچھه مانگنا

فرمودن *inf.* to order. فرمانا - حکم دینا

فرنجک *n.* the nightmare, a feeling of suffocation during sleep, accompanied by intense anxiety or horror. کابوس جس سے آدمي سوتے میں ڈرتا ہے

فرند (*corr.* of پرند), a sword, temper (of a sword), plain silk without floral designs, plain silken sheet. معوب پرند کا - تلوار - تلوار کا جوهر - ریشمي سادہ کپڑا بغیر پھول کا - ریشمي سادي چادر

فرنگ *m.* Europe, the country of the Franks, white complexion. یورپ - نصاری کا ملک - اور کنایه گورے اور سفید رنگ سے

فرنگیس *n.* the name of the daughter of Afrasiyab the king of Turan whom Siyaosh had married. افراسیاب بادشاہ توران کي بیٹي کا نام جو سیاوش کے نکاح میں تھي

فرنگستان *m.* Europe. ملک یورپ

فرو (before a word beginning with a vowel, *farod*), down, below, under, of a low rank. کم - نیچے - کم رتبه

فرو fox-skin. لومڑي کي پوستین

فروتر *a.* lower down. بہت کم - بہت نیچا

فروترین *a.* humiliating, submissive, humble, hospitable. عاجز - تواضع کرنے والا

فروتن *a.* humble, lowly, meek, modest. بہت هي نیچا

فروتني *f.* humility, lowliness, meekness. اپنے کو حقیر جاننا - عاجزي

فروج (*pl.* of فرج), crevices, cracks, fissures, *pudenda.* جمع فرج کي جو بمعني شگاف اور عورت کي شرمگاہ کے هے

فروج } فروجه } *m.* a chicken. گھر کي پلي هوئي مرغي کا چوزہ

فروخت *f.* sale. بیچنا - بیچا

فروخته sold, kindled, illuminated. - بیچا گیا اور بمعني روشن

فروختن (*r.* فروش), to sell, (*r.* فروز), to inflame, to kindle, to illumine. - بیچنا روشن کرنا

فرو خوردن *inf.* to endure, to bear patiently. تحمل و برد باري کرنا

فرود *m.* descending, alighting, stopping, *adv.* down, beneath. زیر - نیچے - پائیں

فرودست *n.* subordinate, under command, possessing a low-rank, powerless, weak, infirm. زیر حکم - کم رتبه - اور بمعني ناطاقت اور کمزور کے بهي

فرودگاہ *f* a halting place, an inn. جگهه اترنے کي جهاں پر سفر میں قیام کیا جاوے

فروردین *m.* the first Persian month of 31 days in which the sun enters the sign Aries. مدت رهنے آفتاب کي برج حمل میں اور یه پهلا مهینه فارسي کا اکتیس روز کا هوتا هے

فروز (in *comp.*) kindling, inflaming, brightness, glare, brilliancy. آفتاب تابش - روشني کي چمک - فروز کے معني میں بھي آیا ھے

فروز (*dim.* of فراویز), flouncing. مخفف فراویز کا - دامن کا سنجاف

فروزینہ *m* the steel for striking fire from a flint, anything served to kindle a fire. چقماق - وہ چیز جس سے آگ سلگائیں

فروزان *a.* luminous, resplendent. روشن

فروس (*pl.* of فرس), horses. جمع فرس بمعني گھوڑے کي

فروست *f.* riding on horseback. گھوڑے کي سواري

فروش (in *comp.*) selling, a seller. - بیچنا بیچنے والا

فروشندہ *m.* a seller. بیچنے والا

فروع (*pl.* of فرع), branches, tops, heads, chiefs of tribes or families, physiognomy. جمع فرع کي - شاخیں - درخت کي ٹہنیاں - اصطلاحاً بمعني علم نقہ

فروغ *m.* illumination, light, splendour, the rays of the sun, heat. - روشني - شعاع آفتاب اور آگ کي تابش

فروق separating, distinguishing. - فرق کرنا جدا کرنا

فروق *faruq, m.* distinguisher, constituting distinction. فرق کرنے والا - جدا کرنے والا

فروکش *a.* stopping, residing, dwelling اُترنے والا کسي جگھہ - کسي مکان میں رھنے والا

فرو کوفتن *id.* to beat, to strike. دے مارنا - ٹھونکنا

فرو گذاشت *f.* forgiveness, forgetfulness, mistake, error. - چھوڑنا - بھول جانا - معاف کر دینا بھول - سہو

فرو گذاشتن *inf.* to pretermit, to neglect, to pardon, to forget. چھوڑ دینا - قصور معاف کر دینا - بھول جانا

فرو ماندہ *m.* dejected, tired, depressed, fatigued, weak, helpless. عاجز

فروماندگان the dejected, the tired, the weak. عاجز لوگ

فرو ماندگي *f.* helplessness, weakness, dejection. عاجزي - ناچاري

فروماندن *inf* to lag behind, to be exhausted, to be helpless. ناچار ھونا - عاجز ھونا

فرومایگان *m.* the low people, the mean, the worthless ones. کمینے لوگ - نالائق

فرو مایہ *a.* worthless, low, sordid, mean, ignoble. کمینہ - نالائق - بد اصل

فرہ *farrah, m.* pomp, dignity, splendour, rank. شان - شوکت - دبدبہ

فرہ *m.* conquest, victory, excelling, surpassing, abundance, victorious. - غلبہ - زیادتي سبقت - ظفر - فتح - غالب - فتحمند

فرہ *m.* good tempered, cheerful. خوش منش

فرہ *a.* exceedingly glad. انتہا سے زیادہ خوش ھونا

فرھاد *n.* name of a celebrated Persian statuary, who, to please his mistress Shirin, dug through an immense mountain. نام ایک مشھور سنگ تراش کا جو شیریں پر عاشق ھوا تھا

فرھنگ *f.* wisdom, intelligence, understanding, respect, calculation, (*met.*) a dictionary, a vocabulary, a glossary. - عقل - ادب - ھر چیز کا اندازہ - نگاہ رکھنا مجازاً کتاب فارسي لغتوں کي

فرھین *m.* exceedingly happy men. حد سے زیادہ خوش لوگ

فریاد *f.* complaint, exclamation, lamentation, cry for help. - مدد مانگنے کے لئے غل کرنا دھائي دینا - دھائي

فریادي *m.* a complainant, a plaintiff, one who sues for justice. دھائي دینیوالا

فریب *f.* deceit, trick, deception, fraud, coquetry, ogling, blandishments, magic. دغا - مکر - عشوہ - ناز - طلسم

فریبرز *n.* the name of a famous wrestler, the name of a king. - ایک مشھور پھلوان کا نام ایک بادشاہ کا نام

فرید } *m* unique, alone, singular, unparalleled, unequalled, matchless.
فریدہ } اکیلا - تنہا - بے مثل - بے مانند - یگانہ

فریدون *n.* name of an ancient king of Persia, famed for his virtues. نام ایک عظیم الشان فارس کے پادشاہ کا

فریز *a* name of a kind of grass. ایک قسم کي گھاس کا نام

فریش *m.* assault and plunder, depredation, devastation. لوٹ لینا - تخت و تاراج

فریضہ *m* a divine positive command. خدا کا حکم - واجب کیا ھوا خدا کا بندوں پر جیسے روزہ و نماز

فریفتن *inf.* to deceive, to be cheated, (*met.*) to fall in love. - فریب کھانا - فریب دینا - مجازاً عاشق ھونا

فریفتہ *a.* deceived, enamoured. - فریب خوردہ فریب کھایا ھوا - مجازاً بمعني عاشق

فریق *m.* a troop, squadron, crops. بڑا گروہ

فریہ *m.* falsehood, lie, false imputation, slander. جھوٹھ - دروغ - افترا

فزا (in *comp.*) increasing, augmenting. افزایش - زیادہ کرنا

فزع *faza'*, *m.* fear, confusion, perplexity, agitation, alarm. خوف - گھبراہٹ - ڈر

فزع *m.* one who fears, afraid. ترساں - ڈرنے والا

فزع اکبر (*met.*) the judgment day. مراد قیامت سے

فزودن *inf.* to increase, to be increased. زیادہ کرنا - زیادہ ہونا

فزون *a.* more, greater, much, increasing, etc. زیادہ - بڑھا ہوا - افزون

فساد *m.* depravity, iniquity, wickedness, violence, war, horror, sedition, rebellion, ruin. - بگاڑ - تباہي - ظلم و جبر سے مال لینا تباہ ہونا

فسان *m.* a whetstone. چھري چاقو وغیرہ تیز کرنے کا پتھر

فسانہ (*dim.* of افسانہ), tale, fiction, narrative. مخفف افسانہ کا بمعني ماجرا اور سرگذشت - گذرا ہوا قصہ - قصہ بے اصل

فسانیدن *inf.* to bewitch, to charm, to fascinate. افسوں کرنا - منتر کرنا

فسائیدن *inf.* to subdue, to subjugate. تابعدار کرنا

فسانہ‌دانہ an enchanter, one who uses spells, a sorcerer. فسونگر - منتر کرنے والا

فستق (*corr.* of پستہ), Pistachio nut. معرب ھے پستہ کا جو ایک مشہور میوہ ھے

فسحت *f.* liberty, satisfaction, *lit.* width, room, space. فراخي جگھہ کي - مکان کي کشادگي اور وسعت

فسخ *m.* violation (as of an agreement), change (of mind or intention), dissolving (a marriage). قصد کا پھیر دینا - راے کا توڑ دینا ارادے کا بدل دینا - نکاح اور بیع کا باطل کر دینا

فسدہ *m.* quarrelsome, contentious, rebellious. فساد کرنے والا .

فسر *m.* purport, meaning, elucidation, explanation, opening a secret, testing a patient's urine. - مطلب کا کھول کر بیان کرنا کسي پوشیدہ بات کا ظاھر کرنا - نظر کرنا طبیب کا مریض کے پیشاب کو

فسردگي *f.* congelation, freezing, numbness, torpor, torpidity. - سردي کے سبب سے جم جانا ٹھھرنا - ٹھھرا پن

فسردن *fusurdan*, *inf.* to be numbed, benumbed, to be chill. سردي سے جم جانا - ٹھھرنا

فسق *m.* disobedience (to God), adultery, obscenity, impudence, iniquity, sin, falsehood. - خدا کا حکم نہ ماننا - بد کام کرنا گناہ کرنا

فسقہ (*pl.* of فاسق), the sinful, the depraved, etc. جمع فاسق کي - گنھگار لوگ

فسوس *fisus*, *m.* play, sport, fun, wit, humour, jocularity, jesting, buffoonery, drollery, alas, pity. بازي - دلگي - ظرافت - خوش طبعي - مسخرا پن - دریغ - حسرت - افسوس

فسوق *m.* sin, iniquity, falsehood. بمعني فسق یعني گناہ کرنا

فسون *n.* incantation, charm, spell, fraud, deceit. منتر - جادو - افسون

فسیح *f.* width, room, space. وسیع - فراخ مکان

فسیحہ *a.* wide, open, large. کشادہ - فراخ

فسیق *m.* sinful, adulterous, depraved, wicked. وہ شخص جو ھمیشہ گناہ کے کام اور خلاف شرع کام کیا کرتا ھے

فش like, similar, the hanging end of a turban, the name of a horse. مانند - پگڑ کا سرا جو لٹکا ھوتا ھے - گھوڑے کے ایال نے بال

فشار *fishar*, compressing squeezing, piercing. نچوڑنا - بھیچنا

فشار دن *inf.* to compress, to squeeze, to pierce نچوڑنا - چبھونا

فشان (in *comp.*) strewing, scattering, shedding. جھاڑتا ھوا - جھاڑنے والا

فشاندن *inf.* to strew, to scatter, to shed. جھاڑنا

فشر foolish, abuse, abusing in a delirium. ھذیاں - بیھودہ گالي

فشردن *inf.* to compress, to squeeze. نچوڑنا

فشردہ *m.* squeezed, compressed. نچوڑا گیا

فص *fass*, *m.* the stone or bezel of a ring. انگوٹھي کا نگینہ

فصاحت *f.* eloquence, pure language, elegance of style. خوش گوئي - تیز زباني - کشادہ سخن ھونا

فصاد *m.* a surgeon, phlebotomist. فصد کھولنے والا

فصال *f.* separation, absence weaning (a child), (also *pl.* of فصیل). - مفارقت - جدائي لڑکے کا دودھ چھڑانا - جمع فصیل کي

فصد *f.* opening a vein, bloodletting. رگ سے خون نکلنا

فصل *f.* a section, article, chapter, time, season, crop, harvest, act of separating or being separated from cutting, depriving of. چار موسموں سے ایک موسم سال - کلام کا ایک ٹکڑا - کتاب کا ایک حصہ - جدا کرنا - جدا ہونا - باز رہنا - کاٹنا

فصل الخطاب *f.* traditional sayings of the prophet (because they separate truth from falsehood), all doctrines which may be elegant and pure, and separating truth from falsehood. احادیث نبوی کہ وہ حق کو باطل سے جدا کر دیتی ہیں - ہر کلام فصیح اور روشن اور جدا کرنے والا حق کو باطل سے

فصوص (*pl.* of فص), stones or bezels of the rings, also the name of a book. جمع فص بمعنی نگینہ کی - نام ہے کتاب کا

فصول *pl.* of فصل, بجمع فصل کی

فصل چہارگانہ *m.* the four seasons, *viz* the winter, the summer, the spring, the autumn. جاڑا - گرمی - ربیع - خریف

فصیح *a.* eloquent, sweet or pure (in language or writings). خوش گو - فصیح کلام کرنے والا

فصید *m.* one whose vein has been opened, one who has undergone an operation. وہ جسکی فصد کھولی گئی ہو

فصیل *f.* breastworks, entrenchment, ramparts, a fortification, the young of a she-camel newly weaned. شہر پناہ - قلعہ کی دیوار - شہر کی چار دیواری - بچہ اونٹنی کا جس کا دودھ چھڑایا جائے

فضا *m.* open space, an extensive open field, arena, area, courtyard, etc. - کشادہ زمین - زمین کی فراخی - کشادگی مکان کے صحن کی - کھلا ہوا میدان

فضاحت *f.* infamy, ignominy, disgrace. رسوائی

فضالہ *m.* remains, remainder, lopping, fallen leaves (of a tree), leavings of food, the name of Mahomet's servant. ہر چیز کی زائد اور بیکار شے مثل بھوک چھلکے وغیرہ کے - درخت کی ٹہنیاں چھنٹی ہوئیں - درخت کے گرے ہوئے پتے - آگے کا بچا ہوا کھانا وغیرہ - محمد کے ایک غلام کا نام

فضالہ چین *m.* a gardener. باغبان

فضائح (*pl.* of فضیحت) ignominy, etc. جمع فضیحت کی - رسوائیاں

فضائل (*pl.* of فضیلت), excellencies, perfections, learnings, virtues, merits. جمع فضیلت کی زیادتیاں - افزونیاں - بلند درجے عمدہ ہنر

فضائل اربعہ *f.* wisdom, valour, abstinence, justice. حکمت - شجاعت - عفت - عدالت

فضیح *f.* disgrace, ignominy, infamy. رسوائی

فضل *m.* excellence, virtue, increase, gain, gift, reward, favour, surpassing one in learning, the name of a poet. - افزونی زیادتی - بخشش - غلبہ کرنا کسی پر فضیلت میں - نام شاعر کا

فضلا (*pl.* of فاضل), learned and good men. جمع فاضل کی - عالم آدمی

فضلات (*pl.* of فضلہ), جمع فضلہ کی

فضل ربیع *m.* the name of the prime minister of Harun Rashid who was very virtuous and liberal. نام ہارون رشید کے وزیر کا جو بڑا سخی اور نیک تھا

فضلہ *m.* remainder, redundancy, leavings of food, refuse, dregs, sediment. آگے کا بچا ہوا کھانا وغیرہ - ہر چیز کی بیکار شے - بھوک - ثفل

فضوح *f.* disgrace, ignominy, infamy. رسوائی

فضول *fuzul, a.* exuberant, excessive, redundant, (also the *pl.* of فضل), virtues, excellencies, learning, merits. - افزونی - زیادتی اور جمع فضل کی بھی بمعنی افزونیاں - زیادتیاں - بزرگیاں

فضول *fazul, m.* prolix speaker, one who talks much, a babbler, a prattler. زیادہ گو - وہ شخص جو بیکار اور غیر ضروری باتیں کرے

فضول گفتن *m.* a preacher, an instructor. کنایہ ہے وعظ اور نصیحت کرنے والے سے

فضولی *f.* exuberance, redundance, mischief-making, *m.* a babbler, a fool. زیادہ گو - بیہودہ

فضہ *fizza, m* silver. نقرہ - چاندی

فضیحت *f.* disgrace, ignominy, infamy. رسوائی - بدنامی

فضیل *n.* name of a pious man. نام ایک ولی کا

فضیلت *f.* excellence, perfection, knowledge, learning, greatness, superiority. - بزرگی - بڑائی

فطانت *f.* wisdom, intelligence, sagacity, understanding. دانائی - عقلمندی

فطر *fatr, m.* breaking (a fast), producing, commencing, broaching, sawing, breaking, cleaving (as wood). - چیرنا - پھاڑنا پیدا کرنا - شروع کرنا کسی کام کا - روزہ کھولنا

فطر *fitr,* (both *sing.* and *pl.*) breaking (a fast), one who breaks a fast, kneading. روزہ کشائی - روزہ کھولنیوالا - روزے کھولنیوالے مفرد و جمع دونوں آیا ہے - آٹا گوندھنا

فطرت f. wisdom, sagacity, nature, creation, form, deceit, trick, Mahomedan religion, alms given on the *Idu-l-fitr*, in the month of Ramzan. - دانائي - پيدايش - دين اسلام - صدقۂ عيد رمضان کا

فطاس m. a man who has a flat nose. چوڑي ناک والا

فطن f. wisdom, becoming wise. - عقلمند هونا - عقلمندي

فطن *fatin*, m. wise, sagacious. - زيرک - دانا - عقلمند

فطنت f. understanding, wisdom, sagacity. زيرکي - دانائي - عقلمندي

فطور n. anything that may be used to break a fast. وه چيز جس سے روزه کھوليں

فطير fresh kneaded flour, leaven. تازه گندها هوا آٹا

فطيس n. a sledge hammer. هتوڑا - گھن

فطيم m. a weanling. وه لڑکا جس کا دودھ چھوڑا ديا گيا هو

فظ a. bad-tempered, sullen, hard-hearted, indecent speaker, abuser. - بد خو - بد خصلت - سخت دل - درست سخن - بد زبان

فظيع f. a detestable thing. قبيح اور بري چيز

فعل m. action, work, motion, operation, a verb. کار - کردار - کام - حرکت - جنبش

فعل *fa'al*, m. a good work charity, generosity, partiality, affection. - کار نيک - سخاوت - هر کام ميں مروت

فعال *fi'al*, (*pl.* of فعل), works, actions, doings, doing a work unanimously, the handle of an axe. - جمع کام بمعني کام کي - آپس ميں مل مل کر کام کرنا - تبر يا بسولے کا دستہ

فغ m. an idol, image, statue. بت

فغاک a. foolish, ignorant, silly, bastard, low, wicked. نادان - بيوقوف - اور بعضوں نے بمعني حرام زاده اور بد ذات اور شرير کے بھي لکھا هے

فغان m. lamentation, clamour, complaint, *interj.* alas! ناله - فرياد

فغاني r. the titular name of a famous poet. تخلص ايک شاعر کا

فغفور m. the name of an emperor of China. نام ايک بادشاه چين کا

فغم *fugham*, a. smelling (a scent), kissing (a woman). خوشبو کا سونگھنا - عورت کا بوسه لينا

فغم m. permanent settlement, covetousness, greediness. کسي جگھه کے لئے مقيم هونا - کسي چيز پر لالچ کرنا

فف n. act of blowing, a puff, a blast. پھونک

فقاح m. a flower. شگوفه - گل - پھول

فقار *faqar*, n. the back-bones. پيٹھه کي گريان گردن سے دم تک

فقاع *faqa'*, m. a man having a red complexion. مرد سرخ رنگ

فقاع *fiqqa,'* n. the beer. بوزه - جو کي شراب

فقاهة n. wisdom, intelligence. دانائي - عقلمندي

فقاهت f. inquiring, knowing, wisdom, sagacity. دريافت کرنا - جاننا - عقلمندي

فقد a. act of losing or being lost. - گم هونا - گم کرنا

فقدان n. loss, want, deprivation. - کھويا جانا - گم کرنا - گم هونا

فقر m. poverty, a life of poverty with resignation and content. افلاس - فقيري

فقرا (*pl.* of فقير), the poor, religious mendicants, darweshes. جمع هے فقير کي

فقرات (*pl.* of فقره). جمع فقره کي

فقره m. a line, a sentence, a bone. پيٹھه کي ايک گرياں - عبارت نثر کا ايک ٹکڑا بمنزله مصرعه بيت کے

فقط *adv.* only, merely, simply, solely, no more. بس

فقع *faqa'* m. running fast, stealing, act of becoming pale, purity, maturity. سخت دوڑنا - چوري کرنا - زرد هونا - خالص هونا - بلوغ کي حد کو پهونچنا

فقع *faqa'*, (*dim.* of فقاع *faqqa'*) the beer. مخفف فقاع بمعني بوزه کي

فقع *fiqa'*, m. a mushroom, a fungus, a toadstool. پھپھن چھتر - ککرمتہ - سفيد پھول جو مثل چتر کے هوتا هے جو نمناک زمين پر هوتا هے

فقع کشادن id. to boast, to extol, to vaunt, to magnify, to prattle, to tattle, to praise. فقع کرنا - بڑائي کرنا - گپ مارنا - تعريف کرنا

فقه f. knowledge of religion of law, theology, jurisprudence. دريافت کرنا - جاننا علم کا - يهه لفظ مخصوص هوگيا هے علم معرفت احکام شريعت سے

فقيد f. rare, scarce. ناياب

فقيد المثل a. unparalleled, matchless. بے مانند - بے مثال

فقير m. a beggar, a dervise, a man who leads what is called a holy life, there is a great variety of them, they are always in the character of persons collecting alms, and are frequently known to subject themselves voluntarily to extreme

torture, in the hopes of appeasing an offended deity. They are in general a worthless set of villains, who, to obtain money from the credulous natives, put on the appearance of extreme sanctity, under the cloak of which they commit the greatest excesses. *a.* poor, indigent. مفلس۔ درویش - فقیر وہ جس کے پاس ایک روز کا کھانا اُس کے اہل و عیال کا هو اور مسکین کا درجہ اس سے بڑھا ہوا ہے - وہ شخص جس کے پاس کچھ نہو

فقیم *m.* a red-complexioned man. مرد سرخ رنگ

فقیہ *m.* a man conversant with religion and law, a theologian, a barman, a lawyer, a doctor. عالم - دانا - علم فقہ جاننے والا

فک *fakk*, disuniting, dissevering, separating, release, discharge, acquittance, the under and upper jaw. جدا کرنا دو چیزوں کا آپس سے - خلاص کرنا - آزاد کرنا - جبڑا جس میں دانت پیوست ہوتے ہیں

فک اعلی *m.* the upper jaw. اوپر کا جبڑا

فکاک *m.* separating, releasing, acquitting. جدا کرنا - خلاص کرنا

فکاهت *f.* jocular, merry. خوش طبع ہونا

فکاهت *fukahat, f.* jocularity, pleasantness, temper. مزاج - خوش طبعي

فکر *f.* and *m.* thought, reflection, consideration counsel, advice, solicitude. - سوچ اندیشہ

فکر (*pl.* of فکرت), thoughts, cares, etc. جمع فکرت بمعني اندیشہ کي

فکرت *f.* thought, the subject of thought or care. سوچ - اندیشہ

فکیف *adv.* and *conj.* wherefore, why. - پس کیوں کر

فگار *a.* lame, crippled, wounded, afflicted, confused, distracted. *m.* a wound. بمعني زخم اور زخمي دونوں کے آتا ہے اسي واسطے عاشق کو دلفگار کہتے ہیں

فگانہ *m.* an abortive child. وہ بچہ جو ایام ولادت مقررہ کے پہلے پیٹ سے نکل پڑے

فگندن *inf.* to cast down, to throw away. ڈالنا

فلا } فلات } *m.* a desert, a wilderness where water be scarce. بیابان - وہ صحرا جس میں پاني اور گھاس تک نہو

فلاح *f.* prosperity, happiness, safety, refuge, welfare. فیروزي - بقا - خیریت - نیکي

فلاح *fallah, m.* a cultivator, an agriculturer, a farmer. کھیتي کرنے والا

فلاحت *f.* cultivation, agriculture, husbandry. زراعت - کھیتي کرنا

فلاخن } فلاخان } *f.* a sling for throwing stones. پتھر مارنے کا آلہ - گو پھن

فلاس *m.* a money-changer. - پیسے بیچنے والا صراف

فلاسفہ (*pl.* of فلسفي), the learned, the doctors, tne philosophers. دانشمند - حکیم لوگ لوگ

فلاسنگ *m.* a sling for throwing stones, a wilderness. بمعني فلاخن - اور بیابان

فلاطون *n.* Plato, the Athenian comic, poet, was a contemporary with Aristophanes, and flourished from B. C. 428 to 389. He ranked among the very best poets of the Old comedy, also the name of a philosopher, who was the son of Ariston and Pericion or Potone, and was born at Athens either in B. C. 429 or 428. نام ایک مشہور حکیم کا - نام ایک مشہور شاعر کا

فلاکت *f.* an evil, a disgrace, a misfortune, adversity, poverty. زمانہ - ناداري - فلک زدگي کي گردش - محتاجي

فلان *m.* such a one or thing, so and so. شخص غیر معلوم

فلخودن } فلخیدن } *inf.* to card or comb (cotton). روئي کا دھنکنا

فلذہ *m.* piece (of the liver or heart), very dear, deloved. جگر پارہ - کلیجے کا ٹکڑا

فلز *filizz, m.* ore, metal dross, scoria. معدنیات - وہ جوہر کاني جو آگ میں پگھل سکے - جیسے چاندي سونا - تانبا وغیرہ

فلزات (*pl.* of فلز) mines, ores, metals. جمع فلز کي

فلس *fals, m.* a pice, a small coin, an obolus.

فلسطین *m.* Palestine, a small country east of the Mediterranean sea, sacred alike to Jew, Muhammadan and Christian. نام ایک ملک مشہور کا ملک شام میں

فلسفہ *m.* being wise and learned, philosophy. حکیم ہونا - دانشمند ہونا - علم موجودات کا

فلسفي *m.* a philosopher wise, learned. حکیم - دانشمند

فلع *m.* a wood-cutter, a sawyer, an axe, a hatchet. چیرنے والا - پھاڑنے والا - کلھاڑي لکڑي چیرنے کي - تبر

فلق falq, a. cutting, sawing, splitting. - چیرنا پھاڑنا

فلق falaq, m. the white light of the early dawn. صبح صادق کا سفیدہ

فلک fulk, (both sing. and pl.) boat, boats. جمع اور مفرد دونوں آیا ھے - کشتي - کشتیاں

فلک falak, m. the heaven, the sky, the firmament, pl. افلاک آسمان - افلاک جمع ھے

فلک fulk, pl. of فلک, جمع فلک کي بمعني آسمان

فلک اطلس m. the ninth heaven, where the throne of God is. عرش

فلک الافلاک m. the ninth heaven, empyrean heaven, the primum mobile. عرش اعظم یعني نواں آسمان

فلک البروج / فلک ثابتہ } m. the eight heaven. آٹھواں آسمان

فلکہ m. the round piece of wood at the upper end of a tent pole, a whirl, circular piece of wood at the end of a spindle. ایک گول سوراخدار لٹو جو ستون خیمہ پر نصب کرتے ھیں - چھوٹي گول لکڑي سوراخدار جو چرخہ کے تکلے میں ھوتي ھے

فلکي f. heavenly, relating to fate or fortune. آسماني

فلو m. act of weaning a child. لڑکے کا دودھ چھڑا دینا

فلو falvo, m. a colt one year old newly weaned. گدھے یا گھوڑے کا بچہ ایک سال کا جو دودھ سے تڑا لیا گیا ھو

فلوس (pl. of فلس), small coins, etc. جمع فلس بمعني پیشہ کي

فلہ fula, / فلہ fala, } m. the milk of a cow two or three days after calving. بعد بچہ ھونے کے جو حیوان کا دودھ دو تین دن تک نکلتا ھے ھندي میں پیوسي کہتے ھیں

فلہذا adv. and conj. therefore so, for this very reason. پس اسي واسطے

فلیو a. foolish, silly, vain. - بیہودہ - نالایق بیفائدہ - احمق

فلیون pl. of فلیو جمع فلیو کي

فم m. the mouth. دھان - منھ

فم معدہ m. the orifice of the stomach. معدے کا منھ - کوڑي

فن m. state, kind, science, skill, sagacity, stratagem, art. حال - گونہ - طرح - نوع قسم - ھنر

فنا fina, m. environs, outskirts, suburbs, a courtyard. - حوالي - نواحي - گردا گرد مکان کا - مکان کے دروازہ کے آگے کا صحن

فنا fana, f. mortality. frailty, death. نیست ھونا - مرنا - ھلاک ھونا

فنجان finjan, m a porcelain dish, a coffee cup, such as the Arabs, Persians and Turks use. It is very small, being scarcely larger than half an egg-shell, and, instead of a saucer, rests in a small case of silver or other metal called zarf. چھوٹي پیالي قہوہ وغیرہ پینے کي

فنجوش m. dross, the scum of metals. لوھے کا میل

فند fand, a mountain, a land where no rain has fallen, a bough, a branch, a stem, a band, a group, a party, kind, sort, species, manner, form. بڑا پہاڑ - وہ زمین جہاں مینھہ کا پاني نہ برسا ھو - درخت کي ٹہني - گروہ - جماعت - قوم گونا - طرح - قسم

فند fanad, n. fraud, deceit, trifles, vain words, falsehood, fault. - دروغ - خطا - چھوٹیہ مگر استعمال فارسي میں بہ سکون نون بمعني مکر و دغا اور فریب کے مستعمل ھے

فندق fundaq, (Ar. فندق), f. a filbert nut, the fruit of the cultivated hazel, the poets resemble this nut to the lip of a mistress and sometimes to the stained tips of their fingers, a caravansary, a ball, name of a place. ولایت کا ایک مشہور میوہ ھے جو سرخ رنگ بیر کے برابر - آدمیوں کي انگلي کے سروں سے مشابہ ھوتا ھے - شاعر لوگ کبھي اس سے معشوق کے ھونٹھہ کو مثال دیتےھیں اور کبھي مہندي رنگي ھوئي انگلیون کے سرے سے - کاروان سراے - گیند کھیلنے کا - نام ایک مقام کا

فندق بستن id. to stain the tips of the fingers with myrtle leaves. انگلیون کي پوروں کو مہندي سے رنگنا

فندق شکستن id. to kiss a mistress. کنایہ ھے معشوق کے بوسہ لینے سے

فنن (pl. of فنان), a bough, a branch, a stem. شاخ - ٹہني - فنان اس کي جمع ھے

فنون (pl. of فن), arts, sciences. جمع فن بمعني ھنر کي

فوات f. death, loss. گذر جانا - مر جانا - کھویا جانا

فواحش (pl. of فاحشہ), prostitutes, lewd women, sins, wicked deeds, unlawful acts, abominable things. جمع فاحشہ کي - بدکار اور حرامکار عورتیں - برے کام - بدیاں - برے گناہ - وہ چیزیں جنکا کرنا شرع میں منع ھے

فواد m. the heart. قلب - دل

فوارہ m. ebullition. وہ چیز جو دیگ میں آگ پر جوش مارے

فواضل (*pl.* of فاضلة), gifts, rewards, favours. بخششیں - بڑے انعام - جمع ہے فاضلہ کي

فواق *f.* a spasmodic affection of the diaphragm and glottis, a convulsive catch of the respiratory, muscles, the hiccough, a rattling noise in the throat which dying people are afflicted with, pang, agony. ہچکي وہ ہوا جو سینہ سے نکلتي ہے - وہ حالت جو آدمي کو مرتے وقت نزع کے عالم میں لاحق ہوتي ہے

فواکہ (*pl.* of فاکہہ), fruits. جمع فاکہہ بمعني میوہ کي

فوائح (*pl.* of فائحہ), perfumes, scents, perfuming things. جمع فائحہ کي - خوشبو دینے والي چیزیں - خوشبوئیں

فوائد (*pl.* of فائدہ), gains, advantages, profits, benefits. جمع ہے فائدہ کي

فوت *f.* death, loss. مرنا - گم ہونا - گذر جانا

فوج *f.* an army, a multitude, military soldiers. لشکر - جنگي - سپاہ - گروہ

فوحات *f.* perfumes, scents. خوشبوئیں

فور *faur*, *m.* time, moment, celerity, haste, boiling, a hooting forth or spouting. ہنگام - وقت - ساعت - جلد - شتاب - جلدي - جوش - مارنا - جوش خواہ دیگ کا ہو خواہ چشمہ وغیرہ کا

فور *fur*, *n.* name of a Raja of Kanauj, slain by Alexander the Great, Porus. نام بادشاہ قنوج کا

فوران *n.* heat, ebullition, act of boiling. جوش - ابال

فوران *n.* Kanauj. نام شہر قنوج کا

فوز *n.* victory, freedom, release, advantage, fruition. - خلاص ہونا - رہائي پانی - رہائي - مطلب کو بخوبي پہونچنا

فوطہ *m.* a cloth which they wrap round the middle when going to bathe, a girdle or waist-band, a cummer-bund, unsewn cloth, tax, revenue, a purse, a bag, the testicle, it also means a turban, a handkerchief. کمر بند - نہانے کي لنگي - بے سیا ہوا کپڑا - وہ روپیہ جو رعایا خزانہ سرکاري میں داخل کرے - تھیلي - خصیہ - اور بمعني پگڑي اور رومال کے بھي آیا ہے

فوفل *m.* the betel nut. معرب ہے پوپل کا - ڈلي اور سپاري جو پان میں کھاتے ہیں

فوق *m.* superiority, excellence, altitude, loftiness. *prep.* over, above. اوپر

فوقاني *a.* superior, dotted above, as some letters are. اوپر کا - اوپر والا

فولاد *f.* steel. معرب پولاد کا - جوہر دار لوہا جو بہت مشہور ہے

فوم *m.* the garlic, also wheat and gram. سیر - لہسن - اور بمعني گیہوں اور چنے کے بھي

فوہ (*pl.* of افواہ), the mouth. - افواہ جمع ہے دہان - منہہ

فوہ *fuh*, *n.* a good smell, a perfume. بوے خوش - خوشبو

فوہ *fuvva*, *m.* name of a drug used for dying red (*Rubia*, *munjit*, *Roxb*). ہندي منجیٹھہ جس سے کپڑے سرخ رنگتے ہیں

فوہات (*pl.* of فوہ), the mouths. جمع فوہ بمعني منہہ کي

فہام *m.* very intelligent, acute, of a quick capacity. بہت بڑا سمجھنے والا

فہد *m.* a leopard or panther (*Felis Jubata*, *Sehreb*, hunting leopard *Pennant*). - یوز چیتا - جانور شکاري ہے

فہرس *corr.* of فہرست معرب ہے فہرست کا

فہرست *f.* an inventory, list, index, table of contents, schedule, etc. تفصیل ناموں اشیاء مندرجۂ کتاب وغیرہ کي جو اول کتاب پر یا علیحدہ ہوتي ہے بطریق اختصار کے

فہم *m.* understanding, intellect, comprehension. سمجھہ - عقل - دانائي

فہمانیدن *inf.* to make comprehend, to explain, to convince, to satisfy. سمجھانا

فہمیدن *inf.* to understand. سمجھنا

فہو *n.* forgetfulness, error, mistake, blunder. بھول - چوک - بھول جانا

فہوم (*pl.* of فہم). جمع فہم کي

فہیم *a.* learned, intelligent. بڑا سمجھنیوالا

في *n.* the shadow in the afternoon, tax, plunder, pillage, ocition. دو پہر کے بعد کا سایہ - خراج - لوت - غنیمت - جماع

في *fi*, *prep.* in, into, among, of, to, with, for, by, concerning, each (or for each), per. در - بیچ

فیاح *faiyyah*, *m.* a very large river. بہت بڑا دریا

فیاد *faiyyad*, *m.* an owl. بوم نر - نر الو

فیاض *a.* liberal, generous, profuse, copious, munificent, benevolent. - فیض پہونچانے والا بہت بڑي بخشش کرنے والا

فیافي (*pl.* of فیفاء), wildernesses, woods. جمع فیفاء بمعني بیابان کي

فيال *m.* an elephant-driver (or feeder). پيلبان - هاتهي والا

في الجملة upon the whole, in brief. حاصل كلام - حاصل سخن

في الواقع in reality, in fact, really, effectively. حقيقت ميں

في الحال *adv.* now, immediately, instantly, directly, on the spot. فوراً - ابهي

في المثل *adv.* allegorically, proverbially. كهاوت ميں

فيثا فورس *n.* name of a famous philosopher, نام حكيم مشهور كا

فيجن *m.* the herb rue. سداب - دوا مشهور هے

فيح *n.* the spring, abundance, cheapness, abundance of provisions, prosperity, happiness. فصل بهار كي - زيادتي - ارزاني

فيد walking affectedly or coquettishly, loss of riches, death, shaking, moving, grinding, pounding, ground saffron, name of a fort on one's way to Mecca which is called after Faid who built it, name of a place near Mecca. - اتهلا كر چلنا - مال كا تلف هو جانا - مر جانا - هلا دينا - پيسنا - پسي هوئي زعفران - نام ايک قلعه كا راه مكۂ معظمه ميں كه فيد نامے ايک شخص نے اس كو بنا كيا تها - نام ايک شهر كا راه مكه ميں

فيروز *a.* victorious, triumphant, happy, fortunate, succesful. كامياب - فتحمند

فيروز مند *a.* victorious, conquering, prosperous. كامياب (كلمۂ مند زائد هے)

فيروزه *m.* a turquoise stone, greenish blue or blue opaque precious stone used as a talisman for bringing the wearer good luck. معرب فيروزه كا - نام ايک پتهر سبز رنگ كا جو بهت مشهور هے

فيروزه بوسحاقي *m.* a turquoise of the finest kind. ايک قسم هے بهت عمده فيروزه كي

فيروزه خرگاه (*met.*) the heaven. كنايه آسمان سے

فيروزه طارم (*met.*) the firmament. كنايه آسمان دنيا سے

فيروزه كاخ (*met.*) the heaven. كنايه آسمان سے

فيروزي *f.* victory, good fortune. فتحمندي - فتح

فيصل *m.* a ruler, an arbitrator, a judge, one who settles party disputes, (Pers.) decision, decree, determination, division, separation. حاكم - انياؤ كرنے والا - مدعقون كے حق اور باطل كو آپس سے جدا كرنے والا - فارسي لوگ مجازاً انفصال اور جهگڑا چكانے كے استعمال كرتے هيں

فيصله *m.* a decree, a settlement. جهگڑا چكانا

فيض *m.* overflowing (as a canal which may flow or spread over its banks), plenty, abundance, profit, gain, grace, favour, bounty. نهر كا پاني - اسقدر زياده هونا كه كناروں سے بهنے لگے - پاني كا گرانا - بڑي بخشش - فائده - تثير

فيضان *a.* overflowing, redundancy, becoming public (as a news). پاني كا چهلكنا - پاني كا جاري هونا - خبر كا عام هو جانا

فيف *m.* a desert, a wilderness. صحرا جس ميں پاني نهو

فيفاء *m.* a wilderness, the land of which may be level. بيابان - هموار

فيل *m.* (*corr.* of پيل), an elephant, *pl.* فيول and افيال. معرب هے پيل بمعني هاتهي كا

فيلاقوس *n.* name of a learned sage. نام ايک حكيم كا

فيلبان *m.* an elephant driver (or feeder). هاتهي كا خادم

فيل باران *m.* the breaking up of the rains. آخر برسات كا منهه - هندي هتهيا

فيل تل *m.* an eminence or mound equal to the size of an elephant. تودة كسي چيز كا جو برابر هاتهي كے قد كا هو

فيلسوف *n.* a philospher, intelligent, knowing, wise. حكيم - عقلمند

فيلقوس *n.* Philip, the father of Alexander the Great, king of Macedonia, name of a learned man. - نام سكندر بادشاه كے باپ كا - نام ايک حكيم كا

فيل مرغ *m.* a turkey. نام ايک مشهور پرند كا

فيمابين as to what there is between (us, etc.) درميان - بيچ ميں

فيما بعد as to the future, henceforth. آئنده - اب سے

فيوج (*pl* of فيج). جمع فيج كي

فيوض (*pl.* of فيض) جمع فيض كي

فيوضت (*pl.* of فيوض). جمع فيوض كي

فيول (*pl.* of فيل). جمع فيل بمعني هاتهي كي

فيه in him, it or that, (*mas.*) اسميں

فيها in her, it or that, (*fem.*) اسميں

فيهم in or among them, (*pl.*) ان ميں

فيهج *f.* wine, a wine-measure. شراب - پيمانه شراب كا

— ق —

ق *qaf*, called *qafi qarashat*, is the twenty-first letter of the Arabic, and the twenty-fourth of the Persian alphabet, its sound is harder than that of ک (the following letter), being formed deep in the throat, by the pressure of the root of the tongue against it, and has been compared to the cawing of a raven, in reckoning by ابجد it stand for 100.

قا the cawing of a rook or crow. کوا کي آواز

قا آن *m.* a very wise liberal and just king, a title among the Tartars, equivalent to Emperor or supreme ruler, it is sometimes applied to the Emperor of China, name of Chenghiz Khan's son, (*met.*) for every Emperor. بادشاه جو بهت عادل اور سخي اور عاقل هو - اب لقب بادشاه ترکستان کا هے - چنگیز خاں کے بیٹے کا نام - مجازاً هر ایک بادشاه جلیل القدر

قاب *f.* a large basin used for kneading dough and other purposes, a tray, a basin, a large plate. طباق - بڑا برتن بطور رکابي کے - تهال - کهانے کا خوان

قاب *n.* spectacles, the case of a watch or spectacle, a dice, bone of the elbow and the ankle. عینک - آئینه کا خانه - پانسه یعني وه هڈیاں جن سے جوا کهیلتے هیں - کهني کي هڈي - پاؤں کے گٹے کي هڈي

قاب *m.* a measure of length, *viz.* the distance from the middle to the extremities of a bow. قبضۀ کمان کے بیچ کا حصه - کمان اور چله کے بیچ کا حصه - کسي چیز کي مقدار

قابخانه *m.* a house for gambling. - قمار خانه جوا کهیلنے کا مکان

قاب قوسین two cubit's length. مقدار دو کمان

قابض *a.* seizing, taking, *m.* an astringent, a receiver, possessor, occupant. قبضه کرنیوالا

قابل *a.* possible, capable, skilful, sufficient, able, worthy, clever, the next (coming) year, coming, accepting. - ممکن - لایق - سزاوار - پسندیده - سال آئینده آنے والا - قبول کرنے والا - ضامن

قابله *f.* a skilful woman, following, coming, able, worthy, responsible, a midwife, acceptable. - آگے آنے والي - قبول کرنے والي - سزاوار - پسندیده - متکفل - دائي جنائي جو بچه اور زچه کي لڑکا پیدا هوتے وقت خدمت کرتي هے

قابلیت *f.* possibility, skill, sufficiency, capability, fitness, ability. قابل هونا - لایق هونا - لیاقت

قابو *m.* leisure, time, power, command, authority, opportunity, possession, will. فرصت - موقع - بوتا - زور

قابوس (*corr.* of کاؤس), the name of a famous king, name of a learned man. معرب هے کاؤس کا جو نام ایک مشهور بادشاه کا تها - ایک حکیم کا نام

قاپو *m.* a door, an entrance. دروازه

قاپوچي *m.* a keeper. دربان

قاپي *n.* a door, an entrance. دروازه

قاتل *m.* a murderer, homicide, killing, mortal, deadly. قتل کرنے والا

قادر *a.* potent, powerful, capable, skilful, the Omnipotent. - قدرت والا - طاقت رکهنے والا - ایک نام حق تعالی کے ناموں میں سے

قادر انداز *m.* a skilled archer. - تیر انداز کامل هنر

قادر علي الاطلاق *m.* the Omnipotent, God Almighty. هر کام پر بهت بڑا صاحب قدرت - مراد حق تعالی کا

قاذوره *n.* filth, dirt, nastiness, impurity. نجاست - پلیدي

قاذورات *n.* impurities, etc. نجاستین - پلیدیاں

قار *n.* ice, snow. برف

قار *m.* a pitch, a kind of bitumen flowing from some mountains. قیر ایک روغن سیاه جو چپکنے والا هوتا هے

قارن *n.* the name of a wrestler contemporary with Rustam, the name of Khankhanan's son. نام ایک پهلوان کا جو رستم کے زمانه میں تها - نام پسر خانخانان کا

قارع *m.* a soothsayer, a fortune-teller, prophet, conjuror, bald, a knocker, consenting to a proposal. - قرعه پهینک کے فال دیکهنے والا - رمل - گنجا - مشوره کا قبول کرنا - دروازه کا کهٹکهٹانے والا

قارعه *f.* adversity, accident, foretelling, bald (woman), pounding, the judgment day, beating. سختي - زمانه کا حادثه - گذشته اور آئینده بات بتانے والي - گنجي - کوٹنیوالي - قیامت

قارو *m.* a swan. راج هنس پرند مشهور هے

قاروره *m.* flask, glass, a phial, a urinal (sent to physicians for inspection). بارود کي کپي - شیشي - جو بصورت گول شیشي کے مثانه بنا کر مریض کا پیشاب اُس میں رکهکر طبیب کو دکهاتے هیں ،

قارون *n.* supposed to be the same as Korah, whom the *Muhammadans* describe as the cousin of Moses, on account of his riches and avarice his name is proverbially applied to all misers; they add that it was on account of his refusal to pay Moses a tithe of his possession for the public use, the earth opened and swallowed him up. حضرت موسی کے چچا زاد بھائي کا نام جس کو خدا نے مع مال کے موسی کے ساتھہ بے ادبي کرنے کے سبب سے زمین میں دھنسا دیا

قاري *m.* a reader, especially of the Quran. خوانندہ - پڑھنے والا

قاز *m.* a duck or goose, a kind of bird which has beautiful feathers. بڑي بطہ - ایک مشھور پرند کا نام

قازغان *n.* a copper-pot, an iron pan. تانبے کي دیگ - لوھے کي کڑھائي

قاسر *m.* oppressing, forcing, violence. جبر کرنے والا - زبر دستي کرنے والا

قاسم *m.* a distributor. بانٹنے والا - تقسیم کرنے والا

قاسي *a.* hard-hearted, black-hearted, malevolent. سخت دل - سیاہ دل

قاش *f.* a bit, a slice (of melon, etc.), a piece. لمبا ٹکڑا جو پھل کي لمبان سے کٹا ھو - پھانک

قاشر *m.* a parer, blanching, peeling. چھلکا اُتارنے والا

قاشق *m.* a spoon. چمچہ

قاص *m.* a story-teller, a preacher, an admonisher. قصہ خواں - واعظ - کسي کي خبر دینیوالا

قاصب *m.* a butcher. گوشت کاٹنے والا

قاصد *m.* a courier, an express, a messenger, a postman, a wood-breaker. *a.* resolved on, bound to. - ارادہ کرنے والا - قصد کرنے والا - لکڑي کا توڑنے والا

قاصر *a.* insufficient, defective, impotent, deficient, failing. کوتاھي کرنے والا

قاصرات الطرف *f.* women who are devoted to their husbands, and who do not even care to ogle at the other men | وہ عورتیں جو اپنے شوھروں کے سوا کسي اور مرد کي طرف انکھیوں سے بھي نہ دیکھیں

قاضي *m.* a Mahomedan Judge, civil, criminal and ecclesiastic, a commander, liquidation. جھگڑا کرنے والا - حکم کرنے والا - ادا کرنے والا قرض کا

قاضي چرخ *m.* the planet Jupiter. کنایہ ستارۂ مشتري سے

قاطبة *qatibatan, a.* all, every one, generally, universally. ھمہ - تمام - سب

قاطر *m.* a mule. خچر

قاطع cutting, rescinding. *a.* per-emptory, decisive, explicit. قطع کرنے والا - کاٹنے والا

قاطع الطریق *qati'u t-tariq, m.* a robber, a highwayman, a plunderer. رھزن - راہ میں لوٹ مار کرنے والا - لٹیرا

قاطعین *m.* the travellers. مسافر لوگ

قاطن *m.* resident, a dweller, an inhabitant. مقیم - رھنے والا - ساکن

قاطنین *n.* the residents, dwellers, inhabitants. مقیم لوگ - باشندے

قاع *n.* the level ground, a plain, a desert. زمین ھموار اور فراخ

قاعدہ *m.* the bottom (of a vessel, box etc.), quantity, rule, custom, institution, the rules of grammar, basis, groundwork, a woman sitting. - پیندا - نیچے کي تلي - مقدار قانون - دستور - بنیاد - بیٹھي ھوئي عورت

قاف *m.* the twenty-first letter of the Arabic and the twenty-fourth of the Persian alphabet, the mountain of قاف *qaf*, supposed to surround the world, and bound the extreme horizon, it rests (as the Mahomedans say) on the stone *sakhrat*, an entire emerald (زمرد سبز) the reflection from which occasions the azure colour of the sky, according to the poets, the کوہ قاف is the abode of the genii and also of the fairies, they say that the famous سیمرغ *simurg*, or great griffin, is also an inhabitant of the same interesting region. ایک پھاڑ کا نام جو تمام عالم کے گردا گرد ھے اور ایک زمرد پر قایم ھے اور اسي کے عکس سے آسمان کا رنگ نیلو گوں ھے - نام حرف کا

قاف تا قاف (*met.* the whole world. مراد تمام جھان سے

قافلہ *m.* a caravan, a body of travellers.

قافیہ *m.* rhyme, cadence, metre, last letter in a verse to which all the other distichs rhyme, in poems which terminate in a double rhyme, the penult syllable is قافیہ the last being called ردیف. کسي بیت کے اخیر کا لفظ جو بدلتا جاتا ھے

قافیہ تنگ شدن *id.* to be very poor or distressed, to be beaten. عاجز ھونا کسي سے گفتگو و کلام میں

قاق *m.* dried meat fried in ghee or butter, (*met.*) *a.* dry, lean, thin, feeble, disproportionately tall. سکھایا ہوا گوشت جو گھي میں تلکر کہاتے ہ ھیں - مجازاً لاغر اور دبلا خشک اندام - لمبے قد کا آدمي

قاقلہ *n* cardamom. بڑي الائچي

قاقم *qaqum*, *m.* a fine kind of ermine, a native of N. Europe and America, valued for its white fur. ایک جانور کا نام جس کا پوست نہایت ھي ملائم اور بیش قیمت ہوتا ھے

قال *m.* a word, a saying, loquaciousness, discussion, boasting, egotism. گفتگو - مباحثہ

قالب *m.* a mould, model, form, a mark, a stamp, bust, figure, the body. سانچہ کسي چیز کا - چھاپا - جسم - بدن

قالب turning upside down, overturning, reversing. پھیرنے والا - الٹا کرنے والا ہ اوندھا کرنے والا

قالب تہي کردن *id.* to be unconscious, to die, to give up the ghost بیہوش ہو جانا - مر جانا - جان دینا

قال کردن *id.* to talk, to sing. گفتگو کرنا - گانا

قال مقال *m.* altercation, wrangling, discussion. بڑي گفتگو

قالي *f.* a carpet, tapestry, name of a tribe. غالیچہ - نام ایک قوم کا

قالیچہ *m.* a small carpet. ایک قسم کا چھوٹا غالیچہ

قالین *r.* a woven fabric for covering floors, etc., a carpet, a tapestry. ایک مشہور بچھونے کا نام

قامت *f.* stature, shape, form, figure, body. قد

قامع *m.* one who disgraces, contemning, scorning. ذلیل کرنے والا

قامعہ *f.* a woman who disgraces, contemning, a scorning woman. خوار کرنے والي

قاموس *m.* a deep river, the ocean, the name of an Arabic lexicon composed by Majad-ud-din Bin Yaqub Firozabadi. دریاے عمیق - ایک عربي لغت کا نام جسے مجید الدین بن یعقوب فیروز آبادي نے تصنیف کیا

قان *m.* the blood. خون

قانت *a.* obedient (to God), devout, silent. فرمانبردار - نماز میں دعا مانگنیوالا - چپکا - خدا تعالی کا حکم ماننیوالا

قانتین (*pl.* of قانت). جمع قانت کي

قانط *a.* sad, dejected, hopeless. مایوس - نا امید

قانطین (*pl.* of قانط). جمع قانط بمعني نا اُمید کي

قانع *a.* contented, satisfied تھوڑے پر صبر کرنے والا

قانون *m.* root; origin, rule, regulation, statute canon, calculation, name of a book on the science of physics composed by Bu Ali Sina, a dulcimer or harp. اصل ھر چیز کي - ھر چیز کا اندازہ - مجازاً بمعني قاعدہ - دستور - نام ایک کتاب علم طب کي جس کا مصنف بو علي سینا تھا - ایک قسم کے باجہ کا نام

قاني *a.* deep red. حد سے زیادہ سرخ

قاوس *m.* a large ship. بڑا جہاز

قاہر *m.* oppressive, subduing, triumphing, one of the epithets of God. - قہر کرنے والا زور آور - خدا کے ناموں میں سے ایک نام

قاہرہ *f.* a conqueress, victrix Cairo in Egypt. غالب - زبر دست - مصر میں ایک شہر کا نام

قاہ قاہ laughing loudly and indecently, jesting. زور کي ھنسي - ٹھٹھا

قائد *m.* a leader, a general, a governor, one who guides a blind holding his staff, the star in the tail of the Lesser Bear. فوج کا سردار - حاکم - اندھے کو لاٹھي پکڑ کے آگے لے جانے والا - نام ایک ستارے کا

قائف *m.* a tracker, physiognomist, a diviner, an augur. قدم کا نشان - پہچاننے والا - علم قیافہ کا جاننیوالا - شگونیا

قائزہ کردن *inf.* to tie up a horse's head by passing the bridle to his tail to prevent his biting, etc., while being rubbed down. گھوڑے کا سر لگام سے ملتے وقت باندھنا

قائل one who sleeps at midday, acquiscing, agreeing, giving up a point. *a.* subdued, confuted. کہنے والا - قیلولہ کرنے والا - وہ جو اپني خطا کا اقرار کرے

قائلہ *f.* a woman who sleeps at midday, etc. دوپہر کو سونے والي

قائم *a.* erect, perpendicular, firm, fixed, durable, attentive, persevering, (in chess) when both the players are equal in a game. کھڑا ھوا - ٹھہرا ھونے والا - شطرنج بازون کے اصطلاح میں جب دونوں کھیلنیوالے آپس میں برابر ھیں

قائم انداز *m.* an expert champion chess player, a conqueror. شطرنج باز کامل اور بے نظیر - غالب

قائم ریختہ *id.* to be beaten, to be dejected, humiliate. مغلوب اور عاجز ھونا

قائمہ m. a perpendicular line, a right line. بمعني پايہ - پورے درجہ زاويہ

قائن m. a brother-in-law, husband's brother, a wife's brother. ديور - جيٹھ - سالا

قب m. the sound of a falling sword. گرتي هوئي تلوار کي آواز

قبا *qaba.* f. a garment (quilted), a jacket, a kind of long gown. ايک مشهور پوشاک کا نام

قبا *quba*, n. name of a village near Medina in Arabia. مدينۂ منورہ کے نزديک ايک موضع کا نام

قباب (*pl.* of قبہ), a dome, cupola, pinnacle, spire. جمع قبہ بمعني کلس کي

قباچہ m. a small jacket. چھوٹي قبا

قباحت f. villany, deformity, dishonesty, baseness, evil, ill, wrong, inconvenience. زشتي - برائي - زبوني

قباد n. the name of a king, name of Nausherwan's father, any great king. نام ايک بادشاہ کا - نام نوشيرواں کے باپ کا - هر بادشاہ عظيم الشان کو کہتے هيں

قبا کردن *id.* to rend one's garments. جامہ وغيرہ کا چاک چاک کرنا

قبالہ m. a deed, writing, a bond, written agreement, contract, a bill of sale. مکان کي سند - ضامني نامہ - خط شرعي

قبان n. a large balance. بڑا ترازو

قبائح (*pl.* of قبيحہ), جمع قبيحہ کي

قبائل (*pl.* of قبيلہ), family (wife and chidren, etc.), tribes. جمع قبيلہ کي - آدميوں کے گروہ

قبب *pl.* of قبہ), جمع قبہ کي

قبج (*cor.* of کبک) m. the *Bartavelle* or Greek partridge (*Tetrao rufur, Lin, Perdix rufa,* Lath.), [said to be enamoured of the moon, and to eat fire at the full moon. چکور جو مشهور پرند هے

قبح n. baseness, deformity. برائي - بدي - زشتي

قبر f. a grave, a tomb. گور مردہ دفن کرنے کي

قبرستان f. a burying-ground, a cemetery. وہ زمين جہاں بہت سي قبريں هوں

قبرغہ m. a rib, præcordia, one of the curved bones springing from the back bone. پہلو - استخوان پہلو - پسلي

قبرہ *qubbarah*, m. a lark, Brahmini duck. چکاوک ايک مشهور پرند کا نام - بعضے اس کے معني سرخاب لکھتے هيں

قبس *qabs* or *qabas.* m. lighting or getting fire from another, striking or asking fire, learning, teaching, a firebrand, a match, anything for kindling fire with. آگ لينا - بتي وغيرہ جلانا - آگ کا انگارہ يعني دهوئيں کا

قبص *qabas*, n. stomach-ache, colic, pain in the heart, happiness, gladness, greatness, superiority. درد شکم - درد جگر - شادماني - خوشي - بزرگي

قبص *qabs*, a. glad, happy, joyful. شادماني - خوشي

قبض f. contraction, costiveness. درد اور گرفتگي شکم

قبض clutching, handling, grasping, capture, seizure, contrivance, a country. پنجہ سے کسي شئے کا پکڑنا - پکڑ - گرفتگي - بندش - ملک

قبضہ m. a grasp, a handle, the gripe of a sword, control, a country. - مٹھي بھر چيز - وہ مقدار جو مٹھي ميں سما سکے - وہ چيز جو مٹھي ميں پکڑيں - تلوار و چھري وغيرہ کا دستہ - گرفت کي جگھہ - قابو - ملک

قبطي n. the descendants of the ancient Egyptians called *Copts.* —Copt was the name of the grandson of Noah. اولاد قبط کي جو نوح کے ايک پوتے کا نام تھا

قبق m. a pumpkin or pumpion (*Cucurbita lagenaria*). کدو جو مشهور ترکاري هے

قبق انداز m. a skilled archer. تير انداز - نشانہ کا خوب اڑانے والا

قبقاب m. pattens, falsehood, making a noise (a camel) from lust, a roaring lion, a stamp, mark, seal. نعليں - چوبيں يعني کھڑاؤں - بٹہ دار - دروغگوئي - اونٹ مستي سے بلبلانے والا - شير ڈکار نے والا مهر جس سے کپڑے کاغذ پر مهر کريں

قبل *qubul*, f. *pudendum virivel fœminæ.* عورت کے آگے کي شرمگاہ - اندام نهاني - فرج

قبل *qubl*, m. the anterior part, the front. a. first, anterior. *adv.* before. - پيش - پہلے - بعد کا ضد

قبل *qibal*, side, part, towards, on the part of in respect of. (*met.*) way, manner, custom.

قبل *qabal*, n. height, elevation, aminence activity. بلندي زمين کي

قبلہ *qubla*, m. a kiss, osculation. - بوسہ - مٹھي - چوما

قبلہ *qibla*, m. anything opposite, that part to which Mahomedans turn their face when at prayer, hence this word means Mecca, a temple, an altar, worship, father. کوئي چيز جو سامنے هو - وہ جانب جس کي طرف مسلمان لوگ منھہ کرکے نماز پڑھتے هيں - کعبہ - مسجد - والد

قبلہ گاہ جوس *n.* the fire. آتش ۔ آگ

قبلہ نما *lit.* that which shows where the قبلہ is situated, a complex mathematical instrument, wrongly supposed, to be the mariner's compass, but in reality it is an astrollabe which was used for finding the bearing of Mecca before the compass was known to the Arabs, of course the term is now applied to the European compass. جانب قبلہ بتانے والا ۔ قطب نما

قبوح *a.* bad, wicked, depraved, deformed, ugly. زشت ۔ زبون ۔ برا

قبور (*pl.* of قبر), tombs, graves. جمع قبر کي

قبول *m.* consent, favourable reception, concession, approbation, assent, *a.* approved, consented. قبول کرنا ۔ ماننا ۔ اکثر استعمال فارسي ميں بمعني مقبول کے آتا ھے

قبوليت *f.* a written agreement. راضي نامہ

قبولي *f.* a kind of food, rice and pulse boiled together. ايک قسم کي کھچڑي ھے

قبہ *qubba, m.* a vault, a dome, an arch, a small ornament shaped like a pine-apple on the top of a flagstaff or spire, a litter, a smoking pipe, an umbrella, a tent, a pinnacle. گول عمارت مثل گنبد وغيرہ ۔ عماري ۔ حقہ ۔ چھتري ۔ خيمہ ۔ کنگرہ ۔ کلس

قبۃ الاسلام *n.* Bassorah and Bukhara. لقب شہر بصرہ اور بخارا کا

قبيح *a.* vile, detestable, deformed, bad, ugly, shameful. زبون ۔ برا

قبيصہ *m.* anything that may be seized and hold by tips of the fingers. وہ چيز جو ھاتھہ کي انگليوں سے پکڑي جاے

قبيل *m.* species, kind, family, tribe, kindred, progeny. پفيرفتار ۔ گروہ مردم

قبيلہ *m* a family, a tribe, a wife. گروہ ۔ جماعت جس ميں سب لوگ ايک باپ کي اولاد سے ھوں

قتال *qital, n* battle, slaughter, fighting. آپس ميں جنگ کرنا ۔ ھتھياروں سے لڑائي لڑنا ۔ لڑائي ۔ جنگ

قتال *m* a great slayer, a murderer. بہت بڑا قتل کرنے والا

قتام *f.* dust, clouds of dust. گرد ۔ غبار

قتق *f.* acidity, sourness, an acid, thick sou curd. کھٹائي جو سالن ميں پڑتي ھے کھٹا دھي

قتل *m.* slaughter, murder. تلوار يا اور کسي ھتھيار سے مار ڈالنا

قتلي (*pl.* of قتيل), killed, slain, slaughtered. جمع قتيل بمعني مقتول کي

قتي *n.* a small box, a casket. ۔ چھوٹا صندوق صندوقچہ

قتيل *m.* } killed, murdered or beheaded.
قتيلہ *f.* } مقتول ۔ کشتہ ۔ قتل کيا گيا

قثاء *n.* a cucumber (*cucumis sativus*). ککڑي

قثد *n.* bright red prickly gourd (*cucumis utilissimus*). کھيرا

قثد *m.* eating cucumber, a big camel. کھيرا کھانا ۔ بڑا اونٹ

قچ } *m.* a horned fighting ram. لڑائي کا
قوچ } شاخدار مينڈھا

قح *m.* plain, pure gold, unadulterated gold, good and bad doings of the stern and oppressive, unripe melon. سادہ ۔ بے ملوني خالص سونا ۔ نيکي و بدي درشت اور ظالم آدمي سے ۔ کچا خربزہ

قحاب *m.* the cough. سفرہ ۔ کھانسي

قحب *m.* coughing, one who coughs; an old man. کھانسنا ۔ وہ شخص جس کو کھانسي آتي ھو ۔ بوڑھا ۔ بڑا

قحبہ *f.* a whore, a prostitute (accustomed to notify her profession by coughing), an old woman (subject to coughing.) عورت بد کار اور فاحشہ ۔ عرب کي بدکار عورتيں مردوں کو کھنکھار کر بلاتي ھيں اس لئے يہہ نام رکھا ۔ بوڑھي کھانسنيوالي عورت

قحط *m.* famine, dearth, scarcity of corn. خشک سال ۔ کال ۔ غلہ کا بسبب پاني نہ برسنے کے مھنگا ھو جانا

قحط سالي *n.* a season of dearth or famine. خشک سالي

قحطان *n.* the name of a grandson of Sam the son of Noah. سام بن نوح کے ايک پوتے کا نام

قحف *n.* the skull, the bony case which contains the brain. ۔ دماغ کے اوپر کي ھڈي کھوپڑي کاسۂ سر

قحوط *quhut*, want of rain, cessation of rain. آسمان سے پاني نہ برسنا

قد *m.* cutting or splitting lengthwise, cutting by the root, abridgment, cutting a jungle, tall, a stature. لمبان ميں کسي چيز کا چيرنا يا پھاڑنا ۔ جڑ سے کاٹ ڈالنا ۔ سخن کا کوتاہ کرنا ۔ جنگل کا کاٹنا ۔ بالا ۔ قامت ۔ بدن کي لمبائي

قدام *qudam, m.* old, ancient, an ancient king. ديرينہ ۔ کہنہ ۔ پرانا بادشاہ

قدام *qadam*, *m.* a chief, head, eternity. سردار - بزرگ قوم - همیشگي

قدام *quddam*, *m.* in front of, before, med returning from a journey or any other place. آگے - سامنے - سفر یا اور جگهه سے آنے والے لوگ

قدامت *f.* state of being old, eternity, priority, excellence, precedence. دیرینه هونا - کهنه هونا - پرانا هونا - همیشگي - پرانا پن

قدح act of splitting, cleaving or breaking, the tooth or wood eaten by worms, act of setting fire to buildings, incendiarism, accusation, slander, taunt, a lampoon or satire. چیرنا - پهاڑنا - توڑنا - دانت یا لکڑي کو کیڑے کهانا - آگ لگا دینا - عیب لگانا - طعنه دینا - کسي کي هجو کرنا

قدح *qadah*, *m.* a goblet, glass, bowl, an arrow without a head. بڑا پیاله - کاسه - تیر بے پهال کا

قدح خور *m.* a drunkard. مراد شراب خور سے

قدر *qidr*, *n.* a copper pot, a caldron. تانبے کي دیگ - هنڈا - هنڈي

قدر *qadr* or *qadar*, *f.* worth, honour, value, price quantity, calculation, destiny, fate, livelihood, richness, competence, strength, power. عزت - بزرگي - کسي چیز کا اندازه - اندازه کرنا - قسمت - روزي - دولتمندي - بے نیازي - طاقت

قدر انداز *m* a skilled archer. کامل تیر انداز

قدرت *f.* power, authority, the omnipotence. طاقت - قوت

قدر خان *n.* a title of the emperor of China, according to some lexicographers it is a title of the king of Turkestan لقب بادشاه چین کا اور بعضے لقب بادشاه ترکستان سے منسوب کرتے هیں

قدر دان *m.* and *f.* a just appreciator, knowing the worth of (a person). قدر جاننے والا

قدر مایه *m.* a small quantity. تهوڑي مقدار

قدرے *a.* a small quantity, little, small, moderate, a few. تهوڑا - کم - قلیل

قدس *qudus* } *m.* holiness, sanctity, name
قدس *quds*, } of a mountain in Arabia, Jerusalem the angel Gabriel. *a.* holy, pure. پاکیزگي - پاک هونا - عرب کے ایک پهاڑ کا نام - جبرائیل فرشته

قدسان (*pl.* of قدسي), the angels, the holy people, the prophets. - جمع قدسي کي - فرشتے نیک بندے

قدغن *m.* injunction, superintendence, confirmation, assiduity, diligence, care. prohibition. تاکید - تقید

قدغنچي *m.* supervisor, a keeper, a foot soldier. - تاکید کرنے والا - دربان - چوبدار - سرکاري پیاده

قد کشیدن *id.* to appear. ظاهر اور نمایاں هونا

قدم *qidam*, *m.* becoming old, eternity (God), old, ancient. - پرانا هونا - دیرینه - قدیم - کهنگي - ایک صفت خدا کي

قدم *qudm*, *a.* coming before. آگے آنا

قدم *qudm*, *a* act of going before آگے جانا

قدم *qadam*, *m.* a pace, a step, footstep, the sole of the foot, mark, print. - پیر - پاؤں چلنے میں دونوں پاؤں کا فاصله - نشان - اثر

قدما (*pl.* of قدیم), the ancients. - جمع قدیم کي اگلے لوگ - پرانے وقت کے لوگ

قدم بر سر چیزے نهادن *id.* to give up that thing, to refrain from doing (something). کنایه هے اُس چیز کے ترک کردینے سے

قدمت *f.* oldness. دیرینه هونا - کهنگي

قدم سنجي *f.* act of going or walking. راه چلنا

قدور (*pl.* of قدر), pots, caldrons, etc. جمع قدر بمعني دیگ کي

قدوس *a.* holy, pure, blessed, one of the names of God (Holy) بڑا پاک - خدا کے ناموں سے ایک نام

قدوم *qudum*, *m.* arrival, coming near, returning from a journey. - کسي جگهه سے آنا سفر سے واپس آنا

قدوم *qadum*, *m.* a carpenter's axe, name of the place where Abrahim had circumcised himself, endeavouring, exerting. بڑهي کا بسولا - ایک مقام کا نام جهاں ابراهیم نے اپنا ختنه کیا تها - بڑا اقدام کرنے والا

قدوه *m.* a leader, a guide, selected, chosen پیشوا - برگذیده

قدید *n* the meat which is dried in the sun for eating. وه گوشت جو دهوپ میں کهانے کے لئے خشک کیا جائے

قدیر *a.* powerful, the Almighty, anything cooked in a pot. - بڑا صاحب قدرت - طاقت ور - توانا - خدا کا نام - وه چیز جو دیگ میں پکائي جائے

قدیم *a.* *qadim*, *a.* ancient, old, eternal. - کهنه پرانا - دیرینه - همیشه - جو همیشه سے هو

قدید *qidim*, *m.* a king, a leader, a guide, a chief, a head. بادشاه - پیشوا - سردار

قذر *qazur*, *f.* impurity, filthiness, nastiness. dirtiness. پلیدي - نجاست

قذر *qazir*, *a.* impure, filthy, dirty, foul, unclean. نجس - پليد

قذعمل *m.* a fat camel. موٹا اونٹ

قذف *quzf*, pelting with stones, abusing, accusing one falsely of unnatural crimes or adultery, vomiting. پتھر مارنا - گالي دينا - زنا اور حرامکاري اور بدي سے کسي کو نسبت کرنا - استفراغ يعني قے کرنا

قذف *quzaf*, *m.* a big jungle, an extensive forest. بڑا جنگل

قذف *qazaf*, (*pl.* of قذفة), pinnacles, spires, etc. جمع قذفة کي - کنگورے

قذي *m.* sweepings, dirt, rubbish. کوڑا - کرکٹ

قذي *qizi*, *f.* fine dust. باريک خاک

قر *qurr*, *m.* the winter, the winter season, the cold weather, coldness. سردي - سردي کي فصل - جاڑا

قر *m.* a thing that is cold or produces a cold effect. وہ چيز جو سرد اور ٹھنڈي ہو

قرى *qura*, (*pl.* of قرية), villages. جمع قرية کي بمعني گانوں کي

قري *qira*, hospitality, reception, entertainment. مہماني - مہمانی کرنا

قراء *qara*, *m.* hospitality, entertainment. مہماني کرنا

قراء *quraa*, (*pl.* of قاري), readers (more especially of the Quran) جمع قاري کي . قران خواں لوگ

قرار *m.* a worshipper. *a.* devout, pious, abstinent. عبادت کرنے والا - پارسا - پرهيز گار

قراء *qaraa*, *m.* one who reads sweetly. خوش خواں

قرا *qara*, *m.* black. رنگ سياہ

قراءت *f.* pronunciation, reading (more especially of the Quran). پڑھنا - حرفوں کا مخارج سے نکالنا

قراب *m.* a sheath, a scabbard, nearness, vicinity, affinity, relationship. نيام خنجر تلوار وغيرہ کا - آپس ميں نزديک هونا - نزديکي

قراباذين } *f.* an antidote, a panacea, an
قرابادين } effectual remedy (a term used in medicine). افکيہ زهر مهرہ

قرابت *f.* kin, vicinity, relationship, affinity, propinquity. رشتہ داري - قريب هونا

قرابة *m* a flagon, a flask, a goblet بڑا شيشہ عرق رکهنيکا صراحي - شراب کا شيشہ

قراح *m* clear water, anything pure. پاني صاف - هر چيز خالص

قراد *m.* a tick or louse on parasitic dogs, a teat, a pap, nipple. چچڑي جو کتوں کے بدن ميں هوتي هے - سرپستاں - بھٹني

قرار *m* rest, tranquillity, quietness, firmness, stability, ratification, agreement, engagement, patience, waiting. سکون - آرام - مجازاً اقرار

قرار داد *m.* an engagement, contract, agreement. اقرار جو بات بعد مباحثہ کے مقرر هوجاوے

قراضة *m.* a particle (of gold or silver), what falls off in filing, clippings. سونے يا چاندي کا ريزہ جو ريت نے ميں يا قينچي سے کٹنے ميں گر پڑے

قراقر (*pl.* of قرقرة), grumbling of the guts, rumbling of the bowels جمع قرقرة کي - وہ آوازيں جو پيٹ کے اندر هوا کرتي هيں - گڑگڑاهٹ پيٹ کي

قرام *m* a light curtain, an embroidered curtain. هلکا پردہ - پردہ منقش

قران *qiran*, *m* propinquity, contiguity, conjunction of the planets, a period of 10, 20, 30, 40, 80 or 120 years. قريب هونا - نزديک هونا - ايک شے کي نزديکي دوسرے شے سے - ستاروں کا يکجا هونا

قرآن *quran*, *m.* the word Quran derived from the word *qaraa*, to read, signifies properly in Arabic "the reading", or rather "that which ought to be read", by which name the Muhammadans denote not only the entire book or volume of the Quran but also any particular chapter or section of it, just as the Jews call either the whole scripture or any part of it by the name of Karah or Mikra, words of the same origin and import, which observation seems to overthrow the opinion of some learned Arabians who would have the Quran so named, because it is a collection of the loose chapters or sheets which compose it. The syllable *Al* in the word *Alquran* is only the Arabic article signifying *the*, and therefore ought to be omitted when the English article is prefixed. Besides this name, the Quran is also honoured with several appellations common to other books of Scripture *A al Furqan*, from the verb *faraqa*, to divide or distinguish. It is also called *al Mushaf*, the volume, and *al kitab* the Book and *al Dhikr*, the admonition.

The Quran is divided into 114 lager portions of very unequal length, which we call chapters but, the Arabians *Suwar*, in the singular *Sura*, a word rarely used on any other occasion, and properly signifying a *row*, *order*, or *regular series*. Every chapter is sub-divided into smaller portions of very unequal length also, which we customarily call verses, but Arabic word is *Ayat* and signifies signs or wonders, such as are the secrets of God, His attributes, works, judgments, and ordinances, delivered in those verses, many of which have their particular titles also, imposed in the same manner as those of the chapters. Besides these divisions of chapter and verse the Mahomedans have also divided their Quran, into 60 equal portions, which they call *Ahzab*, in the singular *Hizb*, each subdivided into four equal parts. The Quran is universally allowed to be written with the utmost elegance and purity of language, in the dialect of the tribe of Quraish, the most noble and polite of all the Arabians. This book regulates the faith and practice of Muhammadans. مسلمانوں کي مذهبي کتاب - نام کتاب خدا کا - کلام الله

قراول *m.* a hunter, a huntsman, one who shoots, a gamekeeper, the advanced guard of an army, a sentinel, picquet. وہ شخص جو بندوق سے شکار کرے - شکاري آدمي - جو شخص شکار کروا دے - بهليا - وہ سپاهي جو واسطے تعين مکان جنگ کے مقرر هوں - پيشرو لشکر يعني هراول - سپاهي جو لشکر کے آگے آگے چليں تاکہ دشمنوں سے خبر ديتے رهيں

قرائن (*pl.* of قرينہ), connections, circumstances. جمع قرينہ کي

قرب *qurb*, *m.* propinquity, relationship, kindred. نزديکي

قرب *qirab*, (*pl.* of قربہ), water-bags, leather-bags. جمع قربہ کي - پاني کي مشکيں

قرب *qurab*, the waist. کمر جو عضو هے

قرب *qurab*, yelling from pain in the waist. درد کمر سے چلانا

قربي *qurba*, *f.* nearness, proximity, relationship, affinity. نزديکي خويشي

قربان *m.* a sacrifice, victim, oblation, a quiver. وہ جو خدا کي راہ ميں تصديق کريں تاکہ خدا سے نزديکي حاصل هو

قرباني *f.* the camels, cows and goats sacrificed on Baqr 'Id (or Idu'd Zuha—The Feast of Sacrifice). اونٹ اور گاے اور بکري وغيرہ جو بقرعيد کے دن ذبح کريں

قربت *f.* nearness, proximity, relationship, affinity. نزديکي - پاس هونا

قربہ *m.* water-bag full of water. مشک پاني سے بهري هوئي

قرب و جوار near, neighbourhood. آس پاس

قرت *qurt*, *n.* cheese, coagulated milk pressed into a firm mass. خشک دهي

قرح *m.* a wound, pimple, sore, ulcer, wounding. زخم کرنا - گهاؤ کرنا - وہ زخم جو فساد پيدا کرے

قرحہ *m.* an ulcer, a sore, wound. وہ زخم جس ميں پيپ پڑ گئي هو

قرحہ *qurha*, *m.* a wound, a sore. - جراحت زخم

قرد *qird*, *m.* a monkey. بوزينہ بندر

قردہ *m* pot-scrapings. کهرچن جو ديگ کے تلے ميں لگ جاتي هے

قرش *m.* a sea monster. ايک درياي جانور عظيم الجثہ کا

قرشي *a.* of or relating to the *quraish* (tribe). منسوب طرف قريش کے

قرص *qurs*, *m.* an orb, a pellet, a ball of paste, a round loaf of bread, a disc (of the sun or moon). ٹکيا

قرص روئيں *m.* a bell, a gong, a plate of bell-metal. گهڑيال - گهنٹہ

قرط *m.* an ear-ring, mouthful. گوشوارہ

قرطاس *m.* paper (Lat. *charta*). کاغذ

قرطبوس *n.* a great misfortune, calamity, disaster, adversity. بلائے عظيم - سخت حادثہ

قرطعب *adv.* a little, *n.* a small quantity. قليل شے - تهوڑي چيز

قرطاق *cor.* of کرتہ, a shirt. معرب کرتہ کا جو پيراهن مشهور هے

قرطم *n.* the seed of safflower used as a medicine (*Carthamus tinctorius*). کڑ - جو مشهور دوا هے

قرطہ *m.* an ear-ring. ايک گوشوارہ

قرطين *m.* two ear-rings, Imam Husain. دو گوشوارے - امام حسين

قرع *n.* Bottle-gourd, Fakir's bottle, beating, thrashing, licking. لوکي مشهور ترکاري هے - اور بمعني کوٹنا مارنا - ٹهوکنا

قرع *qara'*, falling off of the hair through sickness. سر کے بالوں کا مرض سے گر جانا

قرع (*pl.* of قرعة), lots. جمع قرعة بمعني پانسة کي

قرعة *qar'a*, *m.* a lot (which among the Arabs was drawn by shooting arrows), a wager, wagering, drawing lots. پانسة وغيرة پھینیک کے رمال غيب کي بات بتانا

قرعة *qar'a*, *m* a green pumpkin, a bottle-gourd. هوا - کدو - لوکي

قرق *qarq*, cackling (of hen). مرغي کي آواز

قرق *qaraq*, *m* a kind of sheep with a thick tail. دنبة

قرق *qurq*, *m.* protection, hinderance, prevention of access, prohibition, seizure. نگهباني - منع کرنا - روکنا

قرق شدن to stop, to prohibit, to seize, to be closed. منع هونا - بند هونا

قرقف *n.* the wine. شراب

قرقور *m.* a large boat, a ship. بڑي کشتي - جهاز

قرم *m.* a camel, a chief, a head. اونٹ - سردار

اقوم

قرمز *m.* crimson, kermes. وة چيز جس سے سرخ رنگين - لال - سرخ رنگ

قرمزي of a scarlet or crimson colour, *f.* scarlet cloth. منسوب طرف قرمز کے سرخ رنگ کے

قرمساق *m.* cuckold, pimp, one who lives on what a prostitute earns وة شخص جو اپني جورو کو دوسروں کے پاس بھیجے اور اُس کي نمائي کھائے

قرمل *m.* the (male) young of a she-camel اونٹني کا بچة نر

قرن *m.* a horn, hair, a space of hundred years, a space of ten years or any multiple thereof, conjunction of the planets, name of a place near Taiyif. حيوان کي شاخ بمعني سينگ - گيسو - سو برس کي مدت - خواة اسي خواة تيس برس کي - نام ایک مقام کا نزدیک طائف کے

قرنا *m.* a kind of French horn. بڑي قرهي

قرناس *n.* a peak, name of a demon. پهاڑ کي چوٹي نام ديو کا

قرناق *f.* a she-slave, a maid-servant. لونڈي - غلام - خدمتگار

قرنبيق *n.* an alembic, a still. بھبکا

قرنفل *m.* a clove. لونگ

قرنق *f.* a she-slave, a maid-servant. لونڈي - غلام - خدمتگار

قرو (*pl* of قرو), see below جمع قرو کي

قرواا *m.* a ship, a vessel, a boat, an inflated leather bag for crossing a river. سفينة کشتي - خالي مشک جس کو پھلا کر منهة باندهتے هيں اور دريا سے پار اُترتے هيں

قروت *n.* the cheese, coagulated milk pressed into a firm mass. پنير - خشک دهي

قروت شدن صحبت *id.* to leave (one's) society. صحبت کا برهم هو جانا

قروح (*pl.* of قرحة), wounds, sores, ulcers. جمع قرحة بمعني زخم کي

قرون (*pl.* of قرن), horns, long periods. جمع قرن بمعني شاخ اور زمانة دراز کي

قرون خالية *m.* past times. زمانة هاے گذشتة

قرة coldness, temperateness, comfort, light. خنکي - سردي - راحت - روشني

قرء purification, cleanliness, purity (of women after the menses). زمانة عورت کي پاکي کا

قريات (*pl.* of قرية), villages. جمع قرية بمعني گانوں کي

قريب *a. adv.* and *prep.* near, neighbouring, nigh, almost, about, kin, relative or near relation. نزديک

قريحة the best of all the things, best goods nature, disposition, temper. - هر چيز کا اول - بهتر اور عمدة مال - آدمي کي طبيعت

قرير *a.* happy, glad. شادمان - خوش

قريش *n* name of a noble tribe that ruled over the city of Arabia and its neighbourhood at the time when Muhammad's grandfather was chief. نام ایک قبيلة کا درميان عرب کے حضرت محمد اُسي قبيلة سے هيں

قريشي of or relating to the Quraish tribe. منسوب طرف قبيلة قريش کے

قريض *f.* a poem, poetry. شعر يعني کلام منظوم

قريض *qurtez*, name of a Jewish tribe. نام ایک قبيلة کا يهود سے

قرين conjoined, contiguous, connected, (in *comp.*) joined by, or possessed of, a friend, companion, associate, (also) similarity, likeness. - مصاحب - همنشين - يار - دوست - هم صحبت - پاس والا - ملا هوا - اور بمعني نظير و مثال کے

قرينة *m.* similarity, likeness, symmetry, cause, context, connection, tenor. دو چيزوں کے درميان ظاهري مناسبت ایک چيز سے دوسري چيز سے پيوستة هونا - دو امر کے درميان باطني مناسبت

قرية *m.* a village or parish. گانوں

قز (*cor.* of کژ), silk (particularly raw silk) معرب کژ کا - کچا ریشم

قزاق *m.* a plunderer, highwayman. راهزن - لوٹیرا

قزا گند *m.* the raw silk lining of an armour. چلتہ - ایک قسم کا لباس ھے جو بروز جنگ پہنتے هیں اور اس کے اندر کچا ریشم بھرتے هیں

قزح *m.* name of a mountain in Muzdalfa, name of the angel in charge of the clouds, name of one of the Persian kings. نام ایک پہاڑ کا مزدلفہ میں - نام ایک فرشتہ کا جو مرکل ابر ھے - نام ایک بادشاہ کا بادشاهان عجم میں سے

قزح *m.* onion seed, dung of a snake, spices, condiments. تخم پیاز - سانپ کا گوہ - گرم مصالح جو کھانے میں پڑتے هیں

قزحہ many-coloured, having red, yellow and green stripes or lines. رنگا رنگ جس پر زرد اور سرخ اور سبز لکیریں هوں

قزغان *m.* caldron, a pot. بڑا پتیلہ - دیگ

قزل *qizil, a.* red. اول - سرخ

قزل *qazal*, lameness. لنگڑا پن

قزل *qazil, a.* lame, crippled. لنگڑا

قزل ارسلان *m.* a red lion, name or epithet of several Persian kings, name of a lame king. لال سرخ - لقب بہت سے عجمی بادشاهوں کا

قزلباش (from قزل red, and باش head), *m.* a kind of Mughal soldier, the *qazalbachis* are considered to be the descendants of the captives given to Shaikh Haidar by Tamerlane, they wore the red caps assumed by those captives as a mark of distinction and are considered as the best troops of the Persian armies. سرخ سر والا - کنایہ ھے فوج کے سپاهي سے اسلئے کہ شاہ اسمعیل صفوي نے اپني کل فوج کے سپاهیوں کو لال ٹوپي کي وردي پہنائي تھي

قزوین *n.* name of a city in Iran. نام ایک شہر ایران میں

قسام *m.* a distributor, a swearer. تقسیم کرنے والا - قسم کھانے والا

قسام } *f.* grace, beauty, loveliness,
قسامت } elegance, excellence. حسن - خوبي - خوبصورتي

قساوت *f.* hardness of heart, grief, anguish, pain, chagrin. سخت دلي - سیاہ دلي

قسر *m.* violence, compulsion, retaliation, revenge. کسي کو کسي کام پر زبردستي رکھنا - بزور کسي سے کوئي کام لینا - وہ دورہ اور وہ حرکت جس کا متحرک دوسرا ہو

قسط *qast, m.* oppression, tyranny, dispersing, confounding, scattering, separating, going astray (from truth), deviation. بیداد اور ظلم کرنا - پراگندہ کرنا - جدا کرنا - حق سے پھر جانا

قسط *qist, f.* justice, piece, portion, instalment, lot, fortune, calculation, a balance. داد - عدل - انصاف - حصہ - ٹکڑا کسي چیز کا - اندازہ - ترازو

قسط *qust, m.* name of a medicinal plant (*Costus arabicus*). نام ایک دوا کا جو ایک لکڑي هوتي ھے دو قسم کي تلخ اور شیریں - هندي میں ڈالنے کوٹ کہتے هیں

قسطا *n.* name of a book composed by Luqa containing the ordinances of fire worshipping. نام ایک کتاب کا جو احکام دین آتش پرستي میں ھے اور جسے لوقا نے تصنیف کیا ھے

قسطاس *f.* a large balance. بڑي ترازو - هندي تکڑ

قسط بندي *f.* agreement for a stated payment of a sum of money, to be discharged at several times, settlement of the revenue or taxes by instalment. روپیہ کي کسي مقدار کو مقرري حصہ کر کے ادا کرنا

قسطنطین *n.* name of the king who founded Constantinople which is called Istambol now. نام بادشاہ کا جو باني شہر قسطنطنیہ کا تھا جو اب استنبول کے نام سے مشہور ھے

قسم *qasam, f.* an oath. سوگند

قسم *qism* or *qasm, f.* kind, species, sort, part, division, in law it denotes the equal cohabitation which a husband is required by law to make among his wives when he has a plurality of them. حصہ - بہرہ - طرح - حصہ کرنا - تقسیم کرنا

قسمت *f.* fate, fortune, lot, share, distribution, portion, a division, particularly of inheritance, when any part of the پرگنہ is transferred from one zamindar to another, each part is a قسمت pargannah. حصہ - نصیب

قسوت *f.* hardness of heart, grief, anguish, pain. سخت دل هونا - سیاہ دل هونا

قسورہ *m.* a lion. شیر درندہ

قسوط *m.* oppression, tyranny, going astray from truth, dispersing, separating, treating unjustly. ظلم کرنا - حق سے پھر جانا - پراگندہ کرنا - جدا کرنا - بے انصافي کرنا

قسوة *n.* hardness of heart. سخت دل هونا

قسیس *m.* a presbyter, a priest, a deacon دین نصاری کا عالم اور دانا

قسیم *m.* a sharer, partner. *a.* beautiful, handsome. حصہ کرنے والا - شریک - اور بمعنی خوبصورت اور حسین کے بھی

قسیمہ *m.* a pod of musk. مشک کا نافہ

قشر *m.* peel, skin, bark, husk, shell, crust. چھلکا میوہ کا - چھال درخت کی - حیوان وغیرہ کی کھال - ہر پوست کو قشر کہتے ہیں

قشعریرہ *m.* the hair standing on end from horror (or from any other cause). بال کا یک کسی باعث سے جسم پر رونگٹوں کا کھڑا ہو جانا

قشف *qashaf, m.* a man whose face is scorched by the sun, withering (discolouring) of the face from poverty, discomfiture and trouble. دھوپ کی تیزی سے منھہ کے پوست کا جل جانا - تکلیف - تنگی اور فقیری سے منھہ کا مرجھا جانا

قشف *qishf, m.* a man the colour of whose face is changed from affliction. وہ شخص جس کے چہرہ کا رنگ بسبب تکلیف اور مصیبت کے متغیر ہو گیا ہو

قشقہ *m.* mark made by the Hindus on the forehead, with sandal, etc. - تلک - ٹیکا صندل وغیرہ کا جو ہندو لوگ ماتھے پر لگاتے ہیں

قشور *qushur. (pl. of* قشر*), skins.* جمع قشر بمعنی پوست کے

قشون *qashun, n.* a body of troops, a brigade, a division, an army. فوج کا ایک گروہ

قشیب *n.* a new cloth, a new thing. - نیا کپڑا نئی چیز

قص *qass, m.* cutting, clipping, shearing, the breast-bone. کاٹنا - کترنا - استخوان سینہ

قصاب *m.* a butcher. گوشت کاٹنے والا - قصائی

قصابگان *(pl. of* قصاب*),* butchers. جمع قصاب بمعنی قصائی کی

قصار *m.* a washerman. گازر - دھوبی

قصارت *f.* washing, act of cleansing with water, the profession of a washerman. کپڑے دھونا - دھوبی کا پیشہ

قصاص *qasas, m.* the law of retaliation or returning like for like, this word is used in contradistinction to دیت taking back an offered thing, taking vengeance. بعوض مقتول کے قاتل کو قتل کرنا - عوض لینا زخم کا زخم سے - دی ہوئی چیز کا پھیر لینا - بدلا لینا

قصاص *qassas, m.* a story-teller. - قصہ خوان داستان گو

قصائد *(pl. of* قصیدہ*)*, odes of greater length than the غزل. جمع قصیدہ کی

قصب *qasab, m* a kind of reed used as a pen, a fine species of linen cloth made in Egypt. نرکل - ہر چیز مثل نرکل کے ہر مثال قلم وغیرہ کے - ایک قسم کپڑے کی جو کتان اور ریشم ملا کے بنا جاتا ہے

قصب *qasb,* chopping, cutting. کاٹنا

قصب العجیب *n.* a kind of date palm, a species of grass (*Saccharum spontaneum*) growing near the rivers. ایک قسم ہے خرما کی - ایک قسم کی گھاس ہے جس میں تھوڑی مٹھاس ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہہ کانس کی جڑ ہے جو دریا کے نزدیک اُگتی ہے

قصب الجب *n.* kind of reed which grows in the forest in the old wells. - جب بمعنی کنواں پس یہہ ایک قسم کی نے ہے جو جنگل میں پرانے کنواں کے درمیان سے اُگتی ہے

قصب العجیب *n.* a sugar-cane, hence the line in Gulistan should be read as. - وقصب العجیب حدیثش راھمچو شکر میخورند - گنا - نیشکر

قصب السبق *m.* the tent-pegging. گھوڑ دوڑ کی ایک قسم ہے

قصب السبق بردن *id.* to excel, to surpass, to overcome. غالب آنا - سبقت اور پیشدستی کر جانا

قصب الذریرہ *m.* a species of gentian so called (*Gentiana chiraiyta*), a bitter herbaceous plant, valued medicinally as a tonic. چرائتہ مشہور دوا ہے

قصبات *(pl. of* قصبہ*),* small towns. جمع قصبہ کی

قصبہ *m.* a small town, a large village, a reed, a species of reed of which pen are made, the throat, the throttle. - چھوٹا شہر بڑا گانوں - نے - جو چیز مانند نرکل کے جیسے قلم کا نیزہ وغیرہ - نرخرہ گلے کا

قصد *m.* desire, wish, inclination, moderation, temperateness, machination, conspiracy, project, purpose going a straight path. ارادہ - اعتدال - ہر چیز جو معتدل ہو - سیدھی راہ جانا - راہ کی راستی

قصد کردن *id.* to conspire, to plot. کسی کی قتل کا ارادہ کرنا

قصر *m.* diminution, defect, washing (clothes), an edifice, a palace, a building, an elegant villa. - کوتاہی - کمی - کپڑے کا دھونا عمدہ مکان - محل

قصص *qisas, (pl. of* قصہ*)*, tales, stories, etc. جمع قصہ کی کہانیاں

قصعہ *m.* a very large cup. بڑا کاسہ

قصوی extreme, very or most distant extremely. انتہا - نہایت - آخر - بہت دور

قصور *m.* defect, error, sin, fault, omission, want, failure, (*pl.* of قصر), palaces, lofty buildings, name of a place in the Punjab. کوتاهي - عاجز هونا - قاصر رهنا - جمع قصر بمعني محل کي . پنجاب میں ایک شهر کا نام

قصیده *m.* marrow, kernel, pith, a poem, a long ode, exceeding a hundred couplets or rather more. گودا کسي چیز کا . وے شعر جن میں کسي کي تعریف یا مذمت نهو اور سو بیت سے زیادہ هوں

قصر *m.* defective, erring, lacking, short, name of a faithful servant. کوتاه - کوتاهي کرنے والا . نام ایک وفا دار نوکر کا

قصیل *n.* a green field, a sown field, (Pers. غلہ جو نیا اُگا هوا اور کچا هو - فارسي میں (خوید خوید کهتے هیں

قضا *f.* mandate, judgment, decree, administration of justice, fulfilment, creation, production, description, praying after the time appointed for it is passed, paying at the appointed time, fate, destiny, death, fatality. - حکم کرنا - واجب کا ادا کرنا ادا کرنا - پیدا کرنا - تمام کرنا - بیان کرنا - وہ عبادت جس کا وقت گذر گیا هو - خدا کا حکم جو مخلوقات کے حق میں دفعتاً واقع هو جاے - موت

قضات (*pl.* of قاضي), judges, justices. جمع هے قاضي کي

قضارا *adv.* accidentally, by chance. - ناگهاني اتفاقاً . یکا یک

قضاعه *m.* a castor beaver, name of an Arabian tribe. بید ستر جو دریا میں هوتا هے - نام ایک قبیلہ عرب کا

قضا و قدر *m.* fortune, fate, luck. تقدیر و قسمت

قضایا (*pl.* of قضیه), sentences, reports, disputes, quarrels, orders. - جمع هے قضیه کي جملے - عبارت کے فقرے - جهگڑے - جزئیں - احکام

قضبان (*pl.* of قضیب), long and slender branches of a tree. جمع قضیب کي - درخت کي شاخیں

قضیب *m.* a long slender branch (of a tree, a sharp sword, a whip, lash, rod, a kind of bow, (*met.*) *penis.* - درخت کي شاخ تیز تلوار - تازیانہ - کوڑا - کمان - مجازاً بمعني آلۂ تناسل خواه مرد خواه حیوان کا

قضیم *m.* coarsely-ground barley on which the horses, etc. are fed. اردادا جو کا جو گهوڑوں وغیره کو دیا جاتا هے

قضیه *m.* proposition, determination, declaration, a syllogism (in logic) history, narrative, mandate, death, a sentence, dispute, wrangle - خبر - مطلوب - ادا کرنا - مقصد حکم - جملہ - خبریہ جس پر سچ هونے اور جهوٹهہ هونے دونوں کا احتمال هو - جملہ و فقرہ - فارسي بمعني جهگڑے کے بهي مستعمل هے

قط *qatt, m.* cutting some hard substance, cutting transversely (as a pen for writing Persian or Arabic, raising in price (of corn). سخت چیز کا کاٹنا - خط قلم - نرخ غلہ کا گراں هونا

قط *qitt,* (*pl.* قطاط), lot, a deed, a bond, writing, an account book, (*pl.* قطوط) a tomcat. حصہ - نصیب - قبالہ - کتاب محاسبہ کي - نامہ - گربۂ نر - (جمع قطاط)

قط *qatt, qutt, qat, qut, adv.* always, ever. هرگز - همیشہ

قط *qat, a.* and *adv.* only, merely, alone. بس اور اُسي بنا پر هے فقط

قطا *m.* a species of bird (called سنگخوار in Pers.) the sound of which helps the travellers to find a spring of water. ایک پرند هے جس کو فارسي میں سنگخوار کهتے هیں - اس کے بولنے سے مسافروں کو معلوم هو جاتا هے کہ یہاں کسي جگهہ پر پاني کا چشمہ ضرورهے

قطاب *qitab, m.* a pocket, a small bag or pouch in a garment. جیب یعني گریبان جامہ

قطاب *m.* a kind of small pastry of minced meat of a triangular form. ایک قسم سنبوسہ کي

قطار *f.* a line, string (of animals, as of camels, etc.). rank, order, series, row. کم سے کم دس اونٹ آگے پیچهے برابر - مگر اب اطلاق اس کا هر چیز کي جمع پر جو آگے پیچهے هو واقع هوتا هے

قطاع *qutta',* (*pl.* of قاطع), cutters, etc. کاٹنیوالا

قطاع الطریق *m.* robbers, plunderers, highwaymen. رهزن - لٹیرے

قطاف *m.* the season of gathering (plucking) all the fruits especially the grapes. کل میوں کے خصوصاً انگور توڑنے کا وقت

قطام name of an Arabian woman. نام ایک عورت کا عرب میں

قطامه *qattama, f.* a lewed woman. عورت پر شهوت

قطب *m.* the iron spindle or axis on which a millstone turns, a chief, head, leader, a prominent person, centre, nucleus, the polar star, the north pole, title or degree of rank among religious mendicants. لوهے کي کیل جس پر چکي گهومتي هے - سردار اقوام کا - افضل اور بزرگ آدمي جس پر مدار کار هو - هر چیز کي اصل - وہ زمین کا نقطہ جو شمال اور جنوب پر ساکن هو

قطر *qatr*, *m*. the rain, dripping, falling in drops. باران - منهه - پاني کا ٹپکنا

قطر *qitr*, *m*. molten copper. پگهلا هوا تانبا

قطر *qutr*, (*pl*. اقطار), edge, border, the diameter of a circle. کسي چيز کا کنارہ - اقطار اسکي جمع هے - وہ خط مستقيم جو مرکز پر دائرہ کے گذر کر اُس کے دو ٹکڑے کردے

قطرات (*pl*. of قطرہ), drops. جمع قطرہ کي - بوندیں

قطران *m*. the name of a poet, name of a city, tar, liquid pitch (for wheels or scabby camels). نام ایک شاعر کا - نام ایک شهر کا - نام ایک روغن کا جو نهایت سیاہ اور بدبودار هوتا هے

قطرب madness, insanity, phrensy, (also) a thief, robber, a wolf whose hair have fallen off, a mouse, ignorant, silly, epileptic. ایک قسم هے جنون کي - دزد - چور - چرها - بهیڑیا جس کے بدن کے تمام بال جهڑ گئے هوں - وہ شخص جسے مرگي کا عارضه هو

قطرہ *m*. a drop, trotting about, running to and fro hastily. بوند پاني کي - دوڑ کر چلنا

قطرہ برداشتن, *id*. to run, to try. دوڑنا - سعي کرنا

قطرہ دزد *m*. the cloud. کنایه ابر سے

قطرہ زن *a*. trotting about, running to and fro hastily, trying one's best. دوڑ کر چلنے والا - حد سے زیادہ سعي اور کوشش کرنے والا

قطرہ زدن, قطرہ فشاندن, قطرہ کردن, قطرہ کشیدن } *id*. trotting about, walking fast, running to and fro hastily, to try exceedingly. - دوڑنا - جهپٹ کر چلنا - تیز چلنا - حد سے زیادہ سعي اور کوشش کرنا

قطارزن *m*. a stamp, a pin or peg on which pens are cut. وہ چیز جس پر قلم رکهکے قط لگاتے هیں - یهه لفظ یا تو کاتب پر صادق آتا هے یا چاقو پر

قطع *qat'*, *f*. cut of a coat, etc, strangulation. کاٹنا - گلا گهونٹنا

قطع *qit'*, darkness of the last part of the night. پچهلي رات کي تاریکي

قطاع *qita'*, (*pl*. of قطعه), segments, portions, sections, divisions. جمع قطعه کي ٹکڑے

قطعا *adv*. never, not at all. هرگز

قطعه *m*. a section, division, a strophe. هر چیز کا ٹکڑا - اصطلاح شاعري میں وہ نظم جو دو بیت سے کم نهو زیادہ هو مگر مطلع نهو

قطاف *qatf*, peeling, plucking (fruits, etc), the slow pace of an animal. چهیلنا - میوہ وغیرہ کا توڑنا - چوپاے کا آهسته راہ چلنا

قطاف *qitf*, *m*. fruit, ripe fruit of a tree. میوہ - درخت کا پکا هوا پهل

قطاف *qataf*, *m*. name of a kind of greens (*Chenopodium album*). سرمق - بتهوے کا ساگ

قط کیر *n*. anything on which a pen is cut. وہ چیز جس پر قلم کو قط لگائیں

قطلم sensuality, lewdness شهوت کي تیزي

قطمیر *m*. the thin pellicle on a date-stone, insignificant, mean, small, name of the dog which accompanied the seven sleepers. باریک پوست جو خرما کي گٹهلي پر هوتا هے - کنایه قلیل سے اور حقیر اور نهایت چهوٹي چیز سے - نام اصحاب کهف کے کتے کا

قطن cotton روئي - پنبه

قطني made of cotton (cloth), a kind of cloth made of silk and cotton mixed. سوتي کپڑا - جامه مشروع یعني جس کا تانا ریشم اور بانا سوت کا هو

قطه cutting a pen transversely, mending a pen. قلم پر قط لگانا

قطوف (*pl*. of قطاف), fruits. جمع قطف کي - میوے

قطیع, قطیعه } *m*. a flock, a drove, a herd بکري اور گاے اور گهوڑے وغیرہ کا گله

قطیعت *f*. separation, parting, becoming far. بریدگي - جدائي - دور هونا

قطیفه *m*. velvet. جامه مخمل

قعب *m*. the hidden meaning of a speech, candid, ingenous, a big cup. - بات کي ته - بات کا کهرا پن - بڑا پیاله جس میں پینے سے ایک آدمي خوب سیراب هو جائے

قعده *m*. sitting down. بیٹهنا

قعر *m*. the depth of a river, the bottom of a well, a gulf, an abyss. - کنویں کي ته - کنویں یا دریا وغیرہ کا عمق یعني گهراؤ

قعقعه *m*. the cracking sound of the paper and dry leather. کاغذ اور خشک چمڑے کي آواز یعني کهڑ کهڑاهٹ

قعود *qau'd*, sitting down, remaining in one place, sitting up after a sleep. - مطلق بیٹهنا - کهڑے سے بیٹهنا - سوتے سے اٹهه بیٹهنا

قعود *qa'ud*, *m*. a young camel that is used for riding or carrying a load for the first time. جوان اونٹ جو پهلے پهل سواري یا بار برداري میں آیا هو

قعرا *m*. a very deep well. نهایت گهرا کنواں

قعید *m*. an associate, a companion. همنشین مرد

قعیده *fem*. of قعید, a female companion. همنشین عورت

قفا f. the back of the head, nape of the neck, (*met.*) *adv.* secretly, behind one's back, a blow on the nape. گدي - گردن کي پشت - مجازاً بمعني مطلق پيچھے اور پس پشت کے مستعمل هے - وہ گھونسا جو کسي کي گدی پر ماريں
قفا خاريدن *id.* to be ashamed. شرمندہ هونا

قفار n. coarse bread, a land where there is no water or grass. روکھي روٹي - وہ زمين جو پاني اور گھاس سے خالي هو

قفر *qafr*, the land where there is no water or grass, keeping hungry. وہ زمين جس پر گھاس اور پاني نهو - بھوکھا رهنا آدمي کا غذا سے

قفس } *m.* a cage, lattice, a network. پرندوں کا پنجرا
قفص }

قفل *m.* a lock, a bolt. تالا

قفه *quffa*, *m.* eminence, a rising ground, elevation. زمين بلند - بلندي - بلند مقام

قفيز a measure of about 64 lbs., also a measure of surface of about 144 cubit square. ايک پيمانه هے ۶۴ پونڈ کا

ققنس } *n.* the phœnix, which lives for 1000 years. ايک مشهور پرند کا نام
ققنوس }

قل *imp.* say, speak. صيغه امر کا هے - کهه - بول

قل *m.* a slave, reading of the *sura* or chapter of the Quran entitled *qul-huwa l-lah*, which is done by way of benediction over fruits and sweetmeats presented to the guests at the conclusion of the religious annual feast held in commemoration of ancestors and other relatives. Hence it comes to signify 'conclusions.' - غلام - شيريني اور متهائي پر برکت مانگنا

قلا enmity, hatred. دشمني - کسي کو دشمن رکھنا

قلاب *qallab*, *m.* a staple, a hinge, link, hook. قلابه - حلقه

قلاب *qullab*, *m.* a traitor, treacherous, deceiver, fraudulent دغا باز - فريبيا

قلابه *qullaba*, *m.* a hook, staple, hinge, link, a fishing-hook حلقه - مچھلي پکڑنے کا کانٹا

قلابي f. imposture, fraud, deception, selling an imitated thing دغابازي - کھوٹي چيز بيچنا

قلاج act of drawing and relaxing the string of a bow before discharging the arrow, quantity to the length of both the hands زور سے کمان کا کھينچنا - مقدار درازي دونوں هاتھه کي

قلاوه *m.* a comforter, a neckband, a dog's collar. گلو بند - کتے وغيرہ کا پٹه

قلاش *a.* poor, wretched, friendless, shrewd, malicious, cunning, rogue, scoundrel, a single man. - مفلس - بے ننگ و نام - لچا - بدمعاش - مرد مجرد

قلاع (*pl.* of قلعه), جمع قلعه کي

قلاق *m.* the ear. گوش - کان

قلاوز *m.* a guide, leader, conductor, advanced guards, sentinels vedettes رهبر - راسته بتانے والا - سوار محافظ لشکر کے جو فوج سے آگے چليں

قلاوزي f. guidance, a leading. رهبري - پيشروي

قلائد (*pl.* of قلاده), comforters, dog-collars, etc. جمع قلاده بمعني گلو بند وغيرہ کي

قلب *qalb*, *a.* inverted, overturned, *m.* the heart, mind, soul, understanding, centre, middle, unreal gold or silver, adulterated. اُلٹا هو - اوندھا - دل - هر چيز کا بيچو بيچ - درميان شے کا - کھوٹي چاندي يا سونا - خرد - عقل

قلب *qulb*, *m.* an ornament worn on the wrist, such as a bracelet, a white snake. کلائي پر پهننے کي چيز مثل کنگن وغيرہ کے - سفيد رنگ کا سانپ

قلب *qulab*, *m.* an artful dodger, artful, a knave, deceiving, cunning, sly. مرد حيله گر - دغاباز

قلبه *m.* a plough. زمين جوتنے کا هل

قلبه وان *m.* a ploughman, a husbandman, a farm labourer. هل جوتنے والا

قلبي f. changed, converted, inverted, turned over, hearty, cordial, sincere. - بدلا هوا - اُلٹا کيا هوا - دلي

قلپاق *n.* a cap. کلاه - ٹوپي

قلت f. littleness, penury, scarcity, want, indigence, paucity. کمي - کميابي

قلت f. recovering (from an illness), restoration from poverty. - بيماري سے صحت پانا - مفلسي سے رهائي پانا

قلتبان *m.* a pimp, a wittol, a mean scoundrel. ديوث جس کي جورو بدکار هو اور وہ اس امر پر راضي هو

قلتين *qullatain*, a public warm-bath, a (cup) used by every one who comes. - حمام - پياله جس سے هر کوئي پئے

قلچاق *m.* a gauntlet, a large iron glove formerly worn as armour. دستانه لوهے کا

قلح *m.* tartar of the teeth. دانتوں کي زردي اور ميلا پن

قلزم *m.* a sea, the Red Sea or Arabian Gulf, it strictly denotes the town of Clysina in Egypt, near the head of Arabian Gulf. نام ايک شہر کا درميان مصر اور مکه کے نزديک کوه طور کے اُس شہر سے منسوب کرکے اُس دريا کو جس کے کنارے پر وه واقع هے بحر قلزم کہتے هيں

قلس *m.* ejecting the contents of the stomach, once from the mouth. گلے سے غذا کا ايک دفعه نکل پڑنا

قلع taking by the root, name of a mine which produces pure pewter. اکھيڑنا - نام ايک کھان کا هے جس ميں سے خالص رانگه نکلتا هے

قلعه *m.* a piece of cloud, a fort, a royal residence, palace. ابر کا ٹکڑا - پتھر کا مکان اور حصار محفوظ جس ميں بادشاه وغيره رهيں

قلعه بغداد *m.* the stomach. لوطيوں کي اصطلاح ميں شکم يعني پيٹ کو کہتے هيں

قلعي or relating to قلع which is a name of a pewter-mine. منسوب طرف قلع کے جو نام ايک کھان کا هے جس ميں سے رانگه نکلتا هے

قلق *qalaq*, *m.* disquietude, commotion, uneasiness, anxiety. بيقراري - بے آرامي

قلق *qilaq*, *a.* uneasy, anxious, fearful, coward. بيقرار - بے آرام - ڈرپوک

قلقاس *n.* a native vegetable (*Colocasia antiquorum*) of which the tubers, nearly resembling in outward appearance to those of the Jerusalem Artichoke, are the part eaten, Gentleman's toes. اروي مشہور ترکاري هے

قلقان *n.* a shield, target. سپر - ڈھال

قلقچي *m.* a servant, an attendant, (not a king's servant). نوکر - خدمتگار - مگر بادشاه کے نوکر کو قلقچي نه کہينگے

قلقطار *n.* alum. زاک - پھٹکري (هندي)

قلقل *qulqul*, *f.* the noise made by water in the neck of a bottle, when pouring out, gurgling, sound produced by a liquid flowing from or through a narrow opening. شراب يا پاني کے گرنے کي آواز شيشه يا صراحي سے

قلقله *qalqala*, *m.* disquietude, uneasiness, passion, the five letters - قاف - دال - طا - با and جيم are called (قلقله) - جوش - بے قراري - حروف قلقله پانچ هيں - قاف - دال - طا - با - جيم

قلقله *qulqula*, sound produced by a liquid flowing from or through a narrow opening. بروقت اُنڈيلنے پاني يا شراب کے صراحي يا شيشه کي آواز

قلل (*pl.* of قله), the peaks. جمع قله کي - پہاڑ کي چوٹياں

قلم *qalm*, cutting, paring, cutting (the nails of the fingers). کاٹنا - تراشنا - ناخن لينا

قلم *qalam*, *m.* a reed, a pen, cuttings of trees etc, for planting, the hair left between the ears and the eyebrows. تراشا هوا يعني بنايا هوا قلم - جو چيز کے کٹي هوئي اور تراشي هوئي هو - وه بال جو دونوں طرف درميان کان اور بهوں کے لٹکا کر قينچي سے کاٹ ديتے هيں

قلما *n.* and *a.* little, a small quantity. اندک - تھوڑا

قلماش *m.* a fool, simpleton, idiot. بيهوده

قلم با ناخن شکستن *id.* to sentence, to condemn. سزا کو پهونچانا

قلم بر دم شمشير افتادن *id.* bluntness of a sword, to have the teeth in a sword. تلوار کي باڑه مڑ جانا - تلوار ميں دندانے پڑ جانا

قلم در کشيدن *id.* to pardon, to forgive, to rub out, to efface. معاف کرنا - مٹا دينا

قلم در سياهي نهادن *id.* to punish, to chastise to write scurrilous words against some one کسي کو سزا دينا - کسي کے نام پر برے کلمات لکھنا

قلم دست *m.* a writer, a clerk. محرر

قلم دست و پا the wrist and ankle bone. هاتھه کي کلائي اور پاؤں کي پنڈلي کي هڈي

قلمرو *n.* kingdom, country, capital. سلطنت - ملک - راجدهاني

قلمزن *m.* a writer, a clerk, an artist, engraver, painter. محرر - مصور

قلمکار *m.* a species of flowered calico or chintz. وه کپڑا جس پر رنگ برنگ کے بيل بوٹے اور نقش هوں - چھينٹ

قلم موے *m.* a painter's hair brush. بالوں کا قلم مصوري کا

قلمهاے مشکيں (*met.*) coal, charcoal. مراد کوئلوں سے

قلمي written, committed to writing, a sheet on which straight long letters are written. لکھي هوئي چيز - وه چادر کے جس پر سيدھے لمبے خطوط هوں

قلندر (*orig.* کلندر), *m.* a kind of monk, who deserts the world, wife, friends, etc., and travels about with shaven head and beard. وه فقير جو بے پرواه اور پابند شرع نهو - رند بيباک

قلندري *n.* a kind of tent (having a fly to it). ایک قسم خیمہ کي

قلنسہ *m.* a cap. کلاہ - ٹوپي

قلنسوہ (*dim.* of قلسوہ), مخفف هے قلنسوہ کا

قلعۃ *m.* beseiging, surrounding, provisions for a foot-soldier. - محاصرہ کرنا - گھیر لینا - خوراک - پیادے کي جو گانوں پر دستک دے

قلوب (*pl.* of قلب), hearts. جمع قلب بمعني دل کي

قلوص *f.* a young she-camel. جوان اونٹني

قلۃ *qulla*, the summit of a mountain, a point, a big pitcher. پہاڑ کي چوٹي - هر چیز کے سر کي نوک - بڑا مٹکہ

قلي *quli*, *m.* a slave, a porter, a labourer, a cooley. غلام

قلي *qali*, parching, grilling, broiling, frying. توے میں کسي چیز کا بھوننا

قلي *qili*, *f.* a kind of mineral alkali, *natrum*, impure carbonate of soda. سجي مشهور کھار هے

قلیان *m.* a hubble bubble, a small kind of *huqqa* or tobacco-pipe for smoking through water. حقہ

قلیب *m.* old clay-built well. پرانا کچا کنواں

قلیچ *f.* a sword. شمشیر - تلوار

قلیدس *n.* Euclides (—s) The celebrated mathematician, lived at Alexandria in the time of the first Ptolemy, B. C. 323-283, and was the founder of the Alexandrian mathematical school. It was his answer to Ptolemy, who asked if geometry could not be made easier, that there was no royal road. Of the numerous works attributed to Euclid, several are still extent of which by far the most noted is "The Elements." نام ایک مشهور حکیم کا نام اُس کي کتاب کا آشکار علم هندسہ میں

قلیۃ *m.* the name of a dish of broiled flesh, etc., (now) curry. گوشت بھنا هوا توے میں وہ گوشت جو گھي اور مصالح وغیرہ سے ساتھہ پتیلي وغیرہ میں شوربا دار پکتا هے

قم *qam*, *imp.* rise (thou) up, stand up. صیغہ امر کا هے - اُٹھہ کھڑا هو

قوم *qumm*, *n.* name of place near Ispahan نام شہر کا نزدیک اصفهان کے

قم *qamm*, sweeping, brushing گھر میں جھاڑو دینا

قما *f* a she slave, a maid servant. - کنیزک لونڈي

قماچ *n.* a kind of unleavened bread. ایک قسم روٹي کي ہے

قمار *m.* any game of hazard, gambling. هر بازي جس میں شرط لگائي جائے - وہ بازي جس میں روپیہ کے لین دین کي شرط هو - (هندي) جوا

قمار باختن *id.* to gamble. جوا کھیلنا

قمار باز *m.* a gambler. جواري

قماري (*pl.* of قمري), female turtledoves, quality of the wood aloes, relating to قمار (a city). جمع قمري پرند مشهور کي - عود کي صفت هے - منسوب طرف شهر قمار کے

قماش *m.* household furniture, silken clothes, etc., breeding, manners. گھر کا اسباب - کپڑے ریشمي وغیرہ - اور بمعني جوهر اور صفت کے بھي

قمامہ *m.* sweepings, rubbish, a collection of men, a band, a group. گھر کا کوڑا کرکٹ جو جھاڑو دیکر ایک جگہہ پھینک دیا جاتا هے - آدمي کا گروہ

قمچي *f.* a horsewhip, a lash. - کوڑا - تازیانہ - چابک

قمح *n.* wheat, parched grain, reduced to meal and made into a paste. گیہوں - بھنے هوے اناج کا آٹا جسکو ستو کہتے هیں

قمحدوہ *n.* the back part of the head which remains in contact with the ground while lying down flat. پس سر یعني وہ مقام کھوپڑي کا جو چت لیٹنے میں زمین سے مل جاتا هے

قمر *qumr*, beating the opponent (at a gambling). جوے میں اپنے حریف پر غالب آنا

قمر *qumr*, (*pl.* of اقمر), white and bright things. جمع اقمر کي - سفید اور روشن چیزیں

قمر *qamar*, *m.* the moon. (Chem.) silver. چاند - کیمیا گروں کي اصطلاح میں قمر چاندي کو کہتے هیں

قمرا *n.* the moonlight. چاندني - روشني ماہ

قمرین *n.* the sun and moon. چاند اور سورج

قمرغہ *m.* place for hunting a ring formed to entrap the game. شکار گاہ (بلکہ) وہ دائرہ جو شکار کو گھیرنے کے لئیے بنایا جاتا هے

قمرہ *m.* the gambling, a house for gambling. جوا - قمار خانہ

قمري *qamri*, *f.* a ring-dove. نام مشهور پرند کا

قمري *qamri*, *a.* lunar, relating to the moon. منسوب قمر کے

قمطار *m.* a fat camel, a man of stunted growth, a dwarf, a book shelf, a box

for keeping books, a cloth in which books are wrapped up, a portfolio. موٹا اونٹ چھوٹے قد کا آدمي - وہ صندوق جس میں کتابوں کو رکھیں - اور بمعني کتاب کے جزدان کے بھي لکھا ھے

قمع breaking, spoiling, striking a thing with a mace. توڑنا - خراب کرنا - کسي چیز پر گرز مارنا

قمقام m. a large knife, a river, a chief, head. چھرا - دریا - سردار قوم

قمقمہ m. a jug, a pitcher, a scentbottle, a goblet. کوزہ

قمل *qamul*, m. a house. سپش - جوں

قمل *qummal*, n. a tick (insect that pesters dogs, etc.,) دَدَہ - کلمي

قمم (*pl.* of قمہ), points, heights, etc. نوکیں ھر چیز کے سروں کي - مجازاً بلندیاں

قمد *qamd*, height, elevation, exaltation, point, a spire, pinnacle. - ھر چیز کي بلندي نوک - بلندي - کلس

قمہ *qamd*, n, name of a weapon. نام ایک ھتھیار کا

قمیض m. a shirt, hence. Fr. *chemise*. - کرتہ پیراھن

قمین a. able, worthy, fit. سزا وار - لائق

قنات f. a small canal, a spear, the backbone. چھوٹي نہر - نیزہ - استخوان

قنات f. the walls of a tent or canvas enclosure, with which a sort of court-yard is formed in camp, a screen. پردہ جو دلدار - قائم مقام دیوار کے ھوتا ھے

قناد *qannad*, m. a confectioner. قند بنانے والا - حلوائي

قناد خانہ m. the place where the confectioners prepare sugar or candy. وہ مقام جہاں حلوائي شکر اور قند وغیرہ بنائیں - کہنڈ سال (ھندي)

قنادیل (*pl.* of قندیل), جمع قندیل کي

قنار m. a row of iron hooks on which a butcher suspends his joints of meat for sale, an iron bar on which the butchers suspend the whole sheep after skinnig. وہ لوھے کي سلاخ وغیرہ جس پر قصاب لوگ بکري کو کھال سے صاف کر کے لٹکا دیتے ھیں

قناعت f. contentment, tranquillity, abstinence. راضي ھونا تھوڑي چیز پر

قنب *qinnao*, hemp, cannabis. ایک درخت جس کي پتي نشیلي ھوتي ھے - بھنگ

قنبر m. the name of Ali's servant. علي کے غلام کا نام

قند m. white sugar, sugar candy. سفید شکر

قنداق m the stock of a gun. بندوق کا کندہ

قند مکرر m. sugar which is refined twice, (*met.*) the lips of a mistress. دو بارہ صاف کي ھوئي شکر - معشوق کے ھونٹھ

قندیل f. a candle, lamp, lantern, chandelier, shade. فانوس جس میں چراغ جلاتے ھیں

قنص preying, spreading a net, laying a snare. شکار کرنا - دام بچھانا

قنطار a skinful of gold or silver, (some say it means) 120 ratals of gold and silver which is equal to 120 lbs. in weight or 1440 ousces, (a pound of 12 ounces). ایک کھال بیل کي چاندي یا سونے سے بھري ھوئي - اور بعضے کہتے ھیں کہ قنطار ایک سو بیس رطل چاندي یا سونا

قنطرہ making a fine and strong bridge, a large bridge, high foundation, a building situated on a high place. عمدہ اور مضبوط پل کا بنانا دریا کا بڑا پل - بناے بلند - اونچي عمارت

قنفذ n. a porcupine. خارپشت - ساھي

قنق m. a guest. مہمان

قنو m. a bunch of fresh date-palm. خوشہ خرما تازہ

قنوات (*pl.* of قنات), small canals. جمع قنات کي - چھوٹي نہریں

قنوان (*pl.* of قنو), the bunches of fresh date-palm, (also dual) two bunches. - جمع قنو کي خوشے خرمے تازہ کے - اور تثنیہ بھي ھے یعني دو خوشہ خرما

قنوت f. obedence, devotion, piety, silence, a prayer, small canals, backbones. فرمانبرداري - تابعداري - دعا مانگنا - خاموشي - چھوٹي نہریں - پیٹھہ کي ھڈي کي کڑیاں

قنوط *qunut*, f. despair, hopelessness, despairing نا اُمیدي - نا اُمید ھونا

قنوط *qanut*, a. hopeless, despaired. نا اُمید

قنوع *qunu'*, contentment, satisfaction. قانع ھونا - کم چیز پر راضي ھونا

قنوع *qanu'*, quite contented. بڑا قانع - ھر حال میں راضي

قنیہ m. stock in trade, capital. سرمایہ پونجي

قنینہ m. a cup, goblet of wine. شیشہ اور صراحي شراب کي

قوا (*pl.* of قوت), جمع قوت کي

قواد *m.* a cuckold, pimp, pander, a man who provides gratification for others' lusts. دلال - دَلّا - قوم - ديوث

قوارع (*pl.* of قارعه), adversities, hardships, accidents, calamities. - جمع قارعه كي سختيان - حادثے زمانه كي - بلائين

قواره *m.* a round piece of any thing, a round piece of cloth. - گول ٹکڑا كسي چيز كا گول كپڑا

قواس *qawaas, m.* a bow-maker. كمان بنانيوالا

قواعد (*pl.* of قاعده), rules, military exercise, name of a book. جمع قاعده كي - نام كتاب كا

قوافل (*pl.* of قافله) جمع قافله كي

قوال *m.* kind of musician, a singer, a story-teller, a babbler, a tattler. - گويا - قوم كلاونت - صوت زبان آور اور بسيار گو

قوام *qawam, n.* justice, equity, truthfulness. راستي - سچائي - عدل

قوان *qiwan, n.* basis, foundation, arrangement, that on which anything rests or in which it consists, essence, ornament, decoration, standing, remaining, eternity, syrup. نظام - كسي چيز كي اصل اور بمعني آراستگي - باقي رهنا - كهڑا هونا - كسي چيز كي بقا

قوانين (*pl.* of قانون), rules, regulations, ordinances, statutes. جمع قانون كي

قوائم (*pl.* of قائمه), supports, props, feet or stands of the table, chair, etc., feet, legs. جمع قائمه كي - كسي چيز كے پائے - آدمي اور كل جانوروں كے هاتهه اور پاؤں

قوبا *m.* the ringworm, a contagious skin disease forming discoloured rings. (هندي) داد

قوت *f.* power, virtue, authority, faculty, strength, vigour. طاقت - زور

قوت *qut,* food, nutriment, provision. خوراك - كهانا

قوة الظهر *f.* strength of the back, (*met.*) an assistant, helper, an ally, a support. پيٹهه كي طاقت - اور كنايه حامي اور مدد گار اور پشت پناه

قوچ *m.* a horned fighting ram. لڑائي كا شاخدار مينڈها

قوده retaliation, revenging. قصاص - قاتل كو مقتول كے عوض ميں قتل كرنا

قور *qur,* armour, arms, weapon. سلاح - هتهيار

قورت *f.* cheese. خشك دهي

قورچي *m.* an armed soldier, a blacksmith supervising a royal shop. - سپاهي - هتهيار بند سلاحدار - جس كے پاس هتيار رهيں - دربار بادشاهي كا اهتمام كرنے والا - لوهار

قورچي باشي *m.* a keeper of an arsenal, an esquire. سردار سپاهيوں كا - سلاح خانه كا داروغه

قور خانه *m.* an armoury, an arsenal. وه مكان جس ميں هتهيار رهيں

قورمه *m.* a kind of dish, a savoury stew. گوشت بهنا هوا - مطلق بهغي هوئي شے

قوس *f.* a bow, an arc of a circle. *m.* the sign of the Archer (*Sagittarius*). كمان - دائرے كا ٹكڑا - نام ايك برج كا آسمان پر

قوس السماء *f.* the rainbow. قوس قزح - دهنك

قوس قزح *f.* an arc of a circle, consisting of all the prismatic colours appearing in the heavens opposite the sun, the rainbow, (called also) Rustum's bow, Satan's bow, قزح derives from قزحه 'the red, green and yellow colour', or it derives from قزح which means 'height,' or it points to قزح the angel who superintends the clouds. دهنك جو رنگ برنگ كي هوتي هے اور آسمان پر بارش كي دنوں ميں دكهائي ديتي هے اُس كو كمان رستم اور كمان شيطان بهي كهتے هين

قوس مشكين (*met.*) the eyebrows of a mistress. كنايه معشوق كي بهوں سے

قوش *m.* a bird of prey especially a hawk or falcon. پرند شكاري مثل شكره اور جره اور شاهين خصوصاً باز كے

قوشچي *m.* a sportsman, a fowler. مير شكار

قوقه *m.* an eye-loop of a shirt. گريبان وغيره كا تكمه

قول *m.* a word, saying, agreement, promise, consent, contract, a kind of song (with a sprinkling of a few Arabic words or sentences). گفتار - گفتگو - بات كا كهنا - وه عبارت جس ميں عبارت عربي بهي شامل هو

قولچي *m.* a servant, an attendant. - نوكر خدمتگار

قولنامه *m.* a written agreement. - اقرار نامه كاغذ جس ميں قول و قرار لكها جاے

قولنج *m.* the colic, a painful affection of the intestines. وه درد شديد جو قولوں انتڑي ميں پيدا هو جاتا هے

قوم *f.* tribe, sect, caste, a people, nation, family. آدميوں كا گروه

قومه *m.* rising only once, standing but once. ايك مرتبه اُٹهنا - ايكبار كهڑا هونا

قوت قوة *f.* power, strength, capability. - استعداد - امكان

قوي *a.* strong, solid, powerful, vigorous. مضبوط - طاقت والا

قوي پشت *a.* brave, valiant. *m.* a hero. - بہادر دلیر

قويم *a.* straight, right, firm. سیدھا - راست استوار

قويمه *f.* straight, right, strong. هر چیز مونث جو سیدھي اور مضبوط هو

قهار *m.* very powerful, a conqueror, a subduer, an avenger. *a.* imperious, avenging an epithet of the Deity. - بڑا قہر کرنے والا صفت خدا تعالی کا

قهر severity, chastisement, rage, indignation, vengeance, judgment. - زبر دستي کرنا زور کرنا

قهران (*cor.* of کہران), a pleader, an advocate, a minister, commander, superintendent, a treasurer, a ruler, a governor, conqueror, (*met.*) an authoritative and majestic rule. - معرب کہران کا - وکیل - کار فرما - خزانچي حاکم - صاحب غلبه - مجازاً وہ حکومت اور حکم جو قہر اور جلال کے ساتھه هو

قهقاه / قهقهه laughing loudly and indecently, giggling, name of a fortress in Iran. - کھل کہلا کر هنسنا - زور کي هنسي - قہقہا قہقاہ - نام ایک قلعه کا ایران میں

قهوه *m.* coffee (*Coffee Arabica*). نام ایک مشہور تخم کا جسکو جوش دیکر پیتے هیں

قي *f.* vomiting, a frequent vomiting. ابکائیوں کے ساتھه کہایا ہوا اُگل دینا

قيادت *f.* leading, guiding (*met.*) acting as agent for the lusts of others, pandering. رهبري کرنا - رسته بتانا - مجازاً قوسافي اور دلالي کے بھي آتا هے

قياس *m.* measuring, comparing, judgment, opinion, supposition, thought, guess, theory, a syllogsm. اندازہ - دو چیزوں کے درمیان اندازہ کرنا - کسي بات میں ایک کو ساتھه دوسرے کے برابر کرنا فکر سے - اور منطق کي اصطلاح میں ایک قول هے مرکب دو جملوں سے جس سے نتیجه نکلے اور اس کو اصطلاح منطق میں شکل بھي کہتے هیں

قياسي analogical, regular, imaginary, conjectural. وہ چیز جو موافق قیاس اور قاعدہ کے هو منسوب قیاس سے

قيافه *m.* the art of perceiving a person's character by his countenance, physiognomy. صورت دیکھکر اچھي یا بري علامات کے دریافت کرنے کا علم

قيام *m.* standing erect, stability, attention, residence, settlement. کہڑا ہونا - استاد هونا

قيامت *f.* the general resurrection, the last day, (*met.*) calamity, excessively great, (in Pers.) wonderful work. تمام مردوں کے جي اٹھنے کا دن - اور فارسي میں لفظ قیامت بمعني نہایت اور بہت اور کار عجیب کے بھي مستعمل هے

قيامت كردن *id.* to do any thing wonderful, to endeavour strenuously. عجیب و غریب کام کرنا - کسي کام میں طاقت سے زیادہ کوشش کرنا

قيان (*pl.* of قينه), singing slave girls. جمع قینه کي - گانے والي لونڈیاں

قينچي *f.* a pair of scissors. مقراض - قینچي

قيح *f.* matter of a sore, pus, the soft yellowish substance formed in suppuration. پیپ جو زخم میں پڑجاتي هے

قيد *f.* a fetter, imprisonment, an obstacle, the stitching of the back of a book, a press, boards in which binders press books. بند - بیڑي - شیرازہ کتاب کا شکنجا جس میں کتاب دبا دیتے هیں

قيد الاسنان *m.* the fleshy substance of the jaws round the teeth, the gum. دانتوں کي جڑوں کا گوشت - مسوڑھا

قيدافه *n.* (In *Sikandernama*) Naushaba who was the queen of *Barda*. سکندر نامه میں نوشابه جو بروع کي ملکه تھي

قيد بند *m.* a fort, name of a fort. حصار - نام ایک قلعه کا

قير *m.* pitch, a kind of bitumen flowing from some mountains, tar, resin. ایک قسم کا سیاہ روغن - ایک قسم کا گوند سیاہ اور چیکنے والا جو جہاز اور کشتیوں کي درزوں میں بھر دیتے هیں - رال

قيراط *m.* a carat, the twenty-fourth part of an ounce, a weight of four grains, four barleycorns. چار جو کي مقدار - آدھا دانگ

قيروان name of a place near Africa. نام ایک ملک کا نزدیک افریقه کے

قيروطي *f.* wax and oil mixed together. موم روغن

قيس *n.* name of a tribe of Arabia, name of a famous lover Majnun who was deeply in love with Laila. عرب میں نام ایک قبیله کا - نام مجنوں عاشق لیلی کا

قيصر *m.* Cæsar, the emperor, the official, the title of the Roman emperors, the ganeral name for the Greek or Turkish emperor. It comes from the famous Julius Cæsar. لقب بادشاه روم كا

قيصريه *n.* Cæsarea. The chief Roman city of Palestine in New Testament times. It was on the Mediterranean, about 47 miles, northwest of Jerusalem. It was first called "Strato's Tower." Herod the Great built a city there B. C. 10 and it in honour of Augustus Cæsar. It is now in ruins and called Qaisarieh. نام شهر كا

قيصور *n.* name of a city which produces very fine camphor. نام شهر كا جهان كافور نهايت عمده پيدا هوتا هے

قيفال *n* the cephalic vein. نام ايک رگ كا هے جس سے خون نكالنا سر اور چهرے اور گلے كي اكثر بيماريوں كو دور كرتا

قيل *qil*, (*dim.* of قيل و قال), name of a wilderness, a word, a speech, saying. نام ايک بيابان كا كنايه كلام اور سخن سے - اس صورت ميں يهه قيل و قال كا مخفف هے

قيل *qail*, *m.* name of a person, act of drinking liquor at noon, one who sleeps at midday, a king (in this sense its *pl.* is اقيال). نام مرد كا - دوپهر كو شراب پينا - وه شخص جو دوپهر كو سوتا هے - اور بمعني بادشاه - اس معني ميں اُسكي جمع اقيال هے

قيل و قال *m.* conversation, controversy, altercation. گفتگو اچهي هو خواه بري

قيلوله *m.* sleeping at midday, a meridian nap. دوپهر دن چڑهے تک سونا

قيله *m.* hernia, rupture. ايک قسم كي فتق كي بيماري

قيم (*pl.* of قيمت). جمع قيمت كي

قيم *qaiyum*, *a.* true, standing, erect. *m.* nature, one of the epithets of God. قائم رهنے والا - نگاه ركهنے والا - خدا كے ناموں ميں سے ايک نام

قيماز *f.* slave girl, a maid-servant. - لونڈي خدمتگار

قيماق *f.* the cream (of milk). ملائي دودهه كي

قيمت *f.* price, value, worth. مول - قدر

قيمتي *a.* valuable, high-priced, costly. قيمت والي شے

قيمه قيمه كردن to cut into small pieces. ريزه ريزه كرنا

قين *m.* a blacksmith, an ironsmith. - لهار اهنگر

قين *f.* the wife, a sheath, scabbard. - زوجه چهري و تلوار كا ميان

قينه *f.* a singing slave girl. گانے والي لونڈي

قيود (*pl.* of قيد) fetters, etc. - جمع قيد كي قيديں

قيوم *a.* permanent, stable, lasting, a keeper, a guardian, eternal, an epithet of the Deity. بهت بڑا قائم هونے والا - بهت بڑا نگاه ركهنے والا

قيوميت *f.* permanency, stability, eternity. بهت بڑي قائم هونے والي - هميشگي

— ك —

ك *kaf*, called *kaf-e-tazi* or *kaf e-'arabi*, the Arabian kaf in contradistinction to the letter *gaf* called *kaf-e'ajami*, *i e.*, Persian (*kaf*). It is the twenty-fifth letter of the Persian alphabet and the twenty-second Arabic. ك is the ordinary sound, ق is more guttural, coming from the throat rather than the mouth. It is sounded like our *k* or *c* hard. Affixed to the end of Persian words it form dimunitives or xepressions of contempt, as مردک a little man, or one of no value and so on. In reckoning by ابجد it counts twenty.

كابک *m.* a dove cot, a pigeon house, the birds' nest. كبوتروں كا گهر خصوصاً - پرندوں كا آشيانه عموماً

كابوس *m.* the nightmare, feeling of suffocation during sleep, accompanied by intense anxiety or horror. سوتے ميں رات كو كوئي صورت وغيره ديكهكر ڈرنا

كابيشه *m.* a safflower. (هندي) كسنبهه - گل عصفر

كابين *n.* a marriage portion of gift settled upon the wife before marriage. وه روپيه جو شوهر وقت نكاح زوجه كو دينا منظور كرتا هے عربي ميں مهر كهتے هيں

كات *m.* name of a city, the astringent extract which the natives eat with betel-leaf. It is the produce of a species of *mimoa chadira*, *Catechu*, *Terra Japonica*. نام ايک شهر كا - كتها جسے پان ميں كهاتے هيں اور يهه ايک درخت كي لكڑي كا عصاره هوتا هے

کاتب *m.* an amanuensis, a copier, a writer, a clerk, a scribe. لکھنے والا - محرر

کاتبی *f.* a kind of short-sleeved garment, name of a Persian poet. ایک چھوٹی استین کا پیراھن - نام ایک عجمی شاعر کا

کاج *m.* squinting, one who sees objects double, an expression of wish, prayer and sorrow, a kind of fir tree. - احول - بھینگا - کلمۂ تمنا و افسوس - نام درخت کا قسم صنوبر سے

کاجیرہ *m.* the safflower (*Carthamus tinctorius.* گل عصفر - کسنبھ (ھندی)

کاچار / کاچال } *m.* household goods. گھر کا اسباب

کاچک *f.* the crown of the head. سر کے اوپر کی ھڈی - چندیا

کاچہ *m.* the chin. زنخ - ٹھوڑی

کاخ *m.* an upper story, a gallery, balcony, tower, battlements, a palace, a villa. عمارت بلند - محل

کاخ مشتری *f.* the sign Pisces برج حوت

کاخ مجاز (*met.*) the world. کنایہ دنیا سے

کاد *m.* greed, avarice. حرص - لالچ

کادی / کاذی } *n.* the Screw Pine (*Pandanus odoratissimus*), a large shrub, ten or twelve feet high, native of Bengal and very common, named in reference to the curious screwlike arrangement of its long, spine-edged sedge like leaves on the summit of the stems. It extends over a large space by sending down aerial roots from its branches. Blossoms during the rainy season with panicles of large white, sheath like leaves, enclosing spongy-looking bundles of closely packed minute flowers. It is the tender white leaves of the flowers, chiefly those of the male that yield that most delightful fragrance for which they are so universally and deservedly esteemed. For, of all perfumes in the world it must be the richest and most powerful. نام ایک درخت کا جس کا پھول نہایت خوشبودار ہوتا ھے - ھندی میں اُس کو کیوڑا کہتے ھیں

کاذب false, (sub.) a liar. جھوٹا - دغا باز

کار *m.* work, labour, business, an action, affair, (*met.*) profession, art. کام مجازاً بمعنی پیشہ - ھنر

کار بستن *id.* to carry into effect, to operate. عمل میں لانا

کار بجان رسیدن *id.* to bring, to ruin, to make destructive. قریب ھلاکت پہونچانا

کارد *f.* a knife. چھری - چاقو

کار دار *m.* an agent, a superintendant of the finances, a minister. - کار گزار - عامل - وزیر بادشاہ کے آگے کام کرنے والا

کاروان *a.* versed, skilled, expert, wise, clever, skilful, a prime minister, a vizier. کام جاننے والا - ھنر مند - عادل وزیر بادشاہ کا

کارد باستخوان رسید *id.* the knife has reached the bone, *i. e.* he is reduced to the last extremity. کنایہ ھے نہایت تنگ آنے اور قریب ھلاکت کے پہونچنے سے

کار دست بستہ *m.* difficult, hard, not easy to be done. مشکل کام جو کہ آسانی سے نہ ھو سکے

کار زار *f.* battle, war, conflict, opposition. جنگ - لڑائی - مقابلہ

کار شناس *a.* versed, skilled, expert. کام کو پہچاننے والا

کار طلب *a.* brave, valiant. کنایہ بہادر اور شجاع سے

کار فرما *m.* an emperor, minister, commander, superintendant, a master. کام بتلانے والا - حاکم

کار کسے ساختن *id.* to kill, to make away with. کسی کو مار ڈالنا

کار کسی شدن *id.* to die. کسی کا مر جانا

کار کن *m.* a director, manager, an officer whose business it is to keep records, an agent or officer. کام کرنے والا - کارندہ

کار کیا *m.* one who has lot of work to do, *i. e.* a king, a vizier, a commander, a superintendant, a manager. وہ جس کے متعلق بہت سے کام ھوں مراد اس سے بادشاہ - وزیر - کار فرما - کار گذار - کارندہ

کار کیائی *f.* government, rule, management. بادشاھی - کار فرمائی

کار گاہ *n.* a workshop, a manufactory, a weaving factory. - ھر چیز کے بنانے کی جگھہ عموماً اور کپڑا بننے کا مقام

کار گر *a.* effectual, active (as a medicine), expert, (in Zuleika), the Creator. کام کرنے والا - ھنر ور - زلیخا میں ایک جگھہ کنایہ خالق سے

کار گزار *m.* a servant, a manager, an agent. نوکر - کارندہ

کار نامہ *m.* a record of affairs, history, a scrap-book, a book of instructions and tables for those of revenue officers under the native governments. تصویروں کا موقع جو نقاش اپنے اظہار کمال کے لئے تیار کرتے ھیں - جنگنامہ - تواریخ کي کتاب - کتاب قوانین ریاست اور عدالت کي جسکو کتاب آئین اور دستورالعمل بھي کہتے ھیں

کاروار *m.* a caravan, a large body of travellers, merchants, or pilgrims, united for mutual protection on the journey. قافلہ

کاروانسراے *m.* a caravansary, a house in the East, where caravans rest at night. سرا جس میں قافلہ اور مسافر اُترے

کاریدن *inf.* to sow (the seeds). بیج کا بونا

کاریز *n.* a canal, an aqueduct, a channel for the passage of water from a well to a field, or from one field to another, a conduit. نالي پاني دینیکي کھیت میں - وہ نالي جو ندي کے کھوے کو کھیت میں لے جاویں کھیت میں پاني دینے کو

کاریگر *m.* a workman, a good workman. مزدور علیہ کار گر کا - ھنر مند - کام کرنے والا

کازہ *m.* a pit in which a fowler hides himself and watches an opportunity to catch his prey, to deceive the birds he covers this pit with the branches of a tree, a farmer or a poor man's thatched cottage, a swing, the rope on which the people swing. وہ گڑھا جس میں صیاد چھپکر شکار پکڑنے کي تاک میں بیٹھتے ھیں اور اُسے درخت کي ٹھنیوں سے چھپا لیتے ھیں تاکہ شکار بھڑکے نہیں - غریبوں اور کھیت والوں کا جھوپڑا جو پھوس کا ھو - رسي کا جھولا

کاژ squinting, looking obliquely different ways, a kind of fir tree. احوال - بھینگا - ایک قسم صنوبر کي

کاژیرہ *m.* the safflower (*Carthamus, tinctorius*). گل عصفر - کسنبھ

کاس *m.* a kettle-drum, a boar, pig. - نقارہ خوک - سؤر

کاس *m.* a cup full of wine, a cup, a goblet, a bowl. پیالہ شراب سے لبالب اور بمعني مطلق جام کے بھي آیا ھے

کاسات (*pl.* of کاس), cups. جمع کاس کي - پیالے

کاسب *m.* an artist, a tradesman, one who makes a living by arts. - کسب کرنے والا کمانے والا - پیشہ سے پیدا کرنے والا

کاستن (*r.* کاہ), to lessen, diminish - گھٹنا گھٹانا

کاسد *a.* worthless, deficient in quantity or quality, not selling or passing current. بے رواج - کھوٹا - جس چیز میں کچھہ کھوٹ ملي ھو اور اس وجھہ سے کوئي اُس کے خریدنے کي رغبت نکرے

کاسر *m.* one who breaks. توڑنے والا

کاسرالحجر *kasiru-l-hajar*, *m.* (*lit.*) the stone-breaker, the plant saxifrage. - پنوار کلتھي

کاسف *m.* one who hides or conceals, cynical morose, surly, not in a good state. چھپانے والا - پوشیدہ کرنے والا - ترشرو - بدحال

کاس موے the hog's bristle, stiff hair of swine. سور کے بال

کاسہ *m.* a cup, a goblet, a plate, a bowl. پیالہ

کاسہ بازي *f.* the art of juggling, tumbling, (*met.*) hypocrisy, artfulness. ایک قسم کا تماشا جو بازیگر کرتے ھیں - مجازاً بمعني مکاري

کاسہ بر سر کسے شکستن *id.* to disgrace to reveal one's fault. کسي کا عیب - رسوا کرنا - ظاھر کرنا

کاسہ بند کردن *id.* to flatter, to expect a favour from some one, to be greedy. خوشامد کرنا - کسي سے کسي شے کي اُمید رکھنا - طمع کرنا

کاسۂ فغفور porcelain, chinaware. چیني کا پیالہ

کاسۂ لیسان *a.* avaricious, greedy, poor, mean flatterers, sycophants, a lickspittle, unambitious people. - لالچي - فقیر - کمینے خوشامد کرنے والے - پست ھمت لوگ

کاش *interj.* would to God that; it is hoped so an *exp.* of wish and anxiety, a cup. خدا کرے - امیدیں ھے - یہ کلمۂ تمنا اور آرزو ھے اور بمعني شیشہ بھي

کاشانہ *m.* a cottage, a small house, a dwelling, an *exp.* of contempt, a house for living in during winter. - جھوپڑا - چھوٹا گھر یہ کلمہ تحقیر ھے - جاڑوں کے رھنیکا مکان

کاشت *f.* tilling, cultivation. کھیتي کرنا

کاشتن (*r.* کار), to sow, to cultivate. - بونا بیج بونا

کاشغر *n.* a city of Chinese Tartary. ایک شہر کا نام

کاشف *m.* a detector, a discoverer, stripping, undressing. کھولنیوالا - دور کرنے والا - ظاھر کرنے والا - برھنہ یعني ننگے کرنے والا

کاشکے *interj.* may it happen! God send! would that! کلمۂ تمنا اور آرزو

کاظم *a.* restraining, curbing, suppressing the anger, the title of Musa Bin Jafar Sadiq. - غصه مارنے والا - غصه کا تهانے والا - لقب موسی بن جعفر صادق

کاغ *m.* name of a bird, caw, the cry of the rook or crow, lamentation, complaint, cry for help, the cud, the food which ruminating animals bring up from the first stomach to chew, fire. نام ایک پرند کا - کوے کي آواز - نالہ - فریاد - چوپایوں کي جگالي - آگ

کاغذ *m.* paper, (*met.*) a letter, charter. مجازاً نامه

کاغذ باد *m.* a light frame of wood and paper constructed for flying in the air, a kite. کنکوا - پتنگ

کاغذ حلوا *m.* worthless, useless, (according to some) fine paper. - هر چیز ناقص اور ناکاري بعضوں نے کہا هے کہ ایک قسم کاغذ نفیس کي هے

کاغذ زر *m.* a note of hand, bond, a deed, a bill of exchange, a cheque. - تمسک - قباله روپیه کي هنڈوي - نوٹ

کافت *m.* defending, saving, an old camel. باز رکهنیوالا - بچانے والا - بوڑها اونٹ

کافتن *inf.* to dig, to cleave, to rend, to tear. کهودنا - چیرنا

کافر *m.* one who hides or conceals, an infidel, one who denies the existence of a God, (*met.*) a large canal, a dark night, a mistress, sweetheart. - پوشیده کرنے والا چهپانے والا - بیدین - مجازاً بڑي نهر - اندهیري رات - معشوق

کافت ران *f.* *pudendum tum maristum feminae.* کشیده عورت کے شرمگاه سے

کافر ماجرا *m.* one whose state may be like that of an infidel. وه شخص جس کا حال مثل کافر کے حال کے هو

کافر ماجرائي (*met.*) oppression and injustice. مجازاً بمعني ظلم و بیداد کے

کافر نعمت *a.* ungrateful, not thankful. چهپانے والا نعمت کا - ناشکرا - ناسپاس

کافل *n.* sponsor, a surety or bail. ضامن

کافور *m.* camphor, a whitish, bitter, strong-smelling substance used in medicine, name of a fountain in paradise. نام دوا سفید اور خوشبو دار کا جسکو هندي میں کپور کهتے هیں - نام ایک بهشتي چشمه کا

کافور خوردن *id.* to loose the power of procreation, to be impotent. نامرد هونا

کافور عنبر (In *Sikandarnama*) whiteness of paper and the blackness of ink. (سکندر نامه) کاغذ کي سفیدي اور روشنائي کي سیاهي

کافوري عمامه *f.* the white turban. دستار سفید سے

کاف ونون (means the Arabic word کن) be and it was, or be and it is, this was pronounced by God before the creation of this world and soon the world was created. کنایه لفظ کن سے جو حق تعالی نے کل مخلوقات کے پیدا فرمانے سے پہلے ارشاد کیا تها اور اِس لفظ کے فرماتے هي سب پیدا هو گئے - کن کلمه عربي هے بمعني موجود هوجا

کافه *m.* all, the whole, a tribe, a multitude. کل - تمام - سب - همیشه

کافه انام *m.* all mankind. سب لوگ - کل آدمي

کافي sufficient, sufficing, enough, a sponsor, a surety or bail, name of a theological book, a grain (*met.*). wise, intelligent, sensible, expert, versed, an agent, deputy, name of a mode in music. کفایت کرنے والا - ضامن - علم فقه میں ایک کتاب کا نام - نام کتاب کا علم نجوم میں - مجازاً بمعني دانا - عقلمند - کار گذار - کارنده - پیشکار - نام راگني کا هندي میں

کاک *n.* a small loaf of bread. روٹي کي ایک قسم تکیه کے مثل هوتي هے

کاکا *m.* elder brother, an old slave (belonging to one's father). بڑا بهائي - گهر کا بوڑها غلام

کاکل *f.* a curl, lock, ringlet, a tuft of hair left on the top of the head, a horse's mane, زلف - سر کے بال لٹکے هوے - گهوڑے کي گردن کے بال

کاکل شمع *f.* the curling smoke of a lamp. دهواں جو شمع کے سر پر هوتا هے

کاکل صبح *f.* the break of day, dawn. صبح صادق

کالا *m.* silk clothes, and in general, any kind of household furniture. گهر کا اسباب غیر جاندار

کالبد *m.* the model, figure, form, the human body, the heart. - هر چیز کا سانچه قالب - تن بدن اور جسم آدمي کا اور دوسرے حیوانوں کا

کالم *f.* the woman who is not a virgin, a woman whose husband is dead, a divorced woman. وه عورت جو کنواري نهو - وه عورت جس کا شوهر مر گیا هو - وه عورت جس کے شوهر نے اُس کو طلاق دیدي هو

کالوج *f.* the tittle finger. چھوٹی انگلی ھاتھہ کی

کالیدہ *m.* confounded, agitated, perplexed. پریشان

کالیوا *m.* agitated, perplexed, distressed, silly, fool, mad, deaf. - سرگشتہ - حیوا - پریشان - احمق - دیوانہ - بہرا

کالیوگی *f.* affliction, perplexity, madness. سرگشتگی - حیرانی - دیوانگی

کام *m.* desire, wish, intention, the palate. مراد - مقصد - مطلب - حلق کی چھت - تالو

کام دل (*met.*) a sweetheart, mistress. مراد معشوق سے

کامران *a.* fortunate, successful. جس کا مطلب هوگیا هو

کامگار *m.* one who accomplishes whatever he wishes, successful, fortunate - کامیاب مقصدور

کامگر *contr.* of کامگار

کامل *a.* perfect, complete, learned, accomplished, entire, a metre in prosody. - پورا نام ایک بحر کا آنیس بحروں اشعار سے

کام نا کام *adv.* certainly, inevitably, by force, right or worng, nolens volens. چار نا چار

کامن *a.* hidden, concealed. چھپا هوا - پوشیدہ

کامہ *m.* wish, intention, desire, a sour thing which is eaten with bread. - مراد - مقصد - کام - نام ایک چیز کا جسے روٹی کے ساتھہ کھاتے هیں

کامیاب prosperous, happy, successful, one who attains what he wishes. کام پانے والا جس کا مطلب هوگیا هو - فتحیاب

کان *f.* a mine or quarry. معدن - کھان

کانون *m.* hearth, a fireplace, a chafing dish, a furnace, a kiln an oven, name of the two Roman months. اتشدان مطلقاً خواہ لوهاروں کی بھٹی هو خواہ بهاڑ وغیرہ - دو مهینوں کا نام رومی میں

کانون الاول *m.* the ninth Hindu solar month, December. هندی میں تقریباً ماہ پوس اور انگریزی میں ماہ دسمبر

کانون الاخر *m.* the tenth Hindu solar month, January. هندی میں تقریباً ماہ ماگھہ اور انگریزی میں ماہ جنوری

کانی *a.* mineral, relating, to mines معدنی - کھان کی چیز

کاؤ (from کاویدن), digging, excavating, investigating. امر هے کاویدن سے یعنی کھود

کاواک *a.* hollow, empty, cracked, useless خالی - بیمغز - کھوکھلی چیز

کاؤس *m.* name of a mighty king of Persia. Rustam, the champion wrestler was one of his servants He is also called *Kaikaus.* نام ایک بادشاہ عظیم الشان کا رستم پہلوان اسی کے نوکروں میں سے تھا

کاؤ ماؤ diligent investigation, strict research, scrutiny, pains, toil. تلاش - تجسس - کاوش

کاوہ *m.* name of a famous blacksmith. نام ایک مشهور لوهار کا

کاوی *m.* one who makes a brand with a red-hot iron on any part of the body. کسی عضو پر آگ سے داغ دینیوالا

کاو یانی درنش *m.* the banner of Faredun's army, relating to Kawa, the blacksmith who used to tie a tiger's skin round his waist while at work which Faredun had, while fighting with Zuhak, afterwords tied on his banner and after his conquest ornamented the same with jewels and got it covered with gold. - فریدون کی فوج کا علم منسوب طرف کاوہ لوهار کے اور یهہ پلنگ کا پوست یعنی کھال تھی جس کو کاوہ کام کرتے وقت اپنی کمر پر باندھہ لیتا تھا - فریدون نے ضحاک سے جنگ کرتے وقت اُس چمڑے کو اپنی فوج کے علم پر باندھا تھا اور بعد فتح اُس کو مرصع بہ جواهر کروایا تھا

کاویدن *inf.* to dig, to excavate, to investigate. کھودنا

کاہ *f.* grass, straw. سوکھی کٹی هوئی گھاس

کاہ در دهان گرفتن *id.* to humiliate, to implore earnestly, to seek shelter. کنایہ عاجزی کرنے اور امان چاهنے سے

کاهش *f.* dimunition, emaciation, care, anxiety, loss. کم هونا - نقصان قبول کرنا

کاهکشان *n.* Galaxy, The Milky Way, that long, luminous track in the heavens, formed by a multitude of stars. وہ لمبی راہ جو آسمان پر رات کو نظر آتی هے اور یهہ مهین مهین ستاروں کی هوتی هے - اِسے کهکشاں بھی کہتے هیں - دودہ کی سڑک

کاہ کہنہ بباد دادن *id.* to boast, to talk proudly of oneself, to prattle, to vaunt, to extol oneself, to magnify. - غرور بڑائی کرنا - فخر کرنا - گپ مارنا

کاهن *m.* prophet, priest, a soothsayer, conjuror, sorcerer, augur, an astrologer. فال گو - جادو گر - جانوروں کی آواز سے شگون لینیوالا - غیب کی باتوں کو بتانے والا

کاهو *m.* the name of a vegetable, the seed of which is good for a cold, a lettuce (*Lactuca sativa*). نام دواے مشہور کا

کاهیدن *inf.* to waste, diminish. گھٹنا - گھٹانا

کاوُد *a.* hypocrite, deceiving, artful, cunning, fraudulent. مکار - فریبیا

کائن existing, being, coming to pass. ہونے والا - موجود

کائنات (*pl.* of کائن), all things existing. *f.* the world, universe, beings, creatures. دنیا - موجودات

کباب تر (*met.*) ice, snow. کنایہ برف سے

کباب در رسانیدن to roast meat or fry it on skewers. کباب کا پکانا

کباد *m.* pain in the heart, love-sickness. درد جگر

کبادہ *m.* a bow, not very strong, for practising with, a kind of bow with an iron chain instead of a string, which the natives use in their gymnastic exercises. بالکل نرم کمان - لیزم جس کا چلہ لوهے کي کڑیوں کا هوتا هے اور اُس کو پهلوان لوگ هلاتے هیں

کبار *kibar*, (*pl.* of کبیر), grandees, nobles, men distinguished for wealth, knowledge, or sanctity. جمع کبیر کي - بزرگ لوگ

کبار *kubbar*, very great. بهت بڑا بزرگ

کبائر (*pl.* of کبیرہ), heavy sins. جمع کبیرہ کي بڑے گناہ

کبت disgracing, contemning, perishing, causing to fall headlong. خوار کرنا - ذلیل کرنا - هلاک کرنا - منهہ کے بل گرا دینا

کبد *kabid*, } (*pl.* اکباد), the liver, the
کبد *kabad*, } heart. جگر - کلیجھ

کبد *kabad*, adversity, grief, calamity, trouble. سختي - رنج - بلا

کبر *kibr*, *m.* grandeur, pride, dignity, superiority. بزرگي - بڑائي - بزرگ هونا

کبر *kibar*, old age, advanced age. - کلان سالي بڑها پا - بوڑها هونا

کبر *kabar*, *n.* capers (fruit or berry). ترش مزہ میوہ - اس کا اچار پڑتا هے اور خراسان میں بهت پیدا هوتا هے

کبرا *kabra*, (*pl.* of کبیر), the great, grandees. جمع کبیر کي - بزرگ لوگ

کبري *f.* any great thing. هرچیز مونث جو بڑي بزرگ هو

کبرسن *m.* old age, advanced age. - بڑهاپا کلان سالي

کبریا *m.* grandeur, magnificence, pride, a name of God. بزرگي - بزرگ پن - عظمت

کبریت *m.* sulphur, fine gold or silver. - گوگرد گندهک اور بمعني خالص - خالص چاندي اور سونے کے بهي

کبریت احمر *m.* the red sulphur, the philosopher's stone, a panacea. اور - سرخ گندهک کنایہ اکسیر سے

کبس *kabas*, falling headlong in a pit گڑهے میں منهہ کے بل گرنا

کبش *m.* a horned fighting ram. مینڈها جنگي شاخدار

کبک *m.* the *Bartavelle* or Greek partridge *Terao rufus, Lin. Perdix rufa*, Lath.) چکور پرند مشہور هے

کبود *m.* azure, blue, cerulean. نیلگوں - نیلا

کبیب *m* one who has fallen headlong. منهہ کے بل گرا هوا

کبیر *a.* great, large, immense, full grown, senior. بزرگ - بڑا

کبیرہ *m.* a great sin. بڑا گناہ

کبیشہ *m.* name of Mahomet's slave محمد کے غلام کا نام

کپان *n.* a large balance for weighing wood, etc. - بڑي ترازو جس سے لکڑي وغیرہ تولتے هیں هندي میں تک کہتے هیں

کپنک *f.* a pallet, a beggar's bedding, quilts, etc. گدڑي جو محتاج آدمي جاڑے میں اوڑهتے هیں

کپي *m.* a monkey, a baboon. - بوزنہ - بندر بعضے کہتے هیں کہ سیاہ بندر یعني لنگور

کتاب *f.* a writing, inscription, a letter, a motto, emancipation of a slave or a she-slave by money. لکها هوا - لکهنا - نامہ نوش لکها هوا - آزاد کرنا - غلام اور لونڈي کو بعوض اُن کے مال کے

کتاب *kuttab*, (*pl.* of کاتب), writers, clerks, scribes, (*met.*) a school. جمع تکسیر کاتب اي یعني لکهنے والے - مجازاً بمعني مکتب کے جہاں لڑکے پڑهیں

کتب *kutab* *m.* a school. مکتب

کتابت *f.* writing, inscription, a motto, title page, a written agreement whereby a slave is entitled to emancipate himself either by labour or money. لکهنا

کتابون *n.* name of the daughter of a Roman emperor who was married to Gashtasp. قیصر روم کي بیٹي کا نام جو گشتاسپ کے نکاح میں آئي تهي

کتابه *m.* an inscription, an epitaph, writing. وہ عبارت جو مسجدوں اور مقبروں اور امیروں کے دروازوں پر لکھتے ھیں یا پتھر پر کھود کے نصب کرتے ھیں

کتارہ *m.* a dagger having a broad straight blade, a poniard, a sword. وہ حربہ جسے ھند کے لوگ کٹار کہتے ھیں ۔ اور بعضوں نے بمعنی خنجر اور تلوار کے بھی لکھا ھے

کتام hiding, keeping a secret to oneself. بھید کا پوشیدہ رکھنا

کتان *n* linseed, a kind of cloth, linen it is said to be rent by exposure to the moon-light, and hence is represented by oriental poets as enamoured of the moon. السي جس سے تیل نکلتا ھے ۔ اور ایک قسم کا کپڑا نہایت باریک

کتائب (*pl.* of کتیبه), armies, troops جمع کتیبه بمعنی لشکر کے

کتب (*pl.* of کتاب), books جمع کتاب

کتبه (*pl.* of کاتب), writers, clerks, etc. جمع کاتب کي ۔ لکھنے والے

کتخدا (for کد خدا), *m.* master of a family, a married man, a housewife, *a.* worthy, fit, able. گھر کا مالک ۔ صاحب خانہ ۔ گھر والا ۔ گھر والي ۔ بمعنی لائق اور سزا وار کے بھي آیا ھے

کتخدائي *f.* marriage. شادي ۔ بیاہ

کتف *m.* the shoulder-blades. شانہ ۔ کندھا

کتکه *m.* a short club, a staff. موٹا ڈنڈا

کتل *m.* a rising ground, a ridge, a low hill. ٹیلہ جو جنگل میں ھو

کتم concealing, hiding, keeping a secret to oneself, (*met.*) concealment. ۔ چھپانا بھید کا پوشیدہ رکھنا ۔ مجازاً بمعنی پوشیدگي ۔ پردہ

کتمان concealment, concealing. گواھي کا چھپانا ۔ بھید کا پوشیدہ کرنا ۔ پوشیدگي

کتیب *f.* a writing, a book. لکھي ھوئي چیز

کتیبه *m.* an army, troop, name of one of Khaiber forts. فوج ۔ لشکر ۔ نام خیبر کے قلعوں میں سے ایک کا

کثافت *f.* corpulency, fatness, thickness, density, fulness, repletion. موٹا ۔ بھدا ھونا ھونا ۔ گاڑھا ھونا ۔ اکٹھا ھونا ۔ ضد الطافت

کثب *n.* high heaps of sand. بالو کے بلند تودے

کثبان (*pl.* of کثیب), high heaps of sand. جمع کثیب کي ۔ بالو کے بلند تودے

کثرات (*pl.* of کثرت). جمع کثرت کي

کثرت *f.* abundance, excess, (*met.*) group, multitude, crowd (of men), connections, concerns. بہت ھونا ۔ زیادتي ۔ بہتایت ۔ مجازاً انبوہ آدمیوں کا ۔ علاقے دنیا کے

کثف *m.* a crowd, multitude. انبوہ ۔ گروہ آدمیوں کي

کثیب *m.* a heap of sand. بالو کا بلند تودہ

کثیر *a.* many, much, abundant, fruitful, copious, numerous, excessive. بہت زیادہ

کثیف *a.* thick, dense, opaque, dirty, stagnant, filthy, fat. ۔ جو لطیف نہو ۔ دلدار ۔ گندلا ۔ غلیظ ۔ موٹا

کج *a.* crooked, wry, (*met.*) perverse, cross. ٹیڑھا پن ۔ کپ ۔ خم

کجا *adv.* where? whither? who? everywhere. کس جگہہ ۔ کہاں اور بمعنی ھرجا کے بھي

کجاوہ *m.* a camel's saddle, a kind of camel's litter in which two persons sit on both the sides. اونٹ پر ایک کاٹھي اس طرح پر باندھتے ھیں جس پر دو شخص مقابل ایک دوسرے کے بیٹھتے ھیں اس کو کجاوہ باندھتے ھیں

کجدار و مریز *m.* an order which is hard (or impossible) to comply with. وہ حکم جس کا بجالانا نہایت مشکل یا نا ممکن ھو

کجک *f.* the iron instrument used in driving elephants, a goad, drumstick. انکس جو فیلبان کے ھاتھہ میں ھاتھي ھانکنے کے لئے ھوتا ھے ۔ نقارہ بجانے کي چوب

کجکول *m.* a cup or bowl (generally a beggar's wallet, a fakser's bag in which they keep alms. فقیروں کا جھولا جس میں وے بھیک کي چیزیں مانگ کر رکھتے ھیں

کجمج *m.* a stutterer, a stammerer, one who cannot speak fluently. وہ شخص جس کي گفتگو فصیح نہو ۔ مہمل الفاظ بولنیوالا ۔ تُتلا آدمي

کجواج *a.* crooked, bent, upside down, overturned. کج ۔ خم ۔ اوندھا

کجوہ *m.* a cloth-ball to play with. کپڑے کا گول گیند جس کو لڑکے بنا کر کھیلتے ھیں

کجي *f.* crookedness, crossness. ۔ ٹیڑھا پن کبڑا پن

کجیم } کجین } *f.* an iron armour for the defence of a horse or elephant. برگ ستوان ھندي پاکھر جو گھوڑے پر بروز جنگ ڈالتے ھیں

کحال *kuhhal*, *m.* an oculist, one who applies collyrium. وہ حکیم جو لوگوں کي فقط آنکھوں کا علاج کرے

کحل *khal*, a season of dearth or famine, staining the eyes with collyrium. قحط کا برس ۔ قحط سالي ۔ آنکھہ میں سرمہ لگانا

کحل *kuhl*, *m.* collyrium of antimony reduced to a fine powder. سرمہ

كحل الجواهر *m.* a special kind of collyrium in which precious stones are reduced to a fine powder and mixed, such a collyrium is said to be very useful for the eyes. وہ سرمہ جس میں موتي وغيرہ جواهر پڑتے هيں اور اس طرح کا سرمہ آنکھوں کي روشني کو بہت قوت ديتا هے

كحلي of the colour of سرمہ greyish, a kind of fine black cloth. سرمئي رنگ - نام ايک نفيس سياہ رنگ کپڑے کا

كخ *kukh*, name of a grass of which they make mats, a bug-bear, a worm in the fruits, etc. نام ايک گھاس کا جس سے بوريا بنتا جاتا هے - وہ کيڑا جو ميوہ وغيرہ ميں پڑجاتا هے - صورت ڈراوني جس سے بچونکو ڈراتے هيں

كخ *kikh*, *a.* bitter, an expression of hatred and prohibition. کڑوا مزہ - کلمۂ نفرت اور منع کرنے کا بهي هے

كخ كخ *kikh kikh*, an *exp.* of utter disgust, a peal of laughter. کلمۂ نفرت - هنسي کي آواز

كخ كخ *kukh kukh*, *int.* sound of coughing. کھانسي کي آواز

كد *kad*, *m.* a louse, a retreat, a village. خانہ - گھر - گانؤں

كد *kadd*, *f.* examination, search, inquiry, trouble, labour, endeavour. امتحان - تلاش - تکليف - کوشش

كدام which (of the two) ? who ? what ? of what kind or sort ? کون شخص - کون چيز يہہ کلمۂ استفهام کا هے اور انسان اور کل اشيا پر بولا جاتا هے

كد بانو *f.* the mistress of a family, a housewife. گھر کي مالک - بيوي گھر کي - گھر کي بيگم

كد خدا *m.* the father of a family, master of a family, (*met.*) a married man or woman, a housewife. - صاحب خانہ - مالک گھر کا اصطلاحاً وہ مرد و عورت جن کي شادي هو گئي هو - گھر والا - گھر والي

كدر *kadir*, *a.* muddy, obscure, dirty. - تيرہ گندلا - مکدر

كدر *kadar*, being turbid or muddy (water). گندلا پن - گندلا هونا

كدر *m.* name of a very fragrant flower (*Pandanus odoratissi mus*, *Roxb.*) نام ايک درخت خوشبو کا جس کا پھل نہايت خوشبودار هوتا هے - هندي کيوڑہ

كدو *m.* a pumpkin or pumpion (*Cucurbita lagenaria*). کدو جو مشهور ترکاري هے

كدوخ *m.* a hot-house, a bagnio, a warm-bath, a cup. مکان گرم - حمام - جام

كدود *m.* a well. کنوان - چاہ

كدورت *f.* foulness, impurity (in water, etc.), perturbation, depression of spirits, affliction, resentment. گندلا پن - تيرگي

كدہ *m.* (in *comp.*) a place, a house, a village. خانہ - گھر - گانؤں

كديرہ *a.* dirty, muddy, impure, hidden, concealed. مکدر - گندہ - پوشيدہ

كديور *m.* a gardner, a farmer, a husbandman, master of a house, a landlord, headman of a village. - کسان کھيتي کرنے والا - باغبان مالي - صاحب خانہ - گانؤں کا رئيس

كذا like this, after this manner. ايسا

كذاب *kizzab*, uttering falsehood, lying. جھوٹھہ بولنا

كذاب *kazzab*, *m.* a great liar. بہت بڑا جھوٹ بولنيوالا

كذا و كذي in this and that manner, (*met.*) an abuse. بمعني چناں و چنيں - اور کنايہ دشنام سے بهي

كذب *m.* lie, falsehood. دروغ - جھوٹھہ

كذب *kazib*, a liar, a lie. - جھوٹھہ بولنيوالا جھوٹھہ بات

كذوب *m.* a great liar. بڑا جھوٹا - بڑا کاذب

كر *a.* deaf. بهرا جسکو کم سنائي دے

كر *karr*, evading, removing, invading, a rope which may help one to climb up a tree. - پھير دينا - هٹا دينا - دشمن پر حملہ کرنا وہ رسي جسکو پکڑ کے درخت پر چڑھيں

كراء *m.* rent, hire, fare. - کرايہ دينا - کرايہ بهاڑا

كرا *kira*, (*dat.* and *acc.* of كي), whom ? to whom ? کس کے تئيں - کسکو

كرات *karrat*, (*pl.* of کرت), many times, etc. جمع کرت کي بمعني بہت دفعہ - بہت مرتبہ

كرات *kurrat*, (*pl.* of کرہ), round things, globes. جمع کرہ کي - گول چيزيں

كراث *kurras*, *m.* a leek (*Allium Porrum*). The lower part of this vegetable when well blanched is very delicious, boiled, and served with melted butter, retaining scarcely any of its Onion like flavour, and forming an excellent substitute for Sea-kale, which it then much resembles. گندنا - ايک قسم کي ترکاري

كراثي resembling the colour of a leek. گندنا کي طرح کا رنگ

کراجیدن *inf.* to cluck (a laying hen). مرغي کا کُڑ کُڑانا انڈے دینے کے وقت

کرار *karrar*, attacking voillently, reiterated assault, a title of Ali. هٹا دینے والا - دشمن پر برابر حملہ کرنے والا - لقب علي کا

کرار یس (*pl.* of کراسہ), part or portion of a book, thirty sections of the Qurán. جمع کراسہ کي - کتاب کے جزو - قرآن شریف کے پارے

کراز *n.* a bottle, a phial, a goblet with a narrow neck. بوتل - شیشي - وہ کوزہ جس کا منہہ تنگ ہو

کراسہ *kurrasa*, *m.* a part, portion, a section of the Qurán. کتاب کا ایک جزو - قرآن شریف کا ایک ٹکڑا یعني ایک پارہ

کراسہ *kurasa*, the Qurán, a book. - قرآن مجید مطلق کتاب

کراع *n.* the legs of a goat or a cow. بکري یا گاے کے پائے

کرام *kiram*, (*pl.* of کریم), the noble, the liberal, grandees. جمع کریم کي - سخي اور بزرگ لوگ

کرام *kuram*, great, high in rank or authority, venerable, liberal, charitable, munificent. کریم - بزرگ - سخي

کرام *kiram*, *a.* very generous, very noble. بہت بڑا کریم - بڑا سخي

کرامت *f.* generosity, magnificence, nobleness, excellence, a miracle performed by pious individuals not prophetically inspired. بزرگي

کران *kiran*, a species of lute or harp. نام ساز کا - بربط

کران } کرانا } *karan*, *m.* a shore, coast, margin, bank, side, boundary, extremity. کسي چیز کا کنارہ اور انتہا

کراھت } کراھیت } *f.* dislike, disgust, aversion, disagreeableness, abhorrence, hatred, abomination. - نا پسندي - ناخوشي ناپسند رکھنا

کرب vexation, affliction, trouble, grief, sorrow, pain. غم - رنج - دکھہ - درد

کرب *karab*, becoming restless or afflicted, غمگین اور بے آرام ہونا

کرباس *cor* of کرپاس معرب کرپاس کا

کرپاس *m.* cotton, (*met.*) cotton clothes. پنبہ - روئي - اور مجازاً بمعني سوتي کپڑے کے مستعمل ہے

کربا سو *n.* a lizard. چدپاسا - چھپکلي

کربت *f.* affliction, distress, grief, trouble, misfortune. دکھہ - رنج - مصیبت

کربس *n.* a lizard. چھپکلي

کربلا *n.* name of a place in 'Iraq where Husain the son of 'Ali suffered martyrdom and where his tomb is still visited by pilgrims. The Tazias or Tabuts which are structures made of bomboos covered with tinsel and profusely ornamented are intended to represent the tomb erected on the plains of Karbala over the remains of Husain. Large sums are sometimes spent on these Tazias. At the back of the Tazias are laid articles similar to those supposed to have been used by Husain at Karbala, a turban of gold, a rich sword, a shield, a bow and arrow. The usual standard is that of hand placed on a pole. This is emblematic of the five members who composed the family of the prophet, and is the special standard of the Shiahs. Every evening large crowds of people assemble in the *Ashur Khana*. A band of singers chant the Marthiya, a poem in honour of Husain. At each pause the hearers beat their breasts and say, 'Husain ! Husain !' After this the Waqi'a Khan (narrator of events) ascends the pulpit and gives a graphic account of the death of Husain. Sometimes he becomes very excited, and the audience is stirred up to great enthusiasm. The hearers sway their bodies to and fro, crying out, 'Ali ! Ali ! Husain ! Husain !' Each one beats his breast. This is done sometimes so vigorously as to cause blood to flow. The neza, a spear with a lime on the top to recall to remembrance that Husain's head was thus carried about, is taken in procession. Another standard has the representation of a horse shoe, meant to remind the people of the swift horse of Husain. On the tenth night the whole of the *Tazias* and standards are taken in procession. On the following day they kindle the fires, and say a Fatiha in each 'Ashur Khana. After this the standards and

Tazias are taken away to a large open spot near water, which represents the plain of Karbala. Another Fatiha is said, the ornaments are taken off the Tazias, and the frame-work is then cast into the water. نام ایک شہر کا جہاں حسین شہید ہوئے تھے

کرت *karrat*, *f.* one time, one assault. - نوبت باري - دفعہ

کرخ (*con.* of کرخت), hard, austere, rigid. مخفف کرخت کا - سخت

کرخ *karakh*, *n.* name of a village near Baghdad. نام ایک گانوں کا قریب بغداد کے

کرخت *a.* austere, rigid, insensible, of no feeling. وہ عضو جو بے حس و حرکت ہوجائے - اور بمعني سخت کے مستعمل ھے

کرد *kard*, کرد *kird*, *m.* deed, action, work, business. کار - عمل - کام

کردار *m.* action, labour, deed, art, business, manner, conduct. طرز - روش - کار - کام عمل - فعل

کردر *n.* hard soil, a bank, an eminence. سخت زمین - بلند پشتہ

کردستان *n.* name of a country in Iran. نام ملک کا ایران میں

کردک *kurdak*, *a.* robust, strongbodied, powerful. *m.* a wrestler. قوي هیکل - پهلوان

کردک *kirdak*, *a.* shameless, immodest-voluble. بیحیا - زبان آور

کردن گار *m.* God, the Creator, Providence. ترکیبي معني اس کے خداوند گار - مراد حق تعالی سے ھے

کردن (*r. t.* کن) *inf.* to do, to act, to perform. کرنا

کرسن *m.* cow-dung. گوبر

کرسنہ *n.* the pea (*Pisum sativum.*) مٹر جو مشہور ترکاري ھے

کرسي *f.* a throne, the eighth heaven, the throne of God. چھوٹا تخت - چوکي آٹھواں آسمان

کرش *karsh*, کرش *karish*, *m.* the first stomach of the ruminating animals. جگالي کرنے والے - چوپایوں کا شکنبہ جیسے آدمیوں کا معدہ

کرشم کرشما *m.* ogling, an amorous look or gesture, blandishment, a wink, a glance. ناز - غمزہ - آنکھ اور بھووں کا اشارہ

کرفس *m.* parsley (*Apium involucratum Roxb.*), common carraway (*Carum Carui*), a kind of lovage *Tigusticum Ajowan.* نام دوا کا جسکي بو ناخوش اور تیز مانند اجوئین کے ہوتي ھے هندي اجمود

کرفش *n.* a lizard. چلپاسا - چھپکلي

کرکم *kurkum*, *n.* saffron, a bulbous plant allied to the crocus with flowers of rich orange colour. زعفران - کیسر

کرکن *m.* all kinds of parched grain used for eating. ہر قسم کا غلہ جو بھون کر کھایا جاے

کرکي *n.* a fowl of a large breed, a crane, a heron. کلنگ ایک مشہور پرند ھے

کرگدن *m.* a rhinoceros. گینڈا جو مشہور چوپایہ ھے

کرگس *m.* a vulture, (*met.*) barbs of an arrow. ایک مردار خور پرند کا نام ھے جس کو هندي میں گدہ کہتے ہیں - مجازاً تیر کے پروں کو بھي کرگس کہتے ہیں

کرگسان گردوں *m.* name of the two stars in the form of a vulture, one of them is called نسر طائر, the constellation of the Eagle, the other, نسر واقع, the constellation Lyra. آسمان پر دو ستارے ہیں بصورت کرگس ایک کو نسر طائر اور دوسرے کو نسر واقع کہتے ہیں

کرم *karam*, *m.* liberality, graciousness, benignity, excellence, manliness, bravery, civility, humanity, nobility, grandeur, (*met.*) kindness. - مروت - سخاوت - عزیزي - مروي - بزرگواري - جوانمردي - مجازاً مہرباني

کرم *kurm*, *m.* a great sorrow, a deep grief. بڑا غم - سخت اندوہ

کرم *kirm*, a worm. کیڑا

کرمان (*pl.* of کرم), worms. جمع کرم کي - کیڑے

کرمان *n.* name of a place famous for its seeds of the *Nigella Indica Roxb* and fine carpets. نام ایک شہر کا جہاں زیرہ سیاہ خوب پیدا ہوتا ھے اور فرش بھي یہاں کا نفیس ہوتا ھے

کرم پیلہ *m.* the silkworm. ریشم کا کیڑا

کرمک شب تاب کرمک شب افروز *m.* the firefly, a winged insect which emits a brilliant light at night. هندي جگنو

کرم کلہ *m.* a cabbage, (*Brassica oleracea*). ایک قسم گوبھي کي ھے

کرمن دارمن (*met.*) the west and the east. کنایہ مغرب و مشرق سے

کرنا *n.* a kind of trumpet. بڑي ترہي

کرنپ *m.* a cabbage. کرم کلہ ترکاري مشہور ھے

کرنگ *m* a red-coloured horse. گهوڑا سرخ رنگ

کرو *n.* a small river boat. چهوٹي کشتي دريا کي

کروب (*pl* of کربت), sorrows, etc. جمع کربت بمعني رنج کي

کروبي *m.* a cherub. فرشته مقرب

کروم *m.* the vines, many sorrows, many afflictions. انگور کے درخت - بہت سے غم - بہت سے رنج و اندوه

کروه *m.* a *kos*, a measure of distance nearly equal to two miles or 4,000 yards. کوس اس کي مقدار مسافت چار هزار گز کي هے

کرويا *m.* a kind of cummin seed which aids digestion. ايک قسم زيره کي جو هاضم طعام هے

کره *kura*, *m.* a ball to play with, a globe, anything spherical. گيند جس سے کهيلتے هيں - گولا - هر چيز مدور اور گول

کره *kurra*, *m.* a colt, the young male of a horse kind, a lash, a whip. گهوڑے کا بچه - گدهے کا بچه - اور بمعني تازيانه هندي کوڑا

کره *cont.* of کروه a *kos* (nearly 2 miles). مخفف کروه بمعني کوس کا

کره *kurah*, *m.* grief, sorrow, trouble, misfortune, displeasure, adversity, hardship. رنج - غم - سختي - ناخوشي - مصيبت

کره *karah*, *m.* violence, force, oppression, unwillingness, reluctance, disinclination. هاے هنوز کے اظهار کے ساتهه بمعني جبر - نا رضامندي

کره *karh* and *kurh*, *f.* aversion, abomination, detestation, abhorrence, trouble, molestation. مکروه چيز - نامرغوب چيز

کره نا کشاده *m.* a young male of a horse on whom one has never ridden. وه گهوڑے کا بچهيڑا جس پر ابهي سواري نه لي هو

کري *f.* deafness. بهرا پن

کرپاس *m.* an upper room, an upper story, a balcony, a court, a hall of audience, a palace. بالا خانه - کوٹهے پر کا مکان - بادشاه اور اميروں کا دربار - عاليشان محل

کريم *a.* bountiful, magnificent, glorious, benevolent, gracious, liberal, forgiving. سخي - بزرگ - گناه بخشنے والا

کريما (*voc* poetic), O gracious (God)! O God. اے کريم - اے سخي - اے خدا

کريو *m.* a ridge, a rising ground, a low hill. ٹيله

کريه *a.* abominable, ugly, deformed. هاے ملفوظ کے ساتهه - مکروه - بهونڈا - بدشکل

کژ *a.* crooked, wry, raw silk. خم - ٹيڑها - کچا ريشم

کژ بره *m.* green coriander seed. شنيز سبزه هرا دهنيا

کزلک *m.* a knife. چاقو - چهوٹي چهري

کژدم / کژدم *m.* scorpion. بچهو

کژک *n.* a goad, a pointed instrument to make an elephant move faster. فيلبان کي انکس

کژمژ زبان *m.* one who cannot speak fluently, a stuttering boy. غير فصيح - وه شخص جس کي زبان سے صاف الفاظ نه نکل سکيں - وه لڑکا جو ابهي تتلا کے بولتا هو

کژه *m.* the tonsil, uvula, a bent big knife for mincing meat. وه گوشت کا ٹکڑا جو آدمي کے حلق ميں لٹکا هوتا هے هندي کوا - وه بڑا چهرا خمدار جس سے گوشت کا قيمه بناتے هيں

کس *m.* a friend, a companion, a gentleman, a man, a person. يار - رفيق - ساتهي - مرد - شريف - لايق آدمي - اور بمعني مطلق آدمي کے بهي هے

کس *vulva*. عورت کي شرمگاه

کسا *m.* a sheet (of cloth), a blanket, a garment of goat's hair. چادر - گليم - کملي

کساد not current, not in demand or use, flat sale or bad market, penury, indigence. متاع کي ناروا جي - بے رواجي

کسادي flat sale or bad market. عدم خريداري اسباب وغيره کي

کسالت *f.* idleness, slothfulness. سستي - سست هونا

کسافت *f.* sediment, obscuration, an eclipse. گاد - گرهن

کساله *m.* heaviness, slowness, sickness, grief, affliction, distress. رنج - غم - مصيبت - بلا - بيماري

کسب *kasb*, *m.* gain acquisition (by labour), (*met.*) trade, profession, employment. پيدا کرنا - حاصل کرنا - مجازاً بمعني هنر - پيشه

کسب *kusb*, *n.* the dregs of mustard seeds, etc., after the oil has been pressed out, oil-cakes. روغن کا تفل - کهلي

کسبي *m.* an artisan, a craftsman. (*met.*) *f.* a prostitute پيشه ور - هنر والا - مجازاً بمعني زن فاحشه بازاري

کستن *inf.* to rub, to anoint, to pound, to beat. ملنا - کوٹنا

کس خانه *m.* master of the family. صاحب خانه

کسر *kasr*, *m.* breach, violation, loss, affliction, broken, the short vowel *i*, part, portion, piece. توڑنا - شکستگي - ٹوٹا ھوا - حرکت زیر کي - ٹکڑا - حصہ

کسر *kisar*, (*pl.* of کسرہ). جمع ھے کسرہ کي

کسرہ the vowel point called by the Arabians کسرہ corresponding to *i* in *fit*. زیر جیسے دن کي دال کے نیچے

کسری (*cor.* of خسرو), the title of the king of Persia (hence the Greek forms Cyrus, Chosroes), an emperor, it is generally applied to Nausherwan the Just, who lived in the time of Justinian. معرب ھے خسرو کا - لقب نوشیروان بادشاہ کا خصوصاً اور لقب اور بادشاھون فارس اور صدائن کا عموماً - خسرو معني واسع الملک ھے

کسل *f.* idleness, laxness, indolence, laziness کاھلي - سستي

کسلان *a.* idle, lazy, slothful. سست - کاھل

کسني (*con.* of کاسني), *f.* endive (*Cichorium endivia*). مخفف کاسني کا

کسوت *f.* dress, appearance, robe, habit, (*met.*) figure, form, manner. - جامۂ پوشیدني لباس

کسور (*pl.* of کسر), fractions (in arithmetic). جمع کسر کي

کسوف *m.* a lunar eclipse, a solar eclipse but commonly خسوف means a lunar eclipse, and کسوف the solar eclipse. سورج گہن - چاند کا گہن مگر عرف میں چاند کے گہن کو خسوف اور سورج کے گہن کو کسوف کہتے ھیں

کس و کو family, dependants, relatives متعلقین - اقربا - رفقا

کسے some one, any one. کوئي شخص - کوئي آدمي

کسیدہ *m* (a thing) not current, (a thing) not in demand or use, defective, forged, base. کھوٹي چیز - متاع بے رواج

کسیر broken. ٹوٹا ھوا

کسیف *a* hidden, concealed, in bad circumstances, ill conditioned, cynical, morose, surly. پوشیدہ - بدحال - ترشرو

کش *kash m.* and *f.* the armpit, the breast, chest, the waist, the side under the armpit, name of a city, (in *comp.*) drawing, pulling, carrying, bearing, enduring بغل - سینہ - نمو تھیگاہ - بکھي - نام ایک شہر کا

کش *kush*, (in *comp.*) destroying, subduing, killing. مارنے والا - ہلاک کرنے والا

کشاد *a.* opening, loosening or untying, expansion, cheerfulness, conquest, latitude, (also) shooting with a bow and arrow. صیغہ ماضي کا کشادن سے اور بمعني فراخ - خوشي - فتح - اور تیر کمان چھوڑنے کے بھي آیا ھے

کشادگي *f.* an aperture, expansion, opening of heart, joy, latitude. - کشادہ ھونا - وسعت

کشادن *inf.* to be opened, to open. - کھلنا کھولنا

کشاد نامہ *m.* a royal command, a royal commission or mandate, a royal patent, an order of exemption from duty or tax, a divorce, and order for releasing a prisoner. بادشاھي فرمان - معافي کا پروانہ - طلاق نامہ - خطا آزادي

کشادن عالم *id.* to take possession of the whole world. تمام عالم پر قبضہ کرنا

کشادہ نفس *a.* loquacious, garrulous, prating, talkative. زیادہ گو

کشاف *kashshaf*, *m.* a discoverer, solver, explainer, *adj.* very clear or explicit, name of a commentary. - بھید کھولنیوالا بھید ظاھر کرنے والا - بڑا پردا اٹھانے والا - نام ایک تفسیر کا

کشا کش *f.* contention, struggle, mutual pulling, scrambling, distraction, difficulty, perplexity, distress, crowding, (*met.*) a deep sorrow. چھینا - چھپٹي اور کنایۃ بڑے غم و الم و رنج سے بھي

کشان drawing, bearing, enduring. - کھینچنا برداشت کرنا

کشاورز *m.* farmer, a husbandman, a villager. کسان - دھقان

کشائش *f.* aperture, opening, clearness, serenity. کشادگي - فراخي

کشت *kisht*, *m.* a sown field, growing crop, check (a well known term at chess) - کھیتي اور شطرنج کي اصطلاح میں شہ کا لگنا

کشت *kusht*, killed, slaughtered. مارا - قتل کیا

کشت زار *m.* a sown field beginning to look green. کھیت

کشتکار *m.* a peasant, husbandman, farmer. کھیتي کرنے والا

کشتن *kishtan*, (*r.* کار), *inf.* to sow, to till, to cultivate. بونا

کشتن *kushtan*, *inf.* (*r.* کش), to kill, to slay, *m.* slaying, killing. - مار ڈالنا قتل کرنا

کشتہ *kishta*, a sown thing, the fruits (like plums, peaches or apricot dried in the sun, name of a perfume burnt at the time of worshipping, the aromatic vapour arises from the combustion of any fragrant gum, sandalwood, fragrant aloe or musk. بوئي هوئي چيز - آلو بخارا - شفتالو يا زرد آلو وغيرہ ميوے جنكو خشک کر ليا جاوے - نام ايک خوشبو کا جو اگر اور لوبان اور صندل اور مشک وغيرہ سے ترکيب ديتے هيں اور آگ پر جلانے سے خوشبو دار دهواں نکلتا هے

کشتہ *kushta*, *m.* killed, slain, (*met.*) a lover. مقتول - قتل کيا هوا - مجازاً عاشق

کشتي *f.* a boat, bark, a kind of cup. ناؤ جو دريا ميں هوتي هے - پيالہ شراب کا

کشتيبان *m* the master of a vessel, a sailor, familiarly called, the skipper, a pilot.

کشخان *m.* a pimp, a pander, a cuckold. ديوث - بهڑوا

کشش *f.* attraction, allurement, difficulty, contention, dispute, a sweep or dash in writing, a stroke of the pen. - کهينچنا جذب کرنا

کشف *kashf*, *m.* an opening, a manifestation, revelation, declaration, solution, explanation, laying bare. کسي چيز سے پردہ آٹها دينا - کهولنا - برهنہ کرنا - ننگا کرنا

کشف *kashaf*, *m.* a tortoise, the sign Cancer. کچهوا ايک جانور دريائي هے فارسي ميں اسے سنگ پشت اور باخہ بهي کهتے هيں

کشک *kashk*, barley broth, cheese, a kind of dish made of wheat, butter and meat, all stewed together. - آش جو - جو مقشر سوکها دهي - نام ايک کهانے کا جس کو هريسہ کهتے هيں

کشک *kushk*, (*cont.* of کوشک), a palace, mansion. مخفف کوشک کا - قصر - محل

کشک *kishik*, *f.* watching, guardianship, vigilance. پاسباني - چوکيداري

کشکاب *m.* barley water. آش جو

کشکچي } کشکدار } *m.* a watchman, guard, porter. پاسبان چوکيدار

کشکول *m.* a beggar, a beggar's cup or wallet. بڑا پيالہ بهيک کا جو فقيروں کے پاس هوتا هے

کشمش *f.* raisins, a small kind of stoneless raisin, commonly called by Europeans the Sultana raisins. ايک قسم کے سوکهے انگور

کشنيز *m.* coriander (*Coriandrum sativum*). دهنيا مشهور هے

کشودن (*r.* کشاے) *inf.* to open, to reduce (a fortress), to subdue or conquer. - کهلنا کهولنا

کشور *m.* a climate, country, region. - ملک ولايت

کشيدہ *a.* ready, prepared. مراد مستعد سے کمر

کشيدن *inf.* to draw, extend, prolong, (*met*) to copulate. کهينچنا - مجازاً جمع کرنا

کشيش *m.* a head, a leader, a priest, a monk, a clergyman, head of a religious order of the Nazarites and the heathens پيشوا اور معلوم اور پادري اور زاهد اور عابد نصرانيوں اور بت پرستوں کا

کشيشان *pl.* of کشيش جمع کشيش کي

کعب *m.* the heel, the ankle, a cube, a die or play-bone, a kind of children's play, name of a companion of Mahomet, Ka'b Bin Zabir. شتالنگ - ٹخنہ - چوکور هڈي کا پانسہ جس سے جوا کهيلتے هيں - اصطلاح علم حساب ميں تيسرا درجہ عدد کا - لڑکوں کے ايک کهيل کا نام - نام ايک صحابي کا يعني کعب بن زبير

کعب الغزال } کعب غزال } *m.* a kind of sweetmeat made of rice (or fine flour) butter and ghee, (according to some) a kind of sweetmeats, sugarcakes of a spongy texture). - ايک قسم هے شکر پارہ کي بعضے کهتے هيں کي اس کو هندي ميں بتاشہ کهتے هيں

کعبتين *dn.* the two dice or square play-bones, small cubes with numbers from one to six. دو چوکور پانسے هڈي کے چهرقمي اور شش پهلو جن کے هر پهلو پر ايک سے چهہ تک کے عدد کهدے هوتے هيں

کعب لنگري *n.* name of a man who was very greedy and gluttonous. نام ايک شخص کا جو بڑا لالچي تها خصوصاً کهانے پر

کعبہ *m.* The square building, the temple of Mecca stands in the midst of the city and is honoured with the title of مسجدالحرام *i. e.*, the sacred or inviolable temple. What is principally reverenced in this place, and gives sanctity to the whole is a square stone building called the کعبہ, as some fancy, from its height, which surpasses that of the other buildings in Mecca, but more probably from its quadrangular form, and بيت الله Bait Allah, *i.e.*, the house of God, being peculiarly hallowed and set apart for

His worship. The length of this edifice, from north to south, is twenty-four cubits, its breadth from east to west twenty-three cubits, its height twenty-seven cubits, the door, which is on the east side, stands about four cubits from the ground, the floor being level with the bottom of the door. In the corner next this door is the black stone. On the north side of the Kaaba, within a semicircular enclosure, fifty cubits long, lies the white stone, said to be the sepulchre of Ishmael, which receives the rain water that falls off the Kaaba by a spout, formerly of wood, but now of gold. The Kaaba has a double roof supported within by three octangular pillars of aloes wood, between which, on a bar of iron, hang some silver lamps. The outside is covered with rich black damask, adorned with an embroidered band of gold, which is changed every year, and was formerly sent by the Khalifas, afterwards by the Sultans of Egypt and is now provided by the Turkish emperors. At a small distance from the Kaaba, on the east side, is the Station or Place of Abraham, where is another stone much respected by the Muhammadans. To this temple every Muhammadan, who has health and means sufficient, ought once, at least, in his life to go on pilgrimage, nor are women excused from the performance of this duty. نام بيت الله يعني خدا کے گھر کا جو شهر مکة ميں هے اور جس کي طرف نماز ميں سجدہ کرتے هيں - اصلي معني اس کے بلند کے هيں - چونکة کعبة زمين بلند پر هے

کعک (*cor.* of کاک), a short thick bread, also a *chupatee*. معرب کاک کا

کعوبت *f.* a misfortune, hardship, a bad presage. کهوست - دشواري

کعيت *f.* the nightingale, بلبل جو پرند مشهور هے

کف *f. kaff*, *n.* the hand, the palm, concealment, blinding, a religious mendicant's habit made up of patches, a morsel. - پنجه هاتهه کي هتهيلي - پوشيدة هونا - اندها کرنا - خرقة - لقمة

کف *kaf*, *n.* the palm, the sole of the foot, foam, froth, spittle, scum. - هاتهه کي هتهيلي پانوں کا تلوا - پهين - پهينا - جهاگ

کفات (*pl.* of کافي), the wise, directors, managers, agents, the responsible. - جمع کافي کي - عقلمند - اور کار گذار اور ضامن لوگ

کفار *kufar*, (*pl.* of کافر), infidels, idolaters. جمع کافر کي

کفار *kaffar*, the dark night, a peasant, farmer, a river, very ungrateful, infidel. اندهيري رات - کسان - ندي - دريا - بڑا نا شکرا - بڑا کافر

کفار *kuffar*, (*pl.* of کافر), infidels, idolaters. جمع کافر کي

کفارة *m.* penitence, penance, atonement, expiation for sin. گناهوں کا چهپانے والا يعني عوض خطا يا گناہ کا شرعي طور پر

کفاف *kafaf*, *m.* pittance, daily bread, *a.* equal, adequate. اندازة - اس قدر معاش جو کفايت کرے - روز مرے کا خرچ

کفالت *f.* pledge, pawn, security, responsibility. ضامن هونا - کفيل هونا - اپنے ذمة پر کوئي کام لينا - ذمة داري

کف الخضيب *m.* name of a red star in the north. نام ايک ستارہ کا جو سرخ رنگ اُتر کي طرف آسمان پر هے

کفانيدن *inf.* to cause to be torn, rent or burst. پهٹوانا - شق کرنا

کفاءت resemblance, similarity of condition in persons about to be married. هم مثل هونا - هم مانند هونا

کفايت sufficiency, enough, abundance, plenty, surplus, economy, thrift, profit, gain, pledge, security, responsibility. - بس هونا کافي هونا - نفع لينا - ضامن هونا

کف پا the sole of the foot. پانوں کا تلوا

کفت *p. t.* cleft, rent, burst, torn, split. صيغة هے ماضي کا کفتن سے شق کيا - چيرا - پهاڑا

کفتار *m.* a hyena, an animal between the wolf and the dog, common in Syria, *f.* an enchantress, sorceress, a witch, a hag. نام ايک جنگلي درندہ جانور کا جس کو هندي ميں هندار کهتے هيں - زن ساحرة - جادو گرني - ڈائن

کفتن *inf.* to rend, to split, to crack, to cleave. چيرنا - پهاڑنا - شق کرنا

کفتين (*dn.* of کفه), both the scales of a balance. تثنيه کفه کا هے يعني تولنے کي ترازو کے دونوں پلے

کفچہ *m.* a ladle, a spoon, a skimmer, the hood of a snake. ڈوئي - کفگیر - سانپ کا پھن

کف حصیب *f.* the palm (of the hand) stained with حنا (*Lawsonia mermis*). دست حنا بستہ - هاتھہ کي رنگین هتھیلي

کف دست the palm of the hand. هاتھہ کي هتھیلي

کفر *kufr, m.* ingratitude, atheism, paganism, infidelity, incredulity. ناشکري - خدا کو واحد نا جاننا

کفر *kafr*, hiding, concealing, a large goblet, pot or jug. چھپانا - بڑا کوزہ

کفران ingratitude, being ungrateful to one's benefactor. نعمت کي ناشکري

کفرہ (*pl* of کافر), infidels, idolaters. جمع هے کافر کي

کف زنان clapping (his) hands. تالیاں بجاتا هوا

کفش *f.* a shoe, a slipper (high-heeled and shod with iron) جوتي

کفش دوز *m.* a shoe-maker. موچي

کفشک *f.* a tight shoe. چھوٹي جوتي - تنگ جوتي

کفک palm of the hand, froth, scum, soap-sud. هاتھہ کي هتھیلي - پاني اور صابن اور دودھہ وغیرہ کا پھین

کف کردن *id.* to eat (anything) کوئي چیز کھانا

کفگیر *n.* a large spoon, a ladle. ڈوئي - بڑا چمچہ

کفل *kafal*, the buttocks, the haunches the hip (of an animal), the crupper of a horse. سرین - آدمي یا حیوان کا چوتڑ

کفل *kifl*, part, portion, piece, a kind of cloth used as a saddle حصہ - کسي چیز کا ٹکڑا - وہ کملي جو چوپائے کي پیٹھہ پر ڈالتے هیں

کفل گرد کردن *id.* to become fat. مراد موٹے هونے سے

کفن *m.* a shroud, (coffin), that which clothes or covers a dead body, a winding-sheet. مردہ کا لباس جس میں اُس کو لپیٹ کر دفن کرتے هیں

کفن پارہ کردن *id.* to grow well, to recover (from sickness), to overcome misfortune or weakness. بیماري سے صحت پانا - ضعف اور آفت سے نجات پانا

کفنی *f.* a special kind of cloth put round the neck of a corpse, (also) a dress worn by fakeers ایک خاص طور کا کپڑا جو مردے کے گلے میں پھناتے هیں - اور فقیر لوگ بھي ویسا هي پہنتے هیں

کفو *n.* alike, equal, resembling, *m.* tribe, caste, family, brotherhood, congener, of the same species. هم جنس - هم نسب - مانند - مثل

کفور *kufur, f.* ingratitude, infidelity. - ناشکري - ناسپاسي

کفور *kafur, a.* very ungrateful, infidel. بڑا ناشکرا - ناشکري کرنے والا

کفہ *m.* the hem of a gown. پیراهن کا حاشیہ

کفہ *m.* scale (of a balance), any thing as round as a scale. ترازو کا ایک پلہ - جو چیز کے مثل پلہ ترازو کے گول هو

کفیدن *inf.* to be torn, split or burst. پھٹنا

کفیل *m.* a security, ransomer, surety, hostage, bail (meaning the person). - ذمہ دار - ضامن - دوسرے کا کام اپني خوشي سے اپنے ذمہ لینے والا

کل *kal, a.* scald-headed, bald. جس کے سر پر بال نہو - گنجا

کل *kall, a.* dumb, dearth, a heavy burden, a load, an orphan, humble, dazzling (of the eyes, bluntness (of the tongue). - گونگا - گراني - بھاري بوجھہ - یتیم - عاجز هونا - زبان کا کند هونا - آنکھہ کا چوندھیا جانا

کلا *n.* green grass. هري گھاس

کلاب *kilab*, (*pl* of کلب), dogs جمع کلب بمعني کتے کي

کلابہ *m.* a clew, a hank, skein, a reel. سوت کي لکڑي

کلات *m.* a village, a fort on a hill, a grappling in wrestling. قریہ - گانؤں - پہاڑ کے اوپر جو قلعہ هو - نام ایک پیچ کا کشتي سے

کلاتہ *m.* a small village, a field. - چھوٹا گانؤں - کھیت

کلاسہ *m.* (a house) built of bricks, mortar and lime. جو چیز چونہ سے بني هوئي هو یعني پختہ

کلاشکن *m.* a kind of rich and hard *halwa*, (made of sugar, ghee and best floor). ایک قسم هے حلوا کي جو نہایت سخت هوتا هے

کلاغ *m.* a crow, rook, raven. جنگلي کوا

کلاغ زدن } *id.* to taunt to upbraid, to
کلاغ گرفتن } slander, to backbite. - طعنہ دینا - هجو کرنا

کلافہ *m.* a skein, a hank, a clue سوت کي لکڑي

کلال *kallal, n.* exhaustion, fatigue, weariness from bodily exertion. - تکان - اعضا کي سستي - تھکن

کلال *kulal, m.* a potter. اسگر - کمھار

کلاله *m.* curled hair, curled locks. گهونگهر والے بال - زلف پيچدار

کلام صمدانی *m.* the word of God, the book of revelation which among Musalmans means of course the Quran. کنایه کلام الهي اور وحي سے

کلاں *a.* large, great, big, elder. لمبا - بڑا

کلاني *f.* greatness, superiority, lengthiness بڑائي - لمبائي

کلاوه *m.* a ball of thread, a skein. سوت كي ککڑي - کچا سوت جو چرخه کے تکلے پر لگا هوا هو

کلاه *m.* a cap, hat, tiara, crown ٹوپي اور بمعني تاج بادشاهي

کلاه افگندن
کلاه انداختن
کلاه بر کشیدن
} to pay one's respect, to salute by taking one's hat off the head (as the Europeans do), to be humble. مراد تعظیم کرنے سے اس لئیے که بعضے ملکوں میں تعظیم کے واسطے اپنے سر سے ٹوپي اُتار لیتے هیں جیسے که معمول اهل فرنگ کا هے اور بمعني عاجزی کرنے کے بهي مستعمل هے

کلاه بر آسماں انداختن
کلاه بهوا انداختن
} *id.* taste, delight, perfect joy, happiness, luxury, competence, ease. کنایه هے کمال ذوق اور خوشي اور خوشحالي اور شاه ماني سے

کلاه گوشه شکستن *lit.* to put one's cap on the head slantwise, hence to boast, to be proud. کنایه هے ٹیڑهي ٹوپي پهنے سے - فخر اور غرور کرنا

کلائته *m.* protection, watchfulness, guardianship. حفاظت - نگهباني

کلب *kalb, m.* a dog, a hound. سگ - کتا

کلب *kalib, a.* biting, mad, insane. کاٹنے والا - دیوانه

کلب عوا *m.* a whining dog کتا بهت فریاد کرنے والا

کلب کلاب *m.* mad dog, a biting dog. دیوانه کتا - کاٹنے والا کتا

کلبه *m.* a small dark and narrow house, a hut, closet, cottage. چهوٹا سا گهر تنگ و تاریک - اور بمعني گوشه و حجره دوکان کے بهي آیا هے

کلبتیاں
کلبتیں
} *n.* tongs, large pincers, (also) snuffers سنداسي - سنسي - گرم لوها پکڑنے کا اوزار - گلگیر - شمع

کلپتره *m.* improper, foolish, meaningless. نادرست - بیهوده - بے معني

کلبتاں *m.* a shameless pimp, a cuckold, pander. دیوث - بے شرم - بهڑوا

کلته *a* small, little, tail clipt, stutterer, stammerer, a club, a cudgel, (*met*) every-thing worthless. اندک - تهوڑا - دم کٹا - توتلا - ڈنڈا - سونٹا - مجازاً هر شے ناقص کو کهتے هیں

کلس *m.* quicklime, mortar, *chunam.* ایک سفید چونا جس سے عمارت بنتي هے

کلف *m.* spot, on the face (*met.*) a lover.

کلف *kolf,* strong liking for any thing. کسي چیز پر عاشق هونا

کلفت *f.* trouble, vexation, distress, hardship, grief. تکلیف - رنج - سختي - کدورت

کلک *kilk, f.* a hollow reed, a pen, a piece of reed from which pens are made. هر ایک کے جو اندر سے خالي هو خصوصه اقلام کا نیزه

کلک *kalak, n.* ashes, an oven, a lancet, (also) unfortunate, unblest, trouble, adversity, headache. خاکستر - راکه - بهڑبهونجے کا بهاڑ - فسد کهولنے کا نشتر اور بمعني شوم - نامبارک - بلا - سختي - درد سر

کلک *kalk, f.* the bosom, the armpit. - بغل آغوش

کلکج *a.* quarrelsome, contentious, querrulous. لڑنے جهگڑنے والا

کلک وسپ *m.* a very poor man who owing to poverty sleeps on the ground in summer, and on an oven in winter. نهایت محتاج اور مفلس شخص

کلکل *a.* parting, loquacity. بیهوده گوئي

کلل *kalal, n.* the crest, the comb. پروں کا چیته اور کلغي

کلل dumbness. گونگا پن

کلم *kalm,* inflicting a wound on, wounding. زخمي کرنا

کلم *kalim,*
کلمات *kalimat,*
} *pl.* of کلمه جمع کلمه کي

کلمطالبرق flashing (as lightning). *i.e.,* with sudden and vivid flash (as lightning). مثل چمکنے بجلي کے یعني نهایت جلدي اور بهت هي جلدي

کلمرغ *m.* a kind of vulture whose head and neck are furnished with a reddish wrinkled skin, beset with short black hairs ایک قسم کد سرخ سر کي جس کے سر پر پر نهیں هوتے

کلمکل *m.* noise, tumult, uproar. شور - غل غوغا

کلمه *m.* a word, speech, saying, part of speech, the Mahometan confession of faith. کلمه نعل - لفظ مفرد جو بمعني هو

کلند *m.* a spade, an instrument for digging, a pick-axe. کهیت کهودنے اور زمین کهودنے کا آهني آله - بهاوڑا - کهي

کلک (changed form of کلند), *m.* a spade, pickaxe. بدل کلند کا اس لئے کہ فارسي میں دال کاف سے بدل جاتي ھے ۔ پھاوڑا

کلنگ *kulang*, *m.* a fowl of a large breed, crane, heron. نام ایک پرند مشھور کا جو سارس سے مشابہ ھے جس کو کونج بھي کہتے ھیں

کلوا (you) eat. صیغہ جمع امر حاضر کا ھے ۔ کھاو

کلوب *kullub*, *n.* a large pincers, tongs. سنسي گرم لوھا پکڑنے کي

کلوخ *m.* a clod of earth. ڈھیلا مٹي کا

کلوخ انداز *m.* a slinger, the loop holes, small openings in a fortification through which small arms are discharged. گوپھن مین رکھکر پتھر کا مارنے والا ۔ قلعہ کي دیوار کے رندے یعني سوراخ جن میں سے بندوق دشمن کي فوج پر مارتے ھیں

کلوخ خشک برلب مالیدن *id.* to keep a thing secret, to keep a thing to oneself. کنایہ ھے کسي بات کے مخفي اور پوشیدہ رکھنے سے

کلوخ کوب *m.* a mallet for breaking clods, a pounder. بڑے ڈھیلوں کے کوٹنے کا آلہ ۔ موگري درمٹ

کلوم *kulum*, *m.* many wounds. جراحتھا ۔ بہت سے زخم

کلہ *kula*, (*cont.* of کلاہ), a cap, etc., *penis*, copulation. ہاے ملفوظ سے مخفف ھے کلاہ کا ٹوپي

کلہ *killa*, a small tent of a very fine cloth keep off the flies and mosquitoes. باریک اور مہین کپڑے کا چھوٹا خیمہ جو فقط مکھي اور مچھر کے نہ آنے کے لئے بناتے ھیں

کلہ بر کلہ زدن *id.* to vie with, to compete with. کسي کے ساتھہ دعوی برابري کا کرنا

کلہداري *f.* sovereignty. بادشاھي

کلہ قند *m.* a lump of sugar which has been crystallized in an earthen pot. قند کا کوزہ

کلي *kulli*, *f.* total sum, the whole. *a.* universal, total, all, every. جسکے مفہوم میں بہت سے افراد شامل ھوں

کلیات *pl.* of کلي جمع ھے کلي کي

کلیچہ *n.* a kind of leavened bread. میدے کي خمیري روٹي

کلیچہ شدن *id.* to assemble, to gather. کنایہ مجتمع ھونے سے

کلید *f.* a key کنجي ۔ تالي

کلیدان *m.* a lock قفل

کلیسا *m.* Christian or a Jewish church, a synagogue. گرجا ۔ عبادت خانہ یہود اور نصاری وغیرہ کا

کلیل *f.* lisping tongue, a blunt sword, every blunt thing, (anything worthless or useless) توتلی زبان ۔ کند تلوار ۔ ھر چیز کند جو اپنے کام میں ناقص ھو

کلیلہ *m.* name of a jackal whose story is written in the book called Kalila Damna. نام ایک گیدڑ کا جس کا قصہ کتاب کلیلہ دمنہ میں لکھا ھے

کلیم one who speaks to another, a familiar, wounded, a title of Moses, who was called موسی کلیم اللہ Moses the speaker with God. سخن گو ۔ ھم سخن ۔ بات کرنے والا ۔ مجروح ۔ زخمي ۔ لقب موسی کا اس لئے کہ آپ انثہ خدا سے کلام کرتے تھے

کلیہ *kulliya*, *m.* totality, a general, universal. تمام و کمال ۔ ھمکي

کلیہ *m.* a kidney. گردہ جو ایک عضو اندروني ھے

کلیتین (*dn.* of کلیہ), both the kidneys. تثنیہ کلیہ کا ۔ دونوں گردے

کم *kam*, how much? who many? much. چند ۔ کتنا ۔ بسیار ۔ بہت

کم *kamm*, quantity (of anything). مقدار کسي چیز کي

کم *kumm*, (*pl.* of اکمام), a sleeve جمع اکمام ھے ۔ آستین

کم *kimm*, (*pl.* اکمام), a calyx, the outer covering of a flower, the flower cup. جمع اس کي اکمام ھے ۔ غلاف شگوفہ

کماۃ *kammat*, *m.* a white mushroom resembling an egg. ایک سفید چیز ھے بشکل سماروغ ۔ انڈے یا چتری جو اکثر موسم برسات میں زمین سے اُگتي ھے ۔ ھفنبي نکرمتہ

کماۃ *kummat*, (*pl.* of کمي), the soldiers, the valiant, the brave, the intrepid. سپاھي لوگ ۔ دلاور لوگ

کماج *n.* a kind of unleavened bread. ایک قسم کي موٹي روٹي

کما حقہ as it ought, in a proper manner, exactly. جیسا چاھیئے ۔ جیسا اُس کا حق ھے ۔ بہت ھی ٹھیک

کماد hot cloth or any fomenation applied to an afflicted part, a cataplasm, poultice. تکمید ۔ تکور لگانا ۔ سینکنا کسي عضو کو کسي چیز سے جسکو آگ پر گرم کر لیا ھو

کمال *m.* perfection, excellence, completion, conclusion, punctuality, name of the two famous poets. تمام ۔ تمام ھونا تخلص دو شاعر مشھور کا

کمالات (*pl.* of کمال), perfections, excellencies. جمع ھے کمال کي

کمام *kimam*, a cover for the mouth of a camel which hinders him from biting, a muzzle. وہ چھینکا جو اونٹ کے منھہ پر باندھہ دیتے ھیں تا کہ وہ کسي کو نہ کات سکے اور نہ کسي کا کھیت وغیرہ چر سکے

کمان پشت *m.* a hunchback, a humpbacked person. کبڑا

کمانچہ *m.* the bow of a fiddle, a plectrum. ایک مشہور ساز کا نام جس کا گز بجانے کا آلہ بشکل کمان ھوتا ھے

کماندار *m.* an archer, one armed with a bow. کمان رکھنیوالا

کمان رستم، کمان شیطان } *m.* the rainbow. - قوس قزح دھنک

کمان کسي کشیدن *id.* to overpower, to overcome, to confront, to face, to oppose. کسي کا ھم مقابلہ ھونا - کسي پر غالب آنا

کمان گروھہ *m.* a catapult. وہ کمان جس میں مٹي وغیرہ کا گلہ رکھکر مارتے ھیں - غلیل

کمانہ *m.* a carpenter's bow for working a borer. بڑھئي کے برما چلانے کي کمان

کماهي as things are, as the affair stands. *f.* nature or real state (of a thing). جیسا کہ وہ مقدمہ ھے

کم بخت *a.* unfortunate, unlucky. کم نصیب

کم بودگي *f.* indigence, poverty. - نادادي مفلسي

کمتر *a.* less, least, smaller. بہت کم

کمتر روز گار *m.* a short period, a short time تھوڑي مدت

کمترین *a.* least, very small. بہت ھي کم

کمثري *n.* a guava, *Psidium Guajava*). امرود مشہور میوہ ھے

کمخاب silk worked with gold and silver flowers, brocade. ایک قسم کا کپڑا زریں تاروں سے بنا ھوا

کم خویش گرفتن *id.* to take oneself for the dead. اپنے کو معدوم اور نابود سمجھنا

کمر باختن *id.* to lose courage, to be hopeless, to feel oneself powerless for fear or sorrow. ھمت ھار دینا - رنج و غم یا خوف و دھشت سے بے طاقت ھو جانا

کمر بستن *id.* to get ready, to resolve, to gird one's loin مستعد خدمت کا ھونا - کسي کام کے کرنے پر آمادہ ھونا

کمر بستہ *m.* ready, prepared, an attendant, a servant. موجود - مستعد - کنایہ ھے نوکر اور خادم سے

کمر کشادن *lit.* ungirding the loins, to quit service, to give up doing a work. کسي کام کو ترک کردینا

کمزن *a.* spiritless, talkless, *i.e*, keep quiet. کم ھمت - چپ رہ

کمک *f.* aid, assistance, help, reinforcement (in a battle). اعانت اور مدد خواہ جنگ اور لڑائي میں خواہ کار و بار میں

کم گرفتن *id.* to refuse, to take a thing, to see one with an eye of contempt, to disregard. کسي چیز کا نا لینا - اور کنایہ ھے کسي کو بحقارت دیکھنے سے

کمم *n.* name of a tank in Cashmere. کلم ایک تالاب کا کشمیر میں

کمند *f.* a halter, a noose, a snare, a lasso. اصل میں خمند تھا - ایک قسم کا پھندا بہت مشہور ھے

کمند حلقہ کردن *id.* to get ready, to fight or shoot. جنگ اور لڑائي اور شکار کرنے پر مستعد اور آمادہ ھونا

کمون *m.* cummin seed. زیرہ

کمہ *m.* one who is born blind. مادر زاد اندھا ھونا

کمي *a.* valiant, brave, intrepid, an armed soldier. سپاھي - دلاور - دلیر آدمي جو ھتھیار بند ھو

کمیاب *a.* scarce, rare, improcurable. جو کم دستیاب ھو

کمیت *kumait*, *m.* bay (colour of a horse) grape wine of the reddish brown colour, name of an Arabian poet ایک قسم گھوڑے سرخ رنگ کي جو سیاھي مائل ھوتا ھے - سرخ شراب انگوري جو مائل بہ سیاھي ھو - نام ایک شاعر عرب کا

کمیت *kamiyat*, *f.* quantity, that property in virtue of which a thing is measurable. چندگي - مقدار اس چیز کي جو تولي یا ناپي یا گني جاے

کمیز *m* the urine. پیشاب

کمیزدان *m.* a thin sac in animals containing the urine, bladder. پیشاب کا پھکنا

کمین *f.* an ambush, the act of lying in wait in order to surprise. کسي جگہہ پوشیدہ ھوکر بیٹھنا - دشمن یا شکار کے واسطے کسي کي گھات میں بیٹھنا

کمینگاہ *f* an ambuscade or place of ambush. وہ جگہہ جہاں کوئي شخص کسي کي گھات میں چھپ کر بیٹھے

کمینہ *a.* mean, base, abject, defective. کم تبلا - نیچ

کُن *kun*, be (thou), it also points to the phrases کُن فیکون or کُن فکان be and it was, or be and it is, as epithets of Omnipotence. صیغہ امر کا ھے بمعني ھو جا - ھو - اور اشارہ ھے طرف حکم حق سبحانہ جل شانہ کے جو روز ازل میں موجودات کے پیدا ھونے کے باب میں ھوا تھا

کِن *kin*, dress, garments, vestment, concealing, covering. پردہ - پوشش

کُن *kun*, *imp.* do (thou) کر

کَن *kan*, (in *comp*) digging. کھود

کِن *kin*, behind, after, in the rear, in pursuit. *m.* the rear, the heel. پس - عقب - پیچھا

کنار *kinar*, *m.* side, edge, margin. کنارہ کسي چیز کا - گوشہ - طرف

کنار *kanar*, *m.* bosom, embrace. بغل - آغوش

کنار *m.* the plum. بیر مشھور پھل ھے

کنّاس *kannas*, *m.* a sweeper, person of the lowest caste, generally a sweeper or employed in the meanest and dirtiest occupations, called حلالخور because everything is lawful food to him, an executioner (and hence as an adjective) cruel, hard-hearted. خاکروب - حلالخور - بھنگي - چوڑھا - جلاد - گردن مارنے والا

کناسہ *m.* things collected by sweeping, rubbish, sweepings. کوڑا کرکٹ - وہ چیز جو جھاڑو سے بھاري جاے

کنام *m.* the place where the animals rest, the birds nest, a meadow, a pasturage. چوپاے - جانوروں کي آرامگاہ - جنگلي پرندوں کا جھونجھہ - چراگاہ

کنانہ *kanana*, *a.* old, ancient; antique. کھنہ - پرانا

کنانہ *m.* quiver, a case or sheath for arrows ترکش جس میں تیر رھتے ھیں

کنایہ *m.* hint allusion, metaphor, an ironical expression, wink, nod, sign. سخن پوشیدہ - پوشیدہ کھنا بات کا

کنائس (*pl.* of کنیسہ), temples, Christian churches, Jewish synagogues. جمع ھے کنیسہ کي - مندر اہل یھود اور نصاری وغیرہ کے عبادت خانے

کنب *n.* the hemp leaves and seeds. بھنگ کے بیج اور پتي

کنب dirt (of the hands and feet), filth, ordure.

کنّة *kannata*, *f.* a daughter-in-law. زوجہ پسر بیٹے کي زوجہ

کنّة *kunnata*, *m.* a canopy, a gallery. دروازہ کا چھجہ - سائبان

کُنج *m.* corner, a confined place, a grove. کونا - گوشہ

کنجارہ *m.* the dregs of mustard seeds, etc., after the oil is pressed out, oil-cakes. تل یا السي وغیرہ کا تیل نکالنے کے بعد جو ثقل باقي رھے - ھندی کھلي

کنجد *m.* the grain sesame which yields a fine oil. تل ایک قسم کا غلہ ھے جس سے تیل نکالا جاتا ھے

کنجشک *f.* a sparrow. چڑیا ایک پرند مشھور ھے

کنج کاوي *f.* search, investigation, thought, care, anxiety, meditation, reflection, تجسس - تلاش - وقت غور - فکر - سوچ

کند (*corr.* form, is قند), *m.* white sugar. sugar-candy, a wound, a sore, fleeing, شکر سفید - جراحت - زخم - اور بمعني بھاگنے کے بھي آیا ھے

کند آور *a.* wise, learned, powerful, a wrestler. دانا - حکیم - پھلوان

کند پیر *f.* a very old woman. عورت بڑھیا - فرتوس

کندر *m.* gum olibanum. نام ایک گوند کا

کندن *inf.* to dig, to erase, extirpate *m.* digging, extirpating, giving up, (also in the sense of رمیدن) to fly in terror. کھودنا اور بمعني بھاگنے کے بھي آیا ھے

کندو *n.* a big jar for storing grain. بڑي مٹھور جس میں غلہ بھرتے ھیں

کندوري *f.* a linen (or leather) table-cloth, a feast or ceremony observed in honour of holy personages, at which prayers are offered up in their behalf, and food distributed. When this feast is celebrated in honour of فاطمہ only women (and those the most virtuous) can partake : no male is ever permitted to see the food dressed on this occasion and set apart for an offering to the prophet's daughter. دستر خوان طعام

کندہ *m.* a block, the stock, an instrument of punishment confining the offender's ankles. وہ - ھر لکڑي جو بھت موٹي اور بڑي ھو - اٹھہ سوراخ دار جس کے سوراخ میں گنھگار کا پانوں دیکر میخ سے بند کر دیتے ھیں

کندہ شدن *id.* to be imprisoned, to be confined, to be shot. بند ھونا - قید ھونا

کندہ کاری *f.* the art of engraving. کسي چيز پر کچھ کھودنا

کندہ کردن *inf.* to engrave. کھودنا

کنز (*cor.* of گنج), a treasury, name of a theological book, name of a lexicon. معرب گنج کا - خزانہ نام ایک کتاب کا علم فقہ میں - نام ایک لغت کا

کنش *kanish*, *a.* envy, malice, jealousy, enmity کینہ - دلي بیر

کنش *kunish*, *m.* action, labour, deed, act, business, practice. کردار - عمل

کنشت *n.* Christian church, a Jewish synogogue, a temple of idolaters and fire worshippers. بتخانہ - آتشکدہ - یہود اور نصاری وغیرہ کا عبادت خانہ

کنعان *n.* the fourth son of Ham, (and according to the Mohamedans) the son of Noah, who was an infidel, the land of Canaan, the country inhabited by the posterity of Canaan (a son of Ham and grandson of Noah), who were hence called Canaanites The boundaries of Canaan were Mount Lebanon on the north, the wilderness of Arabia on the south, and the Arabian desert on the east, name of Nimrod's father. حضرت نوح کے بیٹے کا نام جو کافر تھا - نام یعقوب کے شہر کا - نام نمرود کے باپ کا

کنف *kanaf*, side, shore, shelter, protection. جانب - کنارہ - پناہ

کن فکان } کن فیکون } (*met.*) the creation, the existed beings. کنایہ عالم موجودات سے

کنگ *a.* fat, corpulent, robust, strong-bodied. فربہ - موٹا - قوي هیکل

کنگ *king*, *a.* shameless, immodest, bold. بیحیا - زبان آور

کنگ *m.* the wing, the arm, the branch (of a tree). انسان کا بازو - پرند جانور کا پر

کنگاش counsel, deliberation, advice. - مشورہ باهم صلاح

کنگر (*cont.* of کنگرہ). مخفف کنگرہ کا

کنگرہ *m.* a pinnacle, a turret, spire, vidette. جو عمارت کے اوپر بناتے هیں - چاروں طرف مشهور هے

کنگش (*cont.* of کنگاش), counsel, deliberation. مخفف کنگاش کا مشورہ

کنندۂ در خیبر alludes to Ali. کنایہ حضرت علي سے

کنود *kanud*, *n.* ungrateful, thankless, a land where grass does not grow. - ناسپاس - ناشکرا وہ زمین جس میں گھاس نہ اُگے

کنود *kunud*, *f.* ingratitude. ناسپاسي - ناشکري

کنوز (*pl* of کنز), treasuries, etc. جمع هے کنز کي - خزانے

کنون *adv.* now, presently. اب - اسي وقت مخفف اکنون کا

کنہ *m.* substance quantity, measure, space, whole, total, extreme. - حقیقت - ماهیت انتہا کسي چیز کي (هاے ملفوظ سے)

کنہ *m.* a tick or louse (of dogs and sheep.) ایک چھوٹا جانور جو کتے وغیرہ کے جسم میں چمٹ کر خون پیتا هے (هاے غیر ملفوظ سے)

کنیت *kunyat*, *f.* a patronymic, a metaphor, a name taken from the father, mother, etc., of the person signified such as the Arabian names beginning with ابن or بن son, بنت daughter, or the Celtic appellations beginning with *mac*. وہ نام جس کے اول میں لفظ (اب) یا (أم) یا (ابن) یا (بنت) هو جیسے ابوالحسن - ابوبکر - أم الکتاب - ابن حاجب وغیرہ

کنیز } کنیزک } *f.* a female servant, a hand-maid, a slave girl, (also) a virgin. باندي - لونڈي - اور بمعني کنواري لڑکي کے بھي آیا هے

کنیسہ *m.* a temple, a Christian church, a Jewish synagogue. مندر - معبد - عبادتخانہ نصاری یہود وغیرہ کا

کو *ku*, a broad street, square, market place, lane, a residence or abode. گلي - کوچہ - اور بمعني محلہ اور گھر کے بھي آیا هے

کواعب *pl.* of کاعب جمع کاعب کي

کواعب انجم the constellations of the Great Bear. بنات النعش

کواکب (*pl.* of کوکب). stars, constellations. جمع کوکب کي - روشن ستارے

کوبہ *m.* a wooden instrument for beating terraces, etc., with. موگري

کوبیدن *inf.* to be at, to pound, to bruise. کوٹنا

کوپال *m.* an iron mace or club. لوهے کا گرز (واو معروف سے)

کوپلہ *m.* a bubble, a flower, a bud, a lock, a cap. واو مجهول سے - حباب - بلبلہ جو پاني اور رقیق شے میں پڑتا هے - شگوفہ - قفل - کلاہ - ٹوپي

کوتاہ *a* small, little, short, mean. چھوٹا

کوتاہ بین *m.* one who sees a short way, dim-sighted, (*met.*) improvident, imprudent indiscreet, wanting foresight, unambitious. ناعاقبت اندیش - پست همت

کوتاهي *f.* smallness, shortness, meanness, littleness, deficiency. چهوتائي

کوتر *m.* a pigeon. کبوتر

کوته (*cont.* of کوتاه, مخفف کوتاه کا

کوته نظر *a.* improvident, imprudent, indiscreet, wanting fore sight, unambitious. ناعاقبت اندیش - پست همت

کوثر *m.* very libral, munificent, charitable, one of the rivers of paradise, which (as the Mohamedans say) is whiter than milk or silver and more odoriferous than musk of which water whoever drinks will thirst no more for ever. بڑا سخي - بڑي بخشش کرنے والا - نام ایک نهر کا درمیان جنت کے هے

کوچ marching, decamping, departure. روانه هونا

کوچک *a.* small, little, diminutive, name of of a mode in music. چهوٹا - نام مقام کا باره مقاموں موسیقي سے

کوچک دلي *f.* cruelty, oppression, discouragement, (also) mercy, compassion, kindness, lenity بیرحمي - پست همتي اور بمعني نازک دلي و ترحم کے بهي لکها هے

کوچه *m.* a lane, a street, a narrow passage, a row. گلي

کوچه بند *a.* safe, also a lane which has two doors on both the entrances and can be closed at will for safety. محفوظ - وه گلي جس کے دونوں طرف دروازے هوں اور جو محافظت کے لئے آساني سے بند کر سکیں

کوچه خموشان *m.* a graveyard, a cemetery. قبرستان

کوچه دادن *id.* to leave the way for one to pass. کسي کے لئے رسته چهوڑ دینا که وه نکل جاے

کوچه نو *m.* a brothel, a street where the prostitutes live. مراد کسبیوں کے محله سے

کوخ *m.* a house with dark rooms, a kind of grass of which they make mats, insects, worms, (as in در فلاں چیز کوخ افتاده) خانه بے روزن - اندهیرا مکان - ایک قسم کي گهاس جس سے بوریا بناتے هیں - اور بمعني کیڑا

کود *m.* a heap of grain, a barn, a granary. غله کي کهریاں کا توده یعني انبار

کودک *m.* a youth, a youngster, a boy. - لڑکا بچه

کودن *m.* a horse of little value used to carry burthens, (*met.*) *a.* weak in mind, dull, foolish, silly, an idiot. مریل ٹٹو جو اچهي طرح نه چل سکے - وه خچر اور ٹٹو وغیره جو بوجهه لادنے کا هو - مجازاً وه شخص جو احمق اور بیوقوف هو

کور *a.* blind اندها

کور چشم *m.* a kind of cloth. ایک قسم هے کپڑے کي

کور چشم حریر *m.* a kind of silken cloth. ایک قسم ریشمي کپڑے کي

کوریں *m.* a blanket, a cloth made of hairs. کمل - پوستیں بالوں کا موٹا کپڑا

کور مقري *a.* one who is born blind. اندها مادر زاد

کورنش *f.* a kind of salutation, which consists in raising the hand to the forehead and bending the head and shoulders forwards, adoration. جهک کر ادب سے سلام کرنا

کورنشات (*pl* of کورنش) جمع کورنش کي

کوره *m.* a fire-place, an oven, brick kiln, a city, town, population. آتشدان - بهٹي - پژاره جهاں اینٹیں وغیره پکائي جائیں - شهر - قصبه - آبادي (واو معروف سے)

کوري *f.* blindness. اندها پن

کوز *m.* a goblet, a pot or jug with a handle. کوزه اور هر برتن جس میں دستے لگا هو

کوز *m.* hump-backed. خمیده - کبڑا

کوز پشت } *m.* a hump-back, a hunch-
کوزه پشت } back جس کي پیٹهه کبڑي هو گئي هو

کوزه *m.* a goblet, pot or anything of the sort with a handle, a long-necked earthen pot for water, a jug or mug, a kind of rose. برتن دسته دار

کوس *m.* a large kettle drum, pounding, beating, a blow, adversity, a file, a rank, hem or border of a cloth, hint, sign, a kind of game بڑا نقاره - کوٹنا واو مجهول سے - (کوفتن) - صدمه - لشکر کي صف - فوج کي قطار - نام ایک قسم کي بازي مشابه شطرنج کے - جامه کا گوشه اور کناره - ایما اشاره

کوست *m.* a blow, an adventure, adversity. صدمه

کوستن *inf.* to pound, to beat, to bash, (meat, etc). کوٹنا

کوس زدن *id.* to oppose, to confront, to face an enemy, to be prepared for an attack. مقابله حریف کا کرنا - لشکر کے پرے کو آراسته کرنا

کوشک *m.* a palace, a lofty building a villa. بلند مکان - محل - قصر

کوشیدن *inf.* to strive, to make efforts, to try. کوشش کرنا

کوف *m.* an owl. بوم - الو

کوفتن *int.* to pound, to beat, to hash (meat, etc). کوٹنا

کوفتہ *m.* one who has received a blow, one who is sick or tired in a journey, a kind of dish made of minced meat, (*met*) whatever money is earned by panderism. وہ شخص جس کو صدمہ پہونچا ہو - یا بیمار ہو - یا محنت سفر وغیرہ سے تھک گیا ہو - قیمہ - گوشت کے ایک قسم مشہور کے کباب - اور اصطلاحاً جو کچھہ کٹنا پے اور دیوثي کیوجہ سے حاصل ہو

کوک *f.* a very high shrill voice, the name of a vegetable, the seed of which is good for a cold, lettuce (*Lactuca sativa*). آواز جو بہت بلند اور باریک ہو - تخم کاہو جو مشہور ھے - (واو مجہول سے)

کوک *kuk*, *a.* blue. کبود اور نیلہ رنگ (واو معروف سے)

کوکب *m.* a star, a constellation. ستارہ روشن اور بڑا

کوکبہ *m.* a star, a multitude, a party, group, (*met.*) dignity, rank, pomp, stars made of gold and silver, tinsel, etc., as ornaments or insignia of rank. ستارہ - انبوہ - گروہ - جماعت - مجازاً بمعني شکوہ - حشمت - بزرگي - بادشاہ کي فوج کے سواري کے آگے کا جلوس

کوکلتاش *m.* a foster-brother. برادر رضائي یعني دودھہ شریک بھائي

کوکن *m.* an owl. الو - بوم

کوکنار *m.* (this word is compounded of کوک cough, and نار a pomegranate), the poppy plant (*Papaver*), which is a remedy for cough. پوست کا ڈوڈا

کوکو *m.* the cooing of a dove, also a dish made from the eggs called. فاختہ کي آواز - کوکو پلاؤ ایک قسم کا پلاؤ

کوکہ *m.* a foster-brother. دودھہ شریک کا بھائي

کول *m.* a tank, a pond, a pit. تالاب - گڑھا

کولاب *m.* a tank. تالاب

کون *kaun*, that which exists, the universe. ہونا - ہو جانا - ہست ہونا اور بمعني دنیا اور اس جہان کے مستعمل ھے

کون *kun*, *m.* the anus, podex, the back-side. مقعد - پاخانہ کا مقام

کون خریدن *id.* to be ashamed, to be abashed, to feel penitent. پشیمان ہونا

کون خر *a.* ignorant, silly, foolish, indiscreet, an idiot. نادان - احمق - بیوقوف - بے عقل - بے تمیز

کونستہ *m.* a nosegay, a bouquet, a buttock. گلدستہ - آدمي کا چوتڑ

کون و فساد act of creating and annihilating. موجود ہونا - اور پھر تباہ ہو جانا - ہو کر ہست جانا

کونین *dn.* the two worlds, *i. e.*, the present and future, or the world of mortals and that of immortals. یہہ جہان اور وہ جہان یعني دنیا اور دین

کوہ *m.* a mountain, a hill پہاڑ

کوہان *m.* the hump of a camel, the hump or the height of the shoulders of a bullock. اونٹ کي پیٹھہ کا کوبڑ - بیل کے شانہ کي بلندي

کوہپایہ *m.* a small mountain, a hill, a rising ground. ٹیلہ

کوہ رحمت *n.* name of a mountain near Mecca. نام پہاڑ کا قریب مکہ کے

کوہستان *m.* a mountainous country. جہان بہت سے پہاڑ ہوں

کوہ سنج *m.* very mild and suffering (a man). بڑا جفا کش

کوہکن the title of a celebrated Persian statuary, Farhad, who to please his mistress Shirin, dug through an immense mountain. لقب فرہاد کا جو شیریں پر عاشق تھا

کوہہ *m.* a protuberance (of a thing) the hump of an ox or camel, (*met.*) a man's shoulder, attack, invasion, expedition. بر آمدگي یعني ابھرا پن ہر چیز کا - اونٹ کي پیٹھہ اور بیل کے کندھے کي اونچان - مجازاً انسان کا کندھا اور بمعني حملہ اور نہیب کے بھي آیا ھے

کوے *m.* a lane, a street, a narrow passage. گلي - کوچہ

کہ *kah*, (*cont.* of کاہ), grass, straw. مخفف کاہ کا - سوکھي کٹي ہوئي گھاس

کہ *kuh*, (*cont.* of کوہ), a mountain. مخفف کوہ کا - پہاڑ

کہ *kih*, *a.* small, little, tender, mean. چھوٹا - کوچک - رتبہ

کہ *ki*, this word is used in various ways, 1st as a *rel. pron.* who, which, that, 2nd as *conj.* that, since, for. جو - وہ - یعني

کہانت *f.* office of a priest, divination, soothsaying. غیب کي بات بتلانا - فال گوئي

کہبد *kuhbad*, *m* a pious dervish living in a cave, a monk. زاهد اور درویش کوہنشین

کہبد *kihbad*, *m.* a money changer, a treasurer. صراف - خزانچي

کہتر *a*. less, very small, junior, mean, low بہت چھوٹا - نہایت حقیر

کہر *m*. bay (colour of a horse or mule). کمیت رنگ گھوڑے اور خچر کا

کہربا *m*. (*lit*. straw attracting) amber, *Oriental* anime (gum resin from the *Vateria Indica*). گھاس اُٹھانے والا - یہہ ایک قسم کا گوند زرد رنگ چمکدار ہوتا ہے اگر اس کو چمڑے پر خوب گھسیں اور جب یہہ گرم ہوجاے اور اس کو گھاس کے باریک تنکے کے پاس لے جائیں تو یہہ اس کو کھینچ لیتا ہے

کہف *m*. a cave, a large cavern, a grotto. غار - گڑھا - پناہ

کہکشاں *m*. Galaxy, the Milky Way, that long luminous track in the heavens formed by a multitude of stars. ایک لمبي باریک - باریک - سڑک آسمان پر ستاروں کي جیسے دودھہ کي سڑک بھي کہتے ہیں

کہل *m*. a middle aged (man). مرد میانہ سال یعني جو شخص نہ جوان ہو نہ بوڑھا - ادھیڑ

کہلہ *f*. a middle-aged woman. ادھیڑ عورت

کہن
کہنہ } *a*. old, ancient, faded (as a garment). پرانا

کہنہ *kahana*, (*pl*. of کاهن) soothsayers, seers, etc. جمع کاهن بمعني فال دیکھنے والے اور غیب کي بات بتانے والے کي

کہنہ سوار *m*. an excellent rider, a champion wrestler, head of all other wrestlers. شہسوار - بڑا پہلوان - کشتي گیروں کا خلیفہ

کہنہ نعمتہ *m*. cunning, artful, experienced. مکار - حیلہ گر - تجربہ کار

کہول *m*. a middle-aged person, just past the prime of life, a gray-bearded man ادھیڑ - و جس کي ڈاڑھي میں سفید اور سیاہ بال ہوں

کہین
کہینہ } *a*. young, little, small, the youngest. کوچک تر - بہت چھوٹا

کے when ? who many ? a great king especially the kings of Persia of the Kyanian dynasty), just, noble, benevolent, courteous, well-born. یہہ کلمہ واسطے استفہام زبان کے آتا ہے بمعني کب - اور بمعني شہنشاہ - بلند قدر - عادل - لطیف - اصیل کے بھي ہے

کي marking the body with a hot iron. داغ کے لوہے کو آگ میں گرم کرکے کسي عضو کو داغ دیتے ہیں

کي *m*. a master, brave, powerful, clean. pure. پہلوار - خداوند - پاکیزہ

کیاد *kayyad*, very cunning, artful. بڑا مکار - بڑا حیلہ گر

کیاست *f*. ingenuity, quickness of parts (or great vivacity), cunninguess. دانائي - زیرکي عقلمندي

کیال *kayyal*, *m* a weigher, a measurer of grain in a village ناپنے والا - تولنے والا - کسي چیز کو پیمانے سے پیمائش کرنے والا

کیان *m*. the mighty kings, and these are four in number, 1. Kaikaus, 2. Kaikhusru (Cyrus) 3. Kaiqbad, 4. Kai Labrasp. بادشاهان عظیم‌الشان اور یہہ چار بادشاہ گذرے ہیں (۱) کیکاؤس (۲) کیخسرو (۳) کیقباد (۴) کے لہراسپ

کیت و ذیت in this and that manner. بمعني چنان و چنین

کید *kaid*, *m*. deceit, fraud, treachery, artifice. مکر - فریب - حیلہ بد سگالي

کید (*con*. of کیدار), name of an Indian Raja, name of a Hindu God, a falling star, a comet. یاے مجہول سے مخفف کیدار کا - نام ایک ہند کے راجہ کا - نام ایک هندوؤں کے دیوتا کا - نام ایک ستارہ منحوس کا جس کو کیت کہتے ہیں

کید قطاع *m*. the comet, a heavenly body having a luminous tail or train, it is believed by the Indians, that the comet shortens life. نام ایک ستارۂ منحوس دم دار کا جو قطع کرنے والا عمروں کا ہے

کیخسرو *n*. Cyrus, the Elder, the founder of the Persian empire. The history of his life was overlaid in ancient times with fables and romances. نام ایک بڑے بادشاہ عجم کا

کیر *m*. *penis sive membrum virile*. پیشاب کرنے کا عضو

کیس *a*. wise, learned, ingenous. - زیرک دانا - عقلمند

کیس
کیسہ } *m* a purse. کیسہ - تھیلي

کیست (from کے who and است is). کون ہے

کیش *f*. habit, nature, faith, religion, manner, quality, a quiver, an island at the mouth of the Persian Gulf, name of an animal of whose skin they make garments, box-tree (*Meniusk*), a check (in chess) یاے مجہول سے ہو - عادت - دین - مذہب - ترکش جس میں تیر رکھتے ہیں - نام شہر کا جزیرہ فارس میں - نام ایک جانور کا جس کي کہال کا پوستین بناتے ہیں - درخت شمشاد

کیف how ? in what manner ? uncompounded radical, (*met*) lust, passion, intoxication, an intoxicating, drug. - کیونکر - چگونا
یہہ لفظ واسطے پوچھنے احوال آتا هے - اصطلاح
وہ عرض جو بذاتہ تقسیم قبول نہ کرے - معنا
بمعني نشہ - وہ چیز جو نشہ اور بیهوشي لاوے

کیفہ *m.* a small tin box used for keeping intoxicating confections. وہ ڈبیہ جس میں
نشہ کي معجونیں رکهیں

کیفر *m.* revenge, vengeance, retaliation, punishment for a wicked deed. - بدي کا بدلہ
برے کام کي سزا

کیف و کم how and how much ? چگونہ اور چند

کیفیت *f.* story, statement, account, relation, state, circumstances, quality, mode.
چگونگي - حالت - وہ وصف جو کسي چیز میں هو
گیا هو

کیقباد *lit.* true, just. *n.* name of a great king of Persia, who was very licentious. He reigned for a century. لفظي معني اس کے
عدل برحق - نام ایک بادشاہ عظیم الشان کا عجم
کے - یہہ بادشاہ بڑا عیاش تها - اور اس نے سو
برس بادشاهت کي هے

کیک *m.* a flea, (in Bathan) a red biting insect. پسو ایک مشهور کیڑا هے بهان میں لکها هے
ایک کیڑا کاٹنیوالا سرخ رنگ

کیک در شلوار افتادن / کیک در موزہ افتادن } *id.* to be fidgety or uneasy. - بیقرار اور
مضطرب هونا

کیکاؤس *n.* name of a great king of Iran, name of Muaz ud-din Kaikobad the king of Delhi's brother. نام ایک بادشاہ عظیم الشان
کا ایران کے - نام معزالدین کیقباد دهلي کے بادشاہ
کے بهائي کا

کیل weighing, mesuring, measuring of grain, a certain measure for goods, dry or liquid. پیمائش کرنا - تولنا - ناپنا - کسي
پیمانہ سے آنکنا اناج وغیرہ کا - یہہ لفظ بمعني پیمانہ
کے بهي آیا هے

کیلہ *m.* a certain measure for goods, dry or liquid. پیمانہ

کیمیا *m.* fraud, mockery, artifice, alchemy, an obsolete science, aiming at changing metals into gold, etc., (In Persian) look of a saint ; love. مکر - حیلہ اصطلاح میں رانگ کو چاندي اور
تانبے کو سونا بنانا - اور چونکہ یہہ عمل خالي مکر
اور فریب سے نہیں هے - اس واسطے اُس کو کیمیا کہتے
هیں - فارسي کي اصطلاح میں پیر و مرشد کامل کي
نظر اور عشق کو کیمیا کہتے هیں

کیمیا گر *m.* fraudulent, artful, deceiving, a chemist, an alchemist. مکار - فریب کرنے والا
اور کیمیا بنانے والا

کین *m.* hatred, enmity, rancour, malice, spite. کینہ - بغض - دشمني

کیونت *f.* the creation. آفرینش - پیدایش

کینہ توز *m.* one who foments dissensions and lawsuits, malevolent, malicious rancorous.
کینہ اندوز - دل میں کینہ رکهنیوالا - کینہ نکالنیوالا

کینہ کش *m.* spiteful, malicious, rancorous, inimical, vindictive, malevolent. جو شخص
دشمني رکهتا هو

کیوان *m* the planet Saturn, (*met.*) the seventh heaven. نام ایک ستارہ زحل کا جو
ساتویں آسمان پر هے - مجازاً ساتویں آسمان کو بهي
کیوان کہتے هیں

کیوبت *f.* defeat, ill-condition. شکستگي - بدحالي

کیوس (*pl.* of کاسہ) cups. جمع کاسہ بمعني
پیالہ کي

کیومرث (*cor.* of گیومرث), landlord, name of a great king who ruled first of all in this world. معرب هے گیومرث کا - ترکیبي معني
اِس کے مالک زمین کا - نام ایک بادشاہ عظیم الشان
کا جس نے پہلے پہل جہان میں بادشاهي کي هے

کیہان they, those, the world. - بروزن ایشان
بمعني جہان - زمانہ - دنیا

— گ —

گ *gaf*, called, *kaf-e-ajami* (the Persian *kaf*, it being unknown in the Arabic), is the twenty-sixth letter of the Persian alphabet. گ is always hard as in *gift*. never like that of *g gem* or *gentle*. The Arabs sometimes substitute ج for گ as لجام for لگام, a bridle. The people of India, on the other hand often substitutes گ for ک as کاگز or کاگج for کاغذ paper. In reckoning by ابجد it counts 20 the same as ک (the preceding letter).

گا (in *comp.*) a doer or agent as خدمتگار, ستمگار, an attendant, a tyrant, (also), worthy of, deserving as رستگار, deserving liberty, (also) cause, reason, means, as روزگار means of subsistence, etc. بمعني کرنے
والے کے آتا هے جیسے ستمگار - خدمتگار - اور لایق کے
معني میں بهي آتا هے جیسے رستگار بمعني لائق رهائي
پانے کے - اور بمعني سبب کے بهي جیسے روز گار
بمعني سبب روزي شب وغیرہ

گاز *n.* a pair of scissors, snuffers, green grass given as fodder to the horses. - قینچي - مقراض - گلگیر جس سے شمع کا گل اترتے ھیں - اور بمعني هري گھاس کے بھي جو خوراک گھوڑے وغیرہ کي ھے

گازر *m.* a washerman, a fuller, a bleacher. دھوبي

گازرون *n.* name of a place. نام ایک مقام کا

گازہ *m.* a cradle, small bed in which children are rocked. جھولہ جس پر لڑکے وغیرہ جھولتے ھیں

گاہ *m.* a place, a spot or site, position, locality. جگھہ - جا - مقام

گال *m.* a small grain, millet (*Panicum italicum*), complaint, a cry for mercy, fraud, deceit, a jackal. نام ھے ایک بہت چھوٹے غلہ کا جسکو هندي میں کنگني کہتے ھیں - اور بمعني فریاد اور فریب اور مکر کے بھي - اور بمعني گیدڑ کے بھي

گام *m.* a pace, step, rein, a bridle, a bit. قدم - پیر - وہ فاصلہ جو رستہ چلنے میں دونوں پاؤں کے بیچ میں ہوتا ھے - گھوڑے کي لگام

گام کشادن *id.* to start, to set out, to move from its place. روانہ هونا - چلنا

گان *a.* worthy of, deserving, suitable. - لائق - سزا وار

گان
گانہ } (as an affix in Pers.) time or fold. یہہ الفا عدد کے آخر میں واسطے تعین تعداد کے آتے ھیں جیسے دوگان - سہ گان وغیرہ

گاو *f.* a bullock, an ox, a kind of goblet shaped like an ox. - بیل جو جانور مشہور ھے - ایک قسم کي صراحي جو بصورت گاے کے بنتي ھے

گاؤ آھن *m.* a ploughshare, that part of a plough which cuts the ground at the bottom of the furrow. ایک لوھا هوتا ھے نوکدار جو ھل میں لگا هوتا ھے اور اُس سے کھیت کي زمین جوتي جاتي ھے - هندي میں اسے پھارا کہتے ھیں

گاؤ در خرمن کردن *id.* to disgrace, to ruin, to spoil a matter, to injure. کسي کا کام خراب کرنا - کسي کو رسوا کرنا - تباہ کرنا

گاؤ دم *f.* a trumpet, a bugle a tribe. - قرنائے - بگل - نفیري - ترهي

گاؤ دوشہ
گاؤ دوش } *m.* a pail or any thing in which a cow is milked. گاے وغیرہ کے دودھہ دھنے کا برتن

گاؤ رس *m.* a kind of grain. نام ایک غلہ مشہور کا جسکو هندي میں باجرہ یا چنیہ کہتے ھیں

گاو بس نقرہ گون *m.* the blackish marks in the steel of welltempered scimitars. مراد تلوار کے جوھر سے جو خراساني اور اصفہاني فولادي تلواروں میں هوتا ھے

گاو ریش *m.* a droll, a jester, a buffoon, a fool, a greedy man. لالچي - مسخرا - احمق

گارزاون act of inheriting (a legacy an estate), having the possession of a property, acquisition of a great benefit. میراث اور ترکہ پانا - بڑا نفع حاصل هونا

گاو زمین *m.* the bull on whose back the earth is supported and that bull is on the back of a fish. وہ بیل جس کي پیٹھہ پر زمین ھے اور وہ بیل مچھلي کي پیٹھہ پر ھے

گاو زور *m.* a wrestler. کشتي لڑنے والا پہلوان

گاو زوري *f.* violence, brute, force, great strength. کشتي لڑنے کي قوت

گاوسار
گاوسر } *n* name of Faredun's mace which was shaped like an ox. نام فریدوں کے گرز کا جس کا سر بصورت بیل کے بنا تھا اور اسي سے یہہ نام رکھا گیا

گاو عنبر *m* the sea cow, from whose dung the Persians suppose ambergris to come, (*met.*) a rich person from whom every one is benefitted. ایک جانور دریائي جو گاے سے مشابہ ھے کہتے ھیں کہ عنبر اسي کا گوبر ھے - اصطلاحاً گاو عنبر کنایہ ھے اُس امیر اور مالدار سے جس سے لوگوں کو فائدہ پہونچے

گاؤ نور *m.* a droll, a jester, a buffoon, a fool, ignorant, silly. احمق - نادان - مسخرہ

گاؤ گردون *m.* the sign Taurus. کنایہ برج ثور سے

گاہ *f.* time, place, tent, a royal throne, a throw of the dice, etc. - وقت - جگھہ - خیمہ - تخت شاهي - جوے کا داؤ

گاہ گاہ *adv* repeatedly, again and again, sometimes. کبھي کبھي

گائیدن *inf.* to embrace, to copulate, *cum muliere congredi.* جماع کرنا عورت سے

گپ *f.* conversation, talk, speech, word, society, intercourse, uttering falsehood, bragging, boasting, prattling, tattling. کلام - سخن صحبت - اختلاط - اور بمعني جھوٹھہ بولنے - بڑائي کرنے شیخي مارنے - فضول بکنے کے بھي آیا ھے

گبر *gabr, m* a fire-worshipper, a follower of Zoroaster, an infidel, one who does not believe in the Mohamedan faith. آتش پرست - آتش پرست - آگ کا پوجاري

گبز fat, fleshy, hard. موٹا - سخت - دلدار

گچ *m* mortar, cement. عمارت کا چونہ - مرتب

گد (*cont.* from گدیه), poverty, indigence. مخفف - گدیه کا گدائي

گدا *m.* a beggar a mendicant. فقير - بهیک مانگنیوالا

گداختن *inf.* to melt, to be melted, to dissolve, to be infusion. پگهلنا - پگهلانا

گدازش *f.* melting, dissolution. پگهلاهت - گلنا

گداز melting, mild, gentle, affable, (in *comp.*) melting, or melter, (*met.*) exterminating. پگهلنا - پگهلانے والا - ختم کرنے والا

گدائي *f.* poverty, beggary, mendicity, want. بهیک مانگنا

گداے شب گرد *m.* a mendicant who begs at night from door to door. وہ فقير جو رات کو هر شخص کے دروازے پر جاکر بهیک مانگے

گدیه *m.* poverty, beggary, mendicity. بهیک مانگنا - گدائي

گذار *m.* a ferry, a passage, passing, performing, executing, paying, (in *comp.*) forwarding, paying, executing. راه - ادا کرنا - ادا

گذاردن *inf.* to quit, to abandon, to dismiss, (with a ز) to pay. - ترک کر دینا - چهوڑ دینا - راے هوز سے بمعني ادا کرنا

گذارش or گزارش *f.* payment, a petition, request, representation explanation. ادا کرنا (هاے هوز سے بهي درست هے)

گذاره *m.* passage, passing exceeding the limit, perfect, extremity. هر چیز کے حد سے گذر جاوے اور بمعني پ حد - بیحساب - کامل - بهت

گذاشتن (*r.* گذار), to quit, to abandon, to dismiss. چهوڑ دینا

گذر *f.* a passage, a ferry a ford, passing, elapsing, *imp.* pass (thou) ... اور صیغه ا ... کا یعني بمعني گذرتو

گذران *f.* life, passing employment, livelihood. ... خرچ کرتي هوئي

گذرانیدن *inf.* to pass (one's life) to enjoy one's self. ... ک اڑا

گذربان *m.* a guardian at any pass a road-watch, an officer who collects the ... ms at ferries. راهدار - محافظ راه کا

گذر گاه *f.* ferry, ford, passage. جگهه گذرنے کي گهاٹي

گذشت *p. t.* passed, a ferry, a passage, a ford, (also) after, behind. ... ماضي ... هے بمعني گذرا اور بمعني راه - گذرگاه اور بمعني بعد اور بعد کے بهي آیا هے

گذشتن *inf.* (*r.* گذر) to pass, to cross over (a river etc.), to elapse. گذرنا

گر (*contr.* from اگر) *conj.* if; the itch, the scab, the mange, (in *comp.*) a maker or workman, possessor. اگر - جو - مرض - خارش اور ایک کلمه هے بمعني بنانے والا ہونے والا جیسے شیشه گر - حیله گر - اور بمعني صاحب اور رکهنے والے کے بهي جیسے توانگر

گرا *garra*, a cupper, phlooo, tomist, scarifier, a barber, a slave. حجام یعني پچهنا مارنے والا - غلام

گراز *m.* a hog, a boar, valiant, brave man, a tyrant, walking affectedly, a harrow, a spade, a pickaxe. خوک نر - سور جو نر هو اور بمناسبت اس کي دلیري اور شجاعت کے بمعني مرد دلیر اور بهادر کے بهي آتا هے - اور مرد ظالم اور ستمگر کو بهي کهتے هیں - ناز سے اتهلا کر چلنا - اور بمعني پهاوڑا اور کدال جس سے زمین کهودي جاتي هے

گرازان walking in a stately manner, moving gracefully. خراماں - اتهلا کر چلتا هوا

گرازي *f.* brave, valour, courage. کنایه جرأت اور دلیري سے

گرازیدن *inf* to walk in a stately manner, to move gracefully, to walk affectedly. ناز سے اتهلا کر چلنا

گرامي *a.* revered, great, excellent, elegant. بزرگ

گراں *a* heavy, important, precious, dear, *m.* a person whose presence may be a burden to the others. بهاري - مهنگا - بیش قیمت - وہ شخص جس کي موجودگي لوگوں پر دشوار هو

گراں ارزش } گرانبها } *a.* costly, very precious. بیش قیمت

گراں جان *m.* oppressed in mind, lazy, slothful, indolent, tremulous from old age. مرد سخت جان - بڑا کاهل اور سست - اور معني بوڑها

گرانجاني *f.* laziness, indolence, slothfulness. سستي - کاهلي - سخت جاني

گراں رکاب *a.* affable, considerate, enduring, patient, suffering, bearing a burden, authoritative, majestic, powerful, brave, bold and dexterous in war, gallant, honourable, reputed, steady, constant. - متحمل با تمکین - ... بار - صاحب وقار - وہ شخص جو لڑائي اور جنگ میں ثابت قدم هو

گراں سایه *a.* noble, w ... honourable, respectable, exalted, possessing a high dignity, majestic, authoritative. بلند مرتبه - عالي قدر - صاحب شکوه - پرتمکین

گران سر *a.* proud, boastful. مغرور - متکبر

گران سنگ *a.* respectful, authoritative, patient, enduring, contented. - باوقار - باتمکین - صابر - صاحب بھاري بھرکم - قناعت والا

گران کردن رکاب *id.* to ride (as on a (horse-back). سوار ھونا

گرانمایه *a.* precious, fine, of noble birth, of great worth. بیش قیمت - عمدہ بلند مرتبہ

گرانمایگان *m.* heads, chiefs, nobles. مراد سرداروں سے

گراني *f.* weight, burden, scarcity, dearness of provisions, etc., grief, vexation or heaviness of spirit. - بوجھہ - بھاري پن - مھنگي

گراے inclination, wish, desire, affection, regard, partiality, fondness, aptitude. میل - رغبت - خواھش - قصد - اور صیغہ امر کا بھي ان معنوں میں

گرایش inclination, wish, desire, regard, fondness, aptitude. خواھش - رغبت - میل

گرائیدن *inf.* to have an affection or inclination towards. خواھش کرنا - رغبت کرنا

گربال *f.* a sieve for sifting floor. آٹا چھاننے کي چھلني

گربز *a* artful, cunning, fawning, flattering, seductive, *lit.* hypocrite, a wolf in a lamb's clothing. مکار - دغاباز

گربه *m.* a cat. بلي

گربه بید *m.* kind of willow. نام ایک قسم کا درخت بید کا

گربه درانیان *a.* artful, cunning, fraud, deceit مکر - حیلہ - مکار

گربه در بغل داشتن *id.* to cheat, to defraud, to play a trick. مکر و حیلہ کرنا

گربه گرن *a.* artful, treacherous, deceitful, cunning, a knave, "an artful dodger." مکار - حیلہ گر - دغاباز

گرچ *gurch, f.* a slice or piece of a melon or any other fruit. خربوزہ وغیرہ کي پھانک

گرچ *girch,* mortar, cement. گچ جو عمارت کے کام آتي ھے

گرچه (for اگرچه) *conj.* although. اگرچہ

گرد *gard, f.* dust, a city, a kind of fine silk. the sun, grief, sorrow, benefit, gain. - دھول اور بمعني شھر - ایک قسم کا نفیس ریشم - آفتاب غم - نفع

گرد *gurd, m.* strong, valiant, a hero. - دلاور پھلوان

گرد *m.* round, a circle, environs, parts adjacent, *postpos*, near, about. حلقہ - گول

گرداب *m.* a whirlpool, an abyss, a gulf, a vortex. بھنور

گرداگرد *m.* all round, round about, on every side. چاروں طرف - سب طرف

گردانیدن *c.* to cause to revolve, to avert, turn away. لپیٹنا - لوٹانا

گرداوري *f.* government, rule, patroling, inspecting. حکومت

گرد باد *f.* a whirlwind. بگولا

گرد بالش *m.* a small round pillow, laid under the cheek, a large cylindrical pillow. گول تکیہ - گول تکیني

گرد بر *m.* a carpenter's gimlet. بڑھئي کا برمہ

گرد بر آوردن *id.* to trample, to tread under foot, to destroy, to ruin, to spoil, to efface. پائمال کرنا - ھلاک کرنا - برباد کرنا - خراب کرنا - مٹا دینا

گرد بر آمدن *id.* to make a vigorous search, to find a thing, to walk about in search of a thing. کسي چیز کي تلاش و تجسس میں چاروں طرف پھرنا

گردش *f.* turning round, revolution, vicissitude, reversion, circulation. دورہ

گردک *m.* a tent, a closet, a chamber, a kind of loaf, an enigma, riddle, a nut, a nutmeg. - خیمہ - حجرہ - ایک قسم کي روٹي چیستان - پہیلي - جوز

گرد کردن *id.* to make round, to gather, to collect. گول کرنا - جمع کرنا

گرده کان *m.* a walnut. اخروٹ جو مشھور میوہ ھے

گردن *gurdan, m.* valiant, brave, powerful. پھلوان - دلیر

گردنان *m.* the brave, the powerful heroes. بھت سے پھلوان اور دلاور

گردن باریک *a.* soft, mild, obedient. - ملائم مطیع - تابعدار

گردن بر افراخته *id.* strong, powerful, strong-bodied, honourable, respectable. قوي - زور مند - عزت دار - طاقت ور

گردن پیچیدن *id.* to deny, to refuse to carry one's order, to rebel, to revolt. - انکار کرنا! کسي کے حکم سے نافرماني کرنا

گردن دادن بہ کسے *id.* to obey, to follow, to be submissive. مراد ھے مطیع اور تابعدار ھونے سے

گردن فراز *a.* proud, a man of a high rank. مغرور - صاحب مرتبہ

گردن کشادن *id.* to be proud, to boast. غرور کرنا

گردون m. the firmament, the heavens, a wheel, a carriage, a cart, a chariot, a child's go-cart, an engine for pulling up trees by the roots. آسمان - ارابه - گاڑي - چھکڑا اور بمعني رتھه اور بہل کے بھي

گردون گراے a. reputed, renowned, eminent, glorious, exalted, famous. سر بلند - نامور

گرده gurda, m. a kidney. مشہور عضو ھے

گرده girda, m. a kind of round cake but not thin. ٹکیا ایک قسم روٹي کي

گرده garda, m. a kind of powder, sketch, outline, delineation. مصوروں کا خاکه

گردي f. (in comp.) separation, misfortune, affliction. علیحدگي - تکلیف

گردیدن inf. to become, to change, to revolve. پھرنا - ھونا

گرزم m. name of Isfandiyar's real brother. نام اسفندیار کے حقیقي بھائي کا

گرزه m. the hood of a snake. سانپ کا پھن

گرس (contr. from گرسنگي), f. hunger, مخفف گرسنگي بمعني بھوکھه کا

گرستن (contr. from گریستن), to weep. مخفف گریستن بمعني رونے کا

گرسنگي f. hunger. بھوکھه

گرسنه a. hungry. بھوکیا

گرسنه چشم m. a miser, niggard, greedy, a fakeer. کنجوس - بخیل - لالچي - فقیر

گرسنه چشمي f. greed, avarice, poverty, indigence, miserliness. حرص - گدائي - بخیلي

گرفت f. a speech, word, prattling, tattling, taunt, criticism, an objection, (from گرفتن) taking, capture, seizure, retaliation, chastising, a handle, catch, clutch. - گپ طعنه - اعتراض - مواخذه کے بھي آیا ھے - صیغه ماضي کا ھے گرفتن سے

گرفتن (r. گیر), to take, to seize, to begin or betake one's self to, to pare, to cut (a finger nail), to take by the root, to pull (a tooth), to put out, to extinguish, to suppose, to shut. پکڑنا - لینا اور بمعني کاٹنا جیسے گرفتن ناخن - اور بمعني بند کرنا - اُکھاڑنا جیسے گرفتن دندان گرفتن - اور بمعني بجھا دینا - جیسے گرفتن چراغ اور شروع کرنا - اور فرض کرنا

گرفتن خاطر to be afflicted at heart. خاطر کا رنجیده ھونا

گرفتار m. a captive, a prisoner, a. involved or overwhelmed (in trouble, etc.), capture. پھنسا ھوا - پکڑا ھوا - اور بمعني گرفتاري کے بھي آیا ھے

گرفتم I supposed, I took a thing for granted مجازاً بمعني میں نے فرض کیا

گرفته m. lie, falsehood, a taunt, prattling, tattling. گپ - جھوٹھه - طعنه

گرفته زن m. one who taunts a liar, a prattler, a tattler. طعنے دینیوالا - جھوٹھه بولنے والا - گپ مارنے والا

گرگ m. a wolf. بھیڑیا

گرگ n. name of a city. نام ایک شہر کا

گرگ باران دیده m. an experienced man, one who has gained by trial or observation. شخص آزموده کار

گرگ پیر m. an experienced in business. آزموده کار

گرگ مسیحا دم (met.) the morning. کنایه صبح سے

گرگین gurgin, n. name of a famous Persian wrestler. نام ایک بڑے پہلوان ایراني کا

گرگین gargin, m. one afflicted with scabs, itchy, scabby, mangy. صاحب مرض خارش

گرگینه m. the skin. مطلق پوستین کو کہتے ھیں

گرم hot, warm, ardent, active, zealous, fiery, choleric, virulent. - تتا - سرد کلضد جلد - شتاب

گرمابه } m. a warm or hot bath, a bagnio.
گرماوه } حمام - غسل خانه گرم

گرم بجوشیدن id. to love exceedingly. بہت محبت کرنا

گرم جوشي f. warmth of affection, deep love. محبت اور اختلاط کرنا

گرم خون m. a fast friend, a bosom friend. بڑا دوست - بڑا یار

گرم خیز a. active, cunning. چالاک

گرم دماغي f. pride, haughtiness. کنایه غرور اور تکبر سے

گرم راندن id. to run, to make haste, hastening. دوڑنا - جلدي کرنا

گرمک m. a kind of best sweet melon. ایک قسم ھے عمده خربزه کي

گرمي (met.) love, affection. مراد محبت سے

گرما m. summer. گرمي کا موسم

گرنج m. the rice. چاول جو دھان سے نکلتا ھے

گرو m. pledge, pawn, mortgage, a wager, bet, (met.) captivity. رھن - شرط - داؤ اور مجازاً بمعني قید کے بھي آتا ھے

گروبستن inf. to wager, to stake at play. شرط بدنا

گروهه m. the ball of a pellet-bow, a bullet. بندوق کي گولي - غلیل کا غله

گرويدن *inf.* to follow, to admire, to feel a strong desire for. رغبت کرنا

گره *m.* a pitcher, an earthen water pot, a chatty. گهڑا - تهليا

گره بباد زدن *td* to build castles in the air. ايسے کام کا ارادہ کرنا جو نہ هو سکے

گره بر گره grief against grief, sorrow against sorrow, care against care. - غم پر غم رنج پر رنج - فکر بالاے فکر - انديشه پر انديشه

گريان weeping, one who weeps. - روتا هوا رونے والا

گريانيدن *c.* to make one cry or weep. رولانا

گريبان *m.* a coller. کنٹهه

گريختن *m. inf.* (*r.* گريز), to run away, to flee, to escape. بهاگنا

گريز *f* flight, deviation, abhorrence, aversion, abstinence, fasting, regression, fugitive بهاگنا - شعرا ميں ايک مضمون سے دوسرے مضمون پر آ جانا

گريزانيدن *inf.* to drive off, to put to flight. بهگا دينا

گريزپا *m* a slave or a she-slave who always runs away from his or her master. وہ غلام يا لونڈي جو بار بار بهاگ جايا کرے

گريستن *giristan*, to weep, to lament. رونا

گريستن هوا falling of the rain. مينهه برسنا

گريغ (changed form of گريز). ياے مجهول سے مبدل گريز کا

گريوه *m.* a low hill, an acclivity, ravine, steep, pass. پشته بمعني زمين بلند - ٹيله

گريه *m.* crying, lamentation, plaint. رونا

گز *m* an instrument for measuring with, a yard, name of the tamarisk-tree, called also in Persian شورہ گز from its growing in marshy ground, *Tamarix India* or *Divica*, in Arabic. آلہ کپڑے اور زمين وغيرہ کے پيمائش کرنے کا - جهاؤ کا درخت

گزار *m.* a lancet, a sketch, plan, delineation, (from گزاردن), paying, releasing. نصد کهولنے کا نشتر - تصوير بنانے کا خاکہ - صيغہ امر گزاردن سے

گزاردن *inf.* to pay, to release, to liberate. ادا کرنا - رها کرنا - چهوڑنا

گزارش *f.* utterance, explanation of dreams, payment, performance. ادا کرنا

گزارندگان *m.* historians, narrators. مراد راويوں سے

گزاف / گزافه } *n.* vanity, idle or foolish words and deeds, lie, falsehood, prattle, tattle, fraud, cheat, boundless, countless. - گپ - شيخي - بيهودہ - جهوٹهه - دروغ بڑائي - فريب اور بمعني بے حساب اور بے حد کے بهي آيا هے

گز الهي *m.* the standard measure of distance established by Akbar, which is very nearly thirty three inches English مراد اکبري گز سے

گزان *gazan*, stinging, biting, injuring. کاٹتا هوا

گزانيدن *c.* to cause to be stung, bitten or injured. کٹوانا

گزبازي *n.* a kind of dance. ايک قسم کا ناچ هے

گزپا *m.* crane (family *Gruidæ*) subsits on herbs, seeds, worms, frogs and slugs, they reside in marshy places rarely visiting the sea shores and are found in various parts of the world. This bird frequently measues upwards of five feet in length, and weighs about ten pounds, its gait is erect, and its figure tall and slender. The bill is about four inches long, straight, pointed, and compressed at the sides of a greenish black, turning lighter towards the point, tongue broad and short and horny at the top The forehead, to the middle of the crown, is covered with black hairy down through which the skin appears red, behind this it is nearly bare to the neck, which is ash grey. The sides of the head behind the eyes and the hinder part of the neck, are white. The space between the bill and eyes, the cheeks, and fore part of the neck are a blackish ash, greater wing coverts also blackish, and those farthest from the body, with the bastard wing and quills, quite black, the rest of the plumage is a fine waved light ash. From the pinion of each wing springs an elegant tuft of loose feathers, curled at the ends which fall gracefully over the tail, in their flexibility, position and texture resembling the plumes of the ostrich. The legs and bare part of the thighs are black and very long and I should think that it is from this foot that it is called so. The crane is migratory, and soaring high in the air,

performs the boldest and most distant journeys. In summer they spread themselves over the north of Europe and Asia as far the arctic circle, and in the winter they are met with in India, Syria, Egypt, etc. سارس ایک پرند مشهور هے اس وجهه سے که اُسکي ٹانگیں بهت لمبي هوتي هیں

گزر n. carrot (*Daucus Carota*). زردک - هندي گاجر

گز کردن to measure, to weigh - پیمائش کرنا - ناپنا

گزلک n. a knife, a dessert-knife چهري - چاقو

گز n. the tamarisk-tree (*Tamarix Indica* or *Divica*). جهاؤ کا درخت

گزند f. misfortune, calamity, loss, injury, mischief, harm, blow, a malicious look, an evil eye. - صدمه - دکهه - تکلیف رنج - آسیب - آفت - نظر بد

گزر m a drum stick. نقاره بجانے کي چوب

گزید } m. a tax, duty, tribute, import,
گزیده } excise, custom, revenue. - باج خراج - محصول

گزیده guzida, a. choosen, selected, excellent, adopted. پسندیده - اختیار کیا هوا

گزیده gazida, a. injured, bitten, alarmed. کاٹ کهایا هوا

گزیدن gazidan inf. to bite, to sting, to injure. - کاٹ کهانا - دانت سے کهانا - ڈنک مارنا جیسے بچهو کا کام هے

گزیدن guzidan, inf. (r. گزین) to select, to choose, to adopt, to approve of. - پسند کرنا اختیار کرنا - منتخب کرنا - چن لینا

گزیر aid, remedy. چارة - علاج

گزین (in *comp.*, choosing, preferring, electing. پسندیده - عمده

گزیة (*cor.* form is جزیه), m. a tribute, capitation tax levied by the Musalmans on their infidel subjects, a poll-tax. معرب جزیه هے - خراج جو کافروں سے لیا جائے

گسار (in *comp.*) removing, dissipating, assuaging as غمگسار the dissipator of sorrow *i. e.*, a sincere friend. بمعني کهانے والا جیسے غمگسار

گساردن *inf.* to dissipate, to remove to assuage, to leave. چهوڑنا - کهانا

گستاخ a. arrogant, presumptuous, uncivil, rude, cruel, (also) fearless, daring, bold. شوخ - چالاک - بے ادب اور بمعني دلیر اور بیباک کے هے

گستاخ دست a. dexterous, cleverhanded. چابک دست

گستاخ روئي f. shamelessness, immodesty, impudence. بے حیائي - بے شرمي

گستاخي f. arrogance, presumption, rudeness, uncivility. بے ادبي

گستراندن *inf.* to cause to spread (as a bed). بچهوانا

گستردن *inf.* to spread, to diffuse. بچهانا

گستهم honoured, respected, venerable, n. name of king Nozra Bin Manechhar's son, name of a famous Persian wrestler. بروزن محترم - نام نوذرا بن منوچهر بادشاه کے بیٹے کا - نام ایک بهت بڑے پهلوان ایراني کا

گستن (r. گسل), to break, to destroy, to be broken. ٹوٹنا - توڑنا

گسل (in *comp.*) breaking, destroying. صیغه امر کا بمعني توڑ

گسلانیدن *inf.* to cut, to break. کاٹنا - توڑنا

گسیختن *inf.* to be broken. ٹوٹنا

گسیل removing, parting, giving, sending, leave. دفع کرنا - رخصت کرنا - روانه کرنا - بهیجنا اور بمعني رخصت کے بهي آیا هے

گش well, good, excellent, graceful (in walking); pleasantpaced, happy. - خوب خوش رفتار

گشاد conquest, victory, happiness, opening, pulling the bow with a full force and discharging the arrow from the grip of the fingers. - فتح - ظفر - خوشي - بد آمدکار کمان کو خوب کهینچ کر تیر کو چٹکي سے رها کرنا

گشت p. became, has been, surrounding, going round (especially guards patrolling), walk, walking, perambulation, strolling. هوا - هو گیا - پهرنا - سیر

گشتاسب n. name of a king the father of Asfandyár. نام ایک بادشاه کا جو اسفندیار کا باپ تها

گشتر a. more pleasant, more beautiful. خوشتر - خوبتر

گشن f. abundance, superfluity. - بسیاري انبوهي - هر چیز کي بهتایت

گشنیز f. the coriander. دهنیا مشهور هے

گفت a word, saying, speech, discourse (generally used in compounds.) - بات چیت - گفتگو

گفتار *f.* speech, mode of speaking. - بات چیت گفتگو - تقریر

گفتگو *f.* conversation, discourse, chitchat. بات چیت

گفتن (r. گو), to say, to speak, (also) to do. کہنا - اور بمعنی کردن کے بھی آیا ھے

گفتہ spoken, told, an order or command. کہاھوا

گل *gul.* (without a genitive) *m.* a rose, (with a genitive), or flower, as گل نرگس, flower of narcissus, spark, firebrand, (*met.*) result, consequence, well, good, excellent. (*fig.*) *vulva.* بغیر اضافت کے بمعنی تنہا گلرخ بمعنی گلسرخ اور اگر مضاف کسی درخت کے طرف ھوتا ھے تو اسی دوخت کا پھول مراد ھوتا ھے جیسے گل نرگس - گل اشرفی وغیرہ - اور بمعنی آگ کا انگارہ - مجازاً بمعنی نتیجہ و بھتر و خوب کے بھی مستعمل ھے - اصطلاحاً کنایہ عورت کی شرم گاہ سے

گل *gil f.* earth, clay. مٹی - خاک پانی میں ملی ھوئی - خاک منجمد اور خشک

گلاب *m.* the rose water, the rose (Hind). (*met.*) the tear and perspiration flowing from the cheek of a mistress. گلاب کے پھولوں کا عرق - نام ایک قسم کے پھول کا - اور کنایہ آنسو اور معشوق کے رخسار کے پسینہ سے

گل ابر *m.* a piece of cloud. بدلی کا ٹکڑا

گلاب گلگون *n.* the red wine. مراد شراب سرخ سے

گلابہ *m* the prepared clay, clay dissolved in water for plastering the walls. دیوار لیپنے کی مٹی پانی میں گھلی ھوئی

گلابی *f.* a vial, a bottle, flagon, a kind of round coloured engraved glass, a pear, a guava. ایک قسم شیشہ چھوٹا اور گول

گل آتشی *m.* a kind of evergreen red rose. سدا گلاب جو سرخ ھوتا ھے

گلاچ *m.* a kind of *Hulwa* (sweetmeat). ایک قسم کا حلوا

گلالہ *m.* a curling lock, a ringlet, curled hair. گھونگر والے بال - زلف

گلان *n.* a kind of bread made of fine flour. ایک قسم کی میدہ کی روٹی

گلانی *m.* a gardener, a flower-seller - باغبان پھول بیچنے والا

گل اندام *a.* slender, delicate. نازک بدن

گلبانگ *f.* voice of the *Qalandars* warbling, sweet note of a nightingale, glad tidings, shouting with joy. قلندروں کی آواز - بلبل کی آواز - خوش آواز - خوشخبری کی آواز - لیکن بمعنی

بمطابق شور مردم کے جو شادی کے وقت میں ھوتا ھے مستعمل ھے

گلبرگ *m.* a roseleaf, (*met.*) a mistress. گلاب کے پھول کی پنکھڑی - کنایہ معشوق کی ھونٹھ سے

گلبن *m.* a rose tree. گلاب کا درخت

گلبند *m* a kind of coloured silk cloth called *Bandhnu* by the Indian people. ایک قسم کا کپڑا رنگین جس کو ھندی میں باندھنو کہتے ھیں

گل بیگانہ *m.* a rose-tree growing of itself. گل خودرو

گل پیادہ *m* a species of rose without smell. بغیر خوشبو کا گلاب جو آپسے اگے

گل تسبیح *m.* a Mohammedan priest with a rosary. تسبیح کا امام

گل جعفری *m.* French Marygold (*Tagetes patula*), well known for its handsome showy yellow flowers, held in universal esteem by the natives of India. ایک پھول ھے زرد رنگ گیندے کی قسم ھے

گل چشم *m.* a disorder in the eye, the albugo. آنکھ کی پھلی مشہور مرض ھے

گلچہرہ *a.* rosy-faced, (*met.*) a mistress. وہ شخص جس کا چہرہ مثل گلاب کے پھول کے ھو - مراد معشوق سے

گل چیدن *inf.* to gather flowers, to see the fun. پھول چننا - تماشہ دیکھنا

گلچین *m.* one who gathers the flowers, a gardener, one who sees a fun. پھول چننے والا - تماشا دیکھنے والا

گل حکمت *gil-i-hikmat, f.* lute, cement. کپڑے کو پتلی مٹی میں لتیوڑ کر مٹی یا شیشہ کے برتن پر وصل کرتے ھیں اور پھر انپر مٹی چڑھاتے ھیں تا کہ وہ برتن آگ میں پھٹ جاے

گلخن *m.* a stove, a furnace, oven, a fire place, (*met*) a place where sweepings is thrown, a dunghill آگ کی جگہہ - بھٹی - بھاڑ جس میں خاک بھونتے ھیں - آتش خانہ - مجازاً وہ جگہہ جہاں کوڑا کرکٹ ڈالیں

گلدستہ *m.* a nosegay, a bouquet. پھولوں کا مٹھا اکٹھا بندھا ھوا

گلرخ *a.* rosy-cheeked, (*met.*) a mistress. وہ شخص جس کے گلاب کے سے رخسار ھوں کنایہ معشوق سے

گل رعنا, *m.* a flower having two colours. وہ پھول جو دو رنگ کا ھو

گلرنگ *a* a rose-coloured, red, a species of fireworks. وہ چیز جس کا رنگ مثل گلاب کے پھول کے ھو ایک قسم کی آتشبازی جسکو ھندی میں پھلجھڑی کہتے ھیں

گلزار *m.* a garden (or bed) of roses. باغ

گلزار ابراهيم Nimrod had caused Abraham to be thrown into fire which by God's command turned into a bed of flowers. نمرود نے ابراهيم کو آگ میں ڈلوا دیا تھا اور وہ بحکم خدا پھولوں کا باغ بن گئي تھي

گلزرد *m.* African Marygold (*Tagetes erecta*), a flower of a yellow colour, palefaced. گیندے کا پھول - زرد رنگ کا پھول - اور مراد چہرۂ زرد سے

گلستان *m.* a rose-garden, a flower garden, the name of a well-known book written by Muslih-ud-din Shaikh Sa'di Shirazi. پھول کي جگھہ باغ

گلستان زادہ *m.* greenness of a garden, the son of a slave or a maid-servant. باغ کا سبزہ لونڈي اور غلام کا لڑکا

گل شدن *id.* to appear. ظاهر هونا

گلشکر *f.* conserve of roses. گلقند

گل شگفت (this *phr.* means) a strange thing has come to pass. عجيب و غريب امر ظاهر هوا

گل شگفتہ a flower in bloom, a sparkling spark. کھلا هوا پھول - اور مراد دھکتے هوے آگ کے انگارے سے

گلشن *m.* a flower garden, a delightful spot, place of enjoyment. پھول کا مقام - باغ - خوشي کا مقام

گل صد برگ *m.* a rose, marygold. گلاب کا پھول گیندا (هندي)

گلغنچہ
گلغونہ } *m.* cosmetic, an external application to improve the complexion, face powder. گلگونہ جو عورتیں اپنے چہرہ پر ملتي هیں

گلفام *a.* rose coloured, red, like the rose, (*met.*) a mistress. گلرنگ - گلاب کے پھول کي طرح کا رنگ - مراد معشوق سے

گلفشاں *n.* a species of fireworks. ایک قسم آتش بازي کي

گلقند *m.* conserve of roses, (*met.*) lip of a mistress. مشهور تو ھے - کنایہ معشوق کے هونٹھہ سے

گل کرد appeared, shown itself, manifested. ظاهر هوا

گل کردن *inf.* to appear, to shew, to light, to extinguish, to put out (a lamp). ظاهر اور نمودار هونا - اور مراد چراغ کے روشن کرنے اور بجھا دینے سے

گلگبچہ *m.* social joy or mirth on the sixth day after childbirth. وہ شادي اور خوشي جو بچہ کے چھٹھے کے دن کرتے هیں

گل گز resembling the colour of the flower of a tamarisk-tree which is bluish red. عباسي رنگ

گلگشت *m.* walking in the garden, a pleasant place for walking and recreation, especially if blooming with roses and other flowers. مرغوب مقاموں کي سیر

گلگوں rose coloured, name of a horse of Shirin, the mistress of Farhad, (*met*) every fine horse. سرخ رنگ - نام شیرین فرهاد اور خسرو پرویز کي معشوقہ کے گھوڑے کا - مجازاً هر عمدہ اور بهتر گھوڑے کو کهتے هیں

گلگونہ *m.* cosmetic, external application to improve the beauty. رنگ جو عورتیں اپنے چهرے پر رنگ صاف کرنے کے لئے ملتي هیں

گلگیر *m.* snuffers. شمع کے گل کترنے کي قینچي

گلمالہ *m.* a trowel, a hand tool for lifting and dressing mortar and plaster, etc. کرني جس سے معمار لوگ گارا وغیرہ دیوار اور اینٹوں پر ملتے هیں

گل مشکي *m.* name of a black flower. نام ایک پھول سیاہ رنگ کا

گل مهتاب *m.* (*Tabernæmontana coronaria*) —called *Chandnee*, "Moonbeam," by the natives common in nearly all the gardens of India, and certainly as handsome a shrub as they could contain, from four to six feet high, with lanceolate, sharp-pointed, smooth, shining leaves, five or six inches long. Flowers large, double, pure enamel-white, borne almost constantly and having a delightful appearance as they peer forth from the fine dark-leaved foliage. In the night time, it is said, they emit a delicate fragrance, in the day they are quite scentless, moonbeam peeping through the leaves of a tree. نام ایک سفید پھول کا جس کو هندي میں چاندني کا پھول کهتے هیں - چاندني کے ٹکڑے جو درخت کے پتوں کے درمیان سے زمین پر پڑتے هیں

گل میزان *m.* the planet Venus. ستارۂ زهرہ اس لئے کہ برج میزان خانۂ زهرہ ھے

گلنار
گلنار فارسي } *m.* the flower of the pomegranate, scarlet (colour), a kind of pomegranate which bears no fruit but large and double flowers. ایک قسم ھے انار کے درخت کي جس میں بجز پھول کے پھل

گل ناشگفتہ (*met.*) a virgin. مراد کنواري عورت سے

گلو *gulu*, *m.* the gullet, the throat, the windpipe. گلا

گلو بند *m.* neck-cloth. وہ رومال جو گلے سے باندھیں

گلو سوز *a.* pleasant, sweet. خوش نما - میٹھا

گلو شاخ شاخ (relating to) those tales which are read aloud to the people. کنایہ اُن داستان سے جو لڑکوں کے مجمع میں بہ آواز بلند کہي جائیں

گلولہ *m.* a bullet, a cannon ball. گولہ گولي

گلہ *gila*, *m.* complaint, lamentation, reproach, blame. شکایت

گلہ *galla*, a flock, a herd. ریوڑ - جانوروں کا غول

گلہ بان *m.* a shepherd, a pastor. ریوڑ والا - گڈریا

گل همچشمي / گل همکاري *m.* a flower sent as a challenge to fight (wrestling) with the other wrestler. گل کشتي - پھول جو ایک پہلوان کشتي لڑنے کي خواهش سے دوسرے پہلوان کے پاس بھیجتا ہے

گلي earthen made of clay. مٹي کي چیز

گلیم *m.* a blanket, a garment of goats' hair. کمل - کملي

گوے طلین (*met.*) the earth. کنایہ زمین سے

گماشتن *inf.* to send, to depute, to entrust one with full powers. مقرر کرنا

گماشتہ *m.* an agent, a factor, an envoy with full powers. مقرر کیا هوا وہ شخص جو کسي کي طرف سے کسي کام کے لئے مقرر ہو

گمان *m.* doubt, suspicion, opinion, fancy, supposition, imagination. بمعني شک

گم بودگي *f.* fearing, frightening, distraction. ڈر جانا - هراسان هونا

گمراہ *a.* erring, wandering on the wrong road, abandoned, depraved. راہ بھولا هوا

گمراهي *f.* deviation, depravity, corruption of moral principles, profligacy. راہ بھولنا

گمزن *m.* annihilating, destroying, ruining, spoiling. *m.* a destroyer. نیست و معدوم کرنے والا - خراب کرنے والا

گم کردن *inf.* to waste, to lose. ضایع کرنا

گمیز *m* urine. بول - پیشاب

گنبد *m.* a vault, an arch, cupola, dome, tower, a vaulted building, (*met*) buttock. گول عمارت اور کنایہ چوتڑ سے بھي ھے

گنبد آب *m.* a bubble. حباب - پاني کا بلبلہ

گنبد تیز گشت *met.* the heaven. کنایہ آسمان سے

گنبد چار بلند (*met.*) the world (because it has four elements), (some say the heaven (because it has four directions). کنایہ دنیا سے بہ لحاظ اربعہ عناصر کے اور بعضے کہتے هیں کنایہ آسمان سے باعتبار پورب - پچھم - اُتر دکھن کے

گنبد لاجوردي *m.* the (blue) sky. کنایہ آسمان سے

گنج *m.* a granary, heap, treasury, مال کثیر خزانہ

گنج *gunj.* capacity, containing, holding, room, profit, gain, capability (of a village respecting revenue). گنجائش

گنجارہ *m.* (see گلگونہ) بمعني گلگونہ

گنج الهي *m.* the divine treasury, *i. e.*, the word of God, the Quran. کنایہ قران سے

گنج باد آورد *m* a name of Khusro Parvez's treasure (*fig.*) a treasure for nothing. خسرو پرویز کے ایک خزانہ کا نام - اصلاحاً مال مفت

گنج یا اژدها *m.* an unprofitable wealth. مراد مال بے فیض سے

گنجدان *m.* a secret place where treasure is kept. خزانہ کي پوشیدہ جگہہ

گنج روان (*met.*) the wealth of Qarun for it is said that his wealth will sink deeper and deeper till the judgment day. کنایہ گنج قارون سے اس لئے کہ قارون کا خزانہ روز قیامت تک زمین کے نیچے دھستا چلا جائیگا

گنجفہ *m.* a pack of cards, a game of cards, the pack consists of ninety-six cards divided into eight suits. ایک کھیل کا نام جو تاش سے کھیلا جاتا ھے

گنج قارون *m.* the wealth of Qarun, applied to riches in general.

گنج گاو *m.* the treasure of Jamshed, dug up in the reign of Bahram, and distributed among the poor. جمشید کا خزانہ جو بھرام گور کي حکومت میں کھودا گیا اور غریبوں کو بانٹ دیا گیا

گنجور *m.* a treasurer. خزانچي - خزانہ رکھنیوالا

گنجہ *n.* name of a city in Iran between Tabrez and Sherdan which was the residence of Nazami. نام شهر کا ایران میں درمیان تبریز اور نوشیروان کے جهاں نظامي رهتے تھے

گنجیدن *inf.* to be contained (in a place), to have room. سمانا

گنجینہ *m.* a magazine, a treasury, (*met.*) vast riches. خزانہ - جاے گنج معہ را بمعني مال کثیر کے بھي آتا ھے

گند *f.* filth, stink, odour, bad smell. بوے بد - بدبو

گند پیر *f.* a very old woman. نهایت بوڑھي عورت

گندم *m.* wheat. گیھوں جو مشهور غلہ ھے

گندم گوں wheat-coloured, i.e., brown, swarthy. گیہواں رنگ

گندنا f. a leek (Allium porrum.) ایک قسم کي سبزي مثل لہسن کے

گندنازار m. a bed where leeks or sown. گندنے کا کھیت

گندہ gunda, thick, coarse, strong, a globular mass of leaven prepared for baking, round lump of dough prepared for making into bread or cakes. مقابل ھے باریک کے بمعني موتا - دلدار آٹے کا پیڑہ جو روٹي پکانے کے لئے گول کرتے ھیں

گندہ مغز a. proud, haughty, vain, braggart. مغرور - بڑبولا

گندہ مغزي f pride, haughtiness, vanity. بڑا بولپن - شیخي بگھارنا

گندیدن inf. to stink, to have a foul smell, to be rotten. کسي چیز کا سڑ جانا اور اُس میں سے بدبو کا آنا

گنگ gung, a. dumb, mute, speechless. گونگا

گنگ gang, m. the Ganges. نام دریاے گنگا کا

گنگي f. wit, humour, jocularity, elegance. ظرافت - خوش طبعي - دلگي

گنہ (contr. from گناہ), sin. مخفف ھے گناہ کا

گو m. a cavity, a hole, a pit, abyss, declivity, reliable, confidential, brave, valiant, great glorious, exalted, (contr. from گا) a bull, an ox. گڑھا - زمین نشیب - اور بمعني معتبر - شجاع - بزرگ - بہادر - اور مخفف گاؤ بمعني بیل کا

گو gu, f. a ball. بمعني گوے جو چوگان سے کھیلتے ھیں

گوا contr. from گواہ. مخفف گواہ کا

گوار } agreeable, pleasant, digestible,
گوارا } digesting, bearing, enduring, submitting to. کھانے پینے کي شے جو ذایقہ میں خوش مزہ اور جلد ھضم ھونے والي ھو

گوارش f. agreeableness, pleasantness of taste, digestive, stomachic medicine. گوارا ھونا - خوش مزہ ھونا - خوش مزگي - ھضم طعام - نام دواے مرکب کا جو واسطے ھضم طعام کے تیار کریں

گواریدن inf. to be digested, to be agreeable. ھضم ھونا - پسند ھونا

گوال (corr. from is جوال), a bag, sack, the half of a (horse) load. گون جس میں غلہ بھر کے ٹٹو پر لادتے ھیں - جوال اس کا معرب ھے

گوالبار m. a heavy load. بڑا بوجھہ - بارسنگین

گوان (pl. of گو), the brave, the valiant. جمع گو بمعني پہلوان و دلاور کے

گوپال m an iron mace, name of a wrestler. لوھے کا گرز - نام پہلوان کا

گوتاي false argument, false claim, prattling, tattling, lie, speaking boastingly, of one's manliness. - دعوی بے حقیقت - گپ - جھوتھہ اپنے جوانمردي کي گپ مارنا

گوچي n. a small pit, hole. چھوتًا گڑھا

گوداب m. name of a dish of the pulao kind. نام ایک کھانے کا جو پلاؤ کي قسم سے ھے

گودبار m. the hump of a camel. اونت کي پیٹھہ کا کوبڑ

گودرز n. name of a Persian wrestler, name of a king. نام ایک پہلوان ایراني کا - نام ایک بادشاہ کا

گودہ m. (human) body. تن بدن

گور gor, m. cont. from گورخر) the onager or wild ass, desert, jungle, a level plain. f. tomb, grave, (also) luxury, rest, comfort, ease, wine. جنگلي گدھا - جس واو مجہول سے - گور خر کہتے ھیں - اور بمعني صحرا - دشت ھموار - جنگل - قبر جس میں مردہ دفن کرتے ھیں

گوران نگار a picture gallery in which the pictures of onagers and other animals are painted or engraved. وہ نگارستان جس میں گورخروں اور دوسرے حیوانوں کي تصویریں نقش ھوں

گورپے کشیدہ a. conquered, subdued, overcome. مغلوب

گورچشم m. a kind of cloth. ایک قسم کا کپڑا

گور خر m. the onager or wild ass. جنگلي گدھا

گورستان m. a burying ground, a cemetery. جہاں قبریں بہت ھوں

گور کن m. a grave digger, an animal that feeds on dead carcases, the Indian badger. قبر کھودنے والا - نام ایک جانور کا جس کو بجو کہتے ھیں

گوز goz, a fart. واو مجہول سے - وہ ھوا جو پاخانہ کي راہ سے بے آواز نکلے

گور gauz, } m an elk, a rein deer, a
گورزن gawazn, } roe. بارہ سنگا

گوز gauz, (cor. form is جوز) a walnut. جوز اس کا معرب ھے - اخروت

گوسالہ m. a calf, a calf one year old. - بچھڑا گائے کا بچہ - گائے کا بچہ جو ایک سال کا ھو

گوسپند } f. a sheep, a goat. بھیڑ اور بکري
گوسفند }

گوش m. the ear, (also contr. from گوشہ) corner, the fourteenth day of every solar mouth. کان - اور مخفف گوشہ کا - چودھویں تاریخ ھر مھینے شمسي کي

گوش بردن *id.* to expect with impatience, tarrying for, waiting. منتظر رهنا

گوش پیچ pulling (or rubbing or boxing) the ears, rebuking. بمعني گوشمال

گوش تا گوش from this side to that. اس سرے سے اُس سرے تک

گوشت خر (*met.*) a useless or worthless thing. کنایۂ ایسي ناقص چیز کے جو کسي کام میں نہ آوے

گوش دادن to give ear, to hear, to be attentive. سننا

گوش داشتن to see, to bear in mind, to remember, to be attentive. دیکھنا - نگاہ رکھنا - یاد رکھنا - متوجہ هونا - دل سے سننا

گوش ساغر مالیدن *id.* to take the cup or wine-glass from one's hand and drink away. جام شراب کو هاتھہ سے اُٹھا کر پینا

گوش کردن *id* to hear سننا

گوش کران (without a genitive), deaf. بغیر اضافت کے وہ شخص جو بہت اونچا سنتے یعنی بہرا

گوش ماهي *f.* a shell, a pearl, a mother of pearl, a cup. صدف - سیپ - پیالہ

گوشمال pulling (or rubbing or boxing) the ears. سزا - کان ملنا

گوش مالیدن *id.* to punish, to warn, to rebuke. سزا دینا - هوشیار کرنا

گوشوارہ *m.* the abstract of an account; the summary; an index, an ear-ring. اهل دفتر کي اصطلاح میں ورق کا بیچ جهان کل کي میزان یا اختصار مطالب کاغذ کا لکھتے هیں اور شاعروں کي اصطلاح میں وہ مطلع جو بعد مقطع کے لاویں - نام زیور کا جو کان میں پہنتے هیں

گوشہ *m.* a corner, the horn or pointed extremity of a bow, a closet, retirement, privacy, side. کونہ

گوشۂ زنجیر *m.* a ring, loop, link زنجیر کا حلقہ

گوک *m* a small pit, a ditch. - چھوٹا گڑھا - چھوٹي خندق

گوگرد *n.* sulphur, brimstone. گندهک

گوگرد سرخ *n.* red sulphur. سرخ گندهک

گول *m.* a blockhead, an idiot, (also) cheat, trick, artfulness. - واؤ مجہول سے - احمق - نادان اور بمعني مکر و فریب کے بھي

گول *m.* a small tank. واؤ غیر ملفوظ سے - چھوٹا تالاب

گول *gaul*, a mendicant's blanket. فقیروں کے اوڑھنے کي کملي

گولہ *gula*, a cannon-ball, a bullet. توپ کا گولہ - بندوق کي گولي

گون *gun*, (in *comp*) implies similitude of colour, as گلگون, rosy-colour, red. رنگ

گونا گون of different colours or kinds, various, manifold. رنگ برنگ - طرح طرح

گونہ *guna*, *m.* colour, form, species, figure, mode, manner, kind, style. - رنگ - قسم ڈھنگ - طور - وضع - اسلوب

گوهر *m.* substance, essence, form, disposition, reality, a pearl, a gem, a jewel, offspring, intellect, wisdom, lustre of a gem or sword. - ذات کسي شے کي - هر چیز کي اصل جوهر - موتي - مطلق جواهر مثل یاقوت و لعل وغیرہ کے - پوشیدہ صفت - عقل - دانائي - اور بمعني فرزند - سخن آبدار

گوهر از لب افشاندن *id.* to talk. کنایۂ بات کرنے سے

گوهر افشاني شم *id.* to weep مراد رونے سے

گوهر آما *m.* one who strings the pearls. موتي پرونے والا

گوهر پسند *m.* one who sets a high value on one's discourse مراد قدر دان سخن سے

گوهر سنج *m.* one who weighs or examines gems, a critic, a poet. موتي کا تولنے اور پرکھنے والا - اور مراد شاعر سے

گوهر شادي بهوکن سفتن *id.* to weep for joy, to weep in the excess of joy. خوشي اور شادي کي انتہا میں رونا

گوهر فروش *m* a poet. مراد شاعر سے

گوهري *m.* a jeweller, a lapidary. جوهري

گوے *m* the sun. مراد آفتاب سے

گویا *a* speaking or endowed with speech, *adv.* thus, in this manner, as you would say, as if one would say. بولتا هوا - کلمہ تشبیہ کا

گویائي *f* power of speech, conversation, talk. گفتگو کي طاقت

گوے بردن *id.* to overcome, to surpass, to subdue, to conquer. غالب هو جانا

گویر *f.* a level ground, a sandy plain looking like a sea from a distance, a desert, plain. یاے مجہول سے - زمین هموار سراب یعني وہ بالو جو دور سے پاني معلوم هوتي هے - اور بمعني صحرا اور میدان کے بھي

گوے سیمین (*met.*) the stars. کنایۂ ستاروں سے

گوئندہ *m.* an orator, a speaker کہنے والا

گوے هفتاد راہ (*met.*) the world. مراد دنیا سے

گھڑا *f.* time, place, morning, a crucible, a goldsmith's melting pot, (also) haste, quickness, small, little, diminutive, (also) (*contr.* of گاہ.) جگہہ - ستاروں کي گھڑیا اور بمعني زود - شتاب - جلدي - اور بمعني کوچک مخفف گاہ کا

گهر *guhar*, (*contr.* from گوهر), a pearl, gem, etc. مخفف گوهر کا موتي

گهگير *m.* unbroken (a horse). شرير گهوڑا جو سواري نه دے

گهواره a small bed in which children are rocked. ایک قسم کي چار پائي هوتي هے جو بچوں کے جهلانے کے واسطے بناتے هیں

گیا *contr.* from گیاه. مخفف گیاه کا

گیاه *f.* green grass, green herbage, straw. هري گهاس

گیتي *f.* the world, the universe. دنیا ۔ عالم

گیتي نورد *m.* one who has traversed the world, an epithet of Alexander. جهان کا پهرنے والا

گیتي آراه world-adorning. جهان کا آراسته کرنے والا

گیتي افروز } world illumining, an epithet
گیتي فروز } of the sun جهان کا روشن کرنے والا یعني سورج

گیج *a.* perplexed, confounded, agitated, distressed, dispersed, scattered. یاے مجهول سے ۔ پریشان ۔ پراگنده

گید *n.* Kite (*Falco milvus*) This well-known bird may be distinguished from all the rest of the hawk kind by its forked tail. Its length is a little more than two feet, and its breadth five, the bill is two inches long very much curved at the end, and of horn colour, the feathers on the head and neck are long and narrow, of a hoary colour, streaked with brown, legs yellow, claws black. چیل ۔ خایواز

گیدي *a.* stupid, disgrace, impotent. *m.* a blockhead. وه مرد جو بیعزت اور بے حمیت هو اور رجولیت یعني قوت باه نه رکهتا هو

گیر (in *comp.*) taking, seizing, holding as عالم گیر or جهانگیر seizing or conquering the world. پکڑ ۔ صیغه امر کا هے

گیرا } (in *comp.*) one who holds or takes,
گیرائي } detention, captivity. پکڑنے والا

گیرم I take it for granted. فرض کیا اور قبول کیا میں نے

گیرو دار absolute authority or dominion, the confused clamour of combatants, battle or contest, (*met.*) pomp, rule, nobility. (Mir Nur Allah in his notes on Gulistan) take and hold. حکومت ۔ حکمراني ۔ جنگ ۔ لڑائي ۔ کروفر ۔ سلطانت ۔ امیري

گیسو *m.* a curl, sidelock, ringlet, (*pl.* گیسوان), ringlets, curls. زلف ۔ لپٹے هوئے لمبے بال

گیسو بریده *f.* a shameless woman, an Immodest woman. بیحیا عورت

گیسو دار *m.* the offspring of a slave, a comet. غلام زاده ۔ اور بمعني ستاره دم دار

گیل } *n.* name of a country lying to the
گیلان } south of the Caspian sea and north of Iraq between Mazanderan, and Azurbaejan, the birth place of Shaikh Abdul Qadir. نام ایک قصبه کا مازندران اور آذربا ئجان کے بیچ جهان شیخ عبدالقادر پیدا هوئے تهے

گیلي relating to Gil (in Tabiristan), a fine horse, Mughal tribe. منسوب طرف گیل کے جو ایک ملک هے طبرستان میں ۔ اور کنایه عمده گهوڑے سے گیلي ایک قوم مغلوں کي هے

گین *m.* a master, lord, (*contr.* from آگین) denotes abounding with, full of, affected by (generally in an unfavourable sense) صاحب ۔ خداوند ۔ اور مخفف آگین کا بمعني پر ۔ مملو ۔ لبالب ۔ بهرا هوا

گیو *n.* name of a wrestler who was an Iran wrestler's son. یاے مجهول سے ۔ پهلوان ایراني کے بیتے کا نام

گیهان *m.* the world, time, fortune. جهان ۔ روز گار ۔ زمانه

— ل —

ل *lam*, is the twenty-seventh letter of the Persian and the twenty-third of the Arabic alphabet. Its sound is that of the English *l* in *light*, *long*. In reckoning by ابجد it stands for 30

لا a negative or privative particle denoting in Arabic phrases no, not, not at all, by no means, without as لا اله الاالله *la ilaha illa-l-lah*, there is no God but God In composition with other nouns it has the efect of our prefixed particles *un*, *in*, as *la ubâlai*, fearing nothing, Insolent, petulant. It sometimes stands for لااله الاالله ۔ یهه کلمه نفي کا هے ۔ محمد رسول الله هے ۔ نهیں ۔ اور کبهي کنایه لااله الاالله محمد رسول الله سے

لا (*pers.*) scissors. کنایه قینچي سے

لاابالي fearing nothing, insolent, licentious, peulant, "I don't care for this." ميں اسكي پرواه نہيں ركھتا ھوں - مجازاً شخص بے پرواه اور بيباك كے مستعمل ھے

لا احب الافلين the stars in the heaven. مراد ستارے آسمان كے

لاابطه delaying. دير كرنے والا

لابد la-budd, f. necessarily, infallibly, assuredly, doubtless a. unavoidable. - ضروري ناچار - بالضرور

لابدي la-buddi, f. necessary. ضروري

لابر plait by plait, every fold. تہه پر تہه

لابن m. a milkman, one who gives milk to drink. دودهه پلانے والا - دودهه والا

لابه m. a supplication, request, redicule, irony, a jest, anything facetious, flattery, (met.) fraud, cheat, affection, friendship, humility. نہايت عاجزي سے اپني محبت كا ظاهر كرنا - تملق - چاپلوسي - خوشامد - فريب - عاجزي اور اخلاص كے مجاز ھے

لات m. Al Lat was the idel of the tribe of Thakif who dwelt at Tayif and had a temple consecrated to her in a place called Nakhla. This idol al Mughairah was destroyed by Mohammad's order, who sent him and Abu Sofian on that commission in the ninth year of the Hijra. The inhabitants of Tayif especially the women bitterly lamented the loss of this their deity, which they were so fond of, that they begged of Muhammad, as a condition of peace, that it might not be destroyed for three years and not obtaining that, asked only a month's respite, but he absolutely denied it. There are several derivations of this word, which the curious may learn from Dr. Peacock, it seems most probably to be derived from the same root with *Allah*, to which it may be a feminine, and will then signify *the goddess*. نام ايك بت كا جس كو شعيب كي قوم پوجتي تهي - اسي كو محمد كے حكم سے تباه كيا

لاتعد innumerable, countless. بے شمار - بے گنتي

لاثاني (*lit.*) without a second, "*cui nullus est secundus*," incomparable, matchless, unparalleled. بے مثل يگانه - بے مانند

who kisses, osculating. چومنے والا - بوسه لينے والا

لاجرعه m. a quantity of water etc., drunk at once from a cup, a draught. پاني وغيره جو چيز كه پياله ميں هو اُس كا ايك هي دفعه پي جانا

لاجرم adv. necessarily, undoubtedly, indispensable, destitute, without remedy. ناچار - بالضرور - لا علاج

لاجواب incapable of answering, silenced, speechless, disconcerted. جس كا جواب نه هو سكے

لاجورد m. Azure, Lapis lazuli, (sometimes) mourning garments (blue cloth). ايك پتهر هے كبود رنگ جس كے نگينے بناتے هيں - اور كبهي مراد هوتي هے ماتمي كپڑوں يعني جامهٔ نيلي سے

لاجورد كشيدن (met.) to ornament, a book or writing in a beautiful hand. كنايه هے كتاب پر نقاشي كرنے اور عمده ديكهنے سے

لاجوردي بساط (met) the firmament, the sky. كنايه آسمان سے

لاجوردي نقاب (met) the mourning clothes. كنايه جامهٔ ماتم سے يعني ماتمي لباس سے

لاچين m. the royal white falcon. - شاهين شكاري

لاحق } touching, adhering, joining, adjoin-
لاحقه } ing, an appendage, a dependant. جو پيچهے سے آ كر ملے - جو كسي چيز سے پيچهے آ كر ملے

لاحل difficult, not to be solved, abtruse, indissoluble. جو حل نه هو سكے

لاحول "there is no power"—is a word of hatred and anger, and sometimes it stands for, لاحول ولاقوة الا بالله there is no power nor virtue but in God *i. e.*, there is no striving against fate or the decrees of Providence. This phrase is repeated by good Mussalmans in the way of condolence on the occurrence of any astounding calamity. It is said also with a view to drive away evil spirits. نہيں هے قوت - كلمه نفرت اور بيزاري كا هے اور كبهي اس سے مراد لاحول ولاقوة الا بالله هوتي هے

لاخ (in comp.) place, abundance, plenty. تركيب كے ساتهه - جگهه - مقام - اور بمعني بسياري اور انبوه كے بهي

لاخراج rent-free, exempt from assessment. جس پر محصول سركاري نهو

لاد n. layer of a wall, a kind of perfume, a fort, brocade. ديوار كا رده - ايك قسم كي خوشبو - اور بمعني قلعه - ايك قسم ديبا كي

لادعوي (*lit.*) no claim, a deed of release, an acquittance in full. بے دعوی

لاذع *n* biting, stinging name of a biting pain کاٹنے والا - ڈنک مارنے والا - نام ایک درد

لادن سقت کا *m.* Ladanum, a resinous juice which exudes from several species of cistus in Spain, Portugal, Crete, Syria. نام ایک خوشبو کا اور اسکو عنبر اصلي بهي کهتے هيں

لادنه *m.* a kind of flax or hemp the fibre of which is made into ropes, sail cloth, etc. سن جس کي رسي بنتي هيں

لاريب doubtless, unquestionable. بيشک - جس ميں شک نه هو

لازب adhesive, firm, solid. چسپنده - چپکنيوالا

لازق } *m.* any tenacious matter like glue.
لازقه } جو چيز کي مثل سريش کے چپکنے والي هو

لازم *a.* inseparable, adhering, necessary, urgent; suitable, proper, important. چمٹا هوا - لگا هوا مقابل مستعدي کا يعني وه فعل جس کے معني ميں حاجت مفعول کي ثابت نهو

لازمه *m.* anything requisite or necessary, whatever is fit and proper. لابدي اسباب ضروري سے

لازوال *a.* unperishable, eternal. هميشه

لاس *m.* bad silk. خراب ريشم

لاش } *f.* a dead body, a corpse, a carcass.
لاشه } تن مرده کا

لاشان *n.* name of a mountain near Russia. نام ايک پهاڑ کا قريب ملک روس کے

لاغه *a.* unlucky, bad, wicked, weak, lean, thin, old (man or animal), (is often used for a horse or an ass), a corpse, a dead body, a carcass. - زبون - لاغر - دبلا - ضعيف خواه انسان هو خواه حيوان - اکثر يهه لفظ گهوڑے اور گدهے کي صفت ميں واقع هوتي هے - اور تن مرده آدمي وغيره کا

لاصق *a.* attached, joined. لگا هوا - ملا هوا

لاطائل useless, unprofitable. بيفائده

لاعب playing, jesting. کهيلنے والا

لاغ *f.* humour, wit, jocularity, jesting. ظرافت خوش طبعي - هزل

لاغر *a.* lean, thin. دبلا

لاغيه *n.* a kind of grass. ايک قسم کي گهاس کا نام هے

لاغيه *f.* a foolish woman, ignorant, false, vain, absurd. بيهوده عورت باطل

لاف *f.* boasting, vanity, self-praise. - شيخي گپ

لافيدن *inf* to prattle, to tattle. to brag. فضول بکنا

لاقح *f.* the wind which gathers crouds and makes the trees impregnated fruits. هوا جو ابر پيدا کرے اور درخت کو بار دار کرے

لاقس *a.* defective, faulty. عيب کرنے والا

لاک *m.* a wooden cup, a kneading trough. لکڑي کا پياله

لاک پشت *m.* a tortoise. باخه - کچهوا

لاکلام undisputed, undoubtedly, decidedly. بيشک - بے گفتگو - وه بات جس ميں گفتگو کي کچهه جگهه نه رهے

لکن } *conj., prep., adv.* but. ليکن
لاکن }

لال *a.* dumb, red, (*cor.* form is لعل), *m.* a ruby. گنگ - گونگا - اور بمعني سرخ رنگ کے مشترک هے - نام ايک سرخ رنگ کا بيش قيمت پتهر جس کا معرب لعل هے

لاله *m.* a head-servant, a slave, a major-domo, shining, brilliant. - بنده - غلام - خدمتگار روشن - درخشاں

لالايان *m.* slaves, servant, attendants. - غلام خدمتگاران

لالۂ چشم (*met.*) the pupil of the eye. کنايه آنکهه کي پتلي سے

لالنگ *m.* leavings of food. آٹے کا جهوٹا بچا هوا

لاله *m* a tulip (*tulipa*), a plant of the lily family with richly-coloured red flowers, relating to the red colour. ايک بهت مشهور سرخ رنگ کا پهول - منسوب طرف لال بمعني سرخ کے

لالي (*pl.* of لو لو) big pearls. - جمع لو لو کي بڑے موتي

لام *m.* the twenty-third letter of the Arabic and the twenty-seventh of the Persian alphabet, the ringlet (of a mistress), form, body, figure, a kind of felt cap used by the fakeers. نام حرف مشهور کا - زلف اور بمعني کالبد - قالب - بدن - اور ايک قسم کي نمدے کي ٹوپي جو فقير لوگ پهنتے هيں

لام (*pl.* of لامه), armours. جمع لامه کي - زرهيں

لامان *m.* fraud, deceit, lie, falsehood, faithlessness, treachery, abundance, plenty, a pit. - فريب - دروغ - جهوٹهه - بيوفائي - انبوهي گڑها

لاماني *m.* a liar, a deceiver, a braggart, a boaster, act of clading in the armour. جهوٹا - دروغگو - فريبيا شيخي کرنے والا - اور بمعني زره پوشي کے بهي آيا هے

لامحاله helplessly, ecessarily. - ناچار بالضرور

لامس *m.* one who feels or touches. چھونے والا

لامسه *m.* the sense of feeling, touching, feeling. بدن انسان کي جلد کي قوت جس سے آدمي هر شے کي سختي نرمي گرمي و سردي وغيره کو چھونے سے معلوم کرليتا هے

لامع *a.* splendid, shining, bright. چمکنے والا ۔ روشن

لامه *m.* a kind of iron armour made with rings. ايک زره جو لوهے کي زنجيروں سے بنائي جاتي هے

لان *m.* name of a mountain. نام ايک پهاڑ کا

لاانسلم "I don't accept." سلامت نهيں رکھتا هوں يعني ميں قبول نهيں کرتا هوں

لانه *m.* the hornet's comb, the birds' nest. بے شهد کي زنبوروں کا چھتہ ۔ پرندوں کا جهونجه

لاو *n.* a kind of white clay for coating walls. سفيد مٹي جس سے مکان کي ديواريں پوتي جاتي هيں

لاولد childless, without offspring. جسکے اولاد نهو

لاونعم yea and nay, or, more strictly speaking "nay and yea," "no and yes" کلمهٔ نفي اور ايجاب کا

لاوا *m* a game of tipcat. نام ايک کھيل کا جس کو هندي ميں گلي ڈنڈا کهتے هيں

لاهوت the Divinity, the Divine Being. عالم ذات الهي کا جس ميں سالک کو مقام فنا في الله کا حاصل هوتا هے

لاي black mud, sediment, lees, grounds, strand of a rope, a fold or ply, discourse, talk, conversation. سياه مٹي جو حوض وغيره کي تهه ميں جم جاتي هے ۔ شراب کي تلچھٹ ۔ رسي کي ايک لڑ ۔ کاغذ يا کپڑے کي تهه ۔ اور بمعني گفتار و کلام

لائح *a.* evident, clear, manifest. ظاهر ۔ چمکنے والا

لائحه *f.* any thing clear or manifest proof, clearness, demonstration. ظاهر ۔ ثبوت

لايزال the Eternal, an appellation of God. بے زوال ۔ هميشه ۔ دائم ۔ يهه خدا کي صفت ميں واقع هے

لايعقل } (generally applied to beasts), *i.e.*,
لايعلم } (it) will ever remain foolish and ignorant. يهه صفت حيوان کے واقع هوتي هے يعني يهه هميشه بيوقوف اور بے علم يعني احمق رهے گا

لايعني *la'ya'ni*, absurd, obscene, abusive, بيهوده ۔ بيهوده

لائم *n.* a slanderer, an accuser, censurer, reproaching, rebuking. ملامت کرنے والا

لايموت *a.* immortal, imperishable, an appellation of the Deity. جس کي کبھي موت نهو اور يهه حق تعالى کي صفت ميں واقع هوتي هے

لاينبغي *a.* improper, indecent, unseemly. جو ناچاهئے ۔ نا مناسب

لائيدن *inf.* to shout, to make a noise; to talk foolishly, to tattle, to prattle, to brag, to boast. شور کرنا ۔ بيهوده بکنا ۔ گپ مارنا ۔ شيخي کرنا

لب *lab*, *m.* lip, brim, edge, shore, coast, bank, margin (of a lake, etc.). ۔ هونٹھ کناره وغيره

لب *lubb*, *m.* the essence of any thing, the heart, the soul, the mind, a kernel. خالص هر چيز کا عقل ۔ خلاصه بادام وغيره کا مغز

لبا *m.* the milk of a cow for three days after calving, biestings. حيوان کے بچه جننے کے تين دن تک جو گاڑها دودهه رهتا هے ۔ پيوسي

لباب *m.* essence of any thing, the kernel, name of a book. مغز ۔ خالص هر چيز کا ۔ نام ايک کتاب کا

لباد *lubad*, *m.* the yoke of a cart or a plough. ۔ جوا جو لکڑي کا هوتا هے اور جو بيل کي گردن پر کهتے هيں

لباد } *m.* a waterproof. جامهٔ باراني
لباده }

لباسات (*met.*) flattery, cajoling, adulation (also *pl.* of لباس). کنايه تملق اور چاپلوسي اور خوشامد سے اور جمع لباس کي بهي

لباس الرجل (*met.*) a woman. کنايه عورت سے

لباس المرأة (*met.*) a man. کنايه مرد سے

لباس التقوى *n.* shame, immodesty, a garment of a coarse cloth. شرم ۔ حيا ۔ موٹے کپڑوں کي پوشاک

لباس عباسي *f.* black garments. کنايه سياه پوشاک سے

لبالب brimful, running over. کنارے تک بهرا هوا

لبان *liban*, nursling (a child), suckling. دودهه پلانا دائي کا بچے کو

لبان *laban*, *m.* the breast. سينه

لبان *luban*, frankincense, *olibanum*, resin of the *Boswellia serrata*, *Roxb.* کندر ايک گوند مشهور هے

لب لب جستن *id.* to try the depth of a matter, to inquire minutely from every one. حد کي تلاش کرنا ۔ هر ايک سے کسي چيز کا سراغ پوچهنا

لبث delay, delaying. دير ۔ دير کرنا

لب جش tasting, having the flavour of. کسي چيز کا مزہ دريافت کرنے کو جو چاشني چکھتے هيں

لب داشتن *id.* to be competent, to have the capacity of. لياقت و خوبي رکھنا

لب را بہ شير شتن *id.* to suckle or nurse a child. دائي کا اپني چھاتي سے بچہ کو دودھ پلانا

لبريز *a.* overflowing, brimful. اتنا بھرا ھوا کہ کنارے سے چھلکنا شروع کرے

لب زدن *id.* to be silent, to speak, to talk.

لبس *labs*, } act of wearing or putting on
لبس *lubs*, } clothes. لباس اور پوشاک پھننا

لبس *libs*, wearing apparel. پھننے کي پوشاک

لب شيرين کردن *id.* to smile. مسکرانا

لبق *labq*, *n.* wisdom, cleverness, flattery, cajolery, agreeableness. - عقلمندي - هوشياري - دملق - چاپلوسي - چرب زباني

لبق *labiq*, *a.* wise, clever, agreeable, conversable, entertaining. - عقلمند - هوشيار - چرب زبان

لبق *labaq*, worthiness, expertness, competency. لائق هونا - کام ميں أستاد هونا - هوشيار هونا

لب گزيدن (*lit.*) to bite one's lip, (*fig*) to be sorry, to be ashamed, to be bashful, to get angry, to forbid by signs. اصلي معني هونٹھ کاٹ کھانا - اصطلاحاً افسوس کرنا

لبلاب *m.* the name of a flower (*Ipomœa quamoclit*), American Jasmine. عشق پيچاں کا درخت

لبن *laban*, *m* milk. شير دودھ

لبن *labn*, cursing, cudgelling. - دودھ پلانا لاٹھي سے مارنا

لبن *liban*, (*pl.* of لبنہ), unburnt bricks. کچي اينٹيں

لبنہ *n.* an unburnt brick. ايک کچي اينٹ

لبنان *n.* Mount Libanus. نام ايک پهاڑ کا ملک شام ميں

لبوب (*pl.* of لب), essences, kernels, etc. جمع لب کي - هر چيز کے خلاصہ - ميوہ کے مغز وغيرہ

لب و دندان داشتن *id.* to have the ability, refinement, and competency. لياقت اور شايستگي اور خوبي رکھنا

لبوس *m.* garment, cloth, armour. - جامہ پوشاک - زرہ

لبون giving much milk. جس کے - شير دار دودھ هو

لبيب *m.* wise, intelligent. - مرد دانا - عقلمند

لبيبہ *f.* a wise woman. عقلمند عورت

لبيد *f.* a sack, a bag (of coarse cloth), name of an Arabian poet. چھوٹي گون جس ميں غلہ بھر کے ٹٹو وغيرہ پر لادتے هيں - اور نام ايک شاعر مشهور کا عرب ميں

لبيق *a.* wise, intelligent, clever, conversable, entertaining, agreeable. - عقلمند هوشيار - چرب زبان

لبيک *labbaik*, what do you want with me? here I am, what would you have. ميں حاضر هوں اور موجود هوں اور حاضر هوں ميں آپ کي خدمت ميں

لبين fed on milk, nourished, brought on. دودھ پلايا هوا - پرورش کيا هوا - پالا هوا

لت beating, kicking, thrashing, a kick, *m.* a rag, tatter, stomach, belly. - مارنا - کوٹنا لات - ٹکڑا - اور بمعني لتہ يعني پارہ جامہ - اور بمعني شکم اور پيٹ کے بھي

لت انبار } *m.* gluttonous, big bellied,
لت انبان } monstrous eater. - پيٹو وہ شخص جو بهت کھانا کھاوے - لت بمعني پيٹ اور انبار بمعني بهت بڑا اور انبان چمڑے کا ظرف مثلاً مشک کے

لثام a handkerchief tied over the mouth دھان بند - منھ باندھنے کا ڈھانٹا

لثق *f.* dampness, wet, moist air. - تر تري هونا - بهت نمناک هونا هوا کا

لثم kissing, osculating, act of tying the cloth over the mouth. - چومنا - بوسہ لينا منھ پر دھان کا بند باندھنا

لثوم *lusum*, kissing, osculating. - بوسہ لينا چومنا

لثہ *m.* the gum. مسوڑھا دانت کا

لجام (*cor* of لگام), a bridle. معرب هے لگام کا

لجاج *m.* controversy, altercation, quarrelling, contention, battle. - لڑنا - لڑائي - ستيزہ

لجاجت *f.* fighting, quarrelling, contention, importunity, exaggeration. - لڑنا - جھگڑنا مبالغہ کرنا

لجج (*pl.* of لجہ), whirlpools. جمع لجہ بمعني بھنور کے

لجلاج stuttering, stammering, an expert chess-player. جس کي زبان بولنے ميں هکلا - لکنت کرے - نام ايک شطرنج باز کا جو اس فن ميں بڑا کامل تھا

لجوج *a.* very quarrelsome, contentious. بڑا لڑنے جھگڑنے والا

لجہ *lujja*, *m* deep water, the middle of the sea, abyss, a whirlpool. وہ مقام دريا کا جهاں بهت گهرا پاني هو دريا کا بيچ بھنور

لجہ lajja, noise, uproar, tumult. - آواز غوغا - غل - شور

لجي lujji, n. a very large river, the water of which may be very deep. بہت بڑا دریا جس کا پاني بہت عمیق اور گھرا ھو

لجين f. pure silver. خالص چاندي یا مجہول سے

لچ a. stark naked, name of a tribe whose chiefs keep their breasts open. - برھنہ ننگا - نام ایک قوم کا جن کے بزرگ لوگ سابق میں اپنے سینے عریاں رکھتے ھیں

لچن f. a prostitute, a harlot, a naked woman. زن قحبہ - بازاري - بدکار عورت - ننگي

لحا (pl of لحیہ), the beards. جمع لحیہ بمعني ڈاڑھي کي

لحاظ m. a look, a glance, view, sense, respect, observing attentively. کسي چیز کا آنکھہ میں خیال رکھنا اور دیکھنا

لحاف m. a coverlet, a quilt, a counterpane. روئي دار کپڑا رات کے اوڑھنے کا

لحام lahham, m a meat seller, a butcher. گوشت بیچنے والا

لحام luham, a solder. ٹانکا چاندي یا سونے کا

لحد f a niche in the side, a sepulchre in which dead bodies are buried. - شگاف قبر قبر کا اندروني حصہ جس میں مردہ رکھا جاتا ھے

لحظہ m a moment, the twinkling of an eye, a look, a glance. تھوڑي دیر نظر کرنا - ایک دفعہ کنکھیوں سے دیکھنا

لحقہ m. pl. of لاحق. جمع لاحق کي

لحم m. flesh, meat. گوشت

لحم a. feeding on flesh, carnivorous, a desire to eat flesh. خواھشمند گوشت کا ھونا

لحمہ m. a piece of meat. گوشت کا ٹکڑا

لحن f. a sound, a note, melody, modulation, reading Quran with a sweet note. آواز خوش اور خوب جو نغمہ کے ساتھہ ھو - قرآن شریف وغیرہ کو ایک قسم کي خوش آوازي سے پڑھنا

لحوم pl. of لحم meat, flesh. جمع لحم ء گوشت کے

لحیان m. long bearded. لمبي ڈاڑھي والا

لحیاني m a man having a long beard. لمبي ڈاڑھي والا

لحیم a. fat, corpulent, fleshy. فربہ - موٹا

لحیہ n the beard. ڈاڑھي

لخ n. a reed, a tall broad leaved grass growing in marshy places. نام ایک گھاس کا جو دریا کے کنارے ھوتي ھے

لخت m. an iron mace, a piece, bit, part, portion, some, a little, somewhat. لوھے کا گرز - کسي چیز کا ٹکڑا - پارہ - اندک تھوڑا

لخت در m. the valve of a folding door. دروازہ کا در

لخت لخت in pieces, in tatters. - پارہ پارہ ٹکڑے ٹکڑے

لختے adv. a little, somewhat. تھوڑا - قدرے

لخشہ m a flame (of fire), firebrand, spark. آگ کا شعلہ - انگارا

لخشہ m. a flame (of fire), firebrand. آگ کا شعلہ - انگارا

لخشیدن inf. to slip down, to slide. - پھسلنا

لخلخہ n. odour, perfume, a cephalic medicine, a censer in which they burn odours. چند خوشبو چیزوں کو باھم ملا کر سونگھتے ھیں

لد ludd, (pl. of الد), جمع الد کي

لد ladd, bitter enmity and quarrel. سخت دشمني اور جھگڑا کرنا

لدغ } sting of a scorpion, bite of a
لدغا } snake. بچھو اور سانپ کا کاٹنا

لدن prep near, nigh, close to. نزدیک

لدني knowledge imparted by God without any study on the part of the receiver, divine inspiration. وہ چیز جو کسي کو بغیر اس کے سیکھنے اور حاصل کرنے اور بغیر اُس کي سعي اور تلاش کے حق تعالی محض اپنے فضل سے اُس کو عطا کردے

لدود m. very quarrelsome, contentious. بڑا لڑنے جھگڑنے والا

لدیغ m. a man who is bitten by a snake. وہ شخص جس کو سانپ نے کاٹا ھو

لذاع m. producing a burning sensation. بڑا جلانے والا - بڑي سوزش اور جلن پیدا کرنے والا

لذائذ (pl. of لذت), enjoyments, etc. جمع لذت کي

لذت f. pleasure, enjoyment, delight, flavour, deliciousness, taste savour, sweetness. مزہ - ذایقہ

لذع m. burning, pain, irritation. - سوزش جلن - جلانا آگ کا - کسي کو سوزش دینا

لذیذ a. delicious, pleasant, delightful, sweet, savoury, luscious. مزہ دار - خوش ذائقہ

لر lar, m. a party of nomads, a rustic, a villager, ignorant person, an idiot. ایک گروہ ھے جنگلي آدمیوں کا - اور بمعني روستائي اور دھاتي اور مرد احمق اور نادان کے مستعمل ھے

لرزا trembling, fearing کپکپي - کانپنا

لرزیدن inf to tremble, to quiver, to shake. کانپنا

لزاب *a.* very tenacious, adhesive, viscous. بڑا چپکنے والا

لزج any viscid, tenacious matter like glue. چیپ دار - جیسے سریش وغیرہ

لزجت *f.* tenacity, adhesiveness, glutinousness. چپیدگي - چیپ

لزوق adhering, cohering. چپکنا - چسپاں هونا

لزوم *m.* expediency, necessity, behaving, what is requisite. لازم هونا

لسان *lisan, f.* the tongue, language, idiom, dialect. زبان - لغت قوم کي

لسان *lassan, a* very eloquent, having the power of fluent, elegant, or forcible speech. تیز زبان - فصیح زبان

لسان الحمل *lisanu-l-hamal,* a plantain leaf. هري بارتنگ کا پتا

لسان الصدق real praise. سچي تعریف

لسان العصافیر *lisanu l-'asafir, n.* name of a medicinal seed that grows on the plant *Karaija, (Sparrow's tongue, Nerium antidysentricum).* اندر - جو

لسان الثور *lisanu-s-saur,* **bugloss,** borage. گاو زبان

لسان القوم *m.* a translator. ترجمان

لسانیت *f.* eloquence, elocution. تیز زباني

لسع bite from a snake, sting of a scorpion. کاٹنا سانپ وغیرہ کا - بچھو کا ڈنک مارنا

لسن *a.* eloquent. فصیح - زبان آور

لسن *lusun, pl.* of لسن. جمع لسن کي

لسن *lasan,* eloquence, elocution. - فصاحت زبان آوري

لسن *lisan,* the tongue, language, idiom, dialect. لسان - زبان

لشکر *m.* an army. فوج

لشکر کش *lashkar kash, m.* the leader of an army, a general. سردار - سپہ سالار

لشکر کش *lashkar kash, m.* this word comes exaggeratingly in praise of a very brave man, a champion wrestler and a skilled swordsman. یہ بڑے پہلوان اور بڑے بہادر اور بڑے تیغ زن کي تعریف میں بطور مبالغہ کے آتا هے

لشکري *m.* a soldier, a military man. مرد سپاهي

لص *liss, m.* a thief, a robber. درد - چور

لصوص (*pl* of لص), thieves, robbers. جمع لص بمعني چور کے

لصوق adhesiveness, tenacity. چسپان هونا

لطافت *f* pleasantness, facetiousness, wit, cleanliness, purity, minuteness. - پاکیزگي باریکي

لطائف (*pl.* of لطیفہ), pleasantries, witticisms, jokes. جمع لطیفہ کي

لطائف الحیل good excuses. عمدہ بهانے

لطخ act of being draggled, becoming dirty by being drawn on the ground.

لطام *m.* a blow, slap, box. تهپڑ مارنا

لطامات (*pl.* of لطمہ), blows, slaps, etc. جمع لطمہ بمعني تهپڑ کے

لطف *m.* courtesy, kindness, benignity, graciousness, gentleness, wit, pleasantry. نرمي - خوبي - تازگي - عمدگي - باریک بیني - مهرباني

لطیف *a.* kind, courteous, benevolent, elegant, witty, facetious, pure, clean, minute. نیکو کا - پاکیزہ - نرم - باریک - عمدہ - مهربان

لطیفہ *m.* a pleasantary, jest, joke, raillery, a fine or delicate thing. - نکوئي - خوبي چیز نیک اور عمدہ اور نازک

لطمہ *m.* a blow, slap, box. طمانچہ - تهپڑ

لطیم *m* one who has been slapped or boxed. تهپڑ کهایا هوا

لظی *m.* a blazing flame, name of the second mansion of hell, to which the followers of Muhammad have consigned all Christians. وہ آگ جو شعلہ مارنے والي هو - نام دوزخ کا

لعاب *m.* spittle, saliva, mucus, viscosity, sliminess, snot آب دهن - تهوک - اور هر ایک شے کا رس یا پاني جس میں چسپیدگي یعني چپک اور گاڑها پن هو

لعاب *la'ab,* playing, a play, a game, sport, a juggler. کهیلنے والا - بازیگر

لعان *li'an,* imprecation, cursing, in the language of the law it signifies testimonies confirmed by oath on the part of a husband and wife (whose testimony is strengthened by an imprecation of the curse of God on the part of the husband, and the wrath of God on the wife), in case of the former accusing the latter of adultery. آپس میں ایک دوسرے کو لعن اور نفرین کرنا - شرع میں لعان وہ هے کہ شوهر اپني زوجہ کو زنا کي تهمت لگاوے اور گواہ نهوں پس دونوں بحکم قاضي بطور مقررہ شرعي آپس میں لعنت کرتے هیں اور بعد اُس کے قاضي دونوں میں همیشہ کے لیئے جدائي کر دیتا هے

لعان *la'an, m.* great curser. بڑا نفرین اور لعنت کرنے والا

لعب *l'ab*, } *m.* playing, a play, a game,
لعب *la'ib*, } sport. کھیل بازي

لعبت *f.* a puppet, a doll, a plaything, a toy. کھلونا - کھیلنے کي چيز کپڑے کي گڑيا

لعل *m.* red, a ruby, any bright gem (*met.*) the lips of a mistress. معرب لال کا ھے یعني ھر چيز سرخ اور بمعني ھر سرخ رنگ قيمتي کے جو مشھور ھے

لعل خندان (*met.*) the lips of a mistress. کنايۂ معشوق کے دونوں ھونٹھونسے

لعل زر (*met*) the dawn, the light in the morning. کنايۂ صبح کي روشني سے

لعل مذاب (*lit*) dissolved ruby. (*met.*) red grape wine. لعل گلا ھوا - اور يہ کنايہ ھے شراب سرخ رنگ انگوري سے

لعل مي پرست (*met.*) the lips of a mistress کنايۂ لب معشوق سے

لعلي } of a ruby colour, set with rubies,
لعلين } a kind of flower. ايک رنگ ھے سرخ - ايک قسم کا پھول

لعن *f.* cursing, imprecating. نيکي اور رحمت سے دور کرنا - لعنت کرنا نفرين کرنا

لعنت *f.* an imprecation, malediction, curse. نفرين - پھٹکار

لعوق *n.* an electuary, any medicine to be licked or sucked. دوا جو کم گاڑھي ھو اس طرح کے موافق چاٹنے کے ھو

لعين (both *sing.* and (*pl.*) accursed, execrable, detested, reprobated, repulsed, rejected, excluded. يہ لفظ مفرد و جمع دونوں آيا ھے - ملعون - مردود - نفرين کيا گيا - رحمت سے الگ ايدا گيا

لغات (*pl.* of لغت), languages, lexicons, etc. جمع لغت کي

لغت *f.* tongue, speech, dialect, language, dictionary, a word. کسي قوم کي زبان

لغز *lughz*, the hole, of a mouse, any ambiguous phrase, an enigma, a riddle. چنگلي چوھے کا سوراخ - اور چونکہ يہ سوراخ نہايت پيچ دار ھوتا ھے لھذا نام ايک قسم کے سخن کلام کا جس کو فارسي ميں چيستان اور ھندي ميں پھيلي کہتے ھيں

لغزش *f.* a slip, a stumble, an error. پھسلنا پير کا - غلطي

لغزان slipping, stumbling پھسلتا ھوا

لغزيدن *int.* to slip, to stumble پھسلنا

لغو *lagho*, preposterous, contemptible, absurd, foolish, false, whining of a dog, a worthless thing. بيھودہ بکنا - کتے کا چلانا - بےفائدہ باطل نکمي چيز - بيھودہ

لغو *f* dialect, language. زبان قوم کي

لغوب *lughub*, *f.* sickness, grief, fatigue, exhaustion, toil. رنجوري - بيماري - تھک جانا

لغونہ *lughuna*, *m.* cosmetic, an external application for improving the beauty, decking. غلگونا - آرائش

لغوي *laghawi*, linguistic. منسوب ساوت لغت کے

لغوي *laghawi*, rash, nonsensical, absurd, foolish. بيھودہ گو - بيھودہ

لف *laff*, *m.* involving, folding, twisting, complicating, joining, assembling, mixing. لپيٹنا

لفت *m.* the turnip (*Brassica Rapa*). شلغم مشھور ترکاري ھے

لفچ *m.* a boneless piece of meat. (*met.*) a thick lip (sometimes it means) a lip. گوشت کا ٹکڑا بےھڈي کا مجازاً موٹا ھونٹھ - اور کبھي مطلق ھونٹھ کے معني ميں مستعمل ھوتا ھے

لفچون *m.* thick-lipped (man). موٹے ھونٹھ والا

لفچہ *m.* a boneless piece of meat. بے ھڈي گوشت کا ٹکڑا

لفق *lufq*, act of sewing the two sides of a cloth together. دو کپڑوں کي درزوں کو آپس ميں ملا کر سينا

لفيف *f.* a wrapped up thing, promiscuous multitude, a friend or multitude. لپٹي ھوئي چيز دوست

لق not hairy, clear, clean, smooth. بے بالوں کا - صاف

لقا *laqa*, *f.* act of meeting, seeing or fighting with any one (*met.*) death, the face form, visage, countenance. ديدار - ملاقات - ديکھنا - پھونچنا - جنگ کرنا

لقاح act of becoming pregnant, time of going child. پيٹ رھنا - حاملہ ھونا

لقاعہ *luqqa'*, pert, answering wittily, talkative, loquacious. مرد پر گو اور حاضر جواب

لقانہ (Pers لکانہ), lean, infirm. دبلا - پتلا

لقب *m* a title, surname, or epithet (either honourable or opprobrious). وہ نام جس ميں معني تعريف يا مذمت کے نکليں بہ خلاف علم کے کہ اس نام ميں کوئي معني منظور نہيں ھوتے

لقطہ *luqta*, treasure trove, waifs and strays. کسي کي گري پڑي چيز جو زمين سے اٹھا لي جائے

لقطہ *laqta*, act of lifting up a lying or fallen thing. گري پڑي چيز کا اٹھا لينا

لقلق (*cor.* from لکلک) *m.* Stork (*ciconia*). A genus of large Grallatorial bird. In most countries Storks are held in great-esteem by the inhabitants, as they tend to prevent the increase of noxious vermin by destroying great numbers, all the species being extremely voracious. They reside in marshy places, where their chief food (reptiles, worms, insects) is found, and they migrate in large flocks to immense distances, returning regularly to their former habitations. They have no voice, but produce a clattering with their bills by striking the mandibles together. Among the ancients, to kill them was considered a crime, which in some places, was punished even with death, and like the Ibis, this bird becomes the object of worship. The Stork is remarkable for its great affection towards its young, but more especially for its attention to its parents in old age. The White Stork (*ciconia alba*) is upwards of three feet six inches long. The head, the neck, and the whole of the body are of a pure white, the scapulars and wings black, the bill, seven inches in length, is of a fine red colour, and the legs and bare part of the thighs are also red. The neck is long and arched, and the feathers near the breast are long and pendulous. Their food consists of serpents, lizards, frogs, small fish, etc. معرب لکلک کا هے ۔ یه پرند آبي هے سانپ اور مچهلي کا شکار کرتا هے

لقلقه *m.* the voice of a stork, a continual motion of the jaw or of the tongue (in serpents). (*met.*) every harsh voice. لقلق جانور کا سخت آواز سے بولنا مجازاً هر کڑي آواز

لقمان *m.* a famous eastern fabulist (supposed to be the same as Æsop.) مشهور حکیم کا نام

لقمه *m.* a morsel, mouthful, sop. نواله

لقمة خلیفه *m* name of a Halwa. نام ایک قسم کے حلوا کا

لقن *laqn*, perception, discernment, act of picking up a thing from some one, inquiring. دریافت کر لینا - جلد سمجهه جانا کسي بات کا - کسي سے کوئي بات سیکهه لینا

لقن *laqin*, *m.* wise, very sagacious, very intelligent, keen. - بهت جلد سمجهه جانے والا بڑا عقلمند - نهایت زود فهم

لق و دق waste, dreary, a desert. زمین هموار اور سخت جس میں درخت تک نهوں

لقوه *m.* a spasmodic distortion of the face. نام ایک مرض کا جس میں منهه ٹیڑها هو جاتا هے

لقیط } لقیطه } *m.* a foundling child. وه بچه نوزاد جو راه میں کسي نے ڈال دیا هو اور اُس کو کوئي اُٹها کر اپنے گهر میں پرورش کرے

لقیه *m.* a visit, meeting. ملاقات

لک *lak*, for thee. واسطے تیرے

لک *luk*, *a.* foolish, ignorant, a hundred thousand, gum lac بیوقوف - نادان - عدد معروف یعنے سو هزار - لاکهه جو ایک قسم کا گوند هے

لک *lak*, *a.* coarse, thick, strong, old rag, unshapely. - گنده - دلدار - موٹا - پرانا - چیتهڑا ناتراشیده - بے ڈول

لت *f.* a kick. لات

لکد کوب kicking. لات مارنا

لکلک *m.* the Stork, its food consists of serpents, lizards, small fish, etc ایک پرند آبي کا نام جو سانپ اور مچهلي چهپکلي وغیره کا شکار کرتا هے

لکن *lakan*, stuttering, stammering. - لکنت هکلا پن

لکن *lakin*, *m.* one who stutters, speaking a barbarous tongue. الکن زبان - هکلا

لکنت *f.* speaking a barbarous language, stuttering. هکلاپن

لکوک *lukuk*, (*pl.* of لک). جمع لک کي جو معرب لاکهه بمعنے سو هزار کا هے

لکه a spot, blot, piece, fragment, scrap. داغ - دهبا - ٹکڑا

لله الحمد والمنه *li-lahi-l-hamd wa-l minna*, to God be praise and thanks-giving. سپاس خدا کو - شکر خدا

لم *lim*, *adv.* and *conj.* why? wherefore? for what reason? کیوں - کسواسطے

لم *lam*, a negative particle حرف نفي کا

لمو *a.* fat, strong. فربه - موٹا - قوي

لمحه *m.* flashing (of lightning), a glance or twinkling of an eye, (*met.*) a moment, a minute. چمکنا بجلي کا - کسي چیز کو ایک مرتبه تهوڑا سا دیکهه لینا - مجازاً تهوڑا زمانه جو بالکل بمقدار قلیل هو - چشم زدن یعني آنکهه جهپکنے کي دیر

لمز erring, winking. عیب کرنا - آنکھ سے اشارہ کرنا

لمزہ m. the defective ones, the erring. عیب کرنے والے

لمس touching, need, necessity, copulation, coition. چھونا - حاجت - جماع

لمع m. shining, brightening, the light. روشن ہونا - چمکنا - روشني

لمعات (pl. of لمعہ), of the sun, a traditional book. روشنیاں - نام ایک کتاب کا علم حدیث میں

لمعان shining, brightening. چمکنا - روشن ہونا

لمعہ m. splendour, brilliancy, shining, glaring, the glare of the sun. - روشني چمک تھوڑي روشني

لمم pollution, a kind of madness. - آلودگي ایک قسم جنوں سے

لموع lumu', shining, splendour, (also pl. of لمعہ) brilliancies, lights. - روشن ہونا - چمکنا اور جمع لمعہ بمعنے روشني و چمک کي

لم یزل the Eternal, an appellation of God. ہمیشہ - برقرار - بے زوال - کنایہ ذات حق تعالی سے

لنبک m name of a servant of Bahram Gor, who was famous for his generosity and hospitability. نام ایک ملازم بہرام گور کا جو مروت اور مہمان نوازي میں مشہور تھا

لن ترانی (lit. egad ! if you saw me !) boasting, gasconading, self-praising. ہرگز نہ دیکھے گا تو مجھہ کو - مجازاً بمعني اپني تعریف آپ کرنے سے مستعمل ہے

لنج lanj, walking affectedly, walking coquettishly. مٹک چال ناز و نخرہ سے چلنا

لنج lunj, m. the lip, the inner part of a cheek. لب - ہونٹھہ - اندر کي جانب رخسارہ کي

لنگ a. lame. m. limping, lameness, breaking a journey, penis. لنگڑا - سفر کے درمیان میں کہیں مقام کرنا - مردوں کا آلہ تناسل

لنگ lang, m. a cloth tied between the legs, a narrow slip of cloth passed between, the thighs, and tucked into a waist belt before and behind to conceal the privy parts. لنگي - لنگوٹ

لنگ ling, f. the calf of the leg. پنڈلي

لنگ خاکي act of knocking an enemy down and kicking him on the back side. حریف کو زمین پر گرا کے اُس کي پیٹھہ پر لات مارنا

لنگر m. an iron instrument for holding a ship at rest in water, an anchor, an almshouse, food distributed to the poor. جہاز اور کشتي کو چلانے سے روک دینے کا بڑا وزني لوہا - وہ جگہہ جہاں پر غریبوں اور محتاجوں اور مسافروں کو کھانا تقسیم ہو - وہ کھانا جو محتاجوں کو تقسیم ہو

لنگر انداختن (met.) to fix one's residence somewhere, to establish oneself. کسي جگہہ مقام کرنا - کہیں قرار پکڑنا

لنگري f. a large shallow pan, made of metal, and generally used to knead flour in, or for serving rice. ایک قسم بہت بڑے ماشت کي

لنگ سوکش m. a grapple in wrestling. نام ایک پیچ کا فنون کشتي میں

لنگیدن inf to limp, to walk lame. لنگڑانا

لوا liwa, m. a standard, a banner. - نیزہ جھنڈا - علم فوج کا - لشکر کا نشان

لواحق (pl. of لاحق), servants, domestics, followers, dependants, family. جمع لاحق کي - نوکر لوگ وغیرہ

لوازم (pl. of لازم and لازمہ), necessary things, requisites, essentials. جمع لازم اور لازمہ کي - ضروري چیزیں

لواش a thin soft cake of unleavened bread, called chuppatee by the natives. گیہوں کي چپاتي باریک اور نرم

لوامع n. bright and shining thing. روشن اور چمکنے والي چیزیں

لوامہ m. a great censurer, accuser. سخت ملامت کرنے والا

لواہب (pl. of لاہب), blazing fires. جمع لاہب آگ شعلہ زن - بھڑکنے والي آگ

لوائح (pl of لائحہ) lights. جمع لائحہ - روشنیاں

لوائم (pl. of لائمہ), censurers, etc. جمع لائمہ کي

لوب n. a desert, waste land, dreary. وہ پتھریلي زمین جہاں پاني نہو

لوبیا n. a kind of bean (Dolichos sinensis). ایک قسم کي پھلي جس کي ترکاري بناتے ہیں

لوت a. naked, bare. واو معروف سے برہنہ - ننگا

لوت dainties, dishes of various tastes, beardless (youth). واو مجہول سے قسم قسم کے مزہ دار کھانے - لڑکا امرد جس کے ابھي ڈاڑھي مونچھہ نہ نکلي ہو

لوت پوت lut put, savoury dishes of all sorts. واو مجہول سے ہر قسم کے مزہ دار کھانے

لوث *taus*, m. contamination, pollution, defilement, impurity, in law it denotes bloodstains, etc., as to constitute circumstantial evidence against a suspected murderer. آميزش - آلودگي - لتهڑنا

لوچ a. squint-eyed, naked (*Fr.* louche). دوهنکا - ننگا - احول - بهينگا

لوح m. a plank, a table, a board or tablet on which any thing is written, flashing (of lightning), producing, appearing (of a star.) تختي - تختا - هر چيز چوڑي وغيره هتي هو خواه لکڑي پتهر وغيره - بجلي کا چمکنا - پيدا هونا - ستارة وغيره کا

لوح *luh*, m. the distance between heaven and earth. وه فرق جو درميان آسمان اور زمين کے هے

لوح سيمين f. a silver tablet, (*met.*) a sweetheart's belly and her forehead. چاندي کي تختي - اور کنايه معشوق کے پيٹ اور پيشاني سے

لوح ناخوانده (without a genitive), ignorant, wanting knowledge, illiterate, unlearned. بغير اضافت کے مرد جاهل جو بے پڑها هو

لوح ناخوانده (with a genitive), (*met.*) the eternal or preserved tablets (لوح محفوظ) and inspired knowledge (علم لدني) and other unsaleable books. اضافت کے ساتهه کنايه لوح محفوظ اور علم لدني اور کتابوں غير مروج سے

لوخ n. tall broad-leaved grass growing in marshy places. ايک گهاس هے جو دريا کے کنارے هوتي هے

لوذ refuge, shelter. پناه لينا

لوذعي a. very intelligent, very wise, sagacious. بڑا زود فهم - نهايت عقلمند

لور n. a land cut off by a flood, a bow with which cotton is cleaned and carded. وه زمين جس کو سيلاب نے کاٹ ديا هو - دهنے کي کمان جس کو دهنکي کهتے هيں

لور کند m. an abyss, pool, a pit. وه گڑها جو سيلاب کيوجه سے زمين ميں پڑ گيا هو

لوري nomad hordes ايک قوم صحرا نشين

لوريان (pl. of لوري) جمع لوري کي

لوز m. the almond. بادام

لوزة m. one almond. ايک بادام

لوزيات } sweetmeats in ich almonds
لوزينة } are mixed. بادام کا حلوا

لوزينج acc. of لوزينة. معرب لوزينة کا

لوس f. flattery, wheedling, cajolery. واو مجهول سے - چاپلوسي - تملق خوشامد

لوش a. unconscious, mud, black mud, wry faced one. بيخبر - بيهوش - اور بمعني کيچڑ کالي مٹي کيچڑ کي - اور بمعني کج دهن

لوص peeping through a small opening or a door hole. دروازه کے سوراخ سے جهانکنا

لوصه m. the backache. درد پشت - پيٹهه کا درد

لوط n. the patriarch Lot. نام ايک پيغمبر کا

لوعات f. heart-afflictions, burning of the heart in love, sufferings in love. دل کي سوزشيں کسي کے عشق اور محبت ميں

لوعات f. burning in love دل کي سوزش عشق سے

لوقا m. name of a Hebrew doctor نام ايک حکيم يوناني کا

لول a. shameless, immodest, impudent, shamelessness, impudence, spout of a pot. واؤ مجهول سے - بے شرم - بے حيا - بے شوخي - بے حيائي - لوٹے کي ٹونٹي

لو لو *lulu*, a large pearl of a good water, large pearls of the first water. بڑا موتي آبدار - بڑے موتي آبدار - يهه اسم جس سے قليل اور کثير دونوں پر صادق آتا هے

لولي f. a prostitute, a harlot. - زن قحبه بازاري کسبي

لولي فلک n. the planet Venus. کنايه زهره ستاره سے

لوم m. blame, accusation, reprehension, reproach, (*met.*) miserliness, nigardliness. ملامت کرنا - مجازاً بمعني بخل اور کنجوسي سے

لومت f. blaming, accusing, reprehending, reproaching. ملامت کرنا

لون m. colour, external form, species, genius. رنگ

لوند a. free, independent, having no fixed residence, ignorant, unlearned, foolish, a rake. رند - بدمعاش

لويد m. an uncovered pot or pan. واے مجهول سے - ديگ اور بڑا پتيله منهه کهلا هوا

لويشة m. a rope tied to a horse to control him while shoeing. وه رسي جس سے گهوڑے کو بوقت نعل باندهنے کے بے قابو کرديتے هيں

لهاب m. blazing, flame without smoke, burning, kindling. آگ کي لپٹ - آگ کا شعله مارنا - آگ کا بهڑکنا - شعله

لهب m. becoming thirsty, flame of fire, glow, heat (of fire), flying or ascending (as dust). پياسا هونا - آگ کا شعله - آگ کي لپٹ - غبار اوپر چڑها هوا

لهث *a.* becoming thirsty, lolling (as the tongue of a dog when thirsty). - پياسا هونا كتے كا پياس سے زبان باهر نكالنا

لهجه *luhja*, *m.* breakfast. طعام - ناشتا - يعني نهاري

لهجه *lahja*, *m.* the tongue, voice, sound, tune, accent, dialect, idiom, usage. زبان محاورة - آواز خوش - الفاظ كي آواز - لغت قوم كي

لهذا *lihaza*, because, on that account, therefore, consequently. اسي واسطے

لهراسپ *n.* name of a king who was the grandfather of Isfandyar. نام ايک بادشاه کا جو اسفنديار کا دادا تها

لهف regretting, feeling sorry for. افسوس كرنا - رنجيده هونا

لهنة *m.* the breakfast, a small quantity (of sweets, etc) served to a guest preliminary to dinner. طعام ناشتا يعني وه كهانا جو صبح سويرے تهوڑا سا كها ليں - اور وه كهانے كي تهوڑي سي چيز جو مهمان كے آگے ركهديتے هيں كه وه اس سے شغل كرے جب تک ضيافت كا كهانا تيار هو

لهو *m.* playing, amusing one's self, copulating, unbinding the mind, play, any thing ludicrous or jocular. كهيل كود - جماع - وه چيز جو كسي كو نيک كام سے باز ركهے

لهوالحديث *n.* love stories, tales of songs and music, etc. عشق كے قصے - گانے اور سرود وغيره كي حكايتيں

لهيب *f.* the blazing fire. آگ شعله مارنے والي

لهيف regretting, poor, helpless, sorrowful, disconsolate. افسوس كرنے والا - بيچاره - غمگين رنجيده

لياذ sheltering, taking a refuge, seeking a refuge. پناه ليتا - پناه مانگنا

لياقت *f.* worth, merit, skill, abilities, dignity, knack, capacity. استعداد - حوصله

ليالي (*pl.* of ليل) nights. جمع ليل كي - راتيں

ليام (*pl.* of لئيم), misers, niggards. جمع لئيم كي - بخيل اور كنجوس لوگ

لئامه *f.* curse, imprecation, reproach. ملامت كرنا

ليت may it happen! God send! would that! كاش كے

ليت و لعل *lait o la'all*, evasion, prevarication, subterfuge, procrastination, delaying. كنايه هے كسي كام ميں تعهيل كرنے اور امروز و فردا كهكے ٹالنے سے

ليث *m.* a lion. شير درنده

ليثرغس *m.* vertigo, delirium, frenzy. سرسام بلغمي جو مرض مشهور هے

ليزم *f.* a kind of bow with an iron chain instead of a string, which the natives use in their gymnastic exercises, a bow not very strong to practise with. نرم كمان جس پر كمان كهينچنے كي مشق كرتے هيں

ليسيدن *inf.* to lick, to lap. چاٹنا

ليغ *m.* cowardly, timid, suspicious. بد دل

ليف *m.* bark of the date palm. درخت خرما كي چهال جو بهت باريک هوا

ليق / ليقة } *m.* a sponge used to absorb ink. صوف جو دوات ميں ڈالكر سياهي ميں اس كو تر كرتے هيں

ليک (*cont.* from ليكن), but, moreover, yet, notwithstanding. مخفف ليكن كا - مگر

ليكن *conj. prep. adv.* but, moreover, yet, notwithstanding. مگر

ليل *f.* night. رات

ليل و نهار night and day رات و دن

ليلا / ليلى / ليلي / ليلے } *f.* name of the celebrated mistress of Majnun, a mistress or beloved woman in general. معشوقة مجنوں كي - هر معشوق كے لئے استعمال هوتا هے

ليلة الاسرى *n.* The night of Muhammad's ascen to heaven on a winged animal called *Buraq*. Its size was between that of a mule and an ass, and is stretched as far as the eye could see. In the '*Mishkatu'l-masabih*' Muhammad is represented as saying: Whilst I was sleeping upon my side he (Gabriel) came to me, and cut me open from my breast to below my navel, and took out my heart, and washed the cavity with Zamzam water and then filled my heart with faith and science. After this a white animal was brought for me to ride upon. Its size was between that of a mule and an ass, and it stretched as far as the eye could see. The name of the animal was Buraq. Then I mounted the animal and ascended until we arrived at the lowest heaven, and Gabriel demanded that the door should be opened. In the seventh heaven he saw Abraham. Fifty prayers a day were then ordered, but Muhammad got them reduced to five. This journey is called Miraj or (ascent). شب معراج محمد كي

لیلة البدر m. the fourteenth day of every month in which a moon is full. چودھویں رات ھر مھینۂ کي جس میں چاند پورا ھوتا ھے

لیلة القدر n. the night of power, a special night in the month of Ramzán, called لیلة القدر or شب قدر and the devotion of this night is said to be equal to a thousand months. ماہ رمضان کے مھینۂ میں ایک رات ھوتي ھے جس کي عبادت ھزار مھینے کے برابر ھے

لیل لائل f. a dark night. شب تاریک

لیمو / لیمو } m. a lemon (*Citrus acida*). نیبو مشھور پھل ھے


لین / لینت } f. softness, (opp. of fierceness, disdain). نرمي

لین *laiyan*, a. soft. نرم

لیوس a. shameless; immodest, impudent. بے غیرت - بے شرم

لئیم a. reprehensible, miserly, niggardly, sordid. ناقص - کنجوس - بڑا بخیل

لئیما (Pers. *pl.* of لیئم), the miser, the niggard. جمع فارسي لیئم کي ھے - وہ لوگ جو بڑے کنجوس ھوں



mim, is the twenty-eighth letter of the Persian and the twenty-fourth letter of the Arabic alphabet. It is one of the labial letters, its sound being that of the English *m*. In reckoning by ابجد it stands for forty.

(without a *hamza*) a negative particle, meaning no, not, *Rel. Pro.* which, what, how, somewhat, something, also an interrogative particle. بغیر ھمزۂ کے حرف نفي ھے بمعني نیست اور نھیں اور کلمۂ استفھام بھي ھے اور اسم موصول بھي بمعنے انچہ - جوکۂ

ما (*pl.* of 1st Pers. Pron). we, us, our. - ھم ھمارا

ماء (*pl.* of میاہ), water, juice, *semen*, splendour, lustre, temper. ھمزۂ سے - پاني - میاہ جمع ھے

ماء الجبن m. *ma, u-l jubn*, whey (of goat's milk). وہ دودھ کا پاني جو اُس کو ترشي سے پھاڑ کر نکالتے ھیں

ماء الحیوٰۃ m. water of life, nectar. آب حیات

ماء الورد m. rose-water. گلاب کا عرق

ماء معین m. clear flowing water. وہ جاري پاني جو پاک اور صاف ھو

ماب a place where one may go back, a receptacle, repository. جاے باز گشت - وہ جگھۂ جھاں آدمي لوٹ کر جاوے جیسے اپنا گھر

مابقا the rest, the remainder, arrears, balance, leavings of food. کسي چیز کا باقي بچا ھوا پس خوردہ - آگے کا جھوٹا کھانا جو بچ رھے

مابون m. a catamite. a. infamous, despicable. ھوسیا - یعني وہ شخص جو علت آبنۂ میں گرفتار ھو

مابین n. meanwhile, interim. a. intermediate. درمیان

مات *lit.* dead, *f.* (in chess) mate, or what we call checkmate, which last phrase is a corruption of شاہ مات "the king is dead, or done for" مرگیا - اور شطرنج بازوں کي اصطلاح میں تاے موقوت کے ساتھۂ گرفتار اور قید ھوجانا شاہ شطرنج کا

مات / ماۃ } a. hundred. صد یعني سو جو عدد مشھور ھے

مات hundreds of. صدھا - سیکڑوں

ماتین (*dn.* of ماۃ), two-hundreds. تثنیۂ ماۃ کا - دو سو

ماتح a puller of water from the well. کنوئیں سے پاني کھینچنے والا

ماتقدم *ma-t-qaddam*, past event, incident. وہ چیز جو گذر چکي

ماتم m. grief, mourning, especially public mourning, as that which is held for a prince or at the *Muharrum*. رونا - پیٹنا

ماثر (*pl* of ماثرۃ), m. signs, marks, memorials, worthy or illustrious actions, histories, traditions, memoirs, biographies. نشانیاں نیک - کار ھاے عمدہ اور پسندیدہ

ماثم *masam*, m. a sin, fault, crime. گناہ - اثم

ماثم *masim*, (*pl.* of ماثم), sins, faults, crimes. جمع ماثم کي بمعني گناہ کے

ماثور a. transcribed, copied, given a vengeance. منقول - نقل شدہ

ماثوم m. a sinner, criminal. گناھگار

ماح m. the moon. ماہ - چاند

ماجد m. great, venerable (man.) مرد بزرگوار

ماجدہ m. great, venerable (woman) زن بزرگوار

ماجرا m. state, condition, circumstances. an event, incident, occurrence, adventure, account of circumstances. واردات - وہ چیز جو گذر گئي - سرگذشت - زمانۂ گذشتۂ کا حال

ماجن *m.* fearless. *m.* a droll, a jester, a buffoon, a fool. بیباک - مسخرہ

ماجوج *n.* Magog, the descendants of Yafas, the son of Noah. the Tartars. یافث بن نوح کي اولاد - تاتاري

ماجور compensated, requited, rewarded. اجر دیا گیا - ٹھیک بدلہ دیا گیا - ثواب دیا گیا

ماچ *m.* a kiss. بوسہ - چوما

ماچین *m.* name of a country north of China and east of Deccan, China or Chinese Tartary, any thing kissed. ایک ملک ھے چین کے دکھن اور ھندوستان کے پورب طرف

ماح *n* white of an egg. (مح the yoke of an egg). سفیدي جو مرغي کے انڈے میں ھوتي ھے

ماحصل any thing collected, the harvest, produce of fruit trees, etc., profit or income. محصول - حاصل کي ھوئي شے - خلاصہ

ماحضر that which is present or ready, any eatable thing, present جو حاضر ھو - کہانے وغیرہ کي جو شے موجود ھو - مگر خاص کر استعمال اس کا فارسي میں کہانے پر آتا ھے

ماحي *m.* destroyer, annihilating, effacing. محو کرنے والا - نیست اور نابود کرنے والا

ماخذ *m.* a source, origin, receptacle, whence any thing is taken. جگہہ اخذ کي - وہ جگہہ جہان سے کوئي چیز لیں

ماخوذ captured, caught in, taken out, borrowed, adopted. گرفتار - پکڑا گیا - لیا گیا

ماخول
ماخولیا } *m.* madness, insanity, melancholy, melancholia, hypochondria. مخفف ھے مالیخولیا کا جو ایک مرض سوداوي دماغ میں ھوتا ھے

مادام *prep.* or *conj.* whilst, until, as long as, (also) always, continually. یہہ افعال ناقصہ میں سے ھے تاوقتیکہ - اور بمعني مدام اور ھمیشہ کے بھي آتا ھے

مادبہ *m.* invitation, feast. ضیافت

مادح *m.* one who praises, an encomiast. تعریف کرنے والا

مادخ *m.* a venerable man, brave, conquering, noble, blessed. مرد بزرگ و غالب و ارجمند

مادر *f.* a mother. ماں - والدہ

مادر زاد *a.* naked, as born of the mother, innate. وہ بچہ جو اپني ماں کا جنا ھوا ھو اور عیب یا خوبي جو پیدایشي ھو

مادر مادر *f.* a maternal grandmother. ناني

مادر اندر
مادندر } *f.* a step-mother. سوتیلي ماں

ماسوا *prep.* besides, moreover, save, except, whatever else ماسوا - علاوہ

مادہ *mada*, female, feminine, (sub.) a female. استري - عورت جو مقابل نرکے ھے اور اس کا استعمال غیر انسان میں ھوتا ھے

مادہ *madda*, *m.* a matter, subject, article, affair, clause, first principle ھیولا - ھر چیز کي اصل - ترکیب - ھر شے کا سامان - استعداد - وہ چیز جس سے کوئي دوسري چیز بنائي جائے - وہ چیز جو محسوس ھو سکے

مادي *maddi*, material, relating to matter. منسوب طرف مادہ کے

مادیان *f.* a mare, a she ass. گھوڑي

ماذون *m.* licensed slave, *i. e*, one permitted by his owner to trade, etc., as is done to serfs in Russia. اذن دیا گیا - حکم کیا گیا - اجازت دیا گیا

مار *m.* a snake, (*met.*) a tyrant, pitiless. سانپ - اور مراد ظالم اور بے رحم سے

مارا *pro.* us, our. ھمارے تئیں - ھمکو

مارا سفند *m.* the ninteenth day of every solar month. انیسویں تاریخ ھر مہینہ شمشي کي

مار افسا *m.* a snake-charmer, (*met.*) a magician سانپوں کا افسونگر یعني منتر پڑھنے والا - مجازاً بمعني مطلق افسونگر کے بھي آتا ھے

مارب *m.* intention, wish, desire, purpose, meaning, an object in pursuit. مطلب - مقصد

مارب (*pl.* of مارب), intentions, desires, etc., also places of any necessary business. بروزن مقاصد جمع مارب بمعني مطلب اور حاجت کي - اور بمعني حاجت طلب کرنے کے مقامات

ماربرہ *f.* a nurse, foster-mother. دایہ - منھہ بولي ماں

مار پیچیدہ (*met.*) a chain. کنایہ زنجیر سے

مارپیچ circumvolution, twisted, curled, the tassel of a banner, a picture like a few snakes intertwisted. پرچم - خمدار - لشکر کے جھنڈے کا پرچم - کئي سانپوں مانند باھم پیچیدہ تصویر جو بني ھو

مار پیکر درفش (*met.*) the night, the sky. کنایہ رات سے اور کنایہ آسمان سے

مارج smokeless fire, father of genii. دھویں کي ورشن آگ - دوم جن کے باپ کا نام

مار حمیري (*met.*) the king Zahhak who belonged to the tribe of حمیر. کنایہ ضحاک بادشاہ سے جو قبیلہ سے تھا

مار ضحاک *m.* the snake who had sprung from the forehead of king Zahhak and always used to eat the brain of men. وہ سانپ جو ضحاک بادشاہ کے شانہ میں پیدا ھوا تھا اور ھمیشہ آدمي کے سر کا بھیجا کہاتا تھا

مارق excommunicated, depraved, going astray. دين سے خارج - گمراہ

مارگزا m. a black snake having a big hood. کالا سانپ جس کا پهن بڑا هو

مار مهرہ m. a charmed stone said to be found in the head of an old serpent, an antidote. ایک مهرہ هوتا هے جو پرانے سانپ کے سر سے نکالتے هیں - اور یهہ زهروں کا باطل کرنے والا هوتا هے

مار نکا سر (met.) the nine heavens. کنایہ آسمان نو طبق سے

ماروت m. name of an angel who has been confined in the well of Babel at the command of God. نام ایک فرشتہ کا جو بابل کے کنوئیں میں بحکم خدا قید هے

ماري destruction, ruin. هلاکت

مازن m. eggs of an emmet, name of a tribe. چیونٹي کا انڈا - اور نام ایک قبیلہ کا تمیم کا

مازو m. the oak apple or gall. نام ایک مشهور دوا کا

ماس m. active, cunning, a diamond. مرد چست و چالاک اور بمعنی الماس کے بهي آتا هے

ماس (cont. from آماس), swelling, inflammation. مخفف آماس کا جس کو ورم و سوجن کهتے هیں

ما سبق past, elapsed, gone by or beyond, belonging to an earlier period. گذشتہ - جو پهلے گذر چکا

ماست m. curd, coagulated milk. جغرات - دهي

ماست بند m. a cheese-maker. پنیر بنانے والا

ماسخ a. tasteless, insipid, vapid. بے مزہ - پهیکا

ماسک n. an ellipse, an oval figure. مرکز بیضوي شکل کا

ماسلف past, elapsed. گذشتہ

ماسوا prep. besides, moreover, save, except, whatever else, (fig.) the whole creation (except God). علاوہ - سوا - اصطلاحاً سوائے خدا تعالیٰ کے تمام مخلوقات اور موجودات کو کهتے هیں

ماش name of a kind of pulse commonly called black gram (Phaseolus mungo), household furniture. تهرے مونگ ایک غلہ مشهور هے - اسباب خانہ

ماشطہ mashita, f. a waiting maid, a woman who combs hair, a bride-dresser, a woman who makes or concerts marriages, a go-between. وہ عورت جو دوسري عورتوں کے سر میں کنگهي کرتي هے اور جو دلهن کو سنوارتي اور آراسته کرتی اور اس کو مشاطہ بهي بولتے هیں

ماشو f. a sieve, a riddle. چلني - غربال

ماشورہ m. the spout of a water-pot, weaver's tool, a hank, a skin, a ball of raw thread formed on the spindle. لوٹے وغیرہ کي ٹونٹي - جولاهے کے کپڑے بننے کا ایک آلہ - کچے سوت کي لکڑي جو چرخہ کے تکلے پر بنتي هے

ماشہ m. blacksmith's pincers, the cock of a matchlock, name of a small weight consisting of eight rattis. لوهاروں کي سنسي - بندوق کا گهوڑا - آٹهہ رتي وزن

ماص m sucker. چوسنے والا

ماصدق ma sadq, that which is true. وہ چیز جو صادق هو

ماضر m. very sour milk. نهایت کهٹا دودهہ

ماضغہ n. the power of mastication. قوت چبانے کي

ماضي past (time). m. (in gram) the preterite indefinite past tense. گذرا هوا زمانہ - گذشتہ

ماضیہ m. past, elapsed, gone before. گذشتہ

ماطر m. raining. برسنے والا

ماعز m. a he goat. بز نر - بکرا

ماعزہ f. a she goat. بز مادہ - بکري

ماعون n. household furniture, utensils, etc., required in keeping a house. اسباب گهر کا - جن چیزوں سے امور خانہ داري میں مدد طلب کریں

ماغ m. a black water-fowl, cloud, fog, vapour, mist, a kind of pigeon, piebald, black and white. نام ایک پرند کا سیاہ رنگ کا جو اکثر پاني پر بیٹهتا هے - اور بمعني ابر - بخار اور بهاپ کے جو فصل سرما میں اکثر صبح کے وقت هوتي هے - نهاسا - کهرا - ایک قسم کا کبوتر - اور بمعني ابلق یعني چتکبرے کے بهي آیا هے

مافات f. a thing which is extinct, a work which is too late to be done. جو چیز فوت هوگئي هو - وہ چیز جس کے کرنے کا وقت گذر گیا

مافوق what is above or superior. اوپر

ماقبل what is before. پهلے

ماقوت n. name of a kind of Hulva. نام ایک قسم کے حلوا کا

ماکر a. artful, cunning. مکار - حیلہ گر

ماکل eating (met.) eatable. خوردن کهانا مجازاً کهانے کي شے

ماکل pl. of ماکل جمع ماکل کي

ماکول that what is eaten, an eatable. کهایا گیا - کهانے کي چیز - وہ جو کهائی جائے

ماکو *m.* a weaver's tube. جولاهوں کا لوهے کا آله - نال (هندي)

ماکیان *f.* a fowl, a hen. یهه لفظ مفرد هے جمع نهیں هے - ایک مرغي گهر کي پلي هوئي

مآل *ma'al, m.* end, termination, issue, tendency. جاے رجوع - جاے باز گشت اور بمعني انجام کار کے مستعمل هے

ما لا کلام what is unutterable, indescribable, جس میں کچهه کلام باقي نهو

مالا مال *a.* much, replete, abundant, (*met.*) full, brimful, overflowing. کثیر - بهت - مجازاً بمعني پر بهرا هوا - لبالب

مالا یطاق what is beyond one's power to do. وه کام جس کے کرنے کي طاقت و قدرت نهو

مالاینحل *ma la-yanhall*, that cannot be solved, inextricable, (*met.*) hard, difficult, very difficult. وه چیز جو قابل حل هونے کے نهو - مجازاً بمعني کٹهن - سخت - بهت دشوار

مالایغني *a.* foolish, unprofitable, useless. بیهوده - بیکار - بیفائده

مالخ *m.* a fugitive, one who runs away, mad, insane, hypochondriac, crack headed. گریزنده - بهاگنے والا - سودا - خلل دماغ - سڑي - سودائي

مالش *f.* rubbing, polishing, furbishing, a feeling of nausea, exhaustion, fatigue, weariness. مالیدگي - معلنا - جي متلانا - ماندگي - کونتگي - راه تهکن

مالشگري *f.* kissing and toying, dalliance, interchange of caresses between. عورتوں سے بوس و کنار کرنا

ماضامن *m.* a security (for property or money, in opposition to. (حاضر ضامن) وه شخص جو اس طرح پر اقرار کرے که اگر یهه شخص بهاگ جائیے گا تو میں اسقدر مال سوکار میں حاضر کرونگا

مالکانه *n.* the right of being a master or owner. مالک هونے کا حق

مالکیت *f.* possession, property, patronage, ownership, proprietorship. مالک هونا - مالک پن

مالگذار *m.* a tenant, a subject, a tax-payer, a land-holder. سرکاري محصول دینے والا

مالگذاري *f.* rent, the paying of rents or revenues, land paying revenue. سرکاري زمین وغیره کا محصول ادا کرنا

مال و متاع *m.* goods and money, the whole property. اسباب اور روپیه

مالوف *a* the one loved, familiar, accustomed to live in friendship, ordinary, customary. انفت کیا گیا - خوگرفته - دوستي کیا گیا

ماله *m.* a trowel; a mason's hand-tool for lifting and dressing mortar and plaster. کرني جس سے کهگل اور گارا وغیره دیوار پر ملتے هیں

مالي *m.* filling, becoming full. - پر کرنے والا - پر هونے والا

مالیت *f.* wealth, riches. دهن - دولت

مالیخولیا *m.* melancholia, melancholy, madness, twaddle, wretched or tedious talk, vain idea. خلل دماغ - سودا - خیال خام

مالیدن *inf.* to rub, to anoint. ملنا

مالیده *m.* rubbed, anointed, (ملیده is *contr.* from مالیده) bread or cakes made with flour, milk, butter, sugar, etc. ملا هوا - ملیده اسي کا مخفف هے جو مشهور هے

مالیده گوش *a.* wary, cautious, prudent. هوشیار - خبر دار

مام *f.* mother. ماں - مادر

ماما *f.* an old woman. بڑهیا - بوڑهي عورت

ماما مچه *f.* a midwife, a woman who assists other women in childbirth. دائي جنائي جو بچه جناتي هے

ماضي past, (time) elapsed, gone before. وه جو گذر گیا - زمانه گذشته

مامک *f.* a dear little mother, (a term of endearment), (sometimes it is used for) a daughter, a boy's game. ماں - والده - یهه پیار کا لفظ هے - کبهي پیار سے بیٹي کو بهي کهتے هیں لڑکوں کے ایک کهیل کا نام جسے مامک بهي کهتے هیں

مامن *m.* place of security, place of rest. جاے امن - آرام کي جگهه

مامور *a.* ordered, commanded, fixed, appointed to a situation, determined, defined; (sub.) usage, established custom. حکم کیا گیا - امر کیا گیا

مامول *a.* hoped for, expected. امید کیا گیا

مامون rendered secure, preserved, exempted safe, firm, constant, name of a caliph of Bughdad, the son of Harun Al Rashid. امن کیا گیا - محفوظ - بیخوف - نام خلیفه بغداد کا جو هارون رشید کا بیٹا تها

مامیٹا *n.* name of a very tasteless grass, the juice of which is also called. نام ایک مامیٹا بد مزه گهاس کا اُس کے رس کو بهي مامیٹا کهتے هیں

مامیران *m.* name of a medicinal root resembling turmeric and is a remedy for an eye-disease. نام ایک جڑ کا جو هلدي سے مشابه هوتي هے - یهه آنکهه کي دوا کے لئیے کام آتي هے

ماں *m.* a house, goods, furniture, *Rel. Pron. pl.* we, us, our, (also) alike, equal, resembling. خانه - گھر - اور بمعني متاع - اسباب اور بمعني ما جو ضمير متكلم کي ھے يعني (ھم) اور بمعني مارا اور مرا کے بھي آتا ھے يعني ھم کو - اور بمعني شبيه اور نظير اور مانند کے بھي

ماتا alike, equal, resembling, truth, certainty, uncertainty. شبيه - مانند - نظير - مانند ھونے والا - مشابه - شايد - تحقيق

مانح *a.* liberal, munificent, bountiful, gracious, forgiving. سخي - بخشنے والا - کريم

ماندگي *f.* fatigue, weariness. عاجزي - تھکن

مانده *a.* tired, weary, fatigued. - عاجز رھنا تھکا ھوا

ماندن *inf.* to remain, to be fatigued or worn out. رھنا

مانستن *inf.* to resemble. مشابه ھونا

مانسته *a.* compared, resembled, resemblance. مشابه کيا گيا - مشابه

مانع *m.* an obstacle, impediment, a forbidder, preventer. منع کرنے والا - روکنے والا

مانعات *pl.* of مانع جمع مانع کي

مانوس *m.* a companion, associate, friend, amiable, desirable, accustomed. جس چيز سے محبت ھو گئي ھو - خو گر - پسند - مرغوب

ماني *n.* name of a celebrated painter, Mani, who was a resident of Turkey. He was the compiler of the book Arzhang. نام ايک بھت مشھور نقاش کا جو ساکن روم کا تھا

مانيدر *f.* a step-mother. سوتيلي ماں

ماوي *f.* dwelling, abode, habitation, one's own house. جاے باز گشت - جاے پناه - اپنا گھر - جگھه پھر کر آنے کي

ماوراے *adv.* besides, moreover in addition. علاوه - سوا - وه چيز جو کسي چيز کے پيچھے ھو

ماوراءالنهر what is beyond a river, or canal. وه چيز جو دريا اور نھر کے اسطرف ھو

ماورالنهر (*cont.* from ماوراءالنهر). مخفف ماورا والنھر کا

ماوف *a.* distressed, troubled, afflicted. آفت رسيده - دکھه پھونچا ھوا

ماول what has been explained, elucidated, interpreted.

ماهانه *a.* monthly. ماھوارى

ماهتاب *m.* the moon, moonlight, moonshine. چاند - چاندني

ماهتاب بگز پيمودن to measure the moonlight with a yard which is an impossibility hence it comes to mean, "to do a thing which cannot be done." چاندني کو گز سے ناپنا - چونکه يهه بات غير ممکن ھے لهذا کنايه ھے امر محال کے کرنے اور حرکت لغو اور بيفائده سے

ماهج *m.* very thin milk. بالکل پتلا دودھه

ماه جلالي (*met.*) the solar month which relates to an era reckoned from the time of Jalal-ud-din. Malik Shah, son of Alp Arslan of the Seljuk dynasty of Persia, commencing at the vernal equinox A. D. 1079. کنايه ھے ماه شمسي سے جو منسوب ھے طرف تاريخ جلال الدين ملک شاه سلجوقي کے

ماهچه *m.* banner or an ensign bearing a figure of a moon made of silver or gold. سونے يا چاندي کي مانند علم پر يا فوج کے جھنڈے پر ايک شکل لگاتے ھيں

ماه در عقرب *m.* entering of the moon in the sign scorpio and at this time good deeds are prohibited. ھونا چاند کا برج عقرب ميں اور اُس وقت ميں نيک کام کرنا منع ھے

ماهر acute, ingenious sagacious, skilful, clever, proficient. کسي کام ميں بڑا اُستاد

ماهرو having a face beautiful as the moon, charming, elegant. *f.* a mistress. - معشوق چاند کے مانند چھره

ماه کنعان (*met.*) Yusaf (Joseph) کنايه يوسف سے

ماهن *m.* a servant, an attendant. - خادم خدمتگار

ماهوار monthly, per month, monthly wages. ھر مھينے - مھينے مھينے

ماه ورق (*met.*) the heaven. مراد آسمان سے

ماهه *m.* a carpenter's gimlet, a *masha* or a small weight equal to eight *rattis*. برمه جس سے لکڑي وغيره ميں سوراخ کرتے ھيں - اور بمعني ماشه جو آٹھه رتي کا وزن ھوتا ھے

ماهي *f.* a fish, (sometimes) the fish which is underneath the earth. مچھلي - اور کبھي مراد اس سے مچھلي سے بھي ھوتي ھے جو زمين کے نيچے ھے

ماهيانه *m.* monthly salary. مھينے کا ماھوارى

ماهيت *f.* state, condition, circumstances quality, value, essence, intrinsic worth. احوال متعلق و حکمت کا دنيا ھوا اب حقيقت کسي چيز کي حقيقت کا مستعمل ھے

ماهيچه small thread of pure boiled with soup, vermicelli. ميده کو سوياں جس کو وه اور شکر کے ساتھه کھاتے ھيں عربي اطريه

مائت *f.* perishing ; dying ; subject to death. مرنے والا

مایحتاج *a.* requisite, necessary, essential, something essential. رہ شے جس کی بابت انسان کو حاجت پڑتی ھے

مائدہ *m.* a tray full of dainties, a tray-cloth, a table-cloth. خوان بھرا ہوا کھانے اور نعمت سے - دسترخوان جس پر کھانا چنا ہو

مائدہ مسیح *m.* a tray full of dainties which used to descend on Christ for the poor. ایک خوان پر از طعام جو عیسی پر غریبوں کے لئے نازل ہوا کرتا تھا

مائع *f.* any thin substance like water, oil, vinegar, honey, etc. رقیق اور پتلی شے جیسے پانی - تیل - سرکہ - شہد وغیرہ

مایملک (*met.*) household furniture, a thing in one's possession, property کنایہ ھے گھر کے اسباب سے - اور وہ چیز جو کسی کے قبضہ میں ہو

مایقرا *m.* a clear handwriting, a writing which could easily be deciphered. ایسا لکھا ہوا جس کو آدمی پڑھ سکے

مائل *a.* inclined towards, taking delight in, affectionate, having a propensity. Inclination, or partiality, addicted, apt متوجہ - میل کرنے والا - خواہش کرنے والا - شائق جھکا ہوا

مائن *m.* a liar. دروغگو - جھوٹھا

مئین (*pl.* of مائۃ), hundreds of. صدہا - سیکڑوں

مایوس *a.* hopeless, desperate. نا امید - بے آس - وہ چیز جس کے ملنے کی امید قطع ہو گئی ہو

مایہ *m.* wealth, stock, money, root, origin, principle, a capital in trade, stock or store, measure, quantity, value, female, name of a famous cow who used to give milk to Fareedun, actions, deeds. - پرمایہ اصل - مادہ - مقدار - قدرت - سامان - بنیاد - اور بمعنی مادہ جو صد نر کی ھے - نام اُس گائے کا جو فریدوں کو دودھ پلا جاتی تھی - اور مراد اعمال سے بھی ھے

مائی *a.* of or relating to water, watery منسوب طرف ماء بمعنی پانی کے

ماہی (con. from. ماوراءالنہری), inhabitant of. ماوراءالنہر مخفف ماوراء النہر کا یعنی - ماوراءالنہر کا رہنے والا

مبا (cont. from l مبادا), by no means, God forbid, lest, let it not so happen. مخفف مبادا کا - مت ہوجیو

مباح *m.* lawful pleasure, any indifferent action, which incurs neither praise nor blame. جائز رکھا گیا - حلال کیا گیا

مباحثہ *m.* a dispute, debate, discussion, contest, argumentation, investigation. باہم بحث کرنا

مبادا } by no means, God forbid, lest, let
مباد } it not so happen. مت ہوجیو - خدا نکرے کہ یوں ہو

مبادات originating. ظاہر کرنا

مبادر *a.* expeditious, speedy, prompt, nimble, active, labouring, excelling, surpassing. جلدی کرنے والا پیشی اور سبقت لیجانے والا

مبادرت *f.* haste, expedition, labouring, excelling, valour, diligence. شتابی کرنا - پیشی لیجانا - کسی کام میں دلیری کرنا

مبادلہ *m.* exchange, barter, retaliation, recompense. بدلہ کرنا - باہم بدل کرنا

مبادی (*pl.* of مبدء) places of origin, (*met.*) beginnings, origins. جمع مبدء کی - جگہہ ظاہر ہونے کی - مجازاً ابتدا کی باتیں جو شروع میں سکھائی جائیں

مبارا } dissolution of marriage, part-
مبارات } nership, etc., by mutual consent ; mutual disagreement between a husband and his wife. بیزاری زوجہ و شوہر کی آپس میں

مبارز *m.* a hero, a warrior, *a.* prepared or ready for war. لڑنے والا سپاہی - کسی کے مقابلہ پر جنگ کے لئے نکلنے والا

مبارزت *f.* battle, war, fight. جنگ - لڑائی

مبارک *a.* happy, fortunate, blessed, august, sacred, holy, welcome, well, suspicious. برکت کیا گیا - بزرگ کیا گیا - خجستہ - ھمایوں - خوب

مباسطت spreading, fair treatment, (*met.*) friendship, affection. پھیلانا - کسی کے ساتھہ کشادگی اور فراخی کا برتاؤ کرنا اور یہہ کنایہ دوستی اور محبت سے

مباسلت *f.* valour, bravery, heroism. - شجاعت جوانمردی

مباشر *m.* a superintendent, an agent, (in law,) the doer of anything of his own will. کسی کام کا آپ اپنی خوشی سے کرنے والا

مباشرت *f.* commencement, or undertaking of any affair, having carnal knowledge of a woman. آپ کسی کام میں گھسنا - عورت سے جماع کرنا

مباعدت *f.* separation, alienation, absence. دوری - مفارقت

مباقل *mabaqil*, *m.* kitchen-gardens. ترکاري کے کهيت جهان پر بيگن - شلجم - پياز - لهسن - ساگ وغيره بوئے هوئے هوں

مبالا (*contr.* from مبالات), مخفف مبالات کا

مبالات *f.* fear, suspicion, care. anxiety. ڈر رکهنا - خوف رکهنا - انديشه کرنا - فکر کرنا

مبالغه *m.* exaggoration, hyperboli, diligence, endeavour, dwelling on a subject. کسي کام ميں سخت کوشش کرنا - اصطلاحاً کسي کي تعريف يا هجو اس طرح پر بيان کرنا جو محال معلوم هو

مباني (*pl.* of مبني), basis, foundation, (sometimes) contents, (*met.*) bodies, limbs. جمع مبني بمعني جاے بنالي - بنيادين اور کبهي بمعني مضامين کے بهي آتا هے - اور کبهي کنايه اعضا اور اندام سے بهي هوتا هے

مباينت *f.* separation, absence, parting. جدا هونا - ايک دوسرے سے علحده هونا - جدائي - عليحدگي

مباهات boasting, glorying, pride, arrogance, glory, honour, consequential airs. - فخر کرنا ناز کرنا

مباهجت *f.* mutual boasting on beauty and virtue mutual happiness. - باهم فخر کرنا نکوئي اور حسن ميں - باهم خوش هونا

مباهله *m.* mutual curse. ايک دوسرے کے حق ميں دعائے بد کرنا

مباهي *a.* glorious, exalted, presuming, arrogant, proud. ناز کرنے والا - فخر کرنے والا

مبايعه *f.* entering into a contract of purchase or sale, following. obeying. بيعت کرنا - تابع هونا

مبت *f.* nakedness, shame ignominy. - عار ننگ - شرم

مبتدا *f.* commencement, principle or subject of a proposition, substantive noun in the nominative case. شروع - اول جزو جملۂ اسميه کا

مبتدع *m.* blasphemous, heretic, schismatic, oppressor. بدعت کرنے والا - بدعتي

مبتدي *m.* beginning, a young scholar, a disciple just commencing to learn, a tyro, a founder, a commencer. شروع کرنے والا - ابتدا اور آغاز کرنے والا

مبتذل *a.* contemptible, base, low, disregarded. ذليل - خوار - بيقدر

مبتر *mubattar*, *a.* tail-clipt, childless, bad, wicked, (also) an enemy, foe. - دم کٹا هوا بے اولاد - خراب اور بمعني دشمن کے بهي آيا هے

مبتسم *a.* smiling, laughing. - کهلنے والا هنسنے والا

مبتغا } desired, wished for, hope, anxiety,
مبتغي } desire, wish. چاها گيا - خواهش کيا گيا - اميد - آرزو

مبتغيات *f.* hopes. expectations, anxieties, wishes. اميدين - آرزويں

مبتلا *a.* afflicted, tried with affliction, inured to distress, unfortunate, involved in trouble. آزمايا گيا - بلا ميں پهنسا هوا - گرفتار بلا و رنج ميں

مبتلي *m.* a tester, examiner, trying. آزمانے والا - امتحان لينے والا

مبتني *m.* founder, an originator. بنا کرنے والا

مبتنى *a.* founded, originated. - بنا کيا گيا بنياد ڈالي گئي

مبتهج *a.* happy, glad, merry. شادان - خوش

مبثوثه *m.* dispersed, confounded, agitated, perplexed, scattered. پرا گنده - پريشان

مبحث time or place for disputation. جاے بحث - مقام بحث

مبخر *mubakhkhar*, perfumed, odorous, vapoury. بهاپ اٹهانے والي شے

مبخلي *f.* miserliness, niggardliness, of or relating to a miser. بخيلي - بخيل سے نسبت کيا جانا

مبدرق *m.* a guide, a leader. رهبر

مبدع *mabda'*, *m.* an invention, discovery, fiction. آپ کسي چيز کو اپنے دل سے نکالا

مبدع *mubda'*, *m.* a creator, author, inventor, founder, one who feigns or tells a lie. آپ کسي چيز کا اپنے دل سے پيدا کرنے والا - بے ماده بنانے والا - ايجاد کرنے والا

مبدل changed, altered. بدلا هوا - بدلا گيا

مبدو the beginning, origin, source, principle. مقام آغاز کرنے کا - جگهه آشکارا اور ظاهر هونے کا

مبدو *mubd'*, *m.* a beginner, originator, creator. شروع کرنے والا - ظاهر کرنے والا - پيدا کرنے والا

مبدۂ فياض *m.* one who bestows, very liberal, exceedingly munificent, an appellation of God. شروع کرنے والا - بڑا فيض رسان - مراد خدا يتعالى سے

مبذر *a.* prodigal, lavish, extravagant, profuse. اسراف کرنے والا - بيهوده اور بے موقع خرچ کرنے والا - فضول خرچ

مبذول expended, bestowed, accepted. خرچ کیا گیا - قبول کیا ہوا- بخشي ہوئي چيز

مبرا *mubarra*, *a.* displeased, angry, sick of, free, absolved, exempted, far removed from. بيزار شدہ - دور شدہ - بيزار - پاک کيا گيا

مبرات *mubarrat*, (*pl.* of مبرت) *f.* purified things. هر چيز مونث جو پاک کي گئي هو

مبرد *mubarrid*, coaling. سردي دينے والا - سرد کرنے والا

مبرد *mubarrad*, any thing cooled down. سرد اور ٹھنڈا کيا گيا

مبرد *mibarad*, *f.* a file, a whetstone. سوهن جس سے لوها وغيرہ رگڑتے هيں

مبردات *f.* things producing a cold effect, cooling medicines. - سرد کرنے والي چيزيں سرد دوائيں

مبرز *mabraz*, the anus, podex. - مقعد پاخانہ نکلنے کي راہ

مبرز *mubbarraz*, clear, bright, shining, great, exalted, famous - ظاهر - روشن - بزرگ نامور

مبرم *a.* firm, strong, urgent. محکم - استوار

مبرور *a.* favoured, pure. نيکي کيا گيا - پاک

مبرون demonstrative, evident, manifest. دليلوں سے ثابت کي هوئي شے - بهت ظاهر اور روشن

مبسوط spread out, expanded, name of a theological book. پهيلا هوا - فراخ - کشادہ کيا گيا - نام ايک کتاب کا فقه ميں

مبسوطہ *m.* expanded, ample, wide, uncompounded, unmixed. - فراخ چيز - کشادہ کي گئي وہ چيز جو غير مرکب هو

مبشر *m.* a bearer of glad tidings, a messenger of peace, an evangelist. خوش خبري پهونچانے والا - بشارت دينے والا

مبصر *mubassir*, one who can see, provident, penetrating, clear, conspicuous. - بينائي والا پهچاننے والا

مبضع *m.* a lancet, a sharp-pointed and two-edged instrument used in letting blood, etc. فصد کهولنے کا نشتر

مبطان *m.* big-bellied, pot-belly, a glutton. وہ شخص جس کا پيٹ زيادہ کهانے کے سبب سے بڑا رهے

مبطخہ *m.* a melon field. خربوزہ کا کهيت

مبطل *a.* abolishing, defacing or destroying, an abolisher. باطل کرنے والا

a kitchen garden, (*pl.* مباقل). ترکاري کا ايک کهيت

مبغوض *a.* hated, detested, odious, viewed as an enemy. حقير - حقارت کيا گيا

مبل *muball*, falling, bedewing, wetting, shedding tears. - تر کرنے والا - گرانے والا - اشکبار - آنسوؤں کا بهانے والا

مبلغ *m.* the place of arrival, amount, sum, ready money, much, many, little. پهونچنے کي جگهہ - مقام حد - نهايت مقدار - اندک - بسيار

مبلغ *muballagh*, sent, taken to. پهونچايا گيا

مبني / مبنی } *m.* a foundation, basis. بنا کيا گيا

مبهج *a.* happy, glad. شادمان - خوش

مبهج *mubahhaj*, *m.* gladdening, pleasing. خوش اور شاد کرنے والا

مبهم occult, unknown, keeping concealed, ambiguous, equivocal. - پوشيدہ - کار فروبستہ کلام مبهم جو کسي طرح دريافت نهو سکے

مبهوت stupified, astonished, struck dumb with astonishment, confounded. - حيران بهوچکا

مبيت passing the night, doing any thing at night, abiding, a bed chamber or any place wherein to pass the night. کسي جگهہ رات گذارنا - شب گذارنے کا مقام

مبيع *f.* anything sold or bought, venal. شے خريد کي هوئي - چيز بکي هوئي

مبين *mubin*, clear, manifest, manifesting, manifested. ظاهر - آشکارا - ظاهر اور آشکارا کرنے والا - ظاهر شدہ

مبين *mubaiyan*, *m.* explaining, illustrating. بيان کرنے والا

مبيہ *mubaiya*, *m.* aphrodisiaca, provocative, that which excites venery. قوت باہ پيدا کرنے والا

مپيش (changed form of مپاش), don't sprinkle اماله مپاش کا - مت چهڑک

متي *adv.* and *conj.* when, at what or which time. کب - کسوقت - جس وقت

متاب returning, place of returning. لوٹ جانا - جاے رجوع

متابعت *f.* obsequiansness, following, understanding, or imitating one another, submitting, obeying, doing any thing solidly and certainly, doing in the same manner after another. تابعداري - اطاعت

متاثر touched, impressed, affected, effective, efficatious. اثر قبول کرنے والا - اثر پذير

متاجرت act of going of two men for a trade together. باهم سوداگري کرنا

متاخر *m.* a follower, succeeding, the one left behind. پیچھے آنے والا ۔ وہ شخص جو پیچھے رہ گیا ہو

متاخرین modern, late. پچھلے لوگ ۔ حال کے زمانہ کے لوگ

متادب *a.* well-bred, learned, polite. ۔ مہذب عالم

متادي *muta'addi*, *a.* prepared, ready, performing. پہونچانے والا

متاذي *muta'azzi*, *a.* afflicted, troubled, grieved, sad. تکلیف پانے والا ۔ آزردہ ہونے والا

متاسف *a.* sorrowful, afflicted, anxious, oppressed with grief. افسوس کرنے والا

متاع *f.* merchandise, goods, chattels, furniture, effects, etc., valuables, capital. پونجي ۔ اسباب سوداگري ۔ گھر کا اسباب

متاعب (*pl.* of تعب), labours, lassitudes, wearinesses, griefs. جمع تعب بمعني رنج اور ماندگي کي

متاع غروري (*met.*) the world دنیا ۔ یہہ جہان

متاع کس مخر *m.* the worthless goods which no one buys. وہ اسباب جو بوجہ ناقص ہونے کے کوئي نہیں خرید کرے

متاع کم ارز a worthless thing of a low price. کم قیمت اور حقیر شے

متالف composed, compiled, connected, one who cultivates the acquaintance or conciliates the good-will of another. تالیف کیا گیا ۔ مرکب کیا گیا ۔ ملایا گیا

متالم *muta'allim*, *a.* grieved, sad, afflicted, pained, discontented, painful. ۔ رنج کشیدہ رنجیدہ ۔ دکھیا ۔ درد مند ۔ درد ناک

متالین *m.* worshippers of God, devotees of God, Muhammadan doctors. خدا کي پرستش کرنے والے ۔ خدا کي عبادت کرنے والے ۔ حکیم لوگ جو صاحب اسلام تھے

متامل *muta'ammil*, *a.* contemplative, considerating, examining attentively, تامل کرنے والا بہت غور و فکر کرنے والا

متانت *f.* firmness, solidity, a fortification, a castle, obstinacy. استواري ۔ مضبوطي

متاهل *m.* a married man, a man with wife and children. جورو لڑکوں والا

متبادر *a.* diligent, active, excelling, surpassing. جلد فکر میں آنے والا ۔ بیشي لے جانے والا

متبحر *muta ahhir*, profound, especially in learning, one deep in knowledge, a doctor. بڑا عالم شخص

متبدل *a.* inserting, changing alternately. بدلا کیا گیا ۔ تبدیل کیا گیا

متبرک *mutabarrak*, *a.* fortunate, august, blessed, holy. برکت والا ۔ برکت یافت

متبسم *mutabassim*, *a.* smiling, laughing, opening. مسکرانے والا اور بمعني شگفتہ یعني کہلے ہوئے کے بھي مستعمل ھے

متبلد dull in understanding, blunt, silly, simple. کند ذہن ۔ احمق

متبني *mutabanna*, adopted (son or child). فرزند کیا ہوا ۔ لیپالک لڑکا

متبناة adopted (daughter). لیپالک لڑکي

متبوع *a.* imitated, imitative, the one set as a model, a chief ۔ پیروي کیا گیا ۔ سردار وہ شخص جس کے لوگ تابع ہوں

متتالیہ *m.* successive, successively. پے در پے آنے والا ۔ ایک دوسرے کے پیچھے جانے والا

متجبرہ *m.* a party of oppressors. جماعت ظلم کرنے والوں کي

متجسس *mutajassis*, *m.* an investigator, an omissary, a spy, a scout.

متجلي *a.* splendid, illuminated, reasonable. روشن ۔ آشکارا

متحتم *a.* proper, reasonable, true, indisputable. لازم ۔ واجب ۔ یقیني ۔ واجب ہونے والا

متحتمات (*pl.* of متحتم). جمع متحتم کي

متحد *muttahid*, united, made one. ۔ ملا ہوا ایک

متحرک moved, moving one's self, moveable, accented with short vowels. حرکت کرنے والا

متحصین *m.* one who has taken shelter in a fort. قلعہ نشین ۔ جس نے قلعہ میں پناہ لي ہو

متحظي *a.* fortunate, prosperous, luxurious. لذت پانے والا ۔ بہرہ مند

متحف *muttahif*, *m.* one who gives something as a present. تحفہ دینے والا

متحف *muttahaf*, *a.* presented, awarded. تحفہ دیا گیا

متحرم *a.* revered, respected, prohibited, unlawful. عزت دیا گیا

متحقق *mutahaqqiq*, *m.* a verifier. تحقیق کرنے والا

متحقق verified, proper, right. ۔ تحقیق کیا گیا درست

متحلي an adorner, the one decked with ornaments. ۔ زیور پہننے والا ۔ زیور سے آراستہ آراستہ ہونے والا

متحمل *a.* enduring, patient, suffering, bearing affable, considerate. برداشت کرنے والا ۔ سہنے والا

متهير *a.* astonished, wondering, confounded. حيران - بهوچک

متخاصمين the two contending parties in a law-suit. مدعي اور مدعاعليه - دو آدمي جو آپس ميں جهگڑا کريں

متخاصمين a number of people contending together. بهت سے لوگ جو باهم جهگڑا کريں

متخصص *a.* singular, peculiar. خصوصيت رکهنے والا

متخلل *a.* interfering, interposing, taking a part in the concerns of others. - خلل انداز خلل ڈالنے والا

متخلخل *a.* soft, hollow. پولا جو ٹهوس نهو

متخلص *a.* pure, surnamed, safe, delivered from evil. خالص - محفوظ

متخيل *mutakhaiyil*, imagining, suspecting, fancying (good or evil); imagined, fancied. خيال کيا گيا

متخيله *matkhilla*, imagined, suspected, fancied, the brain. خيال کيا گيا - خيال کا مکان يعني دماغ

متخيله *m.* the faculty by which we form a mental image, or new combinations of ideas. نام ايک قوت کا جو دماغ ميں هوتي هے قوت خيال

متدارکه *m.* one who finds a lost thing. کهوئي هوئي چيز کا پانے والا

متداول } common, customary, usual, current, passed. دست بدست جو
متداوله } چيز پهري هو - مروج - نوبت بنوبت هاتهوں هاتهه لي هوئي شے

متدرع *m.* a man clad in iron armour. زره پوش

متدين *mutadaiyin*, orthodox, religious. دينڈار

مترادف continued, successive, synonymous, riding one behind another. ايک دوسرے کے پيچهے سوار هونے والا - پے در پے

متراقي *m.* one who repeats a charm. منتر پڑهنے والا

متراکب *m.* an associate, a companion, a friend. باهم بيٹهنے والا

متراکم accumulated, heaped up, condensed, an associate, a companion. باهم ملکر بيٹهنے والا - اکٹها جمع هونے والا - انبوه اور هجوم هونے والا

مترتب *mutarattab* arranged, adjusted. درست کيا گيا

مترجم *mutarajjim*, *m.* an interpreter, a translator. ترجمه کرنے والا

مترجم *mutarajjam*, translated, explained, interpreted. ترجمه کيا گيا - ايک زبان سے دوسري زبان ميں بيان کيا گيا

متردد careful, wandering ambiguous, irresolute, perplexed, hesitating. - متفکر فکر کرنے والا - اور بمعني آنے جانے والے

مترسم *mutarassam*, a writer, a master of ceremonies, a law reader. لکهنے والا - رسم کرنے والا - صاحب رسم

مترسل *mutarassil*, *m.* one who sends, the writer, or sender of a letter. خط بهيجنے والا

مترش *mutarrash*, one who shaves his beard. ڈاڑهي منڈانے والا

مترشح distillation, dripping, exudation. تراوش - ٹپکنے والا

مترصد *mutarassid*, expecting, watching, exploring, contemplating, gazing at. - اميدوار اميد رکهنے والا

مترقب *mutaraqqab*, expected, watched, waited for. انتظار کيا گيا

مترقب *mutaraqqib*, *a.* expecting, watching, observing, desiring. انتظار کرنے والا - منتظر

مترقي *a.* improving, increasing, multiplying, augmenting. - افزوں اور زياده هونے والا ترقي کرنے والا

مترنم *mutarannim*, *m.* a singer. گانے والا

مترنم *mutarannam*, sung. گايا گيا

متروک *a.* abolished, obsolete, rejected, relinquished. چهوڑا گيا - ترک کيا گيا

متروکه (*pl.* متروکات), estate, goods, or property of a person, deceased, to which heirs are legally entitled. مال و متاع جو که وارث کے لئے چهوڑا گيا هو

متزائد *a.* increasing, multiplying. - بڑهنے والا افزوں اور زائد هونے والا

متزلزل *a.* shaking, convulsing (as the earth by an earthquake), tottering, shivering, staggering. کانپنے والا هلنے والا - ڈگمگانے والا

متساوي *a.* equal, parallel, right, straight. باهم برابر هونے والا - ايک دوسرے کا برابر

متسر *a.* envious, niggardly, covetous. - بغض بخيلي - لالچ

متسع *a.* broad, large, diffused. کشاده هونے والا - فراخ هونے والا

متسلط *mutasallit*, disappearing, despotic (command) absolute (dominion). غائب هونے والا - غلبه کرنے والا

متسلم *mutasallam*, *m.* receiving anything in charge, keeping in possession. قبضه ميں رکهنا

متسلي *a.* consoled, satisfied, comforted, condoled. تسلي دیا گیا

متسم *musassam, a.* branded, stigmatized. داغ کیا گیا - خاص نشان کیا گیا

متشابه like, resembling, (sub.) an allegory, a simile, metaphor, a doubtful meaning. هم شکل - هم شبیهه - جس کے معني میں کچهه شبهه هو

متشابهات *f.* the verses of the Quran which have some hidden meanings. قرآن مجید کي وه آئتیں جن کے معني مخفي هیں

متشاعر *m.* a man who pretends to be poet, but in fact he is not. جو شخص شاعر نهو اور اپنے کو شاعر جتاوے

متشرع *a.* orthodox, observing the *Shar'* (شرع) or divine law. ایماندار

متشکل like, resembling. شکل اختیار کرنے والا

متشکي *mutashakki*, doubtful, suspicious, mistrustful. شک کرنے والا

متصاعد *a.* ascending, becoming difficult. اوپر چڑهنے والا

متصدع *mutsaddi'*, importuning, troubling, plaguing. درد سر پانے والا - تکلیف اور ایذا پانے والا

متصدي *m.* an accountant, a writer, a clerk, turning away the face opposing, attempting, daring, intent on. پیش آنے والا - مراد پیشکار اور آگے کا کام کرنے والے سے

متصرف *mutasarrif, a.* possessing, occupying, profuse, extravagant. قابض - تصرف کرنے والا

متصل near, contiguous, adjoining. - ملا هوا - قریب - نزدیک

متصور *mutasawwir*, considering, reflecting, considerate, imagining, conceiving. خیال کرنا - تصور کرنا

متصور *mutasawwar, a.* imagined, considered. تصور اور خیال کیا گیا

متصف praised, celebrated, described, beforementioned موصوف - صفت کیا گیا - وه شخص جس کے ساتهه کوئي وصف لگا هو

متضاد } متضاده } contending against each other, dissentient. آپس میں مخالفت کرنے والا - باهم مخالف

متضر *mutazarrir, a.* harming, injuring, damaging. ضرر پهونچانے والا

متضرر *a.* injured, hurt, harmed, damaged. ضرر پهونچایا گیا

متضرع *mutzarr'*, groaning, lamenting, (*met.*) humble, the one crying for mercy. زاري کرنے والا - کنایة عاجزي کرنے والے سے

متضعف *mutazaf*, very weak, contemptible. بڑا ضعیف هونے والا

متضمن *mutazamnin*, including, comprehending. شامل

متطرق *mutarriq* a path-finder, one who creates a way. راه پیدا کرنے والا - راه پانے والا

متظلم *mutazallin, a* oppressed, injured, a complainant, one who sues for justice. فریادي داد خواه

متعارف known, celebrated, acquainted, acknowledged, well known to each other. معروف - مشهور - باهم تعارف کیا گیا - اور پهچانا گیا

متعارک *a.* pulling (rubbing or boxing) the ears, scraping, effacing, forgetting, erasing, relieving one's necessities, succeeding, fighting, gathering, forming a crowd. کان ملنے والا - گوشمالي کرنے والا - چهلنے والا - محو کرنے والا - حاجت روائي کرنے والا - کامیاب هونے والا - جنگ کرنے والا - انبوه هونے والا

متعاقب successive following, pursuing, *adv.* afterward. پیچهے سے آنے والا - ایک دوسرے کے پیچهے دوڑنے والا

متعال } متعالي } *a.* high, sublime, lofty, great, exalted. بلند هونے والا - بزرگ

متعبد *muta'abbid, a,* devout, religious, pious. بڑا عبادت کرنے والا - عبادت کرنے والا تکلیف کے ساتهه

متعدد *muta'addid*, numbered, counted, many, various, a few. شمار کیا گیا - چند

متعدي a transgressor, a wicked wretch, (in gram.) an active, transitive or casual verb اپني حد سے بڑهه جانے والا - علم صرف و نحو کي اصطلاح میں وه فعل جو مفعول کو بهي چاهے بر خلاف لازم کے کہ معني اس کے فقط فاعل پر تمام هو جاتے هیں

متعذب sweet to the taste, pleasant. خوش مزا - خوشگوار

متعذبه *m.* food which is very delicious, a dainty, oppressing, punishing. کهانے اور پینے کي چیز جو خوش مزه اور خوشگوار هو - عذاب کرنے والا - سزا دینے والا

متعذر *muta'azzir, a.* difficult, hard, impossible. دشوار - مشکل

متعرض *a.* resisting, opposing, preventing giving pain or trouble. پیش آنے والا - اور روکنے والا

متعصب *a.* bigoted, partial, prejudiced. دين کي پچهہ کرنے والا - تعصب کرنے والا

متعطش *a.* thirsty. تشنة - پياسا

متعفف *a.* abstinent, abstemious, sober, chaste. پارسا - متقي

متعلق hanging, suspended belonging to, concerning, connected with, attached to, addicted, *m.* a relation or kinsman. لگاؤ رکهنے والا - تعلق رکهنے والا

متعلم *a.* being taught, learning, (sub.) a scholar, a student, a disciple. طعليم لينے والا يعني-شاگرد - طالب علم

متعنت one who seizes upon another's faults. کسي کا عيب نکالنيوالا

متعند *muta'annid*, an enemy, one who seeks another's ruin and destruction, wishing evil, revolting, resisting. - عناد رکهنے والا دشمن - بد خواه

متعندان *pl.* of متعند. جمع متعند کي

متعنف *a.* reproving, rebuking, correcting, chastising, reprimanding. - سرزنش کرنيوالا درشت خوئي کرنيوالا

متعوب *a.* sad, grieved, sorrowful. - رنجيده رنج کشيده

متعود *a.* accustoming, forming a habit. خوگر - عادت کرنيوالا

متعهد *mutahhid*, responsible, busy, engaged. ذمہ وار - کام ميں مشغول

متعين *muta'aiyin*, appointed to; fixed, constituted deputed, determined. مقرر کيا هوا - تعين کيا گيا

متغلب *a.* victorious, overcoming. - فتحمند غلبہ پايا هوا

متغير *mutaghaiyir*, changed, inconsistent, disturbed, stupified, perplexed, estranged. تغير کيا گيا - بدلا هوا

متفاوت diverse, different, differentiated. فرق کيا گيا - تفاوت کيا گيا

متفاول *m.* (right word. متفائل), *m.* an augur, soothsayer.

متفائل *m.* an augur, soothsayer, sage, casting an horoscope. فال گيرندہ - فال لينے والا

متفتش *a.* examining, searching, investigating, researching, inquiring. ڈهونڈهنے والا

متفحص *mutafahhis*, an examiner, an inquirer, investigator. تلاش کرنے والا

متفرج a place for fun and amusement. سير اور تماشہ کي جگهہ

متفرع dividing, an offshoot. - شاخ هونے والا کسي چيز سے مثل شاخ کے باهر نکلنے والا

متفرق *a.* separate, distinct, dispersed, scattered. عليحدہ - جدا

متفق united, agreeing, unanimous, consenting, *m.* an accomplice, an associate. - ملاهوا اتفاق کرنے والا

متفکر contemplative, considering, serious, thoughtful, pensive, grave. فکر مند جس کو فکر هو

متقاضي *m.* exacting or receiving (payment of a debt), dunning, importunity, a dun. تقاضا کرنے والا

متقاعد backwardness, dilatoriness. پست هونے والا - سستي کرنے والا

متقدم *mutaqaddim*, ancient, anterior, antique, preceding, (sub.) a chief, president, guardian. پيش هونے والا - اور آگے بڑهنے والا

متقن } firm, strong, constant, steady.
متقنة } استوار - محکم

متکا *muttaka*, a cushion, couch-pillow. تکيہ گاہ - تکيہ لگانے کي جگهہ

متکاثف *a.* thick, coarse. گاڑها - موٹا - دلدار

متکبر *a.* proud, haughty, arrogant, disdainful. مغرور - تکبر کرنے والا

متکسر *mutakassir*, apt to break. شکستہ هونے والا - ٹوٹنے والا

متکفل *mutakaffil*, a bail, a surety, (in revenue language) an officer who examines and puts his seal on them when pressed in the subordinate *Cutcheries*, before they are sent to court. - ضامن - کفيل ذمہ وار

متکلف *a.* one taking a trouble. تکليف کرنے والا

متکلم speaking, (sub.) a speaker, declaimer, (in gram.) the first person. - بولنے والا - کلام کرنے والا

متکي one who leans or reclines. تکيہ کرنے والا

متلاشي *m.* confounded, perplexed, agitated, non-existent, abolished, spoiled. - پريشان معدوم - خراب ماخوذ شے سے

متلاطم dashed together, waving, boisterous, billowy, tumultuous. آپس ميں لطمہ يعني طمانچہ مارنے والا اور يهہ لفظ اکثر درياے شديدالموج کي صفت ميں واقع هوتا هے يعني مواج - پرموج

متلالي *n.* resplendent, splendid, glittering, shining. تاباں - روشن

متلبس *mutalabbas*, wearing, putting on (apparels), concealed, hidden. لباس پهننے والا - پنہاں هونے والا - پوشیدہ

متلذذ *m.* one who relishes or takes delight (in a thing). لذت اٹھانیوالا

متلطخ *mutalittakh*, *a.* soiled, stained, smeared or defiled, draggling, becoming dirty by being drawn on the ground. آلودہ - لتھڑنےوالا

متلف *m.* (sub.) a consumer, prodigal, wasting, consuming ruining. - تلف کرنے والا ضایع و خراب کرنے والا

متلقي *mutaliqqi*, *m.* a visitant, visitor. ملاقات کرنے والا

متلقي *mutalaqqi*, *m.* visited. ملاقات کیا گیا

متلون *mutalawwin*, changeable, changing various colours. رنگ برنگ هونے والا

متلهف *mutalahhif*, sorrowful, grieved, sad, gloomy. افسوس کرنے والا - اندوهگیں - غمگین

متمادي prolonging, continuing, persevering. دراز

متماثل *n.* likeness, resemblance, similarity, similitude. مشابہ - مانند - ایک دوسرے کے مانند هونے والا

متمائل inclining, wishing, desiring, apt to bend. میل و خواهش کرنے والا - خم و کج هونے والا

متمتع *a.* enjoying, relishing, happy, enjoying the fruits of life. بہرہ ور دار - فائدہ اور نفع اٹھانیوالا

متمثل *a.* exactly alike, resembling each other. هم مثل - هم مانند

متمرد *mutamarrid*, *a.* vicious, stubborn, disobedient, refractory. سرکش - نافرمان

متمزق breaking asunder, tearing into pieces. ٹکڑے ٹکڑے هونے والا

متمشي *mutamashshi*, going on, continuing, practised (in law). جاري هونے والا - رواں هونیوالا - چلنے والا

متمکن *mutamakkin*, residing, settling, (sub.) an inhabitant, powerful, (in gram.) a diptote or noun of two cases. مکان لینے والا - مقام کرنے والا - جگهہ پکڑنے والا - رهنے والا - اصطلاحاً وہ اسم جس کے آخر میں بہہ اختلاف عوامل مختلف اعراب پیدا هو جایا کریں!

متمم *mutammim*, perfecting, accomplishing. تمام کرنے والا - اور کامل کرنے والا

متممات *pl.* of متمم. جمع متمم کي

متمني *mutamanni*, *a.*, wishing, desiring, hoping, anxious (in gram.) the optative mood. تمنا کرنے والا - آرزو رکھنے والا

متمنى *mutamanna*, *a.* released, freed. آزاد کیا گیا

متمنيات *pl.* of متمنى. جمع متمنى کي

متموج *mutamawwaj*, *a.* billowy, tumultous, waving, boisterous, swelling into large waves. موج مارنے والا - تموج کرنے والا - لہریں مارنے والا

متمول *a.* enriched, wealthy. دولتمند

متن *n.* the back, firm, solid, strong, hard, a high place, (*met.*) the text-book, the middle. پشت - پیٹھہ - ستوار - محکم - مضبوط سخت - جاے بلند - مجازاً وہ اصل کتاب جو شرح کرنے کے قابل هو

متناهي finished, determined, terminated, arrived at the utmost extreme. انتہا کو پهونچنے والا

متناهية *m.* arriving at the utmost extreme. کسي چیز کي انتہا اور آخر کو پهونچنے والا

متنبہ *a.* circumspect, diligent, wary, thoughtful, watchful on all sides. - واقف آگاہ - خبر دار

متنبي *m.* one who calls himself a prophet, name of a celebrated Arabian poet. اپنے کو نبي کہنے والا - ایک مشهور عرب کے شاعر کا نام

متنجم *m.* an astrologer, a star gazer. نجومي

متنعم *mutana'im*, *a.* affluent, opulent, enjoying all the comforts of life. چین میں رهنے والا - ناز و نعمت میں گذران کرنے والا

متنفر *mutanaffir*, *a.* averse, disgusted, abhorring, detesting, running wildly. نفرت کرنے والا وحشت کر کے بهاگنے والا

متنوع } of different kinds or species,
متنوعہ } sorts, manner, mode. نوع نوع اور طرح طرح اور قسم قسم کا هونے والا

متنفس *mutanaffis*, solitary, single. - تنہا اکیلا

متواتر } successive, or successively. پے در
متوارد } پے آنے والا

متواري hiding, concealing. - پوشیدہ هونے والا چهپنے والا

متوازي equalling, parallel, equal. باهم - برابر هونے والا

متواضع *a.* complimenting, humbling, complaisant, lovely, modest, meek. - فروتن عاجزي اور خاکساري کرنے والا - ذلت کا اختیار کرنیوالا

متواتر *a.* increasing, multiplying, going to extreme. زیادہ هونیوالا - اور زیادتي اختیار کرنیوالا

متوالي *a.* successive, coming in succession, consecutive. پے در پے نیوالا - پیاپے هونیوالا

متوج *mutawwaj, a.* invested with a crown, crowned, surmounted. تاج دیا گیا - جس کے سر پر تاج رکھا گیا هو

متوجه *a.* turning, facing, travelling towards, attending to, favouring. توجه کرنیوالا - دھیان اور خیال کرنیوالا

متوحش *mutawahhish, a.* terrified, scared away, wild. وحشت اختیار کرنیوالا

متورع abstinent, devout, abstemious, pious. پارسائي اختیار کرنیوالا - پارسا - پرهیز گار

متوزع *a.* confounded, confused, agitated, perplexed, dispersed, scattered. - پراگندہ پریشان

متوسط *mutawassit,* intermediate, middling. بیچ کا

متوسل *mutawassil a.* trusting in God, seeking means, depending a dependant. وسیلہ ڈھونڈھنے والا

متوصل *mutawassil, a.* connected, related, joined to, meeting, encountering, interviewing. وصل اختیار کرنیوالا

متوطن *mutawattin, m.* inhabitant, native, inhabiting, residing. رهنے والا - باشندہ

متوفر *mutawaffir, a.* many, numerous, plentiful, copious. کافي - تکثیر - بہت

متوفي *mutawaffi, a.* dead, defunct, extinct. وفات پایا هوا - مرا هوا - مردہ

متوقع *mutawaqqi, a.* expecting, an expectant, hoping. - أمید رکھنے والا - توقع رکھنے والا آمید وار

متوقف *mutawaqqif, a.* slow, tardy, delaying, waiting for, expecting. دیر کرنیوالا

متوکل *mutawakkil. a.* resigned to the will of God trusting another, resigned to one's fate. خدا پر بهروسا رکھنے والا

متولد *mutawallid. a* born, generated. پیدا هونیوالا

متولي *mutawalli. m. a* superintendent (or treasurer of a mosque), a friend, a kinsman. کام پر رهنے والا - دوستي رهنے والا - پرسر کار رهنے والا

متوهم *mutawahham, a.* suspicious, doubtful, apprehensive. وهم کرنیوالا

متوهم *mutawahham, a.* doubted, apprehended, imagined, fancied. وهم کیا گیا

متقہ *m.* a carpenter's gimlet. بڑهیوں کے سوراخ کرنیکا برما

متهاون *m.* one who neglects, despises or holds cheap, base, low, mean, contemptible. سستي کرنیوالا - خوار - حقیر - سست

متهم *muttaham, a.* suspected, accused, arraigned. جس پر تہمت لگائي جائے

متیم *mutaiyam, a.* base, low, disgraced, afflicted. خوار - ذلیل - درد مند

متین *a.* firm, steady, strong, fixed, an appellation of Muhammad. - استوار - محکم - مضبوط - ایک نام محمد کے ناموں سے

مثابت } مثابه } like, resembling. یہہ لفظ واسطے تشبیہ کے آتا هے بمعني مانند - مشابہ

مثاب *musab, a* rewarded, retaliated. ثواب دیا گیا - بدلہ دیا گیا

مثاب *masab,* a house, a station, a place where people assemble, a pool (of water). جگہہ پهر کر آنے کي - جگہہ انبوہ پاني اور آدمیوں کي

مثال *f.* simile, likeness, similitude, a picture, a decree, a written order, a royal commission or mandate, an order. - نظیر - شبیہ - مانند - تصویر - قاضي کا حکمنامہ - بادشاهي فرمان - پروان - مطلق حکم

مثالب *f.* evils, wicked acts. زبونیاں - برائیاں

مثالث *f.* three things, (*met.*) musical instruments. تین چیزیں - گویوں کے ساز

مثاله a royal commission, or mandate. فرمان بادشاهي

مثانه *m.* the bladder, a thin sac in animals containing the urine, the place which holds the fœtus. پهکنا - وہ تهیلي جس میں پیشاب رهتا هے

مثاني *f.* the *Surat-ul-fatihat,* (the preface) revealed at Mecca, (sometimes it means) the whole Quran, (also the *pl.* of مثني). سورۂ فاتحہ - کبهي مراد تمام قرآن سے - اور جمع مثني کي

مثبت *musbat, a.* written, proved, confirmed. لکھا گیا - ثابت کیا گیا

مثبت *musabbat, a.* established, ratified. بر قرار رکھا گیا

مثقال *m. a* weight containing 4 *mashas* and $3\frac{1}{2}$ *rattis.* ساڑھے چار ماشہ کا وزن

مثقب *musqab, m.* a gimlet, a borer. برمہ جس سے سوراخ کرتے هیں

مثل *masal f.* a fable, allegory, proverb, metaphor, simile, an example - مانند - مثل - وصف حال - قصه - داستان - کهاوت

مثل *misl f.* similitude, likeness, (in law) a suite or plea. مانند - جو سب صفتوں میں مساوي هو

مثلث *musallas, a.* three-cornered, triple, name of a perfume compounded of musk, sandal and camphor, a kind of best pure wine, a word the first letter of which if pronounced either with *fatha*, *kasra* or *zamma*, will be correct, the diagram of an amulet which is divided into 9 squares, those believing in the Trinity, sitting on the Persian fashion, namely kneeling down and sitting back on the heels, a triangle. - سه گوشه - سه تا نام ایک خوشبو کا جو مشک اور صندل اور کافور سے مرکب هوتي هے - ایک قسم کي عمده شراب - وه لفظ جس کے اول حرف کو فتحه اور کسره اور ضمه تینوں طرح سے پڑهنا صحیح هو - اور نام ایک شکل کا علم تعوید کي شکلوں سے جس کے خانے هر طرف سے تین هوتے هیں - ایک قوم نصاري کي جو تین خدا کے قائل هیں - ایک قسم ادب کي یعني دو زانو - نام هندسه میں ایک سه گوشه شکل کا

مثلثات الافلاک (*met.*) the twelve signs of the Zodiac. مراد هے آسمان کے بارہ برجوں سے

مثلث آبي (Watery signs), *m.* Cancer, the Crab, Scorpio, the Scorpion, Pisces, the Fish. - تین برج آبي هیں یعني سرطان - عقرب - حوت

مثلث آتشي (Fiery signs), *m.* Aries, the Ram, Sagittarius, the Archer, Leo, the Lion. تین برج آتشي هیں - حمل - قوس - اسد

مثلث بادي (Airy signs), *m.* Gemini, the Twins, Libra, the Scales, Aquarius, the Waterman. - تین برج بادي هیں یعني جوزا - میزان - دلو

مثلث خاکي (Earthy signs), *m.* Taurus, the Bull, Virgo, the Virgin, Capricornus, the Goat. - تین برج خاکي هیں یعني ثور - سنبله - جدي

مثلث نشین *m.* one who sits on the Persian fashion, namely kneeling down and sitting back on the heels. دو زانو ادب سے بیٹهنے والا

مثله *musla*, clipping the ear or nose, punishing by way of example. - کان اور ناک کا کاٹنا - عذاب کرنا

مثمر *musmir, a.* fruitful, prolific. پهل رکهنے والا - میوه لانے والا - پهل دیانے والا - نتیجه دینےوالا

مثمن *musamman, a.* consisting of eight, octangular, eight fold, (sometimes), the heaven. هشت پهلو - آٹهه کیا گیا - اور نیز کنایه بهشت سے

مثمن روضه (*met.*) the eight heavens. کنایه آٹهه بهشت سے

مثنی *musanna, m.* a copy, the second, دوباره کیا گیا - دوم کیا گیا

مثنی مثنی by twos دو دو

مثنوي *f.* the sort of verse in which the couplets rhyme regularly, as in English heroic verse. دو قافیه علیحده هونا

مثوب *a.* rewarded. - بدله نیک کا ثواب دیا گیا - دیا گیا

مثوبات (*pl.* of مثوبت), rewards. - عیوض نیکیوں کے بدلے بهلائیوں کے - جزاے نیکي - بهلائي کا بدله

مثوبت } a reward, requittal, recompense.
مثوبه } عبادت کا عوض جو آخرت میں ملتا هے

مثوی *m.* a place of rest, perfect tranquillity, repose. جاے آرام - قرار کي جگهه

مثیل (changed form of مثال). - یاے مجهول سے امالہ مثال کا

مج *majj*, name of a kind of pulse commonly called black gram (*Phaseolus mungo*). کوئي مونگ جو غله مشهور هے

مجاب *a.* answered, accepted. - جواب دیا گیا قبول کیا گیا

مجادل *a.* contentious, disputant, querulous, quarrelsome. لڑنے والا

مجادله *m.* contention, dispute, altercation, a conflict, scuffle. لڑنا - جنگ کرنا

مجاذیب (*pl.* of مجذوب), religious fanatics, enthusiasts. جمع مجذوب کي - خدا کي محبت میں کهینچے هوے لوگ

مجاري (*pl.* of مجری), current, in force (a law). جمع مجری کي هے - جگهیں جاري هونے کي چیز کي - راهیں - رواں هونا کسي چیز کي

مجاز *a.* lawful, convenient, superficial, insincere, feigned, metaphorical; a way. جگهه گذرنے کي - راه - جو چیز حقیقت نهو - اور وه کلمه جو معني غیر حقیقي اپنے میں مستعمل هو

مجازاً *adv.* by way of metaphor, metaphorically. غیر حقیقتاً

مجازي *majazi*, superficial[ly], *a.* metaphoric, hyperbolical. منسوب طرف مجاز کے یعني غیر حقیقي

مجازي *majazi, a.* rew[ard]ing, requiting, recompensing. بدله اور عوض دینے [والا]

مجاعت *f.* hunger, appetite گرسنگی - بھوکھ

مجال *f.* a place for (military) exercise, a play ground, (*met.*) power, ability, strength, chance. جولانگاہ - میدان - مجازاً بمعنی موقع و حوصلہ و طاقت و قدرت کے مستعمل ھے

مجالس *m.* a companion, friend, favourite. مصاحب - جلیس - باھم بیٹھنے والا

مجالس (*pl.* of مجلس), conferences, assemblies, convivial conversations, sederunts. جمع مجلس کی

مجالست *f.* sitting together, an assembly, companionship. ھمنشینی - باھم صحبت میں بیٹھنا

مجالي (*pl.* of مجلی), the mirrors, glasses. جمع مجلی کی - جگہیں جلوہ کی - مراد آئنے سے

مجامع (*pl.* of مجمع), congregations. جگہیں جمع ھونے کی

مجامعت *f.* carnal connections, coition, coitus. صحبت کرنے والا - جماع کرنے والا

مجاملت *mujamalat*, *f.* goodness, virtue. نیکی کرنا

مجان *majjan*, *a.* absurd nonsensical, gratuitous, in vain. ھرزہ - رائگاں - مفت

مجانبت *f.* retiring, withdrawing. کسی چیز سے دور ھونا - کسی کام سے یکسو ھونا

مجانست *f.* being akin, or homogeneous. ھمجنسی - ھمقومی

مجانین (*pl.* of مجنون) mad or insane persons. جمع مجنون کی - دیوانے اور سڑی لوگ

مجاوبہ *m.* answering, replying, responding. کسی کو جواب دینا

مجاور *m.* a neighbour, seeking intimacy. ھمسایہ - پڑوسی

مجاورت *f.* neighbourhood, intimacy, familiarity, propinquity. ھمسایہ پن - پڑوس قریب - نزدیک

مجاوز *a.* transgressing, exceeding, bounding, deviating, offending. تجاوز کرنے والا - اور در گذر کرنے والا

مجاھد *m.* one who labours or endeavours, a warrior (especially in the defence of the true faith). کوشش کرنے والا - خدا کی راہ میں کافروں سے لڑنے والا

مجاھدین *pl.* of مجاھد جمع مجاھد کی

مجاھدت *f.* } a holy war, a fighting
مجاھدہ *m.* } against infidels in defence of the true faith. کافروں سے جنگ کرنا

مجبول *a.* created. پیدا کیا گیا

مجتبی *a.* elected, chosen, elect. برگزیدہ پسندیدہ

مجتث *a* uprooted. جڑ سے اکھڑا ھوا

مجترم *a.* guilty, arraigned. جرم لگایا گیا

مجتمع *a.* assembled, convened, agreeing in the same opinion. جمع کیا گیا

مجتنب *a.* abstaining from, shunning, avoiding. کسی چیز سے دوری اختیار کرنے والا - پرھیز کرنے والا

مجتھد *mujtahid*. *m.* one who labours or endeavours, one who wages war against infidels, a title conferred on the heads of the law and religion, a doctor (in law). کوشش کرنے والا - راہ ٹھیک پیدا کرنے والا

مجحر *m.* an asylum, a hiding place. چھپنے کی جگھہ - پناہ کا مقام

مجد *majd*, *m.* glory, grandeur, splendour, the honour derived from ancestors. بزرگی - بزرگوار ھونا

مجد *mujidd*, *m.* one who labours or endeavours. کسی کام میں کوشش کرنے والا

مجدد *mujaddad*, *a.* new, recent, modern. نیا پیدا کیا گیا - نئے سرے سے پیدا کیا گیا

مجدر *m.* one who has the pustules of small-pox or the blisters all over his body, (*met.*) pincers, tweezers. وہ شخص جس کے چیچک نکلی ھو - وہ جس کے تمام بدن میں آبلے پڑ گئے ھوں

مجدود *a.* happy, fortunate, lucky, blessed, one in easy circumstances. صاحب بخت و روزی - نصیب ور

مجذوب *a.* attracted, abstracted, a religious fanatic. کھینچا گیا - خدا کی محبت میں کھینچا ھوا

مجذور *m.* square (in arithmetic). وہ مضروب جو ضرب سے حاصل ھو جیسے چار کو چار میں ضرب دیا سولہ حاصل ھوے پس یہہ سولہ مجذور ھوا

مجذوم *m.* leprous. کوڑھی - جسے جذام کی بیماری ھو

مجرب *mujarrab*, *a.* experienced, tried. تجربہ کیا گیا - آزمایا ھوا

مجرب *mujarrib*, *a.* trying, proving, testing. آزمانے والا

مجرد *mujarrad*, *a.* solitary, alone, unmarried, abstinent, sober, abandoning the world, chaste, bared, made naked, an angel, soul. تنہا - اکیلا - تارک دنیا - مرد بے زن - برھنہ کیا گیا - فرشتہ - روح

مجردات *pl.* incorporeal beings, (and according to some) souls, angels. عقول عشرہ بعضوں کے نزدیک ارواح - فرشتے

مجرم criminal, (sub.) a sinner. - جرم کرنے والا گنہگار

مجروح *a.* wounded, lacerated. زخمي - گھائل

مجرہ *m.* Galaxy, the Milky Way. - کہکشان ستاروں کي سفيد سڑک

مجزا *mujazza, a.* divided into several parts. ٹکڑے ٹکڑے کيا گيا

مجزوم cut, curtailed, acknowledged, believed قطع کيا گيا - کاٹا گيا - يقين کيا گيا

مجس the place where a doctor puts his hand to feel a patient's pulse. طبيب کے بيمار کي نبض پر ھاتھہ رکھنے کي جگہہ

مجسم *mujassam, a.* having a body, embodied, corpulent, incorporated, incarnate. جسم دار شے جس ميں لمبائي چوڑائي اور گہرائي ھو

مجصص *mujassas, a.* plastered, besmeared. پختہ چيز جس پر گچ کي گئي ھو

مجعد *muja'ad, m.* curled hair. گھنگھر والے بال

مجفف *mujaffaf, a.* drying. خشک کرنے والا

مجلا *mujalla, a.* polished, furbished, illustrated, manifested, clear, bright, decked, adorned. جلا ديا ھوا - صاف - روشن - آشکارا

مجلي *mujalli, m.* a furbisher, a polisher, burnisher. جلا کرنے والا - چمکانے والا - روشن کرنے والا

مجلد *mujallad, a.* bound (a volume) جلد بندھا کيا ھوا

مجلد *mujallid, m.* a book-binder جلد باندھنے والا

مجلس *majlis, f.* an assembly, a company, congregation, convention, convocation. بيٹھنے کي جگہہ - وہ مقام جہاں لوگ جمع ھوں

مجلسا *majlasa,* sitting. بيٹھنا

مجلس نويس *m.* a writer of news, an appointed intelligencer, such as "our own correspondent," a historian, chronicler, annalist. اخبار نويس - دربار بادشاھي کا واقعہ نويس

مجمد *mujammad,* a liquid that has passed from fluid to a solid state, congealed. وہ پتلي شے جو سردي کے سبب جم گئي ھو

مجمر *majmir, m.* a chafing dish, a censer for incense. انگيٹھي - جس ميں آگ ڈال کر عود اور لوبان جلاتے ھيں

مجمع *m.* an assembly, meeting, a collection. مجلس - جمع ھونے کي جگہہ

مجمع البحرين *m.* the meeting of the two seas, the union of the two seas, (viz., the Arabian Sea and the Persian Gulf) where Moses met the prophet Khizr who, according to Oriental tradition, was vizier (minister) and general to an ancient king of Persia. They say that he discovered and drank of the fountain of life, and that in consequence he will not die till the last trumpet. وہ مقام جہاں دو دريا جمع ھوتے ھوں - وہ مقام جہاں موسي خضر سے ملے

مجمل *m.* a summary, compendium, abridgment, epitome. اکٹھا کيا گيا - وہ چيز يا آيت جو محتاج تفصيل کي ھو

مجملات *f.* those sentences in the Quran which require explanation. وہ آيات قرآني جن کے معني محتاج تفصيل کے ھيں

مجموع } *m* a crowd, assembly, a collection, magazine, compendium.
مجموعہ } *a.* collected, assembled, contained, all, the whole. تمام و تمال - جمع کيا گيا - سب کل

مجن *majinn, f.* a shield, a target. سپر - ڈھال

مجنح *mujannah,* powerful-armed, powerful, mighty, strong. صاحب بازو

مجنون *a.* insane, in love, mad, an epithet of Qais the celebrated lover, whose amours with Laila are the subject of poems by several eminent bands, such as Nazami, Amir Khusru and Jami, etc. پاگل - ديوانہ - عاشق - لقب قيس کا جو ليلي کا عاشق تھا

مجنہ *m.* name of a market near Mecca. مکۂ معظمہ کے قريب ايک بازار کا نام

مجوز *mujawwaz, a.* planned, devised permitted, held or proved to be lawful, permitted or allowed to be passed, urged, pressed. تجويز کيا گيا - جائز کيا گيا

مجوس *m.* a priest or follower of Zoroaster, a fire worshipper, a magian. آتش پرست - زردشت کا تابع

جمع مجوسي کي *m* of مجوسي

مجوف *mujawwaf,* hollow, concave vaulted کھوکھلا - چيز جو اندر سے خالي ھو

مجرت *f.* fearlessness, boldness, impudence. بيباکي کرنا - شوخي - بيحيائي

مجہود a oppressed with labour or vexation (sub.) care, trouble endeavour, diligence. کوشش کيا گيا

مجهول *a.* little known, (sub.) passive voice. نامعلوم - نادانستہ شدہ - فعل جسکا فاعل معلوم نهو

مجي
مجيت } coming. آنا

مجيب *a.* granting, answering, listening, consenting, taking well. - جواب دینے والا اور قبول کرنے والا

مجيد *a.* glorious, great, honourable, noble, revered. بزرگوار - گرامي - بزرگ ؛

مجير *m.* a patron, a protector, sheltering, giving refuge. دستگیر پناہ دینے والا

مح *f.* the yolk of an egg. مرغي کے انڈے کي زردي

محابا *m.* remission, respect, regard, help, aid, favour, assistance, affection, friendship, indulgence, care, observation. چہوڑ دینا - مروت - اعانت - نگہداشت - مدد - لحاظ ، وعایت

محادثه *m.* conversation, talk. آپس میں بات کرنا - گفتگو

محادلت *f.* calling, sending for, wishing, desiring. طلب کرنا چاهنا

محاذي *f.* opposite, parallel. - مقابل - آمنے سامنے هونے والا - روبرو هونے والا

محارب *m.* a warrior, a combatant. - لڑنے والا جنگ کرنے والا

محاربه *m.* battle, fight, war, combat, fighting. لڑائي - جنگ - کسي کے ساتهہ جنگ کرنا

محاربات (*pl.* of محاربه), battles, wars. etc. جمع محاربہ بمعني جنگ کي

محاريب *pl.* of محراب جمع هے محراب کي

محاسب *m.* an accountant, one who keeps accounts, calculator, an examiner of accounts, an auditor, حساب کرنے والا - حساب جاننے والا

محاسبه *m.* account, computation, calculation. حساب

محاسن (irreg. *pl.*) virtues, laudable actions, the beard and moustaches. بهلائیاں - خوبیاں اور بمعني مردوں کي ڈاڑهي

محاصر *m.* a beseiger, one who surrounds or blockades (a fort, etc.) محاصرہ - گهیرنے والا کرنے والا

محاصره *m.* surrounding, beseiging, investing, blockading, sitting down before a fort, etc. گهیرنا - محاصرہ کرنا

محاصل (*pl.* of محصول) profits, gains, etc. جمع محصول کي - فائدے

محاضرات *f.* things known, things remembered, stories or cuts to suit the occasion, repeating the stories of the past, narrating past events. معلومات - یاد رکهي هوئي چیزیں موافق حال کي نقلیں - مناسب مقام کي حکایتیں - گذري هوئي کهانیاں بیان کرنا

محاط *a.* surrounded, beseiged. احاطہ کیا گیا - گهیرا گیا

محافظ *m.* a defender, commander, protector, guardian. نگاهبان

محافظت *f.* preservation, protection, guardianship, custody, keeping in mind or memory. نگهباني

محافل (*pl.* of محفل), assemblies, congregation, congresses. جمع محفل کي - مجلسیں

محافه *muhafa*, *m.* (properly محافه *mihafa*), a palanquin, a kind of litter in which women travel, a covered conveyance borne on the shoulders of men. ڈولي - پالکي - جس میں عورتیں سوار هوتي هیں اور لوگ اُسے اپنے کندهوں پر لے جاتے هیں

محاکا (*cont.* from محاکات). مخفف محاکات کا

محاکات *f* conversation, talking together, telling stories. آپس میں بات کرنا - کہاني کہنا - باهم حکایت کرنا

محاکمات *pl.* of محاکمه جمع محاکمہ کي

محاکمه going to a ruler for the settlement of a dispute, act of deciding a matter in the capacity of a Judge حاکم کے پاس جهگڑے کے فیصلہ کے لئے جانا - منصف هوکر لڑائي جهگڑے کا فیصلہ کرنا

محال *muhal*, *a.* impossible, absurd. امر غیر ممکن - انهوني بات - جس کا هونا ناممکن هو

محال *mahall*, *m.* (*pl.* of محل), palaces, streets, squares, courts, districts, departments, lands. - جمع محل کي - ضلع - مقامات - جگهیں اترنے کي - زمین

محال *mihal*, art, deception, cessation of the rain, drying of the grass, accusing, complaining. - مکر - حیلہ - مینهہ کا تهم جانا - گهاس کا خشک هو جانا - حاکم کے سامنے کسي کي چغلي کهانا

محال *mahal*, *m.* a large bucket, a large pulley. بڑا ڈول - بڑي چرخي

محالات *pl.* absurdities, impossibilities. ناممکنات - غیر ممکن چیزیں

محاماة watching, correcting, removing vice, protecting, taking care. نگاہ رکهنا - برائي کا کسي سے دفع کرنا - حفاظت کرنا

محامد (*pl.* of محمدت), praiseworthy actions, praises, good qualities, laudable actions. جمع ہے محمدت كي - تعريفيں - نيک - خصلتيں - خوابياں

محامل (*pl.* of محمل), litters used on the elephants or camels in which Arabian ladies travel. جمع محمل بمعني هودج كي

محامات *f.* act of lifting a burden together. باهم بوجهه أٹهانا

محاورت *f.} idiom, usage, current speech,
محاوره *m.* } phraseology, dialogue, conversation, conference. جواب دينا - آپس ميں كلام كرنا - گفتگو

محاورات (*pl.* of محاوره), dialogues, idioms, etc. هم كلاميان - گفتگوئيں

محب *muhibb*, *m.* a friend, a lover. دوست ركهنے والا - دوستي كرنے والا - پيار ركهنے والا

محبرا *m.* an ink-pot, (*met.*) an inkstand. لكهنے كي دوات - مجازاً بمعني قلمدان

محبس *m.* a prison, a gaol. قيد خانه - زندان

محبوب *a.* beloved, (sub.) a sweetheart, a mistress. پيارا - دوست

محبوس *a.* imprisoned, confined, a prisoner. قيد كيا گيا - قيدي

محتاط *a.* guarded; circumspect, cautious, wary. احتياط كيا گيا - وہ شخص جو احتياط ركهے

محتال *m.* insidious, deceptive, a deceiver, (in law) a person who accepts the responsibility of one person for his claim upon another. مكر و حيله كرنے والا مرد

محتاله *f.* insidious, deceptive, a deceiving woman. مكر و حيله كرنے والي عورت

محتجب *a.* hidden, concealed, secret. - پوشيده پنهان - چهپا هوا

محتجبات *f.* women living in seclusion. پرده نشين عورتيں

محترز *muhtariz*, *a.* abstemious, abstinent, wary, cautious, careful. پرهيز كرنے والا - اپنے كو نگاه كرنے والا

محترف *m.* o the same profession, artists, artisans. هم پيشه

محترفه *m.* the artists, the artisans. پيشه ور لوگ - كاريگر لوگ

محترق *a.* burnt, heart-burnt. جلا هوا - سوخته

محترم . respected, revered, honoured, venerated, regarded as sacred. - عزت كيا گيا حرمت كيا گيا

محتسب *m.* a censor, a superintendent of the police, appointed by the Muhammadans to superintend the morals of the people, to regulate the weights and measures, and to prevent unlawful games, drinking and other disorders. وہ حاكم جو خلاف شرع باتوں كے كرنے كي ممانعت كرے

محتشم *muhtashim*, *a.* having many followers, great, powerful.

محتظ *a.* profitable, advantageous, beneficial, (*met.*) happy, glad. - فائده مند - بهره ياب مجازاً بمعني خوش و مسرور كے

محتكر *m.* a forestaller. وہ غله بيچنے والا جو گراني كي قيمت سے غله كو ركهه چهوڑے

محتمل *a.* suspected, conjectured, suspicious, doubtful, possible, probable, suffering patiently. احتمال كيا گيا - گمان كيا گيا

محتوم *a.* ordered, regulated, applied, hold good. واجب كيا گيا - حكم كيا گيا

محجل *m.* a red or black horse having all his legs white. سرخ يا سياه رنگ كا گهوڑا جسكے چاروں پاؤں سفيد هوں

محجمه *m.* a cup for cupping. پچهنه جس كو سينگي لگا كر مارتے هيں اور خون نكالتے هيں

محجن *m.* a hockey, polo or golf stick. چوگان

محجوب *a.* veiled, hidden, concealed, modest, bashful. پنهان - پوشيده

محجوبه *f.* a woman living in seclusion, a veiled woman. عورت پرده نشين

محجور *a.* forbidden, prohibited. - منع كيا گيا حرام كيا گيا

محدب *muhaddab*, *a.* convex, rising on the exterior surface in a round form. تپ كيا گيا - مثل قبه كے چيز

محدث *muhaddis*, *m.* a narrator, a relater. حديث بيان كرنے والا - راوي

محدث *muhdis*, *m.* inventing, creating a novelty. نيا پيدا كرنے والا - نئي بات نكالنے والا

محدود *a.* limited, bounded. حد كيا گيا - اٹكا كيا گيا

محذر *a.* hideous, awful, frightful, dreadful, terrible, shocking to the eye or ear, exciting great fear. - وہ چيز جس سے ڈر سكے ڈرانے والي شے

محذوف *a.* omitted, cut off (as a particle in Arabic syntax), a tail-clipt horse. حذف كيا گيا - گرايا گيا - كاٹا گيا - وہ گهوڑا جس كي دم كٹي هوئي هو

محذي *f.* an iron instrument for scraping leather. رانپي جس سے چمڑا كاٹا جاوے

محراب *f.* a weapon, (fig.) the arch in a mosque which they make towards Qibla, the royal closet, a chamber, an assembly. اوزار لڑنے کا - اصطلاحاً وہ طاق جو بشکل کمان مسجد میں اندر کے درجہ میں قبلہ کي طرف بناتے هیں - اور بمعني مکان اور صدر مجلس کے بھي آیا هے

محرابگاه } (*met.*) the mosque. کنایہ مسجد سے
محرابگهہ }

محرابي *f.* a kind of curved sword, (also) a mosque. ایک قسم خمدار تلوار کي - اور بمعني مسجد کے بھي

محراک *m.* a great mover, very sorry, a name of the angel Israfil. بہت حرکت کرنے والا - بہت افسوس کرنے والا - اسرافیل کا ایک نام

محرر *muharrir*, *m.* a writer, a clerk, freeing, liberating لکھنے والا - آزاد کرنے والا

محرر *muharrar*, *a* written, inscribed, freed. لکھا گیا - آزاد کیا گیا

محرض *muharris*, *m.* tempting, alluring, enticing. لالچ اور حرص میں ڈالنے والا

محرص *muharras*, *a.* tempted, allured, enticed. حرص و لالچ میں ڈالا گیا

محرض *muhariz*, *m.* instigating (to war) urging, inciting, impelling, inveigling. جنگ پر کسي کو آمادہ , مستعد کرنے والا - ورغلانے والا

محرض *muharraz*, *a.* instigated, urged, incited, impelled, inveigled. لڑائي اور جنگ پر مستعد اور آمادہ کیا گیا پر غلایا گیا

محرف *muharraf*, *a.* inverted, transposed. سیدھائي سے پھیرنے والا - ترچھا اور کج کرنے والا

محرق *muhriq*, *a.* inflaming, burning (a fever), incentive, giving warmth. جلانے والا

محرق *muhraq*, a inflamed, burnt. جلایا گیا

محرقہ *f.* burning, inflaming, a kind of burning fever. هر چیز جلانے والي - نام ایک قسم کي تپ شدید کا

محرک *muharrik*, *a.* moving, putting in motion, (sub.) a mover, persuader, executor تحریک کرنے والا - حرکت دینے والا

محرم *muharram*, *a.* sacred, forbidden, the name of the first Muhammadan month, held sacred on account of the death of Husain, son of Ali who was killed by Yazid near Kufa. - حرام کیا گیا - حرام رکھا گیا نام مسلمانوں کے پہلے مہینے کا

محرم *muhrem*, a near relative of a woman whom she is forbidden to marry. (*met.*) an intimate friend, experienced. وہ رشتہ دار عورت کا یا قریب جس کے ساتھ اُس کا نکاح حرام هو - مجازاً - واقفکار

محرم *muhrim*, *m.* one who has made a vow as a pilgrim (to Mecca), one who may enter the sacred inclosure of the temple of Mecca. وہ شخص جس نے احرام حج کا باندھا هو - وہ شخص جو حرم کعبہ میں آوے

محرمات *muharramat*, *f.* forbidden things, unlawful acts. حرام چیزیں - باتیں جن کا کرنا جائز نہو

محرمان (*Per. pl.* of محرم), the experienced, etc. جمع فارسي محرم کي

محرم راز *m.* a friend, a confidant. بھید جاننے والا

محرور *a.* heated, warmed, hot, warm, thin, lank, fiery, choleric. - حرارت کیا گیا - گرم دبلا- لاغر- گرم مزاج والا

محروس *a.* guarded, preserved - نگاہ رکھا گیا نگھباني کیا گیا

محروسہ *a.* protected guarded, a garrisoned or fortified place, well governed or protected territory, as those subject to established sovereign power. ممالک محروسہ the countries occupied by any sovereign. نگھباني کیا گیا - ممالک محروسہ کنایہ هے اپنے ملکوں سے عرف میں ممالک محروسہ کنایہ هے بادشاهي ملکوں سے

محروقہ *m.* fuel, combustibles. ایندھن جلانے کا

محروم *a.* prohibited, excluded, unfortunate, wretched, plundered, deprived of the supply of life, disappointed. روکا گیا - بمز رنھا گیا

محزون *a.* grieved, vexed, afflicted. - اُداس غمگین - رنجیدہ

محسن *a.* benefitting, obliging. نیکي اور احسان کرنے والا

محسنات (*pl.* of محسنہ), benefits, favours, kindnesses. جمع محسنہ کي - نیکیاں - خوبیاں

محسنہ *n.* kindness, favour, good. - نیکي خوبي - نیک کي کئي شے

محسنین *pl* of محسن جمع محسن کي

محسوب *a.* computed, numbered, carried to account. حساب کیا گیا - شمار کیا گیا

محسود *a.* envied, hated. - رشک حسد کیا گیا کیا گیا

محسوس (*pl* محسوسات), perceived, felt, known for certain, manifested. وہ شے جو جس سے معلوم هو سکے - حسي هونے شے دریافت کي هوئي شے - آشکارا - ظاهر

محشر *mahshar*, } *m.* the place of assembly, the last judgment.
محشر *mahshir*, }
جگهه اکٹها هونے کي لوگوں کي - قيامت کے روز آئنده

محشو *a.* full, crammed. بهرا هوا

محشور *a.* raised from the dead. روز قيامت اُٹهايا گيا

محشي *a.* illustrated (a book,) by marginal notes, etc. حاشية چڑهايا گيا

محشي *m.* one who illustrates by marginal notes. حاشية چڑهانے والا

محصل *mahussil*, *m.* a tax-gatherer, a bailiff, a dun, *a.* collecting, gathering, inquiring تحصيل کرنے والا - بهت بڑا حاصل کرنے والا

محصل *muhassil*, *a.* acquired, gained, collected. حاصل کيا گيا

محصل *mahsal*, the place where anything (tax etc.,) is collected or gained, office of a tax-collector. جگهه حاصل هونے کي

محصن *m.* a married man, chaste, continent. مرد جورو والا - پرهيزگار

محصنين *pl.* of محصن. جمع محصن کي

محصنة *f.* a married woman, a chaste, or abstinent woman. زن شوهر دار - عورت پرهيزگار

محصنات *f.* married women, abstinent (women), free women. شوهر دار عورتيں - عورتيں پرهيز گار - آزاد عورتيں

محصود *f.* a reaped harvest. کهيتي کٹي هوئي

محصور *a.* beseiged, surrounded, detained, restrained, confined. حصر کيا گيا - گهيرا گيا - قيد

محض *m.* pure milk, pure, unmixed, *adv.* merely, entirely, wholly, purely. خالص دوده - هر چيز خالص

محضر *m.* a judge's note, the decree of a judge, written attestation, seal of a judge (*sigillum*), royal presence, appearance, attendance, a place or time of attendance. قاضي کا نامة - سجل عدالت کي - حضور - حاضر هونا - حاضر هونے کي جگهه - حاضر آنے کا وقت

محظور *a.* forbidden, unlawful. منع کيا گيا - حرام کيا گيا

محظوظ *a.* fortunate, lucky, glad, cheerful, contented, delighted, pleased. بهرہ مند - بختور - نصيب ور

محفل *f.* the place of meeting, assembly, congregation, congress. جگهه جمع هونے کي آدميوں کي

محفل شکستن *id.* to be ready to go, to rise. کناية اُٹهه کهڑے هونے سے

محفل نام و ننگ (*met.*) the judgment day. کناية قيامت کے دن سے

محفوف *a.* surrounded from all sides. گردا گرد گهيرا گيا

محفة *mihaffa*, *m.* a covered conveyance for women borne on the shoulders of men, a palanquin. ڈولي جس پر عورتيں سوار هوتي هيں اور آدمي اُس کو اُٹهاتے هيں

محق *mahq*, cancelling, purifying, lessening, burning (by sunshine). باطل کرنا - پاک کرنا - گهٹنا - گهٹانا - دهوپ کا کسي چيز کو جلانا

محق *muhiq*, having a right, acting properly, doing justice, knowing for certain. حقدار وہ شخص جس کي طرف حق هو - امر معقول

محقر *muhaqqar*, despised, contemptible. ذليل - حقير

محقق *muhaqqiq*, *a.* verifying, affirming. تحقيق کرنے والا - وہ شخص جو بات کو دليل سے ثابت کرے

محقق *muhaqqaq*, confirmed, certified, authenticated, verified, known for truth, a character in good hand-writing. تحقيق کيا گيا - نام ايک خط کا خوش نويسي ميں

محک *f.* touchstone, test, a compact, dark-coloured, siliceous stone used in testing gold and silver. کسوٹي - نام ايک سياہ پتهر کا جس پر سونے اور چاندي کي آزمايش کي جاتي هے

محکم *a.* strong, steady, firm, fortified, strengthened. مضبوط - مستعد

محکمات *muhakamat*, *f.* the verses of the Quran which are easy to understand. قران کي وہ آيتيں جن کے معني صريح اور ظاهر هيں

محکمة *m.* a tribunal, court of justice, judgment-seat. قاضي کے حکم کرنے کي جگهه - انصاف کرنے کي جگهه - عدالت کي کچهري

محکوم *a.* subjected under command, subordinate. حکم کيا گيا - مطيع - تابعدار

محکية *mahakiya*, *a.* narrated, told, copied. حکايت کي گئي

محل *mahall*, *m.* a place, house, dwelling, building, district, quarter, abode, time, opportunity, (*met.*) mansion, palace. جگهه - مکان - منزل - مجازاً بادشاہ يا امير کا مکان

محلات *pl.* of محلة. جمع محلة کي

محل نظر cause of care, (*met.*) objectionable. مقام فکر کا - اور کناية هے اعتراض کي جگهه سے

محلوج carded cotton, cotton separated from the seeds. روئي بنولة سے الگ کي هوئي - دهنکي هوئي روئي

محلول *a.* dissolved, ground very fine. حل کیا گیا - باریک پیسا گیا

محلي *muhalli, a* decked out, ornamented, adorned, praised, (*met.*) countenance, face. آراستہ - زیور پہنایا گیا - سفت کیا گیا - مجازاً بمعني چہرے کے آیا ہے

محمد *a* praised, praiseworthy. *m.* Muhammad, the prophet of Arabia, was born at Mecca, A. D. 570. He sprang from the Quraish, a tribe that ruled over the city and its neighbourhood. His father was Abdu'llah, the son of Abdu'l-Muttalib, a leading citizen, his mother's name was Amina. When Abdu'llah was on a trading trip he died at Madina, and soon after Amina gave birth to a son. When news of this was brought to Abdu'l-Muttalib, he went to the house of Amina, and taking the child in his arms he gave thanks to God, and called him Muhammad, 'the praised one. It was the custom for Quraish mothers to give their infants out to nurse with some Bedouin tribe to gain for them the healthy air of the desert. Muhammad was intrusted to Halima, who, after two years weaned the infant, and brought him back to Amina. In his sixth year Muhammad was taken by his mother to Madina, but on the return journey she died. The boy was then taken care of by his grandfather, who also died two years afterwards. The child was then committed to the care of his paternal uncle, Abu Talib. When Muhammad was twelve years old he was taken by his uncle on a mercantile journey to Syria. When Muhammad had reached his twenty-fifth year, on the recommendation of Abu Talib, he went with a rich widow of Mecca as her trading caravan as far as Syria, and Khadija was so pleased with him on his return that she offered to marry him. Muhammad agreed. She bore him two sons and four daughters. Both sons died in infancy. Muhammad was somewhat above middle height. His figure was spare, but commanding. His head was massive, with a broad and noble forehead. Thick black hair, slightly curling, hung over his ears, his eyes were large, black and piercing, his eyebrows arched and joined, his nose high and acquiline, and a long, bushy beard rested on his breast. When excited the veins would swell across his ample forehead. His eyes were often bloodshot and always restless. Decision marked his every movement. He used to walk so rapidly that the people half ran behind, and could hardly keep up with him. Muhammad at one time was very poor, but later in life he had twenty milch camels, which yielded every evening two large skinful of milk. He had also seven goats. About Muhammad's fortieth year the idolatry and moral debasement of his people pressed heavily upon him, and his soul was troubled with questioning as to what might be true religion. He often retired to meditate in a cave on the side of Mt. Hira two or three miles from Mecca. The first year of Muhammad's residence of Medina was chiefly occupied in building the great Mosque and in providing houses for himself and his followers, in the seventh year of the Hijra, Muhammad according to treaty with the Quraish, was allowed to visit Mecca and spend three days in the performance of the accustomed rites. After a fortnight's residence of Mecca Muhammad left at the head of 12,000 men to attack two tribes, who were defeated with some difficulty. Towards the close of the eighth year of the Hijra. In the tenth year of the Hijra and sixty-third of his age, Muhammad took his farewell pilgrimage to Mecca. Having rigorously performed the ceremonies as a model for all succeeding time he returned to Medina. In the third month of the eleventh year of the Hijra, Muhammed fell sick. The death of Ibrahim weighed his spirits down, and the poison at Khaibar still rankled his veins. When the fever had lasted nearly a fortnight it came upon him with great voilence on Saturday night. Racked and reckless he tossed upon his bed. Umar having placed his hand upon the sufferer's head suddenly withdrew it. All Sunday night the fever lay heavy upon him. The morning brought relief, and there was some return of strength. After a little conversation he was helped back to the chamber of 'Ayesha. Exhausted, he lay upon the bed, a mattress stretched upon the floor. 'Ayesha seeing him very low and weak, raised his head from his pillow as she sat by him on the ground, and placed it on her bosom. His strength rapidly sank. He called for a pitcher of water, afterwards he stretched himself gently and the prophet of Arabia was no more. It was a little after midday on the eight June A. D. 631. بسیار ستودہ شدہ - بہت تعریف کیا گیا - نام محمد پیغمبر کا

محمدت *f.* praise, glory. ستایش - تعریف

محمدي Mahomedan, Mahometen, Mohammedan, a follower of Muhammed. وہ شخص جو آمت محمد سے ہو

محمل (*pl.* of محامل), a camel's saddle, or that which fastens the two parts of a camel's load, a litter carried on a camel. کجاوہ جو اونٹ پر کستے ہیں - اونٹ کا ہودج (جمع محامل ہے)

محمود *a.* laudable, praised, worthy, a king of Ghazni, son of Sabakatgin, name of a mammoth elephant, name of a great Persian joker who had come in India during the reign of Akbar. تعریف کیا گیا - نام ایک مشہور بادشاہ کا - نام ایک بہت بڑے ہاتھي کا - نام ایک بہت بڑے مسخرہ کا

محمودہ *f.* praised, (a woman), a gum-resin obtained from a species of convolvulus, used as a drastic purge, scammony. تعریف کي گئي - نام ایک دوائي تلخ کا جس کو سقمونیا کہتے ہیں

محمول *a.* burdened, loaded, supposed, imagined, suspected. بوجھ لادا ہوا - گمان کیا گیا

محموم *m.* a man having a high fever. وہ شخص جس کو شدت کي تپ ہو

محن *pl.* of محنت. جمع ہے محنت کي

محن *mahn*, testing, examining آزمانا

محنت سرا (*met.*) the world. کنایہ دنیا سے

محو effacing, erasing, obliterating, forgetting, (in Pers.) a lover, mad. - زائل کرنا مٹا دینا - حرفوں یا نقش وغیرہ کا کاغذ پر سے پھیل ڈالنا - فارسي میں بمعني عاشق اور دیوانہ کے

محور *mihwar*, *m.* an axle, an axis. دھري جس پر پہیہ گردش کرتي ہے یا اور کوئي چیز مثل اس کے - علم ریاضي میں ایک خط وھمي ہے جس کا ایک سرا قطب شمالي سے اور دوسرا سرا قطب جنوبي سے پیوستہ ہے

محوطہ *muhauwata*, } *m.* an inclosure,
محوطہ *muhwata*, } area. احاطہ جگہہ کو - کي - جگہہ کسي چیز کي جمع کرنے کي

محول *muhawwal*, *a.* intrusted, delivered, confided to the care of. سپرد کیا گیا

محیي *a.* reviving. زندہ کرنے والا

محیا *a.* life, living, existence. زندگي - زیست

محیا *muhhiya*, } *m* countenance, face.
محیا *muhiyya*, } انسان وغیرہ کا چہرہ

محیص *f.* liberation, relief, escape, freedom, release, acquittal, turning. رہائي پانا - خلاص کرنا - رہائي دینا - کسي چیز سے پھرنا

محیط *a.* containing, surrounding, encircling, the circumference of a circle, the main ocean (surrounding the whole earth), name of a theological book. احاطہ کرنے والا - گھیرنے والا - گھیرا - گول خط دائرہ کا - سمندر جو تمام زمین کو گھیرے ہوے ہے - نام ایک کتاب کا فقہ میں

محیل *m.* a cheat, deceiver, knave, prevaricator. مرد مکار - حیلہ گر

محیلہ *f.* a cheating woman. مکار عورت

مخ *mukh*, *m.* the brain, marrow (of a bone), (*met.*) the best part of anything, essence, abstract. سر کا بھیجا - ہڈي کا گودا - مجازاً خلاصہ ہر چیز کا

مخاتیم *pl.* of مختوم جمع مختوم کي

مخادع *m.* a cheat, deceiver, knave. مکر اور فریب کرنے والا

مخادعت *f.* deception, artifice practised, fraud, double dealing. - مکر و فریب کرنا - مکر فریب - دغا

مخادعات *f.* many frauds, etc. بہت سے مکر و فریب

مخادیم (*pl.* of مخدوم), the great, venerable, grandees. جمع مخدوم کي - بزرگ لوگ

مخاذیل (*pl.* of مخذول), the mean. جمع مخذول کي - ذلیل لوگ

مخارج (*pl.* of مخرج), places of issuing. جمع مخرج کي - جگہیں نکلنے کي

مخازن (*pl.* of مخزن), treasuries, storehouses, magazines, etc. جمع مخزن کي - خزانے

مخاصمت } opposition, hostility, alterca-
مخاصمہ } tion, quarrelling. آپس میں دشمني اور خصومت کرنا

مخاض *m.* the pangs of child-birth. بچہ جننے کا درد

مخاطب *mukhatib*, *m.* a speaker, the person who addresses another, (sometimes) angry, furious. سامھنے سے بولنے والا - رو برو بات کرنے والا - اور کبھي اس سے مراد ہے غصہ کرنے والا

مخاطب *mukhatab*, *m.* the person addressed, called, entitled, (in gram.) the second person. وہ شخص جس سے بات کي جاے - لقب دیا گیا - خطاب دیا گیا

مخاطبات act of speaking or addressing each other, talking, (sometimes) epistolary correspondences, letters, notes, messages. آپس میں گلا کرنا - گفتگو کرنا - اور کبھي مراد مراسلات اور مکاتبات اور ناموں اور خطوں سے ہوتي ہے

مخاطرہ *m.* danger, peril, hazard, intelligible, comprehensible. خطر - اندیشہ - وہ بات جو ذھن میں آجاے

مخافات *pl.* of مخافت جمع مخافت کي

مخافت *makhafat*, dread, danger, fear, dreading. خوف - ڈر - خوف کرنا

مخافت *mukhafit*, *m.* one who reads slowly. آھستہ پڑھنے والا

مخافت *mukhafat*, *a.* read slowly. آھستہ پڑھا گیا

مخافات *f.* reading slowly. آھستہ پڑھنا

مخالب *makhalib*, the talons, the claws of the birds of prey. مرغان شکاري مثل باز اور جرہ وغیرہ اور شیر وغیرہ کے چنگل

مخالطت *mukhalatat*, associating, conversing, mixing together in society. آپس میں میل جول کرنا - کسي سے دوستي کرنا

مخام *n.* the place where a tent is pitched. خیمہ استادہ کرنے کي جگھہ

مخائل (*pl.* of مخیلہ), imaginations, conceptions, thoughts, opinions, suspicions, signs. جمع مخیلہ کي - خیال کي جگھیں - خیال کے محل - گمان لے جانے کے مقامات - علامتیں - نشانیاں

مخبر announcings news, signifying, certifying, telling news. *m.* a spy, a messenger, (sometimes) a human face. خبر دینے والا - جاسوس - اور کبھي مراد چھرہ انسان سے اس لئے کہ چھرہ باطن کے حالات سے خبر دیتا ھے

مخبر صادق (*met.*) the prophet Muhammad. کنایہ محمد سے

مخبط *mukhabbat*, *a.* disordered in the intellect, social, sociable, (sometimes) vicious perverse, corrupt, depraved, ruined. درھم - آمیختہ - ملا جلا - اور کبھي بمعني فاسد اور تباہ کے بھي آتا ھے

مختار *a.* chosen, selected, absolute, independent, invested with power and authority (sub.) a free agent, an agent acting with full power for another. اختیار کیا گیا

مختال *a.* denying, rejecting. منکر - انکار کرنے والا

مختبط *m.* asking a thing from a person without previous acquaintanceship, one who begs at night through modesty. کسي شخص سے کسي چیز کا مانگنے والا - بغیر وسیلہ اور اگلي جان پھچان کے - بسبب شرم کے رات کو سوال کرنے والا

مختالہ *m.* an impostor, a deceiver. - حیلہ گر دغا باز

مخترع *mukhtari'*, *m.* an inventor, author, founder, commencing. - نئي بات نکالنے والا نیا کام پیدا کرنے والا

مخترع *mukhtara*, *a.* invented, discovered, contrived. نیا نکالا گیا - اختراع کیا گیا

مختص *a.* appropriated, peculiar, chosen, elected, private, domestic. - خاص مخصوص کیا گیا

مختصر *a.* abbreviated, abridged, (sub.) a compendium, an epitome, a summary. جو تطویل نھو - جو دراز نھو

مختصم *m.* an enemy, hostile, foe. دشمني کرنے والا

مختل *mukhtall*, *a.* confused, confounded, disturbed, corrupted, emaciated. خلل پایا گیا - یہہ لفظ فارسي میں بغیر تشدید لام کے آتا ھے

مختلف } diverse, discordant, different,
مختلفہ } various. اختلاف کرنے والا

مختلف *mukhtalaf*, *a.* differentiated. اختلاف کیا گیا

مختم *mukhtam*, } *a.* sealed, signed,
مختوم *makhtum*, } locked, closed, concluded. مھر لگا ھوا - قفل دیا ھوا - بند کیا گیا

مختون *a.* circumcised. ختنہ کیا گیا

مخدر *mukhaddir*, rendering the skin insensible, a narcotic medicine, concealing (under a veil). کسي عضو کي سن کر دینے والي چیز - بے حس کر دینے والي چیز - پردے میں بٹھانے والا

مخدر *mukhaddar*, *a.* rendered motionless, concealed (under a veil). سن کیا گیا - بیحس کیا گیا - پردے میں بٹھایا گیا

مخدرہ *mukhaddara*, *f.* a veiled woman, a woman kept in seclusion. عورت پردہ نشین

مخدرات *mukhaddarat*, *f.* women kept in seclusion, veiled women. عورتیں پردہ نشین

مخدرات *mukhaddirat*, (in medicine narcotics, medicines which relieve pain and produce sleep. وہ دوائیں جو اعضا کو سست کردیتي ھیں

مخدوش *a.* tempted, doubted. وسوسہ کیا گیا

مخدوم *a.* served, (hence) a master. خدمت کیا گیا

مخذول *a.* contemned, despised, hold in contempt, scorned, disdained, worthless, mean, low, contemptible. ذلیل کیا گیا ذلیل و خوار

مخراق *m.* a scourge for punishing a criminal درہ جو گنھگاروں کو سزا کے لئے مارتے ھیں

مخرب *mukharrib*, *m.* depopulating, ruining, desolating. ویران کرنے والا

مخرج *makhraj*, *m.* utterance, pronunciation. جگهه باهر نکلنے کي

مخرق *mukharriq*, tearing to pieces, breaking assunder, ravenous. - ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا پهاڑنے والا

مخرقه *mukharaqa*, *m.* shame, immodesty, impudence, darkness, obscurity. - حیا شرمندگي - تیرگي

مخرقه *makhariqa*, a wooden sword for a child to play with, (according to some) a mendicant's bedding, quilts etc., the garment of a darwesh. لکڑي کي تلوار جس سے کهیلتے هیں - بعضوں نے بمعني فقیروں کي گدڑي کے لکها هے

مخروش *a.* scraped, scratched, excoriated. چهیلا گیا - تراشا گیا

مخروه *a.* turned on a lathe, scraped, excoriated, a cone, a cylinder. - خراط کیا گیا تراشا گیا - چهیلا گیا - وه چیز جو بشکل گاجر کے هو یعني سرا پتلا پیندا چوڑا

مخروطي *a.* conical, cylindrical. وه چیز جس کا سرا پتلا هو اور پیندا چوڑا هو

مخزن *m.* a magazine, storehouse, granary, treasury. خزانه کي جگهه - جگهه جمع کرنے کي

مخزون *f.* anything stored in a magazine, etc. خزانے میں رکهي هوئي چیز

مخزونات (*pl.* of مخزون). جمع مخزون کي

مخصوص *a.* chosen, selected, peculiar, particular. خاص کیا گیا

مخضب *mukhazzab*, *a.* painted, dyed, coloured, tinged (as the beard). - خضاب کیا گیا رنگین کیا گیا

مخضر *mukhazzar*, *a.* verdant, flourishing. هرا بهرا - سر سبز

مخطط *mukhattat*, *a.* marked with lines, a mistress having a black mole on her face, (some mean a hair in the mole). لکیروں والا - وه شے جس پر لکیریں اور نقوش هو - وه معشوق جس کے خط نکل آیا هو

مخطوبه *f.* affianced, betrothed. عورت جس کے ساتهه نکاح کي خواستگاري کي گئي هو

مخطور *a.* thought, imagined, supposed, conceived, neared destruction. اندیشه - جو دل میں خیال گذرے - هلاکت کے قریب کیا گیا

مخطورات (*pl.* of مخطور), cares, thoughts, suspicious, things causing fear. جمع مخطور کي - فکریں - اندیشے - وه چیزیں جن کا خیال دل میں گذرے - وه چیزیں جن میں خوف هو

مخفت " don't sleep." مت سو

مخفف *mukhaffaf*, *a.* alleviated, light, contemptible, a consonant having a short for a long vowel. هلکا کیا گیا

مخفوض *a.* depressed, submissive. پست کیا گیا

مخفي *a.* concealed, secret, clandestine, private, occult. پوشیده

مخل *a.* disturbing, spoiling, interfering, ruining, (sub.) an interrupter, interferer, disturber. - خلل ڈالنے والا - خلل انداز

مخلات *m.* the leathern or canvas bag out of which horses eat their corn. توبڑا جس میں سے گهوڑا دانه کهاتا هے

مخلاف *m.* one who breaks or does not keep his promise, a promise breaker. بڑا وعده خلاف

مخلب *m.* a talon, a claw. - مرغ شکاري کا چنگل شیر کا پنجه

مخلخل *a.* soft, hollow. وه چیز جس کے اجزا باهم چسپاں اور متصل نهوں - پولا

مخلد *mukhallad*, *a.* eternal, durable, permanent. همیشه - مدام

مخلص *mukhlis*, *m.* a true friend. *a.* true, sincere, pure. دوست خالص - سچا دوست

مخلص *mukhallis*, freeing, releasing, discharging, acquitting, purifying. خالص کرنے والا - خلاص کرنے والا - رهائي دینے والا

مخلص *mukhallas*, *a.* released, freed, discharged, acquitted, purified. - رهائي پایا گیا خالص کیا گیا

مخلص *mukhlas*, *m.* an asylum, liberty, freedom, release. جگهه اخلاص کي - اور مصدر میمي بهي هے بمعني رها ئي - خلاصي

مخلصي *f.* escape, release, shelter, asylum, deliverance, liberation. رهائي

مخلط *mukhallit*, *a.* mixing, blending, confusing. ملانے والا

مخلط *mukhallat*, *a.* mixed, blended, confused. ملایا گیا

مخلع *makhalla'*, *a.* dressed or presented with a *khil'at* (robe of honour.) خلعت دیا گیا

مخلف *mukhallaf*, *a.* left behind. پیچهے چهوڑا گیا

مخلف *mukhalif*, *m.* a camel of more than nine years of age. نو برس سے زیاده کا اونٹ

مخلوط *a.* mixed, blended, confused. - ملا هوا ملا جلا

مخلوع *a.* driven out, brought out. نکالا گیا - باھر لایا گیا

مخلوق *a.* created, formed, produced. پیدا کیا ھوا

مخلوقات (*pl.* of مخلوق), the world, creatures, created things. جمع مخلوق کي - دنیا اور جو چیز دنیا میں ھے

مخلي *mukhalli* *a* emptied, released, freed, liberated, discharged, acquitted. خالي کیا گیا - رھا کیا گیا

مخمر *mukhammar*, *a.* leavened, fermented, kneaded, mixed. خمیر کیا گیا - گوندھا گیا - ملایا گیا

مخمس *mukhammas*, *m.* a kind of verse containing five lines, a pentagon or five-sided figure. *a.* quintuple, pentangular, time in music. پانچ گوشۃ کیا گیا - ایک قسم نظم کي جس کے پانچ مصرع ھوتے ھیں - وہ چیز جس کے پانچ کونے ھوں - ایک قسم کا اصول جس کو تال کہتے ھیں

مخمصۃ *m.* hunger, keen appetite, wretchedness, (*met.*) extreme grief causing uneasiness. شدت کي بھوکھ - مجازاً وہ مصیم غم جس سے بیقراري پیدا ھو

مخمل *m.* velvet. مشھور کپڑا ریشمي اور نرم

مخمور *a.* intoxicated, completely drunk. شراب پیۓ ھوئے - متوالا

مخنث *mukhannas*, effeminate, object, infamous, (sub.) an hermaphrodite, *exoletus, qui corpus prostituit cinœdis.* ھجڑا - جس کو دستکاري سے نامرد بنادیا ھو

مخنق / مخنوق } *a.* suffocated, strangled. گلا گھونٹا گیا

مخوف *mukhauwaf*, *a.* terrified. ڈرایا گیا

مخوف *mukhauwif*, *a.* terrifying, threatening, menacing. ڈرانے والا - دھمکانے والا

مخوف *makhuf*, *a.* dangerous, dreadful. ڈرا ھوا - خوفناک

مخیدہ *a.* slipped, (*met.*) bad. پھسلا ھو - مجازاً بمعني خراب

مخیر *mukhaiyar*, *a.* empowered, left to free choice, given an option of two things. اختیار دیا گیا

مخیر *mukhaiyir*, *a.* empowering, authorizing, giving an option of two things, very liberal, very bountiful, munificent, charitable. دوسرے کو اختیار دینے والا - بڑا مرد نیک - بڑا سخي - بہت نیکي کرنے والا

مخیط *f.* a needle. سوزن - سوئي (سلانے کي)

مخیط *a.* sewn (as a cloth). سي ھوئي چیز

مخیل *makhaiyal*, *a.* imagined, thought, fancied, doubted. خیال کیا گیا

مخیلۃ *m.* the house of thought, *i.e.*, the brain. محل خیال کا یعني دماغ

مخیلم *makhilam*, *m.* imagination, conception, thought, opinion. نام قوت کا جس کو خیال کہتے ھیں

مخیم *mukhim*, / مخیم *mukhiyam*, } *m.* an encampment, a camp. جگہہ خیمہ لگانے کي - خیمہ استادہ کرنے کي جگہہ

مد *madd*, *m.* a kind of dry measure varying from one to two *ratl.* (رطل). نام ایک پیمانۃ کا جو دو رطل کا ھوتا ھے

مد *madd*, *f.* extension, production, lengthening, casting a look, extensive view, the flux of the sea, a peculiar mode of writing certain words in accounts, mark placed over an initial *alif* to give it a long sound, filling an ink pot with ink. کشش - افزوني - درازي - زیادتي - لمبائي - نظر کرنا کسي چیز کي طرف - بڑھنا دریا کے پاني کا - لمبا خط جو حساب میں لکھتے ھیں - وہ خط جو الف ممدودہ پر لکھتے ھیں

مدالبصر *f.* eyeshot, range of vision, view. نظر پھونچنے کي حد

مدالنھار length of day, the breakfast time. دن کي بلندي - وقت چاشت کھانے کا

مداح *maddah*, *m.* an eulogist, concomiast, panegyrist. تعریف کرنے والا

مداخل (*pl.* of مدخل), entrances, places of entering, incomes, revenues, houses. دخل کي جگھیں - اور بمعني آمدني زر کے مستعمل ھے - اور مکانوں اور گھروں کو بھي کہتے ھیں

مداخل مخارج additions and diminutions, income and expenditure. جمع خرچ

مداخلت *f.* access, entering into, intermeddling. دخل دینا

مداد *f.* ink (of an inkpot), cowdung, lamp-oil, example, way, mode. دوات کي سیاھي - سرگین - گوبر - چراغ کا تیل - نمونہ طریقہ

مدار *m.* a circumference, a centre, a place of turning or returning, a place where one stops or stands, a station, a seat. جگہہ دورہ کي - جگہہ گردش کي - ستارہ کے دورہ کرنے کي جگہہ - اور بمعني دائرہ اور دورہ اور حلقہ کے بھي آتا ھے مجازاً وہ چیز جس پر کوئي بات ٹھري ھوئي ھو

مدارا *m.* } partiality, peace, reconciliation,
مدارات *f.* } affability, politeness, courtesy, humility, hospitability. - رعایت کرنا صلح اور آشتي کرنا - خاطر و تواضع کرنا

مدارات *pl.* of مدار جمع مدار کي

مدارالمهام *m.* the centre of affairs, *i. e.*, the minister, general (of an army). وہ شخص جس سے سب کار و بار سلطنت کے متعلق هوں - وزیر یا فوج کا حاکم

مدارج (*pl.* of مدرج), ways, degrees, steps, ascents. راهیں - درجے

مدارس (*pl.* of مدرسه), schools, colleges. جمع هے مدرسه کي

مدافیت *f.* jocularity, pleasantness, amusement. مزاج اور خوش طبعي اور بازي اور کهیل کرنا

مدافع *a.* removing, repelling, warding off. دفع کرنے والا -

مدافعت *f.* repulsion, warding off. ایک دوسرے کو دفع کرنا

مدام always, permanent, lasting, fixed, continually. *f.* wine, spirits. همیشه - همیشه رکها گیا - اور بمعني شراب کے بهي هے

مداوا } curing a disease, remedying,
مداوات } aiding, assisting. - دوا کرنا علاج کرنا

مداوره *m.* going about, surrounding, encircling, encompassing, adjusting (a business). گهیرنا

مداومت *f.* eternity, perpetuity, continuance, assiduity. همیشگي - همیشگي کرنا

مداوی *a.* cured, remedied. دوا کیا گیا - علاج کیا گیا

مداهن *a.* lazy, slothful. سستي کرنے والا

مداهنت *a.* lying, hypocrisy, fallacy, prevarication, disagreement, agreeableness, flattery, laziness. جهوٹهه بولنا - نفاق - چرب زباني - خوشامد - سستي کرنا

مدائح (*pl.* of مدیحه), laudable actions, praises. جمع مدیحه کي - تعریفیں

مدائن *pl.* of مدینه جمع مدینه کي

مدبر unlucky, unfortunate. بے نصیب - برگشته بخت

مدبر *mudabbir*, *a.* disposing in order, governing, prudent, ingenious. *m.* a manager, counsellon, director. - تدبیر کرنے والا صاحب تدبیر

مدبر *mudbir*, *a.* counselled, suggested, directed, devised, supported, a slave to whom emancipation has been promised. تدبیر کیا گیا - پرورش کیا گیا - وہ غلام جو بعد مرنے کے آقا آزاد هو جائے

مدبلبل *m.* bewailing song of a nightingale. بلبل کا ناله

مدت عدت *muddati 'iddat*, *f.* the space of time during which a woman cannot marry a second husband. وہ زمانه جس میں عورت دوسرا شوهر نه کر سکے

مدح } *f.* praise, commendation, eulo-
مدحت } gium, glory. ستایش - تعریف

مدخل *madkhal*, *a.* entering, penetrating. دخل کرنا - داخل هونا

مدخل *mudkhul*, *m.* a miser, niggard. - بخیل کنجوس

مدخول *a.* entered, put in, inserted. داخل کیا گیا

مدخوله *f.* a concubine. عورت صحبت شده

مدر *madar*, *m.* a clod, lump of earth, (*met.*) the earth. مٹي کا ڈهیلا - کبهي کنایه زمین سے بهي هوتا هے

مدر *mudir*, *a.* causing to flow, diuretic, tending to produce discharges of urine. پیشاب جاري کرنے والي چیز

مدرس *mudarris*, *m.* a teacher, a professor, a lecturer. پڑهانے والا - درس دینے والا

مدرس (*pl.* of مدرسه). جمع مدرسه کي

مدرک *a.* comprehending, understanding, one who understands. سمجهنے والا - بات کو خوب پهونچنے والا - دریافت کرلینے والا

مدرکه *m.* strength of understanding, intellectual powers, genius. وہ قوت جس سے انسان اشیا کي حقیقت دریافت کر سکے یعني عقل اور ذهن

مدروس old thing, rare, anything which has been read. وہ چیز جو پراني هوگئي هو - وہ شے جو غایب اور نا پدید هوگئي هو - وہ چیز جو پڑهي گئي هو

مدعا *m.* desire, wish, meaning, suit, view, object, scope, intention. کنایه مطلب اور آرزو سے

مدعی claimed, sued, wished, desired. دعوی کیا گیا - آزاد کیا گیا

مدعی *mudda'i*, *m.* a plaintiff, suitor, claimant, prosecutor, enemy. دعوی کرنے والا

مدعیات (*pl.* of مدعی), desires, anxieties, wishes. جمع مدعی کي - خواهشیں - آرزویں

مدعی علیه *m.* a defendant (in law). جس پر دعوی کیا گیا هو

مدغم inserting (a letter), joining two letters by *tashdid*, joined, entered, hidden. وه حرف جو اپنے همجنس حرف میں اوغام کیا گیا هو - پیوستہ - ملا هوا - داخل کیا گیا - اور بمعني پوشیدہ کے بھي آیا هے

مدفن } مدفنہ } *m.* a place for interment, a tomb. مقام دفن کا

مدفون *a.* buried, concealed, interred. دفن کیا هوا - گاڑا هوا

مدقق *a.* working finely, examining minutely. باریک کام کرنے والا - باریک نقطے پیدا کرنے والا

مدقوق *a.* pounded, triturated, thin, lank, hectic. کوٹا گیا - باریک کیا گیا - لاغر - دبلا - وہ شخص جس کو تپ دق هو

مدلول *m.* 'meaning.' اهل منطق کي اصلاح میں معني کو کهتے هیں

مدلهم *a.* very dark, black. نهایت سیاہ اور تاریک

مدلهمات *pl.* of مدلهم جمع مدلهم کي

مدمل *mudammil*, an ointment or anything that may heal a wound. وہ چیز جو زخم کو بھر دے

مدمن *a.* constantly doing a work. همیشہ کرنے والا کسي کام کا

مدن (*pl.* of مدینہ), cities, towns. جمع مدینہ بمعني شهر کے

مدن establishing, standing up. - کهڑا هونا قائم هونا

مدني *m.* a citizen. شهر کا رهنے والا

مدوجزر *madd-o-jazr*, tide, the flux and reflux of the sea. سمندر کا جوار بهاٹا

مدور *mudawwar*, *a.* round, circular. گول

مدون *mudawwan*, *a.* collected, accumulated. جمع کیا گیا

مدہ *midda*, pus, matter of a sore. پیپ جو زخم سے نکلتي هے

مدہ *madda*, *m.* the long vowels, or ا, و and ے, when quiescent, and preceded by a letter which has their homogeneous short vowel, as in the words مال wealth, سود gain, and پیل an elephant. علم حرف کي اصطلاح میں وہ حرف علت ساکن جس کے ماقبل کي حرکت موافق اُس کے هو جیسے واو ساکن ماقبل مضموم - اور یا ساکن ماقبل مکسور - اور الف ساکن ما قبل مفتوح

مدهوش *a.* astonished, confounded, inebriated. - صیغہ اسم مفعول کا هے - بمعني متحیر - سرگشتہ - حیران - اور فارسي میں واو مجهول سے بمعني مست اور بیهوش کے آتا هے

مدی *m.* end, termination, extremity, excess. انتها - نهایت - غایت

مدیان *m.* one involved deeply in debt, a debtor. بڑا قرض کرنے والا

مدیح *f.* praiseworthy action. ستایش - تعریف

مدیحہ (*pl.* of مدائح), praise. ایک تعریف - جمع مدائح هے

مدید *a.* long, extensive. دراز - لمبا - کھنچا هوا

مدین Midian, where *Sha'ib* or Jethro used to live. نام ایک قصبہ کا جس میں شعیب رهتے تھے ۔

مدین *m.* a slave, servant, debtor, disgraced, paid (one's wages). بندہ - غلام - قرضدار - خوار کیا گیا - مزدوري دیا گیا

مدینہ *m.* a city, a state, Madina (city, or al Madinatu'n-Nabi, the city of the Prophet), the second capital of Hedjaz, is situated about 270 miles north of Mecca, and 140 miles north-east of Yembo. It consists of three principal parts, the town, the fort, and suburbs; Madina is about half the size of Mecca, and contains about 16,000 inhabitants. It is surrounded by a wall about forty feet high, which renders it the chief stronghold of Hedjaz. The streets are deep and narrow, paved only in a few places The houses are flat-roofed, and double storied. The chief building is the Great Mosque. The *hujra* (chamber) in which Muhammad died and was buried was originally the chamber alloted to A'yesha his favourite wife. It is irregular in shape, separated from the Mosque, but within its enclosure. Inside the *hujra* are supposed to be the three tombs of Muhammad, Abu Bakr, and 'Umar, with a space reserved for the grave of Christ who, Muslims say, will again visit the earth, die and be buried at Madina. Nothing is visible but costly carpets, with three inscriptions in large gold letters, stating that behind them lie the bodies of the Prophet and the two Khalifas (caliphs). مطلق شهر - نام ایک شهر کا جس میں حضرت محمد دفن هیں

مدیون *n.* a debtor, one involved in debt. قرضدار

منذ muz, the beginning of the world, that epoch. ابتداے زمان ۔ وہ زمانہ

منذ muz, } m. a master, lord. صاحب ۔ خداوند
منذ maz, }

مذاب muzab, a. melted, liquid. ۔ گلا ہوا پگھلا ہوا

مذاق m. taste, tasting, the palate. (fig.) jocularity, pleasantness, humour, longing, eager desire. چکھنا ۔ زبان ۔ تالو ۔ اصطلاحاً بمعنی خوش طبعی ۔ ظرافت

مذا کرہ m. conference, conversation. باہم ذکر کرنا

مذاہب pl. of مذہب جمع مذہب کی

مذبح m. a place of sacrifice, an altar. جگہہ ذبح کرنے کی

مذبذب a. doubtful, wavering, hesitating, fluctuating suspended. دھر پکڑ کیا گیا ۔ وہ امر جو صاف نہو ۔ متردد

مذبوح a. sacrificed, slain, killed. ذبح کیا گیا

مذخورہ m. store, stored, collected. ذخیرہ بمعنی جمع کیا گیا

مذروع a. measured with a yard. گز سے پیمایش کیا گیا

مذکر (in gram.) masculine, male, man, reminded. مرد ۔ نر ۔ یاد لایا گیا

مذکر سماعی m. a husband governed by his wife, a hen-pecked husband. وہ مرد جو عورت یعنی اپنی زوجہ کا تابعدار ہو

مذکور a. before-mentioned, remembered. ذکر کیا گیا

مذکی a. sacrificed (an animal). ۔ بسمل ۔ گلا کٹا ہوا

مذلت f. baseness, contempt, disgrace. خوار ہونا ۔ رسوا ہونا ۔ ذلت ۔ رسوائی

مذمت mazammat, f. abuse, satire, scorn, contempt, speaking evil of. ہجو ۔ برائی ۔ بدی

مذموم a. wicked, bad, evil, scorned, contemptible, despised. بد ۔ برا ۔ زشت

مذمومہ evil thing despised thing. بد اور بری چیز

مذنب muznib, m. a sinner, a criminal. گنہگار

مذہب mazhab, m. way, road, a place for going and walking, mode, manner, (met.) religion, sect, law. راہ ۔ رستہ ۔ جگہہ جانے اور چلنے کی مجازاً دین ۔ آئین

مذہب muzahhab. a. gilt, overlaid with gold, plated. سونا چڑھایا ہوا ۔ ملمع کیا گیا

مذہب muzhhib, m a gilder, an electroplater. سونا چڑھانے والا ۔ ملمع کرنے والا

مذہوب f. anything overlaid with gold. سونا چڑھی ہوئی چیز ۔ زر نگار ملمع کیا ہوا

مذیب m. melting. گلانے اور پگھلانے والا

مذیبہ f. melting. گلانے اور پگھلانے والی

مر murr, bitterness, myrrh, a. bitter, name of a tribe. تلخ ۔ کڑوا ۔ نام دواے مشہور کا ۔ ایک قبیلہ کا نام

مر marr, a. passing, going, a rope, an axe. گذرنا ۔ جانا ۔ رسی ۔ کلہاڑی

مر the number fifty, (met.) counting, computing, numbering, (and sometimes) boundless, countless, numberless. عدد پچاس کا ۔ مجازاً بمعنی شمار کے آتا ہے اور کبہی بمعنی بے حد اور بے حساب اور بہت کے

مرابح profits, gains. منافع ۔ فائدے

مرابحت legal profit on the sale of any article. نفع اور فائدے سے بیچنا

مرابع n. stories of a house, stages, houses. منزلیں ۔ بہت سے مکان

مراۃ } f. a woman. زن ۔ عورت
مرآت }

مرآۃ } f. a mirror, speculum. آئینہ ۔ شیشہ ۔ منہہ دیکہنے کا
مرات }

مراتب (pl. of مرتبہ), dignities, times, affairs. جمع ہے مرتبے کی ۔ درجے ۔ رتبے ۔ مرتبہ

مراتب چہار گانہ law, religion, knowledge and truth. شریعت ۔ طریقت ۔ معرفت ۔ حقیقت

مراتع (pl. of مرتع), meadows, grazing grounds. جمع مرتع بمعنی چراگاہ کی

مراثی pl. of مرثیہ. جمع مرثیہ کی

مراجعت f. return, recourse, attending, repeating. لوٹنا ۔ رجوع کرنا ۔ الٹا پھرنا

مراح marah, a going, departing, a place of comfort and luxury. جانا ۔ رواں ہونا ۔ اور بمعنی جاے آسایش و راحت کے بھی

مراح murah, m. a camel's stable. اونٹوں کے رہنے کا مقام

مراح mirah, f. happiness, gladness, joy. شادی ۔ خوشی

مراحل (pl. of مرحلہ), journeys, stages, day's journeys. جمع مرحلہ بمعنی منزل کی

مراحم (pl. of مرحمت), favour, kindnesses, gifts. جمع مراحمت کی ۔ مہربانیاں

مرادفت f riding behind another on the same horse. باہم ردیف ہونا ۔ ایک دوسرے کے پیچھے سوار ہونا

مرادت mu adif, m. a man riding behind another on the same horse, synonymous. نمی کے پیچھے سوار ہونے اور بیٹھنے والا ۔ ہم معنی ہونا ۔ ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھہ

مرارت *f.* bitterness. تلخي - کڑواپن

مرارة *m.* the bile, gall-bladder of an animal. پتّه هر حيوان کا

مراسل *f.* a woman having long massive growth of hair on both the calves of her foot, a woman who may keep correspondence with her suitors, a woman who has been divorced by her husband and keeps in touch with other men by means of letters, etc., an elderly woman. وہ عورت جس کي پنڈلي پر بہت اور دراز بال هوں ۔ وہ عورت جو بياہ کي خواهش کرنے والے مردوں سے خط و کتابت جاري رکھے - وہ عورت جسے اُس کے خاوند سے جدائي هو گئي هو اور وہ دوسرے مردوں سے پيغام وغيرہ رکھے - سن رسيدہ عورت

مراسلات *pl.* of مراسلة جمع مراسلة کي

مراسلة exchanging letters, corresponding, epistolary correspondence. باهم نامه و پيام کرنا

مراسم (*pl.* of رسم), marks, signs, vestiges, laws, usages, customs, conventions, observances. جمع رسم بمعني نشان اور آئين کي - رسميں

مراصد *pl.* of مرصد (see below). جمع مرصد کي

مراضعت *f.* act of nursing a child. دودھ پلانا دايہ کا بچے کو

مراعات *f.* act of grazing together of the animals, attending to, taking care of, preserving, guarding, viewing attentively through half eyes, considering, reflecting, (*met.*) good treatment, indulgence, favour. چرنا باهم ملکر چوپايوں کا - نگاہ رکھنا - حفاظت کرنا - کنکھيوں سے بہ گوشہ چشم ديکھنا - مجازاً بمعني سلوک اور رعايت کے

مراعي *m.* paying regard to another's feelings, paying attention, remission, indulgence, preserving, guarding, protecting, a grazier. *m.* preserver, guard, protector. رعايت کرنے والا ۔ نگهباني کرنے والا جانوروں کا چرانے والا

مراعي *n.* meadows, grazing grounds, animals who have been fed on grass, (also) indulgences. جانوروں کے چرنے کے مقامات ۔ چرائے گئے جانور ۔ اور بمعني رعايتوں کے بھي آيا هے

مراغبت *f.* desire, propensity. خواهش - رغبت

مراغة *marragha*, *m.* tumbling, wallowing, rolling about. لوٹنا جانور کا زمين پر خواہ پرند هو خواہ چرپايہ

مرافعات *f.* petitions. عرضداشتيں

مرافعت *f.}*
مرافعة *m.}* a lawsuit, citing before a judge. حاکم کے سامنے اپنا دعوی پيش کرنا

مرافق *murafiq*, *m.* associate, a fellow-traveller. رفاقت کرنے والا - همراہ

مرافق *marafiq*, (*pl.* of مرفق), elbows. جمع مرفق بمعني کہني کي

مرافقت *f.* association, travelling in company. رفاقت کرنا - همراهي

مراقب *m.* candidate, hopeful, fearing, an observer inspector. اُميد وار - اُميد رکھنے والا - ڈرنے والا - مراقبہ کرنے والا ۔ نگهبان

مراقبت *f.* hope, confidence, protection, safety, confiding, hoping. اُميد - چشمداشت - نگهباني - حفاظت - اميد رکھنا

مراقبة *m.* hope, confidence, taking care of, protecting, preserving, observation, contemplation (fig.) fearing God. اُميد رکھنا - نگاہ رکھنا - حفاظت کرنا - اصطلاحاً خدا سے ڈرنا

مراقي (*pl.* of مرقاة), steps. جمع مرقاة کي - سيڑھياں

مراکب (*pl* of مرکب), horses, ships, camels or all sorts of things in or on which the people are carried. جمع مرکب کي - وہ چيزيں جن پر سوار هوتے هيں خواہ جانور خواہ کشتي

مرام *m.* purpose, intention, aim. - مطلب مراد - مقصد

مرامات *pl.* of مرام جمع مرام کي

مراهق *m.* a lad who has nearly reached the age of maturity. وہ لڑکا جو قريب بلوغ کے پهونچا هو

مراهم (*pl.* of مرهم), ointments, unguents. جمع مرهم کي

مراء *f.* self-display, pride, vanity, fighting. خود نمائي اور جنگ کرنا

مرايا (*pl.* of مرآت), mirrors. جمع هے مرآت کي - آئينے

مرائي *m.* proud, vain, hypocrite, cunning, artful. خود نما - اپني کسي بات کا ظاهر کرنے والا - مکار - مکر کرنے والا

مربي *murabbi*, *m.* educated, instructed, corrected, bred, confection, preserve. تربيت کيا گيا - پرورش کيا گيا - وہ چيز جو قند يا شکر کے قوام ميں پرورده کي گئي هو

مربح *a.* profitable, advantageous, beneficial. نفع بخش - سود مند

مربض *n.* a sheep-cot. a pen, a small inclosure for sheep بکريوں کے رهنے کي جگهہ

مربط *marbit*, a pen, a stable, a house for animals. وہ مکان جهاں حيوان باندھے جائيں

مربط *mirbat*, a rope for tying an animal or any thing. رسي وغيرہ جس سے کوئي چيز يا حيوان باندھا جائے

مربع *murabba*, being four in number, square, quadrangular, quadrilateral, sitting cross-legged, a kind of amulet having sixteen squares. چوگوشہ - ہر چیز جس کے چار کونے ہوں اور لمبان چوڑان میں برابر ہو - ایک قسم کي نشست جس کو پالتھي مار کے بیٹھنا کہتے ہیں - ایک قسم کا تعویز جس کے سولہ خانہ ہوتے ہیں

مربع طولاني *f.* a parallelogram. وہ چیز جس کے چار کونے ہوں اور لمبان زیادہ ہو چوڑان سے

مربع نشین sitting down on the ground cross-legged resting on the buttocks. چار زانو یعني پالتھي مار کے بیٹھنے والا

مربوب *f.* the world, creation. بمعني مخلوق

مربوط *a.* bound, fastened, arranged, construed, grammatical. باندھا ہوا - ربط کیا گیا - لگایا گیا

مربي *m.* a tutor, guardian, protector, patron. پرورش کرنے والا - تربیت کرنے والا

مرة *adv.* once, one time. ایک مرتبہ - ایک دفعہ

مرتاخ *a.* luxurious, given to luxury. عیش و عشرت والا

مرتاض *a.* exercised, disciplined, (according to the theologians) subduing one's passion, suffering a lot in acquiring knowledge, art or in devotion to God. ریاضت کرنے والا - اور اہل تصوف کي اصطلاح میں اپنے نفس سرکش کا مغلوب کر لینے والا - تحصیل علم و ہنر یا عبادت کرنے میں رنج اٹھانے والا

مرتب *murattab*, *m.* arranged, regulated, prepared. راست اور درست کیا گیا - اپنے اپنے درجہ اور مقام پر لایا گیا

مرتب *murattib*, *m.* one who arranges. ترتیب دینے والا - انتظام کرنے والا - راست و درست کرنے والا

مرتبہ *martaba*, *m.* a step, degree, dignity, office, employment, charge, rank of honour. درجہ - رتبہ

مرتبہ *murattaba*, *a.* corrected, arranged, in order درست کیا گیا - درجہ بدرجہ اپنے اپنے مقام پر رکھا گیا

مرتجي *a.* expected, hoped, confided. امید رکھا گیا

مرتد *n.* an apostate, a renegade, one who has seceded from the Musalman faith, and is consequently an outlaw. مذہب اسلام سے پھرا ہوا

مرتسم *a.* impressive. نقش قبول کرنے والا

مرتشي *m.* one who takes bribe. (راشي a briber). رشوت لینے والا

مرتضی *a* chosen, approved, one of the titles of 'Ali. پسندیدہ - اور لقب ہے حضرت علي کا

مرتع *n.* a meadow, a grazing ground. چراگاہ

مرتعب *a.* timid, pusillanimous, afraid. خائف - ڈرنے والا

مرتعش *a.* trembling, frightened. کانپنے والا

مرتفع *a.* elevated, exalted, high, sublime, aggrandized, (*met.*) avoided. بلند کیا گیا - اٹھایا گیا - مجازاً دور کیا گیا

مرتقي raising high, elevating, exalting. بلند ہونے والا اوپر جانے والا

مرتقد *f.* a bed-chamber, sleeping room. خواب گاہ - سونے کي جگہہ

مرتکب *a.* adopting, perpetrating, choosing, approving, beginning, riding, acting, performing; mounting. اختیار کرنے والا - پسند کرنے والا ایک کا - شروع کرنے والا کسي کام کا - سوار ہونے والا - عمل میں لانے والا

مرتہن *murtahan*, *a.* pledged, pawned. رہن رکھا گیا

مرتہن *murtahin*, *m.* a pawnbroker, mortgagee. کسي شخص کي چیز اپنے پاس گرو رکھنے والا

مرثیہ *marsiya*, *m.* an elegy, a poem or a song expressive of sorrow and lamentation, a funeral eulogium particularly one sung during the Muharram in commemoration of the descendants of 'Ali. مردے کے رو کر اوصاف بیان کرنا

مرج *murj*, *f.* a meadow, pasturage, leading two things together. چراگاہ - چرپایوں کے چرنے کي جگہہ - دو چیز کا باہم چھوڑ دینا

مرج *maraj*, quarrel, fight, destruction, wreck, ruin. فساد - تباہي

مرجان *m.* a small pearl, coral (لولو a big pearl). چھوٹا موتي

مرجان پرورده (*met.*) the red wine. اشارہ ہے طرف شراب سرخ کے

مرجح *m.* giving preference of one thing over the other, surpassing. غلبہ دینے والا - کسي چیز کو کسي پر ترجیح دینے والا

مرجع *m.* time or place of return, asylum, refuge, repetition. جگہہ باز گشت - جاے رجوع کرنے کي

مرجل *mirjal*, *f.* a large copper pot. تانبے کي بڑي دیگ

مرجو *marajju*, *a.* expected, hoped. امید کیا گیا

مرجوح *a.* defeated, subdued, weak. - عاجز مغلوب

مرجوم *a* returned, referred, brought into court (a suit). رجوع کیا گیا

مرجوم *a.* expelled, driven out, rejected, stoned. هنکایا گیا - دور کیا گیا - سنگسار کیا گیا

مرح *a.* exceedingly happy, proud. نہایت خوش هونا - فرور کرنا

مرحب *m.* amplitude. *a.* large, spacious, wide, name of an infidel wrestler of Arabia. کشادہ هونا - جگہہ کشادہ - نام ایک کافر پہلوان کا عرب میں

مرحبا *interj. lit.* may you (a guest) enjoy a spacious abode! hail! welcome! God bless you! شاباش - عرب میں یہہ لفظ واسطے تعظیم مہمان کے کہتے هیں

مرحلہ *m.* a day's journey, a stage, the time or place of travelling, marching, putting the pack-saddle on a camel, an inn, a battery, the bastion of a fort. منزل کي جگہہ - کوچ کا مقام - منزل - اسباب رکھنے کي جگہہ - کوچ کرنا - اونٹ پر پالان رکھنا - مقدار مسافت - ایک طرح کي عمارت کا نام جو جنگي قلعہ کے گردا گرد بنا کر اُس پر بیٹھہ کر دشمنوں سے جنگ کرتے هیں

مرحمت *f.* pity, compassion, mercy, clemency, favour, a present. - مہرباني - رحم رحم کرنا

مرحوم *m.* one who has obtained mercy, (*met.*) one deceased, the late. رحمت کیا گیا - مجازاً وہ شخص جو مر گیا هو

مرخ anointing the body with oil. جسم پر تیل ملنا

مرخص *murakhkhas*, *a.* permitted or allowed (to depart), dismissed. رخصت کیا گیا

مرخص *murakhkhis*, *m.* permitting, allowing (to depart), dismissing. رخصت کرنے والا

مرخم *murakhkham*, *a.* softened. نرم کیا گیا

مرد *mard*, beardless (as youth), obstinacy, perverseness.

مر *murd*, (*pl.* of امرد), beardless (youths). جمع امرد کي یعني وہ لڑکے جن کي ابھي ڈاڑھي نہ نکلي هو

مرد *marad*, rubbing anything with the hand, wetting, moistening, covering or soaking anything with water. کسي چیز کا هاتہہ سے ملنا - پاني میں کسي چیز کا تر کرنا اور بھگونا

مر *maradd*, *a.* repelling, repulsing, rejecting, refusing to accept, declining. رد کرنا - قبول نکرنا

مرداد *murdad*, name of a Persian month corresponding to July. فارسي مہینہ کا نام تقریباً ماہ جولائي

مردان *mardan*, (*pl.* of مرد), men, etc. جمع هے مرد کي

مردان *murdan*, (*pl.* of امرد), beardless youths. جمع هے امرد کي

مردانگي *f.* manliness, bravery. مرد پن - مردومي

مردان مرد *m.* a brave warrior. بہادر سپاهي

مردد *muraddad*, *a.* reprobated, ruined, perplexed. پھیر دیا گیا

مردد *muraddid*, *m.* one who repels, one who drives to and fro. پھیر دینے والا

مردشت *n.* name of a place. نام ایک مقام کا

مردک *m.* a little man, a manikin, a low fellow, a puppy, a rascal چھوٹا مرد - یہہ حقارت کا کلمہ بطور گالي کے بولتے هیں

مردگان (*pl.* of مردہ), the dead. جمع مردہ کي - مردے - مرے هوئے لوگ

مردم (both *sing.* and *pl.*) *m.* man in general, men, the pupil of the eye. *a.* civil, humane. یہہ لفظ بمعني مفرد اور جمع دونوں کے مستعمل هے - آنکھہ کي پتلي - مردمک

مردم آبي *m.* a merman, a fabled marine creature having the upper part like a man and the lower like a fish. جل مانس یہہ ایک قسم کا دریائي جانور جو بصورت انسان سفید پوست هوتا هے

مردم آزار *m.* a tyrant, an oppressor, persecutor. ظالم شخص - آدمیوں کا تکلیف دینے والا

مردمان (*pl.* of مردم). جمع هے مردم کي

مردم زن *m.* an executioner. جلاد - آدمیوں کا قتل کرنے والا

مرد مک / مرد مک چشم } *f.* the pupil of the eye. آنکھہ کي پتلي

مردم گیا *cont.* from گیاہ grass, green herbage, hence مردم گیا is a kind of grass, the root of which resembles a human head, some say that this grass resembles the whole human body. - مخفف گیاہ - گیا بمعني هوي گہاس کا نام - ایک گہاس کا نام جس کي جڑ انسان کے سر سے مشابہ هوتي هے - اور بعضوں نے لکہا هے کہ یہہ گہاس بشکل تمام جسم آدمي کے هوتي هے

مردمي *f.* manliness, bravery civility, humanity, patience, forbearance, indulgence, remission. مردانگي - مروت - حلم - بردباري - انسانیت - رعایت

مرد میدان (*met.*) a rival, an enemy, brave, valiant کنایہ هے مرد حریف اور مقابل اور دلاور سے

مردن *inf.* to die, to perish, (*met.*) to be unconscious. مرنا - مجازاً بیهوش هونا

مردود *a.* rejected, excluded, reprobated, repulsed, confuted, disgraced, despised. *m* an apostate. روکا گیا - نکالا گیا - بےغیرت - ذلیل

مردہ *murda*, *a* dead, (*met.*) a lover. - مرا ھوا - مجازاً عاشق

مردہ *marda*, *a* valiant, brave, a hero. بہادر شخص

مردہ ریگ *a.* worthless low, sordid, ignoble, mean, contemptible, weak, subdued. کا چیز - کمینہ - فرومایہ - عاجز - ذلیل

مردي *f.* manliness, manhood, virility. مردانگي

مردی *n.* a boatman's oar used to propel a boat. ملاحوں کا بانس جس سے کشتي کھیتے ھیں

مردي *m.* a destroyer. ھلاک کرنے والا

مرز *f.* land, an inhabited tract of land, a ground fit for cultivation, region, district, suburb. زمین - زمین آباد - وہ زمین جو قابل کھیتي کے ھو - سر حد

مرزا (*ori.* میرزا) *m.* a prince. سردار زادہ

مرزبان *m.* a governor of the frontier, a ruler, a landlord, a king, guardian, head, chief, a chief of the fire worshippers. - زمیندار - حاکم - مالک زمین - بادشاہ - سرحد کا نگاہ رکھنے والا - نگہبان - سردار - عالم و بزرگ آتش پرستونکا

مرزبوم *n.* a birth-place. جاے پیدایش

مرزغان *f.* the hell, a cemetery, graveyard. دوزخ - گورستان - قبرستان

مرز نجوش / مرز نگوش } *n.* a kind of sweet odoriferous basil, the curl of a mistress is resembled to this. ایک قسم ھے ریحاں کي جو خوشبودار ھوتي ھے - زلف معشوق کو اس سے مثال دیتے ھیں

مرزہ *m.* a mouse, a rat. موش - چوھا

مرس *maras*, a rope fastened to the neck of a horse or dog, (also) physician, an oculist. وہ رسي جو گھوڑے اور کتے وغیرہ کے گلے میں باندھیں - اور بمعني طبیب اور کحال کے بھي آیا ھے

مرس *mars*, *m.* a physician, act of sucking a finger of a child. مرض علاج کرنے والا - لڑکے کا انگلي چوسنا

مرسل *mursil*, *m.* a messenger, a divine messenger, a prophet, an apostle, of which class the Mohamedans reckon 313, the whole number of prophets (انبیا) are reckoned by the most moderate to amount to 124,000. بھیجنے والا - نامہ بھیجنے والا

مرسل *mursal*, *a.* sent, a divine messenger. بھیجا گیا - نبي صاحب کتاب

مرسلہ *f.* sent, suspended, hanged, a necklace, garland. بھیجي گئي - لٹکائي گئي - ایک زیور جس کو عورتیں گلے میں پہنتي ھیں - ھار

مرسلین (*pl.* of مرسل), messengers, prophets, divine messengers. بہت سے نبي صاحب کتاب

مرسوب dregs, sediment, that what settles at the bottom. تلے میں بیٹھا ھوا - تلچھٹ

مرسوم *a.* accustomed, notified, prescribed, persuaded, a mandate, (sometimes) daily allowance, monthly wages, salary. رسوم کیا گیا - آئین اور قاعدہ کیا گیا - نشان کیا گیا - کبھي اس سے مراد درمیانہ اور روزینہ ھوتا ھے

مرشد *murshid*, *m.* an instructor, a director, guide (to salvation), a teacher, a monitor. ھدایت کرنے والا - راہ نیک اور سیدھي بتلانے والا

مرشد *marshad*, (*pl.* مراشد), the right path, the way of salvation. - مراشد اس کي جمع ھے راہ راست

مرشوش *a.* fallen by drops, sprinkled (as water). ٹپکا ھوا - پاني وغیرہ چھڑکا ھوا

مرصاد *n.* broadway, amplitude, expensive, wide. راہ کشادہ اور فراخ

مرصع / مرصم } *a.* covered with gold, set or studded with jewels, cloth so ornamented, rhyming, verses. جڑا ھوا - جڑاؤ کیا گیا - چیز جس میں جواھر جڑے ھوں - نظم و نثر جس کے الفاظ اپنے مقابل کے ساتھہ ھموزن ھوں

مرضی (*pl.* of مریض), the sick. - جمع مریض کي بیمار لوگ

مرضع the breast, pap, etc. - پستاں - چھاتي جگہہ دودھہ پینے کي

مرضع / مرضعہ } *f.* a wet-nurse. لڑکوں کو دودھہ پلانے والي عورت - دایہ - آنا

مرضي *marzi*, / مرضي *murrazi*, } *a.* agreeable, acceptable, taking favourably. *f.* will, assent. پسندیدہ - مرغوب - پسند کیا ھوا

مرط *m.* a kind of blanket made of goats' hair, (some say) a kind of sheet. بالوں کي کملي - ایک قسم کي چادر

مرطوب *a.* humid, moist, wet, damp, verdant, fat. تر - بھیگا ھوا - وہ چیز جس میں رطوبت ھو - فربہ - موٹا

مرعی *n.* a pasturage, meadow, grazing ground, green grass, grazing. - چراگاہ جانوروں کے چرنے کي جگہہ - ھري گھاس - چرنا

مرعش *mur'ash*, / مرعش *mar'ash*, } *m.* a kind of tumbling pigeon ایک قسم کا کبوتر جو ھوا پر جا کے کلا کرتے جاتے ھیں

مرعوب *a.* terrified, overawed. ڈرایا گیا - خوف کیا گیا

مرعي *a.* paid a regard, favoured. رعایت کیا گیا - لحاظ کیا گیا

مرغ *margh, f.* name of a grass (*agrostis linearis*). ایک قسم کي هري گھاس جیسے دوب کھتے هیں

مرغ *murgh, m.* the sun, a bird, a kind of goblet. آفتاب - هر پرند جانور اُڑنے والا - ایک قسم کي صراحي

مرغ *margh,* act of wallowing or tumbling and rolling in mire or grass of an animal. زمین یا گھاس وغیرہ پر چوپایہ کا لوٹنا

مرغ *maragh,* spittle, saliva آب دهن - تھوک

مرغابي *f.* a waterfowl. مشهور پرند جو دریا میں تیرتا رهتا هے

مرغ آتش خوار *m.* a salamander, a small harmless amphibian It lives on slugs, insects, worms, etc., does not appear to shun the presence of man or other animals, is oviparous, and exudes a mucous and acrid secretion in great abundance. Among the most absurdly ignorant of all popular superstitions, was that which ascribed to this poor reptile the power of subsisting in the fire, and how the idea could have ever originated appears truly wonderful, when all the haunts and habits of the animal are connected with cold and moisture, (according to some) the Bartavelle or Greek partridge (Tetrao rufus, Lin., perdix rufa, Lath.) said to be enamoured of the moon, and to eat fire at the full moon. سمندر - اور سمندر ایک جانور هوتا هے بشکل بڑے چوهے کے جو آتشکدوں میں پیدا هوتا هے - بعض کہتے هیں کہ مرغ آتش خوار کبک کو کھتے هیں جس کو هندي میں چکور کھتے هیں

مرغان أولي اجنحه (*met.*) the angels. کنایۂ فرشتوں سے

مرغبات *f.* agreeable things, acceptable things. چیزیں مرغوب و پسندیدہ

مرغ بیضۂ فولاد *n.* a small form of best tempered steel which the warriors set on the helmets. ایک تصویر مرغ کي فولاد سے بنا کے نصب کرتے هیں

مرغ حق گو } *n.* an owl. ایک پرند جو راتوں کو
مرغ زیرک } اپنے دونوں پیروں سے درخت میں اُلٹا لٹک کر آواز بلند سے حق حق کہا کرتا هے

مرغزار *m.* a meadow, a place abounding in verdure or in pasture. سبزہ زار - وہ جگھہ جہاں دوب (مرغ) نرم اور نازک هوتي هے بهت اُگي هوئي

مرغ زیرک *n.* an owl, a parrot, (some say) Satan, devil, (and according to some) the two angels Harut and Marut. ایک پرند مشهور هے جو درخت میں اُلٹا لٹک کر راتوںکو بلند آواز سے حق حق کہا کرتا هے - طوطي - بعضوں نے ابلیس سے مراد لي هے - اور بعضوں نے هاروت و ماروت سے

مرغ زرین *m.* a pheasant. ایک پرند هے مشابہ تیتر کے اور کسیقدر مور سے بھي مشابہت رکھتا هے بال و پر اُس کے سبزي مائل اور مثل سونے کے چمکتے هوئے اور سر پر کلغي بھي رکھتا هے - قد میں برابر مرغي کے

مرغ سلیمان *m.* Hoopœ (*Upupa*). A genus of birds bearing a close relationship to certain form of the *Corvidœ* or crow family. The bill is used in the same manner, and for the same purposes, as in the Hornbills namely for seizing insects, etc., squeezing them to death, and throwing them with a jerk into the throat. The tongue is short, and destitute of the power of extension. هد هد مشهور پرند هے

مرغ سحر *m.* a nightingale, a cock. بلبل - مرغ

مرغ شب آهنگ } *m.* the nightingale (for
مرغ شب خوان } in spring she generally sings at night). بلبل اس لئے کہ ایام بہار میں یہہ پرند اکثر بوقت شب کو بولا کرتا هے

مرغ صبح *m.* the nightingale, a cock. - بلبل مرغا

مرغ عیسیٰ } *m.* a bat, flying mammal like
مرغ مسیحا } a mouse, a flying-fox. چمگادڑ

مرغ مجنون *m.* the bird who had built his nest in Majnun's (the lover of Laila) head. وہ پرند جس نے مجنون عاشق لیلیٰ کے سر کے بالوں میں جھونجھہ لگایا تھا

مرغ نامہ بر *m.* a pigeon, hoopœ. کبوتر - هد هد

مرغوب *a.* desirable, amiable, acceptable, agreeable, lovely, beautiful, estimable. رغبت کیا گیا - خواهش کیا گیا - پسندیدہ - معقول

مرغول } *m.* locks, twisted or plaited, curled
مرغولہ } locks, notes of singing birds, quavering (in singing). پیچ و تاب - مڑے هوئے بالوں کا گھونگھر - خوش آواز - پرندوں کي آواز - گرتڑوں کي ایک آواز - ٹنکري (هندي)

مرفد *m.* a large cup. بڑا پیالہ - کاسہ

مرفق *mirfaq, m.* the elbow, a cubit. کھني

مرفوع *a.* exalted, lifted up, raised aloft, marked with the vowel *pesh* or short *u.* بلند کیا گیا - اُٹھایا گیا - حرکت پیش کي دیا گیا

مرفعه *marfa*, a kind of drum (beaten at both ends). ایک قسم کا ڈھول جسے دونوں طرف سے بجاتے ھیں

مرفه *muraffa*, *a*. quiet, tranquil, contented, happy, prosperous, comforted. - آسودہ خوش معاش

مرفه الحال *m*. in easy circumstances, prosperous. آسودہ حال

مرق *maraq*, *m*. broth, soup. شوربا

مرقات مرقاة } *n*. a ladder, stairs, steps. - زینه سیڑھي

مرقد *marqad*, *f*. a bed room, a grave, a sepulchre, tomb. خوابگاہ ۔ مجازاً قبر

مرقع *m*. a scrap book, a beggar's quilt made of rags and patches. *a*. clothed in rags, patched, mended. تصویروں کي کتاب - فقیروں کي گدڑي

مرقوم *a*. written, described, inscribed, above-mentioned. لکھا ھوا

مرکب *markab*, *m*. a horse, ship, camel or any thing in or on which a person is carried (esp. a horse). وہ چیز جس پر سوار ھوں خواہ چوپایه خواہ کشتي - مگر خاص کر گھوڑے کے لئے مستعمل ھے

مرکب *murakkab*, *n*. writing ink, *a*. compounded, composed, combined, mixed. لکھنے کي سیاھي - وہ چیز جو کسي چیز سے ملکر بني ھو ۔ ترکیب دیا گیا

مرکز *m*. a centre, the centre of a circle, a halting-place, an upper part of the letter, as the مرکز of ک the upper or bent part of the letter. درمیان چیز کا کسي چیز کے قائم کرنے کي جگهه - نقطه بیچوں بیچ دائرے کا جس سے جتنے خطوط محیط تک نکالیں سب برابر ھوں

مرکز چرخ مرکز خاک } *m*. the earth, the centre of the sphere. زمین ۔ وسط کرہ زمین کا

مرکز مثلث the earth. زمین

مرکن *n*. a large basin or ewer, a platter, trough, pail. لگن - طشت - تغار

مرکوب *a*. ridden. سواري کیا گیا

مرکوز *a*. fixed ; (*met.*) acceptance. - گڑا ھوا مجازاً منظور

مرگ *f*. death. موت

مرگ نو *f*. a fresh disturbance, (according to some) love. فتنه - تازہ - مجازاً عشق

مرگي *f*. plague, pestilence, pest. وبا

مرمد *m*. one who has got eyesores, one suffering from ophthalmia. وہ جس کي آنکھیں دکھتي ھیں

مرمر *m*. marble. نام ایک قسم کے پتھر کا جو سفید اور نرم ھوتا ھے

مروا *murva*, *m*. good omen. فال نیک

مروارید *m*. a pearl. موتي

مروت *f*. manliness, virility, fortitude, affection, humanity, generosity. مردانگي - مردي

مروج *a*. selling (merchandise), current, saleable, usual. رواج دینے والا

مروح *murawwih*, *a* giving comfort, ease and happiness, perfuming. راحت اور آسایش اور خوشي دینے والا - خوشبو دار کرنے والا

مروح *murawwah*, *a*. given comfort and ease. راحت اور آرام دیا گیا

مروح *marwah*, *a*. happy, glad. شادمان - خوش

مروحه *m*. a fan, a ventilator. بادکش - پنکھا

مرور *murur*, *m*. passing, elapsing, a passage, pass, transition, avenue. گذرنا - چلا جانا

مروس *a*. obedient, a servant, the subject (of a king). تابعدار - خادم اور کنایه رعیت سے

مروض *a*. subjugated. تابعدار کیا گیا

مروع *a*. terrified, freghtened. ڈرایا گیا

مروق *murawwaq*, *a*. thoroughly refined. بالکل صاف کیا گیا

مروق *murawwiq*, *m*. a mason, a bricklayer, an architect, one who stretches the ceiling in the inner roof of a building. ٹھوڑي اور معمار - اور وہ شخص جو چھت گیري باندھے

مروق *mirwaq*, *a*. astonishing, surprising, making one happy. تعجب میں ڈالنا - کسي کو خوش حال کرنا

مروہ *m*. a mountain near Mecca. نام پہاڑ کا مکه معظمه میں

مروي *a*. narrated, told, related, alleged. روایت کیا گیا

مرہ *mirra*, *m*. bile, a yellow bitter liquid secreted in the liver, strength, power, wisdom, intelligence. نام ایک خلط زرد رنگ اور تلخ مزہ کا - صفرا - اور بمعني قوت - توانائي - عقل

مرہ *marra*, *adv*. one time or turn, once. - یکبار ایک مرتبه

مرھوب *a*. frightening, terrifying ڈرانا

مرھون *a*. pawned, pledged, mortgaged. رھن کیا گیا

مري *f*. water of rice boiled. کانجي - آبکرمه

مرے *f*. fight, battle, endeavour, equalling one in rank. لڑائي - جنگ کوشش کرنا - کسي کے ساتھه اُس کے مرتبه میں برابري کرنا

مریج *a*. mixed, mingled. آمیخته - ملا جلا

مریح *a*. exceedingly happy. انتہا سے زیادہ خوش

مریخ *m.* Mars, called also. جلاد فلک Tuesday. نام ایک ستارہ کا - منگل

مریخ زحل خوار *m.* a chafing dish, a hearth, a fire place. کنایۃ ھے آتشدان اور انگیٹھي سے

مرید *marid, a.* rebellious, obstinate, perverse, stubborn. سرکش - نافرمان - خدا کے حکم سے باھر جانے والا

مرید *murid, a.* desirous, intending, willing, *m.* a scholar, a follower, a pupil. ارادہ کرنے والا - اور کنایۃ دیني شاگرد سے

مریر *m.* a brave and strong man, a very long strong and thickly intertwisted rope. مرد توانا اور بہادر - وہ رسي جو لمبي اور مضبوط اور توي اینٹھن کي ھو

مربع *f.* an inhabited land, a meadow. - زمین آباد - چراگاہ کشادہ

مرئي *a.* visible, perceptible, seen. - دیکھا گیا وہ شے جو دیکھائي دے

مرئیات *f.* things perceivable by the eye. وہ چیزیں جو نظر سے دکھائي دیتي ھیں

مز *mazz*, sucking. چوسنا

مز *muzz, m.* a mixed taste of sour and sweet. مزہ ترش و شیرین ملا ھوا - کھٹ متّھا

مز *mizz, f.* amplitude, abundance. - افزوني زیادتي

مزابلہ (*pl.* of مزبلہ), places where filth is thrown, dunghills. جمع مزبلہ کي - نجاست اور گوبر وغیرہ ڈالنے کي جگہیں

مزاح *mizah,* } *m.* jesting (with another
مزاحمت *mizahmat,* } person). - خوش طبعي کرنا آپس میں دل لگي کرنا - ھنسي - خوش طبعي - دل لگي

مزاح *muzah, m.* a jest, a joke. خوش طبعي کرنا

مزاح *mazzah, m* a jester, joker. بڑا خوش طبعي کرنے والا

مزاحم *a.* forbidding, hindering, *m.* an obstacle, a preventive, a preventer, *a.* inconvenient. کسي پر تنگي کرنے والا - کسي کو رنج پہونچانے والا - روکنے والا - انبوھي کرنے والا

مزاحمت *f.* prevention, hinderance, impediment. کسي پر تنگي کرنا

مزاد } *mazad, m.* a haversack. - توشہ دان
مزادہ } وہ تھیلا جس میں زاد راہ رکھیں

مزاد *muzad, a.* increased, multiplied. زیادہ کیا گیا

مزاد کردن متاع to raise the rate of a sale. اسباب کے فروخت کا نرخ بڑھا دینا

مزار *m* and *f.* a place of visitation, hence a sepulchre, tomb, grave, shrine جگہہ زیارت کرنے کي - مگر اطلاق اس لفظ کا اکثر قبر پر ھوتا ھے

مزارع *muzari', m.* a farmer, husbandman کسان - کھیتي کرنے والا

مزارع *mazzari',* (*pl.* of مزرع), sown fields, etc. جمع مزرع کي - جگہیں بونے اور کھیتي کرنے کي

مزال *f.* a slip, a stumble, an error. - لغزش جاے لغزش

مزائف *f.* assemblies, places of meeting, parties. جگہیں انبوہ کي - جمع ھونے کي جگہیں

مزلق *n.* places of slipping down. جگہیں پھسلنے کي ۔

مزامیر (*pl.* of مزمار), flutes, pipes, (*met.*) musical instruments. جمع مزمار کي - بمعني بانسري کي - مجازاً ساز گریوں سے

مزامیر داؤد verses of the psalms etc. زبور کي آیتیں

مزاولت *f.* remedying, curing, seizing or watching for (pray), entering into or managing, affairs, endeavouring. کوشش کرنا کسي چیز پر

مزایا (*pl* of مزیت), excesses, virtues, excellencies, merits, (*met.*) gifts, presents. جمع مزیت کي - افزونیاں - زیادتیاں - فضیلتیں - مجازاً بمعني بخششوں اور انعاموں کے مستعمل ھے

مزبر *m.* a pen, an instrument for writing with ink. لکھنے کا قلم

مزبلہ *m.* a privy, a necessary, a dunghill, any place where filth is thrown. کوڑہ اور گوبر اور نجاست وغیرہ ڈالنے کي جگہہ

مزبور *a.* written, above-mentioned, before-mentioned. لکھا ھوا

مزجات a trifle, a matter of little value. اندک - تھوڑا - حقیر - بے اعتبار

مزخرف *a.* ornamented, varnished, plated, deceitful, false representatian. ملمع کي ھوئي شے - جھوٹي بات جو مانند سچي بات کے آراستہ کي ھوئي ھو

مزخرفات (*pl.* of مزخرف), idle tales, lying vanities. جمع مزخرف کي

مزد *muzd, m.* wages, salary, premium, reward, (worldly or spritual). مزدوري - اجرت خواہ دنیا کي خواہ دین کي

مزدحم *muzdaham, a.* crowded, gathered, assembled. ازدحام کیا - انبوہ کیا گیا

مزدحم *muzdahim, a.* crowding, gathering, assembling. ازدحام کرنے والا - انبوہ کرنے والا

مزدلفه *m.* Lit. a place of meeting, name of a place in Mecca where Adam and Eve met after the Fall. نام ایک مقام کا جو مکه معظمه میں هے

مزدوج } *m.* fellow-companion, mate;
مزدوجه } closely united. هم قرین - هم صحبت - باهم ملا هوا

مزرد *muzarrad, m.* a man clad in iron armour. زره پوش

مزرع } *m.* a field sown or prepared for sow-
مزرعه } ing, a corn-field. کهیت

مزروع *a.* sown, cultivated. بوئي هوئي چيز

مزعفر *m.* saffron-coloured, rich orange coloured, deep-yellow coloured, a kind of dish, a sweet saffroned *pulao*. زعفراني - زرد رنگ - ایک قسم میٹهے پلاؤ کي جس کے چاولوں کو زعفران میں رنگتے هیں

مزکي *muzakka*, purified, cleaned, justified, the property the portion of which has been given in charity. پاک کیا گیا - صاف کیا گیا - وه مال جس کي زکوة ادا کردي گئي هو

مزکي *muzakki, m.* purifier, purgator, one who has given a portion of his property in charity. پاک کرنے والا - اپنے مال کي زکوة دینے والا

مزکت *n.* a mosque, Muhammadan place of worship. مسجد - نماز پڑهنے کي جگهه

مزکوم *m.* a man who has caught a cold. وه شخص جس کو زکام هو

مزلت *mazillat, f.* slipping, stumbling, erring. پهسلنا - لغزش کرنا

مزلت *mazallat. f.* the place where one slips. پهسلنے کي جگهین

مزلف *muzallaf, f.* a mistress who has curling locks (of hair). معشوق صاحب زلف

مزلفه *muzallifa a.* brought near, gathered, crowded, assembled. نزدیک لایا گیا - مزاحم اور اکٹها کیا گیا - انبوه کیا گیا

مزمار *n.* a pipe, a flute, (fig.) any musical instrument. بجانے کي بانسري - اصطلاحاً کوئیں کا هر باجه

مزمن *a.* old, lame, paralytic crippled. - کهنه پرانا - لنگڑا - شل - اپاهج

مزن *m.* cloud, white cloud the vernal cloud ابر - ابر سفید - ابر نیسان

مزواج *f.* a woman marrying many men. عورت جو بهت شوهر کرے

مزور *muzawwar, n.* a light diet for an invalid. وه غذا نرم و هلکي جو بیماروں کو دیں

مزور *muzawwir, m.* a liar a knave, a cheat. جهوٹا - مکار - فریبیا

مزي (*cont* from مزیت), excellence, excess. مخفف مزیت بمعني زیادتي کا

مزیب *muzaiyab, a.* ornamented, adorned, decorated, beautified. زیب و زینت دیا گیا

مزیت *f.* excess, abundance, perfection, excellence. (*pl.* of مزایا). - جمع مزایا هے - افزوني زیادتي - فضیلت

مزید *m.* increase, augmentation, advantage increased, augmented. مصدر میمي هے بمعني زیادتي و افزوني - اور اسم مفعول بهي هے بمعني زیاده کیا گیا

مزیدن *inf.* to suck. چوسنا

مزیر *a.* intrepid, bold, hard, hard-hearted, stout-hearted. سخت - سخت دل

مزیل *a.* effacing, erasing. کسي چیز کے نشانوں کا دور کرنے والا - مٹانے والا

مزین *muzaiyan, a.* adorned, decorated. زینت دیا گیا - آراسته

مزین *muzaiyin, m.* adorning, decorating, ornamenting. آراسته کرنے والا

مزوک *n.* name of a person who existed in the time of the King Nausherwan, he was very eloquent and wise and founded a new religion in which he introduced many unlawful doctrines. When King Nausherwan took the reins of government in his hand, he slew Mazhok with all his followers. ایک شخص کا نام جو نوشیروان بادشاه کے وقت میں تها - یهه شخص بڑا فصیح و بلیغ و عقلمند تها - اس نے ایک نیا مذهب اختراع کیا تها جس میں اس نے بهت سي ناجائز باتیں لکهیں - جب نوشیروان بادشاه هوا تب اوس نے اوس کو مع تمام رفیقوں کے قتل کیا

مژدگانی *f.* anything in the shape of money, etc., presented to the bearer of a glad tidings. وه نقد یا جنس جو خوشخبري پهونچانے والے کو دیں

مژده *m.* joyful tidings. خبر خوش - بشارت

مژگان (*pl.* of مژه) the eye lashes. جمع مژه کي آنکهونکي پلکیں

مژه *f.* the eyelash. انکهه کي پلک

مس *mass, m.* touch, rubbing (with the hand), copulating, rubbing by friction. چهونا - هاتهه سے ملنا - جماع کرنا - گهسنا

مس *m.* copper. تانبا

مسام / evening. شام - وقت شام

مساجد (*pl.* of مسجد), mosques. جمع مسجد كي

مساح *massah*, *m.* a measurer, a geometrician, a surveyor. زمين كا بڑا پيمانه كرنے والا

مساحت *f.* measurement, geometry, land surveying. زمين كا پيمايش كرنا - پيمايش

مسارعت *f.* hastening together. باهم شتابي كرنا

مسارقت *f.* act of stealing together. باهم چوري كرنا

مسارقه *m.* mutual contact, *coitus*, rubbing (with the hand) هاتهه سے ملنا - جماع كرنا

مساعد *a.* assisting, aiding, a helper. ياري دينے والا - مددگار

مساعدت *f.* help, assistance. ياري كرنا - مدد كرنا

مساعي *f.* endeavours, attempts, activities. كوششيں - جلديان

مسام *f.* a place of departure. جگهه رواں هونيكي

مسافات (*pl.* of مسافت), distances, spaces, etc. جمع مسافت كي - دوريان بيابانوں كي

مسافه *f.* distance, space, interval. دوري بيابان كي - فاصله منزلوں كا

مساكن (*pl.* of مسكن), habitations, mansions. جمع مسكن كي - مكانات

مساكين (*pl.* of مسكين), the poor. جمع مسكين كي - غريب محتاج لوگ

مسال *masall*, (*pl.* of مسله), big iron needles for sewing gunny cloth, canvas, etc. جمع مسله كي - لوهے كے بڑے سوے ٹاٹ وغيره سينے كے

مسالك (*pl.* of مسلك), ways, paths. جمع مسلك كي - راستے - راهيں

مسائله *f.* asking, requesting, questioning. پوچهنا سوال كرنا - درخواست كرنا

مسالمت *f.* mutual peace and reconciliation, peace, friendship. - باهم صلح اور آشتي كرنا صلح - دوستي

مسام *musamm*, (*pl.* of مسم), pores (of the skin), minute openings in the skin, through which the perspirable matter passes. جمع مسم كي - بهت باريك اور چهوٹے سوراخ جو تمام جلد انسان وغيره ميں هر رونگٹے اور بال كے نيچے هوتے هيں جن سے پسينه نكلتا هے

مسامات *Pers. pl.* pores of the skin. بدن كے سوراخ بهت چهوٹے چهوٹے

مسامح *m.* peaceful, helpful. - صلح كرنے والا كسي كام ميں كسي كے ساتهه آساني كرنے والا

مسامحت *f.* and *m.* overlooking, pardoning, treating any one gently, bravery, valour, softness, mildness, making peace, negligence. چشم پوشي كرنا - جوانمردي كرنا - نرمي كرنا - صلح كرنا - كسي كام كي طرف اسے سهل اور آسان جانكر توجه نكرنا

مسامرت *f.* telling a story, narrating. قصه كهنا كهاني كهنا

مسامع (*pl.* of مسامع) the ears. جمع مسمع كي هے جس كے معني گوش يعنے كان كے هيں

مساوات *f* equality, evenness, plainness. برابري كرنا - برابري

مساوي *musawi*, *a.* equal, parallel equivalent, neutral, impartial, suitable, convenient. برابر

مساوي *masawi*, (*pl.* of مسيئه), evils, sins. جمع سيئه كي جو بمعني بدي اور گناه كے هے

مساهره *n.* vigilance, wakefulness, act of keeping a watch with some one. - بيداري كسي كے ساتهه جاگنا

مساهم *m.* a partner. شريك - حصه دار

مساهمت *f.* partnership, association. - بهوت ساجها

مسايرت *f.* equality, evenness, plainness. برابري كرنا

مسائل (*pl.* of مسئله), questions, the precepts of Mohammad, demands, propositions. جمع هے مسئله كي - وه باتيں جو پوچهي جائيں

مسبح *mussabih*, *m.* one who says prayers, one who fears God and never ceases to pray to him. تسبيح كرنے والا - خدا كو پاكي سے ياد كرنے والا

مسبحان ملا اعلي *m.* a superior party of the holy ones who pray to God constantly, *i. e.*, the angels. كنايه فرشتوں سے

مسبع *musabba'*, *a.* heptagonal, divided into seven parts composed of or relating to the number seven, a verse of seven lines. وه چيز جس كے سات پهلو هوں - سات حصے كيا گيا - ايك قسم شعر كي جس كا هر بند سات مصرعه ركهتا هے

مسبوق *a.* past, elapsed. گذشته - گذرا هوا

مست *must*, *m.* grief, calamity, sorrow, poverty. غم - اندوه - رنج - حاجت

مستاجر *m.* a contractor, a tenant, one who rents a house, a farmer. اجاره - ٹهيكه دار ليئے والا

مستاصل *mustasil*, uprooting, extirpating, ruining. جڑ سے اُكهيڑنے والا - برباد كرنے والا

مستاصل *mustasal*, *a.* extirpated, ruined, wrecked, uprooted. برباد - تباه - جڑ سے اُكهاڑا گيا

مستانه *a.* intoxicated, like a man intoxicated. مست يعني متوالے كے موافق

مستانس *a.* loving, affectionate, peaceful. الفت قبول کرنے والا - محبت دا

مستانف *m.* a beginner, standing aside, obedient, slow, (*met.*) separate. - شروع کرنے والا ایک طرف کھڑا ہونے والا - تابعدار - آھستہ - مجازاً بمعني جدا اور علیحدہ کے

مستاهل *a.* able, worthy of, deserving. - سزاوار لایق

مستبد *a.* acting alone, solitary. وہ شخص جو کام کرنے پر اکیلا مستعد ہو

مستبدل *mustabadil, p. a.* changing, transferring. بدل کرنے والا

مستبدل *mustabadal, a.* changed, transferred. بدل کیا گیا

مستبشر *a.* becoming happy, seeking a joyful news. خوش ہونے والا - خوشي طلب کرنے والا

مستبین *a.* evident, apparent, manifest, clear, obvious. روشن - ظاهر - واضح - آشکارا

مستبتع *m.* a follower. پیروي کرنے والا

مستتر *a.* veiled, concealed, hidden. - پوشیدہ پنهاں - پردہ میں ہونے والا

مستتم *a.* seeking an end, end, conclusion, تمامي کا مطلب کرنے والا - اور بمعني تمام کے بهي هے

مستثنیٰ *a.* selected, excepted from any common rule, separated, praised, laudable, excellent, extraordina ry. - باهم لایا گیا - خاص کیا گیا جدا کیا گیا - الگ کیا گیا

مستجاب *a.* answered, heard, (*met.*) accepted. - جواب دیا گیا - مجازاً بمعني قبول کیا گیا مانا گیا

مستجار *m.* one who may be asked for a shelter. وہ شخص جس سے کوئي پناہ طلب کرے

مستجمع *a.* gathering together. جمع کرنے والا

مستجیب *n.* one who accepts a prayer. دعا قبول کرنے والا

مستجیر *a.* refugee, seeking shelter, (it also means) one who gives a shelter. پناہ ڈھونڈھنے والا - امان چاهنے والا - اور بمعني پناہ اور امان دینے والے کے بهي آیا هے

مستحب *a.* loving, affectionate. دوست رکها گیا

مستحث *mu stahis, a.* litting, raising. اُٹھانے والا

مستحث *mustahas, a.* lifted, raised. اُٹھایا گیا

مستحدث *must ahadis,* creator of a new thing, inventor. نئي چیز پیدا کرنے والا

مستحسن *a* virtuous, approved laudable, beautiful. نیک معلوم کیا گیا - پسند کیا گیا

مستحق *a.* worthy, deserving, having a right to. حقدار - وہ شخص جو اُس بات کا حق رکھتا هو

مستحکم *a.* firm, fast, strong, established. مضبوط - استوار

مستحکم *m.* a tyrant, an oppressor, cruel. ظلم و ستم کرنے والا

مستحیل *a.* difficult, impossible, absurd, changed, transmuted, artful, cunning. *n.* a cheat, an excuser. محال - ناممکن - ایک حال سے دوسرے حال پر پهرنے والا - حیلہ کرنے والا - بهانہ کرنے والا

مستخبر *a.* seeking news (from all quarters). خبر ڈهونڈهنے والا

مستخدم *mustakhadam, a.* one seeking a service. خدمت چاهنے والا

مستخدم *mustakhadim, m.* of whom a service is requested. وہ جس سے خدمت چاهیں

مستخرج *mustakhrij, a.* extracting, drawing out. باهر لانے والا

مستخرج *mustakharaj, a.* extracted, drawn out. باهر لایا گیا - باهر نکالا هوا

مستخلص *a.* free, liberated, released. - چهوڑا گیا اور خلاص کیا گیا

مستخیف *a.* fearful, timid, pussillanimous afraid. ڈرنے والا - خوفناک

مستدام *adv* always, perpetual, immemorial, assiduous, constant in anything. همیشہ اور همیشگي چاهنے والا

مستدع *a.* wondered, surprised at, was thought wonderful. عجیب و غریب جانا گیا

مستدعي *n.* desirous of, petitioner suitor, claimant. خواهشمند - کسي بات کا درخواست کرنے والا

مستدل *p. a* requiring proofs or arguments. دلیل مانگنے والا

مستدیر *a.* round, spherical. هر شے گول

مستذل *mustazall, a.* disgraced, despised, comtemned. خوار و ذلیل رکها گیا

مستر *mus attar, a.* hidden concealed. پوشیدہ

مسترد *mustarad, a.* returned, restored. واپس دیا گیا

مستراح *n.* a place of comfort and ease, luxurious place, (*met.*) a latrine, privy. جاے آرام و آسایش - فراغت و راحت کي جگهہ مجازاً پاخانہ پهرنے کي جگهہ - جاضرور

مست راح *m.* a drunkard. متوالا - مست شراب

مسترخي *a.* lazy, loose, hanging loose. - سست ڈهیلا - نیچے لٹکا هوا

مسترشد *m.* a disciple, a scholar, a follower, seeking a right path. مرید - سیدهي راہ کا خواهاں - طلب هدایت کرنے والا

مسترضی *mustarza*, a. willing, consenting, acquiescing. راضي - رضامند

مسترضي *mustarzi*, m. one who seeks the gratification of another, seeking the pleasure of another. رضا جو - خوشنودي چاهنے والا

مسترق *mustaraq*, m. the stolen goods. وہ مال جو چوري هو جائے

مسترق *mustaraq*, a. taken into slavery. غلامي میں لیا هوا

مستروح a. happy, prosperous, smelling (a perfume). آسودہ کرنے والا - خوشبو سونگھنے والا

مستزاد a. increased. m the name of a kind of verse in which every line has a shorter one annexed to it. زیادہ کیا گیا - ایک قسم شعر کي جس کے هر مصرعہ کے آخر میں ایک کلمہ وزن سے زیادہ لاتے هیں

مسترشد a. seeking virtue and truth, seeking help. نیک بختي اور سعادت ڈھونڈھنے والا - یاري اور مدد چاهنے والا

مستسقي m. affected with dropsy, one who is craving drink. - پینے کے واسطے پاني مانگنے والا اور چونکہ مرض استسقا کي بعض قسم میں پیاس شدت سے هوتي هے اس لئے مریض کو مستسقي کہتے هیں

مستشار m. the one consulted. وہ جس سے صلاح و مشورہ کریں

مستشاق a. resplendent, splendid, glittering bright. تاباں - روشن

مستشم m. one who smells. سونگھنے والا

مستشهد p. a. requiring evidence, seeking witness. گواهي طلب کرنے والا

مستشير n. a consulter. مشورہ کرنے والا

مستصحب a. keeping company. m. a companion, associate. صحبت رکھنے والا

مستطاب a. good, agreeable, savoury, tasteful, pure, excellent. - خوش - با مزہ - پاک لذیذ

مستطاع a. obedient. تابعدار - فرماں بردار

مستطيل *mustatil*, m. a long thing, a parallelogram. لمبي چیز - اور اصلاح هندسہ میں وہ جسم جس کا طول زیادہ اور عرض کم هو

مستظهر m. one who cries for help, assisting, backing, supporting. یاري چاهنے والا - مدد مانگنے والا - قوي پشت هونے والا

مستعار a. anything borrowed. عاریت لیا هوا

مستعاد a charged an interest and profit. سود اور نفع لیا گیا

مستعان n. one who is applied to for aid, asked for an assistance. وہ شخص جس سے مدد طلب کریں - مدد طلب کیا گیا

مستعجل n. a runner, one who hastens. دوڑنے والا - شتابي اور جلدي کرنے والا

مستعد a. prepared, ready, capable, able, fit proper, worthy. مهیا - موجود - تیار

مستعذب a. sweet, sweetened. شیریں - میٹھا کیا گیا

مستعمل a. used, accustomed. عمل میں لایا هوا - کام میں لایا گیا

مستعير a. desiring indulgence, seeking a favour. رعایت چاهنے والا

مستعين a. one who applies for help, seeking assistance. اعانت چاهنے والا - مدد مانگنیوالا

مستغاث one who is applied to for aid and redress. وہ شخص جس سے داد رسي اور انصاف چاهیں

مستغاثي m. one who sues for justice, a complainant, a plaintiff. - فریادي - داد خواہ انصاف چاهنے والا

مستغرق *mustaghraq*, a. drowned, immersed, (literally or metaphorically). غرق ' هوا

مستغرق *mustaghriq*, a. drowning, using strenuous effort in doing a thing, perfect. غرق هونے والا - تمام طاقت سے کوئي کام کرنے والا - کامل کرنے والا

مستغفر n. one who asks pardon, penitent, one who repents of sin, contrite. گناهوں کي طلب - بخشش کرنے والا

مستغني a. rich, independent, satisfied, contented, purse-proud. بے پرواہ - دولتمند

مستغيث n. one who sues for justice complainant, plaintiff. فریادي - داد خواہ

مستفاد a. benefitted, acquired, received, gain, profit, benefit. فائدہ لیا هوا - وہ چیز جو بطور فائدہ کے حاصل هوئي هو یعني حاصل - فائدہ

مستفيد a. gaining, seeking a profit, acquiring, edified, benefitted. طلب فائدہ کي کرنیوالا

مستفيض a. seeking favour or obligation, diffuses, divulged. طلب فیض کي کرنے والا

مستقبح a. hateful, detestable, wicked, evil. زشت - بد - برا

مستقبل *mustaqbil*, m. future, the future tense (in grammar.) - آنے والا زمانہ - زمانہ آئیندہ جو مقابل زمانہ ماضي اور حال کے هے

مستقبل *mustaqbal*, this front view of a figure, the photo of which both the cheeks could be seen. مصوروں کي اصطلاح میں تصویر دو چشمي جس کے دونوں رخسارے ظاهر هوں

مستقر *mustaqirr*. *a*. remaining firm, constant, firm, stable. قرار پکڑنا - مضبوط - برقرار

مستقر *mustaqarr*, *a*. fixed, firmly settled, a fixed abode. جائے قرار - ٹھہرنے کي جگہہ

مستقصي *a*. taking a thing to extremes. کسي چیز کي انتہا کو پہونچنے والا

مستقل *a*. stable, firm, durable, absolute, independent despotic, (*Pers.*) a married woman, the shops on the first story the rents of which give a large profit to the owner. مضبوط - صاحب استقلال - مستحکم - کسي کام پر تنہا قائم ہونے والا - تیوڑا شمار کرنے والا - فارسیوں کي اصطلاح میں بمعني زن منکوحہ کے بھي آتا ھے اور اُن دوکانوں کے بھي جو مکان کے نیچے ھوں اور اُن کے کرایہ سے مالک مکان کو فائدہ پہونچے

مستقیم *a*. right, straight, standing erect, faithful, loyal, resolute. وہ چیز جو سیدھي کھڑي ھو - راست - سیدھا جو مقابل میں کج کے ھو

مستکبر *a*. obstinate, perverse, proud. گردن کش - مغرور - متکبر

مستکرم one who asks favour or forgiveness. طالب بخشش کي کرنے والا

مستکفي *a*. frugal, economist, name of a caliph of Baghdad. ھر کام میں کفایت کا چاھنے والا - نام خلیفہ بغداد کا

مست گرارہ *a*. dead drunk, extremely voluptuous. وہ مست اور متوالا جس کي مستي حد سے گذر گئي ھو

مستلذ *a*. enjoying, feeling a taste. لذت پانے والا - اور مزہ پانے والا

مستلذات *f*. agreeable things, pleasant things. مرغوب اور لذت دار چیزیں

مستلقي *n*. one who lies on his back. پیٹھہ کے بل یعني چت بستر پر لیٹنے والا

مستمال *a*. persuaded, conciliated, attended towards, soothed. مائل - رجوع کیا گیا - تسلي اور دلاسا دیا گیا

مستمد *a*. asking assistance. مدد مانگنا

مستمر / مستمرہ } *a* firm, constant, durable, persevering, continually. استوار رواں - دائم - پیوستہ - ھمیشہ - دائمي

مستمسک *a*. tearing with the claws. چنگل مارنے والا

مستمع *mustami'*, *a*. listener, a hearer. سننے والا

مستملح *a*. brackish, salted. نمکین

مستمند *a*. afflicted, sorrowful, (*met.*) poor, wretched, needy. اندوھگین - غمگین - مجازاً - معنی حاجت مند

مستند *mustanid*, *n*. one who leans on and supports himself (by anything), one who seeks a shelter. کسي چیز سے پیٹھہ لگا کر ٹھہنے والا - پناہ ڈھونڈھنے والا

مستند *mustanad*, *a*. supported (by anything), one of whom a shelter is sought. وہ چیز جس سے پیٹھہ لگا کر بیٹھیں - وہ شخص جس کي طرف پناہ لے جائیں

مستنکر *a*. bad, depraved, detestable. - بد زشت - برا

مستنیر *a*. seeking light, bright. طالب روشني کي کرنے والا - نور ڈھونڈھنے والا اور بمعني مطلق روشن کے بھي آتا ھے

مستوثق *a*. strong, firm. مضبوط - مضبوطي پکڑنے والا

مستوجب *a*. worthy, fitting, deserving, meriting. *m*. an author, cause. سزا وار - لائق

مستودع *n*. a place of deposit, charge, deposit, anything given in charge. امانت کي جگہہ - امانت

مستودعات *pl*. deposits, etc. امانتیں

مستور *a*. covered, concealed, veiled concealing. چھپا ھوا - چھپانے والا

مستورت *f*. women (of the حرم). عورتیں

مستورہ *f*. a hidden thing, veiled, concealed. چھپي ھوئي چیز

مستوسع *a*. extensive, wide. فراخ - کشادہ

مستوفا / مستوفی } *m*. paid or received in full (a debt). پورا کیا گیا - اور تمام کیا ھوا

مستوفي *a*. paying or receiving in full (a debt), *m*. a head clerk, an auditor. پورا اور تمام لینے والا - سبکو گھیرنے والا - میر منشي جو حساب کرنے والوں سے حساب لے

مستوقد *a*. inflaming, kindling, exciting or increasing. آگ بھڑکانے والا

مستولي *a*. overcoming, subduing, taking possession of, surmounting. غالب - زور آور - کسي پر غلبہ پانے والا - غلبہ کرنے والا

مستوھب *a*. asking forgiveness. بخشش چاھنیوالا

مستوي *a*. equal, level, straight, direct. ھموار - برابر

مستہ *masta*, (*neg.*) 'don't fight.' صیغہ نہي کا ھے - شہیدوں سے مت لڑ

مستہ *musta*, food of the birds of prey (as hawks, falcon, etc.) خوراک شکاري پرندوں کي

مستہام *a*. confounded, agitated, perplexed. حیران - سرگشتہ

مستہان *a*. vile, base, mean, despised. - ذلیل خوار

مستهجن *a.* detestable, odious, wicked, bad, defective, blameable. مکروه - زشت - برا - عیب دار

مستهزي *n.* a joker, a jester. هنسي ٹهٹها کرنے والا - دل لگي کرنے والا

مستهل *n.* one who sees a new moon, raining cats and dogs. نیا چاند دیکهنے والا - مینه زور شور سے برسنے والا

مستهلک *a.* ruinous, destructive, perishable. هلاک هونے والا - تباه هونے والا

مستیسر *a.* ready prepared. آماده هونیوالا

مستیقظ *a.* wakeful, vigilant, watchful. بیدار - جاگتا هوا - نگهباني کرنیوالا

مستیمن *a.* prosperous, secure. کامیاب - محفوظ

مسجد *masjid, n.* mosque, a Mahommedan place of worship. جگهه عبادت کرنیکي

مسجد *masjad, m.* the forehead, place of worship. پیشاني - جگهه سجده کرنے کي

مسجد اقصی *n.* name of Bait-ul-muqaddas, which is a mosque in Syria. نام هے بیت المقدس کا جو شام میں مسجد هے

مسجع *musajja',* rhythmical (speech), harmonious or measured (periods). سخن یا قافیه

مسجل *musajjal, a.* proved, authenticated and sealed by a judge (sometimes *met.*) corrected, adorned. ناصه مهر کیا هوا قاضي کا اور کبهي مجازاً بمعني درست اور آراسته کے بهي آتا هے

مسجور *n.* a cup or anything full to the brim with water. وه شے جو پاني سے پر اور لبا لب هو

مسجون *m.* a captive, a prisoner. قیدی

مسح *m.* rubbing, anointing, cleaning, washing, wiping, *coitus.* هاتهه سے ملنا - هاتهه پهیرنا - جماع کرنا

مسحات *m.* an instrument for digging the earth, a spade, mattock, pickaxe, etc. وه لوهے کا آله جس سے زمین کهودیں - بیلچه - پهاوڑا وغیره

مسحل *m.* an onager or wild ass. گور خر جو مشهور جانور هے

مسحور *a.* enchanted, fascinated. سحر زده

مسحوق *a* worn, bruised, triturated ground. گهسا هوا - رگڑا هوا - باریک پسا هوا

مسخ *maskh, m.* changing, metamorphosing from a superior to an inferior shape as from man to beast, losing the taste of anything. ایک صورت سے دوسري صورت بدلنا مگر دوسري صورت بد تر اول صورت سے هو - مزه جاتا رهنا کسي چیز کا

مسخر *musakhkhar, a.* subdued, taken, overpowered, obedient. تابع کیا گیا - تسخیر کیا گیا - فرمانبردار - مطیع

مسخرگي *f.* jesting, buffoonery, drollery. ٹهٹها بازي - دل لگي

مسخره *m.* a droll, a jester, a buffoon, a fool, a laughing stock. وه شخص جس پر دوسرے لوگ ٹهٹها کریں

مسخن *musakhkhin, a.* heating, warming. گرم کرنے والا

مسخوط *a.* enraged, incensed. غصه کیا گیا

مسدس *musaddas, a.* composed of six hexagonal. *m.* a kind of verse consisting of six lines. شش پهلو - چهه مصرعے کي شعر

مسدود *a.* shut, obstructed, closed. بند کیا گیا

مسرات *musirrat,* joys, gladnesses. سرورها - خوشیاں

مسرت *masarrat, f.* gladness, cheerfulness, joy. خوشي

مسرج *m.* a saddled horse وه گهوڑا جس پر کاٹهي ڈالي هوئي هو

مسرجه *m.* a lamp stand. چراغدان

مسرد *m.* an awl, a bodkin. لوهے کا آله جس سے چمڑے میں سوراخ کرتے هیں - ستالي

مسرع *a.* hastening, a fast-going messenger. جلدي کرنے والا - وه پیک یعني قاصد جو تیز چلتا هو

مسرف *a.* prodigal, extravagant, wasteful, lavish. بیهودا خرچ کرنے والا - زیاده اور بیجا خرچ کرنے والا

مسرور *a.* glad, cheerful, exulting, gay, delighted, pleased. خوش کیا گیا - خوش

مسروق *a* stolen, robbed, surreptitious. (*fem.* مسروقه) چوري کیا گیا - چرایا گیا

مسطح *mussatah, a.* level, even, spread, (*sub*) an open plain. پهیلا هوا - بچها هوا - سطح کیا گیا

مسطور *a.* written, ruled, expressed, delineated, above specified. لکها گیا - سطر بندي کیا گیا

مسعود *a.* happy, fortunate, propitious, august. سعادت کیا گیا - نیک بخت

مسفر *a.* bright, white. روشن - سفید

مسقط الراس *m.* one's birth place, native country, *lit* place of falling. وطن جهاں آدمي پیدا هوا هو - لفظي معني جگهه گرنے کي

مسک (*corr.* of مشک), musk. معرب هے مشک کا جو دوا خوشبو مشهور هے

مسکت *a.* putting to silence. چپ کرنے والا

مسکر *muskir, a.* intoxicating, inebriating. نشه پیدا کرنے والی چیز

مسکرات *f.* intoxicants. وہ چیزیں جن سے نشہ اور مستی پیدا ہو

مسکن *maskan*, مسکن *maskin*, } *m.* a dwelling, habitation, abode, house. رہنے کی جگہہ - گھر

مسکن *musakkin*, *a.* soothing, assuaging, anodyne. تسکین دینے والا - نیچے بٹھادینے والا

مسکنت *f.* poverty, indigence, misery, humility. مفلسی - محتاجی

مسکہ *m.* froth, foam, butter (especially fresh). جھاگ - گھی کا مکھن

مسکین *a.* poor, miserable, humble, wretched, indigent, worthless, old. - بڑا بے حرکت نہایت بے قوت - خوار - ضعیف - جس کے پاس کچھہ نہو

مسگر *m* a coppersmith, a brazier. - ٹھٹھیرا تانبے کے برتن بنانے والا

مسلح *a.* armed for war, clad in armour. ھتھیار بند

مسلخ *maslakh m.* a slaughter-house, shambles, (sometimes *met.*) slaughtering, sacrificing. وہ جگہہ جہاں چوپایوں کی کھال کھینچی جائے - کبھی مجازاً بمعنی ذبح کرنے حیوانوں کے بھی آتا ھے

مسلسل *a.* concatenated, linked together, united in a series, excessive, chained. سلسلہ بندی کیا گیا - زنجیر بندھا ھوا - آپس میں پیوند دیا گیا - زنجیر بند

مسلط *musallat*, *m.* a supervisor, (*met.*) subdued, conquered. وہ شخص جو کسی پر مقرر کیا گیا ھو - اور مجازاً بمعنی مغلوب

مسلط *musallit*, *m.* a governor, a ruler, commanding, swaying, (*met.*) conqueror, powerful. - کسی پر کسی آدمی کا مقرر کرنے والا دوسرے پر تسلط کرنے والا - مجازاً بمعنی غالب اور زور آور

مسلک *m.* a way, path, track, an institution, regulation, rule of conduct. راہ - راستہ

مسلم *musallim*, a Mohammadan, a Musalman, believer in and follower of the Mohammadan faith, name of a famous martyr, the nephew of 'Ali the son-in-law and fourth successor of Mohammad. مسلمان

مسلم *musallam*, *a.* accepted, acknowledged, believed, kept safe, preserved in liberty, intrusted, complete, sound, safe, entire, whole, free, exempted from. - تسلیم کیا گیا مانا گیا - یقین کیا گیا - سلامت رکھا گیا - سپرد کیا گیا

مسلم *musallim*, *m.* believing, accepting, preserving, keeping safe. ماننے والا - تسلیم کرنے والا - سلامت رکھنے والا

مسلمان *m.* a true believer, a Mohammedan. *Note.* The word is not properly Arabic, nor is it known to the Arabs, but it is generally used by Persians and Turks, and may be met with in some of the best Persian authors, Sa'di, Kashifi, etc., (—Binning).

مسلمین *pl.* of مسلم. جمع مسلم کی

مسلوب *a.* seized, snatched away, spoiled stripped. ستایا ہوا - لے گیا ہوا

مسلوخ *f.* flayed, skinned (as a goat). سات کی ہوئی اور کھال کھینچی ہوئی بکری وغیرہ

مسلوک *a* beaten, trodden, inserted. جاری کیا گیا - آمد و رفت کیا گیا

مسلول *a.* drawn out, consumptive, (affected with consumption or phthisis), سیف مسلول a sword drawn out of the scabbard. کھینچا ہوا - باھر نکالا ہوا اور وہ شخص جس کو سل کا مرض ھو

مسلہ *m.* a big needle for sewing gunny cloth or canvas. سوا ٹاٹ وغیرہ کے سینے کا

مسلی *musli*, *m.* comforter. تسلی دینے والا

مسلی *musalli*, *n.* a sensation of sharp pain, as if being pricked. نام ایک درد شدید کا جس کے مریض کو یہہ معلوم ھوتا ھے گویا کوئی اُس عضو میں سوئی بھونک رہا ھے

مسم (*pl.* مسام) *a.* pore (of the skin), duct. جمع اس کی مسام ھے - ایک باریک سوراخ بدن کا

مسمی *a* named, denominated. نام کیا گیا یعنی صاحب نام

مسمار *n.* an iron peg, pin, nail. - لوھے کی میخ کیل - کھونٹی

مسمر *musammar*, *f.* a string (of pearls), threaded or stringed. ڈوری میں پروئی ھوئی شے - موتیوں کی لڑی

مسمع *m.* the ear, the ring of a bucket. - گوش کان - ڈول کا حلقہ

مسمن *musman*, *m.* a born fat. پیدایشی فربہہ

مسمن *musmin*, *a.* fattening. موٹا کرنے والی شے

مسمن *musaman*, *a.* fattened, made fat. موٹا کیا گیا

مسموع *a.* heard, audible. سنایا گیا

مسموم *a.* poisoned, injured or infected by poison (meat). زھر دیا گیا

مسن *musann*, *m.* a whetstone. ایک قسم کا پتھر جس پر چھري وغیرہ تیز کرتے هیں - (فارسي) فسان

مسن *musin* *a.* very old, aged, advance in years. بہت بوڑھا شخص

مسن *musan*, *m.* a spearman. - صاحب سنان برچھي والا

مسند *masnad*, *f.* a large cushion, a throne, a prop, a chair. تکیہ گاہ - بڑا تکیہ

مسند *mus'ad*, the world, time, adopted (son), a bastard, a prop, support, helper, supporter. روز گار - زمانہ - پسر خواندہ یعني لیپالک - منھہ بولا بیٹا - حرامزادہ - وہ چیز جس سے پیٹھہ لگا کر بیٹھیں - وہ شخص جس کي طرف پناہ لے جائیں - وہ چیز جس سے دوسري چیز کو آڑ لگائي ہو

مسند *musannad*, *a.* exalted, raised high. بلند کیا گیا

مسند آرا adorning the throne, *i. e.* a king. گدي نشین

مستون *a.* fetid, stinking, foul, rotten, brightened, legal, adopted into use. بدبو - گندہ سڑي هوئي شے - روشن کیا گیا - وہ چیز جس کا کرنا شرع میں سنت هو

مسنون الوجہ *a.* a man having a long face and neck. وہ شخص جس کا چہرہ اور ناک لمبي هو

مسواک *f.* a fibrous stick used by the natives for cleaning the teeth, a tooth brush. دتون - وہ لکڑي جس سے دانت صاف کرتے هیں

مسودہ *m.* black, a writing, anything written, a sketch or rough draft of a letter, etc. سیاہ - مجازاً - نوشتہ - لکھا هوا - جو سرسري طور پر پہلے لکھا جائے اور بعد کو صفائي سے لکھیں

مسہد *musahhad*, *a.* wakened, roused from sleep. بیدار کیا گیا - جگایا گیا

مسہل *mushil* *a.* aperient, purgative, laxative, a cathartic medicine that evacuates the bowels. جلاب - وہ دوا جس کے کھانے اور پینے سے دست آویں

مسئلہ / مسلہ } *m.* question, proposition, a precept of Mohammad, a point of law. سوال - وہ بات جو دریافت کرنے اور پوچھنے کے قابل هو - بات جو لوگوں میں پوچھي جائے - جگہہ پوچھنے کي عقلي اور نقلي مقدمون میں

مسئول *a.* questioned, desired. چاها گیا - سوال کیا گیا

مسي *mussi*, *a.* sinful malefactor. - بد کردار بد افعال - گنہگار

مسی *a.* made of copper. تانبے کي چیز

مسیچہ (*cont.* from موسیچہ), a kind of white bird resembling a turtle-dove, (according to some) a wagtail (Motacilla). مخفف موسیچہ کا - ایک قسم کا سفید رنگ پرند مشابہ قمري کے - بعضوں کي راے کے موافق بمعني صعوہ جسے ممولا کہتے هیں

مسیح / مسیحا } *n.* friend, a great surveyor, the Messiah, Christ our Lord, مسیح also means a coin the stamp of which is quite worn out. دوست - بڑا پیمایش کرنے والا حضرت عیسی کا لقب

مسیخ *a.* tasteless. بے مزہ

مسیخ یکشنبہ the juice of the grapes on which, a night has passed and consequently it may turn sour, شراب دو شاب - انگور کا شیرہ جس پر ایک رات گذر جائے اور وہ کھٹا هو جائے

مسیر *a.* going, walking, proceeding on a journey. جگہہ جانا اور سیر کرنا

مسیل *n.* the source of water, a spring. پاني جاري هونے کي جگہہ

مشابہ *m.* resemblance, picture, similitude, probability, like. مانند - مثل - نظیر

مشاتمت *f.* abusing each other, reproaching, reviling. آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینا

مشار *a.* signified, pointed, indicated اشارہ کیا گیا

مشارالیہ *a.* above mentioned, aforesaid, pointed at. جس کي طرف اشارہ کیا گیا هو

مشارب (*pl.* of مشرب) places of drinking. جمع هے مشرب کي - پاني پینے کي بہت سي جگہیں

مشاربت *f* act of drinking (water) together. باهم ملکر پاني پینا

مشارع (*pl.* of مشرع), broad ways, roads. جمع مشرع کي - کشادہ راهیں - راستے

مشارک *m.* a partner, a comrade, an associate, a partaker. شریک هونے والا

مشاطہ *f.* a waiting maid, a woman who combs hair, a bride dresser, a woman who makes or concerts marriages, a go-between. کنگهي کرنے والي عورت یعنے جس کا پیشہ عورتوں کے سروں میں کنگهي کرنے اور دلهنوں کے طرح آرایش دینے کا هو - دلالہ جو دلہن و دلها کي شادي بیاہ کرادے

مشاع *a.* undivided, revealed, disclosed, a land held in common. جس کي تقسیم نہوئي فاش کیا گیا - آشکارا - ظاهر - وہ زمین جو چند آدمیوں کي شرکت میں هو اور ابهي اس کي تقسیم نہوئي هو

مشاعر (*pl.* of مشعر) worshipping places of the *Hajis*, places of sacrifice. - جمع مشعر کي حاجیوں کي عبادت گاہ - قرباني کرنے کي جگہیں

مشاعرہ *m.* contending, or excelling in poetry, a meeting of poets. باهم جمع هوکو شعر خواني کرنا - آپس میں شعر پڑھنا

مشاعل (*pl.* of مشعل), جمع هے مشعل کي

مشاغل *m.* many occupations, employments. بہت سے شغل - بہت کام

مشافهه *m.* oral communication, conversation. رو برو هونا - سامنے بات اور گفتگو کرنا

مشاق *mashaq*, (*pl.* of مشقت) hardships, adversities. جمع مشقت کي - مشقتیاں

مشاق *mashshak*, *m.* a practiser, a proficient, *a.* well-versed or practised. کسي کام کي بہت مشق کرنے والا

مشاکل *a.* equalling, resembling, of the same appearance. مانند هونے والا - اور هم شکل هونے والا

مشاکلت *f.* resemblance, similitude. - مانند هونا - همشکل هونا

مشام *m.* the smell, the sentorium of smell, sense of smelling. سونگهنے کي قوت کا محل جو ناک کي تمامي اور دماغ کے شروع میں هے

مشاورت *f.* counsel, deliberation, consulting together باهم مشورہ کرنا

مشاهد one who sees or contemplates. دیکھنے والا

مشاهده *m.* sight, vision, ocular demonstration. دیکھنا - کسي کے همراہ حاضر هونا

مشاهره *m.* bargaining, settling or hiring by the month, monthly salary, pay, wages. ماہ بماہ کسي کو ایک رقم مقررہ دینا - تنخواہ - ماهیانہ

مشاهیر (*pl.* of مشهور), (*met.*) those who are renowned or distinguished. - جمع مشهور کي - مجازاً بزرگ اور نامور لوگ

مشائخ (*pl.* of شیخ), old men ; holy persons, derveses, adorers. جمع هے شیخ کي - بوڑھے لوگ عالم صوفي - بزرگ

مشائع *m.* a companion, a fellow-traveller. پیچھے سے آنے والا - همراہ - مصاحب

مشایعت *f.* the following of some guide or leader in religious matters, the ceremony of accompanying a visitor on his departure, to the door of a house, forming a friendship, following a funeral. پیروي کرنا - کسي کے همراہ رخصت کرنے کے لیئے تھوڑي دور جانا - کسي کے ساتھہ یاري کرنا - جنازہ کے ہا جانا

* of مشام.

مشبع *mushabbi'*, *a.* satisfied, full. - سیر کیا گیا آسودہ - پیٹ بھرا

مشبک *mushabbak*, *a.* latticed, grated, perforated. جالیدار - وہ شے جس میں سوراخ سوراخ هوں - جالي

مشت *f.* the fist, a handful, a blow with the fist. مکا - مٹھي

مشتار *a.* manifested, revealed. ظاهر و آشکارا کیا گیا

مشتاق *a.* desirous, anxious, wish, longing (to see a person). جسکو کسي کا اشتیاق هو

مشتبہ *a.* obscure, ambiguous, doubted. جس میں شک هو - شک کیا گیا

مشتت *a.* confounded, confused, agitated, perplexed. پریشان - پراگندہ متردد

مشترک *m.* partner, an associate, an accomplice, a word having many differen meanings. شریک کئیے هیں - وہ لفظ جو کئي مختلف معنوں کے لیئے بنایا گیا هو

مشتري *m.* a purchaser, (sometimes) a seller the planet Jupiter, (*chem*) pewter, tin (In Sikandarnama, in one place) white paper. خریدار - مول لینے والا کبھي بمعني بیچنے الے کے بھي آتا هے - نام ستارہ سعد اکبر یا قاضي فلک کا جو چھٹے آسمان پر هے - کیمیا گروں کي صطلاح میں مشتري رانگھ کو کہتے هیں - سکندر امہ میں ایک مقام پر مراد کاغذ سفید سے هے

مشت زن *m.* a boxer, a pugilist, thumping blowing with the fist, a wrestler. مونسا مارنے والا - کنایہ نشتي گیر سے

مشتعل *a* inflamed, kindled, set on fire شعلہ مارنے والا - اور بھڑکنے والا

مشتغل keeping busy, turning one's face away (in anger). مشغول هونے والا - منھہ پھیر لینے والا - بیزار

مشتق derived (as one word from another), derivative. وہ لفظ جو دوسرے لفظ سے بنایا گیا هو

مشتمال rubbing and thumping the body (like the wrestlers) to make one's body hard and strong, removing the dirt from the body while bathing. وہ مالش جو کشتي گیر اپنے بدن پر کرتے هیں اور گھونسے مارتے هیں تا کہ بدن طاقت دار اور سخت هو جاے - حمام میں بدن کا میل چھڑانا

مشتمل *a.* comprising, containing, comprehending. شامل هونے والا - کسي چیز پر محیط هونے والا

a. scattered, separate. - پراگندہ الگ الگ

مشها *a.* desirable, amiable, hope, anxiety, wish. مرغوب - خواهش كيا گيا - اُميد - آرزو

مشتهر *mushtahir*, *m.* a proclaimer, announcing. شهرت دينے والا

مشتهر *mushtahar*, *a.* proclaimed, announced, celebrated, made famous. شهرت ديا گيا

مشتهي *p. a.* longing, desiring, wishing. خواهش كرنے والا - آرزو مند - رغبت كرنے والا

مشتهٰى *mushtaha*, *a.* desired, longed for, wished. مرغوب - خواهش كيا گيا

مشتے *a.* handful, a small number or quantity. مقدار - قليل اور تهوڑے لوگ

مشحون *a.* full. پر - بهرا هوا

مشخص *mushakhkhas*, stipulated, certain, ascertained, a fine, an amercement. تجويز كيا گيا

مشجر *mushajjar*, *m.* a kind of silk cloth painted with the pictures of the trees. وه كپڑا جس پر درختوں كي تصويريں بني هوں

مشدد *mushaddad*, *a.* fastened tight, strengthened, a letter that is doubled or marked with the symbol *tashdid* (تشديد). خوب كس كر باندها گيا - وه حرف جو تشديد سے پڑها جاے

مشراط *mishrat*, a surgeon's lancet, a sharp-pointed and two-edged instrument used in letting blood, etc. فصاد كا نشتر - وه آله جس سے كسي عضو كو چيريں

مشراب *m.* act of drinking water, place of drinking, a spring, (*met.*) religion, sect, divine law, way, manner. پاني پينا - پاني پينے كي جگهه - چشمه - مجازاً مذهب - دين - آئين - طور - طريق

مشرب } a drinking cup, a glass, a drinking vessel. - پاني پينے كا برتن - پياله - كوزه
مشربه }

مشربه *m.* place of drinking. جگهه پاني پينے كي

مشرح *mashairah*, *a* explained fully, commented upon. كهول كهول كر بيان كيا گيا

مشرح *musharrih*, *m.* one who explains a thing fully, an expositor. كهول كهول كر بيان كرنے والا

مشرط *m.* a lancet, a cupping-glass. - نشتر پچهنه

مشرع *n* road, way, path. رسته - راه

مشرف *mushrif*, an examiner, inspector, observer, near, approaching, impending, high - بلند - بلند هونے والا - خبر دار - صدر مصدر - نزديک - قريب

مشرف *mashraf*, a high place a high office. جاے بلند - بلند مقام

مشرف *musharraf*, *a.* exalted, ennobled, honoured, venerated. بزرگي ديا گيا

مشرفه *musharrifa*, *m.* a letter written from a superior to an inferior. وه نامه اور خط جو اعلى شخص كي جانب سے ادنى كے طرف هو

مشرفه *musharafa*, *a.* regarded, respected, honoured. بزرگي دي گئي

مشرق *m.* the east. پورب

مشرقات *f.* bright things, (also) stars. روشن چيزيں - اور كنايه ستاروں سے

مشرقين (*dn.*) the east and west. (تثنيه تغليبي هے) كنايه مشرق اور مغرب سے

مشرک *m.* one who includes, an idolater, infidel, polytheist. شريک كرنے والا - وه جو ايک خدا كا قائل نهو بلكه كسي اور كو بهي خدا كے ساتهه شريک كرے

مشروب *a.* drink, imbibed, potable. پيا گيا

مشروح *a.* fully explained, illustrated, commented upon, above mentioned. شرح كيا گيا - كهولكر بيان كيا گيا

مشروط *a.* agreed upon, stipulated. شرط كيا گيا

مشروع *a.* initiated, begun, commenced, legal, just, prescribed by law, *m.* a kind of cloth made of silk and cotton mixed (dressed in which it is lawful for Musalmans to pray, that not being allowed in cloth entirely of silk) جائز امر جو موافق شرع شريف كے هو

مشط *n.* a comb. كنگها - كنگهي

مشعبد *m.* a conjurer, a juggler. شعبده باز - بازي گر - بهان متي

مشعر *mush'ir*, *a.* signifying, informing, denoting, indicating. خبر دينے والا

مشعرالحرام *n.* name of one of the places of sacrifice in Mecca. نام ايک جگهه كا حج كي قرباني كي جگهوں ميں سے

مشعره *m.* a place where poets meet to read their verses, etc. جگهه شعر پڑهنے كي

مشعشع } *a.* shining, bright, glittering, water and wine mixed. - تاباں - روشن - شراب پاني ملا هوا
مشعشه }

مشعل روز the sun. آفتاب

مشعل كشان *m.* a party of infidels, devils. ايک قوم هے كافروں كي - شياطين

مشعله *m.* a torch, flambeau, lantern. - مشعل شمع

مشعوف *a.* enamoured, loved, a friend, a lover. شيفته - عاشق - محب

مشغلہ m employment, occupation, pastime, business, noise, tumult, uproar. - کام - شغل شور - غل

مشغوف a. deeply impressed or affected one's mind. جس کے دل میں کوئي امر پہونچگیہ ہو

مشفق a. kind, showing favour, merciful. مہرباني کرنے والا - مہربان - دوست آدمي

مشق f. doing a work daily, an example, copy to write after, exercise, practice, usage, use. کسي کام کو ہر روز کرنا

مشقي n. a writing copy, an example copy to write after, an exercise book. وہ کاغذ جس پر حرفوں کي مشق کریں

مشک بر زخم انشاندن id. to freshen one's wound, to harm. کنایہ تازہ کرنے زخم سے اور ایذا کے پہونچانے سے

مشک بو a. scented like musk. مشک کي سي خوشبو

مشک در شراب کرد id. to render one unconscious. کنایہ ھے بیہوش کرنے سے

مشکرا کافور کردن id. turned black hair into white, i. e. became old. یعنے سیاہ بالونکو سفید کردیا - مراد یہہ کہ بوڑھا ہو گیا

مشککاب f. blackness, ink. کنایہ سیاھي سے

مشک و حریر (met.) ink and paper. مراد سیاھي اور کاغذ سے

مشکوا m. a lampstand, a lantern, a big niche in a wall for keeping a lamp. - چراغدان فانوس - بڑا طاق - جس میں چراغ و قندیل رکھیں

مشکور a. praised, laudable, agreeable, rewarded, thanked. پسندیدہ - ستودہ - شکر کیا گیا

مشکوک a. doubtful, uncertain, problematical, doubted. شک کیا گیا

مشکوے n. a temple, (met.) a palace, mansion. بتخانہ - مجازاً امیروں اور بادشاھوں کا محل

مشلول a. paralytic. اپاہج - جس کے ہاتھہ پیر بے حس ہوگئے ھوں

مشمر mushammar, m. a fleet horse just on the point of running. کنایہ اُس تیز رفتار گھوڑے سے جو دوڑنے پر مستعد ھو

مشمر mushammir, m. one who wraps his garment round his waist before running. وہ شخص جو دوڑنے کے لئے دامن کو کمر میں لپیٹ لے

مشمش m. the apricot. زرد آلو جس کو خوباني بھي کہتے ھیں - ایک شیریں میوہ ھے

مشمول a. surrounded from all sides, contained, comprehended. - سب طرف سے گھیرا گیا شامل کیا گیا

مشموم a. sweet smelling, odoriferous, fragrant, perfumed. خوشبو دار شے - معطر چیز - وہ چیز جو سونگھي جاے

مشمومات pl. sweet-smelling things. خوشبو دار چیزیں

مشنع a. mushanna', a. wicked, reviled, censured, reproached. بد - برا - ملامت کیا گیا

مشنگ m. a thing, a robber, highwayman, a kind of corn. چور - رہزن - ڈاکو - ایک قسم کا غلہ

مشواد f. a turban. دستار - پگڑي

مشوب a. mixed, blended, confused. آمیختہ شدہ - ملا ہوا - مخلوط - ملا جلا

مشود n. turban. دستار - پگڑي

مشورہ m. counsel, consultation. - صلاح پوچھنا کام کا انجام کسي سے دریافت کرنا

مشوش mushawwash, a. distressed, uneasy, perplexed, confused, intricate. پریشان کیا گیا

مشوش mushawwish, a. perplexing, distressing. پریشان کرنے والا

مشوق mushawwiq, a. getting one to like or love. پیار کروانا

مشوق mushawwaq, a. made to love or like. شوق دلایا گیا

مشوق mashuq, a. fond, loving. m. a lover. شائق - عاشق

مشوم a. unfortunate, unlucky. منحوس

مشوي a. fried, roasted, broiled, parched, grilled. بریاں - بھنا ھوا

مشہد a. place of presenting oneself, place of giving evidence, a burial-place, especially for martyrs, name of a Persian city, formerly Tus. - جگہہ حاضر ہونے کي - شہادت گاہ شہیدوں کا قبرستان - نام ایک شہر کا ایران میں جسکو زمانہ قدیم میں طوس کہتے تھے

مشہر a. celebrated, famous. شہرت دیا گیا

مشہود a. presented, attested, proved, evinced, clear, manifest. حاضر کیا گیا - موجود

مشہوم a. unfortunate, unlucky. منحوس

مشي m. walking slowly, going. اپنے پیروں سے آھستہ چلنا - ٹہلنا

مشیت mashiat, f. power or will, pleasure, (esp.) the will of God, fate, strength. چاھنا - خواھش - خاصکر بمعني خواھش اور مرضي حق تعالی کي

مشید mushaiyid, m. one who cements, one who builds strongly. گچ اور چونہ سے مضبوط اور محکم کرنے والا

مشيد *mushid*, cemented, (*met.*) strongly-built. گچ كيا گيا - مجازاً بمعني محكم و مضبوط و استوار كيا گيا

مشيد *mushaiyad*, *m*. a house built of baked bricks or stones and cemented. وه عمارت جو گچ اور چونه سے مضبوط اور بلند كي گئي هو

مشير *m*. a counsellor, a senator. اشاره كرنے والا - مشوره دينے والا - صاحب مشورت

مشيمه *m*. the membrane in which the fœtus is enveloped (*secundines*.) وه جهلي جس ميں بچه پيدا هے اور اكثر اسي جهلي ميں بچه لپٹا هوا پيدا هوتا هے

مص *a*. sucking. چوسنا

مصاب *a*. afflicted, troubled. مصيبت زده - رنج پهونچا هوا

مصابت *f*. affliction, misfortune, adversity, grief. مصيبت - رنج

مصابرت *a*. patient or enduring with patience. سختي پر صبر كرنا

مصابيح (*pl.* of مصباح), lamps, name of a traditional book. جمع مصباح بمعني چراغ كي - نام كتاب كا علم حديث ميں

مصاحب *m*. a companion, favourite, friend, courtier, aide-de-camp. همصحبت - همنشين

مصاحبت *f*. companionship, society, familiar intercourse, communion. باهم صحبت كرنا

مصاحف (*pl.* of مصحف), books, volumes, etc. جمع مصحف كي - كتابيں وغيره

مصادر *pl.* of مصدر جمع مصدر كي

مصادات / مصادره } fine, mulct, debt, recompense, oppression, spoliation. تاوان دينا - تاوان لينا

مصادقت *f*. intimate friendship, attachment with each other. دلي دوستي

مصادمت *f*. harming each other. باهم صدمه پهونچانا

مصارعت *f*. wrestling, contest. باهم كشتي لڑنا

مصارف (*pl* of مصرف), expenses, disbursments, changes, vicissitudes. جمع مصارف كي - خرچ هونے كي جگهيں

مصاعب *f*. hardships, adversities, afflictions. دشوارياں - مشكليں

مصاعد (*pl.* of مصعد), high places. جمع مصعد كي - بلند جگهيں

مصاف (*pl.* of مصف), *f*. a field of battle, the ranks of an army. جنگ - مقام جنگ

مصافات *f*. friendship, affection, attachment. دوستي - اخلاص

مصافحه *m*. shaking hands. وقت ملاقات هاتهه سے هاتهه ملانا

مصاقع (*pl.* of مصقع), the eloquent ones. جمع مصقع كي جو بمعني فصيح و بليغ كے هے

مصاقل (*pl.* of مصقله), any instrument with which a thing is polished, a polisher. جمع مصقله كي - زنگ چهڑانے اور جلا كرنے كے اوزار

مصالح (*pl.* of مصلحت), good deeds, favours, (in *Per.*) materials, affairs, honours, glory, employments. جمع مصلحت كي - بهلائياں - اور فارسي ميں بمعني سامان اور اسباب كسي چيز كي درستي كا - چيزيں جن سے دوسري چيز كي اصلاح كريں - عمارت كي ضروريات جيسے چونه اور لكڑي اور اينٹ وغيره

مصالحت *f*. reconciliation, pacification. باهم صلح كرنا

مصاهرت *f*. act of making one a father-in-law or son-in-law. خسر كرنا - داماد كرنا

مصائب (*pl.* of مصيبت), afflictions, calamities, misfortunes. جمع مصيبت كي

مصائد *m*. (*pl.* of صيد), games. جمع صيد كي - وے جانور جن كا شكار كريں

مصباح *f*. a lamp, a torch, a lantern, a wine-glass, a grammar. چراغ - صبح كو شراب پينے كا جام - نام ايك كتاب كا علم نحو ميں

مصبغ *a*. coloured, painted. رنگا هوا - رنگين

مصحف *m*. a volume, a book, a page, the Quran, as "the book," par excellence. وه كتاب جس ميں رسالے اور صحيفے جمع هوں - اسي واسطے قرآن شريف كو مصحف كهتے هيں - كه اس ميں سورتيں جمع هيں

مصحوب *a*. accompanied, accompanying. ساتهه كيا گيا

مصدق *a*. proof of veracity, (also) a witness, evidence, verified, substantiated, attested. آله صدق اور سچائي كا - وه شے جس پر كوئي معني بولے جائيں اور بمعني گواه اور گواهي كے بهي آتا هے

مصدر *m*. source, origin, spring, theme, the infinitive or noun of action, a place. جگهه نكلنے كي - جگهه واپس آنے كي - يا هو آنے كي جگهه - وه كلمه جس سے افعال اور صفات بنائے جائيں

مصدر *musaddar*, antecedent, prior. مقدم رنها گيا - اول اور ابتدا ميں لايا گيا

مصدع *musaddi'*, *a*. producing headache, separating, (*met.*) troublesome, annoying. درد سر پيدا كرنے والا - جدا جدا كرنے والا - مجازاً تكليف دينے والا

مصدق *musaddiq*, m. a verifier, an affirmer, receiving alms. یقین کرنے والا - صدقہ لینے والا

مصدر a. issued, derived, derivative. صادر کیا گیا

مصدوق a. verified, attested, substantiated. صادق کیا گیا

مصر n. any large city, Egypt, also Cairo, the capital of Egypt, sharpness, (also) a sword space, limit. مطلق کوئی بڑا شہر - نام خاص مشہور شہر کا - تیزی ہر چیز کی - اور شمشیر - تلوار - حد درمیان دو چیز کی

مصر *musirr*, n. one who insists or perseveres, a. obstinate, unflinching. اصرار کرنے والا - ہر کام پر أستادگی کرنے والا

مصران (dn. of مصر) Kufa and Bussorah (Bushire). تثنیہ مصر کا ہے - کنایہ کوفہ اور بصرہ سے

مصراع } مصرع } m. leaf of a folding door, a hemistich, half a poetic line or a verse, or a very note completed. دروازہ کا ایک پٹ شعر کا آدھا حصہ

مصرع m. place of falling or tumbling. جگہہ پچھڑنے کی - جگہہ زمین پر گرنے کی

مصرعۂ برجستہ } مصرعۂ تند } مصرعۂ ریختہ } m. well-measured. مصرعۂ بہتر اور عمدہ جو بغیر مشقت اور فکر کے بے تکلف موزون ہو جاے

مصرف *masraf*, m. expense, disbursement, cost. جگہہ خرچ کرنے کی - صیغہ اسم ظرف کا ہے

مصرف *musrif*, a. prodigal, extravagant. خرچ کرنے والا

مصرم m. a sickle, a reaping-hook, an instrument for cutting grain, used with one hand. لوہے کا ہنسیا جس سے غلہ کاٹا جاتا ہے

مصروع a. prostrated, epileptic, or seized with epilepsy. زمین پر پچھاڑا ہوا - وہ شخص جسکو عارضہ صرع کا ہو

مصروف a. expended, turned, changed, employed, declinable, busy, engaged. خرچ کیا گیا - صرف کیا گیا - باز گردانیدہ شدہ اور کنایہ مشغول سے

مصري a. of or relating to Egypt, m. an Egyptian. وہ چیز جو مصر کی ہو - شہر مصر کا رہنے والا

مصطبہ m. a tavern, an inn. میخانہ - شراب خانہ

مصطفی a. chosen, selected, elected, cleansed, purified, m. one of the titles of Mohammed. مقبول - برگزیدہ - صاف کیا گیا - لقب محمد کا

مصطکے f. mastiche (the resin of the *Pistacia lentiscus*). ایک قسم کی زرد رنگ کا گوند جو مشہور دوا ہے

مصعد *masa'd*, n. acclivity, ascent. جگہہ اونچی چڑھنے کی

مصعد *musa'd*, m. one who ascends. اونچے مقام پر چڑھنے والا

مصفات f. a filter or cloth through which drinks, medicines, etc., are strained. چھاننے کی صافی

مصقع m. eloquent, hetorical. فصیح و بلیغ

مصقل } مصقلہ } m. a kind of instrument with which a thing is polished, a polisher. وہ لوہے کا آلہ جس سے چھری اور تلوار وغیرہ کا زنگ چھڑائیں اور چمکائیں

مصقل } مصقول } a. polished, furbished. روشن - صاف کیا گیا - زنگ دور کیا گیا

مصلا } مصلی } m. carpet to pray on, the place in a mosque where prayers are read, (*theo.*) a place where Id service is performed. نماز پڑھنے کی جگہہ - نماز گاہ - فقیہوں کی اصطلاح میں بمعنی عید گاہ

مصلب *musallab*, m. a kind of cloth on which the pictures of the cross are drawn or painted. وہ کپڑا جس میں صلیب یعنی چلیپا کی تصویریں بنی ہوں

مصلح m. one who rectifies, a mediator, pacifier, advisor, reformer. درست کرنے والا - اصلاح کرنے والا

مصلحت f. an action, occupation, expediency, the best thing to be done, counsel, advice. خوبی کام کی - صلاح نیک - تجویز نیک

مصلوب f. crucified, hanged on the cross, suspended. سولی دیا گیا - صلیب پر چڑھایا گیا - پھانسی دیا گیا

مصلي *mussalli*, a. holy, righteous, praising Mohammed. نماز پڑھنے والا

مصمت *musmat*, a solid, not hollow, healed (a wound), a horse of one colour. ٹھوس - وہ زخم جو بھر گیا ہو اور اچھا ہو گیا ہو - گھوڑا جو ایک رنگ ہو

مصمت *musammat*, a. silenced, quieted. خاموش اور چپ کیا گیا

مصمصہ gargling or rising the mouth. پانی کی کلی جو آدھے منھ میں پھرائیں

مصنع *musanna'*, a factitious, artificial. بنایا ہوا - کاریگری کیا گیا

مصنع *masna'*, m. fort, river, reservoir. - قلعہ ندی - حوض

مصنف *musannif*, *m.* a composer, an author. تصنیف کرنے والا کتاب کا

مصنف *musannaf*, مصنفه *musanna'a*, } *a.* composed, a composition. تصنیف کیا گیا - کتاب و رسالہ وغیرہ

مصنفات *n* books, works, compositions. - کتابیں تصنیفات

مصنوع *a.* formed, created, made, prepared, artificial, an invention, contrivance. وہ چیز جو کاریگری سے بنی ہو - بناؤٹی ہوئی شے

مصور *musawwir*, *m. a.* painter, artist, sculptor, forming, figuring. تصویر کھینچنے والا

مصوص *a.* broiled bird pickled in vinegar with spices. مرغ بریان جو گرم مصالح ڈالکر سرکہ میں چھوڑا جائے

مصون *a.* guarded, kept in safety. نگاہ رکھا گیا - محفوظ - حفاظت کیا گیا

مصیر *f.* home returning, inclining, attending towards. - رجوع کرنا - پھرنا - بازگشت - جاے مائل ہونا

مصیقل *musaiqal*, *a.* polished, burnished. چمکایا گیا - زنگ چھوڑایا گیا

مصیقل *musaiqil*, *m.* burnisher, polisher, furbisher. صاف کرنے اور چمکانے والا

مضاجع *f.* bed-rooms, sleeping apartments. خوابگاہیں - سونے کے مقامات

مضاجعه *a.* act of sleeping in one place. باہم یکجا سونا

مضادت *muzaddat*, *f.* opposition, antipathy. باہم ضد ہونا - کسی کے ساتھہ دشمنی کرنا

مضار *mazarr*, (*pl.* of مضرت), losses, injuries, mischiefs, harms. جمع ہے مضرت کی جو بمعنی گزند اور نقصان کے ہے

مضارب (*pl.* of مضرب). جمع مضرب کی

مضاربت *f. a.* patnership of stock, striking with the sword. مال تجارت میں شرکت - اور بمعنی تلوار مارنا

مضارع *m.* a partner, a friend, resemblance, similitude, resembling, the aorist (in gram). شریک - شبیہ - مانند - ہم مثل ہونے والا - وہ فعل جس میں معنی حال اور استقبال کے دونوں ہوں

مضاعف *a* doubled, increased, multiplied. دو چند - دونا

مضاعفت *f.* doubling. دونا کرنا - دو چند کرنا

مضاف *a* annexed, added, related, (*sub.*) a noun placed in construction, one who is joined to others with whom he has no natural connection. منسوب - متعلق

مضافات *pl.* things annexed, appendages, neighbouring villages of a city. - منسوبات متعلقات - وے دیہات جو کسی شہر کے متعلق ہوں

مضاف الیه the noun governed, genitive. وہ اسم جس کی عوض کسی شے کو نسبت دیں

مضی مامضی "let bygones be bygones." گذرا جو کچھہ کہ گذرا

مضامیر (*pl.* of مضمار), race-courses, etc. جمع مضمار کی - وے میدان جہاں گھوڑے دوڑائے جائیں

مضامین (*pl* of مضمون), the contents of a book (epistle, etc) meanings, etc. جمع ہے مضمون کی - معانی - مطالب - مقاصد

مضاهات resembling. کسی چیز کے مانند ہونا

مضاهی *f.* resemblance, like, similitude. مانند - مشابہ

مضاء *m.* course, proceeding. - روان ہونا - روانی گذرنا

مضائق (*pl.* of مضیق), narrow places. جمع مضیق کی - تنگ جگہیں

مضایقه *m.* penury, necessity, distress, poverty. تنگی - ایک دوسرے کو باہم تنگ کرنا

مضایقت *f.* poverty, distress. تنگی

مضبح *m.* a complainant, one who cries for mercy. شور و فریاد کرنے والا

مضجع *m.* a bed-room, a sleeping apartment. خوابگاہ - جگہہ سونے کی

مضحک *muzhik*, *a.* ridiculous, laughable, a laughing stock. ھنسانے والا

مضحکه a laughing-stock. وہ چیز یا وہ آدمی جس پر لوگ ھنسیں

مضحکات *pl.* jests, jokes, funny doings or sayings. وہ لطیفے کہ جن سے ھنسی آوے - ھنسانے والی چیزیں

مضر *muzirr*, *a.* pernicious, hurtful. ضرر پہونچانے والا

مضراب *m.* a musical plectrum or bow. وہ آلہ جس سے ماریں - ستارے بجانے کا اوزار

مضرات *f.* a striker, harmful things. ضرر دینے والی چیزیں

مضرب *mazarab*, striking, blowing, going, the place where one is struck. جاے - مارنا ضرب

مضرت *f.* loss, damage, mischief, harm, injury. ضرر - گزند

مضروب *a.* struck, beaten. مارا گیا

مضرور *a.* harmed, injured, damaged. ضرر رسیدہ

مضطر *a.* rendered desperate, harmed, afflicted, (*met.*) poor. ضرر رسیدہ - مجازاً بمعنی بے اختیار - بیچارہ

مضطرب *a.* uneasy, afflicted, agitated, disturbed, chagrined, anxious. اضطراب - بیقرار والا

مضاعف *a.* doubled, multiplied. دو چند اور دونا کیا گیا

مضغ *m.* chewing, masticating. چبانا

مضغہ *m.* a lump of flesh, a morsel. گوشت کا ٹکڑا - لقمہ

مضل *muzill, a.* misleading. گمراہ کرنے والا

مضمار *m.* a race-course, a large plain or place for exercise, downs. وہ میدان جہاں گھوڑے دوڑائے جائیں - آلہ دبلا کرنے کا

مضمحل *muzmahill, a.* disappearing, vanishing, worthless. - نیست و معدوم ہونے والا - نا چیز سست

مضمر *muzmar, a.* concealed, hidden, imagined, conceived in the mind, a secret, (in gram.) the antecedent. پنہاں - پوشیدہ - دل میں رکھی ہوئی بات - بھید

مضمضہ *m.* washing or rinsing out the mouth. کلی جو سارے منہہ میں پھرائی جاے

مضموم *a.* (a letter) marked with the vowel point *zamma* or *pesh, i. e.* the short *u.*, added, joined, accumulated. پیش دیا گیا جیسے دال دم کی - پیوستہ کیا گیا - ملایا ہوا

مضمون *m.* sense, signification, purport, contents (of a letter or book). درمیان میں لیا ہوا - مطلب

مضي *a.* brightening, becoming bright, (both transitive and intransitive). - روشن کرنے والا روشن ہونے والا - لازم اور متعدي دونوں

مضیع *a.* wasting, wasteful. ضائع کرنے والا

مضیف *a.* entertaining, drawing one's curiosity, forming a relation. - مہمانی کرنے والا نسبت کرنے والا - رغبت دلانے والا

مضیق *f.* a narrow place. تنگ مقام

مطا *m.* the back, favour, protection. - پشت پیٹھہ - حفاظت

مطابقت *f.* conformity, equality. موافقت - برابری

مطار *a.* flying, place of flying. اڑنا - جگہہ اڑنے کی

مطارح (*pl.* of مطرح), bag, etc. جمع ہے مطرح کی کسي چیز کے ڈالنے کي جگہیں - تھیلیاں

مطارحہ *m.* saying something to any one, (*met.*) consultation, (sometimes) flattery. کسي سے بات کا کہنا - مجازاً مشورہ کرنا - اور کبھي بمعني خوشامد کے بھي مستعمل ہے

مطارحات (*pl.* of مطارحہ) جمع مطارحہ کي

مطاع *a.* obeyed, head, boss, master, the one served - اطاعت اور فرمانبرداري کیا گیا - سردار مخدوم - وہ شخص جسکي لوگ تابعداري کریں

مطاعم (*pl.* of مطعم) provisions, eatables, dishes. جمع ہے مطعم کي - کہانے - خوراکیں

مطاعن *n.* defects, taunts, reproaches. - عیب طعنے

مطاف *n.* the place of going round in a procession. جگہہ گردا گرد پھرنے کي اور طواف کرنے کي

مطالب (*pl.* of مطلب), desiderata, demands, requisitions, desires, inclinations, wishes. جمع مطلب کي - مرادیں

مطالبہ *m.* a demand, asking, exacting. طلب کرنا - واپس مانگنا

مطالع (*pl.* of مطلع), name of a logical book. جمع مطلع کي - نام ایک کتاب کا علم منطق میں

مطالعہ *m.* reading, study, contemplation, consideration. کسي چیز کي واقفیت پیدا کرنے کے لئے دیکھنا

مطامع (*pl.* of طمع) greed, etc. خلاف قیاس - جمع طمع بمعني لالچ کے

مطاوع *a.* obedient. فرمانبرداري کرنے والا

مطاوعت *f.* obedience, service. تابعداري کرنا

مطاوي (*pl.* of مطوي) complications, etc. جمع ہے مطوي کي پیچیدگیاں وغیرہ

مطایبات (*pl.* of مطایبہ), innocent jokes, etc. جمع مطایبہ کي - تہذیب کے ساتھہ دل لگي کرنا

مطایبہ *m.* sport, innocent joke, pleasantry. خوش طبعي کرنا - تہذیب کے ساتھہ دل لگي کرنا

مطایا (*pl.* of مطیہ) animals used for riding purposes such as horse, camel, ass, etc. جمع مطیہ کي - وے چوپاے جن کي پیٹھہ پر سوار ہوتے ہیں جیسے گھوڑا - اونٹ - گدھا وغیرہ

مطبخ *matbakh, m.* a place for cooking, a kitchen. جگہہ کہانا پکانے کي - باورچي خانہ

مطبخ *mutbikh,* } *m.* a cook. - باورچي
مطبخي *mutbakhi,* } کہانا پکانے والا

مطبق *a.* folded doubled, multiplied, an utensil having a cover, a kind of cloth. تہہ بہ تہہ کیا گیا - وہ برتن جو سرپوش دار ہو - ایک قسم کپڑے کي

مطبوخ *a.* cooked, dressed, decoction. وہ چیز جو آگ پر پکائي گئي ہو - وہ دوا جو جوش کي گئي ہو

مطبوع *a.* agreeable, acceptable, worthy, laudable, printed, published. - خوش آیندہ مرغوب طبع - پسند کي گئي - طبع کي گئي - چھاپي گئي

مطحن *m.* a handmill, a mill-stone, a grinder. آسیا - چکي

مطحول *a.* splenetic. وہ شخص جس کو تلي کا عارضہ ہو

مطر *matar*, *m.* rain, the rainy season. - باران - مینھہ

مطر *mitar*, *f.* freshness. تازگي

مطرا *mutira*, refreshed, fresh, (*met.*) clear, transparent. تازگي دیا گیا - تازہ - مجازاً بمعني صاف و آبدار

مطرات (*pl.* of مطر), rains, etc. جمع مطر بمعني باران کي

مطران the spritual head of the Jews and Christians, a monk, a priest, a Rabbi. نصاری اور یہود وغیرہ فرقوں کا سردار قوم اور سر گروہ اور بزرگ

مطرب *m.* a musician, a singer, minstrel, bard. گویا - گانے والا - ڈوم

مطربہ *f.* a female singer, musician, etc. ڈومني

مطرح *m.* a thing for keeping anything, a sack, a bag. - جگہہ ڈالنے کسي چیز کي - تھیلي وغیرہ

مطرد *muttarid*, *a.* stable, firm, faithful, loyal, resolute. ایک و تیرہ پر ہونے والا - ایک دوسرے کے پیچھے ہونے والا - مستقیم

مطرد *mittarad*, *m.* a small spear. چھوٹا نیزہ

مطرز *a.* adorned, decorated, ornamented. زینت دیا گیا

مطرف *mutarraf*, *m.* a horse having his tail and head white or black and the rest of the body of any other colour, ornamented, decorated وہ گھوڑا جس کا سر اور دم سفید اور سیاہ ہو اور دوسرے اعضا دوسرے رنگ کے - زینت دیا گیا

مطرقہ *m.* smiths' hammer. - ہتھوڑا لہاروں کا گھن

مطرود *a.* rejected, excluded, reprobated, repulsed, confuted, *m.* an apostate. نکالا گیا - راندہ شدہ - مردود

مطعام *m.* one who may often feed the people. وہ شخص جو اکثر لوگوں کو کھانا کھلایا کرے

مطعم / مطعوم } food, anything eatable. کھانے کي چیز

مطعومات *pl.* things eatable. کھانے کي چیزیں

مطعون *a.* pierced with a spear. (*met.*) reproached, accused, opprobrious, infamous, defective. نیزہ مارا گیا - برچھي مارا گیا - مجازاً عیب کیا گیا - خوار کیا گیا - معیوب

مطفي *m.* putting out, extinguishing. بجھانیوالا

مطلا *mutalla*, *a.* gilt, gilded, overlaid with gold. طلا کیا گیا - سونے کا ملمع کیا ہوا

مطلاق *m.* one who often divorces his wives. وہ مرد جو اکثر عورتوں کو طلاق دیا کرے

مطلب *n.* name of Mohammad's grandfather. حضرت محمد کے دادا کا نام

مطلب *a.* verbose, prolix, wordy, talkative, an incessant prattler. درازي دینے والا - طول دینے والا - بہت بکنے والا

مطلع *mattala'*, *a.* informed, warned. خبردار کیا گیا - آگاہ کیا گیا

مطلع *mutali'*, rising, perceiving, informed واقف ہونے والا,

مطلع *matla'*, / مطلع *matli'*, } *m.* the place of rising a star, the first couplet of a *ghazal* or ode. - جگہہ کسي ستارہ کے نکلنے کي - پہلي بیت قصیدہ یا غزل کي جسے دونوں مصرعوں میں قافیہ ہو

مطلق *mutalaq*, *a.* free, liberated, released. آزاد - بے قید - قید سے رہا کیا گیا

مطلق *mutliq*, *a.* releasing, freeing. آزاد کرنے والا - رہا کرنے والا

مطلق *mutallaq*, / مطلقہ *mutallaqa*, } *f.* a divorced woman. طلاق دي ہوئي عورت

مطلق العنان *a.* free, giving the reins. - آزاد باگ چھوٹا ہوا

مطلوب *a.* demanded, required, necessary, wanted, (*met.*) sweetheart, mistress. طلب کیا گیا - کنایۃً محبوب اور معشوق سے

مطمح a butt for archers, a place to keep the eyes up. جگہہ بلند رکھنے نظر کي

مطمع a thing devised or wished for. جگہہ طمع رکھنے کسي چیز کي - جگہہ امید اور لالچ کي

مطمورہ *m.* concealed, hid, secreed, bye-room, concealed, drawer, a cavern, a cellar, a vault, a room underground. پوشیدہ اور پنہاں کیا گیا - چھپایا گیا - کنایۃً چور خانے اور تہہخانے سے

مطموع *a.* thing desired or wished for, longed for, coveted. لالچ دیا گیا - طمع کیا گیا - وہ چیز جس کا لالچ کیا گیا ہو

مطمئن *a.* quiet, secure, tranquil, at rest, careless. آرام پایا ہوا - بے فکر - اطمینان رکھنے والا

مطنجن / مطنجنہ } *m.* meat fried in a frying pan. توے میں گوشت بھنا ہوا

مطوق *mutawwaq*, *a*. ornamented with a collar or chain (round the neck). جس کو طوق پهنايا گيا هو

مطوي *a*. twisted, coiled. - لپيٹا گيا - لپيٹا هوا - پيچيده شده - پيچيده

مطويات *f*. things twisted or coiled. لپيٹي هوئي چيزيں

مطهر *mutahhir*, *m*. a purifier, a cleanser. پاک کرنے والا

مطهر *mutahhar*, *a*. purified, holy, pure. پاک کيا گيا

مطهر *mathar*, a place for purification, a purgatory. جگهه طهارت کي

مطهره *m*. a vessel from which they pour holy water in ablution. آفتابه - برتن پاني کا جس سے وضو کريں

مطيب *mutaib*, *a*. purified, perfumed. خوشبو دار کيا گيا - پاک کيا گيا

مطيب *mutaiyab*, *a*. becoming pure, perfuming. خوشبو دينے والا - پاک هونے والا

مطير *matir*, *a*. dropping, raining. برسنے والا

مطير *muttaiyir*, *a*. shameful, utterly abashed, an artist. خجلت زده - شرمنده - پرند جانوروں کي تصوير کهينچنے والا

مطيع *a*. abject, obedient, submissive, obsequious. فرمانبردار - خادم - اطاعت کرنے والا

مطين plastered with mud. مٹي سے ليپا هوا

مطيه *matiya*, any animal used for riding purposes (a horse, camel, etc). سواري کي چيز - گهوڑا - اونٹ - گدها وغيره

مظالم places where the criminals and oppressors, are punished, courts of justice, (also the *pl*. of مظلمه), oppressions, cruelties, injustices, etc. وه مقامات جهاں پر ظالموں اور گنهگاروں کو سزا دي جاتي هے - عدالت کي جگهيں - اور جمع هے مظلمه کي جو بمعني ستم اور بے انصافي کے هے

مظاهر *mazahir*, (*pl*. of مظهر), objects of show, theatrical spectacles. ظاهر هونے کي جگهيں

مظاهر *muzahir*, *a*. helping, assisting, a helper. کسي کو مدد دينے والا

مظاهرت *f*. mutual help, a formula of divorce. (انت علي کظهر امي thy back is like that of my mother.) - آپس ميں ايک دوسرے کي مدد کرنا طلاق کے الفاظ کهنا

مظفر *a*. victorious, conqueror, name of a king. - فتح پايا هوا - فتحمندي ديا گيا - فتحمند ايک بادشاه کا نام

مظل *mizall*, *m*. a canopy, the roof or fly of a tent, سائبان

مظل *muzill*, *a*. shading, bringing into a shad. سايه کرنے والا - سايه ميں لانے والا

مظل *muzall*, *a*. shaded (from the sun.) سايه کيا گيا

مظلم *muzlim*, *a*. dark (night), one who walks in darkness. تاريک

مظلمه *muzlama*, *m*. oppression, tyranny, injustice, cruelty, crying for mercy or justice. داد - بے انصافي - ظلم و ستم کرنا خواهي کرنا - انصاف چاهنا

مظلمه *muzlima*, *a*. dark. تاريک

مظلوم *a*. injured, oppressed. - ظلم رسيده - وه شخص جس پر بے انصافي هوئي هو

مظله *mizalla*, *m*. a canopy. سائبان

مظنون *a*. supposed imagined, suspected. گمان کيا گيا

مظنه *mazinna*, suspicion, conjecture, opinion. گمان لے جانے کي جگهه

مظهر *mazhar*, *m*. a place where any spectacle is represented, a theatre, stage. ظاهر هونے کي جگهه

مظهر *muzahhar*, *m*. strongly backed or supported, helped. مرد قوي پشت - مدد ديا گيا

مظهر *muzhir*, *m*. one who exhibits, displays etc., an informer, claimant, a prosecutor ظاهر کرنے والا

معا *mi'a*, *m*. the gut, the intestines. - انتڑي روده

معاً *adv*. at once, instantly, along with, at the same time. فوراً - اسيوقت - ساتهه هي

معابد *ma'abid*, (*pl*. of معبد), sacred places, temples. - جمع هے معبد کي - پوجا کي جگهيں عبادت کے مقام - پرستشگاهيں

معابر *ma'abir*, ferries, boats, bridges (of the rivers). کشتياں جن پر سوار هو کے دريا سے گذرتے هيں - دريا کے پل

معاتب *mu'atib*, *a* angry, wrathful. غصه کرنيوالا

معاتب *mu atab*, *a*. provoked, made angry. غصه کيا گيا

معاتبت *f*. anger, wrath, resentment. غصه کرنا

معاد the place or state to which one returns, (*met*.) the next world, the judgment day. - جاے بازگشت - لوٹ کر جانے کي جگهه مجازاً آخرت - قيامت -

معادات *f*. enmity, antipathy. - ايک دشمن هونا دوسرے سے دشمني کرنا

معادل *a*. equal, parallel, equivalent. - برابر

معاهدت *f.* a mutual agreement, marrying standing a security for another. باہم ایک بات پر عہد کرنا - نکاح کرنا - ضمانت کرنا

معاقل *f.* dominions, frontiers, boundaries, fortifications, strong castles, places of defence. مشکل قلعے - سرحدیں - جگہیں - مضبوط مکان

معالج *m.* a physician, doctor. - علاج کرنے والا - حکیم

معالجت *f.* } curing, healing, a remedy,
معالجه *m.* } adjustment (for any affair). دارو درمن کرنا - علاج کرنا

معالم (*pl.* of معلم), signs, vestiges, banners. علامات و نشان

معالي (*pl.* of معلی), eminences, highnesses. جمع معلی کي - بلندیاں

معامل *a.* transacting, *m.* a seller, buyer, customer, (in *Sikandarnama*), eager, anxious, desirous, (also) one who is present in a meeting. معاملہ کرنے والا - بیچنے والا - مول لینے والا - اور سکندر نامہ میں کنایہ مشتاق اور آرزو مند سے - اور کنایہ شریک محفل سے بھي

معان *f.* help, assistance. مدد

معاند *m.* an enemy, opponent, rebel. دشمني کرنے والا - دشمن

معاندت enmity, rebellion. باهم دشمني کرنا

معانس *f.* unmarried young women. بن بیاهي جوان عورتیں

معانق one who embraces another. - گلے لگنے والا - وہ شخص جو کسي سے گلے ملے

معانقه *m.* throwing the arms round another's neck, embracing. آپس میں بغلگیر هونا - گلے ملنا

معاني (*pl.* of معني), desires, wishes, significations, senses. جمع معني کي - مطلب - مرادیں

معاود one who returns (to a former habitation), one who comes and goes. بازگشت کرنے والا - پھر کرانے والا - لوٹنے والا

معاودت *f.* act of returning (to a former habitation), coming or going. - لوٹ آنا - پھر کر آنا

معاوضت *f.* retaliation, returning like for like. عوض کرنا - بدلہ کرنا

معاون *m.* assisting, an assistant. - مدد گار - مدد دینے والا

معاونت *f.* assistance. مدد کرنا - یاري کرنا

معاهد *m.* a confederate, an ally, one forming a compact. عهد کرنے والا

معادلت *f.* equality, equation, evenness, doing justice. - برابري - مساوات - عدل کرنا - انصاف کرنا

معادن (*pl.* of معدن), mines, quarries. جمع معدن کي - کھانیں

معاذ place of refuge, giving shelter, flying to God. جاے پناہ - پناہ دینا

معاذ الله (*ori.* عوذ معاذالله I seek refuge with God), God be our refuge, May God forbid. پناہ چاهنا خدا سے

معاذیر *m.* excuses, pleas. عذر - بهانے

معارج (*pl.* of معراج), stairs, steps, ladders. جمع معراج کي - سیڑھیاں

معارض *m.* adversary, contentious, quarrelsome. جھگڑا کرنے والا

معارضه *m.* opposition, contradiction, quarrel, contention. جھگڑا - مناقشه

معارف *m.* acquaintances, doctors, famous men. آشنا لوگ - اهل علم و فضل - نامور لوگ

معارک (*pl.* of معرکه), battle-fields. میدان جنگ کے

معارکت *f.* fighting against each other. آپس میں جنگ کرنا

معاش *f.* means of living, livelihood, subsistence, also place of living, the world. زندگاني کرنا - وہ چیز جس سے زندگاني کي جائے - زندگي کي جگھہ - دنیا کو بھي کھتے هیں

معاشر *m'ashir*, (*pl.* of معشر), a company of friends, band, company, crew.

معاشر *mu'ashir*, *m.* a companion, friend. هم صحبت - رفیق

معاشرت *f.* living and eating together, associating. - آپس میں مل جل کر زندگي بسر کرنا - کسي کے همراہ عیش کرنا

معاصر (*pl.* معاصرین), contemporary, coeval. جمع معاصرین کي - هم عصر - هم عهد - هم زمانه

معاصي (*pl.* of معصیه), sins, crimes. بهت سے گناہ

معاضد *m.* a helper, assistant, a friend. مدد گار - یاري دینے والا

معاضدت *f.* help, assistance, support. مدد دینا - یاري کرنا - ایک دوسرے کا بازو هونا

معاطفت *f.* kindness, favour. مهربانی کرنا

معافي *a.* forgiven, remitted. بخشا گیا - عفو کیا گیا

معافي one who forgives. معاف کرنے والا

معاقب *a* punishing. عذاب کرنے والا

معاقبت *f.* chastisement, penalty. - عذاب کرنا - یعني باندھنا اور مارنا کسي کو

معاقد *a.* pledging marrying, making an agreement, covenanting. گرو دینے والا - عقد کرنے والا - عهد باندھنے والا

معاهد *m.* confederacy, alliance. آپس میں عہد و پیمان باندھنا

معائب (*pl.* of معیب), vices, blemishes, defects. جمع ھے معیب کی بمعني عیب

معائش (*pl.* of معشیت), means of living. جمع ھے معشیت کي - اسباب زندگي کے

معاینہ *m.* beholding. کسي چیز کو آنکھہ سے سامنے دیکھنا

معبد *ma'bid, m.* a place of worship, temple, mosque, church, synagogue, (*esp.*) a church. پرستشگاہ - جائے عبادت - خصوصاً نصاری کا عبادت خانہ

معبد *mua'bad, a.* adored, worshipped. عبادت کیا گیا

معبد *mua'bid, m.* an adorer, worshipper. عبادت کرنے والا

معبر *mi'bar, n.* a ferry-boat, bridge (of a river). کشتي - وہ شے جس کے سبب سے دریا سے پار اُتریں - دریا کا پل

معبر *ma'bar, m.* a pass, ferry, ford. جگہہ عبور دریا کي - رھگذر - جگہہ گذرنے کي دریا سے

معبر *mu'abbir, m.* an interpreter of dreams. تعبیر خواب کي کرنے والا

معبر *mu'abbar,* interpreted. تعبیر کیا گیا

معبلہ *m.* long and broad head of an arrow. پیکاں دراز و چوڑا

معبود *m.* adored, worshipped, God. عبادت کیا گیا - پوجا گیا

معتاد *m* custom, habit, use, size, weight, bulk, *a.* accustomed, want. - عبادت کیا گیا هر روز کي مقدار جتني عادت هو

معتبر *a.* confidential, trustworthy, reliable, respectable, worthy of confidence, reputable. اعتبار کیا گیا

معتدا (orig. معتدي) rebellious, cruel. حد سے گذرنے والا - بڑا ظالم

معتدبہ *a.* numbered, reckoned, confidential, trustworthy. شمار گرفتہ شدہ - قابل اعتبار

معتدل *a.* temperate, tolerable. - مساوي مزاج جس میں زیادتي اور کمي نهو

معتذر excuser, one who offers, excuses, apologist. عذر کرنے والا

معترض *a.* objecting, opposing, hindering, interposing. اعتراض کرنے والا

معترف *a.* acknowledging, confessing, one who acknowledges. اقرار کرنے والا

معتزل *m.* one who secedes or separates (especially in religious matters). - گوشہ نشیں یکسو هوکر بیٹھنے والا

معتصم *m.* seeking shelter, asking help, servant, attendant. *a.* preserved, secure. پناہ لینے والا - مدد مانگنے والا

معتضد *a.* seeking assistance. مدد مانگنے والا

معتقد *m.* a believer, a faithful friend or servant, a supporter. اعتقاد رکھنے والا - دل سے یقین رکھنے والا

معتکف *a.* assiduous in prayer, religious, devout, abstinent. مسجد میں عبادت کے لئے بیٹھنے والا - کسي چیز سے باز رهنے والا

معتل *a.* becoming sick. بیمار هونے والا

معتمد *mu'tamad,* trustworthy, confidential. جس پر اعتماد کیا گیا هو

معتمد *mu'tamid, a.* believing, confiding in, *m.* a believer. کسي پر اعتماد کرنے والا

معتني attendance on the sick, supervision. کسي کي بیمار داري کرنے والا - اهتمام کرنے والا

معتوب *a.* provoked, excited. غصہ کیا گیا

معجب *m.* a vain fop, selfish, one who has a very high opinion of himself not shared in by other people, giving one's-self airs, acting with affectation. متکبر - غرور والا - خود پسند - ناز کرنے والا - اترانے والا

معجر *n.* a mantle, a veil. اوڑھني - اوڑھنے کا دوپٹہ

معجز } *m.* a miracle. عاجز کرنے والا - وہ بات جو
معجزہ } خلاف عادت هو - نبي کي کرامات

معجزہ *m.* a miracle. The term معجزہ is applied only to that miracle which is performed by first-rate prophets, those wrought by inferior personages are termed کرامات, and that wrought by an infidel is termed استدراج. عاجز کرنے والا - اگر کسي نبي سے اس قسم کي بات خلاف عادت سرزد هو تو اُسے معجزہ کہتے هیں - اگر کسي ولي سے هو تو اوسے کرامات کہتے هیں - اور اگر کسي کافر سے سرزد هو تو اوس کو استدراج کہتے هیں

معجل *mu'ajjil, a.* prompt, done without delay. جلدي کیا گیا - بے مہلت

معجم } *m.* dotted letters (of the alphabet).
معجمہ } وہ حروف جن پر نقطہ هوں

معجم *mu'ajjam,* } those letters which
معجمہ *mu'ajjama,* } are purely Arabic but used mostly by the Persians, as if belonging to their own dialect. وہ الفاظ جو در اصل عرب کے هوں مگر اهل عجم اُن کو بہت استعمال کریں اور اپنے کلام کي جنس سے جانیں

معجون *a.* kneaded, leavened, (*chem.*) *f.* an electuary, medicine, confection, an aphrodisiac. گوندھا ھوا ۔ خمیر کیا گیا ۔ طبیبوں کي اصطلاح میں وہ ملي ھوئي چند دوائیں جو شھد یا قند وغیرہ کے قوام میں گوندھیں خواہ پھل مرکب خوش مزہ ھو یا بد مزہ

معد *mu'add,* *a.* got prepared or ready. آمادہ اور تیار کیا گیا

معد *mu'idd,* *a.* preparing, getting ready. آمادہ اور تیار کرنے والا

معدد *mua'dad,* *a.* reckoned, numbered, computed. شمار کیا گیا

معدل النھار the orbit. دائرہ جو آسمان کے بیچوں بیچ ھے

معدلت *f.* equity, justice. عدل ۔ انصاف

معدم *a.* destroying, abolishing. نیست کرنے والا

معدن *m.* and *f.* a mine, a quarry. سونے چاندي وغیرہ کي کھان

معدني *a.* mineral, metallic, *f.* metal, produce of the mine, name of a red worm. وہ شے جو کھان سے نکلے ۔ نام ایک کیڑے سرخ رنگ کا

معدود *a.* numbered, computed, a small quantity. گنا ھوا ۔ شمار کیا گیا ۔ اور تھوڑي چیز

معدولہ *a.* avoided, passed over (as a letter in a word, which, though written, is not pronounced). علاحدہ کیا ھوا

معدوم *a.* non-existent, abolished, annihilated, extinguished, lost. نیست کیا گیا ۔ گم

معدہ *m.* the stomach, the principal organ of digestion, *lit.* hypochondrium. نام ایک عضو کا جو پیٹ میں ھوتا ھے اور جس میں غذا جا کر ٹھہرتي اور ھضم ھوتي ھے

معذار dress, garments, vestment, concealing, covering. پردہ ۔ پوشش

معذب *muazzab,* *a.* punished, tortured, hindered. عذاب کیا گیا

معذب *muazzib,* *m.* one who punishes or tortures. عذاب کرنے والا

معذبہ *mu'azziba,* *f.* torturing, aggrieving. عذاب کرنے والي ۔ رنج و غم میں ڈالنے والي

معذر *mu'azzir,* *m.* an apologist, excuser, artful عذر کرنے والا ۔ بہانہ اور حیلہ کرنے والا

معذرت *f.* an excuse, apology, trick, artifice, deceit. عذر کرنا ۔ حیلہ کرنا ۔ عذر ۔ بہانہ ۔ حیلہ

معذل *mu'azzal,* *a.* censured, blamed, reproached, reproved, reviled. ملامت کیا گیا

معذور *a.* excused, excusable, disappointed. عذر کیا گیا

معذول *a.* reproached, censured, rebuked. ملامت کیا گیا

معرا *mu'arra,* *a.* bare, naked, empty. برھنہ ۔ ننگا ۔ خالي

معراج *m.* a ladder, stair, anything by which one ascends, ascent, ascension, rank, dignity. اوپر چڑھنے کا آلہ ۔ سیڑھي ۔ مراد مرتبہ سے ھي

معرب *mu'arrab,* *m.* a Persian word appropriated by the Arabians, corruption. عجمي لفظ جس میں عربوں نے تصرف کر کے اپنے کلام کي جنس سے بنالیا ھو

معرب *mu'arab,* *a.* punctuated, manifested, clear. زیر زبر پیش دیا ھوا ۔ ظاھر ۔ آشکارا

معرب *mu'rib,* one who explains, one who punctuates, salacious, obscene, talking indecently. بیان کرنے والا ۔ اعراب دینے والا فحش بکنے والا

معربد *a.* quarrelsome, pugnacious, contentious, litigious, of evil temper. لڑاکا ۔ بدخو ۔ جنگجو

معرج *mi'raj,* *a.* ladder, staircase, steps, especially a scaling ladder. گردبان ۔ سیڑھي

معرج *ma'raj,* place of ascent. جگہہ اوپر چڑھنے کي

معرج *mu'arraj,* *m.* name of a fine embroidered cloth. نام ایک کپڑے نہایت نفیس اور پھولدار کا

معرض *ma'riz,* } *m.* place of appearance, an
معرض *ma'raz,* } occurrence, a place of meeting, an occasion, a contingency. جگہہ کسي چیز کے ظاھر ھونے کي ۔ جاے عرض

معرض *a.* turning away the face, abandoning. رو گرداني کرنے والا ۔ منھہ پھیرنے والا

معرف *mu'arrif,* *a.* praising, defining, describing, a macebearer, a servant whose business is to announce the arrival of a company. تعریف کرنے والا ۔ پہچنوانے والا ۔ اور کنایہ چوبدار سے

معرف *mu'arraf,* *a.* recognised, praised. پہچانا کیا ۔ تعریف کیا گیا

معرفت *f.* knowledge, recognitions, account, cause, reason, deposit, trust. شناخت ۔ پہچان ۔ پہچانا

معرق causing perspiration, producing sweat. پسینہ لانے والي شے

معرکہ *m.* a field of battle. میدان جنگ

معرکہ گیر *m.* wrestlers, rope-dancers, etc. کشتي گیر

معروري *m.* one who rides on the bare back of a horse. سوار گھوڑے کے ننگي پیٹھ کا

معروض *a.* presented, offered, submitted, (*sub.*) a representation, a petition. - عرض کیا گیا پیش کیا گیا

معروف *a.* known, famous, goodness, name of a *Wali* (a religious man), (in gram.) Active voice of a verb, the letters, and ے are said to be معروف when the former has the sound of *oo* in *mood* or of *u* in *rule* and the latter of *ee* in *feel* or *i* in *machine*, as in the words نور splendour, and فیل an elephant. پہچانا ہوا - مشہور اور بمعني نیکي کے بھي نام ایک ولي کا - علم صرف کي اصطلاح میں وہ فعل جو فاعل کے طرف نسبت رکھتا ہو و مجہول وہ فعل جو نسبت طرف مفعول کے رکھتا ہو

معز *ma'z, m. and f.* sheep goat بکري بکرا (ایک طرح کا بھیڑ)

معز *mu'azz, m.* honoured, respected, esteemed. عزت لہانیا - عزت دیا گیا

معز *mu'izz, m.* one who honours or blesses, a title of God. عزت دینے والا نام خدا کا

معزي *mu'azzi, m.* a mourner melancholy. سوگو ر ماتم زدہ

معزز *mu'azzaz, m.* honoured, revered, esteemed, honourable, exalted. - عزت کیا گیا عزت دار

معزم *mu'azzim, a.* magician, a charmer, sorcerer, enchanter عزیمت خوان - افسونگر - منتر پڑھنے والا

معزم *mu'azzam, a* enchanted, charmed- وہ شخص جس پر منتر کیا گیا ہو - افسون زدہ

معزول *a.* dismissed from office, degraded, deposed, disposted, displaced. - بیکار کیا گیا بیکار

معزي *mu'azzi, m.* one who condoles. ماتم پرسي کرنے والا

معسر *mu'sir, a.* poor, indigent, needy. - مفلس غریب - محتاج

معسر *mu'assar, a.* difficult, arduous, hard. مشکل - دشوار

معسکر *f.* a camp, cantonments. فوج - لشکر گاہ کي چھاوني

معشار levying a tithe on. وہ یکي لینا

معشر *ma'shar, m.* relatives, kindred, a company, a troop, a society. اقارب - گروہ - عزیزوں اور دوستوں کا - رشتہ دار لوگ

معشر *mu'ashshar,* a decagon or anything made up of or relating to the number ten. وہ چیز جس کے دس گوشے ہوں

معشوش *a.* collected, gathered, *m.* a garment full of patches. انٹھا کیا گیا - جمع اور یکجا کیا گیا - وہ پیراهن جس میں بہت سے پیوند ملے ہوں

معصر *mi'asir,* } *m.* an oil-press, anything
معصرہ *mi'asara,* } for squeezing, wringing or pressing out. اوزار نچوڑنے کا - تیلي کا کولھو

معصر } *m.* juice, essence, sap. نچوڑا ہوا
معصرہ } عرق وغیرہ - نچوڑي ہوئي چیز

معصفر anything dyed with safflower. وہ چیز جو کسنبھہ کے رنگ میں رنگي گئي ہو

معصفر *m.* Khaqani uses this word in the meaning of a safflower or bastard saffron (*Carthamus tinctorius.*) خاقاني اپنے سخن میں اس لفظ کو بمعني گل کا جیرہ یعني کسنبھہ کے لیا ہ

معصم *mi'asm,* the wrist, the braceletplace. کلائي جہاں عورتیں کنگن پہنتي ہیں

معصوم *a.* defended, preserved, simple, (*sub*) an infant. - بچایا گیا اور نگاہ رکھا گیا گناہ سے بیگناہ

معصیت *f.* disobedience, sin, rebellion. - گناہ نافرماني

معضل *m* difficult, hard task, arduous affairs. دشوار - مشکل کام

معضلات *f.* difficulties, troubles, arduous affairs, perplexing questions. - مشکلیں دشواریاں

معطر *mu'attar, a.* perfumed, fragrant. خوشبو کیا گیا - خوشبودار

معطش *mu'attish, a.* producing thirst. پیاس لگانے والي شے

معطل *mu'attal, a.* unemployed, idle, vacant, unemployed (applied especially to an official who has been suspended or dismissed), neglected, destitute, out of use, fallow-land. بیکار - خالي کام سے

معطوف *a.* twisted, turned, conjoined, coupled. لپٹا ہوا - لپیٹا ہوا

معطي bountiful, munificent, liberal, kind, forgiving. عطا اور بخشش کرنے والا

معظم *mu'azzam, a.* honoured, respected, great. بزرگ - بزرگي دیا گیا

معظمات *mu'azzamat, f.* great things. بزرگ چیزیں

معفو *a.* forgiven, pardoned. معاف کیا گیا

معقب *mu'aqqib*, *a.* coming late, delaying. پچھلے آنے والا - کسي کام میں دیر کرنے والا

معقد *ma'qad*, place of tying or patching. جگھہ باندھنے کي - جگھہ پیوند لگانے کي

معقد *mu'aqqad*, *a.* knotty, complicated, hard, intricating. گرہ لگا ھوا - بہت بندھا ھوا - وہ سخن جو دقیق اور مشکل ھو

معقل *mu'aqqal*, *m.* a camel whose leg and calf are tied up with a rope. وہ اونٹ جس کے ھاتھہ اور پنڈلي رسي سے بندھي ھو

معقود *a.* formed into a knot, tied. گرہ لگایا گیا - باندھا گیا

معقول *a.* tied, reasonable, probable, just, pertinent, proper. بندھا ھوا - عقل میں لایا گیا - مناسب - پسندیدہ - اچھا

معک *ma'ak*, "with thee." ساتھہ - تیرے

معکوس *a.* inverted, back wards اولٹا - اوندھا

معلي *mu'alli*, *a.* exalted, elevated, sublime. بلند کیا گیا - برتر

معلي *mu'alla*, *m.* sublimity, elevation, exaltation. بلندي

معلف *mi'laf*, *m.* an instrument for scraping grass for horses. وہ چیز جس سے گھوڑوں کے لئیے گھاس چھیلي جاے - کھرپا

معلف *mu'alaf*, a place where the horses eat grass, a stable. گھوڑوں کے گھاس کھانے کي جگھہ

معلق *mu'allaq*, *a.* suspended, pendulous, hanging, (in law) pending, undecided. لٹکا ھوا

معلقات *pl.* things suspended, generally applied to certain celebrated Arabian poems, that had the honour of being suspended in the temple of Mecca. لٹکي ھوئي چیزیں

معلق tumbling, juggling, a juggler, a rope dancer. کلا کرنے والا - بازي کرنے والا - نٹ - ناچنے والا

معلق زدن }
معلق نشیدن } to tumble, juggling. کلا کرنا - بازي کرنا

معلم *mu'allim*, *m.* an instructor, a preceptor, a pilot, sailor. سکھانے والا - اُستاد - جھاز کا نا خدا - کشتي کا ملاح

معلم *mu'allam*, *a.* taught, instructed. تعلیم دیا گیا - سکھلایا گیا

معلم *mu'lam*, *a.* painted, embroidered, sculptured, ornamented. نقاشي کیا گیا - نقشدار

معلم *mi'lam*, *a.* notable, distinguished by a articular mark or badge. علامت - نشاني

معلم اول (refers to) the Grecian philosopher Aristotle for it was he who wrote philosophical books first, and taught to his pupils, formerly it was taught orally. کنایہ ارسطو حکیم سے اس لئیے کے پہلے پہل اسي نے علم حکمت کو کتاب میں لکھکر شاگردوں کو پڑھایا ھے اور اس کے پیشتر حکما شاگردوں کو زباني تعلیم دیتے تھے

معلم ثاني (refers to) Abu Nasr Farabi, who translated the philosophical books into Arabic for the use of the students. ابو نصر فرابي اس لئیے کہ کتب حکمت کو اس نے عربي زبان میں ترجمہ کر کے شاگردوں کو پڑھایا

معلم الملائک *m.* a title of Satan. لقب شیطان کا

معلول *a.* indisposed, distempered, caused, pretended. علت کیا گیا

معما *mu'amma*, *m.* hidden, concealed, blinded, (*fig.*) an enigma a riddle, an acrostic, a verse of mysterious meaning, rebus or charade. پوشیدہ چیز - چھپي ھوئي چیز - اندھا کیا گیا - اصطلاحاً بمعني چیستان - پھیلي

معمر *mu'ammar*, *a.* blessed with long life, aged, old, matured in years. آباد کیا ھوا - بہت سال - بوڑھا - سن رسیدہ

معمان severity of the weather during summer, intensity of heat. موسم گرمي کي شدت

معمم *mu'ammam*, *m.* a man putting on a turban. وہ شخص جو پگڑي باندھے ھو

معمور *a.* full, abounding in, stocked with, cultivated, happy, delightful, closed. بھرا ھوا - پر - آباد

معمورہ *m.* a cultivated or inhabited spot. بستي - شھر

معمول *a.* acted upon, made prepared, customary, practised, established, *m.* custom, habit. عمل کیا گیا - وہ بات جو روز مرہ کیجاوے

معن *n.* name of an Arab who was a very liberal and ambitious. نام ایک شخص کا عرب میں جو نہایت سخي اور بلند ھمت تھا

معنبر *a.* perfumed with amber, black. وہ چیز جس میں عنبر ملا ھو - خوشبودار - سیاہ رنگ

معنبر دام (*met.*) the locks of a mistress. کنایہ معشوق کے سر کے بالوں اور زلف سے

معنبر سائبان (*met.*) the eyebrows of a mistress. کنایہ معشوق کي ابرون سے

معنون *a.* prefaced. دیباچہ کیا گیا

معنوي *a.* essential, intrinsic, real, significant,

معني m. Intended, meaning, sense, signification, reality, wish, intention, desire. قصد کیا گیا - جگهه قصد کي - مطلب - مراد - مضمون - اس کے آخر میں الف مقصوده هے مگر فارسي میں یاے معروف سے بروزن مرضي مستعمل هے

معني بکر m. a new subject. نیا مضمون جس کو پہلے کسي نے نظ باندها هو

معوج a. crooked, bent. - خم - کج ٹیڑها

معوضت f. anything given in exchange for another. وه شے جو کسي شے کے عوض میں دي جاے

معوق mua'wwaq, a. confined, hold back, forbidden, (met.) difficult, hard. - باز رکها گیا قید میں رکها گیا - مجازاً بمعني مشکل اور دشوار

معول mu'awwal, } beleived, confided in,
معول ma'ul, } trusted اعتماد کیا گیا

معول mi'wal, m. a mason's axe. پتهر کاٹنے کا بسولا

معون m. aid, assistance, favour. مدد - یاري

معونت f. assistance, protection, help. مدد کرنا - مدد - یاري

معهذا mu'ahaza, along with that, in addition to that, nevertheless. بوجود اس بات کے - ساتهه اس بات کے

معهود a old, agreed, promised, established, fixed, appointed determined. - پرانا - قدیم کهنا - عهد کیا گیا - پیمان کیا گیا

معیار m. a touchstone, a gold smith's scale, the mark or standard of money, weight or measure. - سونا یا چاندي کے کسنے کي کسوٹي سونا چاندي تولنے کا کانٹا

معیب a. defective, deficient, faulty. - عیب دار عیب کرنے والا

معیت ma'iyat, f. being together, co-existence, sometimes it refers to the verse. "ان الله مع الصابرين" همراهي پن - ساتهه پن -

معید doing a thing repeatedly, revising, visiting (the sick). اعاده کرنے والا - بار بار کسي کام کا کرنے والا

معیر m. a lender, furnishing on condition of the thing being returned. کسي کو کوئي چیز رعایت یعني مانگے دینا

معیش } f. food and other necessaries of
معیشت } life, subsistence. - سبب زندگي زندگاني - زندگي کرنا - وه چیز جس سے زندگي گذرانیں

معیل m. a man burdened with a large family. وه شخص جس کے لڑکے بالے بهت سے هون

معین mu'in, m. an assistant, helper. مدد کرنے والا

معین ma'in, a. flowing, current. جاري - روان جاري پاني

معین mu'aiyan, a. established, ascertained, certified. مقرر کیا گیا - خاص کیا گیا

معیوب ma'yub, a. defective, wicked, vicious, opprobrious, infamous. عیب کیا گیا - عیب دار

مغ magh, f. depth, profundity. گهراؤ

مغ mugh, m. a fire-worshipper. آتش پرست

مغابن m. the groin. [illegible]

مغاث name of a medicine which is the bark of a wild tree. نام ایک دوا کا جو ایک جنگلي درخت کي چهال هے

مغار } m. a cave, a den, a cavern, plunder.
مغاره } وه غار جو پهاڑ میں هو - پهاڑ کي کهو

مغازلت f. saying amatory sonnets in praise of each other. آپس میں غزل کهنا

مغاضبت f. anger, wrath. کسي پر غصه کرنا

مغاک m. a pit. گڑها

مغالبت f. predominance, superiority, seeking predominance over some one. کسي پر غلبه ڈهونڈهنا

مغالطه m. leading into error, mutual mis understanding. کسي کو غلطي میں ڈالنا

مغان (pl. of مغ), fire worshippers, name of a place in Azurbaijan. جمع هے مغ کي آتش پرست لوگ - نام ایک شهر کا آذر بائجان میں

مغانه like the fire-worshippers. آتش پرستوں کي طرح

مغائرت f. disagreement, repugnance, barter, باهم غیر هونا - مخالفت

مغبوط } m. envied, hated. محسود - حسد
مغبوطه } کیا گیا - رشک کیا گیا

مغبون m. one who has sustained a loss. Injured, harmed, damaged. وه شخص جس کو نقصان پهونچا هو - زیان پهونچا هوا

مغتبط a. envied hated. محسود - حسد کیا گیا

مغتنم a. enriched, possessed of, enjoying. غنیمت معلوم کیا هوا - غنیمت کیا گیا

مغرا a. astonished, wondered, surprised at, glued. تعجب انگیز - تعجب کیا گیا - سریش سے چپکایا گیا

مغرب mughrib, a disappearing, going far. غائب هونے والا - دور جانے والا

مغرب maghrib, m. the west, the western regions, generally applied to the north coast of Africa. جگهه چهپنے سورج کي - پچهم

مغربي f. a gold coin. ایک قسم اشرفي سے

مغرس *m.* the excavation in which a tree is to be planted. جگهه بيٹهانے درخت كي - تهالا

مغرف *m.* one who drinks water with the palm of the hand. چلو سے پاني پينے والا

مغرفه *m* a spoon, a ladle, a skimmer. - ڈوئي كفگير - ڈنڈهه

مغرق *mugharraq*, *a.* glittering, brilliant. مردي - معقي - جهكول - چمكدار

مغرق *maghruq*, *a* drowned immersed, plunged in water. ڈوبا هوا - غرق كيا گيا

مغره *m.* a kind of red earth or ochre. ايک سرخ رنگ كي مٹي جسے هندي ميں گيرو كهتے هيں

مغري *a* viscous, glutinous, clammy, instigation (to war). چپكنے والا - لسدار - كسي كو جنگ پر ابهارنے والا

مغز پالوده *m.* weak brain. مغز ضعيف

مغز كردن *id.* to talk. بات كرنا

مغز سر كردن *id.* to be quiet. چپ هونا

مغز در سخن سوختن *id.* losing the control of the tongue while under the influence of anger. بے انتظامي بات كرنے كي غصه اور غضب كے وقت

مغزل *m.* a spindle چرخه كا تكلا

مغززين *m.* a kind of *Halwa*, flavoured with pistachio nut and kernels of almond. ايک قسم حلوا كي هے جس ميں مغز بادام و پستهٔ پڑتا هے

مغسل *m.* one who gives a bath. غسل دينے والا

مغسل *mughsal*, bathed. غسل ديا گيا

مغسل *m.* a bagnio, a bath, a place where a dead body is bathed. جگهه غسل كي - مرده نهلانے كي جگهه

مغسول *a.* washed, bathed. دهويا هوا - غسل ديا گيا - نهلايا گيا

مغشوش embezzled, counterfeited, base (as coin), forged (a bank note), defective, faulty. خيانت كيا گيا - كهوٹ ملايا هوا - غير خالص

مغشي *a.* unconscious, fainting, being stupefied. بيهوش - جس پر غشي آگئي هو

مغص *m.* writhing, pinching pain in the bowels *lenesmus*, gripe, stomache-ache. مروڑا - پيچش - شكم كي انتڑي - پيٹ كا درد

مغضب *a.* warthful, full of anger, resentful, provoking, exciting. غصه والا - غضب اور غصه دلانے والا

مغضوب *m.* the victim of anger. وه شخص جس پر غصه كيا گيا هو - غضب كيا گيا

مغفر *m.* a helmet. لوهے كا خود

مغفرت *f.* forgiveness, pardon, remission, absolution. بخشش - گناه بخشنا

مغفور *a.* pardoned. بخشا گيا - مغفرت كيا گيا

مغل *m.* a Moghul, the premier tribe of Turkestan, wicked, simple-minded. ايک فرقه كا نام جو اعلي قوم تركستان كي هے - اور بدمعني شرير اور ساده دل كے بهي آيا هے

مغلاق *m.* a lock, the door-chain. قفل - زنجير دروازه كي

مغلطه *m.* an improper question, an error in speech. وه مقام جهاں لوگ شبهه اور غلطي ميں پڑيں

مغلظه *a.* fleshy, thick, heavy, hard, severe, strong, firmly established, severe or heavy (applied to a fine or mulct for blood). - موٹا دلدار - سخت - مضبوط - اور استوار كيا گيا

مغلق } مغلقه } *m.* a closed door, abstruse, difficult of comprehension, profound in meaning. بند دروازه - اور مشكل كلام جسكے معني كا سمجهنا آسان نهو

مغلوب *a.* conquered, overcome, subdued, overpowered. عاجز - غلبه كيا گيا

مغلوق *m.* a door closed. دروازه بند كيا هوا

مغلول an iron collar put round the neck, a collar of punishment was put (round the neck). لوهے كا طوق گردن ميں ڈالا هوا - عذاب كا طوق ڈالا گيا

مغمد *mughammad*, concealed, hidden, a sheathed sword. پوشيده كيا گيا - چهپايا هوا - تلوار غلاف ميں كي هوئي

مغمز *m.* conniving, winking, giving a hint by the eyelids, a tell-tale, a tale-bearer, back biter, informer. آنكهه اور بهوں سے اشاره كرنے والا - چغلخور - لترا

مغمور *a.* plunged in, immersed, drowned. ڈوبا هوا - غرق شده

مغموز *a.* defective, faulty, vicious, wicked. معيوب - عيب دار

مغموم *a.* grieved, sorrowful, sad. غمگين - رنجيده

مغني *m.* a singer, a musician. گانے والا - كريا - قوم

مغنيه *mughanniya*, *f.* a female-singer. گانے والي - قوصفي

مغيب *a.* disappearing, concealing, hiding. غائب هونا - غائب شده

مغيب *mughaiyab*, *a.* concealed, hidden. غائب كيا گيا

مغيث *m.* one who attends to a complaint, a defender. فرياد رس - وه شخص جو كسي كي فرياد كو پهونچے

مغير *m.* a plunderer, expeditious, speedy, prompt. غارت كرنے والا - شتاب اور جلدي كرنيوالا

مغيل } مغیلان } n. the acacia tree, the Egyptian or Arabian thorn. - ببول کا درخت - کیکر

مفاتح (pl. of مفتح), keys, (also pl. of مفتح) treasures. جمع مفتح بمعني کنجي کے - اور جمع مفتح بمعني خزانہ کي

مفاتیح (pl. of مفتاح), keys. - جمع مفتاح کي کنجیاں

مفاجا (cont. from مفاجات), sudden, unexpected. مخفف مفاجات کا - ناگاہ

مفاجات f. sudden, unexpected, sudden death. ایکانک ہونا - دفعتاً ہو جانا - ناگاہ ہو جانا

مفاخرت f. boasting, glorying, arrogance. ناز و فخر کرنا کسي کے ساتھہ بزرگي اور ہنر میں

مفاخر n. } مفاخرہ f. } a boaster, arrogant, proud. فخر کرنے والا

مفارق mufariq, a. distinguishing. فرق کرنے والا

مفارق mafariq, pl. of مفرق (means) a line on the top of the head where hair is parted. جمع مفرق کي جو بمعني تارک سر یعني سر کے بالوں کي مانگ کے ہے

مفارقت f. separation, alienation, absence جدائي

مفارہ mafarra, m. a mouse's hole. چوہے کے رہنے کا بل

مفاز place of arrival. پہونچنے کي جگہہ

مفازہ m. place of liberation or escape, place of conquest, place of success, (met.) wood, jungle. جگہہ رہائي پانے کي - جگہہ فیروزي و فتح کي جگہہ - جگہہ کامیابي - مجازاً بمعني جنگل بیابان

مفاسد (pl. of مفسدت), evils. برائیاں - خرابیاں

مفاصل (pl. of مفصل), the joints. - جمع مفصل کي ہاتھہ اور پاؤں کے جوڑ و بند

مفاصلہ m. distance, space, interval, separation from each other. ایک دوسرے سے جدا ہونا - بڑھي فرق

مفاوز (pl. of مفاز), destinations. - جمع مفاز کي پہونچنے کي جگہیں - منازل

مفاوصت f. consultation. مشورہ کرنا

مفاوضہ m. company, association, equality, letter writing, (met.) coitus.

مفاوضات f. letters written from the elders to the youngers. وہ مکتوب جو بڑے چھوٹوں کو لکھیں

مفتاح (pl. مفاتیح), a key. کلید - کنجي

مفتح muftah, a treasure, place of opening or conquest. جگہہ - خزانہ - جگہہ کھولنے کي - فتح کي

مفتح miftah, f. a key. کلید - کنجي

مفتتات f. lithontriplica, (in medicine), drugs, etc. which tend to dissolve a calculus in the bladder.

مفتخر muftakhir, a. boasting, gasconading, vaunting, contending for superiority. فخر کرنے والا - برائي اور شیخي کرنے والا

مفتخر muftakhar, a. venerated, honoured, exalted, sublime, high, great. - فخر کیا گیا بزرگ

مفترضات f. bounden duties, lawful, proper. وہ چیزیں جو واجب کي گئیں ہیں

مفتروم a. branched, divided. شاخ کیا گیا

مفترق m. a distinguisher. علحدہ اور فرق کرنے والا

مفتري m. a slanderer, liar, calumniator. بہتان لگانے والا - کسي پر تہمت اُٹھانے والا - جھوٹھہ بات بنانے والا

مفتش m. a seeker. ڈھونڈھنے والا

مفتقد a. lost, investigated minutely, inquired. گم کیا ہوا - کہویا ہوا - باز پرس کیا گیا

مفتقر a reduced to poverty, poor, needy. محتاج - فقیر

مفتل a. twisted, coiled. بٹا ہوا - بل دیا ہوا

مفتنین m. a fomenter of disturbances, querulous, contentious people. - فساد اُٹھانے والے فتنہ انداز لوگ

مفتوح a. opened, taken, conquered, subdued (as a town, etc.), (in gram.) having the short vowel fatha. کہولا گیا - فتح کیا گیا

مفتول a. twisted, formed by convolution (as ropes). بٹا ہوا - کئي تار آپس میں بٹے ہوئے

مفتون a. disturbed, insane, fascinated, mad with love. - فتنہ میں ڈالا ہوا - شیفتہ - مبتلا عاشق

مفتي m. a law giver, a judge. (Among the Turks) the supreme head of the law. فتوی دینے والا

مفخر mufakhkhar, a glorious, held in high honour. فخر کیا گیا - بہت بزرگ

مفخر mafkhar, a. boasting, glorying. فخر کرنا - ناز کرنا

مفخم mufakhkham, a. greatly honoured, venerated, exalted, a grandee, great, honourable. بزرگ رکہا گیا - بہت عزت اور حرمت رکہا گیا - بڑا بزرگ

مفر mafarr, an asylum, a refuge. جگہہ بہاگ جانے کي - جگہہ جہاں آدمي کسي آفت سے بہاگ کر جائے

مفر mufirr, m. a fugitive. بہاگنے والا

مفراح m. very glad, very jolly, extremely happy. بہت خوشي کرنے والا

مفرج *mufrij*, *f.* a hen having small chickens. وہ مرغي جس کے پاس چھوٹے بچے ہوں

مفرج *mufarraj*, *n.* a comb. شانہ - کنگھي

مفرج *mu'arrij*, *a.* relieving sorrow, assuaging, comforting. غم کا دور کرنے والا

مفرح *mufarrih*, *a.* exhilarating, an exhilarating medicine, in which rubies are an ingredient. فرحت دینے والا - دوا جو خوش مزہ اور خوشبو اور طاقت دینے والي دل و جگر کي ہو

مفرد *mufrad*, *a.* solitary, alone, single, singular number, (sometimes in Pers.) obedient slave. وہ جو مرکب نہو - تنہا - فارسي کي اصطلاح میں بمعني بندۂ فرمانبردار کے بھي آتا ھے

مفردات (*pl.* of مفرد), simples, things uncompounded (in medicine). This is the title of various works on Oriental Materia Medica, as مفردات غفي محمد مفردات سکندري etc., letters of the alphabets, written separately, cardinal number from 1 to 10. جمع مفرد بمعني تنہا ني حروف تہجي جو الگ الگ لکھے جاتے ہیں - گنتي ایک سے دس تک

مفرد سوار *m.* a good rider, a jockey, a horse breaker. شہسوار

مفردہ *a.* solitary, alone, single تنہا اکیلا

مفرز *mufarriz*, *m.* a separator. جدا کرنے والا

مفرز *mufarraz*, *a.* separated. جدا کیا گیا

مفرش *m.* a box for keeping clothes, bedding, floor, sleeping suits. صندوق جس میں کپڑے رکھیں - بستر - فرش - رات کے کپڑے

مفرط *a.* vast, excessive. کثیر - زیادہ

مفرق *mufarriq*, *a.* confounding, perplexing. پراگندہ اور پریشان کرنے والا

مفرق *mafriq*, the line, on the top of the head where hair is parted. سر کے بالوں کے دو حصہ کرنے سے جو لکیر پڑ جاتي ھے

مفرور *a.* separated, fled, run away, absconded. جدا کیا گیا

مفروش *a.* spread (as a carpet), bedding. بچھایا گیا - بچھونا

مفروض *a.* required as a sacred duty, indispensable. فرض و واجب کیا گیا

مفروع *a.* disengaged, thrown down, dropped. گرایا گیا

مفروق *a.* separated, divided, dispersed. فرق کیا گیا

مفزع *mafza'*, *n.* asylum, place of refuge. پناہ کي جگہہ

مفزع *mufza'*, *a.* timid, coward, pusillanimous. بزدل - ڈرپوک

مفسد *m.* a seditious person, author of evil, fomenter of disturbance. فساد کرنے والا

مفسدہ *m.* quarrel, strife, litigation, wrangling. فساد - دنگا - بگاڑ

مفسوخ *a.* violated (as an agreement) dissolved (a marriage). فسخ کیا گیا - قول و قرار توڑا گیا

مفسر *muffasir*, *m.* an interpreter, a commentator. معني بیان کرنے والا - تفسیر کرنے والا

مفشوش *a.* stupid, dull, foolish, a liar. سست عقل - بیہودہ - جھوٹا

مفصل *mafsal*, *m.* the joints. بدن کا جوڑ

مفصل *mufassal*, *a.* distinct, full, ample, detailed (account of circumstances), separated. تفصیل کیا گیا - کھول کر بیان کیا گیا جدا کیا گیا

مفصل *mifsal*, (*met*) the tongue. کنایۂ زبان سے

مفضال *v.* very liberal, munificent, bountiful. بڑا احسان کرنے والا - بڑا فضل و بخشش کرنے والا

مفضح ० disgracing, dishonouring. رسوا کرنے والا

مفضل *mufazzal*, multiplied, increased, exalted, given a preference or superiority over others. افزوں اور زیادہ کیا گیا - فوقیت اور برتري دیا گیا

مفضل *mufzil*, *a.* kind, increasing. نیکي کرنے والا - افزوں کرنے والا

مفضول *a.* exalted, given preference. زیادہ دیا گیا - تفضیلت دیا گیا

مفطر *m.* one who opens his fast. روزہ کھولنیوالا

مفطور *a.* produced, cleft, split, sawed, rent. پیدا کیا گیا - چیرا اور پھاڑا گیا - شگافتہ شدہ

مفعول *a.* that which is governed or acted upon, the accusative case, the participle passive. فعل کیا گیا

مفقود *a.* not to be found, missing, wanting, (in law) a person of whom it is not known whether he be alive or dead. - گم کیا ہوا کھویا گیا

مفکر *mufakkir*, *a.* careful. فکر کرنے والا

مفکوک *a.* separated, freed from, released. جدا کیا گیا - چھوڑایا گیا

مفلوج *a.* paralytic, palsied. فالج زدہ - وہ شخص کو فالج کي بیماري ھو

مفلوک *a* unfortunate, poor, needy, wretched. فلک زدہ - مفلس تباہ - تباہ حال

مفوض *mufawwaz*, a. resigned, delivered, committed to the care of. کام کسي کو سپرد کیا هوا

مفهوم a. comprehended, understood. سمجھا یا گیا

مفید a. profitable, useful, salutary. فائدہ دینے والا

مفیض m. one who bestows favours, liberal, munificent. فیض پهونچانے والا

مقابر (pl. of مقبرہ), tombs, sepulchres. جمع مقبرہ کي - قبریں

مقابح f. evils. برائیاں - خرابیاں

مقابل a. opposite, confronting, collecting. سامنے والا

مقابیح f. evils, villanies, wrongs. - برائیاں قباحتیں

مقاتل *muqatil*, m. slaying. باهم لڑ کر قتل کرنے والا

مقاتل *muqatal*, a. fought, slain, killed, slaughtered. جنگ کیا گیا - قتل کیا گیا

مقاتلہ m. slaughter, carnage, battle. باهم قتل کرنا

مقادیر (pl. of مقدار), quantities. - جمع مقدار کي اندازے

مقاربت f. proximity, nearness, drawing near, *coitus*. نزدیکي - قرب - نزدیک هونا کسي شے سے - کنایۃ جماع سے بهي

مقارضہ m. entering into partnership. حصہ داري کرنا

مقارنت f. drawing near together, conjunction, connection. باهم نزدیک هونا - نزدیک کرنا - دو ستاروں کا ایک برج میں ایک درجہ اور ایک دقیقۃ میں اکٹھا هونا

مقاریض (pl. of مقراض), pairs of scissors. جمع مقراض بمعني قینچي کي

مقاسات f. suffering trouble, bearing pain. رنج کھینچنا - دکھ اُٹھانا

مقاسمت f. division of lands or crops, etc., swearing, presenting (a thing). باهم تقسیم کرنا - آپس میں بانٹ لینا - کسي سے قسم کھانا - کسي کو کوئي چیز دے ڈالنا

مقاصد (pl. of مقصد), designs, enterprises, attempts. جمع هے مقصد کي

مقاطعت f. cutting, curtailing. کاٹنا اور قطع کرنا

مقاطع (pl. of مقطع). جمع مقطع کي

مقال m. }
مقالت f. } speech, discourse, saying, sentence, word. گفتگو - بات چیت
مقالہ m. }

مقالید (pl. of مقلید), f. keys. کلید ها - کنجیاں

مقامر n. a gambler, a dice-player. - حریف جواري

مقامرت f. gambling. قمار بازي - جوا کھیلنا

مقادم a. equalling, confronting, opposing, resisting, competing. برابري کرنے والا

مقاومت f. opposition, resistance, competition. برابري کرنا کسي کے ساتھ

مقاهیر (pl. of مقهور), peoples subdued, conquered, oppressed or disturbed. جمع مقهور کي - قهر کئے گئے لوگ - غضب کئے گئے لوگ

مقایسہ m. calculation, guessing. قیاس اور اندازہ کرنا

مقبرہ m. a burying-place, a tomb, sepulchre, monument. قبر - گور مردہ کي

مقبص f. a rope by which a cow's hinder feet are tied at the time of milking to keep her in control. وہ رسي جس سے گائے وغیرہ کے پاؤں باندھیں بوقت دودھ دوهنے کے

مقبض m. handle, hilt. دستہ و قبضہ کسي چیز کا

مقبل a. prosperous, fortunate, favouring, propitious, obedient to God. - صاحب اقبال دولت والا - خدا کا حکم قبول کرنے والا

مقبل a. accepted, brought face to face, honourable, in one's favour, becoming intimate with. - قبول کیا گیا - روبرو کیا گیا - عزت دار - منهہ چڑھا جس کي بات حاکم مانے

مقبوح a wicked, bad, depraved, ugly. - زشت بد - برا - بکوي سے دور رکھا گیا

مقبوض a. taken, seized, occupied, possessed, imprisoned. - قبضہ کیا گیا - قبضہ میں لیا گیا پکڑا گیا

مقبول a. agreeable, acceptable, taking in good part, agreed on, one of the faithful, (*sub.*) a mistress. قبول کیا گیا - مانا گیا

مقت f. enmity. دشمني

مقتبس m. taking light or fire, receiving, acquiring, borrowing from another, one who quotes. روشني لینے والا - آگ لینے والا

مقتحم m. prevailing, conquering, tyrant. غالب - ظالم

مقتدا }
مقتدی } a. followed, imitated, imitable, a leader, a spiritual head. وہ شخص جس کي اور لوگ پیروي کریں - پیشوا - دیني سردار

مقتدر a. powerful, strong. - زور آور - طاقت دار - قدرت رکھنے والا

مقتدي m. an imitator a follower. پیروي کرنے والا - پیرو

مقتر *a.* poor, indigent needy. - فقیر - مفلس محتاج

مقترب *a.* brought near, approximated. قریب لایا گیا

مقتصر *a.* contented with little, summary, abstract. تهوڑے پر صبر کرنے والا - مختصر کرنے والا

مقتضا
مقتضى } *a.* exacted, required, desired; (*sub*); wish, necessity, intention. چاها گیا - خواهش کیا گیا - مجازاً معني مراد مطلب

مقتضب *a.* curtailed, cut, summarized, a metre. قطع کیا گیا - کاٹا گیا

مقتضي *m.* one who exacts or demands, desiring wishing خواهش کرنے والا - چاهنے والا

مقتفي *m.* a follower. پیرو - پیچهے سے آنے والا

مقتل *m.* a place of slaughter, the place of death, any diseased or wounded part of the body that causes death. وہ زمین جهان پر کوئي قتل کیا گیا هو - جگهہ قتل کرنے کي - وہ مقام جهان پر زخم لگنے سے آدمي مرجائے

مقتنص *a* preying, imprisoning, capturing, trading following some profession. شکار کرنے والا - قید اور اسیر کرنے والا - کسب کرنے والا

مقتني *m.* a capitalist, investing a capital. سرمایہ دار - پونجي دار - سرمایہ دینے والا

مقتنیات *f.* wordly goods, property. دنیا کے اسباب - سرمایہ کي هوئي چیزیں

مقتول *a.* slain, killed. قتل کیا گیا

مقدار *m.* quantity, measure space, number. اندازہ

مقدام *a.* brave, valiant, intrepid, heroic. بهادر - شجاع - دلاور

مقدر *muqaddir*, *m.* the Deity (as predestinator.) تقدیر اور اندازہ کرنے والا

مقدر *muqaddar*, *a.* predestined, understood, not expressed, (*sub.*) fate, destiny. تقدیر اور اندازہ کیا گیا - وہ چیز جس پر قدرت اور توانائي هو

مقدرت *f.* power, ability, strength, richness. قدرت توانائي - طاقت - دولتمندي

مقدس *m.* a holy man, consecrated (thing). پاک مرد - پاک چیز

مقدسہ *f.* a holy woman. پاک عورت

مقدم *muqaddam* *a* antecedent, prior, (*sub.*) the headman of a village, the advanced guard. پاک کیا کیا - چودهري

مقدم *maqdam*, *m.* arrival, time of one's arrival. - سفر سے یا کسي اور جگهہ سے پهر کر آنا - کسي شخص کے آنے کے وقت

مقدم *muqdim* *a.* brave, alert active, *m.* the angle of the eye. - دلیر - پیشقدمي کرنے والا - آنکهہ کا گوشہ یعني گویا جو ناک کي طرف هوتا هے

مقدم العین *m.* the angle of the eye. آنکهہ کا گویا جو ناک کي طرف هوتا هے

مقدمة الجیش *m.* the advanced guard of an army, a general, a detachment. وہ شخص جو نہایت بهادري سے لشکر کا هراول هو اور سردار لشکر کا - وہ تهوڑا سا لشکر جو ساري فوج سے آگے بهیجا جائے

مقدمہ *m.* the first part, preface, preamble, case (in law), business, subject, affair, matter. آگے جانے والا - پیش کرنے والا - نخچہ عبارت جو مضمون کتاب کے شروع کرنے سے پهلے لکهي جاے یا وہ مطلب جو پیشتر کها جاے واسطے آساني سمجهنے مطلب کے مجازاً واردات کسي حال کي

مقدور *a.* predestined, possible, *m.* power, ability, possibility, fate. - قدرت کیا گیا - قوت طاقت - زور

مقذع *a.* talking foolishly or indecently, obscene, abusing بیهودہ بات بکنے والا - گالیاں بکنے والا

مقذور *m* impure, filthy, dirty, nasty, a man shunned by all. نجس - پلید - وہ شخص جس سے لوگ پرهیز کریں

مقر *muqarr*, *m.* a residence, station, place of rest, place of settlement - جگهہ اقرار کي جگهہ آرام کي

مقر *muqirr*, *a.* settling (affairs), confusing, establishing, conforming, professing, (in law) one who admits a claim or confesses a crime. اقرار کرنے والا

مقراض
مقراض } *f.* scissors, shears. - کاٹنے کا اوزار کترني - قینچي

مقراض هندي *f.* a kind of scissors for cutting the betel-nut. چهالیا کاٹنے کا مقراض یا سروتہ

مقراضہ
مقراضي } *n.* a kind of *Halwa.* ایک قسم کا حلوا

مقرب *muqarrab*, *a.* approximated admitted, exalted, honoured, (*sub*) relatives, a real friend. نزدیک کیا گیا - بزرگي کیا گیا - مجازاً خاص دوست

مقربہ relationship, kinship. خویشي - عزیزداري

مقرض *f.* scissors, shears. کترني - قینچي

مقرض *muqarraz*, *a.* cut, trimmed. - کاٹا هوا کترا هوا

مقرط *maqarrat*, ornamented with an earring. گوشوارہ سے زینت دیا گیا

مقرعہ m. a cane (for beating), a calender, a whip, lash. - مارنے کي لکڑي - دھوبیوں کي تختي - تازیانہ - کوڑا

مقرم m. a male camel. شترِ نر - اونٹ

مقروض m. lent, a debtor, one who is in debt. قرضدار - وہ شخص جس پر کسي کا قرض ہو - قرض دیا ہوا

مقرون a. near, conjoined, connected, related. نزدیک کیا گیا

مقري m. one who causes or orders to read, a teacher of Quran to the boys, the reader of a mosque (*esp.*) the blind Hafiz (who has the whole Quran by heart). پڑھانے والا - تعلیم دینے والا قرآن شریف کا لڑکوں کو

مقسم *maqsim*, time or place of partition جگہہ تقسیم کي

مقسم *maqsam*, m. part, portion. حصہ

مقسم *muqsim*, swearing (by God). خدا کي قسم کھانا

مقسم *muqsam*. an oath, the place where they swear. قسم - جگہہ قسم کھانے کي

مقسم *muqassim*, a. distributing, dividing, dispersing. تقسیم کرنا

مقسم *muqassam*, a. divided, having a beautiful face, beautified. تقسیم کیا گیا - خوبصورت چہرے والا

مقسوم a. distributed, divided, the quotient, an allotment, a portion. بانٹا ہوا - تقسیم کیا گیا

مقشر *muqashshar*, a. barked, skinned, peeled. چھلکا اونارا ہوا - چھیلي گئي ہوئي چیز

مقص *miqass*, f. scissors, shears. کترني - قینچي

مقصر *muqassar*, a. deficient, defective, lost. کم کیا گیا - تقصیر کیا گیا

مقصر *muqassir*, m. lessening; faulty, defective. کم کرنے والا - تقصیر کرنے والا

مقصود a. intended, aimed at, intention, wish. قصد کیا گیا - ارادہ کیا گیا

مقصور a. abridged, diminished, insufficient, defective. کم کیا گیا - گھٹایا گیا - چھوٹا کیا گیا

مقصورہ m. a closet, a small stool, the place where an Imam stands in a mosque. چھوٹا حجرہ - چھوٹي چوکي - مسجد میں امام کے کھڑے ہونے کي جگہہ

مقضي m. } paid, completed. ادا کیا گیا - تمام کیا
مقضیہ f. } گیا - ادا کي گئي - تمام کي گئي

مقط m. a small piece of ivory, bone, etc., on which oriental penmen nib their writing reeds or *qalams*. قط زن - قط گیر

مقطر *muqattar*, distilled, anything that is let to fall by drops. ٹپکایا گیا - وہ چیز جو قطرہ قطرہ کرکے ٹپکائي جاے

مقطع *muqatta'*, a. cut, cut out, shaped, well-dressed, well-shaped, a manikin, a man of stunted growth. قطع کیا گیا - کاٹا گیا - چھوٹے قد کا آدمي

مقطع *miqta*, f. scissors, shears for cutting cloth. مقراض - قینچي

مقطع *maqta*, place of cutting, amputating, place of completion, the last verse of a poem. جگہہ کاٹنے کي مقام تمامي کا - اخیر بیت غزل اور قصیدے کي

مقطوع a. cut, cut out, cut into pieces, a man who by any means is left behind from following a caravan, a cut cloth. قطع کیا گیا - کاٹا گیا - ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا - وہ شخص جو کسي سبب سے قافلہ کي ہمراہي سے چھوٹ گیا ہو - قطع کیا ہوا کپڑا

مقعد f. a place to sit on, (*met.*) the hips, the anus, podex. جاے نشست - بیٹھنے کي جگہہ مجازاً دبر - پاخانے کا مقام

مقعر *muqa'ar*, a. excavated, hollowed out; concave, profound, deep. جاے عمیق - گہري جگہہ - گڑھا جو کھرا کیدا ہوا ہو

مقفي *muqaffa*, a. measured (prose), (*sub.*) an oration, rhythmically composed. قافیہ کیا گیا

مقفل a. locked, bolted (a door). قفل کیا گیا

مقل *maql*, m. eavesdropping, slandering, backbiting, staring (at anything.) سخن چیني کرنا - لترا پن کرنا - دوسرے کو کسي کے آگے برا کہنا - کسي چیز کو گھورنا

مقل *muql*, m. bedllium, a fragrant kind of gum (*Amaris agallocha*, Roxb.) ایک مشہور گوند جسکو ھندي میں گوگل کہتے ھیں

مقل *muqill*, m. a mendicant beggar, a small, moderate. درویش - فقیر - قلیل

مقل (*pl.* of مقال) talks. جمع مقال کي

مقالد (*pl.* مقالید), a key. - مقالید جمع ھے - کلید کنجي

مقلد *muqallid*, m. a pupil, a follower, (also) an actor, mimic. پیرو - اور مجازاً بمعني نقال کے بھي

مقلد پیشہ m. an actor, a mimic, a player, a dancer, a singer. - نقل کرنے والا - ناچنے والا - گانے والا

مقلقل a. uneasy, restless, (also) wine. - بیقرار - مضطرب - اور بمعني شراب

مقلقلہ *m.* gurgling, sound produced by a liquid flowing from or through a narrow opening as that of a goblet or a bottle. آواز صراحي اور شيشہ کي بوقت انڈيلنے پاني وغيرہ کے

مقلوب *a.* turned, inverted, converted. اُلٹا گيا - پلٹا گيا - اوندھا

مقلہ *m.* the socket of the eye. تمام آنکھہ کا کاسہ

مقليد (*pl.* مقاليد) a key. - کليد مقاليد جمع ھے کنجي

مقناطيس *n.* the magnet or load stone. چمک پتھر جو لوھے کو اپني طرف کھينچ ليتا ھے

مقنب *miqnab*, a tiger's claw, a bag for keeping game. شير کا چنگل - توبڑا اور توشہ دان شکاري کا جس ميں شکار ڈالتا جائے

مقند *muqqannad*. *f.* anything conserved with sugar, sweetmeat. - قند ملي ھوئي شے ميٹھي چيز

مقنعہ *m.* a veil of muslin or cloth, worn over the head and reaching to the ground (chiefly applied to a bride's veil) چادر باريک ايک عرض کي - ايک پٹي - اوڑھني

مقنود *f.* condied, conserved with sugar sweetmeat. - قند ملي ھوئي شے اور ميٹھي شے جس ميں شکر ملي ھوئي ھو

مقني *n.* one who digs a canal. نہر کھودنے والا

مقوال *a.* talkative, chatty, voluble, conversable وہ شخص جو بڑا زبان آور اور بڑا باتوني ھو

مقود *f.* reins, bridle, a rope, a hawser. - رسي بانگڑور

مقور *maqawwar*, *a.* torn into pieces. ٹکڑے ٹکڑے کيا گيا

مقوس *muqaus*, *m.* anything bent like a bow. وہ شے جو مانند کمان کے خمدار ھو

مقوس *miqaus*, *f.* bridle, reins, rope. گھوڑوں کي رسي

مقول *f.* the tongue, the fleshy moveable organ in the mouth of taste, speech, etc. زبان - جيبھ

مقوم *muqauwim*, *a.* adjusting, fixing a price. قيمت کرنے والا - راست آور - سيدھا رکھنے والا

مقوي strengthening قوت آور - طاقت دينے والي

مقہور *a* conquered, subdued, disturbed, oppressed, vexed, one on whom a king's or God's wrath descends. - قہر و غضب کيا گيا وہ شخص جس پر غصہ بادشاہ يا خدا کا پڑے

مقياس *miqyas*, *m.* guess, measurement, calculation, the stile of a dial, the hand of a watch, etc., the nilometer in Egypt. اندازہ - اور وہ شے جس سے اندازہ کريں

مقيت *muqit*, *a* powerful, a guardian, keeper, feeder, nourisher, a witness, one present. توانا - طاقت دار - روزي دينے والا - نگاہ رکھنے والا - گواہ - حاضر

مقيد *muqaiyad*, *a.* confined, fettered, bound, a captive, prisoner. قيد کيا گيا - قيدي

مقيش *maqaiyash*, *m.* brocade. وہ چيز جس پر چاندي يا سونے کے چپٹے اور باريک تار لپٹے ھوں

مقيل siesta, a short sleep or rest in the hottest part of the day, drinking wine at breakfast. دوپہروں کو سو رھنا - صبح کو چاشت کے وقت شراب پينا

مقيم *m.* a resident, a dweller, an inhabitant. رھنے والا

مقئي (in medicine) emetic قے لانے والي چيز

مک *makk*, *a* sucking. چوسنا

مکابر *mukabir*, *a.* haughty, contentious, quarrelsome. بزرگي جتانا - جنگ کرنا کسي کے ساتھہ

مکابرہ haughtiness, contention. بھت سے بزرگي ثابت کرنا - غلبہ کرنا - جنگ کرنا

مکاتب *m.* } a slave who has worked out his
مکاتبہ *f.* } or her emancipation according to a کتابت or written agreement. وہ غلام جو مالک کي خوشي سے اپني قيمت آپ محنت مزدوري کر کے مالک کو ادا کر کے آزاد ھو جائے

مکارم (*pl.* of مکرمت) laudable actions or qualities. جمع ھے مکرمت کي - بزرگيان - نوازشين

مکارہ (*pl* of مکروہ), sorrows, hardships, things detestable or abominable. - سختيان - رنج مکروھات

مکارہ *f.* a cheat, a knave. عورت بڑي مکر اور فريب کرنے والي

مکاس *a.* delaying, tardiness. دير کرنا - توقف کرنا

مکاسب (*irr. pl.* of کسب), professions, trades. خلاف قياس - جمع کسب کي - پيشے - حرفے

مکاشحت *f.* enmity. دشمني کرنا

مکاشفہ *f.* acting openly, open hostility, displaying anything, revelation. - ظاھر ظاھر دشمني کرنا - برملا جنگ کرنا - امور غيبي کے اسرار کا ظاھر ھو جانا ولي اللہ کے دل ميں

مکافات *f.* recompense, retribution, retaliation, requital, confronting. - باھم برابر ھونا برابر کھڑا ھونا - بدلہ بدي کا - سزا

مکافي *a.* equal, parallel, equivalent, neutral. مساوي - برابر

مکامن (*pl.* of مکمن) ambuscades. جمع هے مکمن کي - جگهیں چهپنے کي - گهاتیں

مکانت *f.* honour, rank, dignity, مرتبه - عزت

مکاوحت *f.* endeavour, try, enmity, abusing. کوشش کرنا - دشمني کرنا - گالي دینا

مکاهنت *f.* divination, discovering mysteries. غیب کي خبر کو بتانا

مکاید (*pl.* of مکیده), frauds, stratagems, evil-mindedness, malevolence. جمع مکیده کي - فریب - بد اندیشي - بدسگالي

مکائل } مکائیل } (*pl.* of مکیال), measures. جمع مکیال کي بمعني پیمانه

مکب *mukabb*, *a.* prostrated, overturned, turned upside down, lying flat or prostrate. اوندهے منهه گرایا گیا - اوندهے منهه گرا هوا

مکبّ *mukibb*, (both *trans.* and *intrans.*) prostrating, caused to be prostrated. اوندهے منهه کرنے والا - اوندهے منهه گرایا گیا

مکبول *a.* captured, imprisoned, *m.* a prisoner. قید کیا گیا - قیدي

مکتب *m.* a place for writing, place of (keeping) a book, (*met.*) a school. جگهه لکهنے کي - جگهه کتاب کي - مجازاً مدرسه - اسکول

مکتتم *a.* concealed, hidden, a secret. - پنهاں پوشیده

مکتسب *muktasib*, *m.* acquiring a thing through one's labour or exertion, a gainer, an acquirer, (inlaw) one who makes a profit, a trader. حاصل کرنے والا کسي چیز کا اپني کوشش سے - کسب کرنے والا

مکتسب *muktasab*, مکتسبه *muktasba*, مکتسبي *muktasbi*, } anything acquired by one's labour or exertion. وه چیز جو اپني کوشش اور سعي سے حاصل کي گئي هو

مکتسي concealing, covering oneself, veiling, covering oneself with an old patched quilt, a beggar. چهپنے والا - کملي میں پوشیده هونے والا

مکتفي *a.* content, having enough. کافي - کفایت کرنے والا

مکتنس *m.* a sweeper. کوڑا کرکٹ بهارنے والا

مکتنف *m.* a refugee, one seeking shelter, oppressed. پناه ڈهونڈهنے والا - بیکس هونے والا

مکتوب *a.* written, *m.* a letter, any thing written, an epistle. لکها هوا - لکها گیا

مکتوم *a.* hidden, concealed, a secret. - پوشیده پنهاں اور کنایه بهید سے

maks or *miks*, *f.* delay. دیر - درنگ

مکثار *m.* talkative, chatty, conversable, loquacious. بکو باتوني - کثیرالکلام

مکحل *mukahhal*, *a.* anointed with collyrium. سرمه دیا گیا

مکحل *makahhal*, *m.* a box for holding *surma* (collyrium.) سرمه داں

مکحل *mikhal*, a piece of lead for tinging the eyelids with a collyrium. سرمه لگانے کي سلائي

مکحول one whose eyes are stained with *surma* (collyrium). جو سرمه لگائے هوے هو

مکدر *mukaddar*, *a* sullied, afflicted, disturbed, vexed, anxious, fetid stinking. کدورت آمیز - گندلا

مکدر *mukaddir*, *a* afflicting, vexing, disturbing stinking کدورت میں ڈالنے والا - گندلا کرنے والا

مکر *makr*, *m.* fraud, deceit, evasion, imposture. فریب - دغا

مکر *makar*, *adv.* but, moreover, besides. پر - سوا اسکے

مکرر *a.* repeated, twice, (*fig.*) unpleasant. دوباره - بار بار کیا گیا - اصطلاحاً غیر مرغوب

مکره *m.* a water-bag; skin bag. پاني کي مشک

مکرم *mukarram*, *a.* revered, respected, venerable, noble, illustrious عزت دیا گیا - بزرگي دیا گیا - گرامي کیا گیا

مکرم *mukrim*, *a.* liberal, bountiful, gracious, kind بخشش کرنے والا - بزرگوار رکهنے والا - مهرباني کرنے والا

مکرم *mukarrim*, *a.* honouring, respecting. گرامي کرنے والا

مکرمت *f.* honour, glory, dignity, generosity, grace, goodness, bounty, nobility. - بزرگي نوازش

مکروب *a* sad, melancholy, afflicted, full of grief. غمگین - اندوهناک

مکروه *a.* hated, odious, abominable, disgusting, obscene, any act or thing not absolutely forbidden by Mohammedan law, but from which it is advisable to abstain. کراهت کیا گیا - ناپسند

مکسور *a* broken, smashed, cut, a letter marked with the vowel کسره, a fraction (in arithmetic). ٹوٹا هوا - شکسته - حرکت زیر کي دیا گیا

مکشوف *a.* revealed, disclosed, open, detected, discovered. کهولا گیا - ظاهر کیا گیا

مکظوم *a.* afflicted with sorrow, passionate. گرفتار غم - دلي فصه کهایا هوا

مکفر *mukaffir*, *a.* atoning, expiating for sins, calling one an infidel. گناه کا کفاره دینے والا - کسي کو کافر کهنے والا

مکفوف *a* prevented. hold back, forbidden, blind, one wrapped up in a garment باز رکها کیا - نابینا - اندها - پیراهن لپیٹے هوئے

مکلف *mukallif*, *a.* troublesome, ceremonious, one who incommodes. تکلیف دینے والا

مکلف *mukallaf*, *a.* troubled, carefully executed, (well made, elegant, elaborate,) costly. تکلیف دیا گیا - تکلیف کیا گیا - ٹیپ ٹاپ کیا گیا

مکلل *mukallal*, *a.* glittering, shining, crowned, ornamented with jewels, gilt. چمکتا - درخشاں هوا - ملمع کیا گیا - تاج سر پر رکھے هوئے

مکمل *mukammal*, *a* perfect, complete, accomplished. پورا کیا گیا - تمام اور کامل کیا گیا

مکمل *mukammil*, *a* perfecting, completing, accomplishing. پورا کرنے والا - تمام اور کامل کرنے والا

مکمن *n.* ambuscade, ambush, the place of lying in wait in order to surprise. گهات کي جگهه - چهپ رهنے کي جگهه - پوشیده هو کر داؤ لگانے کي جگهه

مکمون *m.* one lying in wait, concealed. پوشیده - چهپا هوا

مکناس
مکنسه } a broom, brush. جاروب - جهاڑو

مکنت *f.* power, might. قدرت - توانگري

مکنوز *a.* stored, treasured, (*met.*) concealed. خزانه کیا گیا - اور مجازاً بمعني پوشیده رکها گیا

مکنون *a.* concealed, secret, hidden, گوهر مکنون a pearl (of a good water and valuable). پوشیده رکها گیا - چهپایا هوا - گوهر مکنون قیمتي اور آبدار موتي کو کهتے هیں

مکوک *m.* a weaver's shuttle. جولاهوں کا آله جسے ماکو یا نال کهتے هیں

مکون *mukawwan*, *a.* brought into existence, created. پیدا کیا گیا - هست کیا گیا

مکیال *m.* a measure, a pot or anything for measuring corn. پیمانه - لوٹا اور برتن اناج کے ناپنے کا

مکید *m.* a knave, cheat swindler, fraudulent. مکر کرنے والا

مکیده *f.* deceiving. defrauding, ensnaring, evil-mindedness. بد اندیشي کسي کے حق میں برا چاهنا

مکیدن *inf.* to suck. چوسنا

مکیل
مکیله } *m.* a certain measure for goods, dry or liquid. پیمانه - وه چیز جس سے کوئي شے ناپي جاے

مکیل *a.* measured.

مکین *m.* master of the house, the owner of a place, a man of rank or position. مکاندار - صاحب مکان - صاحب مرتبه - صاحب منزلت

مکس a fly. مکهي

مکس ران *f.* a flapper for driving away flies. مورچهل - چونري

مکس گیر (*lit* the flycatcher), a spider. مکڑي

مل *mul*, grape wine. شراب انگوري

ملا *mulla*, in *Pers.* used without hamza (quite full), a Mohammedan lawyer, a doctor, a schoolmaster, a very learned. بهت بهرا هوا - بسیار - پر - مراد اس سے وه شخص جو علم سے بهت بهرا هوا اور پر هو - بڑا عالم

ملا *mala*, *m.* fullness, desert, forest, jungle, manifested, apparent, (sometimes) an assembly, a crowd of people. پري - صحرا - جنگل - آشکارا - ظاهر - اور کبهي مراد انجمن اور محفل سے

ملا *m.* a company of the noble and great. گروه اشراف او. بزرگ لوگوں کا

ملاالاعلی *m.* a host of the angels. گروه فرشتوں کا

ملابس (*pl.* of ملبس), garments جمع ملبس کي جو بمعني پوشش اور لباس کے

ملابست *f.* resemblance, likeness, similitude. آپس میں مشابهت رکهنا - کسي چیز کا شبیه هونا

ملاحت *f.* being salt, beauty, excellence, elegancy, a sallow complexion. - نمکیني نمکیني حسن کي

ملاحد
ملاحده } (*pl.* of ملحد), heretics, unbelievers, infidels. جمع هے ملحد کي بے دین لوگ

ملاحظه *m.* looking with a side glance, squinting, (*met.*) looking at, contemplating consideration (often used for reading), notice, view, regard. - گوشهٔ چشم سے دیکهنا آنکهوں سے دیکهنا مجازاً دیکهنا

ملاخ *m.* name of a city, name of an island. نام ایک شهر کا - نام ایک جزیرے کا

ملاذ *m.* an asylum, refuge, protection. جگهه پناه کي

ملاذ *mallaz*, *m.* a great liar. بڑا جهوٹا - بدروغگو

ملاذ *malaz*, *pl.* of ملذ), delicious things. جمع ملذ کي - مزے دار چیزیں

ملازمت *f* assiduity, diligence, service. همیشه رهنا کسي جگهه پر - کسی کے پاس همیشه رهنا

ملاحت *f.* softness, smoothness, clearness, evenness - نرمي - صاف پن اور هموارِي - صفائي

ملاصق *a* joined, to stuck, adhered. - لگا هوا - چسپیدہ

ملاط *m.* cement, lime, mortar. گارا یا چونا - جس سے دیوار كي اینٹیں وصل كرتے هیں

ملاطف *a* courteous, kind, favouring. مهرباني كرنے والا

ملاطفت *f.* kindness, favour, courtesy, politeness كسي پر مهرباني كرنا

ملاطفه *m.* courtesy, kindness, favour, politeness, (*met.*) a lettter or epistle. كسي كے ساتهه نیكي كرنا - مجازاً خط - نامه - مراسله

ملاطیه *n.* name of a town on the Euphrates, capital of Armenia Minor. شام ایک شهر كا نام هے

ملاعب (*pl.* of لعب), sports, plays. جمع هے لعب كي جو بمعني كهیل كود اور بازي كے هے

ملاعبت *f.* } playing, sporting. كهیلنا - كسي كے
معلابه *m.* } ساتهه بازي كرنا

ملاعق (*pl.* of ملعقه), spoons. جمع ملعقه كي - چمچے

ملاعنه (*irr. pl.* of ملعون), the accursed ones, the condemned. جمع ملعون كي - لعنت كئے كئے لوگ

ملاعین (*pl.* of ملعون), the cursed beings, apostates. - جمع ملعون كي - لعنت كئے كئے لوگ - مردود

ملاقي *m.* interviewer, visitor. ملنے والا

ملاک origin, source, beginning, derivation. اصل كسي چیز كي

ملال *malal*, *m* sadness, grief, anguish, languor, vexation. - رنجیدگي - طبیعت كا اُداس هونا - غمگین هونا - اُكتا جانا

ملال *mulal*, *f.* fierce heat. تپ كي گرمي

ملالت *f.* affliction, sadness, displeasure. آزردگي - اداسي - اداس هونا - رنج

ملام *m.* reproach, reprehensible, rebuke, blame, accusation, reviling. - سرزنش كرنا - ملامت كرنا

ملان *m.* one who fills, (*met.*) full. پر كرنے والا - مجازاً پر

ملاهي (*pl.* of لهو), amusements, sports, funs. جمع هے لهو كي جس كے معني كهیل كود اور بازي هے

ملائک } (*pl.* of ملک), angels. - جمع ملک كي
ملائكه } فرشتے

ملبس *malbas*, *m.* cloth, garment, dress. پوشاک - لباس

ملبس *mulabbas*, *a.* clothed, dressed, confused, mixed, embroiled, hid. - كپڑے پهنایا گیا لباس پهنے هوئے - چهپایا گیا

ملبن *milban*, *m.* a brick-mould. اینٹ بنانے كا قالب

ملبن *mullabin*, *m.* a brick-maker, a potter. اینٹ بنانے والا

ملبوس } *m.* wearing apparel. پهننے كا كپڑا
ملبوسه }

ملبوسات (*pl.* of ملبوسه), old worn out garments, wearing clothes. پهننے كے كپڑے

ملت *millat*, *f.* religion, faith, a religious sect or creed, a nation, a people, (also) religious laws. دین - مذهب - گروه - اور بمعني شریعت كے بهي

ملتبس *a.* hidden, concealed, doubted. - پوشیدہ چهپا هوا - اشتباه كیا گیا

ملتثم *multasam*, *a.* kissed, a place for kissing. چوما هوا - جگهه بوسه كي

ملتثم *multasim*, *m.* one who kisses. چومنے والا

ملتجا *m.* an asylum, a protector, sheltering. جگهه پناه كي - پناه لینا

ملتجي flying to or taking refuge with one, begging. پناه ڈهونڈهنے والا - التجا كرنے والا

ملتحد *m.* a place of refuge, asylum. جگهه پناه كي

ملتحم *m.* a healed wound. - زخم جو بهر گیا هو زخم جو خشک هونے كے قریب هو

ملتحي *m.* a bearded youth. جس كے ڈاڑهي نكل آئي هو

ملتزم *multazim*, *a.* constrained, compelled, necessarily following, convicted, *m.* a tenant or hirer, a farmer or collector of tolls or customs. التزام كرنے والا - اپنے اوپر لازم پكڑنے والا

ملتفت *a.* courteous, one who shews regard. التفات كرنے والا - توجه كرنے والا

ملتقط *multaqit*, *a.* picking, pecking, lifting, darning, one who finds and rears a deserted child, one who finds a treasure. چننے والا - چگنے والا - اٹهانے والا - رفو كرنے والا

ملتقط *a.* picked, pecked, lifted up, darned چنا گیا - چگا گیا - اٹهایا گیا - رفو كیا گیا

ملتقم *m.* an eater of morsels. لقمه كهانے والا

ملتقي *n.* a place of meeting or conjunction. جگهه ملاقات كي - جگهه ملنے دو چیز كي پس میں

ملتمس *a.* begging, praying, supplicating عرض كرنے والا

ملتوي *a.* entangled, knitted or interwoven confusedly, involved, entangling, involving, delaying, postponing, spinning out, protracted, pending (a law suit). پیچ در پیچ هونے والا - لپیٹنے والا - دیر کرنے والا

ملتهب *a.* kindling, blazing fire, flaming. آگ بھڑکنے والي - شعلہ بھڑکنے والي

ملثم } ملثوم } *a.* kissed, osculated. - بوسہ لیا گیا چوما گیا

ملجا *m.* an asylum, retreat, place of refuge, security, support. جاے پناہ - پناہ کي جگہہ

ملح *malh, m.* salt, (*met.*) beauty, science نمک

ملح *mullih, a.* exaggerating, beseeching, imploring earnestly. کسي کام میں مبالغہ کرنے والا - عاجزي کرنے والا - کڑ کڑانے والا

ملح *malah, n.* act of flying with both the wings, hence the word ملاح a boatman, sailor. پرند کا اپنے دونوں بازؤں سے اڑنا اسي سے لفظ ملاح بنا هے جو کشتیوں کو کھیتے هیں

ملحاح *m.* one who exaggerates, greatly imploring, beseeching. کسي کام میں بڑا مبالغہ کرنے والا - بہت عاجزي کرنے والا - نہایت کڑ کڑانیوالا

ملحد *m.* heretic, an unbeliever, a deist, an apostate. راہ حق سے پھرنے والا - فاسق - بے دین

ملحق *a.* joined, added, annexed, adhering, (*fig.*) *n.* a bastard. لگا ھوا - ملا ھوا - اصطلاحاً حرامزادہ

ملحق *a.* reaching, inquiring, following, annexation. پھونچنے والا - دریافت کرنے والا

ملحم *m.* a kind of very soft silk, one who lives by selling game, a professional fowler (or hunter). ایک قسم کا ریشمي کپڑا جو نہایت نرم اور ملائم ھوتا ھے - وہ شخص جس کي شکار کے گوشت پر ھو

ملحمہ *n.* a field of great battle, a great disturbance, turmoil, warfare, a great battle. جنگ عظیم کي جگہہ - بڑا فتنہ - بڑا فساد - بڑي جنگ

ملحوظ *a.* contemplated, thought of, regarded, attended to, looked at with a side glance, squinted at. - لحاظ کیا گیا - دیکھا گیا کنکھیوں سے دیکھا گیا

ملخ *m.* a locust. ٹڈي

ملخص *mulakhkhaz, a.* purified, freed, released, liberated, (also) brief, short. پاک کیا گیا - خالص کیا گیا - خلاص کیا گیا - اور بمعني مختصر کے بھي

ملذ *a.* delicious, savoury. لذیذ چیز - مزادار شے

ملزم *a.* convicted, convinced, leaving in charge, conjoined, annexed, inseparable کسي کے ذمہ کوئي کام کردینے والا - لازم اور واجب کر دینے والا

ملزوم *a.* affixed to, belonging to, inseparable. لازم کیا گیا

ملصق *mulsiq, a.* adhering, sticking to, rubbing. چپکنے والا - ملنے والا

ملصق *mulsaq, a.* joined, affixed, annexed to, adhered to. (*fig.*) *n.* a bastard. - لگایا ھوا چمٹا ھوا - پیوستہ کیا گیا اور اصطلاحاً حرامزادہ

ملعقہ *m.* a spoon, (*apoth.*) a fixed weight of eighteen *mashas* (of honey and electuary), and of 4½ *mashas* (in other medicines). چمچہ اور طبیبوں کي اصطلاح میں نام ایک وزن کا معین ھے معجون اور شہد میں اٹھارہ ماشے کا

ملعون *a.* cursed, excommunicated, execrated, driven out of society, *m.* an apostate. لعنت کیا گیا - مردود

ملغ *a* fool, silly, ignorant, of ungovernable temper, abusing. احمق - بدزبان

ملفوف *a.* wrapped up, involved, enveloped, inclosed, collected, gathered. - لپیٹا ھوا لفافہ کیا گیا

ملق love, affection, friendship. دوست رکھنا

ملق *malaq, n.* a level ground. زمین ھموار

ملق *maliq,* apparent flattery, a pretender, one who pretends to be a friend apparently but inwardly bears a malice وہ شخص جو زباني خوشامد کرے اور دل میں کینہ رکھے

ملقب (*mulaqqab*), *a.* surnamed, entitled, nicknamed. لقب دیا گیا - نام یا صفتي وصفي دیا گیا

ملقن *mulqan, a.* instructed, informed, taught. سکھلایا گیا - تلقین کیا گیا

ملقن *mulqin, m.* an instructor, teacher, informer. تلقین کرنے والا - سکھلانے والا

ملک *malak, m.* an angel. فرشتہ

ملک *malik,* (*pl* of ملوک), king. بادشاہ

ملک *milk, m.* possession, property, right, goods, (and sometimes *met.*) a cloth. مالک هونا کسي چیز کا - وہ چیز جو کسي کا حق هو - سیدھي راہ - جاگیر - اسباب - مال - اور کبھي مجازاً جامہ کے بھي آتا ھے

ملک *mulk, f.* dominion, empire, government, sovereignty, *m.* a country. - بادشاہ ھونا بادشاھي - ایک دیس جو ایک بادشاہ کے قبضہ میں هو

ملکات (*pl.* of ملکہ), qualities, endowments جمع ملکہ کي - قوتیں حصول شے کي طبیعت میں

ملکات رویۂ مشککہ 1. envy, 2 malice, 3 stinginess, 4. greediness, 5. uttering false hood, 6. violence, 7. pride, 8. shame lessness. ۱ حسد - ۲ بغض - ۳ بخل - ۴ حرص - ۵ جھوٹھہ بولنا - ۶ غصب - ۷ غرور - ۸ بیحیائي

ملکات فاضلہ *f.* attributes, good qualities, accomplishments. اچھي خصلتیں

ملکات فاضلۂ چہار گانہ *f.* wisdom, valour, abstinence, equity. - حکمت - شجاعت - عفت - عدالت

ملک الموت *m.* Azrael, the angel of death who separates men's souls from their bodies. عزرائیل وہ فرشتہ جو روح قبض کرتا ہے

ملک آوازہ *m.* a sharp challenge, a loud voice. بلند آواز

ملکت *f.* sovereignty, kingdom. بادشاهي

ملک قمي *n.* name of a poet whose title was Malak-ul-Kalam. نام ایک شاعر کا جس کا لقب ملک الکلام تھا

ملک نیمروز Rustam, the champion wrestler, for he was the king of Sistan (called also Nimroz), (also) Adam. کنایہ رستم پہلوان سے اس لئیے کہ یہہ بادشاہ سیستان کا تھا اور سیستان کا نام نیمروز ھے - اور کنایہ آدم سے

ملکوت *f.* sovereignty, kingdom, spirits, angels, the angelic world, possession cherishing, (according to the *sufis*), purgatory. - بادشاهي - تصرف - پروردگاري - فرشتوں کا عالم - صوفیوں کے نزدیک عالم ارواح

ملکہ *f.* quickness of perception, strength of intellect, a queen. مہارت - قوت حصول شے کي ذهن میں یعني قوت علم ماهر کي جو انسان میں حاصل هوتي هے - بادشاہ کي بیوي

ملکي *a.* angelic, belonging to or resembling an angel - منسوب طرف ملک بمعني فرشتہ کے فرشتہ جنسي

ملک یمین (*theo.*) a male or female slave, (*met.*) any purchased slave. فقہ کي اصطلاح میں بمعني لونڈا اور غلام - مجازاً هر زرخرید غلام زر خرید کو کہتے هیں

ملل *milal*, (*pl.* of ملت), religious sects, etc. جمع هے ملت کي جو بمعني مذهب اور دین کے هے

ملال *malal*, grief, languor, vexation, poverty. اندوہ - غم - تنگي

ملم *m.* committing a petty sin, a youth who has nearly reached to maturity. صغیرہ گناہ کرنے والا - وہ لڑکا جو قریب بلوغ کو پہونچا هو

ملمع *mulamma'*, polished, burnished, furbished, covered with gold or silver, a species of poem, the distichs of which are written in Persian and Arabic alternately. روشن کیا گیا - چمکایا گیا - روشن وہ چیز جس پر چاندي یا سونا ترکیب مقررہ سے چڑھایا گیا هو - وہ قسم اشعار کي جن میں ایک مصرعہ یا ایک بیت عربي اور ایک فارسي کي هو

ملموم *a.* seen. دیکھا گیا - دیدہ شدہ

ملندہ (*Prohibit.*) "Don't prattle," "don't tell a lie" - صیغہ نهي کا هے - جھوٹھہ نہ بول - گپ مت مار

ملوث *mulauwas*, *a.* polluted, defiled. - آلودہ لتھوڑا هوا

ملوک (*pl.* of ملک), kings. جمع ملک کي - بمعني بادشاہ کي

ملول *a.* sad, dejected, grieved, melancholy, fatigued, languid. رنجیدہ - اداس - غمگین

ملوم *a.* blamed, reproached censured. ملامت کیا گیا

ملون *mulawwan*, *a.* variegated, distinguished by many colours. رنگ آمیزي کیا گیا - رنگ برنگ کیا گیا

ملوین *m.* day and night. روز شب - دن رات

ملهم *malhim*, *n.* inspiring, one who inspires, *i. e.*, God. الهام کرنے والا - دلمیں نیک بات ڈالنے والا یعني خدا

ملهم *malham*, *a.* inspired, infused, noble ideas or poetic spirit into. - الهام کیا گیا نیک بات خدا کي طرف سے دل میں ڈالي گئي

ملهوب *f.* the blazing fire, flaming. شعلہ زن آگ - بھڑکي هوئي آگ

ملهوف *a.* sad, dejected, depressed, oppressed. غمگین - مظلوم

ملهي *m.* a mimic, a buffoon. - غافل کرنے والا کھیل کود میں لگانے والا

ملي *muli*, *a* full (of wealth), rich, wealthy. بھرا هوا - دولت مند

ملي *mali*, *m.* a long period. زمانہ دراز

ملیح *a* salted, brackish, agreeable, charming, beautiful, (*met.*) dark or sallow complexion. نمکین - نمک آلودہ - مجازاً سانولا رنگ

ملیخ tastless meat. بے مزہ گوشت

ملیک *m* a master, king, lord, one of the titles of God. مالک - صاحب اور نام هے حق تعالی کے ناموں سے

ملیم *a.* reprovable, reproachable, censurable. سزاوار - ملامت

ملین *mulaiyan*, *a.* softening, pacifying, emollient. نرمي کرنے والا - دوا قبض دور کرنے والي

مما *mimma*, "from that thing." اُس چيز سے

ممات *f.* place or time of death, death. موت - مرنا

مماثل *a.* resembling, equalling, becoming like. مشابه هونے والا - مانند هونے والا - هم مثل - برابر

مماثلت *f.* similitude, likeness, conformity, resemblance. هم مثل هونا - مانند هونا

ماجرات past incidents, past occurrences. گذشته حال - ماجرے - گذري هوئي باتيں

ممارات *a.* accompanying, hostility, enmity, quarrel. کسي کے ساتهه جانا - دشمني کرنا - عداوت کرنا - لڑنا

ممارست *f.* experience, endeavour, toil, labour, a search. تجربه کرنا - کوشش کرنا - کسي کام ميں مشق بهم پهونچانا - تلاش کرنا - جستجو کرنا

مماس (*Act.*) one who rubs or grinds, (also *Pass.*) rubbed, ground. اسم فاعل بمعني گهسنے اور رگڑنے والا - اور اسم مفعول بهي هے بمعني گهسا اور رگڑا گيا

ماسخ *a.* deforming, disfiguring مسخ کر دينے والا - اسماي اور اچهي صورت کا بري صورت سے بدل دينے والا

مماشات *a.* accompanying. کسي کي همراهي کرنا

مماطلت *f.* delay, retardation, deferment. دير کرنا - کسي کام کا پيچهے ڈالدينا دفع الوقت کرنا

ممالک (*pl.* of مملکت), kingdoms, provinces states. جمع مملکت کي - پادشاهي - مقامات - سلطانت کے مقام

ممالیک (*pl.* of مملوک), purchased slaves or she slaves. جمع مملوک کي - لونڈي و غلام زر خريد

ممانعت *f.* hinderance, prohibition. باز رکهنا - منع کرنا

ممايزت *f.* discernment, descretion, sense, separating distinguishing. تميز کرنا - جدا کرنا

ممتاز *a.* chosen, exalted, illustrious, eminent, respected, distinguished. اِمتياز ديا گيا - آبرو ديا گيا - جدا کيا گيا - عزت ديا گيا

ممتثل *a.* compared with, resembled. هم مثل کيا گيا

ممتحن *mumtahin*, *m.* one who examines or tries, an examiner. آزمانے والا

ممتحن *mumtahan*, *a.* examined, tried, tested, one who has passed trial or examination, hence, experienced, skilful. آزمايا گيا

ممتد *a.* extended, prolonged کشيده - دراز

ممتلي *a.* replete, full of. بهرا هوا - پر

ممنوع *a.* prohibited, forbidden, hold back, impossible. روکا گيا باز رکها گيا

ممتهن *a.* disgraced, dishonoured, reviled, despised. خوار و ذليل کيا گيا

ممجد *mamajjad*, exalted, venerated, honoured. بزرگي ديا گيا - بزرگ

ممد *m.* an assistant, an extender, protractor. مدد کرنے والا

ممدوح *a.* praised, celebrated, laudable. تعريف کيا گيا

ممدود *mamdud*, *a.* extended, lengthened or protracted, *f.* ممدوده - دراز کيا گيا - پهيلايا گيا

ممر *m.* passage, pass, transit ford, (*met.*) cause, account. راه - جگهه گذرنے کي - گذرنے کي راه - مجازاً بمعني سبب

ممراض *m.* one who is always sickly. بشيار مرض - وه شخص جس کو بهت مرض رهتا هو

ممراضيت *a.* very sick, (*met.*) - بهت مريض هونا مجازاً بمعني غلطي کے هيں

ممرد *mumarrad*, shining and simple a building. وه عمارت جو چمکدار اور ساده هو

ممزوج *a.* tempered, mixed, diluted, wine mixed with water. آميخته شده - ملايا گيا - اور وه شراب جس ميں پاني يا گلاب وغيره ملا کر پئيں

ممسحه *m.* a hand tool for lifting and dressing mortar and plaster, etc. a trowel. تهوپوں کي کرني جس سے گارا وغيره ملتے هيں

ممسک *m.* preventing, prohibiting, retaining, stopping from coming out, a miser, a niggard, *a.* parsimonious, stingy. باز رکهنے والا - اور باهر نکلنے سے منع کرنے والا - خرچ نه کرنے والا - بخيل - کنجوس

ممسوح *a.* anointed, rubbed over with oil, consecrated by unction. مسح کيا گيا - ملا گيا کسي عضو پر

ممشوط *a.* combed. کنگهي کيا گيا

ممسوخ *a.* metamorphosed. اچهي صورت سے بري صورت ميں تبديل کر ديا گيا

ممضوغ *a.* masticated, chewed, gnawed. چبايا گيا

ممطر *a* raining, rains برسنے والا منهه

ممقوت *a.* hated, held as an enemy. دشمن کيا گيا - دشمن بنايا گيا

ممكن *mumakkin*, *a.* establishing confirming. قائم کرنے والا

ممكن *mumkkan*, *a.* established, confirmed. قائم کيا گيا

ممل *mumill*, *a*. aggrieving, oppressing, vexing, annoying. رنجيدہ كرنے والا

مملكت *f*. sovereignty, dominion, empire, kingdom, grandeur. مقام سلطنت - ملک بادشاهت

مملو *a*. replete, filled up. پر - بهرا هوا

مملوک *m*. and *f*. a purchased slave or captive. زر خريد - غلام - لونڈي

ممنوع *a*. prohibited, hindered, forbidden. منع كيا گيا - روكا گيا

ممنون *a*. obliged, pleased, satisfied, gratified, favoured, given a loss. احسان كيا گيا - نعمت ديا گيا - نقصان كيا گيا

مموہ *m*. gilt, a lie gilded with truth, hypocrisy. وہ جهوٹهہ جس كو فريب سے مثل سچ كے بنا ليا هو

ممهد *mamhahad*, *a*. spread, adorned, decorated, prefaced, a preliminary discourse. بچهايا گيا - آراستہ كيا گيا - تمهيد كيا گيا - پهلے مطلب سے وہ بات لكهي گئي جس پر مطلب كا سمجهنا - موقوف هو

ممهد *mamhihad*, one who spreads or decorates or one who writes a preface. بچهانے والا - آراستہ كرنے والا - تمهيد كرنے والا

مميز *munaiyiz*, *a*. judicious, discriminating. تميز اور جدا كرنے والا اچهے كو برے سے

مميز *mumauyaz*, *a*. discriminated, discerned. تميز اور جدا كيا گيا

من *min*, *prep*. from, in, by, (also) on. - از - سے - بہ

من *man*, (in *Pers*. the 1st *Pers*. *Pron*.) I, me, a heap, as in. ضمير متكلم واحد كي يعني خرمن ميں اور بمعني تو وے كے بهي جيسے خرمن - خر بمعني كلاں هے يعني تودہ كلاں

من *man*, (both *sing*. and *pl*.), that person, what person, who is he? وہ شخص - كون شخص - كوين هے

من *mann*, worldly gift, favouring, manna, a weight of 40 seers, (*chem*.) a weight equal to 2 *ratals*. - نعمت دينا - احسان ركهنا - وہ رطوبت شيريں جو مثل شبنم كے قوم اسرائيلي پر برسي تهي - ۴۰ سير كا وزن - طبيبوں كے نزديک انكو من كا دو رطل هوتا هے

منا *mina*, *n*. name of a place in Mecca near the market, where the Hajjis offer sacrifies. نام مكہ معظمہ ميں ايک مقام كا بازار كے قريب وهاں حاجي قرباني بهي كرتے هيں

منى (*pl*. of منيہ), hopes, intentions, anxieties. جمع منيہ بمعني اميد اور مقصد اور آرزو كے

منى quantity, valuation, enquality, a weight of 40 seers. مقدار - اندازہ - برابري - اور تولنے ميں وزن مقرر هے

منا *cor*. from. منازل. مخفف منازل كا

منابر (*pl*. of منبر), pulpits. جمع منبر كي

منابع (*pl*. of منبع), fountains, springs, sources, roots. جمع منبع بمعني چشمہ كي

منات was the object of worship of the tribes of Hudbail and Khuzaah, who dwelt between Mecca and Madina, and as some say, of the tribes if Aws, Khazraj, and Thakif also. This idol was a large stone, demolished by one Saad, in the eighth year of the Hijra, a year so fatal to the idols of Arabia. This name seems derived from *mana*, to flow, from the flowing of the blood of the victims sacrificed to the deity, whence the valley of Mina, near Mecca had also its name, where the pilgrims at this day slay their sacrifices. ايک بت كا نام جس كو قبيلہ هزبيل اور خزاعہ عرب ميں پوجا كرتے تهے

مناجات *f*. whisperings, (*met*.) prayers, supplications. - كان ميں بات كهنا - سرگوشي كرنا - مجازاً خدا كي جناب ميں دعا كرني اس طور پر كہ اسكو حاضر جانئيں

من اجل *conj*. cause, reason, account for. واسطے - سبب

مناحہ *m*. lamentation, (also) a place of lamentation. - ماتم كرنا - اور كبهي بمعني جاے نوحہ و ماتم كے

مناخ *m*. a bed chamber, sleeping apartment, a place of rest and peace, a place for a camel to sit. - محل خواب كا - سونے كي جگهہ - جگهہ آرام و آسودگي كي - جگهہ بٹهلانے اونٹ كي

مناخر } مناخير } (*pl*. of منخر), the nostrils. ناک كے نتهنے - سوراخ ناک كا

منادي *a*. proclaimed, published, announced. آواز ديا گيا - پكارا گيا

منادمت *f*. society, intimacy, familiarity, companionship. - هم صحبت هوں - همنشيني - باهم نديم هونا

منادي *munadi*, *m*. a proclaimer, a herald, a public crier, one who proclaims by beat of drum, (in *Pers*.) proclamation, sound of a drum to warn the public. - ندا كرنے والا - پكارنے والا - ڈهنڈهورچيا - فارسي ميں بمعني ندا كے بهي استعمال هوتا هے - اور ڈهول كي آواز كے بهي جو واسطے آگاهي لوگوں كے بجاتے هيں

مناديل (*pl.* of منديل), turbans handkerchiefs. جمع هے منديل كي جو بمعني رومال و بگڑ كے هے

مناز } *m.* a minaret, a lampstand, a
منارة } high pillar (*met.*) a lofty turret adjoining a Mahomedan mosque, from the summit of which the *muazzin* calls the faithful to prayers. چراغدان - اونچا ستون خواه اينٹ كا هو خواه لكڑي كا - وه جگهه بلند جس پر چراغ روشن كر كے ركهيں - مجازاً جگهه بلند اذان كهنے كي

منازع *a.* contentious, quarrelsome, controversial. جهگڑا كرنے والا

منازعت *f.* contest, controversy, litigation, altercation باهم جهگڑا كرنا

منازل (*pl.* of منزل), mansions, stages. جمع هے منزل كي - اوترنے كي جگهيں - مكانات

مناسبت *f.* suitableness, proportion, connection relation, comparison. باهم لگاؤ ركهنا - آپس ميں نسبت ركهنا

مناسك (*pl* of منسك), worshipping places of the *Hajis*, (*met*) duties and acts of *Haji*. حاجيوں كے عبادت كرنے كي جگهيں مجازاً اعمال و افعال حج كے

مناشير (*pl.* of منشور), the royal mandates. جمع هے منشور كي - بادشاهي فرمان

مناص escaping, flying from, a place of escape. بهاگنا - بهاگنے كي جگهه

مناصب (*pl.* of منصب). جمع منصب كي -

مناصر *munasir*, helping, befriending, assisting. ياري دينے والا - مدد كرنے والا

مناصر *manasir*, the places of rendering assistance. جگهيں ياري دينے كي

مناصرت *f.* help, assistance. ياري دينا - مدد كرنا

مناصفة *m.* dividing a thing into two equal parts. كسي چيز كا آپس ميں آدهو آدهه كر لينا

مناضلة *m.* competing with one in archery, (*met.*) distance, space, interval. تير اندازي ميں كسي كے ساتهه برابري كرنا - مجازاً بمعني مسافت كے بهي آتا هے

مناظر (*pl.* of منظر), countenances, faces, aspects, spectacles. جمع منظر بمعني جاے نظر كي

مناظرة *m.* disputation, contest argumentation. باهم بحث كرنا - باهم فكر كرنا

مناظرات (*pl.* of مناظرة). جمع مناظرة كي

مناظم places of meeting or conjunction, places of rhyming a verse. جگهيں ملنے اور پيوستة هونے كي - جگهيں تركيب و نظم كي

مناع *manna'*, *a.* prohibiting, holding back, name of a person. جمع كرنے والا - بڑا روكنے والا - نام ايك شخص كا

مناعت *f.* kinship, friendship, firmness, stability. عزيز هونا - جستوار هونا - مستحكمي استواري

مناعم (*pl.* of نعمت) جمع نعمت كي

منعمت *f.* confirming, bringing up delicately (a child). استوار كرنا - ناز و نعمت ميں پالنا

منافي *v.* opposing, rejecting, refusing, prohibiting, destroying. نفي كرنے والا - ضد

منافات *f.* opposing each other, opponent, enemy, opposition, destroying each other. ايك دوسرے كو نفي كرنا - باهم ايك دوسرے كو نيست كرنا - نقيض - ضديت

منافذ (*pl.* of منفذ), passages, sources. جمع هے منفذ كي - جگهيں جاري هونے كي - راه

منافر *a.* hating, shunning. نفرت كرنے والا

منافسة *m.* resisting, preventing, opposition, envy, malice, jealousy, uneasy through fear of or on account of, preference given to another. رغبت كرنا كسي چيز ميں بطور مساوات كے - تعرض كرنا - حسد كرنا - رشك كرنا

منافع *manafi'*, *m.* (*pl.* of منفعت), profits advantages, gains, benefits. جمع منفعت بمعني نفع اور فائدے كي

منافق *m.* a hypocrite, an atheist an enemy, a prevaricator, evasive. نفاق ركهنے والا - وه شخص جس كے دل ميں كچهه اور هو اور ظاهر اس كے خلاف هو

منافي *n.* an opponent, an enemy, abolishing. نيست كرنے والا - باطل كرنے والا

مناقب (*pl.* of منقبت), virtues, abilities. جمع منقبت كي - اوصاف حميدة

مناقشة *m.* dispute, contention, quarrel, strife. جهگڑا كرنا - نزاع كرنا - لڑائي - جهگڑا

مناقض *m.* breaking, (criticising), contrary, opposite, against, repugnant. - توڑنے والا - مخالف

مناقض *m.* opposition, criticism, disagreement, quarrel. باهم ايك دوسرے كي بات كو توڑنا - اعتراض - جهگڑا

مناكب (*pl.* of منكب). جمع منكب كي

مناكحت *f.* nuptials, marriage. باهم - نكاح كرنا - نكاح هونا عورت كا مرد سے

مناكرت *f.* mutual fighting. - باهم كار زار كرنا - جنگ كرنا

مناكيب (*pl.* of منكوب), the distressed, poor or oppressed. جمع هے منكوب كي جس كے معني هيں خراب - بد حال - مفلس - سختي رسيدة

مناكير (*pl.* of منكر), indecencies, wicked acts. ناشايستگياں - بري باتيں

منال *m.* thing worth possessing or gaining, substance, wealth, property, garden, etc. جاے يافت - کسي شے کے حاصل هونے کي جگهه

منام *m.* a bed-chamber, a sleeping apartment, sleep, dream. - خوابگاه - جاے خفتن خواب - نيند

منامات (*pl.* of منام), جمع منام کي

منان *m.* very bountiful, exceedingly liberal or kind, munificent, bestower of gifts in abundance, an epithet of God بهت بڑا احسان اور نيکي کرنے والا - بڑي نعمت دينے والا - نام خدا کا

مناهج (*pl.* of منهج), straight and wide streets or roads. جمع هے منهج کي - راهيں راست اور کشاده

مناهل (*pl.* of منهل), springs, fountains. جمع منهل کي - چشمے

مناهي (*pl.* of منهي), prohibited or forbidden things, crimes. جمع هے منهي کي - مانع کي هوئي چيزيں - غير شرع اور نا جائز اور باتيں

منايا (*pl.* of منية), deaths. جمع هے منية کي جس کے معني هيں موت - مرگ

منبت *m.* place of growing or raising. جگهه اُگنے کي

منبت *munabbat*, caused to grow, inlaid, mosaic work. اگايا گيا وه چيز جس پر ابهرے هوے نقش هوں جيسے سکه کا نقش - روپيه وغيره

منبر *m.* a pulpit, a reading-desk بلند هونے کا آله يعني ايک قسم کي سيڑهي جو لکڑي يا اينٹ کي اکثر مسجدوں وغيره ميں هوتي هے اور اس پر عالم لوگ بيٹهکر نصيحت وغيره کرتے اور خطبه پڑهتے هيں

منبسط *a* dilated, extended, spreading, (*met*) rejoicing, exulting. بچهنے والا - کشاده هونے والا - پهيلنے والا - مجازاً معني مسرور - خوش حال

منبع *m.* a fountain, a spring or source of water, jet d'eau. - جگهه نکلنے پاني کي چشمه - پاني کا سوتا

منبعث *manba'is*, *a.* exciting. برانگيخته هونے والا

منبعث *manba's* *a* excited, stirred up. برانگيخته کيا گيا

من بعد *adv.* afterwards, for the future. اسکے بعد

منبل *a* idle, indolent, mistrustful. - کاهل سست - بد اعتقاد

منبلي *f.* idleness, negligence, mistrust, wickedness, denial بد اعتقادي - سستي کاهلي - مکري - رشتي

منبه cautioning, warning, informing. خبر دار کرنے والا

منبه *munabba*, *a.* cautioned, warned, informed, acquainted with. خبر دار کيا گيا

منبي *a.* communicating, imparting (as news). خبر دينے والا

منبه *m.* informed, acquainted with, intelligent. آگاه - خبر دار

منتج *m.* result, consequence, deduced, inferred. نتيجه دينے والا

منتخب *a.* chosen, selected, (*sub.*) a selection. خلاصه - برگزيده

منتجع *a.* virtuous, good, a place where there is plenty of water and green grass. - نيکوکار وه جگهه جهاں پاني اور هري گهاس بهت هو

منتجم *a.* resplendent, shining, brilliant. تاباں - روشن

منتخب *a* selected, chosen, abridged, an elect. - انتخاب کيا گيا - خلاصه کيا گيا - برگزيده مقبول

منتزع *a.* extracting, drawing out. کسي چيز ميں سے کهينچکر نکالنے والا

منتسب *a.* keeping connection, kinship. لگاؤ رکهنے والا - نسبت رکهنے والا

منتسج *a* woven. بنا هوا - بافته شده

منتسخ *a* taken (a prescription,) (according to some), rejected. نسخه ليا هوا - نسخه ليا ليا - اور بعضوں نے بمعني رد کرده شد کے بهي لکها هے

منتسم one who takes the cool air, (*met.*) smelling. ٹهنڈي هوا کهانے والا - مجازاً خوشبو لينے والا

منتشر *muntashir*, *a* diffusing, dispersing, scattering, publishing, divulging. بکهرنے والا - پراگنده - پهيلنے والا

منتصب *a.* erected, set up, getting a position. عهده پانے والا - کسي کام پر قائم هونے والا

منتضد *a.* staying in a certain house, arranged one over another. کسي مکان پر اقامت کرنے والا - ايک دوسرے پر چنا هوا

منتظم *m.* one who arranges, adjusting. انتظام کرنے والا - راست اور درست هونے والا

منتفع *mantafa'*, *a.* useful, beneficial. فائده مند

منتفع *muntafi'*, *m.* a gainer, one who uses, enjoys or has the advantage of a thing. فائده اٹهانے والا

منتفي *a.* annihilating, destroying, dissipating. نيست هونے والا

منتقد *muntaqid*, one who takes a loan. نقد لینے والا

منتقد *muntaqad*, *a.* tested, examined, pure. پرکھا گیا - کھرا کیا گیا - پاک - صاف

منتقع *a.* wet, moist, covered or soaked with water. تر شدہ - بھیگا ہوا

منتقل *a.* transported, carried. ایک جگہہ سے دوسري جگہہ جانے والا

منتقم *a.* taking revenge, avenging. بدلہ لینے والا - کسي سے کینہ کا عوض لینے والا

منتقي *a.* chosen, selected, elected. - برگزیدہ مقبول

منتن *m* fetid, rank, stinking, rotten (a thing). گندہ - بدبو - بدبو دار - سڑي هوئي چیز

منتهي *a.* reaching to the extremity, learned. انتہا کو پہونچنے والا

منتهي *m.* the end, conclusion, boundary, extremity. جاے انتہا - هر چیز کا اخیر

منثني *a.* doubled, bent, bending, bodied, hanging the head, bowing. - دوتا - سرنگون خم

منثور *m.* a pearl not bored, different, scattered, a subject that could not be ordered and arranged. بن بندھا موتي - متفرق - پڑا گندہ - وہ کلام جو نظم نہو

منج *f.* a green fly. سبز مکھي

منجب *a.* drawn, brought back. کھینچا گیا

منجس *munajjis*, *a.* polluting, uncleaning, defiling. ناپاک کرنے والا

منجل *minjal*, *m.* an instrument for scraping grass for horses, *f.* a sickle گھاس چھیلنے کا کھرپا - کھیتي کاٹنے کا هنسوا یا درانتي

منجلاب *m.* polluted water, more especially, that in which anything impure, such as a dog or carrion has been thrown, (*fig.*) a pit or receptacle for receiving dirty water from a bath room or kitchen. جگہہ گندہ پاني ڈالنے کي - مگر اصطلاحاً اور استعمال میں اوس گڑھے اور حوض کو کہتے هیں جس میں خراب اور بدبو دار پاني حمام اور باورچي خانہ وغیرہ کا جمع هو

منجلي *a.* conspicuous, apparent, leaving one's country. ظاهر - آشکارا - روشن - وطن سے باهر جانے والا

منجم *munajjim*, *m.* an astronomer, an astrologer, an almanac maker. نجومي - جوتشي

منجمد *a.* congealed, frozen, coagulated, shivering or stiffening with cold, concreted. سردي سے جما هوا - بسبب سردي کے ٹھٹھرا هوا جیسے پاني اور گھي سردي سے جم جاتا هے

منجنیق *m.* a huge warlike engine for flinging stones, a ballista. - ڈھیکلي - بڑا فلاخن ایک آلہ جس میں بڑے بڑے پتھر رکھکر گھما کر قلعہ کي دیوار پر مارتے هیں

منجوش
منجوق } a standard having the representation of a gold or silver moon. ماهچہ علم - سونے یا چاندي کي ایک چیز جو مثل چاند کے بناکر فوج کے نشان پر نصب کرتے هیں

منحات *m.* a carpenter's or joiner's tool used in paring or smoothing wood, a plane. بڑھیوں کا رندہ جس سے لکڑي کو صاف کرتے هیں

منحتہ *m.* a carpenter's plane, an axe. بڑھي کا رندہ - بسولا

منحدر *m. a.* coming down from a height. اوپر سے نیچے اترنے والا

منحرف change, inverted, declining or turning from, backsliding, an apostate, (*sub.*) a trapezium (in geometry). - پھرا هوا خم کھایا هوا - برگشتہ هونے والا

منحل *a.* extending. کشادہ هونے والا

منحني *a.* bent, crooked, hunchbacked, (*met.*) decrepit. - خمیدہ - جھکا هوا - خم کھایا هوا کبڑي پیٹھہ کا - مجازاً بمعني ضعیف اور ناتوان کے بھي مستعمل هے

منحوت *a.* peeled, cut, scraped. - تراشا گیا چھیلا گیا

منخر *minkhar*,
منخر *mankhar*, } *m.* the nostril. ناک کا نتھنا

منخرین *minkharain*,
منخرین *mankhirain*, } (*dual*) the two nostrils. دونوں سوراخ ناک کے

منخرط anything scraped or smoothed, anything turned on the lathe, (*met*) getting into order, dressing, anything threaded (as a needle). چھلي هوئي شے یعني وہ چیز جو بسبب تراشنے کے سب طرف اوس کے صاف هوگئے هوں - مجازاً بمعني آراستہ اور درست هونے والے دھاگے میں پرویا جانے والا

منخرق *a.* bursting, splitting, rending. پھٹنے والا

منخرم *m.* nose clipt, a man whose ear has been bored. ناک کٹا هوا - نکٹا - وہ شخص جس کے کان میں سوراخ کیا گیا هو

منخل *f.* a sieve for sifting flour. آٹا چھاننے کي چلني

منخور *m.* a nostril. ناک کا نتھنا

مند *a.* possessive, particle, which, added to nouns, implies endowed with, or having or possessed of, as عقلمند, sensible, دولتمند rich. بمعنے صاحب

مندبور weariness from bodily exertion or from walking a long distance, fatigued, distressed. - تهكا هوا راسته چلنے كي زيادتي سے ماندہ ۔ پریشان حال

منده *munaddid m* one who may divulge anothers secret جو کسي کے راز کو فاش کرنے والا اور ظاهر کردے

مندرج *a.* contained, inserted, included. درج كيا گيا - داخل كيا گيا

مندرس *a* old, obliterated, cancelled, worn out clothings. کهنه - پرانا - فرسوده - گهسا هوا چهیچڑا پرانا کپڑا

مندفه *m.* a ball of carded cotton. دهنکي هوئي روئي کا گالہ

مندفع *a.* averting, repulsing, removing. دفع هونے والا

مندک pieces, slips, bits. پاره پاره

مندل *m.* circle which an enchanter draws round himself, a kind of drum made of wood and beaten with the fingers. وه دائره جسکو منتر اور عزیمت پڑھنے والے اپنے گردا گرد زمین پر کهینچ لیتے هیں - پکهاوج

مندمج *a.* entering, joining. - داخل هونے والا شامل هونے والا

مندمل *m.* a healing wound. - گهاؤ بهرنے والا وه زخم جس کا گوشت بهر کے اچها هوگیا هو

مندوب *a.* lamented deplored, bewailed, an elegy. ... - وه رویا گیا - نوحه اور ماتم کیا گیا جو بین کے طور پر رونے میں کها جاوے

منديل *mandil f.* a handkerchief, a towel, a species of high turban, a girdle, a cloth worn round the waist. رومال - دستار - پٹکه جو کمر میں باندهتے هیں

منزجر restraining from, holding oneself back from. رهنے والا

منزل *f.* a day's journey rank, dignity a stage, an inn, a caravansary, habitation, dwelling, boundary limit, goal, a story or floor (of a house), deck (of a ship) mansion of the moon (in astrology) اترنے کي جگهه - وه جگهه جهاں مسافر سوے اور آرام کرنے کے واسطے اُترتے هیں - متعلق مکان اور گهر معني میں بهي مستعمل هوتا هے

منزل *munzal, a.* sent down, an angel. نیچے اُتارا گیا - نیچے بهیجا گیا - فرشته

منزل *munzil, a.* coming down, alighting, descending نیچے اترنے والا

منزلت *f.* dignity, station, condition, rank, post of honour, a house of accommodation for travellers. رتبه - درجه

منزلگاه *m.* a post house, a halting place after a day's journey, an inn. مکان - جاے نزول

منزوع *a.* drawn out extracted, brought out کهینچا گیا - نکالا گیا

منزوي *m* a solitary man, a hermit, *a.* lonely solitary, seclusive. - گوشه اختیار کرنے والا خلق سے ایک طرف هونے والا - گوشه میں بیٹهنیوالا

منزه *a.* pure, blameless holy, exempted from, free. پاک - صاف

منساه *m.* a rod, a staff. لاٹهي - عصا

منسج *m.* a weaver. بننے والا - جولاها

منستجب *a.* drawing, pulling, extracting. کهینچنے والا

منسد *a.* stopped, obstructed, dammed. انسداد کیا گیا - روکا گیا - بند باندها گیا

منسوح *a.* eased. آساني کیا گیا

منسک *a.* worshipping place a place where Hajis offer sacrifices. - عبادت کي جگهه حاجیوں کے قرباني کرنے کي جگهه

منسکب *a.* spilling water, weeping bitterly, shedding tears. پاني گرنے والا - بہت پاني گرانے والا - آنسو بهانے والا

منسلک *a.* joined, connected, united together. لڑي میں پرویا جانے والا - کسي چیز میں - لانے والا

منسوب *a.* related, addicted to, belonging to, depending on. نسبت کیا گیا

منسوج *v.* woven, *n.* a kind of silken cloth, (sometimes it means) brocade. - بافته شده بنا هوا - ایک قسم کا ریشمي کپڑا - کبهي مراد زربفت سے بهي هوتي هے

منسوخ *a* cancelled, obliterated, abolished, broken, destroyed. - دور کیا گیا - مٹایا گیا نیست کیا گیا

منسي *mansi, a.* forgotten. فراموش کیا گیا

منش *manish, f.* temperament, disposition, magnanimity, dignity, gravity, content, cheerfulness, pride, arrogance, desire طبیعت - خو - مزاج

منشا *m.* origin, source, beginning, principle, (*met.*) cause, reason account جگهه هونے کي - جگهه پیدا هونے کي - مجازاً بمعني سبب

منشآت *f.* created things, productions, *i. e.*, writings, compositions. پیدا کي هوئي چیزیں اور مراد اس سے مسودے ۔ عبارتیں ۔ تصنیفیں

منشار *m.* a saw, a hand-saw. آرہ لکڑي چیرنے کا

منشد *n.* one who reads a poem. شعر پڑھنے والا

منشرح *a.* apparent, clear, evident, obvious. کھلا ھوا ۔ آشکارا

منشط *munashshit*, *a.* exulting, making happy. خوشي میں لانے والا

منشق *munashaqq*, *a.* rent, split, torn into pieces, breaking asunder. شگافتہ کیا گیا ۔ پارہ پارہ کیا گیا ۔ ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا

منشور *a.* divulged, published, *m.* a royal mandate, diploma, patent. پرا گندہ ۔ پھیلا ھوا ۔ فرمان بادشاھي

منشي *m* creating a thing from the heart, beginner, a writer, a clerk, a secretary, (commonly means) a tutor, a teacher of languages. آغاز کرنے والا ۔ کسي بات کو اپنے دل سے پیدا کرنے والا

منصب *m.* place of establishing one's self, (*met.*) dignity, rank, office, ministry, magistracy. جگھہ قائم ھونے کي مجازاً بمعني رتبہ ۔ عہدۂ جلیل القدر ۔ مرتبہ

منصرف *a.* departing, receding, changing from one state to another. ایک حال سے دوسرے حال پر پھر جانے والا

منصف *a.* equitable, just, (*sub.* a distributor) of justice, a judge, an arbitrator. انصاف کرنے والا

منصوب *a.* constituted, ratified, fixed, established, appointed, named for, marked with the point. *fatha* (َ). کھڑا کیا گیا ۔ قائم کیا گیا ۔ حرکت زبر کي دیا گیا

منصوبہ *m.* contrivance, project, scheme, plan, a game at chess, the seventh game of drought. کوئي شے برپا کي ھوئي ۔ کسي کام کي تدبیر ۔ شطرنج کي بازي ۔ نام ساتویں بازي نرد کا

منصور *a.* aided, helped, defended, victorious, conquering, triumphant, name of a fakeer Husain. یاري دیا گیا ۔ مدد دیا گیا ۔ نام ایک فقیر کا جس کا نام حسین تھا

منصوص *a.* investigated, searched minutely, authenticated, manifested, clear. نمایاں تحقیق کو پھونچایا گیا ۔ نہایت تحقیق کیا گیا ۔ وہ امر جو قرآن شریف کي آیت صریح یا حدیث صحیح سے ثابت ھو اور معتاج تاویل کا نہو

منصہ *manssa*, *m.* a chair or stool on which a bride is seated and ornamented. وہ تخت یا چوکي جس پر دلھن کو جلوہ دیں

منضج suppurantia (in medicine). پکانے والا میدہ اور زخم اور خلط مادہ وغیرہ کا

منضد *munazzad*, *a.* piled one upon another. ایک دوسرے پر چنا ھوا ۔ تہہ پر تہہ رکھا ھوا

منضم *a.* mixed, united with, joined to. ملایا گیا

منضود *a.* piled one upon another. تہہ پر تہہ چنا ھوا

منطبع *a.* printed, stamped, trained. چھاپا کیا گیا

منطبق *a.* piling one upon another, (*met.*) equal, according to, corresponding, conformable. تہہ پر تہہ چننے والا ۔ مجازاً بمعني برابر موافق ۔ مطابق

منطفي *a.* extinguishing, extinct. بجھنے والا بجھا ھوا

منطق *mantiq*, oration, eloquence, logic. بات کھنا ۔ گفتگو ۔ نام ایک علم کا

منطق *mintaq*, *m.* a cloth worn round the waist, a girdle. پٹکہ ۔ کمر بند

منطق *muntiq*, *m.* orator, speaker. گویا ۔ کلام کرنے والا

منطقہ *m* girdle, zone, belt. پٹکہ ۔ کمر بند

منطقۃالبروج *mintakatu-l buruj*, the celestial girdle, *i. e.*, the zodiac, an imaginary belt or zone in the heavens, within which the apparent motions of the sun, moon, and principal planets are confined, divided into twelve equal parts or signs. آسمان پر ایک بہت بڑا دائرہ ھے جس پر بارہ برج آسماني واقع ھیں

منطقہ مبرودہ *m.* the frigid zone.

منطقہ محترقہ *m* the torrid zone.

منطقہ معتدلہ the temperate zone.

منطمس settling down, destroying, obliterating. نیچے بیٹھہ جانے والا ۔ محو اور نیست ھونے والا

منطوق } منطوقہ } speech, talk, conversation, subject, senses, significations. سخن کلام ۔ مضمون ۔ معاني

منطوي *a.* wrapped up, coiled up لپٹا ھوا

منطیق *a.* eloquent, agreeable, conversable, pleasing to talk. فصیح ۔ خوش کلام

منظر *m.* sight, spectacle, countenance, face, visage, aspect, eye, window. جائے نظر آنکھہ چہرہ ۔ دریچہ ۔ کھڑکي

منظوم *a.* joined, threaded, arranged in order, versified, poetic. پرویا گیا - نظم کیا گیا - وہ کلام جو نثر نہو

منظومہ *m* versified, poetic, metrical. نظم کیا گیا ہوا رسالہ

منعام *a.* very liberal, bountiful, generous. *m.* a benefactor. بہت بخشش کرنیوالا - بہت نعمت دینے والا

منعدم *a.* destructible, liable to ruin or annihilation, extinct, lost, annulled. نیست ہونے والا - نابود اور معدوم ہونے والا

منعطف *a.* bending, turning, inverting. مڑنے والا - خم کھانے والا

منعقد *a.* freezing, congealing. - بستہ ہونے والا جمنے والا

منعکس *a.* inverse, inverted, topyturvy, turned head, downwards, inverted rays. عکس قبول کرنے والا - شعاع جو الٹ کر آتی ہو

منعل *mun'ai*, anything of the shape of a a horse-shoe. وہ چیز جو گھوڑے کی نعل کی شکل پر ہو

منعم *m.* rich, wealthy, affluent, a benefactor. مالدار - نعمت دینے والا

منعوت *a.* praised. تعریف کیا گیا

منغص *munaghghas*, *a.* sullied, afflicted, disturbed, vexed, (*met.*) miserable, melancholy. مکدر - تیرہ - مجازاً بمعنی رنجیدہ

منغمس *a.* drowned, immersed, plunged in. غریق - ڈوبا ہوا

منفاق *a.* very extravagant, wasteful, lavish, spending profusely. بہت خرچ کرنے والا

منفجر *a.* burst, rent, split, a spring. - پھٹا ہوا چرا ہوا - چشمہ

منفخ *f.* a pair of bellows. دھونکنی لوہاروں کی

منفذ *a.* passage, an orifice. - جگہہ گذرنے کی راہ - جاری ہونے کی جگہہ - جگہہ گھس جانے کی

منفرج *a.* wide, ample, extended. کشادہ

منفرج *a.* tranquil, contented, happy. - خوش شاد

منفرد *a.* single, solitary, separate. تنہا - اکیلا

منفسخ *a.* contentious, quarrelsome, depraved, wicked. فاسد - تباہ - خراب

منفصل *m.*, منفصلہ *f.* } disjoined, distinct, dissected, separated. جدا - علاحدہ

منفصم *a.* broken, finished. ٹوٹا ہوا - ختم کیا ہوا

منفطر *a.* liable to break, split or rend. شگافتہ ہونے والا - چرا ہونا

منفعت *f.* emolument, profit, gain, advantage. سودمندی - فائدہ

منفعل *a.* disturbed, afflicted, bashful, abashed, ashamed. اثر قبول کرنے والا - شرمندہ خجل

منفق *a.* expending, providing one with bread and cloth. خرچ کرنے والا - روٹی کپڑا وغیرہ دینے والا

منفک *a* separated, disjoined. جدا - جدا کیا گیا

منفوش carded or combed (as cotton.) دھنکی ہوئی شے

منفی *a.* negative, annihilated, destroyed, repulsed, rejected, banished. - نیست کیا گیا نفی کیا گیا

منقاد *a.* obedient, tractable. مطیع - فرمانبردار

منقار *f.* a bird's bill, a beak, a gimlet, drill. بڑھی کا برما - پرند کی چونچ

منقاش *f.* tweezer, pincers, an instrument with which the nails are pared. بال اکھاڑنے کا موچنہ - ناخون تراشنے کی نہرنی

منقی *munaqqi*, *a.* purified, cleared, dried. پاک کیا گیا - خشک کیا گیا

منقبت *f.* praise, virtue, natural talent or abilities, (*fig.*) praise of Mahomet, his family and the sanits. تعریف کرنا - اصطلاحاً تعریف اور ثنا اہل بیت محمد اور اصحاب کبار کی

منقبض *a.* compressed, squaezed, fastend tight, contracted, constituted. - بھینچا ہوا گرفتہ شدہ تنگ کر کے باندھا ہوا - سمٹا ہوا

منقح *munaqqah*, cleared of falsehood, rendered clear or manifest, truth. جھوٹھہ سے پاک اور صاف کیا گیا - وہ شے جس میں دروغ نہو

منقسم *a.* divided into parts. - تقسیم ہونے والا بانٹا ہوا

منقش *munaqqash*, *a.* painted, embroidered. نقش و نگار کیا گیا

منقصت *muiqasat*, harm, loss, injury, defect, blemish. نقصان - عیب

منقضت *manqazit*, *f.* opposition, enmity. نقیض

منقضی *a.* elapsed, past, expired. - گذشتہ گذرا ہوا

منقطع *a.* terminated, finished, broken off, exterminated, disjoined. قطع کیا گیا

منقل *n.* a chafing-dish. انگیٹھی

منقلہ *m.* an advanced guard of an army, a detachment. اگلی فوج یعنی ہر اول

منقلب *a.* changing, revolving, moving, reversing. گردش کھانے والا - الٹنے والا - الٹا ہونے والا

منقلع a. uprooting, destroying. - اُکھڑنے والا پراگندہ ہونے والا

منقنع a contented, patient, bearing. قناعت کرنے والا - تھوڑي سي چيز پر صبر کرنے والا

منقوب a. bored, pierced. - سوراخ کیا گیا چھیدا گیا

منقوش a. painted, engraved, carved, embroidered. نقش کیا گیا - کھدا ھوا

منقوص a. imperfect, unfinished, deficient. ناقص - کم

منقول a. transcribed, copied, narrated, translated. نقل کیا گیا - بیان کیا گیا - ذکر کیا گیا

منقي a purging, cleansing, purifying, m. a purifier, cleanser. پاک کرنے والا - آلائش سے صاف کرنے والا

منکب m. the shoulder. دوش

منکبين (dual) both the shoulders. تثنیۂ منکب کا - یعني دونوں مونڈھے

منکدر a. dark, obscure, dirty. - تیرہ - دھندلا گندلا

منکر munkir, a. bad, ugly, vile, detestable, deformed, impolite, indecent, unworthy, illegal, unlawful, improper, m. name of one of the two fierce-looking black, livid angels who visit every man in his grave. These order the dead person to sit upright, examine him concerning his faith, as to the unity of God and the mission of Mohammad, if he answers rightly, they suffer the body to rest in peace, and it is refreshed by the air of paradise, but if not, they beat him on the temples with iron maces, till he roars out for anguish so loud, that he is heard by all from east to west, except men and genii. Then they press the earth on the corpse, which is gnawed and stung till the resurrection by ninty-nine dragons, with seven hands each, or as others say, their sins will become venomous beasts, the grievous ones stinging like dragons, the smaller like scorpions, and the others like serpents. بد قبیح - ناشایستہ - وہ بات جو خلاف شرع ھو - نام ایک فرشتہ کا دونوں فرشتوں میں سے جو قبر میں سوال کرتے ھیں

منکر a. denying. انکار کرنے والا

منکسر a. broken, shattered. ٹوٹا ھوا - شکستہ

منکشف a discovered, revealed, displayed, opened, laid, bare. - کھلنے والا - کشادہ - برھنہ کھلا ھوا

منکوب a. bad, ill-conditioned, oppressed, distressed, poor. خراب - بد حال - سختي کشیدہ - مفلس

منکوحہ f. married woman, a lawful wife, a. married. جورو - بیوي - نکاح کي ھوئي عورت

منکوس a. upside down, overturned, hanging the head. اوندھا - سرنگوں

منگیدن inf. to utter words with compressed lips, to mumble, to mutter. - بڑبڑانا - آھستہ زیر لب بات کہنا

منم m. an eavesdropper, an informer, backbiter. سخن چین - لترا

منن pl. of منت جمع منت کي

منوال a weaver's stick or board on which he wraps the woven cloth. (met.) mode, manner, rule, form. قاعدہ

منوب a. deputed, a governor having a deputy. نیابت کیا گیا - وہ شخص جس کا کوئي نائب ھو

منور a. illuminated, brilliant, splendid, clear, illustrated, explained. روشن - روشني دیا گیا

منوط a. hanged, suspended, anything connected or joined with another. - لٹکایا ھوا وہ چیز جو کسي چیز سے وابستہ ھو

منوع a. prohibiting, preventing. باز رکھنے والا - منع کرنے والا

منون time, world, age, death. - روز گار - زمانہ مرگ - موت

منوي fulfilment of one's wishes, intention. desire. نیت کیا گیا - مراد - وہ چیز جو ارادے میں ھو

منهاج } منهج } highway or road, a wide street. راہ راست - کشادہ - وسیع - سڑک

منهدم a. demolished, destroyed. ویران ھونے والا - گري ھوئي عمارت

منهزم a. defeated, discomfited, put to flight. لڑائي سے بھاگنے والا - شکست کھایا ھوا

منهضم a. digested. ھضم کیا ھوا - پچا ھوا

منهل place of drinking, a spring in a meadow or a jungle from which men and animals may drink water. وہ چشمہ جو چراگاہ اور جنگل میں ھو جس میں چوپائے اور آدمي پیویں

منهمر a. dropping, distilling, the rain. ٹپکنے والا - باراں - مینھہ

منهمک labouring hard. کسي کام میں بہت جي کوشش کرنے والا

منهوم *a.* greedy, avaricious, hungry voracious. حریص - لالچي - بھوکا - بولھکا

منهي *manhi, a.* forbidden, prohibited, unlawful, (*met.*) bad, wicked. - منع کیا گیا خلاف شرع - مجازاً بمعني بد - زبون - برا

منهي *munhi,* (*Pers. pl.* منهیان), an informer. فارسي جمع منهیان - خبر دینے والا

منهیات *pl* unlawful things. برے اور بد کام جن کا کرنا شرعي منع هے

منهیان (*pl.* of منهي), informers. جمع منهي کي هے - خبر دینے والے

مني *f.* presumption, boasting, egotism, selfishness. بغیر تشدید کے - مغرور - تکبر خود بیني

منی *m.* name of a street in Mecca where they offer sacrifices. نام ایک بازار کا مکہ میں جو مقام قرباني هے

منیب *a.* righteous, follower of truth. پھرنے والا طرف حق کے

منیه *munia, m.* desire, purpose, aim, purport, anxiety. آرزو - مطلب - مقصد

منیه *maniya,* death. مرگ - موت

منیر *a.* shining, splendid, illuminating, illustrious. روشني دینے والا - روشن

من یزید the highest bidding. اُس بیع کو کہتے هیں کہ جو دام زیادہ دے وہ لے - بولي نیلام کي

منیع *mani', a.* prohibiting, forbidding, (*met.*) strong, inaccessible, impregnable. باز رکھنے والا - منع کرنے والا - مجازاً حکم - استوار - مضبوط

منیف *a.* eminent, exalted, noble, sublime. پاک - بزرگ - بلند - زیادہ

منیوش (Prohibitive) "don't hear." صیغہ نهي کا هے - مت سن

مو *m.* the hair. بال

موات *mawat, f.* a lifeless thing, a waste land. وہ چیز جو بے جان هو - وہ زمین جو خشک هو اور بے مالک کي هو

موات *muwat, n.* death. مرگ - موت

مواثیق (*pl.* of میثاق). جمع میثاق کي

مواجب (*pl.* of موجب), salaries, wages, pensions, etc. جمع هے موجب کي - مجازاً بمعني تنخواہ و مشاهرہ کي

مواجهه *m.* presence, confronting, appearance, face to face. هم رو برو هونا

مواخات *f.* kinship, relationship, brotherhood. باهم برادري رکھنا - کسي کو بھائي بنانا

مواحشت *f.* hatred, dislike, enmity. - دشمني عداوت

مواخذ *a.* taken, chastised, calling to account. گرفت کرنے والا - مواخذہ کرنے والا

مواخذه *m.* taking satisfaction, retaliating chastising, calling to a severe account. کسي سے گرفت کرنا - جواب مانگنا کسي سے کسي بات میں

مواد *mawadd,* (*pl.* of مادہ), maters. جمع هے مادہ کي جو بمعني اصل هر چیز کے هے

مواهت *f.* dismissing, sending away, permitting to depart. رخصت کرنا - وداع کرنا

موارد (*pl.* مورد), springs, sources. جمع هے مورد کي - چشمے - وارد هونے کي جگهیں

مواریث (*pl.* of میراث). جمع میراث کي

موازرت *f.* help, assistance. کسي کي مدد اور یاري کرنا

موازنه *m.* of equal weight. هموزن هونا

موازي *a.* parallel, being exactly opposite to and resembling each other. برابر - مقابل

موازین (*pl.* of میزان). جمع میزان کي

مواسا / مواسات } society, fellowship, help, indulgence, remission, condolence, peace, sympathy, fellow feeling, good or fortunate actions. - یاري کرنا - رعایت کرنا - مدد کرنا - غمخواري کرنا - صلح کرنا

مواش (*pl.* of ماشہ), quadrupeds, cattle, more especially domestic beasts, as cows, buffaloes, sheep and goats, (also) animals carrying load. جمع هے ماشہ کي - چوپائے بہت راہ چلنے والے اور اطلاق اس کا اُن چوپایوں پر هوتا هے جو بارکش هیں - مثلاً گھوڑا - بیل وغیرہ

مواصلت *f.* interview, metting, conjunction, adhesion. - ملاقات کرنا - ملنا - وصل هو جانا - مل جانا

مواضع (*pl.* of موضع), places. جگهیں

مواضعت *f.* co-partnership. باهم شرکت کرنا

مواطات *f.* entering into friendship. موافقت کرنا

مواطان (*pl.* of موطن), native countries, homes, birth places, etc. جمع هے موطن کي - جس کے معني وطن کے هیں

مواظبت *f.* assiduity, perseverance. همیشہ ایک کام پر رهنا - ایک کام پر همیشگي کرنا

مواعدت *f.* mutual agreement mutual consent, mutual promise. باهم وعدہ کرنا

مواعظ (*pl.* of موعظت), advices, counsels, instructions. جمع مواعظت کي - نصائح - نصیحتیں

مواعید (*pl.* of میعاد), promises, etc. جمع هے میعاد کي جس کے معني هیں وعدہ کرنا

موافق conformable with, proportional, to consonant, congruous, apt, like, agreeing, suiting, favourable, propitious, entering into friendship. مطابق - موافقت کرنے والا

مرافقہ *f.* conformity, friendship, equality, concord, reconciliation. - ساتھہ - دوستي برابري - ميل جول

مواقع (*pl.* of موقع) places, mansions, etc. جمع هے موقع كي جس كے معني هيں جگهه - محل

مواقف (*pl* of موقف) stations, posts, places. جمع هے موقف كي - جگهيں ٹهہرنے كي

مواكب (*pl.* of موكبه). جمع موكبه كي

موالات *f.* friendship, affection, pursuing a business steadily or without intermisson. كسي كے ساتهه دوستي ركهنا - پے در پے ايک كام كرنا

موالفت *f.* love, affection, friendship, attachment. كسي كے ساتهه الفت كرنا - باهم الفت كرنا

موالي (*pl.* of مولی), lords, masters, friends, helpers, assistants. جمع مولی بمعني خداوند و يار و مدد گار كے

مواليد (*pl.* of مولود), sons. جمع هے مولود بمعني بچه اور فرزند كے

مواليد ثلاثه *m.* the three kingdoms of nature, (*viz.*, animal, vegetable, and mineral). كنايه هے حيوانات و نباتات و جمادات سے

موامرت *f* consultation, counsel, advice. كسي سے مشورہ كرنا

موانست *f.* companionship. fellowship, society, familiarity, intimacy. باهم دوستي كرنا

موانع (*pl.* of مانع), obstacles, impediments. جمع هے مانع كي - روكنے والي اور منع كرنے والي چيزيں

مواهب (*pl* of موهبت), gifts, generosities, liberalities, bounties - جمع هے موهبت كي بخششيں

مواهبه *f.* gift. favour, kindness, generosity, liberality, munificence. بخشش كرنا - عطا كرنا

مواهنت *f.* idleness, laziness, indolence. سستي كرنا

موائد (*pl* of مائده), trays full of dainties. جمع هے مائده كي كهانے كے بهرے هوے خوان

موبد *mubid, m.* a priest of the fire-worshippers, a philosopher, a doctor, an old wine seller. حكيم اور دانشمند اور پيشوا آتش پرستوں كا - صاحب حكمت - پير ميفروش

موبرآوردن زبان / مو بكف آمدن } *id.* to find a work hard to do, an arduous task, absurdity, intricacy. مشكل هونا كسي كام كا - غير ممكن يا سخت هونا كسي ... - امر محال كا ظهور ميں آنا

مو بمو hair by hair, minutely, circumstantially. سب بالوں ميں اور كنايه تمام و كمال سے

مرت احمر *lit.* red death, (*fig.*) agonizing death. لفظي بمعني سرخ مرت اور اصطلاحاً مرت سخت

موتي (*pl.* of ميت), the dead. مردگان - مرے هوے لوگ - مردے

موتراش *m.* a razor. بال مونڈنے كا استره

موتفك *m.* overthrowing, destroying. الٹ دينے والا

موتفكات *f.* the winds blowing from all directions, the countries of Lot destroyed by God's command. وه هوائيں جو كه هر طرف سے چليں - قوم لوط كے شهر جو بحكم خدا سے الٹ ديئے گئے

موتمر *a.* obedient, a counsellor. - فرمان بردار مشوره كرنے والا

موتمن *m.* a trustee, or depositary, *a.* faithful, honest. امانت دار - وه شخص جو كسي كے مال ميں خيانت نه كرے

موثر *muwassir, a.* penetrating, making an impression, efficacious. اثر كرنے والا - اس ميں همزه بصورت واؤ هے

موثر *muassir, a.* bounteous, liberal, munificent. بخشش كرنے والا - سخي

موثرات *pl.* efficacious, (sometimes) the heavenly stars. - تاثير كرنے والے - اثر كرنے والے كبهي آسمان كے ستاروں سے كنايه هوتا هے

موثم *a.* a sinner, criminal, guilty. - مجرم گنهگار

موثق *a.* steady, fixed, strong. - مضبوط استوار

موج *f.* a wave, whim, caprice. لهر - پاني كي لهر

موجب *m.* proper, right, applying, fixing (*met*) cause, motive, reason, account. واجب كرنے والا - لازم كرنے والا - مجازاً سبب

موج خيز (*met.*) a river. كنايه دريا سے

موجد *m.* an author, causer, corroborating reinstating (after sickness or poverty). كسي چيز كا اپنے دل سے پيدا كرنے والا - نئي چيز پيدا كرنے والا

موجز *m.* a summary, compendium, epitome name of a book on medicine. - مختصر - كوتاه - علم طب ميں ايک كتاب كا نام

موجزن *a.* waving, boisterous, billowy, tumultous. لهراتا هوا - موج مارتا هوا

موجع *a.* painful, distressing. درد مند - درد ناک

موجل *muwajjal, a.* deferred (as payment of a debt), givn time. مهلت ديا گيا - وقت مقرر كيا گيا - فرصت ديا گيا

موجودات (*pl.* of موجوده), creatures, existences, created beings. جمع هے موجوده كي - پيدا كي هوئي چيزيں - مخلوقات

موجه muwajjah, a. agreeable, acceptable خوب پسندیده

موچنه m. pincers, tweezers. موچنه - بالوں کے اکھاڑنے کا آلہ

موحد m. one who believes in one God, an unitarian, an orthodox. خدا کی یکتائی قبول کرنے والا

موحش muhhish, a. desolate, wild, famished, terrible. وحشت میں ڈالنے والا - بھگانے والا

موحش a. saddening, grievous. غمگین کرنے والا

مواخذ muwakhkhaz, a. taken, seized, retaliated upon, called to account. پکڑا گیا - سبب طلب کیا گیا

موخر muwakhkhar, posterior, consequent, delayed, procrastinated, (in astrology) a mansion of the moon. آخر کیا گیا - بچھیلا - نام چاند کی ایک منزل کا

موخر mukhir, m. the angle of the eye. آنکھ کا کویا جو کان کی طرف ھے

مودب mu'addib, a. respectful, civil, polite, courteous, welltrained or desciplined (also used adverbially). ادب دینے والا

مودب mu'addab, a. respected, honoured. ادب دیا گیا

مودت f. friendship, love, affection. دوست رکھنا - دوستی کرنا - دوستی - صحبت

مودا muwadda, a. performed, paid, (sometimes) subject, meaning. - ادا کیا گیا پھونچایا گیا - اور کبھی بمعنی مضمون و معنی کے بھی آتا ھے

مودی muwaddi, f. paying, performing what is due. ادا کرنے والا - پھونچانے والا

مودع mudi', a. dismissing, permitting to depart. رخصت کرنے والا

مودع muda', a. dismissed, permitted to depart. رخصت کیا گیا

مودعه m. deposited (thing), given in charge, consigned. سپرد کی ھوئی شے

مودود a. loved, efriended. دوست رکھا گیا

موذا a. oppressed, troubled, vexed, harassed, persecuted. اذیت دیا گیا - اذیت پھونچایا گیا

موذن muvazzin, m. (among Mohammedans) a public crier to prayers. اذان کہنے والا نماز کی بانگ دینے والا

موذن muzin, a. informing, cautioning. آگاہی دینے والا - خبردار کرنے والا

موذن تسبیح - a large bead in a rosary, which remains fixed in the band, and is not turned over in counting. کنایہ ھے تسبیح کے امام سے

موذی a. troublesome, importunate, vexatious, pernicious. دکھ دینے والا

مور n. an ant. چیونٹی

مورث m a person from whom an inheritance is derived. وارث کرنے والا - ترکہ پھونچانے والا - وہ مرنے والا جو مال اور وارث چھوڑ جائے

مورچا m rust. لوھے کا زنگ

مورچال / مورچل f. lines of intrenchment, trenches (in a fort). وہ گڑھے جو قلعہ فتح کرنے کے لئے چاروں طرف کھودتے ھیں

مورچه (dim. of مور), a small ant, rust. ایک قسم کی بہت چھوٹی چیونٹی - زنگ جو لوھے کے اندر گھس جاتا ھے

مورخ muwarrikh, m. an annalist, a historian, a chronologer, biographer. تاریخ لکھنے والا

مورد maurad, a spring for men and beast in a jungle, the place of arrival. چشمہ پانی پینے آدمیوں اور بہائم کا جنگل میں - جگہہ اور مقام وارد ھونے کا

مورد muarrad, cloured red, (rose-coloured). گلگوں یعنی سرخ مانند گلاب کے پھول کے کیا گیا

مورد murid, m. the myrtle. نام ایک درخت کا جسے عربی میں آس کہتے ھیں

مورث a. hereditary, inherited. - ترکہ دیا گیا وراثت دیا گیا

مورود a. used or practised daily, performed as a daily task of devotion. - ورد کیا گیا وظیفہ کیا گیا - ھرروز بلا ناغہ کیا گیا

موریانه m. rust, more especially that which cannot be polished. لوھے کا زنگ

موز m. a plantain tree. کیلہ کا درخت

موزع muwazzi', a. dispersing, scattering, dividing. پرا گندہ کرنے والا - تقسیم کرنے والا

موزون a. weighed, well adjusted well-measured (verse). تلا ھوا وزن کیا ھوا

موسر a. rich, wealthy, opulent. تونگر - دولتمند

موسس a. establishing, confirming, rendering strong, laying a foundation. استوار اور مضبوط کرنے والا - بنیاد ڈالنے والا

موسم muassam, a. named نام رکھا گیا

موسوم a named, called, marked, signed, impressed, aforesaid, above mentioned. نام رکھا گیا - نام کیا گیا - نشان کیا گیا - داغدار

موسی m. a razor, Moses the Jewish legislator. استرہ بال موندنے کا - نام مشھور پیغمبر کا

موسیچه m. name of a white bird equal in size to a turtle dove, (some say it means a wagtail *Motacilla*. ایک پرند هے سفید رنگ برابر قمري - اور بعضے مولا نو موسیچه کهتے هیں

موسیقار music, a kind of musical instrument, a kind of bird having many holes in her bill نام ایک ساز یعني باجه کا - نام ایک پرند کا جسکي چونچ میں بهت سے سوراخ هوتے هیں

موش m. a rat, mouse. چوها

موشح muwashshakh, a. ornamented, decorated, an ornament waist and crossing behind and before, a composition in verse in which the first (or other) letters of the times from the name of a person, etc. acrostic. - زیور سے آراسته کیا گیا - بدهي پهنا یا گیا - ایک قسم کا زیور عورتوں کا - نام ایک صنعت کا هے که هر شعر یا هر مصرعه کے اول سے ایک ایک حرف جمع کرکے اس سے کسي شخص کا نام یا مصرعه حاصل هوتا هے

موش خور n. a kite, a vulture. چیل یا گد

موش خرما m. a squirrel. گلهري جو ایک مشهور جانور هے

موش دشتي m. a mole, a wild rat. جنگلي چوها

موش کور / موشک کور } n. a mole. چهچهوندر

موشک دواني f. a sort of squib let off from the hand, (*fig.*) disturbance. ایک قسم کي آتشبازي کا نام هے - اصطلاحاً فتنه انگیزي

موصی / موصي } musa or muwassa, a. bequeathed, eft by will, devise by will. وه شخص جس کو وصیت کي هو - وصیت کیا گیا

موصی به musa bihi, a legacy, a bequest وه شے جسکے دینے کي وصیت کي هو

موصف muwassaf, a. praised, celebrated. صفت و تعریف کیا گیا

موصل n. name of a city Mossul, name of an island, place of meeting, place of visit. عرب میں ایک شهر کا نام - نام ایک جزیره کا - ملنے کي جگهه - ملاقات کا مقام

موصل musil, m. a carrier, a bearer. پهونچانیوالا

موصل muwassal, a. arrived, joined, united, engrafted. وصل کیا گیا - پیوند کیا گیا - ملایا گیا

موصوف a. praised, celebrated, before mentioned, (*sub.*) a noun substantive qualified by an adjective. وصف و تعریف کیا گیا

موصول a. joined, coupled, arrived. - ملا هوا وصل کیا گیا

موصي m. making a will, a testator. وصیت کرنے والا

موضوع m. a subject, object. a. established, placed, situated, conventional. - رکها گیا کیا گیا - وه شے اور مقصد جسکا ذکر اس علم میں هو

موطن m birth-place, dwelling, home, (*pl.* of جاے وطن - اپنا دیس جمع اس کي .(مواطن مواطن هے

موظف muwazzaf, a. fixed, limited, allowed, paid (wages, salarly, etc.) وظیفه کیا گیا وظیفه دیا گیا

موظف muwazzif, a. paying doing one thing constantly. وظیفه دینے والا - همیشه ایک کام کو کرنے والا

موعد m. time or place of promise. وقت وعده کرنے کا - جگهه وعده کرنے کي

موعدت f. promise, contract, compact, treaty. وعده - عهد - پیمان

موعظت f. advice, admonition. - نصیحت - پند نصیحت کرنا

موعود a. promised, predicted, foretelling. وعده کیا گیا

موفا muwaffa, a. performed, fulfiled, (*met.*) whole, perfect. وفا کیا گیا مجازاً بمعني تمام و کمال

موفر muwaffir, a. increasing, multiplying. زیاده کرنے والا

موفر muwaffar, a. increased. زیاده کیا گیا

موفق muwaffiq, a. favouring, assisting. توفیق دینے والا

موفق muwaffaq, a. favoured, assisted, provided with a gift of virtue. - توفیق دیا گیا نیک کام کرنے کا اسباب مهیا کیا گیا

موفور a. copious, full, numerous, abundant, many, plentiful. زیادتي کیا گیا تمام

موفی muwaffa, a. performed, fulfiled, (*met.*) perfect, whole, all. تمام کیا گیا - وفا کیا گیا مجازاً کامل - تمام

موق m. the angle of the eye. ناک کي طرف کا آنکهه کا کویا

موقت muwaqqat, a. fixed or restricted to a certain definite time. - کسي وقت پر ٹهرایا هوا وقت کیا گیا

موقر muwaqqar, a. honoured, revered, respected, tested, examined, grave, solemn. بزرگ رکها گیا - آزمایا گیا - عزت دیا گیا - بردبار حلیم

موقع muwaqqa', a. exalted, raised. بلند کیا گیا

موقع mauqa', m. a place where anything happens, a contingency, place of a fall. جگهه واقع هونے کي - جگهه گرنے کي

موقف *m.* a station, post, place of the plain, seven miles from Mecca where the Haji's stand. جگهه ٹهہرنے هونے کي . جگهه کهڑے هونے حاجيوں کي جو ايک ميدان هے سات کوس کے فاصلے پر مکه سے

موقن *m.* a believing person. يقين کرنے والا مرد

موقنه *f.* a believing women. يقين کرنے والي عورت

موقوف *a.* deferred, postponed, relinquished, delayed, dependent on, (*met.*) dismissed, ٹهہرايا گيا - مجازاً برخاست کيا گيا اپنے کام معمولي سے روک ديا گيا

موکب *m.* an army, forces, a choice body of troops, the troops who march in front of a nobleman. گهوڑه سواروں کا جو امير کي سواري کے آگے چلے - سواروں کا لشکر

موکد *muwakkid a.* confirming, corroborating, ordering. تاکيد کرنے والا

موکد *muwakkad, a.* ordered, enjoined, confirmed, corroborated, efficacious. - تاکيد کيا گيا استوار

موکل *muwakkal, m.* one who is appointed a guardian, a superintendent, viceregent, pleader. وه شخص جس کو کسي نے کچهه کام سپرد کيا هو

موکل *muwakkil, m.* a constituent, one who delegates power. سپرد کرنے والا کام کا دوسرے شخص کو

مول *f.* a beautiful mistress, blandishments, coquetry, playfulness, gracefulness, elegance, pride, consequential airs, ogling, delay, repentance, *m.* a bastard, *imp.* stop. عورت حسين جو معشوق هو - ناز - غمزه - تا خير - توبه - حرام زاده - اور امر بهي هے بمعني ٹهہر

مولى *m.* a released slave, neighbour, friend, helper, (also) lord, master, chief, head, (in *Pers.* مولا). غلام ازاد - همسايه - يار - مدد کرنے والا - مدد گار - اور بمعني خداوند سردار - مالک بزرگ قوم

مولد *maulid, m.* nativity, birth, native land, birthplace, time of birth. مقام جهان پيدا هوا هو - وطن - جاے ولادت - وقت پيدايش

مولد *muwallid, a.* procreating, bringing forth. جننے والا - پيدا کرنے والا

مولد *muwallad, a.* begetten, a Persian brought up in Arabia, a Persian word used by Arabians in their dialect, a person of mixed breed, halfcaste, a mongrel. عجمي شخص جس نے عرب ميں پرورش پائي هو - وه لفظ عجمي جس کو عرب اپنے کلام ميں استعمال کريں دو نطفه - دمي - دو غله

مولع *a.* greedy, addicted to passionately fond of. حريص - لالچي

مولف *muwallif, m.* a compiler, a composer, an author, editor. الفت دلانے والا - جمع کرنے والا متفرق چيزوں کا آپس ميں

مولف *muallaf, a.* composed, edicted, collected جمع کيا گيا

مولفات *pl.* writings, compositions, compilations. تاليف کي هوئي کتابيں

مولم *a.* ailing, paining, afflicting, distressing, troubling. درد دينے والا - دکهه و الم دينے والا

مولو *n.* a blowing horn. حيوان کي شاخ يعني سينگ جسکو فقير و جوگي بجاتے هيں

مولود *a.* born, generated. *n.* a son, a new born child, birthday or time, nativity. بچه جو نيا پيدا هو خواه لڑکا هو خواه لڑکي - وقت پيدايش

مولوي relating to. مولا a master, a lord, a learned man, a doctor. - منسوب طرف مولا معني خداوند صاحب کے

موله *m.* enamoured, mad, insane, a lover a kind of willow tree called *Bed Majnun* شيفته - عاشق - ديوانه - مجازاً ايک قسم درخت بيد کي جسکو بيد مجنوں کهتے هيں

مومل *a.* hopeful. *n.* a candidate. اميد وار

مومن *a.* faithful, believing, orthodox. ايمان لانے والا

مومى *a.* pointed at, mentioned, limited at. ايما سے صيغه اسم مفعول کا هے

مومى اليه aforesaid, above mentioned. وه شخص جسکي طرف اشاره کيا گيا هو

موميا *m.* } name of a black thing used as
مومیائي } medicine. نام ايک شے کا جو بطور دوا کے استعمال کرتے هيں

مونت *f.* weight burden, labour, toil, grief, provisions, daily food, a wallet, daily expenses. بوجهه - بار - گراني - محنت - رنج - سفر کا توشه - زاد راه - خرچ ضروري روز مره

مونث *muwannas, f.* feminine, effeminate. عورت - ماده

مونس *m.* a companion, an intimate friend, a comforter. همدم - آرام دينے والا

موهب *mauhib, m.* a present, gift. انعام

موهب *mahūb*, one who accepts a present, the person to whom anything is given. انعام قبول کرنے والا - جسے نعمت ملے

موهبت *f.* bounty, gift, favour, liberality. بخشش - عطا

موهن *a.* enfeebling, relaxing. سست کرنے والا

موهوب *a.* given, granted, bestowed on. عطا کیا گیا - بخشا گیا

موهم *a.* imagined, suspected, imaginary. وهم کیا گیا

موهون *a.* enfeebled, relaxed, weakened. سست کیا گیا

موے *m.* the hair. بال

مویان *a.* weeping, lamenting, weeping over the dead. گریان - روتا هوا - مردہ پر نوحہ کرنے والا

موید *muaiyad,* assisted, helped, corroborated. تائید کیا گیا - مدد دیا گیا

موید *muaiyid, m.* a helper, an assistant, corroborating. تائید کرنے والا - مدد دینے والا

مویز *m.* a raisin, dried grapes. بڑا انگور خشک کیا هوا - داکھ (هندي)

مویہ *m.* weeping, lamentation. روفا - نوحہ مردہ پر

موئیدن *f.* to weep, to lament, to bewail. نوحہ کرنا - مردہ پر رونا

موینہ a leathern garment. پوستین یعني وہ لباس جو حیوانات کے پوست سے بناتے هیں

مہ "don't do." - مکن - یہہ اسماے افعال سے هے - مت کر

مہ *mih, a.* great, chief, principal. - بزرگ - سردار قوم

مہ *mah,* (*cont.* from ماہ), *m.* the moon, the month. مخفف ماہ کا چاند

مہابت *f.* fear, dread, awe, anger, greatness, majesty, reverence. - خوف - ڈر - غصہ - بزرگي (فارسي) شان - شکوہ

مہاجر one who abandons or quits (his native country), one who performed the هجرت with Mahomet and his allies. ایک جگہہ سے دوسري جگہہ چلا جانے والا - مفارقت کرنے والا - اپنے مکان اور عزیزوں سے - یعني مسافر وہ شخص جس نے محمد کے همراہ مکہ سے طرف مدینہ کے هجرت کي

مہاجرت *f.* abandoning, (a native country), flight, desertion, separation, distance. وطن چھوڑ کر دوسري جگہہ چلے جانا - جگہہ رهنے کي چھوڑنا

مہاد *m.* bedding, floor, (this word is *sing.* and is not the *pl.* of مہد). فرش - بچھونا

مہار *f.* the bridle, reins, a piece of wood put through a perforation in the nose of a camel to guide him by. - اونٹ کي نکیل - وہ لکڑي جو اونٹ کي ناک میں ڈالتے هیں اور اس میں ایک رسي باندهتے هیں

مہارب (*pl.* of مهرب), places of flight, asylums. جمع مهرب بمعني گریز گاہ - بھاگنے کي جگہیں

مہارت *f.* subtlety, acuteness, genius, excellence, ability, merit. استادي - استعداد

مہالک (*pl.* of مهلکہ), dangerous places. جمع هے مهلکہ کي - هلاکت کي جگہیں

مہام *mahamm,* (*pl.* of مہم). serious affairs, important, transactions. جمع مهم کي - سخت کام

مہان *mihan,* (*pl.* of مہ), the great, the chief. جمع مہ کي - بزرگ لوگ

مہان *muhan, a.* disdained, insulted, disgraced, contemptible. اهانت کیا گیا - ذلیل

مہب *mahabb, m.* a place whence or whither the wind blows. جگہہ چلنے هوا کي

مہبط place of alighting. جگہہ اترنے کي

مہتاب *m.* the moon, moonshine, a kind of fireworks. چاندني

مہتابي *f.* a kind of fireworks, an open high terrace. - ایک قسم آتشبازي کي جو مشہور هے وہ چھوٹي عمارت جو لب حوض بنائے دیکھنے سیر کے بناتے هیں

مہتدي *muhtadi, m.* an instructor, a guide, director. هدایت کرنے والا

مہتدی *muhtada, a.* directed, instructed, guided, to the right path, steered (to the right or left.) - هدایت کیا گیا - هدایت پایا گیا راہ راست پایا گیا

مہتر *mihtar, m.* a chief, a prince, a great man. بہت بڑا بزرگ

مہتم *a.* thoughtful, anxious. *n.* a superintendent, factor. انتظام کرنے والا

مہج (*pl.* of مہجہ), lives, souls. جمع مہجہ کي جو بمعني جان اور روح کے هے

مہجۃ الاحجار *lit.* lives of stones, (*fig.*) precious stones (as ruby, carbuncle, turquoise, etc.) لفظي معني جان پتھروں کي - اور اصطلاحاً بمعني جواهر مثل زمرد یاقوت وغیرہ کے

مہجع *muhij', m.* sleeping, slumbering. سونے والا

مہجع *mahaj, m.* bed-chamber. - خواب گاہ سونے کي جگہہ

مہجو *a.* satirized, censured in a satiric manner. هجو کیا گیا

مہجور *a.* left, separated, cut off, forsaken (by one's beloved), useless talk. چھوڑا گیا - جدا - جدائي کیا گیا - سخن ناحق

مہجہ *m.* life, soul, blood in the heart, (*met.*) the best part of anything, essence, abstract, abridgment, جان - روح - دل کے درمیان کا خون - مجازاً خلاصہ ہر چیز کا

مہچہ *m.* a little moon, the ornament or emblem on the top of an ensign staff, the crescent, the tassel of a flag. ماہچہ یعني وہ چیز خوبصورت چاند کے - سونے یا چاندي وغیرہ کي گول بنا کر صیقل کرکے فوج کے نشان اور علم کے سرے پر نصب کرتے ہیں - پرچم جھنڈا کا

مہد *m.* a swing, a cradle. گہوارہ جو چھوٹے لڑکوں کي پرورش کے لئے بناتے ہیں

مہدي *muhdi, m.* a guide or convoy, an instructor, the name of the twelfth and last Imam according to the doctrines of the Shiahs, who is said to be still living, but invisible, and will appear at the approach of the day of judgment. ہدایت کرنے والا - رہنما

مہدي *mahdi, a.* instructed, guided. ہدایت کیا گیا

مہذار *m.* a babbler, one who talks foolishly. بیہودہ گو

مہذب *muhazzib, p. a.* purifying, cleansing. عیبوں سے پاک کرنے والا

مہذب *muhazzab, a.* purified, cleansed; adorned; name of a lexicon. عیبوں سے پاک کیا گیا - آراستہ کیا گیا - نام ایک کتاب لغت کا

مہذب الاخلاق *a.* affable, of good disposition, well bred خوش خو - نیک خصلت - خوش خلق

مہر *mahr, m.* a marriage portion or gift settled upon the wife before marriage, contracting by writing for each settlement. وہ روپیہ یا جنس جو عورت کو عیوض نکاح کے خاوند دیتا ہے

مہر *mihr, m.* the sun, love, kindness, the name of a Persian month in which falls the autumnal equinox. سورج - محبت - نام شمسي مہینہ کا

مہرا *a.* well-cooked. خراب پکایا گیا

مہران *n.* name of a medicine. نام ایک دوا کا

مہرآوردن *id.* to feel pity. رحم کرنا

مہرب *n.* an asylum, place of refuge. گریز گاہ

مہربست *a.* finished, completed. یعني تمام ہوا

مہر جان افروز *met.* wine. کنایہ شراب سے ہے

مہرشفا *m.* a knotted string tied round the neck of a child, etc., as a charm or talisman. وہ چیز جو عزیمت پڑھنے والے سوت کے ڈوري پر پڑھہ پڑھہ کے پھونکتے جاتے ہیں اور گرہ لگاتے جاتے ہیں اور پھر اوس کو بیمار کے گلے میں صحت کے لئے ڈالدیتے ہیں

مہرکن *m.* a seal-engraver. مہر کھودنے والا

مہر گرم کردن *id.* to love much, to show a great affection. بڑي محبت کرنا

مہر موم *m.* the impression of a seal. نقش مہر کا

مہر موم ساختن *id.* to show, to manifest. کنایہ ہے ظاہر کرنے سے

مہرو *a.* moon-faced beautiful. چاند کي شکل کا

مہروب *a.* a runaway, deserter, fugitive, escaped. بھاگا ہوا

مہرہ *m.* a shell, cockle-shell, a bead, a charmed stone said to be found in the head of a serpent. کوڑي - گھونگا - منکا - دانہ جیسے تسبیح کا

مہرہ *m.* a colt, the face of a horse. گھوڑي کا بچھیڑا - گھوڑے کا چہرہ

مہرہ *mahara, (pl. of* ماہر*)*, the intelligent, the skilful, the masters. جمع ماہر کي - بڑے جاننے والے - استاد لوگ

مہرہ از کف بیرون انگندن *id.* to lose a game. کنایہ بازي ہار جانے سے

مہرہ باري *f.* fraud, imposture, cheating. مکاري

مہرہ چین *m.* a juggler, a tumbler, one who shows feats of activity, a cheat a knave, impostor. حقہ باز - بازي گر - حیلہ گر - مکار

مہرہ سفید *m.* a conch, shell. ناقوس - سنکھہ

مہرہ نہ پہرباگون (*met.*) the earth. مراد زمین سے

مہرہ لاجورد (*met*) the bule sky. مراد آسمان سے

مہرہ مار (in *Sikandarnama*) a particular handmaid. سکندر نامہ میں مراد ایک کنیز مخصوص سے

مہزول *a.* thin, weak, lank. لاغر - دبلا

مہزوم *a.* defeated, beated, overpowered. شکست دیا گیا - شکست پایا ہوا

مہضوم *a.* digested. ہضم کیا گیا - پچایا گیا

مہ کنعان *lit.* the moon of Canaan, i. e., Joseph. مراد یوسف سے

مہل *mahal*, slowness, delay. آہستگي - دیر

مہل *muhl, a.* melted copper. - مس گداختہ پگھلایا ہوا تانبا

مہل *muhil, (pro.)* "don't leave", "don't release." صیغہ نہي کا ہے هلیدن سے یعني مت چھوڑ - مت رہا کر

مہلت *f.* retarding, deferring, laziness, indolence, respite, time, leisure. آہستگي - دیر - فرصت - تاخیر

مهلک *a.* destroying, killing, fatal, deadly. هلاک کرنے والا

مهلکه *m.* a dangerous place, a desert, a place of slaughter. جگهه هلاکت کي

مهلل *m.* acknowledging the true God, by repeating in Arabic, the sentence, لااله الاالله *La ilaha il lillah,* there is no God but God. تهليل کرنے والا يعني لااله الاالله پڑهنے والا

مهلهل *n.* poisoned, a thin cloth. زهر ديا گيا - جهر جهرا کپڑا

مهم *muhimm, f.* aggrieving, troubling, distressing, (*met.*) important, urgent, momentous business. - غم اور رنج ميں ڈالنے والا - مجازاً امر عظيم - کار دشوار

مهما امکن *as far as possible.* جهاں تک که ممکن هو

مهمات *pl.* important affairs, subjects of great moments, expeditions. - بهت سي مهمين امور عظيمه ضروري کام

مهمار *a.* very silly, talking foolishly. سخت بيهوده گو

مهماز *n.* a spur. ارهي کا کانٹا جو سواروں کي ايڑي پر لگا هوتا هے

مهمانسرا *m.* a house for the entertainment of guests or strangers, a hospitable mansion, an almshouse alms or food distributed daily to the poor, or to travellers. مسافروں کے اُترنے کي جگهه - لنگر - سدا برت - جهاں مسافروں يا غريبوں کو روز خيرات يا خوراک تقسيم کي جاوے

مهمذر *a* talkative, loquacious, garrulous, babbling. سخت بيهوده گو - بسيار گو

مهمل *a.* left, forsaken, abandoned, worthless, meaningless, a foolish word. چهوڑا گيا - ترک کيا گيا - بيکار - بے معني - لفظ بيهوده

مهموز *a.* defective, having the symbol *hamza* (applied to the letters ا or *wao* or ے *ye* marked with *hamza,* shewing it to be a radical letter) - معيوب - عيب کيا گيا - وه کلمه جس کے اصلي حرفوں ميں سے ايک حرف همزه هو

مهموم *a.* sad, gloomy, melancholy. - اندوهگين غمگين

مهنه *munma, m.* a jungle, wood, wilderness. جنگل بيابان

مهمه *muhimma, m.* afflicting, distressing, involving in sorrow, (*met.*) important affair, hard work. غم و رنج ميں ڈالنے والي شے مجازاً يعني کار ضروري دشوار کام

مهميز a spur. - امسالک مجازاً مهميز کا پانر مجهول سے سواروں کا آهني خار موزوں پر ايڑي کے قريب لگاتے هيں

مهنا *muhanna, a.* agreeable, pleasant, digesting, digestible, of an agreeable taste. گوارا - هاضم - خوش مزه

مهند *muhannad, f.* an Indian made sword. هندوستان کي بني هوئي شمشير

مهندس *m.* a surveyor, a geometrician اندازه کرنے والا - وه شخص جو علم هندسه اور اشکال ميں عالم هو

مهنه *n.* name of a district in Khurasan where the poet Anwari was born. نام ايک موضع کا خراسان ميں جهاں انوري شاعر پيدا هوا تها

مهوش moon-like, (*met.*) a beautiful and lovely woman, a sweetheart. - چاند کے مانند مجازاً معشوق

مهول *a.* fearful, timid, cowardly, pusillanimous. خوف زده - ترسناک

مهي *mihi, f.* greatness, chiefship. - بزرگي سرداري

مهيب *a.* formidable, awful, severe, grave, revered, robust. وه شخص جس سے لوگ ڈريں

مهيج *a.* raising, producing, raising dust. اٹهانے والا - غبار اور گرد اٹهانے والا

مهيل *f.* place of fear, a dreadful place جگهه خوف کي

مهيمن *m* freeing one from care or danger, a true witness, one of the titles of God, kind, a protector, keeper. وه شخص جو دوسرے کو خوف سے ايمن کر دے - گواه صادق - ايک نام خدا کے ناموں ميں سے اور بمعني مهربان نگهبان

مهين *mihin, a.* greater, greatest, very honourable, greatly revered. - بزرگ تر بڑا بزرگ

مهين *mahin, a.* weak, languid old, (*met.*) dispised, contemptible. سست - ضعيف - مجازاً معني حقير - ذليل

مهينه *a.* great, honourable. بزرگ

مے *f.* wine, sprituous, liqour. شراب

مے ناب *f.* pure wine. شراب خالص

ميادين *pl.* of ميدان. جمع هے ميدان کي

مے سے آلوده کردن *id.* to make deep red. کنايه هے بهت سرخ رنگ کرنے سے

ميامن (*pl* of ميمنت), blessings, gifts, fortunes, happinesses, virtues, (also) the *pl.* of ميمنه جمع ميمنت کي - برکتيں - سعادتيں - نيکياں اور جمع ميمنه کي

میان *f.* the middle, the waist. کسي چيز کا بيچو بيچ - اور اسي سبب سے بمعني کمر مستعمل هے

میان بستن *id.* to be prepared, (for action), to get ready. مستعد هونا

میانجي *m.* an ambassador, envoy, a messenger, (also) ambassadorship, situation of courier. - ايلچي - قاصد - اور بمعني ايلچي گري قاصدي کے بهي هے

میانداري *f.* pimping. دلالي - قرمساقي

میاندادن *id.* to allow, to permit. اجازت دينا

میان در عيد the eleventh month (ماه ذيقعده) of the Mohammedan lunar year. ماه ذيقعده

میانه middling, middlemost. درميان کا - يعني نه بڑا نه چهوٹا - منجهولا

میانه روئي *f.* moderation. زيادتي اور کمي سے بچنا - بيچ کي راه چلنا

مياه (*pl.* of ما), water. بمعني جمع ماه پاني کي

ميت (both *mas.* and *fem.*) the dead body. مذکر و مونث دونون برابر هين - مرده - مري هوئي لوتهه

ميثاق *m.* an agreement, a promise, compact, bargain, alliance, confederacy, league firmness, stability. - عهد - پيمان - استواري - مضبوطي

مے خام *f.* pure wine. خالص شراب

ميخانه *m.* a tavern, (also) cups, goblets, etc used for drinking wine. شراب خانه اور مراد اسباب اور ظروف شرابخوري سے

ميخ دوز *a.* crupple. اپاهج

ميخک *f.* a tack, a small nail. - چهوٹي کيل نوکا

ميخوش *a.* mixed taste of sour and sweet کهٹ ميٹها

ميدان دادن *id.* to leave a seat out of respect for some one. کسي کي تعظيم کے لئے جگهه خالي کردينا

مے در گريبان کردن *id.* to compel one to drink wine. کسي کو زبردستي شراب پلانا

ميذنه *m.* the steeple of a mosque, from the top of which people are summoned to prayer. جگهه اذان کهنے کي

مير (*cont.* from امير), a chief, a leader, a title by which *saiyids* are addressed. مخفف اميرکا - سردار

مير آب *m.* a gardener whose business may be to water the plants, a chief in charge of the boats, a collector of port duty. باغبان - جس کا ذمه درختون مين پاني دينے کا هو - داروغه گذر دريا کا جس کے اختيار مين کشتيان هون

مير آتش *m.* the chief of the fire-works or artillery, master of the ordnance داروغه توپ خانه کا

ميراث *f.* heritage, patrimony, inherited property or right. مال مردے کا جو اوس کے وارثون کے هاتهه لگے

مير آخور *m.* master of the stable. داروغه اصطبل کا

مير آخور بخشي *m* the superintendent of the stable staff. بادشاهي اصطبل کے کارندون کا سردار

مير بحر *m.* a collector of port duty. داروغه گذر دريا کا

ميربخشي *m.* a paymaster general وه شخص جو سب کي تنخواه تقسيم کرے

مير حاج *m.* the head of the Hajiz. سردار حاجيون کا

ميرزا (*ori.* اميرزا), a prince, a nobleman's son, grandee, noble. اصل مين ميرزا تها يعني امير کا بيٹا - سردار زاده

ميرزائي کشيدن *id.* to bear with the airs or whims of another, to flatter. کسي کي ناز برداري کرني

ميرشبگير *m.* an inspector of police. شهر کا کوتوال جو رات کو نگهباني کے لئے پهرا کرے

ميرشکار *m.* a chief of the hunters, a bird-catcher. مير شکاريون کا سردار

ميزاب *m.* a conduit, a gutter a drain. پرناله

ميزان *f.* a balance, a pair of scales, the sign Libra. ترازو

ميزان روز (*met.*) a brave man, valiant. کنايه هے بهادر اور شجاع سے

ميزبان *m* an entertainer, a host. صاحب خانه جو کسي کي ضيافت کرے

ميزر *m.* a cloth worn round the waist, and passing between the legs, a sheet, trousers, underdrawers. - تهه بند - چادر - شلوار زير جامه - پاجامه

ميسر *muyassar*, *a.* facilitated, made easy, practicable, possible, attainable, procurable, obtainable. آسان کيا گيا

ميسر gambling. جوا کهيلنا - جوا

ميسره *maisara*, opulence, prosperity, abundance, competency, the left wing of an army, the left hand side - تونگري - فراغت - طرف دست چپ - وه فوج جو وقت لڑائي کے بادشاه کے بائين هاتهه کے طرف رهتي هے

ميسور facilitated, made easy, prosperous, going on successfully. آسان هونا - آسان

میش *m.* and *f.* a sheep, a ram, the sign Aries. بهيڙي

میش چشم *a.* sheepish, sheep-eyed, (*met.*) a blockhead. بهيڙي كي سي آنكهه والا - مهاز - بیوقوف

میشوم (for مشوم and مشئوم), *a.* unfortunate, unlucky, disagreeable. منحوس

میعاد *f.* the time or place of a promise, fixed time, limited time, size, dimension, length and breadth. آپس میں وعدہ کرنا - جگهه وعده كرنے كي - زمانه وعده كا - وقت مقرر

میعته the beginning of day, or of youth. آغاز دن کا یا جوانی کا

میغ *m.* a black cloud, a mist, a fog, (sometimes) black. ابر سیاه - اور کبهي بمعني مطلق سياه كے بهي آتا هے

میفروش *m.* wine seller or dealer. شراب بیچنے والا

میق *a* weeping. کڑہن - روتا هوا

میقات *f.* time, the place of promise, the place where the pilgrims to Mecca make their vows. وقت وعده كي جگهه - وه مقام جهان پر احرام حج کا باندهتے هیں

میکال } *m.* the archangel Michael, who is
میکائیل } supposed to be the friend and protector of the Jews and provides sustenance for mankind. نام ایک فرشتہ مقرب کا جو مخلوقات کے رزق پہونچانے پر بطرف خدا مقرر هے

میکده *m.* the tavern. شرابخانه

میگون *a.* wine-coloured, auburn, fair, reddish. رنگ مائل به سرخي - شراب کا سا رنگ

میل *mil*, *f.* extensive view, kind looks, a needle, skewer, or wire instrument used to apply a collyrium to the eyes, a milestone, spire or ornament on the top of a dome, a distance of 4,000 steps. مد نظر - سلائي سرمه لگانے کي ا - مینار علامت فرسنگ کا - لوهے یا تانبے وغیره کي لمبي کیل جو گنبد کے سرے پر لگاتے هیں - مسافت چار هزار قدم کي

میل ورزش *m.* Indian clubs used for exercise in strengthening the muscles. مگدر جس سے ورزش کرتے هیں

میل *mail*, *a.* bending, crookedness, agitation, motion, inclination, wish, desire, affection, regard, partiality, fondness, aptitude. خم هونا - خمیدگي - هلنا - جنبش کرنا - توجه - خواهش

میلاد time of birth, name of a city, name of a Persian wrestler. وقت ولادت - نام ایک شهر کا - نام ایک ایرانی پهلوان کا

میلان *m.* bending, inclination, affection, respect, regard, attention, loving, (Persian) name of a certain philosopher. جهکنا - خم هونا - مائل هونا - رجوع - خواهش - طبیعت

میل دردیده کشیدن }
میل درچشم کشیدن } *id.* to make blind, the wire instrument which is used to apply a collyrium to the eyes, of the blind by drawing it hot before the eye. کسي کو اندها کر دینا - اس لئے که سلائي کو گرم کر کے آنکهه میں پهیر دینے سے آدمي اندها هو جاتا هے

میلک *m.* a kind of cloth which they bring from Naushad. ایک قسم کا کپڑا جو نوشاد سے لاتے هیں

میم کاتب (*met*) blind. کنایه اندهے سے

میمنت *f.* fortune, prosperity, happiness برکت - سعادت

میمنه the right hand side, the right wing of an army. جانب دست راست - وه فوج جو لڑائي کے وقت بادشاه کے داهنے طرف کهڑي هو

میمون *m.* fortunate, auspicious, prosperous blessed, name of a person. خجسته - مبارک - نام ایک مرد کا

میمون *m.* a baboon, monkey. بندر ایک مشهور جانور هے

مین *m.* falsehood, lie, uttering falsehood جهوٹهه بولنا - دروغ - جهوٹهه

مینا *m.* a goblet, a glass, a decanter, a diamond, a blue colour, enamel, heaven, the azure vault, paradise, the blue stone, blue vitriol. شراب کا شیشه - آبگینه رنگین جس سے سونے اور چاندي پر نقاشي کرتے هیں اور یهه مینا سبزا اور لاجوردي اور سفید اور سرخ هوتا هے

میناکار *m.* an enameller. مینا کا کام کرنے والا - سونے اور چاندي پر

مینو heaven, paradise, coloured-glass, an emerald. بهشت - فلک - مینا - زمرد جو قسم جواهر سے هے

— ن —

ن *nun* is the twenty-ninth letter of the Persian and the twenty-fifth of the Arabic alphabet, ن the نون صاف *nun-i-saf* or pure *n* has the ordinary sound of *n*, but when followed by a *b* or *p* it is pronounced as *m* thus لنبا *lamba*, long *f.* The letter

ن is one of the dental letters, and has the sound of the English *n* with the following exceptions, the letter *nun* has a very soft nasal sound in plural terminations in *an*, *en*, *in* and *on*, and in the terminations in *un* and *en*, of the aorist and imperative of verbs, it has also this nasal sound in the middle of some words as منه the face. In almanacs it expresses the conjunct aspect of the stars. In reckoning by ابجد the letter ن stands for 50.

نا no, not, a negative particle prefixed to nouns, participles, and affirmative adjectives simple or compound; has the same meaning as the English prefixes, *in-*, *un-*, *dis*. حرف نفي هے جو اسم فاعل اور اسم مفعول وغيره پر داخل هوتا هے

نا *pro*. we (people), we (women). هم - هم لوگ - هم عورتين

ناب *a*. pure, genuine. خالص - صاف - پاک

ناب *f*. a canine tooth, a tusk, an old female camel. وه دانت جس کو هندي ميں کچلي کهتے هيں - بوڙهي اونٿني

ناپائدار *a*. unstable, frail, unsteady, fickle, transitory. جو دير تک نه رهے

ناباٸسته *a*. unfit, unworthy, improper, ungraceful. نالائق - نازيبا

نابت *a*. growing a grower. اُگنے والا - اُگانے والا

نابدان *m*. a gutter. موري

ناپديد *a*. invisible, not to be found, unconspicuous, private, concealed. جو دکهائي نه دے

نابغه *m*. name of a poet. نام ايک شاعر کا

نابکار *a*. unfit, unworthy, useless جو کام کا نهو - نالائق

نابود *a*. annihilated, vanished, that never existed. جو نيست هو جاے

نابه *f*. pure wine. خالص شراب

نابهره *a*. mean, low, sordid, ignoble, insensible, unlucky. - کمينه - فرومايه - بے عقل - بے نصيب

نابينا *a*. blind. اندها

ناپيدا *a*. unborn, that has never existed, not to be found. جو ظاهر نهو

ناتراشيده *a*. unscraped, unmannerly, rude, silly, indiscreet. - نه چهلا هوا - بے ادب - بے تميز

ناتراش *a*. rough, not level, mean, sordid, low, ignoble, unpolite, unlicked, indiscreet, silly. ناهموار - سفله کمينه - بے ادب

ناتوان *a*. weak, infirm, powerless, impotent. ناطاقت - کمزور

ناتوان بين *a*. envious, spiteful, jealous حسد کرنے والا

ناتواني *a*. weakness, impotence, infirmity. ناطاقتي - کمزوري

ناجي
ناجيه } *a*. released, liberated, discharged, acquitted, rescued, saved, escaped. چهٹکارا - عذاب سے نجات پانے والا - پانے والا

ناچار *a*. helpless, remediless, forlorn, constrained, distressed, necessarily, infallibly doubtless. لاعلاج - لابد - بالضرور - عاجز

ناچاق *a*. lean, thin, sick, diseased, unhealthy. دبلا - مريض - وه شخص جو تندرست نهو

ناچخ *m*. a small spear, a halbert, a battle axe, a short javeline. چهوٹا نيزه

ناچيز *a*. of no consequence, insignificant trifling. بے حقيقت - ذليل

ناحفاظ *a*. shameless, incautious, imprudent, *m*. a fornicator, a worthless fellow. - بے شرم - بے حيا - فاسق بے احتياط

ناحق *a*. unjust untrue, unjustly. - بے حق - بے سبب

ناحي *a*. intending, keeping aloof. قصد کرنے والا - کناره پکڑنے والا

ناحيه *m*. edge, side, corner. کناره کونا

ناخ *f*. the navel, a depression in the centre of the abdomen. ناف - شکم پر جو سوراخ هوتا هے

ناخدا (*ori*. ناوخدا) master or commander of a ship, captain or supercargo, a pilot. ملاح

ناخس *m*. a sensation of sharp pain, as if being pricked. مثل سوئي کے چبهنے والا درد جس ميں ٹيس پيدا هو

ناخلف *m*. wicked, vicious (boy). وه بيٹا جو نالائق هو

ناخن آفتاب (*met*.) the fire. آتش - آگ

ناخن دل زدن *id*. to affect the mind, to disturb one's peace, to make one uneasy. در پر کسي بات کا اثر کرنا - بے قرار کرنا

ناخن گذاشتن *id*. to fear much, to be totally overpowered. کنايه هے کمال خوف اور نهايت عاجزي سے

ناخنه *m*. a haw or web in the eye (*unguis*). نام ايک آنکهه کي بيماري کا

ناخوانده *a.* unread, unlearned, uncalled. بے پڑھا ھوا - بن بلایا ھوا

نادار *a.* very poor indigent, without possession, insolvent. نہایت مفلس

ناداري *f.* poverty, indigence, insolvency. مفلسي - محتاجي

ناداشت *a.* poor, needy, ignorant, uninformed, unacquainted with, inexperienced. - مفلس محتاج - ناواقف

ناداشتي *f.* poverty, ignorance, inexperienceness, shamelessness مفلسي - بے شرمي - ناواقفي

نادانسته *a.* unknowing, ignorant, unwitting, unintentional, *m.* a stranger. انجان

نادر *a.* small, little, moderate, rare, wonderful, choice (also) singular, unique, single, non existent, annihilated. قلیل شے - کمتر چیز - تحفه - اور بمعني تنہا اور معدوم کے بھي آتا ھے

نادره (*fem* of نادر) rare, wonderful, choice. عجیب - تحفه

نادم *a.* bashful, penitent, repenting, abashed, ashamed. شرمندہ - پشیمان

نادیدني not to be seen. قابل نه دیکھنے کے

نادیده *m.* unseen, a person who has seen little. نه دیکھا ھوا

نار *m.* a pomegranate (*punica granatum,* انار جو مشہور میوہ ھے

نار *f* fire, hell. آتش - آگ

ناراست *a.* improper, untrue, blemish, faulty. جو سیدھا نہو - جو سچا نہو - جھوٹا آدمي

ناربن *m.* a pomegranate tree. انار کا درخت

نارجیل *m.* a cocoanut the cocoanut tree (*cocus nucifera*). ناریل - کھوپرا

نارو *m.* the tike or dog-louse, a tick. مثل جوں کے ایک جانور ھوتا ھے جو حیوانات کے پوست میں پیدا ھوکر خون پیا کرتا ھے

ناردان a pomegranate seed, (and some say) seed of the sour kind of pomegranate. دانۂ انار - انار دانه ترش

ناردانک juice of the pomegranate seeds. آب انار

نارس *m.* an unripe fruit, a raw fruit وہ میوہ جو ابھي خام ھو

نارسیده *a.* unripe, raw, immature, not arrived at the age of puberty, a girl of tender age. کچا خام - نابالغ - کم سن لڑکي

نارفرنگي the venereal disease. مرض آتشک

نارنج *n.* (*corr. fr.* نارنگ) an orange. معرب نارنگ کا جو ایک مشہور میوہ ھے

کنایه آفتاب سے نارنج زرین *m.* the sun.

ناروا *a.* improper, unlawful. ناجائز - غیر شرع

نارون *m.* *Punica Granatum,* the double-flowered pomegranate, the splendid large vermilion-coloured blossoms of this shrub render it a fine ornament, especially in a large garden, when seen from a distance. The shrub itself, independent of its flowers, is anything but a pleasing one, (also) a species of elm. گلنار - ایک درخت نہایت خوش اندام اور سیدھا

ناري *f.* fiery, a genius, a demon, fairy. آگ کا - آتشي - جن - پري

ناز *m.* newly-grown, a cypress tree, irritability, bad temper, blandishments, coquetry, playfulness, elegance, soothing, fondling, amorous, playfulness, softness, pride, consequential airs. - نیا اُگا ھوا - سرو و صنوبر کا درخت بے دماغي - بے پروائي - معشوق کي بے پروائي - نخرہ - لاڑ - پیار

نازا a female beast who is barren. ھر حیوان کي مادہ جس میں جننے کي قابلیت نہو - بانجھ

نازبالش *m* a soft pillow. نرم تکیه

نازک *a.* thin, graceful, beautiful, subtile, delicate, tender, elegant, facetious, gracious, genteel. پتلا - خوبصورت - جو بھدا نہو

نازکبدن *a.* delicate (epithet of a mistress). پتلے بدن کا

نازک خیالان *a.* sagacious, ingenious, deep thinkers of the mysteries of God. عارف لوگ - خدا تعالی کي صنعتوں کي بڑي فکر کرنے والے

نازل *a.* descending, dismounting, alighting. اترنے والا

نازل منزله *m.* a viceroy, a vice-regent, lieutenant. قائم مقام

نازله *m.* a misfortune, disorder, calamity, accident. حادثہ - مصیبت

نازنده *a.* coquettish, playful, graceful, elegant, proud. ناز کرنے والا

نازنین (from ناز and نین) *f.* delicate, beautiful, charming, a mistress, a lovely woman. مرکب ھے ناز و نین سے - نازک اندام

نازیدن *inf.* to dissemble (as lovers), to coquet, to coy at, to assume a cold and haughty look. ناز کرنا

ناژو *m.* a poplar tree, (also) a cypress tree. چنار کا درخت - سرو کا درخت

ناس (*sing*, and *pl.*) mankind, human beings صیغۂ اسم جنس کا ھے واحد - اور جمع دونوں پر بولا جاتا ھے - آدمي - انسان

ناساز *a.* discordant, dissonant, discrepant, obscene, rude, uncivil. ناموافق

ناسپاس *a.* ungrateful, unthankful, disagreeable. ناشکرا

ناستودہ *a.* not praised. جس کي تعریف نھوئي ھو

ناسج *m.* a weaver. کپڑے کا بننے والا

ناسخ *m.* the copier of a book, an amanuensis, abolishing, erasing. لکھنے والا - رد کرنے والا - نیست کرنے والا

ناسرہ *m.* defective, base (as coin), (*met*). bad word, bad talk. کھوٹا - غیر خالص - وہ روپیہ اشرفي جس میں کچھہ عیب ھو - مجازاً سخن بد

ناسزا *a.* unmerited, unworthy, indecent, impertinent, foolish. نازیبا - نالائق

ناسفتہ *a.* unbored. جس میں سوراخ نھوا ھو

ناسفتگان *f.* the virgins. کنواري عورتیں

ناسق *m.* manager, superintendent, arranging. انتظام و ترتیب کرنے والا

ناسک *n.* a worshipper, devoted to God. عبادت کرنے والا - راہ خدا حق تعالی میں قرباني کرنے والا

ناسکان *n.* the worshippers, devotees. عبادت کرنے والے

ناسوت human nature, humanity, (sometimes) law, external devotion. - عالم اجسام - کبھي مجازاً شریعت اور عبادت ظاہري

ناسور *m.* a fistula, a deep narrow sinuous ulcer. وہ زخم جو ھمیشہ بہا کرے اور کبھي نہ اچھا ھو

ناسي *a.* forgetful. بھولنے والا

ناشائستہ *a.* unworthy, improper, indecent. نالائق - نامناسب

ناشپاتي *f.* a pear, (*Cyrus communis*). نام ایک مشھور میوہ کا

ناشتا *m.* having an empty stomach, hungry, remaining hungry since the morning. بھوکھا رھنا یعني صبح سے کچھہ نہ کھایا ھوا ھونا

ناشدني one from whom no good is to be expected, unfit, absurd, impracticable, ill-fated. نھونے کے لائق

ناشر *a.* dispersed, scattered, revealing, divulging, disclosing, perfuming. پراگندہ - فاش کرنے والا - کھولنے والا - کسي چیز کا ظاھر کرنے والا - خوشبو دینے والا

ناشرات *f.* heavy storms, hurricanes. سخت آندھیاں

ناشز sitting on a high place. اونچا بیٹھنے والا

ناشط *a* happy, glad, merry making. خوشي کرنے والا

ناشکیبائي *f.* impatience, non-endurance. بے صبري

ناشناس *m.* a stranger, one who does not recognise another, ignorant, rude. جو پہچانتا نہ ھو

ناشناخت *a.* unknown, not recognised نہ پہچانا ھوا

ناشي *a.* growing, rising, increasing, growing up (as a boy), appearing, *m.* a youth. اٹھنے والا - ظاھر اور پیدا ھونے والا - نوجوان

ناصب *a.* erecting, fixing, placing, establishing, animosity. - برپا کرنے والا - قائم کرنے والا - دشمني رکھنے والا

ناصبہ *fem.* of. مونث - ناصبکي - ناصب

ناصح *m.* an adviser, a monitor, an instructor, a sincere friend or counsellor, *a.* faithful. نصیحت کرنے والا

ناصر *m.* an assistant, helper, defender. مددگار

ناصع *a.* pure. خالص

ناصف *p. a.* dividing into two equal parts. آدھوں آدھ کرنے والا

ناصواب *n.* not right, sinful, bad, unwholesome. جو درست نھو - غلط

ناصور see. ناسور. ناسور دیکھو

ناصیہ *m.* fore locks over the forehead, (in *pers.*) forehead. پیشاني کے بال - مگر فارسي میں بمعني پیشاني یعني ماتھے کے مستعمل ھے

ناضح *m.* camel carrying a large leather water-bag over his back. وہ اونٹ جس پر پاني کي پکھال لادي جائے

ناضر *a.* fresh, fresh and frisky. ترو تازہ

ناطح *m.* a butting animal. سینگ مارنے والا چوپایہ

ناطر }
ناطور } *m.* the keeper of a vineyard. نگہبان باغ انگور کا

ناطس *m.* a sky. جاسوس

ناطق *m.* a speaker, speaking, a rational or human being. بولنے والا - صاحب عقل - سمجھنے والا کلیات اور جزائیات کا

ناطقہ *m.* the faculty of speech. بولنے کي طاقت

ناظر *a.* seeing, observing, inspecting, *m.* a spectator, an inspector, a superintendent, a guard, keeper, supervisor, s.a

officer employed in a judicial court, superior to all peons, bailiffs, etc., a sheriff, (*met.*) a spy, a running footman. دیکھنے والا - محرروں کا سردار - خواجہ سرا - داروغہ اور کنایۃ جاسوس اور هر کارہ سے بهي

ناظرہ *m* the eye, sight, vision, reading. studying. نگاہ - پڑهنا

ناظم *m.* a composer, arranger, adjuster, a poet composer of verses, awaiting, threading, a governor; a ruler. شعر کهنے والا - پرونے والا - انتظار کرنے والا

ناظر *m.* an observer, inspector, spectator, a keeper, observed, seen. نظر کرنے والا - نگهبان - اور نظر کیا گیا

ناظورہ *f* a mistress, beloved (sweetheart). معشوقہ - محبوبہ

ناعس *a.* dozing, drooping, nodding from sleepiness. اونگهنے والا - وہ شخص جس کي آنکهوں میں نیند بهري هو

ناعم *a.* soft, delicate, delicately brought up, name of one of the forts of Khaibar. نرم - نازک - ناز و نعمت میں پلا هوا - نام ایک قلعہ کا خیبر کے قلعون مین سے

ناعمہ *f.* a woman delicately formed in every limb. نرم اور نازکبدن عورت

ناف *f.* the navel, the end of the umbilical, cord, a depression in the centre of the abdomen. پیٹ کي ناف

ناف پیچ *m.* excruciating pain in the bowels, *tenesmus*, gripes. پیچش کا درد

نافحہ *n.* any fragrant thing خوشبو دار شے

نافخ *a.* blowing, inflating. پهونکنے والا - هوا بهر کر پهلانے والا

ناف خاک *n.* Mecca, which is about sixty-five miles east of Jeddah. The interven ing country is first a sandy plain and then rugged hills with rocky defiles. The city stands in a narrow sandy valley, running north and south, and the chief part of the city is where the valley is widest, while in the narrowest part there are single rows of houses only or detached shops. The surrounding rocky hills, from 200 to 500 feet in height are barren and destitute of trees Most of the town is situated in the valley itself, but there are some parts on the sides of the hills. The streets though broader than those of eastern cities are unpaved, very dusty in summer, and muddy in the rainy season. The houses are lofty, with numerous windows that face the street, and they are divided into numerous small apartments which are let to pilgrims The only public place in the body of the town is the large square of the great mosque, which is enlivened during the pilgrimage by a great number of well-stored shops. Mecca is badly supplied with water, for all the well water is brackish. The famous well Zamzam yields a large supply, but the water has not a good taste. The best water is brought from Mount Arafat, some miles distant. The town is governed by a Sharif, chosen from the Saiyids, the reputed descendants of Mohammad, but they hold their authority from the Turkish Sultan. Mecca is considered very sacred by the Mohammedans. The inhabitants have two kinds of employment, trade and the service of the temple. مکہ معظمہ

نافذ *a* passing, getting through, penetrating, having effect, obeyed (an order) جاري هونے والا - نفوذ کرنے والا - یہ اکثر صفت لفظ امر اور حکم کي واقع هوتا هے

نافر *a.* hating, shunning, avoiding, flying from. نفرت کرنے والا - بهاگ جانے والا

ناف زدن *id.* to cut a new-born child's navel. ناف کاٹنا طفل نو پیدا کي

ناف زمین *n.* Mecca. مکہ معظمہ

ناف شب *f.* midnight. آدهي رات

نافض *a.* shaking, trembling, ague, an intermittent fever, with cold fits and shivering. هلانے والا - وہ تپ جو لرزا سے آوے

نافع *a.* salutary, profitable, advantageous, useful. نفع دینے والا

ناف عالم *n.* Mecca. مکہ معظمہ

نافلہ *m.* a work of supererogation, performance of more than duty requires, an undue favour, religious duty necessary to be performed. زائد - وہ عطیہ اور بخشش جو غیر واجب هو - نماز سنت

نافہ *m.* a pod of musk. مشک کي تهیلي جو هرن کي ناف سے نکلتي هے

ناف هفتہ *m.* Tuesday. منگل کا روز

نافهم *a.* stupid, unintelligent. جو سمجھ نہ رکھتا ہو

نافي *a.* destroying, abolishing, annihilating. نیست کرنے والا

ناقد *m.* a person whose business it is to examine coin and ascertain its goodness, one whose business it is to determine the quantity of metal in an ore or alloy, an assayer, a critic, a connoisseur. - پرکھیا روپیہ اور اشرفي کا پرکھنے والا

ناقر *a.* picking, striking with the beak, *m.* a picker, a horn blower.

ناقص *a.* deficient, unfinished, imperfect, mutilated, inexpert. کم ہونے والا - جس میں کچھ کمي ہو - ادھورا

ناقل *m.* a relater, narrator, reporter, a painter, delineator. نقل کرنے والا - کسي بات کا بیان کرنے والا

ناقور *n.* a big pipe or flute, a trumpet, a blowing conch. بڑے نفیر - صور - سنکھہ

ناقوس *m.* a kind of conch which the Hindus blow for calling people to *puja*, a large bell in a Church to summon the congregation to divine service. سنکھہ جو بروقت پوجا ھندو لوگ بجاتے ھیں - بڑا گھنٹہ جو گرجا گھر میں بروقت نماز بجتا ھے

ناقة *f.* a she-camel. اونٹني

ناقہ one who has just left his sick-bed. جو ابھي بیماري سے اٹھا ھو

ناک (as an affix) full, affected with, master. یہ لفظ نسي موصوف ني صفت کرنے کے لئیے کلمات کے آخر میں استعمال کرتے ھیں - بھرا ھوا - صاحب مالک - خداوند

ناکارا *a.* useless, bad. جو کام کا نہو

ناکاشتہ *a.* not sown, weed. جو بویا گیا نہو

ناکام *a.* unwilling, dissatisfied, disappointed, necessarily, undoubtedly. - نامراد - ناچار بالضرور

ناگاہ } ناگاج } *adv.* in no time, suddenly, unexpectedly, all at once, unawares. اچانک - ناگاہ

ناکب *a.* overturning, turning upside down, afflicting, distressing. - اوندھا کرانے والا - رنج غم دینے والا

ناکتخدا *m.* unmarried, a bachelor. بن بیاھا ھوا - جسکي شادي ابھي نہوئي ھو

ناکح *m.* and *f.* marrying (man or woman). مرد نکاح کرنے والا - عورت نکاح کرنے والي

ناگہانی *adv.* suddenly, unexpectedly, all at once. ناگاہ - یکا یک

ناگزرد } ناگزاران } ناگزیر } necessary, indispensable, inevitable. نسور - لابد - بالضرور

ناکس *nakas*, *a.* sordid, mean, ignoble, contemptuous, unfit, unworthy. کمینہ - نالائق

ناکس *nakis*, *a.* overturned, upside down, hanging the head, abashed, ashamed. سرنگوں - اوندھا

ناکسي *f.* unworthiness, meanness. - نالائقي کمینہ پن

ناگفتہ بیان the world of spirits, the world of absence, a future state. عالم الغیب

ناگوار *a.* disagreeable to the taste or feelings, unpalatable, unwholesome, undigested. بد مزہ - بد ذائقہ - ناپسند - ناخوش - جو ھضم نہو

ناگھاں *adv.* sudden, suddenly. یکایک

نالان *a.* weeping, lamenting, bewailing. روتا ھوا - نالہ اور فریاد کرتا ھوا

نالہ *m.* lamentation, weeping, complaint, loud noise, a small river, brook. فریاد - آواز بلند جو سرد دل سے ھو - اور بمعني مطلق آواز - چھوٹي ندي کے بڑي آیا ھے

نالیدن *inf.* to mourn, lament, weep, to complain. شور کرنا

نامبارک *a.* unlucky, unfortunate. - منحوس وہ چیز جو مبارک نہو

نام بردہ the above-named, the afore-mentioned or said. ذکر کیا گیا - وہ شخص جس کا نام اوپر ذکر ھوا ھو

نام بردار *a.* famous, renowned, distinguished. نامي - نامور

نام بزنج کردن *id* to forget, to efface, to obliterate, to erase, a fruitless effort. فراموش کرنا - معدوم کرنا - مٹا دینا - بھول جانا - بے فائدہ کام کرنا - جو ممکن نہو

نام تر *a.* very famous. بڑا نامي

نامتناھي *a.* infinite, divine. جسکي انتہا نہو

نامجو *a.* seeking fame, desirous of becoming famous. ناموري - چاھنے والا

نامحدود *a.* boundless, unlimited. - بے حد بے انتہا

نامحرم *m.* a stranger. ناواقف

نام خدا " in the name of God ", " by God ". قسم خدا کي

نامدار *a.* famous, celebrated, honourable. عزت والا - نامور

نامراد *a.* dissatisfied, disappointed. بے مراد

نامرد *m.* a eunuch, hermaphrodite. جو مرد نهو - هيجڑا

نامردم *a.* unworthy, unfit. نالائق

نامردي *f.* unmanliness, cowardice, impotence. نامرد هو نا

نامزد *a.* destined, declared, named, appointed. مشهور

نامعقول *a.* improper, unreasonable, foolish talk, (*fig.*) foolish, unwise. - نا مناسب بيوقوفي كي بات اور اصطلاحاً بيوقوف - بے عقل

ناملائم *a.* improper, hard, wicked action. نامناسب - درشت - امر خراب اور بد

نامور *a.* celebrated, famous. مشهور آدمي

ناموري *f.* celebrity, renown, fame. شهرت

ناموس *f.* reputation, fame, renown, honour, integrity, continence, chastity, virtue, abstinence, modesty, law, justice, equity, counsel, deliberation, opinion, administration of justice, punishment, pain, chastisement, angels, holy commandments, the angel Gabriel, rule, custom, institution, sound, voice, fraud, deceit, stratagem, hidden trick. عصمت - عفت - عزت كي خلق سے اُميد ركهنا - نيكنامي - شريعت - تدبير - سياست - فرشتے - جبرائيل فرشتہ - احكام خدا - قاعدہ دستور - صدا - آواز - مكر - پوشيدہ - حيلہ

ناموس اكبر *m.* famous custom, law, a title of the angel Gabriel. بڑا قاعدہ - شريعت - لقب حضرت جبرائيل كا

نامہ *m.* a letter, writing, (in *comp.*) history, account, as *Shahnama*, the account of the kings, an epic poem by Firdausi. لكها هوا خط - چٹهي

نامہ سفيد *m.* very virtuous, a man of probity and great honour, one who is very abstinent. نهايت نيك اور صالح اور پرهيز گار آدمي

نامي *a.* illustrious, celebrated, famous. نامور - مغرور - مشهور

نامي *a.* increasing, growing. - بڑهنے والا پهولنے پهلنے والا

ناميدن *inf.* to give a name, to call. نام ركهنا

ناميہ *m.* power of growth or of increasing ايك قوت هے جسم حيواني اور نباتي ميں جو جسم كو طول و عرض و عميق ميں بڑهاتي هے

نان *f.* bread. روٹي

نانبا (*cont.* from نانبائي), *m.* a baker. مخفف هے نانبائي كا - روٹي پكانے والا

نانبائي (*cont.* from نان بائي), *m.* one who prepares victuals for travellers in a *sarai*, a baker. مخفف هے نان بائي كا يعني طباخ جو بمعني روٹي اور ابا بمعني شوربا بيچتا هے روٹي پكانا

نان بستن to cook breads.

نانخواه *m.* a kind of aniseed. اجوائن جو دوا مشهور هے

نانخورش curry or anything with which a bread may be eaten. وہ چيز جس كے ساتهہ روٹي كهائي جائے خواہ وہ چيز نمكين هو خواہ ميٹهي خواہ ترش - دال - سالن

نان در روغن افتادن *id.* to be thoroughly successful, be greatly benefitted by. - خاطر خواہ كامياب هونا - نفع پانا

نان رباط *f.* bread given in monasteries or alms houses to travellers, mendicants, etc. لنگر كي روٹي - وہ روٹي جو خانقاهوں ميں ملتي هے

نان زرين (*met.*) the sun. كنايہ هے آفتاب سے

نان سيمين (*met.*) the moon. كنايہ چاند سے

نان كور *a.* mean, low, sordid, ignoble, greedy. كمينہ - لالچي

نان وقف *f.* bread bestowed in charity. خدا كے نام كي روٹي - للہ كا كهانا

ناو *f.* a boat, vessel, gutter, conduit. - كشتي پرنالہ

ناو دان *m.* a gutter, a conduit, a drain, a dock, an acqueduct. پر نالہ - بدرو

ناورد *m.* battle, conflict, brawl, squabble, altercation. جنگ و جدل

ناوس *m.* a temple. آتشكدہ - عبادت خانہ كفار كا

ناوك *f.* a kind of small arrow. ايك قسم تير كي جو چهوٹا هوتا هے

ناو نوش *a.* carousing, banqueting, etc. luxury. - نغمہ بانسري كا سننا اور شراب پينا عيش و عشرت

ناوہ *m.* a gutter, conduit, acqueduct. - پرنالہ بدرو

ناهار (*orf.* ناآهار), one who has not eaten any thing since the morning. وہ شخص جو صبح سے كچهہ نا كهايا هو

ناهض *m.* a bird who has spread its wings, and is on the point of flying. وہ پرند جو پروں كو كهولكر اڑنے كي تياري كرے

ناهق *m.* an ass, a donkey. گدها - خر نر

ناهل one who drinks water from a spring. چشمہ سے پاني پينے والا

ناهمتا *a.* unparalleled, matchless, incomparable. بے مثل - بے مانند

ناهمواري *a.* not level, uneven, irregular, (met). capricious, unworthy, unmannerly, rude. دو رابر نهو - نيچا اونچا - مجازاً بے ادب - نالائق

ناهنجار *a.* low-born, of bad breed, wicked, vicious. بد ذات - بد اصل

ناهي *a.* forbidding, stopping, preventing. منع كرنے والا - روكنے والا

ناهيد *m.* planet Venus, (supposed to be on the third heaven). ستارة زهرة جو تيسرے آسمان پر هے

نائے *n.* a reed, a pipe, a flageolet, a flute, a fife, throat. نئے - بانسري - گلا - حلق

نایاب *a.* scarce, unprocurable, non-existent, extinct. جو چيز نه پائي جائے - ناموجود معدوم

نائب *m.* substitute, a deputy, viceregent, lieutenant. قائم مقام

نائبة *m.* occurrence, incident, event, high fever. حادثه - واقعه - اور وه تپ جو بهت گرم هو

نائے تركي *f.* a kind of French horn. قرنا

نائيچه *m.* a *huqqa* snake or tube. نيچه حقه كا

نائحة *a.* weeping, lamentation, complaint, trouble گريا - رونا - ناله - فرياد - مصيبت

نائرة flame, fire, heat, inflammation, enmity, hatred, escaping, flying from. شعله - آگ كي لپک - دشمني - بهاگنے والا - نكل جانے والا

نائزة *m.* the spout of a waterpot, a tube, (met) *pepiss*, the *utrehra*. لوٹے كي ٹوٹي - خولدار نلي - مجازاً اعضاے تناسل

نائم *a.* sleeping, a slumberer, a sleeper. خفته - سوتا هوا - سونے والا

نائيدن *inf.* to boast, to gasconade. فخر كرنا - ڈينگ مارنا

نبا *n.* news, intelligence. بمعني خبر

نبات *f.* vegetation, herb, vegetable, green grass, sugar-candy. روئيدگي هر بزه اور درخت جو زمين سے اگے - تركاري - گهاس - پات - هري گهاس - ايک قسم صاف قند كي جس كو مصري كهتے هيں

نباح *m.* plaintive, drawling cry of a dog, whine. ناله سگ - كتے كي بري غير معمولي آواز

نباش *nabbash. m.* a grave digger, a plunderer of the dead, one who strips the dead of their grave clothes. كفن چور - قبر كهود كر كفن كا لينے والا

نباض *nabbaz, m.* one who feels the pulse, a physician. نبض پهچاننے والا

نباضي *n.* the science of examining the pulse. نبض پهچاننے كا علم

نبالت *f.* grandeur, reverence, nobility information, warning, becoming famous, mastering, cutting of arrows. بزرگواري - آگاهي - مشهور هونا - استاد هونا - تير تراشنا

نباهت *f.* celebrity, fame, grandeur, dignity, nobility, honour. بزرگوار اور مشهور هونا - چمک - شان - عزت

نبائر (*pl.* of نبيرة) grandsons. جمع نبيرة كي - پسر زادگان - پوتے

نبائل (*pl.* of نبيلة) the great, the honourable, virtues, noble works. جمع نبيلة كي - بزرگ لوگ - نيكيان - بزرگ كام

نبت *f.* vegetation. روئيدگي

نبذ *a.* a little, a piece, a small quantity, remnant. تهوڑا - ٹكڑا - تهوڑي چيز - كسي چيز كا بقيه

نبر *f.* height, elevation, exaltation, lifting high. بلندي بلند كرنا - اوٹهانا

نبراس *m.* a lantern, a lamp, a candle. چراغ لالٹين - شمع

نبرد *m.* battle, engagement, war. لڑائي جنگ

نبرد گاه *m.* the battle-field. ميدان جنگ

نبردة *m.* valiant, brave, heroic. دلاور - بهادر

نبش *a.* stripping the dead of their grave clothes. قبر كهود كر كفن چرا لينا

نبشتن *inf.* to write. لكهنا

نبض *f.* beating of an artery, the pulse نبض كا اچهلنا

نبع *a.* (water) springing or bursting from a fountain, gushing out of the water (from a spring). پاني كا چشمة سے باهر نكلنا

نبق *a.* writing, fruits of *Zizyphus jujuba* (or the Indian plums). لكهنا - بيري كے درخت كا پهل يعني بير

نبقة *m.* a plum. ايک بير

نبل *m.* darting arrows, shooting, an arrow. تير پهينكنا - تير

نبوت *nubuwat, f.* prophecy, delivering message. خبر دينا پيغمبري

نبوع *a.* springing up, gushing out of the spring. پاني كا زمين سے پهوٹ كر اوپر نكلنا

نبه *a.* seen anything perceived, known, comprehended. خبر دار هونا - آگاه هونا

نبه *a.* famous, renowned, name of Mohammad's slave. مشهور - شهرت يافته - محمد كے غلام كا نام

نبي *nabi*, *m.* a massenger, a prophet. خبر دینے والا - پیغمبر جوخدا کي طرف سے هو اور بندوں کي هدایت کے لئے آیا هو

نبي *nubi*, *f.* the word of God, the Quran. یاے معروف سے - مخفف - کلام الهي - قرآن شریف

نبیذ *f.* wine which is distilled from barley and dates, (some say) beer. وہ شراب جو خرما اور جو سے بنائي جائے - بعضوں نے بمعني بوزہ لکھا ھے

نبیرہ *f.* and *m.* grand-daughter and (sometimes) daughter's son, daughter's daughter. پسر زادہ - پوتا - پوتي - کبھي بمعني دختر زادہ کے بھي آتا ھے - یعني نواسا - نواسي

نبیسہ *m.* and *f.* daughter's son, daughter's daughter, (and sometimes) grandson, grand daughter. نواسا - نواسي - اور کبھي بمعنے پوتا اور پوتي کے بھي آتا ھے

نبیل } نبیلہ } *a.* beautiful, wise, exalted, superior, prominent, great, honourable, fat, corpulent. - خوبصورت - بزرگ - دانا - عقلمند - فربہ - موٹا

نبیہ *a.* warned, cautioned, informed, warning, informing. آگاہ - خبر دار - آگاهي دینیوالا

نتاج *a.* born (a son, a child). - زادہ - پیدا جنا هوا

نتاقست (*cont.* from نتوانست). مخفف نتوانست کا

نتائج *pl.* of (نتیجہ) results, wishes, intentions, conclusions, consequences, births, syllogisms, substances. - جمع ھے نتیجہ کي مرادیں - مطالب - انجام کار - بچے - اولاد

نتائج اور آثار *m.* the three kingdoms of nature, *viz.*, animal, vegetable and mineral, (and also means) heat, coldness, moisture and aridity. - مراد ھے موالید ثلاثہ سے یعني نباتات - حیوانات - جمادات سے - اور مراد حرارت - برودت - رطوبت - یبوست سے

نتش *a.* pulling out hairs or feathers, pulling off (a thron) with pincers. - بال اکھیڑنا - پر اکھیڑنا - کانٹے کا موچنہ سے نکالنا

نتف *a.* pulling out hairs. بال اوکھیڑنا

نتن *f.* smelling badly, a stink, stinking smell, bad smell. بدبو

نتو *m.* projection, height, elevation, exaltation ascent, grandeur. - ابھار - ارتفاع - بلند کسي چیز کا اونچا هونا

نتیجہ *m.* extracted, brought out, cut off, a fœtus, offspring, birth, result, consequences, issue, what necessarily follows, retribution, reward. - اخر نکالا هوا - تراشا هوا - بچہ - حاصل - مطالب غرض

نتین *f.* any thing emitting an offensive odour, stinking thing. بدبو دار شے

نث *a.* spreading, publishing, divulging, revealing. ظاهر کرنا - پھیلانا - فاش کرنا

نثا *m* news, intelligence. خبر

نثار *nusar*, *m.* money which is thrown amongst the people on festive occasions. وہ روز گوھر جو کسي کے اوپر سے نچھاور کر کے پھینکیں

نثار *nissar*, *m.* scattering, throwing, strewing, largesse, sacrifice. - بکھیرنا - نچھاور کرنا - روپیہ اور جنس کسي پر تصدق کرنا

نثر *f.* scattering, prose - بکھیرنا - وہ سخن جو برخلاف نظم کے هو

نثرہ *m.* sneeze of an animal, sneezing, blowing the nose, snorting, blowing the mucus out of the nose, name of the two Stars in Leo, the eighth mansion of the moon. چوپایہ کي چھینک - چھینکنا - ناک کا جھینکنا - نام دوستاروں کا برج اسد میں - اٹھویں منزل چاند کي

نجابت *f.* nobleness, generosity, integrity, greatness, grandeur. شرافت - اصالت - بزرگواري گرامي هونا

نجات *f.* freedom, pardon, salvation, absolution, deliverance, escape, flight. - مخلصي رستگاري

نجاح production or supply of what is needed, deliverance, freedom, absolution, victory, good fortune - حاجت روائي - رستگاري - مخلصي - چھٹکارا - فیروزي

نجاد *m.* a sword-belt. پر تلہ تلوار کا

نجار *najjar*, a carpenter. بڑھئي

نجار *nijar*, *f.* origin, root, beginning nature. اصل - جڑ - ذات

نجارت *f.* the carpenter's art. بڑھئي کا پیشہ کرنا

نجارہ the shavings of wood, scrapings. لکڑي کي چھیلن

نجار شروان *n.* the famous poet Imam Khaqani, whose father followed the business of a carpenter. کنایہ مشهور شاعر بنام امام خاقاني سے اس لئے کہ اون کے والد بڑھئي کا پیشہ کرتے تھے

نجاست *f.* filth, dirt, nastiness, impurity. پلیدي

نجاشي *n.* name of an Ethiopian king نام ایک بادشاہ حبش کا

نچاو m. name of an armour. نام ایک سلاح کا

نجائب } (pl. of نجیب), fine camels, nobles,
نجباء } heroes, the elect. جمع نجیب بمعني عمدہ اونٹ - مرد اصیل - بزرگ - برگزیدہ - بزرگوار

نجح f. victory, supply of want. - فیروزي حاجت روائي

نجد a. high ground, a portion of central Arabia, conquest, shelter, refuge, happiness. زمین بلند - نام ایک ملک کا عرب کے درمیان - دلیري سے غلبہ کرنا - پناہ - خوشي - خرمي

نجدت f. fortitude, boldness, valour, heroism, bravery. شجاعت - دلیري

نجس najis, m. dirty, filthy, nasty. - پلید ناپاک

نجس najas. dirtiness, filthiness - ناپاک ہونا پلید - ناپاک

نجف n. name of the place in which there is the tomb of Ali. نام اوس جگہہ کا جہاں علي کا مرقد ہے

نجل f. descendant, family, son, a short throw. نسل - اولاد - فرزند - پھینک دینا کسي چیز کا

نجم m. a star, a planet, fortune, a horoscope, a creeping plant. ستارہ اور وہ درخت جسکا تنہ نہو - بیل

نجوی a. whispering, a secret, telling a secret. سرگوشي - کانا پھوسي - بھید

نجوم (pl. of نجم), stars. جمع نجم ني - ستارے

نجیب m an excellent camel, noble, generous, praiseworthy. اونٹ - شریف - بزرگ - مرد اصیل - عمدہ

نجید a valiant, brave, a hero. دلیر - بہادر

نجیف m. an arrow having a broad head. چوڑے سر کا تیر

نحاریر (pl. of نحریر), wisemen جمع نحریر کي دانشمند لوگ

نحاس nuhas. m. copper. مس - تانبا

نحاس nihas, f. nature, temperament, constitution, disposition. سرشت - اصل طبیعت

نحاس nahhas, m. a copper-smith. تانبا بنانے والا

نحافت f. being emaciated, leanness, emaciation, weakness. - دبلا پن - لاغري - کمزوري ناتواني

نحر sacrifice (of a camel), inflicting a wound on the breast. - اونٹ کا قرباني کرنا سینہ پر زخم مارنا

نحریر a wise, learned, intelligent - عقلمند زیرک - عالم

نحس a. unlucky, bad, inauspicious, m. an evil omen, bad-luck. نامبارک

نحل nahl, f. a bee. شہد کي مکھي

نحل nihl, (pl of نحلات), religious, false religions, favours جمع نحلات بمعني مذہب کي - اور بمعني باطل مذہب - اور بخشش

نحل nihl, m. a marriage portion, or gift settled upon the wife before marriage, contracting by writing for such settlement, a claim. عورت کا مہر - عورت کے مہر کا نامزد کرنا - دعوی کرنا

نحل nuhl, n. gift, favour, bounty. - عطیہ بخشش

نحلہ nuhla, n gift, favour, alms بخشش صدقہ - عطا

نحلہ nahla, m. giving a dowry, a bee. عورت کا مہر دینا - ایک شہد کي مکھي

نحن pron we. ہم - مایاں

نحو f. way, path, track, manner, mode, intention, arrangement, order, (in gram.) syntax. - راہ - مانند - طرف - قصد - ارادہ اسلوب - نام ایک علم کا جس سے کلام عرب کے اعراب معلوم ہوتے ہیں

نحوست f. a bad presage, a misfortune, evil omen, abomination, wretchedness, inauspiciousness نامبارکي - بدبختي

نحول f. leanness, emaciation, melting. - لاغري دبلا پن - گلنا - پگھلنا

نحیب cry of weeping or lamentation, weeping loudly, lamentation. - رونے کي آواز آہ و زاري - چلا کے رونا

نحیف a. lean, meagre, weak, slender, powerless, helpless. - دبلا - لاغر - ناتوان مرد عاجز

نخ m. the thread (in general), a rank (of soldiers), a kind of carpet beautiful on both sides, a mendicant's quilt. دھاگا ریشم و سوت وغیرہ کا صف - لشکر کملي

نخاس m. a cattle or slave market, one who deals in cattle or slaves. وہ بازار جس میں حیوانات لونڈي غلام وغیرہ فروخت ہوں

نخاعہ } m. phlegm, mucus, the viscid
نخاعہ } matter of the digestive and respiratory passages, bronchial mucus. بلغم جو گلے سے نکلتا ہے

نخالہ m. bran, the husks of ground corn. آٹا چھاننے سے جو بھوسی نکلتي ہے

نقبه *m.* selected thing, a good or chosen thing. انتخاب کي هوئي چيز

نقچير *m.* the chase, game, prey, hunting, hunting ground. شکار کرنا - شکار کيا هوا جانور - جنگلي جانور مثل هرن وفيره کے شکار - شکار گاه

نخست } *m.* the beginning, the first, *adv.*
نخستين } at first. (يا and ن in نخستين is superfluous.) اول - پهلا - نخستين ميں يا اور ن زائد هے

نخشب *n.* name of a city in Turkistan famous for a celebrated well called چاه نخشب *chah-e-nakhshab*, from which Hakim Ata Ibn Muqanna' had produced a magical moon. نام ايک شهر کا ترکستان ميں جهان حکيم عطا ابن مقنع نے ايک طلسمي چاند نکالا تها

نخع *m.* blowing the nose, snot. سنک - آب بيني

نخل *m.* a date-tree, a palm-tree, sifting flour, etc. درخت خرما - آٹے وفيره کا چهاننا

نخل بن *m.* a date palm tree. درخت خرما

نخل بند *m.* a gardener, a maker of artificial flowers. باغ بان - مالي

نخله *m.* a palm plantation, a single palm-tree. ايک درخت خرمے کا

نخله بني محمود *n.* name of a stage or resting-place for pilgrims from Persia on their way to or from Mecca, three days journey from Kufa. نام ايک موضع کا درميان مکه اور طائف کے

نخله بني هلال *n.* name of a place on one's way to Mecca, here is a palm plantation. Bani Halal is a tribe of Arabia. نام ايک مقام کا مکه معظمه کي راه ميں - يهاں ايک خرمے کا باغ هے - اور بني هلال ايک عرب کا قبيله هے

نخوت *f.* pride, haughtiness, pomp, magnificence. بزرگي - تکبر - غرور

نخود grain, a kind of pulse, chick-pea (*cicer arictinum*) چنا جو مشهور غله هے

نخير snorting. ناک کي آواز - آواز بيني

نخير the ground where the seeds are first sown for transplantation, low (man) mean, ignoble, sordid. وه زمين جس ميں کسي درخت کا تخم بوويں اور جب نکل اوے تو کهود کر وهاں سے کسي دوسري جگهه پر لگاويں - مرد فرومايه اور کمينه

نخيل (both *sing.* and *pl.*) a date-palm tree or many date palm trees. اس لفظ کا اطلاق مفرد و جمع دونوں پر آتا هے - ايک درخت خرمے کا - بهت سے درخت خرمے کے

ند *nidd*, equal, alike, *m.* a fellow, match or equal, name of an idol. مانند - همتا - نظير - نام ايک بت کا بهي هے

ندي *f.* moisture, humidity, gift, favour. تري - نمي - بخشش

ندا *nida*, *f.* sound, voice, calling. آواز کرنا - پکارنا

ندا *nada*, *m.* moisture, wetness, humidity. تري - نم

نداف *naddaf*, *m.* a carder or comber of cotton, a cotton dresser. روئي کا دهنکنے والا - دهنيا

ندامت *f.* shame, repentance, penitence, contrition, regret. شرمندگي - پشيماني

نداوت *f.* moisture, wetness, humidity. تري - نمناکي

ندب *nadab*, *m.* a wager, stipulation, gambling, a scar. شرط - جوا - قمار - زخم کا نشان

ندب *nadb*, weeping and lamenting over the dead and praising him. مرده پر رونا اور نوحه کرنا اور اوس کي خوبيوں کا بيان کرنا

ندرت *f.* tenuity, oddness, singularity, scarcity, rarity. تنهائي - کمي - اکيلا - فرد هونا - نادر هونا - تهکنگي

ندف *nadf*, *a.* carding or combing cotton. روئي کا دهنکنا

ندم *nadam*, contrition, shame, penitence, repentance, regret. پشيماني - شرمنده هونا

ندماء (*pl.* of نديم), countries. جمع هے نديم کي - يار اور همنشين اور مصاحب لوگ

ندمان *a.* ashamed, abashed, disgraced, penitent. شرمنده - پشيمان

نديد *a.* equal, alike, a fellow, match or equal. همتا - نظير - مانند

ندير *a.* odd, single, poor. اکيلا - فرد - غريب

نديف *f.* carded cotton. دهنکي هوئي روئي

نديم *m.* a companion, intimate friend, a courtier, ashamed, abashed, penitent. مصاحب - همنشين - شرمنده - پشيمان

نذارت *f.* fear, fright, dreading. خوف - ڈر - ڈرنا

نذر *f.* a solemn promise, an oath, a vow, anything dedicated, a present or gift (offered to a superior), an interview which is generally preceded by a present, presents made at religious festivals. عهد و پيمان - وه چيز جو اپنے اوپر واجب کرليں - اور جو خدا کے واسطے مثلا روزه يا صدقه وفيره مقرر کرليں - کهانا - فاتحه روح بزرگوں کا - نقد يا جنس جو اميروں يا بادشاهوں کے سامنے بروقت ملاقات کے رکهيں

نذر nazir, confounded, perplexed, astonished, disturbed, fearful. حیران - خوف زده

نذر m. fear, fright. خوف - ڈر

نذر امام n. present given at the Mahomedan places of worship, in memory of the Imams Hasan and Husian. خیرات جو حسن و حسین کے نام پر مسلمانی عبادت گاهوں میں دي جاتي هیں

نذیر a. terrifying, scaring, alarming, one of the titles of Mohammad. ڈرنے والا - نام هے محمد کے ناموں سے

نر m. a male, a man, a. masculine, male. مرد نر - مادہ

نرجس corr. from. معرب نرگس کا - نرگس

نرد f. a counter, chessman, &c., draughts, &c., any game played with counters, backgammon. گوٹ چوسر و شطرنج وغیرہ کي - نام ایک بازي کا

نردبان m. a staircase, steps, a ladder, especially a scaling ladder. زینہ - سیڑھي

نرگاؤ m. a bull. بیل - بدھیا

نرگس f. a narcissus, an extensive genus of bulbous flowering plants. (met.) the eye of a mistress نام ایک پھول کا - مجازاً آنکھہ

نرگس مست (met.) the eye of a mistress or a beloved one. کنایہ معشوق اور محبوب کي آنکھہ سے

نرگسي n. name of a dish prepared from the eggs, name of a kind of pulow, giving a hint by the eyelids, winking, taunting, name of a poet. نام ایک قلیہ کا جو مرغي کے انڈوں سے ترکیب پاتا هے - نام ایک قسم کے پلاؤ کا - آنکھہ سے اشارہ کرنا - طعنہ دینا - نام ایک شاعر کا

نرگي زدن id. to wink, to ogle, to look with side glance, to give a hint by the eyelids, to taunt. سین مارنا - کنکھیوں سے اشارہ کرنا - طعنہ دینا

نرم گردن a. obedient, submissive, dutiful. تابعدار - فرمانبردار

نرم نرم adv. slowly. آهستہ آهستہ

نرمہ گوش m. the lobe of the ear. کان کي لو

نرمیش m. a ram. مینڈھا

نرہ دیو m. ugly demon, a male genius, an ogre. بد صورت دیو - دیو نر

نري f. goat or sheepskin leather coloured or dyed. بکري اور بکرے اور مینڈھے کا چمڑا

نریمان m. name of Rustam's grandfather. رستم پھلوار کا دادا

نژ a. brisk, active, ground from which water flows. چالاک - زمین جہاں سے پاني بھے

نزار a. feeble, thin, slender, subtile (also) poor. لاغر - دبلا - اور سوائے مفلس سے بھي

نزاع m. anxiety, contention, litigation, dispute, controversy. آرزو مند هونا - آرزو مندي - جھگڑا - آپس میں دشمني کي راہ سے کشاکش کرنا

نزاکت f. delicacy, elegance, politeness, softness. نازکپن

نزاهت f. purity, exemption or remoteness from sin. پاکي - نا پاکي اور بدي سے دور رهنا

نزح m. act of drawing water from the well. کنویں کا پاني کھینچنا

نزد (contr. from نزدیک) near, hard by, close to, neighbouring, contiguous, almost, about. مخفف نزدیک کا

نزر a. small quantity, moderate, tasteless. قلیل - تھوڑا - بے مزہ

نزع m. the last breath, gasping in the agonies of death. جان کندن - دم توڑنا

نزف drawing all water from the well, flux of blood. تمام پاني کنویں کا کھینچ لینا - جریان خون کا

نزل f. feast, entertainment, hospitality, dainties served before a guest. - ضیافت مهماني - جو مهمان کے آگے دهریں - کھانا جو مهمان کے کھانے کے واسطے رکھیں

نزول m. descent, alighting, sojourning, a cataract (in the eye). اترنا - آنکھہ کي بیماري

نزول m. halting place, camp, encampment. فوج کا پڑاؤ آدمیوں کے اترنے کا مقام

نزہ m. pure, spotless, (met.) fresh, good. کل عیبوں سے پاک مجازاً تازہ و خوب

نزهت f. purity, cleanliness, goodness, virtue, integrity, delight, pleasure, freshness, verdure. - بے عیب هونا - پاکیزگي - نکوئي خوشحالي

نزیدن inf. to extract, to bring out. باهر کھینچنا - باهر نکلنا

نزیف a. feverish, excited, unconscious, one who has become weak from loss of blood, one whose tongue has parched with excessive thirst. تپ زدہ - مست اور بیهوش - وہ شخص جو بهت خون نکلنے کے سبب سے سست هو گیا هو - وہ شخص جس کي زبان پیاس کے سبب سے خشک هو گئي هو

نزیل m. a guest, foreigner, a stranger, a traveller. مهمان - مسافر - پردیسي

نژاد n. origin, root, seed, family, descent, extraction. اصل - نسب

نژادہ m. well-born, noble, genuine, generous, praiseworthy. اصیل - نجیب

نڑخار *n.* sound, voice, cry. بانگ - فریاد - نعرہ

نژم *m.* fog, vapour, mist. جاڑوں میں جو صبح کے وقت بخار رهتا هو جسے کهرا و کهاسا کهتے هیں

نژند *a.* overturned, turned upside down, bowing (head), afflicted, astonished, perplexed, sad, angry, wretched, ruined, contemptible. اوندها - سرنگون - سرگشتہ - غمگین - خفا - خوار

نژیدن *inf.* to draw, to pull. کهینچنا

نس *nass, a.* driving a camel (by crying to them). اونٹ کا هانکنا

نسا *f. pl* women, ladies, the female sex. عورتیں

نساج *m.* a weaver, a maker of coats of mail with iron rings. کپڑے کا بننے والا

نسائج (*pl.* of نسیجہ), garments. جمع هے نسیجہ کي جو بمعني کپڑے کے هے

نسائم (*pl.* of نسیم), breezes, etc. (جمع نسیم کي) - سرد و خوشبودار هوائیں

نسب *nasab, m* genealogy, lineage, family, caste نسل - نژد - خاندان

نسب *nisab, pl.* of نسبت جمع نسبت کي هے

نسبت *f.* relation, affinity, betrothal or betrothed, attribute, reference, (*past pos.*) respecting, regarding. علاقہ لگاؤ

نستر *cont.* from نسترن مخفف نسترن کا

نسترن *m.* the white rose of India *Rosa glandulifera, Roxb.*) نام ایک خوشبو دار پهول کا جسے عربي میں نسرین اور هندي میں سیوتي کهتے هیں

نستعلیق (*ori.* نسخ تعلیق), *m.* a kind of Persian writing (or character). فارسي میں ایک قسم کا خط

نستعلیق حرف زدن *id.* to speak eloquently, to speak with ready flow of words, to pronounce the words rightly. فصیح اور بلیغ فتگو کرنا - الفاظ کو اُن کے مخرج سے ادا کرنا

نستعلیق گو *m.* an eloquent speaker, an orator a rhetorician. فصاحت و بلاغت سے کلام کرنے والا - الفاظ کو ان کے مخرج سے ادا کرنے والا

نسترہ *a.* undutiful, irreverent, rebellious. نافرمان - غیر مطیع

نسج *m.* act of weaving, woven. کپڑا بنا - بنا هوا

نسخ *naskh, m.* abolition, rejection, transcribing, a kind of Arabic character.

نسخ *nusakh* (*pl.* of نسخہ), books, etc. جمع نسخہ بمعني کتاب کي

نسخہ *m.* a recipe, prescription of ingredients for any composition, an exemplar, prototype, a copy or model, a writing, a book, a letter. کتاب - لکها هوا کاغذ - وہ پرچہ جس پر حکیم دوا لکهکر بیمار کو دیتا هے

نسر *m.* a vulture, an eagle, name of deity adored by the tribe of Himyar, or at Dhu'l Khalaah in their territories, under the image of an eagle, which the name signifies. کرگس - گد - نام ایک بت کا

نسرطائر *m.* the constellation of the eagle. نام ایک ستارہ کا هے آسمان پر بصورت کرگس کے هے - اسے عقاب بهي کهتے هیں یهہ ستارہ منطقۃ البروج کے اتر طرف واقع هے

نسر واقع *m.* the constellation Lyra. نام ایک ستارہ روشن کا بصورت کرگس کے جو اوپر سے نیچے آتا هوا هو اور یهہ ستارہ آسمان پر قطب جنوبي کي طرف هے

نسرین *m.* the white rose of India (*Rosa glandulifera, Roxb.*) نام ایک سفید پهول کا جس کو فارسي میں نسترن اور هندي میں سیوتي کهتے هیں

نسرین (*dual.* of نسر) the constellations of the eagle and the Lyra تثنیہ نسر کا هے یهہ دو ستارے هیں آسمان پر ایک کو نسر طائر اور دوسرےکو نسر واقع کهتے هیں اور یهہ دونوں بصورت کرگس یعني گد کے هیں

نسطور } نسطوري } *m.* Nestor, name of a wise Christian monk. نام ایک دانشمند اور مجتهد قوم ترسا میں سے

نسف *nasaf, n.* name of a city. نام ایک شهر کا

نسق *nasaq, m.* order, series, arrangement, usage, manner, struggle, manner of writing. روشن - دستور - اور ترتیب دینا

نسق بند *m.* an arranger, governor of a country. انتظام کرنے والا - ملک کا عامل

نسقچي *m.* an arranger (of an army), a chamberlain, an orderly officer, a chief secretary. شهر اور لشکر کے لوگوں کا انتظام کرنے والا

نسک *nask, f.* a kind of pulse *ervum hirsatum* or *Cicer bus*). نام ایک غلہ کا جسکو هندي میں مسور کهتے هیں

نسک *nusk, f.* sacrifice, devotion, divine worship. قرباني - عبادت

نسک *nusuk,* (*pl.* of نسک), sacrifices, divine worships. جمع نسک کي - قربانیاں - عبادتیں

نسل *f.* race, pedigree, genealogy, descent, breed, caste, origin, family. اولاد - کنبہ

نسم *m.* a man. مردم - آدمي

نسمات *f.* perfumes. خوشبوئيں

نسمه *m.* man, life, breath, soul. - دم - آدمي روح

نسناس *m.* The Orang-outang (Simia Satyrus) is a native of the most unfrequented forests in the interior of Sumatra, Borneo, Malacca, &c, living chiefly on fruits, but occasionally eating eggs, insects, and reptiles. In early youth it is remarkable for its rotundity of cranium and height of forehead, but these marks of superior mental power disappear as the animal advances in age. They have arms so long that the tops of the fingers can touch the ground when they stand upright, the body is covered with coarse reddish hair, on the head, shoulders, and back it is thick, but on the fore-parts of the body rather thin, the neck short and thick, the voice has a peculiarly shrill and hollow tone, the lips are thin and protuberant, the ears small, the nose particularly flat, and the face has bluish cast بن مانس جو ايک جانور مشابه انسان هوتا هے

نسو *a.* soft, uneven. واو معروف سے بمعني نوم و هموار

نسوان *f.* women. عورتيں

نسوة *f.* women, (has no *singular*). عورتيں اس کا مفرد نهيں هے

نسي *f.* a forgotten thing. بهولي هوئي چيز

نسيان *nisyan*, *f.* forgetfulness. فراموشي - بهول

نسيان *nasyan*, *a.* forgetful, neglectful. وه شخص جس پر بهول بهت غالب هو - بهلکڑ

نسيب *m.* a man of high descent. شخص عالي نسب

نسيج نسيجه } *m.* a web, anything woven, a garment of fine texture. بنا هوا - جامه - ايک قسم حرير زربات کي

نسيق *a.* ornamented, adorned. آراسته کيا هوا

نسيم *f.* a gentle, zephyr, a cool breeze, fragrant air. نوم هوا - ٹهنڈي هوا - خوشبودار هوا

نسيه *m.* debt, loan. قرض - ادهار

نش *m.* shade (of a tree), a shady place where there are plenty of trees. سايه درخت کا - وه مقام سايه دار جهاں بهت سے درخت هوں

نشا creating, (*met.*) the world, the creation. پيدا کرنا - نو پيد هونا - مجازاً بمعني جهاں اور عالم کے هوتا هے

نشاب *naghshab*. *m.* a maker of arrows. - تيرگر تير بنانے والا

نشاپور (*cont.* from نيشا پور) name of a city in Khurasan. مخفف نيشا پور کا جو خراسان ميں ايک ملک کا نام هے

نشات *f.* a creature, anything produced or growing, the creation, reaching the prime of youth, beginning, appearing, growing. هر ايک قسم کي پيدائش - عالم موجودات - نيا پيدا هونا - نوجوان هونا - شروع کرنا

نشاتين (dual) the present world and the world to come. دنيا و آخرت

نشاره *m.* filings, saw dust برادة لکڑي اور هاتهي دانت وغيره کا

نشاط *nashat*, *m.* gladness, joy, pleasure. خوشي - شادماني

نشاط *nishat*, (*pl.* of نشيط) brisk, cheerful, lively. جمع هے نشيط کي جس کے معني خوش اور شادمان کے هيں

نشاف *nashsh* *f.* *a.* imbibing, absorbing, attracting, alluring جذب کر لينے والا - اپنے ميں کهينچ لينے والا

نشاف *f.* madness, insanity, insane, in love. مجنون - ديوانگي - خبط - سوڑي پن

نشان *m.* an ensign, flag standard, colours, armorial bearings, family arms, royal mandate. علم فوج کا - لشکر کا جهنڈا - بادشاه کا فرمان

نشاندن *caus.* to cause to sit, to place, to quench or smother a fire. بٹهلانا

نشانه *m.* a mark, a butt جگهه تير يا گوله مارنے کي

نشانيدن *caus.* to cause to sit. بٹهلانا

نشب properties of all sorts whether it be a slave, female slave, goods, wealth or countries, etc. هر ايک قسم کي جائداد خواه لونڈي غلام هو خواه مال و دولت خواه املاک وغيره

نشتر *f.* lancet, a fleam. فصد کهولنے کا اوزار

نشخوار the food which ruminating animals bring up from the first stomach to chew the cud. جگالي - جيسے بکري اور گاے وغيره کرتي هيں

نشدت *f.* searching, seeking. جستجو کرنا - گم چيز کا ڈهونڈهنا

نشر *nashr*, good smell, reviving, becoming green again (as grass) sawing wood, cutting, spreading (a table), (a carpet), publishing (news), diffusing, divulging, (*met.*) life. خوشبو دار گهاس کا دوباره هرا هونا - آره سے لکڑي کا کاٹنا - بچهانا - پهيلانا - خبر کا فاش کرنا - مجازاً زندگي

نشو نما growing up, germinating. - پیدا هونا - اُگنا - بڑھنا

نشیب descent, declivity, hollow, low. - پستي - پست زمین - نچان

نشیب و فراز (*lit.*) down and up (our idiom is up and down), the ups and downs of life, profit and loss, the advantages and disadvantages of any affair. زندگي کي رنج و خوشي - فائدے و نقصان وغیرہ

نشید *a.* reading or rehearsing verses or reciting a poem, a loud voice, verses which people recite especially alternately. یاے معروف سے - شعر پڑھنا - آواز بلند کرنا

نشیطا *a.* happy, brisk, cheerful, glad, merry. خوش - شادمان

نشیم *nishim, contr. fr.* نشیمن *m.* a bird's nest, a resting place. مخفف نشیمن کا بمعني آشیانہ و آرام گاہ

نشیمن *m.* a private apartment, a resting place, a bird's nest. خلوت خانہ - آرام گاہ - گھونسلا پرند کا

نشین in *comp.* seated on, dwelling in, etc., (*imp.*) sit (thou). (ترکیب کي حالت میں) بیٹھنے والا - صیغہ امر کا بمعني بیٹھ

نص *a.* investigating a matter thoroughly, demonstration, proof, shewing forth, manifesting, *m.* a text, clear and express dictum of law which cannot be set aside, examining an evidence. کسي امر کو خوب دریافت کرنا - کسي چیز کا بلند کرنا - ظاهر کرنا

نصاب *f.* capital, property, principal, a fixed capital. Alms, according to the prescriptions of the Mahomedan law, are to be given of five things: 1. Of cattle, that is to say, of camels, kine and sheep, 2. Of money, 3. Of corn, 4. Of fruits *viz.*, dates and raisins, and 5. Of wares sold. Of each of these a certain portion is to be given in alms, being usually one part in forty, or two and a half per cent. of the value. But no alms are due for them, unless they amount to a certain quantity or number, nor until a man has been in possession of them eleven months, he not being obliged to give alms thereout before the twelfth month is begun. مال کي وہ مقدار جس پر زکوۃ واجب هو جاے اول درجہ اس مال کا چاندي میں دو سو درم اور سونے میں بیس مثقال هے اور زکوۃ مال کي چالیسواں حصہ اس مال کا هوتا هے بعد هر سال کے فارسي میں نصاب اکثر زر اور سرمایہ اور پونجي کے مستعمل هوتا هے

نشر *nashr*, (both *sing.* and *pl.*) dispersing, scattering, dispersed people. - پراگندہ هونا پراگندہ - پراگندگان (واحد اور جمع دونوں مقام پر مستعمل هوتا هے)

نشرہ *nushara*, *m* a charm, an amulet. - تعویز افسون - منتر

نشرہ *nashra*, *m.* the paper or board on which they write with saffron and cinnabar for children learning to write. وہ کاغذ یا وصلي جس پر زعفران اور شنگرف سے بروز مکتب نشیني لڑکوں کے لیئے لکھتے هیں

نشز seeking a high place, sitting on a high place. بلندي ڈھونڈھنا - بلند بیٹھنا - بلند جگہ

نشستن *inf.* to sit, (also) to be, to remain, to settle down or cease. بیٹھنا اور بمعني بودن اور ماندن کے بھي آیا هے

نشط *m.* biting (of snake), drawing water from a well without a pulley, shifting from one place to another, opening a knot easily. کاٹنا سانپ کا - بغیر چرخي کے کنوئیں سے پاني بھرنا - ایک جگہہ سے دوسري جگہہ جانا - آساني سے گرہ کا کھولنا

نشف *nasht*, *a.* ground imbibing water, or the water so sucked up, soaking sweat (a cloth). جذب کرنا - کپڑے کا پسینہ کو جذب کرلینا

نشف *nashaf*, *m.* a kind of adamantine, a pumice stone with which they rub the feet. ایک قسم کا نہایت سخت کالا پتھر

نشف *nisht*, *m.* the skull, a wooden cup. کھوپڑي - کاسۂ سر - لکڑي کا پیالہ

نشق *a.* smelling, a deer (caught and intangled in a coil). سونگھنا - هرن کا دام میں پھنسنا

نشکردہ *m.* an iron instrument for scraping leather, a shoe-maker's knife, a scraper. رانپي جو چماروں کا چمڑا کاٹنے کا اوزار هے

نشلنج *m.* a close compression, as with the fingers, pinching. ناخون یا انگلیوں سے اس طور سے پکڑنا کہ درد هونے لگے - چٹکي لینا

نشو *m.* vegetation, germinating, growing up. پیدا هونا - اُگنا - بڑھنا

نشوار *f.* the cud, a quid. بمعني نشخوار - جگالي

نشوان *a.* intoxicated, drunk. مست - متوالا

نشوۃ *nashwat*, appearing, becoming intoxicated. ظاهر هونا - مست هونا

نشور *a.* rising from the dead. یوم النشور the judgment day, resurrection. - زندہ هونا روز قیامت

نشوز disagreement between husband and wife. عورت کا اپنے شوهر سے ناموافقت کرنا

نصاخ m thread (for sewing cloth). دهاگا کپڑا سینے کا

نصاری m. (in a pl. or collective sense) Nazarenes, Christians. عیسوي - عیسائي

نصال (pl. of نصل), points of an arrow. جمع هے نصل کي - تیروں اور نیزوں کي پهالیں

نصائح (pl. of نصیحت), counsels, advices, admonitions. جمع نصیحت کي

نصب m. fixing, erecting, planting, an establishment, enmity, rebellion. - بوپا کرنا دشمني رکهنا

نصب nasab, نصب nusab, } anything set up or erected for worshipping, an image or symbol of a deity consecrated as an object of worship, نصب nasab also means grief. بت اور جو چیز واسطے پوجا کے قائم کریں

نصب العین f. kind looks, encouragement, extensive view. مد نظر - منظور خاطر

نصح a. sewing cloth. کپڑا سینا

نصح m. advise, counsel, admonition. نصیحت کرنا - پند دینا - نصیحت - پند

نصر m. assistance, victory. یاري کرنا - مدد دینا

نصر nussar, (pl. of ناصر), assistants, helpers. یاري کرنے والے - مدد دینے والے

نصرانی m. a Christian. - مذهب عیسوي کا پیرو

نصرت f. assistance, defence, victory. یاري کرنا - مدد دینا

نصف half. آدها

نصفت nasfat, f. justice, equity. انصاف - نیاؤ

نصل m. the point of an arrow or spear. تیر اور نیزہ کے پهال

نصوح a clear, pure m. true repentance. صاف - خالص - سچي توبۃ جس کے بعد هرگز گناہ نۃ کرے

نصوص f. those verses in the Quran the meanings of which could be easily understood. وہ آیات قرآني جس کے معني ظاهر اور صاف صاف هون

نصول (pl. of نصل), points of the spears and arrows. جمع هے نصل کي تیروں کي پهالین

نصیب m. fortune, lot, fate, destiny, chance, portion, part. قسمت - تقدیر - حصۃ

نصیبۃ m. lot, fortune, portion, daily food. حصۃ - بهرہ - روزي

نصیح m. adviser, counsellor, admonisher. نصیحت کرنے والا

نصیر n. an assistant, defender, a friend, name of a Jewish tribe. مدد گار - یاري کرنے والا - نام ایک یهودي قبیلۃ کا

نصیري n. a Musalman who believes in the divinity of Ali جو علي کو خدا مانتے هیں

نصیف f. a bed sheet (unsewn) of one breadth, half of everyting, (also) a servant. ایک عرض کي بغیر سي هوئي چادر - هر چیز کا آدها حصۃ - اور بمعني خادم کے بهي

نضار m. gold, anything pure. زر - سونا - هر چیز خالص

نضارت f. freshness, beauty, verdure, pleasingness, lustre, brightness, floridness. تازگي - آبداري

نضج nuzj, a ripening, suppuration. پختۃ هونا میوے کا - هر شے کا پکنا - پکنا زخم اور مادہ اور خلط کا

نضح drawing water. پاني کهینچنا

نضح (pl. انضاح), reservoirs, ponds. حوض - اس کي جمع انضاح هے

نضر m. gold, fresh cotton, freshness. زر - روئي تازہ - اور تر و تازگي

نضرت f. freshness, beauty, refreshment. تر و تازگي

نضر losing colour (as the colour of a tinged beard). زائل هونا رنگ خضاب کا

نضوب flowing, running, sinking water in the earth. پاني کا زمین کے اندر سما جانا

نضیج m. ripe fruit, suppurative ulcer, mature. میوہ پختۃ - دمل پکا هوا

نضیح juice, essence, reservoir, pond. - عرق حوض

نضیر a. fresh, lustrous, gold, name of a Jewish tribe. تازہ - آبدار - زر - نام ایک قبیلۃ یهود کا بهي

نطاۃ n. name of one of the forts of Khaibar. نام ایک قلعۃ خیبر کا

نطاق m. a waist-band, a belt, a girdle. کمر بند - پٹکۃ

نطاح a. butting, striking with the head and horns. سینگ مارنا بکري وغیرہ کا

نطع m. a piece of dressed leather which they spread as a table or table-cloth, the skin which the fakeers wrap round their waists. چمڑے کا بچهونا اور فرش - وہ کهال جسکو فقیر لوگ کمر پر لپیٹتے هیں

نطع پوشان m. the wrestlers. کنایۃ پهلوانون سے

نطعي f. leather breeches that do not cover the thigh, and which the wrestlers put on at the time of wrestling. چمڑے کي جانگیا

نطاف *pl.* of نطفة جمع نطفع كي

نطفة *nutfa*, *m.* clear water, the sea seed, *sperma hominis.* صاف پاني

نطفة *nutfa*, *m* an ear-ring گوشوارہ

نطاق *natq*, speech, diction, utterance, articulation. بات صاف كرنا - بولنا

نطق *nutuq*, (*pl.* of نطاق), belts, girdles. جمع نطاق كي - جو بمعني كمربند اور پٹكه كے هے

نطر *f.* distance, separation. دور هونا - دوري

نطول act of washing any part of the body with water in which a medicinal substance has been infused, feet-washing. دواؤں كے جوش دئے هوئے پاني سے كسي عضو كو دهارنا پاشويه

نطول *natul*, *m* boiled medicinal water with which affected part may be fomented, warm water medicinally prepared, and poured form a vessel slowly over the head. وہ پاني دواؤں كا جوش ديا هوا جس سے دهارين

نظار *nuzzar*, spectators, beholders, lookers on نظر كرنے والا - ديكهنے والا

نظار *nuzar*, *m.* gold, pure substance. - زر سونا - خالص چيز

نظارت *f.* seeling, easting a look نظر كرنا - كسي چيز كو ديكهنا - نگهباني

نظارت پيشه *m.* a keeper, a guardian, an ennuch, chamberlain نگهباني - خواجه سرا

نظارگي *f.* seeing, looking at, observation, taking air, reconnoitering, (*met.*) a spectator, looker on, a rake, an epicure. - ديهكنا ديدہ بازي كرنا - مجازاً ديكهنے والا تماشائي

نظارہ *nazara*, *m* the sight, vision بغير تشديد ظاهر كے ديكهنا كسي چيز كا

نظارہ *f.* *nazzara*, *m* the spectators, lookers on. ديكهنے والے - نظر كرنے والے

نظافت *f* purity, cleanness, neatness. پاكيزگي

نظام *nizam*, *m* a string of pearls beads, etc., or that upon which they are strung, order, arrangement basis, foundation, constitution, composition of verses دهاگا جس ميں جواهر پروئے جائيں - كسي چيز كي آراستگي - انتظام - سلسلہ كسي انتظام كا

نظام *nazam* (*pl.* of ناظم), governors, rulers, princes, lords, composers, arrangers, جمع ناظم كي - انتظام كرنے والے - شعر كهنے والے

نظاميه *n.* name of a place. نام ايک مقام كا

نظائر (*pl.* of نظير), similes جمع نظير كي - مثاليں

نظر باز *m.* playing with or deceiving the eyes, an ogler, a juggler. وہ شخص جو صرف ديكهنے كا مزا اٹهائے

نظر بند a strictly watched (without being imprisoned). وہ قيدي جو نظر سے غائب نه هونے پائے.

نظر تنگ *m.* a miser. كنجوس

نظر داشتن *id.* to fall, in love, to be in love: عشق هونا

نظر زدن (*met.*) to see. ديكهنا

نظر غلط انداز deceiving, look of a mistress: كنايه معشوق كي ايسي نظر سے جو عاشقوں كو غلطي ميں ڈالے. يعني هر عاشق يهي جانے كه يهه خاص هم هي پر كو ديكهتا هے

نظر يافتن *id.* to be greatly benefited by, to be instructed by. كسي سے فيضياب - تربيت پانا هونا

نظم *f.* stringing (as pearls), (*met.*) well-arranged speech, well-measured (verse); poetry, verse, order, arrangement. پرونا موتيوں كا دهاگے ميں - مجازاً كلام موزون - شعر - آرايش - آراسته كرنا

نظم آراے شودان the famous poet Khaqani. كنايه هے خاقاني شاعر مشهور سے

نظم و نسق order and arrangement. - انتظام كرنا آرايش و آراستگي

نظير *m.* example, instance, parallel. *a.* like, resembling, equal. مانند - مثل

نظيف (*fem.* نظيفة), pure, clean. - پاک - حلال طاهر

نعاب the young of a raven. كوے كا بچه

نعاج (*pl.* of نعجة), *f.* the sheep eyes. جمع نعجه كي - بهيڑيان

نعاس *a.* nodding from sleepiness, dozing, drooping, going to sleep, a doze. - انگهنا اونگهه - سوهنا

نعال *na'l*, *n* black smith who soes horses, horse-shoes نعلبند

نعال (*pl.* of نعل). جمع هے نعل كي

نعامه *m.* the ostrich. شتر مرغ

نعائم (*pl.* of نعامه), ostriches, the twentieth mansion of the moon, being eight stars in a circular position. جمع نعامه كي - شتر مرغ - اور نام بيسويں منزل كا چاند كي منزلوں سے

نعت *f.* praise (especially of Mohammad), eulogium enconium, an adjective noun. تعريف - صفت - تعريف كرنا - خاص كر صفت محمد كي

نعثل *m.* a wolf, an ignorant saint, name of a man remarkable for a long beard, a doting weak old man. - كفتار نر پير نادان نام ايک مرد دراز ريش كا

نعم البدل change for the bettr, a good reward. نیک عوض - بهتر بدلہ

نعمت *f.* favour, graciousness, affluence, ease, wealth, pleasures, delight, joy, comfort, luxury, virtue, beauty, goodness. - دسترس مال - بخشش - عطا - ناز - روزي - آسايش

نعناع / نعنع } *m.* plant, spearmint, mint (*mentha sativa*). پودینہ

نعوت *pl.* of نعت. جمع نعت کي

نعوذ (*iit.*) let us seek refuge, we seek refuge. پناہ مانگتے هیں هم

نعوذ باللہ let us flee to God (from anything wicked). پناہ مانگتے هیں هم خدا سے

نعوس *f.* a milch she-camel. دودہ والي اونٹني

نعومت *f.* delicacy, softness, tenderness. نازکي - نرمي - نازک هونا

نعي *f.* Imparting news of some body's death, giving a publicity to someone's evil action. کسي کے مرنے کي خبر کسي کو پهونچانا - کسي کي بدي کي شهرت دینا

نعیب / نعیق } the croaking of a raven etc., cawing. کوے کي آواز

نعیم *m.* paradise affluence gift, favour, virtue, goodness, bounty, anything good which we enjoy, repose, tranquillity, blandishment, coquetry, delicacy, tenderness. بهشت - نعمت - نیکي - مال - ترو تازگي

نغز *a.* anything rare or wonderful, beautiful, good, excellent, sincere; swift, dimble. نادر - خوب

نغزک (*dim.* form), anything rare, wonderful and elegant, good, pretty, a little work which could be excellently done, (*met*) the mango. هر شے نام دار اور خوب اور لطیف هر چهوٹا کام جو خوبي کے ساتهہ هو - اصطلاحاً آم جو مشهور هندوستاني میوہ هے

نغل *naghil*, a low-born, rancorous inimical, vindictive, malevolent, malicious, spiteful, bad-skinned, malice. بدنصیب - خراب چهرا - کینہ ور هونا - کینہ وري

نغل *naghal*, destruction, ruin. تباہ هونا

نغم (*pl* of نغمة), melodies, songs, modulations, musical notes, sweet voices. جمع هے نغمة کي - گیت او راگ بهت سے

نغمات *f.* musical notes, sweet voices, melodies. آوازیں - خوش اور نرم اور خوب اور دلکش

نغمة *m.* melody, song, modulation, musical note, sweet voice. آواز خوب اور مرغوب

نعج *a.* pure white, white. - خالص سفیدي - سفید هونا

نعج *m.* a fat camel. موٹا اونٹ

نعجة *f.* a sheep, an ewe. بهیڑي - مادہ میش

نعرة *m.* a shout, clamour, noise. زور کي آواز

نعش *m.* a bier, a coffin, the constellation of the Bear. جنازہ مردہ کا (خواہ مسلمان خواہ غیر مسلمان) - سات ستارے جو آسمان پر جانب شمال هیں

نعل *m.* shoe (of a horse or man), a horseshoe, the ferrule at the end of a scabbard, a hoof, a pair of Indian Clubs. - جوتي پا پوش - نفش - لوها جو گهوڑے کے پانوں اور جوتے کي آیڑي میں لگاتے هیں - مگدر جسے کشتي گیر اُٹهاتے هیں

نعل بها *m.* a tribute. آمدني جو راجہ اور بادشاہ دوسرے قوي بادشاہ کو دیتے هیں - تاکہ وہ اس کے ملک تاراج نہ کرے

نعل و آتش *id.* restless, uneasy, uneasiness. بیقرار - اضطراب - بیقراري

نعل در آتش نهادن *id.* to make one restless (in love) کسي کو اپني محبت میں بیقرار کرنا

نعل ریختن / نعل افگندن } *id* running of a horse, act of being unable of a horse to walk. گهوڑے کا دوڑنا - گهوڑے کا عاجز هونا چلنے سے

نعل واژ گون بستن *id.* to baulk, to disappoint, to deceive, to mislead. کسي کو بهکا دینا

نعلین (*dua*) a pair of shoes. دو جوتیاں

نعلین چوبین pattens, a pair of raised wooden shoes or soles. کهڑاؤں

نعم *pl.* of نعمت. جمع هے نعمت کي

نعم *n.* eyes, (also) a quadruped as camel, cow, etc. آرے - بلے - هاں - اور بمعني چوپایہ مثل اونٹ گاے وغیرہ کے

نعم *f.* delicacy, softness, tenderness, goodness, beauty, virtue. نازکي - نرمي - نکوئي

نعم *a.* good, virtuous. نیک - اچها

نعماء *f.* favour, graciousness, benefit, delight, joy. بمعني نعمت - یهہ صیغہ اسم کا هے جمع نهیں هے - اور بعضے اسے اسم کهتے هیں

نعمان *n.* name of a king of Arabia, who was also called Na'man Bin Munzir, name of Imam Abu Hanifa, (also the *pl.* of نعم), quadrupeds. عرب کے بادشاہ کا نام جس کو نعمان بن منذر کهتے هیں اور امام ابو حنیفہ کا بهي اور جمع نعم کي چوپاے

نعمان *n.* name of a canal. نام ایک نهر کا

نغمهاے نیمرنگ *m.* half finished notes. وہ نغمي جو نا تمام رهجائیں

نغمه *m.* pleasant note, sweet voice, tune, song, melody.

نغول *n.* the place in a jungle where the quadrupeds may remain during the night. وہ مقام جهاں چوپاے رات کو جنگل میں رهیں

نغول *nagul, a.* deep, far, distant, absent, remote, perfect, whole. عمیق - گهرا - بعید دور - دراز - تمام - تمال

نغول *nighul, m.* a staircase, steps, a ladder. نردبان - زینه - سیڑهي

نغوله *m.* the hair done up in a knot behind, looks (of a mistress). سر کے بالوں کا جوڑہ زلف معشوق

نفاثات *f.* enchantress, sorceress. جادو گونیاں

نفاخ *naffakh, a* inflating, inflaming. پهلانے والا

نفاد *a.* passing, finishing, unprovided, destitute (a traveller). گذرنا - تمام هونا - طے هونا - بے توشه هونا

نفاذ *a.* penetrating, pervading, piercing, issuing (of an edict or mandate). گذر جانا یعني تیر کا نشانه کو توڑ کر پار هوجانا - فرمان اور نامه کا جاري هونا

نفاس *m.* wish, curiosity, desire, discharges of blood attending the childbirth. کسي چیز کي رغبت کرنا - جننے کے بعد وہ خون جو عورت کو آتا هے

نفاست *f.* child-labour, bringing forth, accouchment, lying-in, envy, jealousy, miserliness, excellence, exquisiteness, deeming a thing of high value, pleasantness, facetiousness. عورت کا زچه هونا - حسد اور بخیلي کرنا - اور بمعني خوبي - پسندگي - لطافت

نفاع *a.* benefitting, advantageous, bringing a large profit. بڑا نفع پهونچانے والا

نفاع *pl.* of نافع. جمع نافع کي

نفاع *m.* a large cup (especially made of the skull of an animal). بڑا پیاله

نفاق *nufaq, a.* running, flowing, current, passing. رواں - جاري - رواج پانا

نفاق *nifaq, m.* hypocrisy, fallacy, prevarication, (in *pers.*) disagreement, enmity. دل میں کچهه اور ظاهر کچهه کرنا - دوغله پن - دشمني رکهنا

نفائس *f.* perfumaries. خوشبوئیں

نفائس (*pl.* of نفیسه), best and choicest things. جمع هے نفیسه کی - عمدہ اور پسندیدہ چیزیں

نفت naptha, bitumen, (this word is the corruption of napthe.) ایک قسم کا سیاہ رنگ کا روغن جو زمین سے اُبلتا هے

نفخ blowing (with the mouth). پهونکنا

نفح blowing of the wind, diffusion of a good smell. هوا کا چلنا - خوشبو کا پهیلنا

نفحات (*pl.* of نفحه), perfumes. جمع نفحه کي خوشبوئیں

نفحه *nufkha, m.* a good smell. خوشبو

نفخ *m.* breathing or diffusing odour, blowing (with the mouth), inspiring, breathing into, swelling. پهونکنا - هوا سا بهرنا

نفخات *pl.* of نفخه. جمع نفخه کي

نفخه *nufakha, m* blowing but once, one blast or breath of wind, a fragrant gale. ایک دفعه پهونکنا

نفذ *f.* pervading, penetrating, prevalance. رواني کسي شے کي - کسي چیز کا جاري هونا

نفر *m.* a number of men from three to ten, (in *pers.*) an individual or person, a servant. گروہ آدمیوں کا تین سے دس تک - (فارسي میں) ایک شخص اور بمعني چاکر کے بهي آیا هے

نفرہ *f.* hating but once, avoiding only once. ایک بار گهن کرنا - ایک مرتبه بهاگنا اور بیزار هونا

نفریں *f.* detestation, abhorrence, an imprecation, curse, opprobrious words, flight, terror. دعاے بد - ملامت - پهٹکار

نفس *nufas, (pl.* انفاس), the breath, life. جمع اس کي انفاس آتي هے - دم - سانس

نفس *nafs, (pl* نفوس and نفس), the soul, spirit essence, substance, (also) blood, body, ...ab, (*pers.*) *penis.* جان - روح - حقیقت شے کي - هستي - عین هر چیز کا - جمع اسکي نفوس اور انفاس آتي هے - اور نفس بمعني تن - خون اور چشم زخم کے بهي آتا هے

نفس امارہ inordinate appetites, concupiscence, beastly propensities. خواهش طبیعت انسان کي طرف لذت دینا اور برے کاموں کے

نفس لوامه a spirit of censuring self for doing a sinful act, self-accusation. اپنے آپ کو ملامت کرنے والا - نور دل کي هدایت سے گناہ کے کرنے پر

نفس the spirit which is perfectly free from sin. وہ نفس جو بري باتوں سے بالکل پاک و صاف هے

نفس الامر the essence, soul or foundation of a thing, chief object, established, fixed, fact. حقیقت کسي کام کي - اصل مدعا - ثابت - تحقیق - واقعي

نفسانی *a.* luxurious, carnal, sensual. منسوب طرف نفس کے

نفسانیت *f.* luxury, sensuality, carnality, selfishness, obstinacy, perverseness, pride, pomp, stateliness. خود غرضی - ہٹ دھرمی

نفس بہیمی *f.* beastly propensities, concupiscence. مراد اس سے نفس امارہ ہے

نفس راست کردن *id.* to hesitate, to have patience, to delay, to stop, to take rest. توقف کرنا - ٹھہر جانا - آرام لینا

نفس زدن *id.* to breathe, to live or exist. سانس لینا

نفس سوختن *id.* to pant, to be out of breath, to breathe short (as is the case after running hard), (also) to labour. ہانپنا - دم کا پھول جانا جیسا کہ بعد دوڑنے کے ہوتا ہے اور کنایہ محنت کرنے سے بھی

نفس کل (*met.*) the ninth heaven. کنایہ عرش سے

نفس کشادن *id.* to talk, to converse, to speak. کلام کرنا

نفس ناطقہ the soul and life. بمعنی روح و جان کے

نفس نباتی *f.* the life in vegetation and trees. وہ روح جو روئیدگی اور درختوں میں ہوتی ہے

نفس واپسین *f.* the last breath, the last moment. مرتے وقت کی سانس

نفسی one's own, belonging to one's self. اپنا - ذاتی

نفسی *a.* carnal, sensual, animal or beastly. سانس کا

نفش *a.* carding cotton or wool. روئی اور اون کا دھنکنا

نفض *a.* sweeping, brushing, straining, flapping, shaking (a tree or a garment), prolific (woman), shivering with cold in fever, anything falling from the tree (as leaves, fruits, etc.) - جھاڑنا - کپڑے کا جھٹکنا درخت کا ہلانا - عورت کا بہت بچے جننا - لرزہ کی تپ کا کسی کو ہلا دینا - پتہ اور میوہ درخت سے گرنا

نفط (*cor.* form of نفت), naphtha, bitumen, (*met.*) gunpowder. معرب نفت کا - ایک قسم کا روغن سیاہ و سفید ہوتا ہے جو ملک شیروان میں زمین سے ابلتا ہے - کبھی مجازاً باروت کو بھی کہتے ہیں

نفقہ *m.* the necessary expenses for living, in the language of the law it signifies all those things which are necessary to the support of life, such as food, clothes and lodging, many confine it solely to food. کھانا کپڑا و خرچ وغیرہ جو زندگی کے لئے درکار ہوں

نفل *m.* redundant, a voluntary act of devotion which may be omitted innocently, as not being prescribed by law, a work of supererogation. زائد - وہ عبادت جو بندہ پر واجب نہو

نفرخ *f.* a sternutatory medicine. سوکھی دوا جو مثل ناس کے ناک میں چھوڑیں

نفوذ *m.* penetrating, piercing, pervading, issuing of an edict, effecting. تیر کا نشانہ کو توڑ کر پار نکل جانا - گذرنا - جاری ہونا فرمان یا نامہ کا - اثر کرنا

نفور *a.* fleeing from, abhorring, hating. بھاگنے والا - نفرت کرنے والا

نفوس (*pl.* of نفس), souls, spirits, individuals, persons. جمع نفس کی جس کے معنی جان و روح کے

نفوس قدسیہ *a.* holy spirits, the virtuous, the angels, spirits of the good. - پاک ذاتیں نیکوں کی روحیں - پاک روحیں - فرشتے

نفول *a.* far, distant, separate, deep, comprehension, consideration, reflection. - دور بعید - عمیق - فہمیدگی - غور

نفی *m.* forbidding, prohibition, rejecting, refusing, negative, refuse, filth, refusal, annihilation, non-existence, (in law) the denial of a child's paternity and its consequent rejection, on the part of a man, driving away, exiling, banishing. - دور ہونا ہنکانا - شہر سے بدر ہونا

نفیر *f.* lamentation, cry for help, complaint, fleeing from, hating, (also) a brazen trumpet. فریاد - نالہ - آواز اور بمعنی بھاگنے والی اور نفرت کرنے والے کے بھی - کرنائے - بڑی بانسری

نفیس } *a.* precious, costly, valuable,
نفیسہ } chosen, approved of, agreeable, choicest, elegant; delicate, exquisite. قیمتی چیز - پسندیدہ - گرانمایہ - لطیف

نفی کردن *id.* to avoid, to annihilate, to exile, to banish. دور کرنا - نیست کرنا : شہر سے نکالدینا

نقا *f.* purity, cleanness, pure clean, good, virtuous, exemption. پاکیزگی - صفائی

نقاب *niqab*, *m.* a veil, a hood for the face. جو منہہ پر پردہ ڈالتے ہیں

نقاب *naqab*, one who cuts a hole, one who digs a mine or a tunnel. سوراخ کرنے والا سرنگ کھودنے والا

نقاب لاجورد کشیدن *id.* to abandon, to give up. ترک کرنا - چھوڑ دینا

نقابت *niqabat*, *f.* praise, commendation, applause. صفت - تعریف

نقابت *naqabat*, *f.* praising, commending, applauding. تعریف کرنا - سراهنا

نقاد *naqqad*, *m.* a person whose business it is to examine money and ascertain its goodness, an assayer, an adept. روپیه اشرفی کا پرکهنے والا - کهوٹے کو کهرے سے الگ کرنے والا

نقار *m.* malice, spite, hatred, enmity, rancour. کینه - بغض - عداوت

نقارچي *m.* one who beats the kettle-drum. نقاره بجانے والا

نقاش *m.* a painter, a draftsman, carver, a sculptor, an embroiderer. نقش کرنے والا

نقاشي *f.* drawing, painting, sculpture, statuary, embroidery. نقش کرنے کا پیشه

نقاط *pl.* of نقطه جمع نقطه کي

نقال *m.* a mimic, an actor, a player. نقل کرنے والا

نقاوت *f.* purity, cleanness. پاکیزگي

نقاوه *a.* selected, chosen, approved of, an elect برگزیده - پسندیده

نقاهت *f.* imbecility, feebleness, languidness, recovering from a disease, convalescence. ضعف ناتوانی - ناطاقتي جو بیمار میں هوتي هے

نقائص (*pl.* of نقیصه) defects, bad habits, etc. جمع نقیصه کي بمعني عیب - بري خصلتیں

نقب *m.* a subterraneous excavation, digging through a wall, any hole made by digging, a way through mountains سوراخ کرنا - دیوار میں سیند مارنا - سرنگ لگانا

نقباء (*pl.* of نقیب) chiefs, leaders, etc. جمع نقیب کي - بمعنے بزرگ - سردار

نقبه the itch, the scab, the mange. - کهجلي خارش

نقدا *adv.* immediately, at once. بالفعل - فوراً

نقر *a* pounding, digging pecking, cutting (wood), blowing, (conch.), defective. - کوٹنا کهودنا - مرغ کا دانا چننا - لکڑي کاٹنا - سنکهه بجانا - عیب کرنا

نقرس the gout. نام ایک درد شدید کا جو پیروں کي انگلیوں سے اٹهتا هے

نقره *m* melted silver, silver, a pit, depression (esp.) on the nape of the neck, name of a village گلي هوئي چاندي - گڑها جو انسان کي گدي میں هوتا هے - نام ایک قریه کا

نقرهٔ تابناک *m.* an excellent speech. سخن آبدار - نهایت عمده کلام

نقره پا *m.* silver (white) footed bird. نام ایک پرندے کا جس کے پاؤں سفید رنگ کے هوتے هیں

نقره خنگ *m.* a shining white coloured horse. وه گهوڑا سفید رنگ جو مثل چاندي کے هو

نقره زیبقي *m.* pure white shining silver. چاندي خالص اور سفید اور براق

نقرئي made of silver, inlaying of silver or other metal upon wood, etc. چاندي کي چیز

نقش بر آب کشیدن *id.* to do a thing uselessly, to do a thing which has no stability. عبث اور بیفائده کام کرنا - وه کام کرنا جس کو پائداري نهو

نقشبند *m.* the creator, framer, artificer. کنایه هے خالق اور صانع سے

نقش جهان *n.* name of a garden in Ispahan. اصفهان میں ایک باغ کا نام هے

نقش دل (*met.*) belief, confidence, trust. کنایه یقین سے

نقش زیاده *f.* a thing not worth seeing. وه چیز جو دیکهنے کے قابل نهو

نقش گذارش *f.* a story worth telling. وه قصه جو قابل بیان کے هو

نقش نیرنگ laws of the religion of fire-worshippers. دین آتش پرستي کي رسوم

نقشه *m.* a portrait, etc., model, pattern, a map, plan, chart, delineation. تصویر - کسي چیز کا نمونه

نقض rupture, violation of a contract. عهد شکني کرنا

نقط *nuqat* (*pl.* of نقطه), drops. جمع هے نقطه کي

نقطه *m* a point, a dot, a stain, a vowel, a geometrical point, centre of a circle. شوشه - دهبه

نقطهٔ خاکي (*met.*) the earth. کنایه زمین سے

نقطه ریختن geomancy, foretelling by figures. کنایه هے رمل کے فال دیکهنے سے

نقطهٔ سهو *n.* dotting a wrong letter. وه نقطه جو کسي حرف پر بهولے سے دیدیں

نقطه شک *m.* a dot put in front of a letter on the margin to help or guide the memory, a marginal note. وه نقطه جو کسي لفظ یا مضمون مشکوک کے مقابل کتاب کے حاشیه پر واسطے یادداشت کے لگاویں

نقطه گاه *m.* the centre of a circle, (also) the land of Mecca. دائره کا مرکز - اور کبهي مراد زمین مکه معظمه سے

نقطۂ مقابل *a.* equal, similar, like, (sometimes) an enemy. کنایۂ همسر اور هم مثل سے اور کبھي کنایۂ حریف سے

نقطۂ موهوم *m.* a minute particle of matter, an atom. وہ مقدار جو تقسیم قبول نہ کرے

نقطۂ نوک ریز *m.* a drop of ink falling from the point of a pen on paper. روشنائي کي بوندکي جو قلم کي نوک سے کاغذ پر گر پڑے

نقع *f.* dust, clouds of dust. غبار - گرد

نقل *naql, f.* transferring, changing, removing, passing, carrying from one place to another, (*met.*) transcribing, imitating, copying, mimicking, acting, a history, narrative, tale, story, a copy. ایک جگهہ سے دوسري جگهہ جانا - ایک جگهہ سے دوسري جگهہ لے جانا - مجازاً کسي چیز کا نمونہ بنانا اور لکهنا

نقل *nuql,* sweetmeats, desserts, any salt thing taken along with wine. وہ چیز جو شراب پینے کے بعد کهاتے هیں - نام ایک میٹهائي کا

نقل روح leaving the body. چهوڑ دینا بدن کا

نقل شیرین (*met.*) kiss of a mistress. کنایہ هے معشوق کے بوسہ سے

نقلہ (*pl.* of ناقل), relaters, narrators, reporters. جمع ناقل کي نقل کرنے والے

نقمت *f.* punishment, malice, spite, rancour, torment, chastisement, torture, enmity. عذاب - کینہ - بغض - عقوبت - عداوت - دشمني

نقود *pl.* of نقد جمع نقد کي

نقوش *pl.* of نقش جمع هے نقش کي

نقوع *m.* any thing dissolved in water, to make medicines, drink, etc., fruits, steeped in water, an infusion (a term used in medicine). پاني میں تر کیا هوا میوہ - پاني میں بهیگي هوئي دوا - بهیگوئي هوئي دوا کا پاني جو بیمار کو پلاتے هیں

نقول (*pl.* of نقل) narratives, tales, anecdotes, copies. جمع هے نقل کي

نقوماجس *m.* name of Aristotle's father. نام ارسطو حکیم کے باپ کا

نقي *naqi, a.* pure, clean, excellent. پاک - خالص

نقي *niqi, m.* narrow, a soft substance in the cavities of bones. هڈي کا گودا

نقیب *m* a chief, a leader, an old man of great experience, an intelligent person. بزرگ - سردار - وہ شخص جسکو لڑکوں کے نسب معلوم هوں - مرد آگاہ

نقیر *m.* a small groove in a date-stone. *a.* small, trifling, of a low value وہ گڑها جو کهجور کي گٹهلي کي پشت پر هوتا هے - شگاف خرما اور بمعني حقیر اور کم قیمہ کے بهي

نقیض *a.* adverse, contrary, opposite. *m.* an enemy, an opponent. هر شے کا توڑنے والا - ضد

نقیع *a.* calm, still water, a well in which there is plenty of water, shout, noise, complaint, water sweet to the taste, good, wholesome cool water, fruits steeped in water, an infusion. آب استادہ - وہ کنواں جس میں بهت پاني هو - بانگ - فریاد - آب خوشگوار - آب شیریں و سرد - میوے پاني میں تر کئے هوئے - پاني میں بهیگي هوئي دوائیں

نقیعہ feast, a sumptuous entertainment, treating a guest with a feast, preparations made for the reception of guests when coming off a journey. نام مسافر کي ضیافت کا جو اوس کے آنے پر کریں

نقیق clucking (as a hen). مرغي کي آواز - مور کي آواز

نقیہ *a.* pure. پاک - خالص

نکابت *f.* harming an enemy دشمن کو گزند پهونچانا

نکات *pl.* of نکتہ جمع نکتہ کي

نکاحي *f.* a married woman شادي کي هوئي عورت

نکب crossness, grief, hardship, severity. کجي - رنج - سختي

نکبا *n* the wind which blows from three directions, wind blowing obliquely, a side wind. وہ هوا جو تین طرف سے چلے

نکبت *f.* adversity, calamity, misfortune, distress, baseness, grief, affliction - کجي - رنج - سختي

نکت *pl.* of نکتہ جمع نکتہ کي

نکت *f.* digging the earth, overthrowing, throwing upside down زمین کا کهودنا - اوندهے منهہ گرا دینا

نکتہ *m.* a subtle or quaint conceit, a mystical signification, a hidden virtue. بات پاکیزہ جو پوشیدہ هو

نکتہ دان *a.* acute, intelligent, conversant with subtleties, or whatever is mysterious, very wise. باریک بات کا جاننے والا - بڑا عقلمند

نکد difficulty, hardship, dissatisfaction, dimunition of the water of a well. - سختي - ناخوشي - دشواري - کنوئیں کے پاني کا کم هونا

نکر ingratitude, ungratefulness, surprise, astonishment (*met.*) punishment, affliction. ناسپاسي - ناشکري - ناخوشي - تعجب - مجازاً بمعني عذاب

نکرہ *a.* undetermined, unrestricted, indefinite or generic noun. ناشناسي - ناشناختگي

نکس *naks*, *a.* inclining downward, inverted, placing topsy-turvy, falling upside down. سرنگوں کرنا - اوندھا کرنا

نکس *nuks*, a relapse, a falling back in health, returning of a disease. بیماري کا پھر عود کرنا

نکل *nikl*, *f.* a fetter, iron fastenings to legs of criminals, a manacle. لوھے کي بیڑي جو مجرموں کے پیر میں ڈالتے ھیں

نکو *a.* good, beautiful, fair. خوب - اچھا

نکوب *a.* straying, wandering from the right path بھولنا راہ سے

نکوص *a.* suspicious, rebelling, getting disgusted with, changing, departing, retiring, reverting from, desisting from, timidity. بد دل ھونا - برگشتہ ھونا - کسي کام سے پھلے رھا ھونا

نکول *a.* refusing to swear, cowardice, flying from enemy), suspicion, doubt, mistrust, refusal, abstaining, refraining. قسم کھانے سے انکار کرنا - بمعني انکار - روگرداني

نکوھش *f.* reproof, reproach, rebuke, threatening, snubbing. - سر زنش کرنا - ملامت - دھمکي - سرزنش

نکوھیدن *inf.* to reprove, to reproach, to rebuke, to slander. ملامت کرنا

نکوھیدہ *a.* reproached, rebuked, wicked, bad, depraved. - ملامت کیا گیا - بد زشت - خراب آدمي

نکوھیدہ راے *a.* unwise, of a bad understanding. بد عقل

نکوئي *f.* goodness, beauty, virtue. بھلائي

نکہت *f.* perfume, odour, anything odoriferous. خوشبو

نکیر *m.* the name of one of the two angels, (*v.* منکر), supposed by the Mahomedans to try the departed in the tomb. نام ایک فرشتہ کا

نگار *m.* a picture, portrait, effigy, idol, a beautiful woman, mistress. - نقش - بت - معشوق

نگار ارمني (*met.*) Shirin with whom Farhad had fallen in love مراد شیرین سے جس پر فرھاد عاشق تھا

نگار بستہ (*met.*) the mistress. بمعني معشوق

نگار خانہ *m.* a picture-gallery. تصویروں کا مکان

نگار عالم *a.* very beautiful. بھت خوبصورت

نگارینہ *f.* a mistress. معشوق

نگارش *f.* writing, painting. لکھنا

نگاشتن *inf.* to write. لکھنا

نکال *m.* punishment, trouble, grief. - عذاب رنج - دکھ

نگاھداشت *f.* looking after, keeping, watching, care. حفاظت - ھوشیاري - خبرداري

نگاھداشتن *inf.* to keep, to watch or look after, to preserve with care. نگاہ رکھنا

نگاہ کردن to see, to observe. دیکھنا

نگر *imp.* look (thou), behold. دیکھہ

نگران *m.* looking, beholding, expecting. دیکھنے والا - منتظر

نگریدن *inf.* to look. دیکھنا

نگریستن *inf.* to look, to behold. - دیکھنا نگاہ کرنا

نگون *a.* hanging downward, upside down, hunch-backed. خم شدہ - کبڑا - اوندھا

نگون‌بخت *a.* helpless, unfortunate. بیچارہ - کمبخت

نگہدار *m.* a guardian, keeper, an observer. نگاہ رکھنے والا

نگیسا *m.* the name of a musician, belonging to the court of Khusru Parviz. نام ایک گوئیے کا جو خسرو پرویز کا ملازم تھا

نگین
نگینہ } *m.* a ring, especially the signet ring, the stone or bezel of a ring. ھندي میں اوسے نگ کھتے ھیں

نگین پیادہ *m.* a stone or bezel not set in a ring. وہ نگینہ جو جڑا ھوا نہ ھو

نگین سوار *m.* a set stone. جڑا ھوا نگینہ

نما *a.* increase, augmenting, growing, springing (as a tree). بڑھنا - بلند ھونا - درخت کا اُگنا

نمارق (*pl.* of نمرقہ), pillows. - جمع نمرقہ کي تکیے

نماز *f.* prayer, those especially prescribed by the Mohammadan law, which are offered up five times a day, divine service, divine worship, supplication. - پرستش خدمتگاري - عاجزي - نیاز

نماز بردن to worship, to pray, to supplicate. پرستش کرنا - عاجزي کرنا

نمازي *m.* a person who prays. نماز پڑھنے والا

نمام *nammam*, *m.* an informer, a talebearer, a back biter, a slanderer, a calumniator, an accuser, mint, spearmint (*Mentha viridis*). چغلخور - غماز - پودینہ

نمامي *f.* talebearing, calumny, back-biting, slander نمازي - چغلخوري

نمايان *a.* apparent, evident, prominent, (*met.*) large, great, big, much. نمودار هونے والا - مچهاڑآ نلاں اور بہت

نمايش *f.* appearance, from, figure, face, vision, sight, spectacle, affection, exhibition. دکهلاوت - ظاهري کام کي نموداري

نمائق *pl.* of نميقه. جمع نميقه کي

نمد } *m.* a coarse woolen garment. ايک
نمده } قسم کا موٹا اوني کپڑا

نمد پوش *a.* clothed in woollen. نمده پہنے والا

نمدزين *m.* a coarse woollen saddle-cloth, a saddle stuffed on the upper part to prevent the rider from being galled. وه نمده جو زين کے نيچے گهوڑے کي پيٹهه پر ڈالتے هيں اور اوسکو خوبگير کہتے هيں

نمر *namur, m.* a panther, a leopard. - پلنگ چيتا جو مشهور درنده هے

نمر *nummur,* (*pl.* of نمر), panthers, leopards. جمع نمر کي هے - چيتے

نمرق } *m.* small pillows or cushions. چهوٹے
نمرقه } تکئے - بالش - کوچک

نمرود *n.* King Nimrod, (the mighty hunter of old). بادشاه نمرود

نمص *a.* pulling the hairs out of the face. بال اکهيڑنا

نمط *m.* bedding, floor, spotted carpet, chess-board, likeness, mode, manner, way, custom. - بچهونا - رنگين فرش - بساط - شطرنج - روش - دستور

نمک خوردن و نمک شکستن to be disloyal, wicked, evil, disobedient, perfidious or ungrateful. نمکحرامي کرنا

نمکدان a salt-cellar. نمک رکهنے کا برتن

نمکين (*fig.*) joker, jester. مسخره

نمگير } *m.* a canopy, an awning. وه کپڑا جو
نمگيره } پلنگ وغيره پر بطور چهت کے لگاتے هيں تاکه شبنم کي نمي سے محفوظ رهيں

نمل an ant. مور - چيونٹي

نمله a kind of St. Anthony's fire, small pimples which spread all over the body from prickly heat. پهنسياں صفراو هوتي هيں جو بتدريج پهيل جاتي هيں

نمناک *a.* moist, wet, fresh. تري سے بهرا هوا

نم نداشتن *id.* to be poor. مفلس و نادار هونا

نمو *m.* vegetation, growth, increase. - باليدگي افزايش

نمود *f.* index, sign, mark, guide, appearance. *a.* apparent, public, shewn, exhibited, famous, prominent, grandeur, show pomp. علامت - نشان - ظاهر - رونق - خوبي - شان - شوکت

نمودار *m.* an index, exemplar, proof, symbol, specimen, imitation, model, *a.* noted, famed, conspicuous. ظاهر

نمودن *inf.* to shew, to see, to do or occasion, to appear, to seem. ديکهنا - دکهانا - کرنا

نمودج *m.* an example, model, type, specimen. نمونه

نموم *m.* a great talebearer. بڑا چغلخور

نمونه *m.* an example, muster, model, type, specimen, pattern. نمودار - دکهانے کي چيز

نمير *m.* sweet water. آب شيرين

نميقه *m.* a letter, any thing written, an epistle, (*pl.* نمائق). - لکها هوا - مکتوب - نامه - خط - (جمع نمائق)

نميم *m.* a talebearer. چغلخور

نميمه *m.* talebearing, accusation, slander, soft voice. چغلخوري - آواز نرم

ننگ *f.* honour, reputation, esteem, (contra) disgrace, infamy. عار - شرم

ننگ (*lit.*) self. ترجمه لفظ - نيں

ننگين *a.* defective, faulty, wicked, bad, inhuman, ugly, hideous معيوب - زشت - برا

نو *a.* new, young, fresh, raw. نيا

نوا *nawa,* voice, sound, modulation, song, household goods, property, army, thanks, gratitude, son, grandson, a gift, a present, a tribute, conformity, friendship, sustenance, food, maintenance, a captive, name of one of the Mughal bands. - مطلق آواز - سامان - اسباب - فوج - لشکر - بيٹا - پوتا - نذرانه - پيشکش - موافقت - خوراک - غذا - گرفتار - قيد - نام ايک گروه کا مغلوں سے

نوا (*cont.* from نواة), stone of the date or palm. خرمے کي گٹهلي

نوا *niwa,* enmity. دشمني کرنا

نواب *nuwab, pl.* of نائب. جمع نائب کي

نوابت (*pl.* of نبات), grasses, vegetables, etc. جمع نبات کي - گهاس اور روئيدگياں

نوات *f.* the stone (of the date). گٹهلي خرما کي

نواح environs, district, tract, coast. shore. اطراف

نواحي (*pl.* of ناحيه), territories, environs, coasts. جمع ناحيه کي

نواخانه *m.* a gaol, a prison house. - اطراف کنارے ملک کے - قيد خانه

نواخاني *f.* singing. گانا

نواخت (*fig.*) conformable with, proportional to, conson nt, congruous, apt, li e, agreeing, suiting, favourable, propitious, corresponding. اصطلاحاً بمعني موافق - مطابق برابر - لائق

نواختن *inf.* to cherish, to caress, to favour, to soothe, to help one to gain his wishes, to please, to praise, to extol, to sing, to play, to throw (one's adversary) on his back (a term in wrestling). نوازنا - مراد - اور مطلب کو پهونچانا - خوش کرنا - گانا بجانا حریف کو زمین پر دے مارنا

نواخل (*irr. pl.* of نخل), date trees. خلاف قیاس - جمع نخل کي - بمعني خرما کا درخت

نوادر (*pl* of نادرہ), rare things, wonderful, occurrences, curious. عجیب و غریب چیزیں

نوادہ *m.* a grandson. بیٹے کا بیٹا - پوتا

نوار *f.* a tape of a coarse kind. (هندي) نواڑ جس سے پلنگ بنتے هیں

نوازش *f.* favour, kindness. مهرباني - عنایت

نوازشت *pl.* of نوازش. جمع نوازش کي

نوازل (*pl.* of نازلہ), misfortunes, disorders, calamities. جمع نازلہ کي - مصیبتیں

نوازندگي *f.* playing, performing on an instrument of music. باجا بجانا

نواساز *m.* a singer, a musician. گویا

نواسہ *m.* a daughter's son. بیٹي کا بیٹا

نواصي (*pl.* of ناصیہ), the fore locks over the forehead. جمع ناصیہ کي - پیشاني کے بال

نوافل (*pl.* of نافلہ), acts of supererogation نمازیں - غیر واجب

نوال *f* gift, favour, bounty. بخشش - عطا

نو آمیز one who learns any thing new, a novice, inexperienced, a pupil, a beginner, a student. نوسکھیا - مبتدي

نوامیس *pl.* of ناموس. جمع ناموس کي

نوان *n.* trembling, shaking, awry, crooked, bent, hunch-backed, old, emaciated, lean, thin, clever, cautious, wary. جنبان - لرزان خمیدہ - پرانا - لاغر - آگاہ - هوشیار

نو آوردہ *a.* newly created, invented. نئي بات نکالي هوئي

نواهي (*pl.* of نهي), unlawful or forbidden things جمع نهي کي - وہ باتیں جن کا کرنا شرع میں منع هے

نوائب (*pl.* of نائبہ), accidents, calamities, adversities, vicissitudes. جمع هے نائبہ کي حوادث - مصیبتیں - بلائیں

نوائر (*pl.* of نائرہ), flames. جمع هے نائرہ کي شعلے

نوائي مخلف insulting words, abuse, scurrilous language. کنایہ هے دشنام اور مکروہ بات سے

نوب *f.* nearness. نزدیکي

نو بادہ *n.* a new thing, new fruit, young tree, fine, excellent, fresh نئي چیز - نیا میوہ - نیا درخت - نفیس - عمدہ - تازہ

نوبت *f.* a period, time, trouble, misfortune, drums beating at the gate of a great man at certain intervals, a tent an accident, opportunity, occasion, vicissitude, degree pitch, weight. کسي چیز کا وقت - مرتبہ باري - دفعہ - مصیبت - نقارہ - خیمہ

نوبتي *m.* a drum-beater, a watchman, guard, a large tent, a led horse. نقارہ بجانے والا - پاسبان - چوکیدار - بڑا خیمہ - کوتل گھوڑا

نوبر *m.* first fruits, early fruit, a young virgin. نیا پهل - لڑکي ناربستان

نوبر کردن to eat a fruit for the first time in its season. نئے پهل کو اُسکي فصل میں اول مرتبہ کهانا

نوبردہ *m.* a newly purchased slave. غلام نوخریدہ

نوبهار early spring or as Virgil hath it "novum ver" the name of the temple of fire worshippers in Balkh, name of a temple. موسم بسنت کا - نام آتشکدہ باخ کا - نام ایک بتخانہ کا

نوچہ *m.* a lad, a youth just arrived at adolescence. نوجوان

نوح *m.* lamentation, weeping, crying. نالہ کرنا - نوحہ کرنا

نوح *m.* the patriarch Noah. نام مشهور پیغمبر کا

نوحہ *m.* lamentation, moaning, mourning over the dead. مردے پر رونا اور اُسکي صفتوں کا بیان کرنا

نوحہ گر *m. f.* a lamenter, mourner. نوحہ کرنے والا - نوحہ کرنے والي

نوخط *f.* a new thing, a blooming mistress. نئي چیز - وہ معشوق جو سبزہ آغاز هو

نوخاستہ *n.* a lad, youth just arrived at adolescence, an inexperienced youth. نوجوان - جوان - نوآموز - ناتجربہ کار

نود *n.* ninety. (90). نوے

نوذر *m.* name of king Manochhar's son. نام منوچهر بادشاہ کے پسر کا

نور *nur*, *m.* light, splendour, (in pers. sometimes) the moon. روشني - فارسي میں کبهي مراد چاند سے بهي

نور *naur*, *f.* a bud, unblown flower, blossom. کلي - غنچه - غل

نور الهي *f.* divine light. خدا کا نور

نوراني *a.* serene, light, clear, illuminated. روشن و منور

نورچشم *m.* (light of the eyes), (*met.*) son. آنکهه کا نور - مجازاً فرزند

نورد *f.* a maze, a ply, fold, floor, carpet, a weaver's beam, anything folded and round, the hem or anything sewed round the edge of a garment, equality, strife, litigation, contention, quarrelling, enmity, a corner, a hole, skirt of a garment, a sheet (of cloth), *a.* proper, worthy, fit (in comp.) traversing, etc. - پيچ و تاب - فرش بساط - گول لکڑي جولاهوں کي جس پر بنا هوا کپڑا لپيٹتے هيں - اور بمعني برابر جنگ اور خصومت - لائق - سزاوار - پسنديده - کپڑا ته کرنا - کنج - گوشه - سوراخ - دامن پيراهن کا - اور بمعني چادر

نورد ملوکانه costly robes befitting the kings. نفيس پوشاک جو لائق بادشاهوں کے هو

نورديدن } *inf.* to wrap up, to fold, to roll,
نوردن } to twist, to travel, to walk wander, to stray. لپيٹنا

نورس fresh ripe fruit, anything young, fresh, tender or recent, newly sprung up. ميوه تازه نيا پکا هوا - هر چيز تازه نورسيده

نوروز *m.* the first day of the year according to the Persian calendar, being that on which the sun enters Aries, نوروز سلطاني the true astronomical vernal equinox. اول روز ماه فروردين کا يعني جس روز که آفتاب نقطه حمل آتا هے

نوره *m.* quicklime, also a medicine made of it and yellow arsenic for taking out hairs by the roots. آهک - چونه - نام ايک چيز مرکب کا جسکو چونه اور هرتال سے بناتے هيں اور اوسکے لگانے سے بال از جاتے هيں

نورهان *m.* a gift, present, reward, rarity, curiosity تحفه سوغات - عطا - صله - انعام

نوري *f.* name of a bird of a white parrot kind, a kind of apricot. سفيد طوطي - ايک قسم هے زرد آلو کي

نوز (*contr.* from هنوز), now. مخفف هنوز کا

نوزده *a.* nineteen. انيس

نوش *nush*, *m.* water of life, nectar, sweet, a drink, draught, anything drunk, especially sweet and agreeable, honey, sweetness, an antidote against poison, life, (fig.) a sweetheart's lips. امرت - آب حيات - شيريں گوار - ترياق - زندگي - شهد - اصطلاحاً مراد معشوق کے هونٹهه سے

نوشابه *f.* name of a queen, who existed in the time of Sikandar. نام ايک ملکه کا جو سکندر کے وقت ميں تهي

نوشاد *n.* a famous for the beauty of its inhabitants, more especially that of the damsels thereof. نام ايک شهر حسن خيز کا

نوشادر *m.* sal ammoniac (used in tinning vessels and soldering tin with brass) مشهور کهار هے مشابه نمک سے

نوش آذر *m.* name of a temple of fire wirshippers. نام ايک آتش کده کا

نوشت *p. t.* (He) wrote, writing. ماضي نوشتن سے يعني لکها - تحرير - لکهت

نوشتن *nuvishtan*, *inf.* to write. لکهنا

نوشتن *navishtan*, *inf.* to wrap up, to fold, to roll. لپيٹنا

نوشته *a.* written, described, anything written. لکها هوا - سند

نوشدارو *m.* an antidote, treacle, an electuary. ترياق

نوش گياه *m.* name of a grass which is an antidote against poison. نام ايک گهاس کا جو زهروں کو دفع کرنے والي هے

نوشنده *m.* a drinker. پينے والا

نوشه *nausha*, *m.* a young king, new son in law, bridegroom, a newly married man. بادشاه - نوجوان - نيا داماد - دولها

نوشه *nusha*, *a.* fortunate, happy, prosperous, cheerful, sweet. خوش - خرم

نوشهر *n.* name of a town near Shirwan. نام ايک شهر کا جو قريب شروان کے هے

نوشيدن *inf.* to drink, to take, to digest (victuals). پينا

نوشين *a.* sweet, pleasant, easy of digestion. شيرين - ميٹها

نوشين لعل *m.* lip (of a mistress). لب معشوق

نوشيروان (نوشين روان) sweetly flowing, the name of a king of Persia, called also Khusru Naushervan, in whose reign Mohammad was born, in 578. He was famed for his justice, he was contemporary with Justinian. نام ايک بادشاه فارس کا جو بڑا عادل مشهور تها

نوصا *a.* suspending, appending, anything hung up, or appended to another. لٹکانا

نوع (*pl.* انواع), species, kind, sort, manner, mode. نوع جنس species and genus نوع انسان mankind. نوع دیگر another kind. نوع فراخ a little reft. گرفته - قسم - وه کوي جو مين حقيقت اپنے افراد کي هو

نوق *nuq*, (*pl.* of ناقه), she-camels. جمع ناقه کي - اونٹنياں

نوكديده (*met.*) the eye-lashes. كنايه پلكوں سے

نوكيسه *m.* new riches. نو دولت

نول *m.* a gift, a present. عطا - بخشش

نول *nul*, beak, bill (of a bird), the spout of a pot. واو مجهول سے چونچ پرندوں کي - لوٹے کي ٹوٹي

نوم *m.* sleep, slumber, sleeping, falling asleep. خواب - نيند

نوميد (for نااميد), hopeless. ياس

نوميدي *f.* despair, hopelessness. ياس - نااميدي

نون the letter ن, a fish, a sword, name of a city, an ink holder, ink, the night, the dimple of the chin. - نام ايک حرف كلمه مچهلي - تلوار - ايک شهر کا نام - دوات - سياهي دوات کي - چاه زنخدان

نون *m.* the trunk of a tree, (*contr.* from of كنون or اكنوں) now. درخت کا تنه - مخفف كنون کا جو اكنوں کا مخفف هے

نوند *m.* a well-going or ambling horse, a courier, a messenger. تيز رفتار گهوڑا

نون والقلم *m.* name of a Sura (chapter) of the Qurán, the world. - نام ايک سورهٔ قرآني کا اور كنايه دنيا سے

نونهال *m.* a new plant. نيا پودها درخت کا

نونياز *m.* a new lover, a student. - نيا عاشق وه لڑکا جو نو مشق هو

نوي *nawi*, *f.* freshness, newness, novelty. تازگي - نيا پن

نوي *nuwi*, *f.* the Qurán. قرآن

نوي *nawa*, *n.* a date stone or kernel, name of a village in Khorasan, intention, purpose. خرمے وغيره کي گٹهلي - نام ايک گاؤں کا دمشق ميں

نوئين *m.* a son-in-law, a prince, a king's son, a nobleman. داماد - شاهزاده - امير اعظم

نويد *nawid*, *f.* happy tidings. - ياے مجهول سے خوشخبري

نويدن *f.* to weep, to sigh, to groan, to move, to especially when rising from a place, to tremble, to shake. - رونا - زاري كرنا - حركت كرنا لرزنا - هلنا

نويسانيدن *caus*, to cause to be written out. لكهوانا

نه *ne*, *adv.* no, not, neither, not yet. نهيں

نه *nih*, *m.* a city. بمعني سهر

نه *nuh*, *a. n.* nine. نو (۹)

نها senses, number of (100 men). عقلها - عقلين

نهاب *nihab*, *n.* spoils. غارتها - غنيمتها

نهاد *nihad*, (the 3rd perf. verbalnoun of نهادن). He placed, foundation, placing, position, origin root, creation, nature, form, habit, constitution of the body, stature, posture, quality, essence, manner, prescribed mode, custom, description, vestige, mark, sign, a structure, a family, flock race, dregs, dung, young (horse or cow), fear, untamed, wild. - بنياد - اصل خلقت - پيدايش - طينت - باطن

نهادن *inf.* to place, to put, to lay upon, to collocate, to apply, to administer. رکهنا

نهار *m.* the day, the diffusion of light, making things visible. روز - دن

نهار without eating (as a person in the morning before breakfast). وه شخص جس نے صبح سے کچهه نه کهايا هو

نهاري *f.* the breakfast. كنايه هے طعام صبح سے

نهاز *m.* a large castrated he-goat, with spreading horns and long legs that precedes the flock. وه بکرا جو بکريوں کو گابهه رنهارے

نهاق *f.* braying (as an ass). گدهے کي آواز

نهال *m.* a beautiful young plant, a shoot, a sucker out from a tree to be planted separately, any plant or herb transplanted, successful, (also) bedding, quilt. خوبصورت درخت - مجازاً كامياب اور بمعني بستر و توشک کے بهي آيا هے

نهال ساختن *id.* to planting a tree, to transplanting a plant or herb. درخت کا بونا

نهالي / نهالين } *f.* a bedding, a quilt, a species of small carpect with a short pile, a cushion or anything similar stuffed, stitched or quilted, a pillowcase. - بستر توشک - غلاف

نهان *a.* latent, hid, concealed, occult, clandestine. پوشيده - چهپا هوا

نهان خانه *m.* a cabinet, a closet, a private, a cellar, a vault. تهه خانه

نهان شدن to retire, to withdraw, to disappear to be concealed. چهپ جانا

نهاني *f.* a secret, occult, hid, clandestide, concealment پوشيدگي

نہاوند m. name of a city in Iraq, a species of musical mode or song. نام ایک شہر کا عراق سے - نام ایک پردہ کا موسیقي سے

نہب m. rapine, plunder, spoil. - لوٹ - غارت غنیمت

نہبت f. rapine, plunder, spoil plundering, لوٹ - لوٹنا

نہج a. pointing out (the way), making clear, following or keeping the road. m. a high road, a beaten-path. راہ راست - راہ کشادہ

نہ حجرہ (met.) the heavens. کنایہ افلاک سے

نہر nahr, a. prohibiting, checking, chiding, a river, a stream, a canal. کسي پر چلا کے غصہ کرنا - منع کرنا - گھڑکنا - دریا کي ایک شاخ - ندي

نہر nehir, m. one who plunders or makes an excursion against the enemy in the day time. دن کو لوٹنے والا

نہس } biting (as a serpent), biting with
نہش } the fore teeth (as a dog). کتے وغیرہ کا اگلے دانتوں سے کاٹنا - سانپ وغیرہ کا کاٹنا

نہضت rising up, departure, motion, marching. اٹھنا - قصد کرنا - کوچ

نہفت pl. (He) hid, concealment. - چھپایا پوشیدہ کیا - پوشیدگي

نہفتن inf. to hide, to conceal, to cover, to lie concealed, to abscond or lie hid چھپنا - چھپانا

نہم n. the ordinal of nine, the ninth نواں حصہ

نہمت f. courage, intention, great avidity or desire, whatever is necessary to be done. ہمت باندھنا - ارادہ کرنا - کسي چیز پر حرص کرنا

نہنبن m. the cover of a caldron. دیگ کا سر پوش

نہنگ m. a crocodile. گھڑیال جو مشہور دریا کا جانور ہے

نہنگ سیاہ (met.) a sword. کنایہ تلوار سے

نہود a. rising up or springing upon an enemy, swelling (as the breasts of a girl). ابھرنا - اٹھنا - جانا طرف دشمن وغیرہ کے - لڑکي کي چھاتیوں کا ابھرنا

نہوض a. marching, moving, rising up. کوچ کرنا - حرکت کرنا - اٹھنا

نہوکت f. emaciation, leanness, obliteration, effacement. - لاغري - دبلا پن - فرسودگي گھس جانا

نہي prohibition, an interdict, prudence, sagacity, knowledge. باز رکھنا - منع کرنا

نہی nuha, pl. of نہیۃ, (which means) prudence, sagacity, intelligence, knowledge. جمع نہیۃ کي - عقل - فہم

نہیب f. fear, terror, pludering, especially infidels, any kind of spoil. - ڈر - ہیبت عظمت - لوٹ

نہیب m. plunderer. غارتگر - لٹیرا

نہیب زد شدن to be terrified. ڈر جانا

نہیق f. the braying of an ass. گدھے کي آواز

نہیم m. greedy, gluttonous, cry of a lion or an elephant. حریص - لالچي - خاصکر لالچي کھانے کا - آواز شیر اور ہاتھي کي

نہیہ m. intelligence, knowledge, prudence خرد - عقل

نے nei, f. a pipe, a flute, a reed, a cane. بانسري

نے ni, adv. no, not. کلمہ نفي کا - نہیں

ني a. raw (as flesh), rawness, crudity. کچا - خام

نیا m. grandfather, maternal uncle, dignity, honour. دادا - نانا - ماموں - قدر - عظمت

نیابت f. viceregency, lieutenancy. - نائب ہونا کسي جگہہ پر اس کا قائم مقام ہونا

نیاح } weeping, lamenting, lamentation, a
نیاحت } complaint, a moan. - نوحہ کرنا رونا - پیٹنا

نیارست "could not," "unable" as نیارست ساخت نیارست کرد he could not do it. he could not make it effectual. بمعني نتوانست

نیاز indigence, necessity, petition, supplication, prayer, show of love. - حاجت - احتیاج خواہش - آرزو - اظہار محبت

نیازمند a. supplicating, indigent, poor. حاجتمند - محتاج

نیاق (pl. of ناقہ), she-camels. - جمع ناقہ کي اونٹنیاں

نیاک a. libidinous, quimultum futuit. بہت جمع کرنے والا

نیاکان m. grandfathers. جمع نیا کي جس کے معني دادا کے ہیں

نیام m. a sheath. میان تلوار وغیرہ کا

نیام (pl. of نوم), slumber. (and also the pl. of نائم), sleepers, slumberers. جمع ہے نوم کي - نیندیں - اور نائم کي بھي - سودمان - خوابیدہ

نیائش f. a moan, praise, blessing, benediction. زاري - ستائش - تعریف - دعا

نے بست f. thatched hut. چھپر

نیت f. intention, purpose, design, resolution, will, the object or aim of deliberation. ارادہ

نیدالن the incubus or night-mare. کابوس

نَي درناخن کردن a kind of punishment for the culprits. مجرموں کے لیئے ایک عذاب ھے

نیر a. very bright, clear, shining, giving light, a bright star. - بہت روشني دینے والا بڑا روشن ستارہ

نیر اصغر m. the moon. چاند

نیر اعظم / نیر اکبر } m. the sun. آفتاب

نیران (pl. of نار), fires, flames, rays, flashings or lightning جمع نار کي - آگ

نیرنج (cor. from نیرنگ). معرب نیرنگ کا

نیرنجات (pl. of نیرنج), which is cor. form of جمع نیرنج کي جو معرب نیرنگ کا ھے

نیرنگ m. deception, fraud, guile, incantation, fascination, magic, charm, spell, the origin or root of any thing, the first rude sketch of a picture, (met.) a miracle anything new یاے معروف سے - مکر - فریب - حلیہ - طلسم - سحر - جادو - منتر - تصویر کا خاکہ مجازاً بمعني عجوبہ

نیرنگ باز a. deceiving, fraudulent, artful. مکار - فریبیا

نیرو strength, power. قوت - زور - قدرت

نیرو گرفتن id. to acquire strength, to become powerful. زور آور ھونا - زور پکڑنا

نیرین neyiren, (dual oblique of نیر), both the luminaries, the sun and moon. تثنیہ نیر کا ھے - مراد آفتاب ماھتاب سے

نیز adv. also, likewise, again. بھي

نیزہ m. a short spear, demi-lance, javelin, dart, halberd, pike. بھالا

نیزہ زدن to brandish or dart a javelin (at one). کسي کي طرف بھالا پھینکنا

نیسان m. name of the seventh Syrian month corresponding to April, they believe that the drops of spring rain, if they fall into shells, produce pearls, and venom if they drop upon serpents. نام ساتویں مہینہ رومي کا - اِس مہینے میں جو مینھہ کے قطرے گرتے ھیں اُن سے سیپ میں موتي پیدا ھوتا ھے

نیست it is not نہیں - عدم

نیستان a place where canes or reeds grow. وہ جگہہ جہاں پر نرکل کے درخت بہت ھوں

نیست شدن to perish, to be annihilated. معدوم یا زایل ھونا

نیستي f. nullity, non-existence, annihilation, ruin, destruction. نیست ھونا

نیش sharp point of a knife, the sting of a scorpion or any other venomous animal, long sharp pointed teeth on both the sides of a beast, a lancet, a scalpel. تیزي نوک کي جو چھري وغیرہ میں ھوتي ھے - ڈنک بچھو وغیرہ کا - بمعني دانت نوکدار جو جانور کے منھہ میں دونوں طرف ھوتے ھیں

نیشتر m. a lancet. فصد کھولنے کا اوزار

نیش زدن to sting ڈنک مارنا

نیشکر m. the sugarcane. گنا

نیشہ m. a pipe, a flute, a bagpipe. بانسري

نے عسکر m. a writing reed, a penholder. مراد قلم سے

نیفق / نیفہ } m. the open or loose part of the breeches or drawers, the skin, a small bundle of cloth. - إزار بند ڈالنے کي جگھہ پوستین - بقچہ

نیک محضر m. a beautiful man. خوبصورت آدمي

نیکو a. good, beautiful, elegant, excellent. اچھا - خوب

نیکوي / نیکي } f. bounty, excellence, goodness. بھلائي - خوبي

نیکي کرن وبہ آب انداختن id. to do good without expecting a reward. بے توقع عوض کے نیکي کرنا

نیل a. obtaining, acquiring, reaching پانا - پہونچنا

نیل کردن id. to arrive at, to obtain. پانا - پہونچنا

نیل m. the river Nile. نام دریاے مصر کا

نیلک m. a kind of silken cloth. ایک قسم کا ریشمي کپڑا

نیل کشیدن to tattoo, to prick, to puncture, to cauterize, (with indigo and the gall of an ox the pilgrims mark their arms, &c.,). گدنا - گدانا - جسم کا داغنا

نیل گاؤ f a wild animal known by the name of lilgae and rojh), the white footed antelope of Pennant and Antilope picta of Pallas. ایک قسم کا جنگلي چوپایہ جس کو نیلہ بھي کہتے ھیں

نیلگون n a blue colour made from woad or indigo cerulean. نیلہ رنگ

نیلو فر (corr. from of نیلوپل), the lotus nilufer (Nymphæa lotus) or water-lily. ایک قسم کا پھول جو پاني میں اُگتا ھے

نیلم m. the name of a precious stone, of the corundum class, and of various shades of blue, the sapphire. نیلے رنگ کا جوھر قیمتي

نیلہ *m.* a blue bull. نیل گاؤ

نیم *n.* a half, the middle. آدھا - نصف

نیم آدمی (*met.*) a woman. کنایۂ عورت سے

نیم بسمل half slaughtered animal (because when they kill an animal they always say or ought to say. *bismillah* in the name of God. آدھا گھایٔل

نیم تاج *m.* a kind of costly crown which is studded with precious stones. ایک قسم تاج کي جو جواہر سے مرصع ہوتا ھے

نیم جان (*met.*) a lover. کنایۂ معشوق سے

نیم خایہ (*met.*) the horizon, the firmament کنایۂ آسمان سے

نیمدست *m.* a small seat, a stool. چھوٹي مسند

نیمرنگ *m.* faded colour, light. - اڑا ھوا رنگ - ھلکا رنگ

نیمروز *m.* mid-day, سلطان نیمروز the prince of the meridian, *i. e.*, the sun. - دوپہر کا دن آفتاب

نیم سفت *a.* half finished, incomplete. کنایۂ ھے ناتمام سے

نیم کاسہ در زیر کاسہ داشتن *id.* to cheat, to deceive, to play a trick. کنایۂ ھے مکر و حیلہ سے

نیم کارہ *m.* half-finished work, useless, worthless. - ادھورا کام - ناقص کام - ناقص - نا کام

نیمہ *m.* a half, side, a mason's half-yard, a kind of short garment or shirt which reaches to the lower part of the belly. آدھا - نصف - طرف - جانب - آدھا گز معماروں کو - ایک قسم کا جاما کرتاہ

نیمہ کردن بدو to divide into halves. آدھا آدھا کرنا

نیم لعل (*met.*) the lip of a mistress. معشوق کا ھونٹھہ

نے نے no no. نہیں نہیں

نیو *a.* warlike, brave, valiant heroic, powerful, strong. پھلوان - دلیر - بہادر

نیوش *imp.* "hear thou." - صیغۂ امر کا ھے بمعني سن

نیو شیدن *inf* to hear, to listen, to lend an ear. سننا

نیوک *f.* a bride دلھن

نیو مرد *m.* and *f.* warlike, prudent, wife. بھادر - عقلمند - بیوي

ني *neyi*, *m* a player on the flute بانسري بجانے والا

نیین *a.* made of reed, hut. - نرکل کي چیز چھپر

— و —

و *wāw*, The thirtieth letter of the Persian and the twenty-sixth of the Arabic alphabets. In Arithmetic it counts 6, and in the ephemerides it is the character Friday the sign Libra.

وا (*for* با) with, when added to some nouns it signifies dressed victuals as گندم وا a dish made with wheat, etc., again, once more, in composition it is equivalent to *re* in *return*, an aperture, an opening, cheerfulnees, content, quiet, separate, oh! alas! how painful or vexatious - کشادہ کھلا ھوا - جدا - اور اشارہ واویلا سے بھي

وا اِستادن چیزے *id.* to insist upon a thing. ھٹ کرنا

وا بیرون کردن *id.* to elevate. بلند کرنا

وابریدن *inf.* to cut off. کاٹ دینا

وابستگان *pl.* connections, adherents, kinsfolk, relatives, kindred. رشتۂ دار - ایک گھر کے متعلق لوگ

وابستن *inf.* to tie, to fasten باندھنا

وابستہ *a.* bound, tied, fastened, connected with, kindred, dear one, relative. بندھا ھوا - رشتۂ دار - عزیز

وابل the rain with big drops, name of an Arabian tribe. بڑي بڑي بوندوں کا مینھہ - نام ایک قبیلہ عرب کا

وابوسیدن *inf.* to deny, to refuse. اِنکار کرنا

واپسین *a.* last, posterior. اخیر - پیچھا

واثق *a.* firm, solid, confiding, secure, depending upon. مضبوط

واجب (*pl. fem.* واجبات), necessary, expedient, proper, worthy, convenient, God (جناب واجب الوجود) whose existence is necessary, *i. e.*, self-existent. - دائم - ھمیشۂ - سزاوار ھونے والا لازم - خدا تعالی جو اپنے وجود میں کسي دوسرے کا محتاج نھو

واجد *m.* an inventor, one who finds. پانے والا

واجستن *inf.* to enquire (after the absent). to search for anything lost. بھت ڈھونڈنا

واجف *a.* palpitating (heart). وہ جس کا دل دھڑکتا ھو

واچیدن *inf* to collect, to choose, to pick up, to peck. چننا ۔ چگنا

واحد *n.* one, sole, a name of God. ایک نام خدا کا

واخ rectitude, verity, truth, a conjecture, especially approaching to certainty, the morning crepuscle, the dawn, Aurora, the east or place of the dawn. A transverse beam or bow (used by wheelwrights, etc.) in boring or turning. سچائي ۔ صبح ۔ پورب

واخریدن *inf* to buy, to redeem. سب کے سامنے مول لینا ۔ خرید کرنا

واخواست reiterated investigation, minute, inquiry, study. باز خواست ۔ مطالبہ حساب لینا

واخوردن *inf.* to pay a visit, to have an interview with. ملاقات کرنا

واخیدن *inf.* to beat or card (cotton), in order to separate and clean it. دھنکنا

واد digging a grave, and burying one alive (a custom among the pagan Arabian), crying or hollowing with a loud voice, a loud sound or voice. ۔ زندہ قبر میں دفن کردینا آواز سخت ۔ سخت آواز کرنا

وادادن *inf.* to restore, to return. ظاھر میں دینا

واداشتن *inf.* to retain, to keep back, to hide, to conceal, to prohibit, to inhibit, to restrain, to oppose, to avert. روکنا

وادع *a.* leaving, letting alone, dismissing. رخصت کرنے والا

وادي *f.* a jungle, valley, any low-lying ground, a channel of a river, a river, a corner, a depth, (*met.*) a suit, an affair, a case. جنگل ۔ پاني کي نالي ۔ زمین نشیب و ھموار ۔ اور کم درخت جھانپر سیلاب کے جانے کي راہ ھو ۔ مجازاً مقدمہ ۔ معاملہ

وادیدن *inf.* to see, to look at. دیکھنا

وار *a.* like, resembling, in the manner of, having, possessing, endowed with. ۔ مانند لائق ۔ طرز ۔ دستور ۔ اور نامہ نسبت کا بھي ھے جیسے اُمید وار

وارث (*pl.* وارثہ), an heir. میراث کرنے والا

وارث تاج و نگین a prince, heir-apparent. کنایہ ھے شاھزادہ اور ولیعھد سے

واردات (*pl fem.* of وارد), events, accidents. واقعہ ۔ حادثہ ۔ وہ حال جو آدمي پر گذرے

وارد *a.* coming, arriving approaching, as messenger. آنے والا ۔ قاصد

وارسیدن *inf.* to reach, ~ be informed. پھونچنا ۔ خبر پانا

وارستگي *f.* freedom, deliverance salvation, independence, contentment, ease, competence. آزاد ۔ فارغ البالي ۔ بے قیدي

وارستہ *a.* free, Independent, contented, in easy circumstances. آزاد ۔ فارغ البال

وارفتن *inf.* to wander, to walk, to go. جانا

وارفتگي *f.* disappearance, vanishing, defacing, stupidity, shame, extermination. مضمحل ھونا ۔ پشیمان ھونا ۔ بیخبري

وارُوغ a belch, eructation. قے کرنا

وارون *a.* inverted, turned upside down, dumb, unfortunate, unhappy. ۔ اولٹا اوندھا ۔ معکوس ۔ نامبارک

واز (for باز), open, patent, evident. ۔ کھلا ھوا ظاھر

وازع *a.* preventing confusion, forbidding, prohibiting. *m.* a king, a prince, prefect, governor, magistrate, the leader of the line of an army, a dog, especially the guardian of a house or of shop. منع کرنے والا ۔ روکنے والا ۔ لشکر کا سردار ۔ حاکم ۔ بادشاہ

واژگون *a.* apostatized, rebelled, turned away, unfortunate, unlucky, unblest. برگشتہ ۔ اولٹا ۔ نامبارک ۔ منحوس

واژون *cont.* from of واژگون . مخفف واژگون کا

واژیدن *inf.* to tell one's condition, to state of health, &c. to another. اپنا حال دوسرے کو کھنا

واس شدن to relapse. پھر بیمار پڑنا

واسط *n* the name of the city between Cufa and Busra famous for its reeds نام ایک شھر عراق عرب ۔ یہ شھر کوفہ اور بصرہ کے بیچ میں واقع ھے اس کے قلم بہت عمدہ ھوتے ھیں

واسطہ *m.* any thing intermediate, a mediator. درمیاني ۔ بیچ والي

واسطۃ العقد *m.* the middle or largest pearl, in a necklace. بیش قیمت ۔ بڑا موتي جو موتیوں کي لڑي کے بیچ میں ھوتا ھے

واسع *a.* ample, large, capacious, of enlarged beneficence, (واسع الفضل), *i. e.*, God. پھیلنے والا ۔ وسیع ۔ نام حق تعالی کا

واسوختن *inf.* (according to the Iran poets) becoming angry with a mistress. ایراني شاعروں کي اصطلاح میں بمعني معشوق سے منھ پھیر لینا

واسوختگي *f.* burning, vexation, heart-burning. سوختگي ۔ جلن

واشدن *inf.* to blossom, to be separated or disjoined, to retire, to go off (as grief), to come out (of a trouble). - کھلنا - جدا ھونا تکلیف سے نکلنا

واشمہ, *f.* a woman who tattoes the body and hands of other women. وہ عورت جو دوسري عورتوں کے ھاتھہ پاؤں پر گودتي ھے

واشي *m.* a lair, a whisperer, a slanderer, an informer. دروغگو - چغلخور

واصف *m.* a praiser, a describer. تعریف کرنے والا

واصل *a.* joined, connected, coupled, arrived, (met.) *m.* a visitor, interviewer. - ملا ھوا ملنے والا - ملاقات کرنے والا

واضح *a.* evident, manifest, clear, undoubted. روشن - کھلا ھوا - ظاھر

واضع *a.* placing, (in its proper place) establishing, creator, maker. کسي چیز کا اسکي جگھہ پر رکھنے والا - پیدا کرنے والا - بنانے والا

واضع چار کتاب *i. e.*, God, who descended the Pentateuch on Moses, the book of Psalms on David, the Gospel on Christ and the Quran on Mahomed. یعني خدا جس نے توریت موسی اور زبور داؤد اور انجیل عیسي اور قرآن محمد پر نازل کیا

واعد *a.* promising وعدہ کرنے والا

واعظ *m.* a preacher, a monitor. نصیحت کرنے والا

واعي *m.* watching, keeping, (a man) retaining any thing by memory, complaining, suing justice, attentive (ear).

واعیہ *f.* complaining, (a man) retaining any thing by memory, attentive (ear), watching, keeping. عورت فریاد کرنے والي - یاد رکھنے والي - نگاہ رکھنے والي - نگھبان

وافد *m.* an ambassador, a mesenger, a camel-rider. قاصد - پیام لے جانے والا - شتر سوار

وافر *a.* abundant, plentiful, coupious, much, many, rich, opulent, wealthy, ample, large (as a garment), long (beard). بھت - کثیر

وافي (*fem* وافیہ) *a.* complete, perfect, entire, full (weight), just (measure), plentiful, copious, numerous, many, sincere, honourable, faithful to promises or engagements. پورا - تمام - کامل

وافي الحسب *m.* a person who is perfect in all good things (pious, noble and learned). وہ شخص جو صرف مال دین و علم و دیگر کمال میں کامل ھو

واقد, kindling or burning fire. آگ روشن کرنیوالا

واقع *a.* falling, befalling, happening, arriving, occurring, intervening. ھونے والا

واقعات, (*pl.* of واقعہ), accidents, events. جمع واقعہ کي

واقعہ *m.* a dream, a vision in sleep, a battle, encounter, conflict, an accident, a misfortune, adversity, death, condition, state, the day of judgment. - خواب - جنگ حادثہ - سختي - زمانہ قیامت کا - مرنا - حال

واقعہ طلب, *a.* seditious, contentious, litigious. مفسد - جنگجو

واقعي (*met.*) right, true, proper. مجازاً بمعني درست

واقف *a.* standing, stopping, retaining, staying, expert, skilful, learned, intelligent, versed in, experienced *n.* a testator, one who leaves any thing by last will. کھڑا ھونے والا - جانے والا

واقي *m.* attentive, protecting, saving. نگاہ رکھنے والا - بچانے والا - حفاظت کرنے والا

واکردن to open کھول دینا

واگرنہ *adv.* and *conj.* otherwise, else if not. اور نہیں تو

واگذاشتن کار بخداے, to commit a business to God. خدا کے اوپر کام کو چھوڑ دینا

واکشیدن *id.* to protract, to extract, to stretch or hold out, to snatch a thing by violence. زبر دستي یا حیلہ سے کوئي چیز کسي سے چھین لینا ۔ کمان وغیرہ کا خوب کھینچنا

واگویہ *m.* conversation, talk, talking over past events, recapitulating former occurrences. گفتگو - دھروانا - سني ھوئي بات کا چرچا

وال *a.* escaping with, flying to, taking refuge, shelter. پناہ ڈھونڈنا - پناہ

وال *f.* a whale, a large fish (in the Danube). ایک قسم کي مچھلي جس کے چھلکا نہي ھوتا ھے

والا *m.* exalted in dignity or in mind, eminent, respectable, high, sublime, majestic, grave, power, a friend, a kind of soft silk. بزرگ - بلند مرتبہ - ایک قسم کا باریک ریشم

والا, *wa illa*, *adv.* but, yet, still, however, neverthless, notwithstanding, unless. اور نہیں تو

والاجاہ *a.* of elevated dignity. بلند مرتبہ

والان *f.* aniseed (Pimpinella anisum.) سونف

واللہ "By God." خدا کي قسم

واللہ اعلم and God knoweth well. اور خدا خوب جانتا ھے

والہہ *a* enamoured, driven to despair, mad with love, distracted with terror or grief, dejected, dispirited, stupefied, *m.* a lover. شیفتہ ۔ سرگشتہ ۔ عاشق ۔ مفتون

والہ *m.* a kind of soft silk. ایک قسم کا باریک ریشمی کپڑا

والی *m.* a friend, prince, a governor of a province, exercising jurisdiction or authority, kindred, a relative. دوست ۔ حاکم ۔ مالک ۔ خویش ۔ قریب

وام *m.* debt, credit, lending, borrowing, (also) colour. قرض ۔ اور بمعنی لون لیئے رنگ کے بھی مستعمل ہے

واماندگان (*pl.* of واماندہ), those who remained behind, those who were fatigued. جمع واماندہ کی ۔ پیچھے سے ہوئے

واماندن *inf.* to remain, to lag behind, especially from fatigue, to remain suspended in opinion to hesitate, to desist, to be helpless. پیچھے رہنا ۔ باقی رہنا ۔ عاجز ہونا

واماندہ *a.* fatigued and loitering behind, entire leavings of food, helpless, wretched پس ماندہ ۔ پس خوردہ چھوڑا ہوا کھانا ۔ عاجز

وام خواہ *m.* a creditor a dun, one who demands or exacts payment of a debt. قرض خواہ ۔ اپنا قرض دیا ہوا مانگنے والا

وامق *a.* loving, enamoured, *n.* a lover, name of a man who had fallen in love with 'Azra. عاشق ۔ شیدا ۔ نام عذرا کے عاشق کا

وان *n.* name of a city in Turkestan, (for بان) an agent (also) a simile. نام شہر کا ولایت ترکستان سے ۔ اور بمعنی دارندہ ۔ اور حرف تشبیہ کا بمعنی مانند

والگریس تن *inf.* to look back. دیکھنا

وانمودن *inf.* to show again, to produce a confirmation. ظاہر کرنا

وانہند *m.* one who places a thing in a certain place, inventing, producing. کسی مقام پر کسی چیز کا رکھنے والا ۔ پیدا کرنے والا

واویلا an exclamation, loud cry, lamentation, moan. افسوس ۔ مجازاً فریاد

واہب *a.* liberal, generous, munificent, *m.* a giver, one who bestows. بخشنے والا

واہلہ *f.* the name of Noah's wife. نام نوح کی زوجہ کا

واہمہ *m.* the imagination, fancy. قوت وہم کی جو جزئیات کو معلوم کرے

واہی *a.* easily loosed, dissolved or broken, weak, ill-founded (premises or promises). سست

واہیہ broken, burst, weak, depraved. سست ۔ پھٹا ہوا ۔ اور بمعنی گمراہ کے

وائل *m* name of a tribe of Arabia, (also) the name of a village in Arabia. نام قبیلہ کا عرب میں ۔ نام قریہ کا عرب میں

وائیہ need, want, necessity, (*met.*) case, affair, (also) addiction of using opium (or any other intoxicant) daily. حاجت ۔ مجازاً بمعنی مقدمہ اور بمعنی معتاد ہر روزہ کے مثل خوراک افیون وغیرہ کے

وبال being heavy, unwholesome (air), any healthy climate or atmosphere, any thing painful, a crime, sin, fault, punishment. سختی ۔ گرانی ۔ عذاب ۔ بوجھ

وبر *webr*, an animal smaller than a cat, of a dusty colour, without a tail. ایک جانور جو بلی سے مشابہ ہوتی ہے

وبر *weber*, *m.* the hair or wool of camels, goats, hares or other animals of a soft kind. اونٹ وغیرہ کے بال

وبیص *a.* shining, flashing (lightning) (ground) luxuriant with herbage. چمکنا

وتد *watad*, } *f.* a wooden peg, a pile or stake driven into the ground, driving in piles. لکڑی کی میخ ۔ ٹھونکنی
وتد *watid*,

وتر *wetr*, (*pl.* اوتار), singular, alone, unity (in number). طاق ۔ تنہا

وتر *watr*, the string of a bow, harp, &c. also a string by a which a bow is hung up کمان کا چلہ ۔ باجہ کا تار ۔ کمان کی زرہ

وتیرہ (*pl.* وتایر), a way, path, track (especially near a mountain), a furrow or rut in the ground, mounds of earth having a prismatic form, a mode, manner, custom, habit, intermission from labour delay, tediousness, hinderance, patience, a consequence, any thing following. راہ ۔ روش ۔ نہاد ۔ اصل ۔ دستور

وتین *f.* the vein by which the heart is suspended (cutting of this vein produces an instantaneous death). ایک رگ ہے جس سے دل معلق ہے

وثاق *wisaq*, } captivity, prison, a rope, for tying animals, a ligature, chain, rope or any fastening. بند ۔ قید
وثاق *wasaq*,

وثاق *wusāq m.* a house. a seraglio. - گھر حرم سرا

وثني *a.* firm, solid, constant. استوار - مضبوط

وثن (*pl.* اوثان), an idol. بت پتھر یا کسي اور چیز کا

وثني *m.* an idolater, a pagan. بت پرست

وثوق *f.* firmness, confidence, dependance upon. استواري - اعتماد

وثيق *a.* firm, solid, constant. استوار - مضبوط

وثيقة *m.* firmness, solidity, a confederacy, compact, treaty, promise, engagement, confidence, faith. استواري - عهد - پیمان - عهد نامه - دستاويز

وج *wajj*, galingale, orris root, the sweet cane. ایک دوا کا نام جسے فارسي میں اگر اور هندي میں بیچ کہتے هیں

وجا *wija*, *a.* striking (with a knife or the hand), giving a flap with the palm, beheading, *subigens* (*mulierem*), castrating (a ram, etc.,) castration. خصي کرنا جانور کو اور مار ڈالنا

وجا *waja*, *m.* fear, dread, fright. خوف - ڈر

وجاء *m.* a den (of a wolf or a hyena) بھیڑیئے کا بھٹ

وجاهت *f.* beauty, honour, intimacy, acquaintance, brightening of the face. خوبصورتي - عزت - روشناسي - چهره کا روشن هونا

وجب *a* span, nine inches. بالشت

وجد *wijd*, *a* wealthy, opulent, rich, opulence. توانا هونا - دولتمند هونا

وجد *wajd*, *a* saddening, ecstasy, excessive love, (*met.*) transported in an ecstacy of love, the harmony of love and music. غمگین هونا - عاشق هونا - مجازاً حالت ذوق و شوق کي جو اکثر صوفیوں کو راگ سننے سے هوتي هے

وجدان , recovering any thing lost, finding, discovering, enquiring. پانا کھوئي هوئي چیز کو - جاننا - دریافت کرنا

وجر *wajar*, *a.* trembling, fearing. خوف کرنا ڈرنا

وجر *wajir*, *a* timid, pusillanimous. ڈرنے والا

وجع disease, pain, affliction, complaint, mourning. درد - دکھ

وجل *wajal*, *a* fearing. ڈرنا

وجل *wajil*, *m.* timid, coward (man), afraid or cautious (of another); one who is afraid ڈرپوک - ڈرنے والا

وجنة *m.* a cheek. رخسار گال

وجنات (*pl.* of وجنة), cheeks. جمع وجنة بمعني گال کے

وجوب necessity, obligation, duty, necessary (to do or suffer anything), firm. fixed, settled, confirmed, worthy. واجب هونا - لازم هونا - سزاوار هونا - مقرر هونا

وجود fulfilment of one's wishes, invention, existence, substance, essence, body, person, individual. مطلوب کا پانا - هستي - جسم - بدن

وجور *f.* a medicine (put in the mouth). دوا جو حلق میں ڈالیں

وجوه (*pl.* of وجه). جمع وجه کي

وجه (*pl.* وجوه), the face, visage, aspect, countenance, effigies, presence, appearance, shape, semblance, surface, the front or interior part of any thing, a mode, manner, reason, ratio, method, the essence, substance, honour, respect, authority, veneration, respect, dignity, nobility, a prince, chief, leader, the means by which one may earn his livelihood the side of any thing. رو - چهره - منهه - طریقه - طور - ذات - حقیقت کسي چیز کي - وه سب چیز جس کے سبب سے روزي کمائیں - طرف - جانب

وجهة *n.* side, a part, direction. - جانب - طرف قبله

وجيز *a.* epitomized. *n.* a summary, abstract. کوتاه - مختصر

وجيع *a.* pained bearing pain, doing harm, afflicted. درد ناک

وجيه *m.* dignified (man), of a noble presence, respectable, rich, a prince, a cheif a beautiful thing. مرد روشناس خوبصورت - صاحب جاه - دولتمند - خوشنما چیز

وحدان (*pl* of واحد). جمع واحد کي

وحدانيت *f.* unity, singularity. - ایک هونا واحد هونا

وحدت *f.* being single, alone or solitary, unity (in God), a solitude. تنها ہي - ایک هونا

وحش (*pl.* of وحشي), a wild beast, fierce untamed animal. جمع هے وحشي کي - جنگلي جانور

وحش *wahish*, *a.* bad, wicked, ugly, deformed. بد زشت برا

وحشت *f.* a desert, a solitude, a dreary place, waste, desert, comfortless, gloomy, fear, dread, terror, horror wildness, fierceness, sadness, solitariness. جانوروں کي طرح انسان سے نفرت

وحشي *m.* wild (man or beast), fierce, savage, rude, untractable, uncivil, one wild beast or savage, the right side of a thing, also the left, the outside which may be joined to another, the outside (of a bow, feet, hands, etc.) جنگلي جانور - بائيں طرف - بيروني رخ کسي عضو کا

وحل black tough clay, marsh. کيچڑ - وہ زمين جو پاني کے سبب سے نرم ہو گئي ہو

وحوش (*pl.* of وحش), which is the (*pl.* of وحشي), wild beasts. جمع وحش کي اور وحش جمع وحشي کي بمعني جنگلي جانور

وحي *f.* indicating, suggesting, revealing, writing, revelation anything (divine) suggested, inspired or revealed (by vision or otherwise, a book, epistle, a soft voice. خدا کا پيغام - نرم سخن

وحيد *m.* alone, unique. يگانہ - تنہا - اکيلا

وحي منزل *f.* the Quran کنايہ قرآن سے

وخ وخ *interj.* bravo! admirable! واہ واہ

وخش *n.* name of a city in Khatlan, (also) in Badakhshan. نام ايک شہر کا ختلان ميں

وخم (meat) heavy and unwholesome, heavy, weight unacceptable. ناگوار - ناسازگار

وخ وخ *interj.* bravo! well done! - واہ واہ کيا خوب

وخيم *a.* hard, unwholesome, heavy, weighty, unacceptable, bad, wicked, ugly, slanderous. - دشوار - گران - ناگوار - بد - زشت - بد گو

ود *wudd*, *f.* love, friendship. دوستي

ود *wadd*, *m.* one of the antediluvian idols, which Noah preached against, and were afterwards taken by the Arabs for Gods, Wadd was supposed to be the heaven, and was worshipped under the form of a man by the tribe of Qalb in Daumat-al-Jaudal. نام نوح کے بت کا جو خوبصورت مرد تھا

وداد *f.* love, friendship. دوستي - محبت

وداج the jugular vein of a horse, where they generally let blood. رگ گردن گھوڑے کي

وداجين (dual) the two jugular veins. گردن کے دونوں طرف کي رگيں

وداع adieu, farewell, any benediction pronounced on taking leave. رخصت کرنا

ودائع (*pl.* of وديعت), deposits. - جمع وديعت کي امانتيں

...'nd of shells commonly called *veneriis*, a couch. - ...کھہ جو دريا سے نکلتا ھے - سفيد مہرہ

ودود *m.* a friend, a lover, God, - loving friendly, affectionate. دوست - نام خدا کا

وديعت *f.* a deposit, trust, whatever is committed to another's charge, rain (as the deposit of the clouds), subjects (as committed to the charge of the king) امانت - ميراث پانا

وراثت *f.* heritage.

وراق *warraq*, *m.* a money ... a writer. دولتمند آدمي ...

وراق *waraq*, the surface of the ground verdant with herbage, a green sward. بسبب گھاس اور نباتات کے زمين کي سبزي - سبزہ زار

وراء what is before, also what is behind, children, posterity, behind, on the hinder part, without. - پس - عقب - پيچھے - فرزند - بدون - سوا

ورا } the world, populated by genii and
وري } men. دنيا

ورثة (*pl.* of وارث), heirs. جمع وارث کي - ميراث پانے والے

ورخم *a.* unclean, palluted, bad, ill, unlucky. زبون - پليد

ورخرچ *a.* lavish, wasteful, extravagant. فضول خرچ

ورخوردن *id.* to visit, to meet, to have an interview with. ملاقات کرنا

ورد *ward*, *m.* a rose, any flowering tree or shrub. گلاب کا پھول

ورد *wird*, continual motion or employment, daily task, a watering place. - ہر روز کا کام - دائمي - جگھہ پاني پينے کي - پنگھٹ

ورد مربي *m.* conserve of roses. گلقند

وردرو *m.* a hut. جھونپڑا

وردي rosy. گلاب کي سي رنگت

ورزش *f.* an athletic excercise. - مگدر ھلانا - کثرت کرنا - ڈنڈ پيلنا

ورزيدن *inf.* to exercise, to labour, to perform, to study, to endeavour, to acquire, to gain, to accustom one's self to any thing, to acquire a habit, to be a faithful observer of religious rites. - مشق کرنا - اختيار کرنا

ورطة *m.* a precipice a labyrinth, any danger or difficulty in which one is embarrased, a clay marsh in which an animal sings, and cannot get out, anything low, hollow, depressed, hence, the lips, a well etc., anything frightful or dangerous, whence one can hardly escape, (*met.*) a whirlpool. ہلاکت کي جگھہ - وہ زمين جس ميں راہ نہو - مجازاً بھنور پاني کا

ورع *ware'*, *a.* abstinent, pious, moderate, continent afraid of doing anything unlawful or sinful. پرهيز گار - پارسا

ورع *wara'*, *f.* abstinence, continence, chastity, temperance. پرهيزگاري

ورغلانيدن *inf.* to deceive, to decay, to inveigle. بهكانا

ورق *waraq*, *m.* a leaf of a tree or of paper, a piece of paper, out paper, letter. درخت كا پته - كاغذ كا ٹكڑا - لكّها هوا كاغذ

ورق *warq*, *m.* coin, stamped money, riches. سكه چاندي كا - روپيه وغيره

ورق *wurq*, (*pl.* of ورقا), pigeons, doves. جمع ورقا - بمعني كبوتر و فاخته كي

ورقا *m.* a pigeon, a dove. كبوتر - فاخته

ورق الخيال (*met.*) hemp, an intoxicating drug. بهنگ جس سے نشه هوتا هے

ورق ريختن *inf.* to checkmate, to beat one in a game, to spoil. مات كرنا بازي كو - خراب كرنا

ورق گردانيدن *id.* to do a vain thing, to hide the fault of one's ignorance, to give up the old style suddenly. فعل عبث كرنا - اپني بے علمي كا عيب چهپانا - قديمي وضع ترک كر دينا

ورك *warik*, }
ورک *wark*, } *m.* the hip bone, the buttocks, haunches. - سرين كولا و چوتڑ

ورل a lizard, a newt, an animal like a Tybian lizard, with a long tail, small head, swift of foot, with envenomed teeth and a sting-tail. سوسمار كے طرح ايک جانور هوتا هے

ورم swelling, inflated (skin), an inflammation. جسم كا سوج جانا

ورناک *f.* name of a spring in Cashmere. كشمير ميں ايک چشمه كا نام

ورود arrival, coming, being present, entering, descending, alighting, approaching, attacking (as a fever). كسي جگهه كے اندر جانا - داخل هونا - نازل هونا

وره follish, stupid, distracted (with terror), folly, madness. احمق اور بيوقوف هونا

وريد *f.* the jugular, vein on each side of the neck. گردن كي رگ

وزارت *f.* the dignity of vizir, minister or private counsellor. وزير هونا

وزان *wazzan*, blowing (wind). جاري - روان

وزان *wazzan*, *n.* one who weighs. بڑا تولنے والا

وزان *pl.* those who weigh. بهت سے تولنے والے

وزر (*pl.* اوزار), a burden, a load, anything heavy or oppressive, arms, especially what one carries, a crime, a sin, a fault. جمع وزار - گراني - بوجهه - پشتاره - گناه - هتيار

وزراء *pl* of وزير. جمع وزير كي

وزش *a.* blowing (wind.) هوا - حاصل مصدر هے - كا چلنا

وزغ }
وزغه } *m.* a frog, a species of lizard, a chameleon. مينڈک - گرگٹ - ايک قسم چهپكلي كي

وزن *m.* weight, measure, meter, rhyme, poetry, a shekel, a proper mode, a just proportion, examining (anything), (in *Pers.*) honour, dignity, greatness. بوجهه - تولنا - اندازه - فارسي ميں بمعني عزت - وقار اور بزرگي كے معني ميں آتا هے

وزيدن *inf.* to blow as the wind, to grow (as herbage or as hairs.) اُگنا نبات - هوا كا چلنا يا بال كا

وساده (*pl.* وسائد), a cushion, pillow, couch or day bed. جمع وسائد هے - تكيه

وساطت *f.* mediation, intercession, mediocrity, in point of quality. وسيله هونا - درميان هونا

وسامت *f.* beauty, elegance, excilence. - خوبي زيبائي - خوبصورتي

وسوس (*pl.* of وسواس), temptations. جمع وسواس كي - آزمايشيں

وسائد (*pl.* of وساده), cushions, pillows. جمع وساده كي - تكيے

وسائط (*pl.* of واسطه), means. - جمع واسطه كي وسيلے - واسطے

وسائل (*pl.* of وسيله), causes. - جمع وسيله كي وسيلے - ذريعے

وستا God's praise, glory of God. خدا كي تعريف

وسخ *wasakh*, }
وسخ *waskh*, } dirt, filth, ordure. - چرک ميل

وسخ *wasikh*, *a.* dirty (garment), nastiness. چركين ميلا

واسطا the middle, the centre, centrical. any thing of a middling sort, right, just, proper, suitable, exquisite, excellent, magnificent, opulent. وه چيز جو ميانه هو يعني لمبائي و چوڑائي و مٹاپے و دبلے پن وغيره كيفيتوں ميں متوسط هو - وه چيز جو بيچ ميں واقع هو

وسطي *f.* middle, (finger), middling, neither long nor short speech, the middle prayer of the five appointed by the Mahomedan Law. بيچ كي انگلي

وسع *a.* large, ample, patent, obvious, possible, easy to be done, affluent, opulent, rich, wealthy, opportunity, ease or conveniency of doing any thing, opulence. فراخي - دسترس - توانائي

وسعت *f.* latitude, amplitude, spaciousness, convenience, opportunity, ease. - فراخي چوڑا پن

وسق *wasiq*, *a.* gathering together, heaping up, collecting (as tears in the eyes), (night) involving (in darkness), robbers, driving together or driving off (camels, etc.) at night, conceiving, becoming pregnant, having the matrix shut. - اکٹھا کرنا بوجھ لادنا - بوجھ اُٹھانا - ھانکنا - چلانا

وسق *wasaq*, *m.* a load of corn weighing 60 صاع or 62,400 dirhems or drams or 234 tolas, a horse or camel load. بارشتر - اور وہ ساٹھہ صاع کا ھوتا ھے صاع برابر ھوتا ھے دو سو چونتیس تولہ کے

وسم } marking with a hot iron (man or
وست } beast), describing, delineating, excelling in beauty, (*met.*) to accuse. داغ کرنا - نشان کرنا - مجازاً تہمت لگانا

وسمہ the leaves of wood, also their juice, indigo with which they paint the skin or dye hair or cloth. نیل کي پتي جس سے بال کپڑے وغیرہ رنگتے ھیں

وسمي early spring rain, raining with big drops, spring herbage. بڑي - اول بہار کا مہینہ بڑي بوندوں والا مینھ

وسن slumber, sleep, drowsy, sleepy, slumbering, dozing, beginning to sleep - آنکھہ غنودگي - نیند

وسواس *m.* temptation of the devil, insanity, distraction of mind, melancholy, superstition. وھم - وسوسہ

وسوسہ *m.* suspicion. doubt, temptation, infanity, melancholy, superstition, the rattling of a necklace earlings, any similar thing, the rustling of silk, etc. اندیشہ بد - بري آزمائش - زیور کي آواز - برائي - بدي

وسیط *m.* a mediator, empire, the highest in rank, dignity or kind. - درمیاني - بزرگوار وہ شخص جو درجہ میں رفیع اور نسب میں میانہ ھو

وسیم *a.* beautiful, handsome, elegant, having a scar or mark upon the body. جمیل - خوبصورت - نشان کیا گیا

وش *a.* good, well, excellent, pure. *n.* a particle of similitude added to nouns, name of a city in Turkestan, a kind of silk, a turban. - خوب - خوش - خالص - نظیر - شبیہ ترکستان میں ایک شھر کا نام - ایک قسم کا ریشمي کپڑا - دستار

وشات (*pl.* of واشي), spies, whisperers, liars. جمع واشي کي - سخن چین - لترے - جھوت بولنے والے

وشاح *m.* a garland, a necklace, an ornament worn round the neck. ھار حمائل - گلوبند

وشاق *m.* a servant, a beardless slave. خدمت گار - مرد غلام

وشت *a.* good, beautiful, goodness, happy. خوب - خوش

وشتن *inf.* to dance, especially a kind of circular motion peculiar to the eastern monks or dervises. ناچنا - رقص کرنا

وشق drying meat in the sun and preserving it for future use. گوشت کا دھوپ میں خشک کر کے رکھہ چھوڑنا تاکہ آئندہ بوقت حاجت کے کام آوے

وشق *m.* a panther, a beast engendered between a wolf and a hind. ایک قسم کا سفید رنگ کا جانور جس کے پوست پر کالے کالے دھبے ھوتے ھیں اِس کے پوست کا پوستین بناتے ھیں

وشل *m.* a small quantity of water, especially running or dropping from a height, a few drops of tears, (*contra*) much water, many tears. تھوڑا پاني - ضد - بہت پاني

وشي *a.* painting, embroidering, dying (cloth), the colour or painting of a garment, a kind of silk. - کپڑے کا رنگنا جامہ رنگین - ایک قسم کا ریشمي کپڑا

وشک *a.* making haste, expeditious, quick, brisk, active. *n.* a swift messenger. شتابي کرنے والا - قاصد تیز رفتار

وصاف *wassaf*, *m.* one who describes or praises much. بہت تعریف کرنے والا

وصال *wisal*, meeting, arrival, joining, conjunction, enjoyment of any desired object, united in friendship, society or confederacy, annexed, connected, adhering. - ملنا ملاقات کرنا

وصال *wusal*, *pl.* of واصل. جمع واصل کي

وصایا (*pl.* of وصیت), precepts, commandments. جمع وصیت کي

وصب *wasab*, disease indisposition, grief. بیماري - رنج

وصف *f.* praise, encomium, expression of qualities, description, narrative, an attribute, epithet, quality, property. تعریف - خوبي - اچھي باتونکا بیان کرنا

وصلہ *m.* a piece of paper, a shred, tatter. کاغذ کا ٹکڑا - کپڑے وغیرہ کا ایک ٹکڑا

وصل conjunction, attachment, enjoyment of the society of friends, whatever joins or couples, a desire to meet the mistress. ملاقات - معشوق سے ملنا

وصمت *f.* reproach, disgrace, crime, sin, fault, defect, loss. عیب - نقصان

وصي *wassi, m.* an executor, administrator, guardian, *i. e.*, 'Ali. وہ شخص جسکو وصیت کي گئي ہو - کنایہ علي سے

وصیت (*pl.* وصایا), a precept, mandate, command, a last will or testament. مرتے وقت کوئي کہے کہ میرے بعد ایسا کرنا وہ وصیت ہے

وصید (*pl.* وصد), the threshold, portico or area before a door. آستانہ - چوکھٹ

وصیف (*fem.* وصیفہ), a servant-boy or girl, a slave. خدمتگار - غلام - لونڈي

وصیفہ *f.* she slave, servant-girl, maid-servant. باندي - لونڈي - کنیز

وصیلہ *f.* a building, abundance, cheapness, society, company, a sword. عمارت - فراخي - زمین فراخ - ارزاني - ہم سفر - تیغ

وضاءت *f* purity, cleanness, beauty, goodness, excellence, virtue, faultlessness. پاکیزگي - خوبي - خوبصورتي - روشن روئي - بے عیبي - پاکي

وضاح *m.* clean, handsome (man), a leprous (man). مرد گوری رنگت والا - مرد مبروص

وضاحت expansion, opening of heart, latitude, joy. کشادگي

وضاعت *f.* humility, humiliation, humbling or letting one's self down کمینہ ہونا

وضع (*pl.* اوضاع), situation, position, imposition, disposition, condition, state, gesture, action, conduct, mode of living or acting, operation, performance, procedure, arranging, delivering, producing young. رکھنا - ترتیب کرنا - جننا - کرنا

وضع کردن to bring forth a child, to place or lay down upon, to establish or lay a foundation, to deposit any thing with another to keep, to cut off. بچہ جننا - رکھنا - خارج کرنا

وضوء *m.* a sacred ablution. واسطے مقرر نماز کے ہاتھہ پانؤں دھونا

وضو ساختن to wash, especially the whole body, as a purification from sin or defilement. سارے جسم کو صاف کرنا

وضوح evidence, proof. ظہور - واضح ہونا - پیدا اور روشن ہونا

وضیع *a.* ignoble, plebeian, mean, base, low. نالائق - نیچ - کمینہ

وضیمۃ *f.* a funeral banquet. ضیافت ماتم کي

وطا kicking, treading under foot, putting the foot to the ground or making an impression with it. پائمال کرنا - جانا

وطر necessity, pleasure, use, need. حاجت

وطواط a mountain-swallow a martinet. ابابیل جو مشہور پرند ہے

وطي trodden under foot. پائمال کرنا

وطیس *m.* an oven, a hole in a stone about which a fire is kindled for cooking breads and dressing meat, a furnace, an iron stove. لوہے کا تنور روٹي پکانے کا

وظائف (*pl.* of وظیفہ), pensions. جمع وظیفہ کي

وظیفہ *m* a pension, stipend, salary, soldier's pay, an allowance of provisions, etc., (by the day, month or year), anything stipulated or agreed upon. وہ چیز جو ہر روز کیواسطے کسیکے لئے مقرر کریں

وعاء a vessel, a vase. ظرف - برتن

وعاظ (*pl.* of واعظ), preachers. جمع واعظ نصیحت کي - کرنیوالے لوگ

وعر *a.* rough, difficult, hard, severity, small quantity, favour, kindness, severity of heat, malice, spite, anger. دشوار - سختي - تھوڑا - احسان - گرمي کي سختي - کینہ - غصہ

وعظ *m.* advice, admonition, exhortation, a sermon, oration. نصیحت - پند - نصیحت کرنا

وعود (*pl.* of وعدہ). جمع وعدہ کي

وعوع howling or barking of a dog, a jackal, a wolf, a hyena or similar animal. آواز کتے کي - بعض کہتے ہیں آواز گیدڑ اور بھیڑیے کي بھي

وعید *a.* threatening, predicting, anything bad, promising any thing bad. عذاب کا وعدہ - برا وعدہ

وغا war, battle, engagement, tumult, uproar. جنگ لڑائي - شور - غوغا

وغد *a.* ignoble, mean, low, besides this, moreover. ناکس - کمینہ - نالائق - سوا اسکے

وفا *f.* performance of a promise, an observation of good faith, sincerity, a sufficiency, a completing or filling up. پورا کرنا دوستي اور وعدہ کا - بجالانا قول و قرار کا

وفات *f.* death, decease. موت

وفاوت *f.* embassy, embassadorship. قاصدي

وفاق } content, assent, agreement, concord,
وفاقت } harmony, confirmity. موافقت كرنا - سازگاري كرنا - معيت - اتفاق

وفد acting as an ambassador. بطور ايلچي كري اور قاصدي كے كسي كے پاس جانا

وفر *a.* full, complete, entire, numerous, copious, abundant, filling, completing, making plentiful, plenty, abundance, affluence opulence. مال كي زيادتي - بهتايت - هر چيز كي زيادتي

وفضة *m.* a leathern quiver, a shepherd's scrip or traveller's bag, in which provisions, etc., are carried. توكش تيرونكا - جهولي گذريونكي جسميں كهانا وغيرة ركهتے هيں

وفود (*pl.* of وفد), ambassadors, messengers. جمع قاصد كي - قاصد لوگ

وفور *a.* full, complete, copious, multitude, plenty, abundance. تمام هونا - بهت هونا - زيادتي - بهتايت

وفي *a.* entire, whole, complete, just (weight), full (measure), many, copious. تمام - كامل

وقاح *n.* shameless, rude, a (woman) having an unblushing countenance - بيشرم - بے ادب بے حيا

وقاحت *f.* shamelessness, immodesty, impudence. بيحيائي - بيشرمي - بے ادب

وقاد *a.* skilful, knowing, intelligent, bright, lucid, shining, flaming, flashing. - بهڑكنے والا بهت بهڑكنے والا - بهت شعلة مارنيوالا - روشن - فروختة

وقار *a.* quiet, modest, mild, sedate, grave, modesty, mildness, etc, majesty, authority, dignity, steadiness, constancy. آهستگي - آرام - بردباري - حلم - گرانباري - بهاري بهركم پن

وقاص *waqqas*, *m.* a neck breaker, warlike, valiant, name of a famous archer. گردن توڑنيوالا - جنگجو - نام ايک تير انداز كا

وقاع fight, battle, fighting. جنگ - لڑنا

وقاية *f.* custody, guardianship, protection, name of a theological book. - نگاه ركهنا حفاظت - نگهباني - نام ايک كتاب كا فقة ميں

وقائع (*pl.* of واقعة), incidents, events, misfortunes, quarrels, battles, news of war. حوادث - مصيبتيں - لڑائياں - لڑائي كي خبريں - جنگ كے حالات

وقح *m.* impudent, shameless, immodest. بيشرم آدمي

وقر deafness, being deaf, making deaf, (*met*) honour, mildness, modest, sedate, quiet, gentle, majesty, dignity, authority. كان سے اونچا سننا - گراني گوش - مجازاً بمعني عزت - حلم - فروتني - بهاري بهركم پن

وقر *wiqr*, weight, a heavy burden (carried by an ass or mule وسق implying a camel's load). اتنا بوجهة جسكو گدها يا خچر اٹها سكے

وقع *a.* high place, (*met.*) honour, confidence. بلند جگهة - مجازاً بمعني عزت و اعتبار كے

وقعت *f.* hardship, accident, battle, combat, engagement. سختي - آسيب - لڑائي

وقف *a.* standing, stopping (as a horse), remaining in the same place, making a pause in reading, intent upon one thing, endeavouring to understand it, checking, stopping, pulling or keeping back (a horse, etc.,), detaining (one at home) giving one any thing to consider, bequeathing for pious uses (as habitations for the poor, and books for the use of learned men), such bequest or legacy. - كسي جگهة كهڑا هونا ٹههرنا - كهڑا هونا - كلام ميں توقف كرنا - خبردار هونا - جاننا - وة چيز جو كسي كي ملک ميں نهو يعني راة خدا ميں اسكو ديدالا هو - بخشش - عطا

وقفة *m.* refraining, constituting. تهوڑي دير ٹههر جانا

وقواق *n.* name of an island, which has trees producing fruits resembling the face of a man. نام ايک جزيرة كا جهاں ايسے درخت هيں جنكے پهل بشكل چهرة انسان كے هوتے هيں

وقود *waqud*, fuel for fire. ايندهن - لكڑي وغيرة جس سے آگ سلگائي جائے

وقود *wuqud*, kindling (fire), exciting. آگ كا بهڑكانا

وقور *m.* respectful, grave, majestic, prudent (man). ذي عزت آدمي

وقوف experience, knowledge, information, practice, standing, stopping, &c. - جاننا آگاهي - خبردار هونا - كهڑا هونا

وقوع an accident, contingency, occurence, event, falling, (*met*) appearance, coming into light. واقع هونا - گرنا - هر چيز كا ظاهر هونا

وقي taking care of preserving, protecting, keeping one's self or garments clean, safe from injury or defilement. نگاه ركهنا - حفاظت كرنا

وقيم *a* impudent, shameless. بيحيا - بيشرم

وقيد fuel for fire. لکڑي وغيرہ جس سے آگ روشن کريں

وقذ *a.* weak, thin, lank, lean. ضعيف - ناتوان

وقيع *a* high, elevated. بلند - اونچا

وقيعت *f.* calumny, slander, backbiting, reproach, rebuke. عيب گوئي - کسي کے پيچھے کسي کو برا کہنا - غمازي - لتواپن - ملامت

وکات the pack saddles or dorsers of asses, mules or horses. گدھے کا پالان - گھوڑيکا زين

وکالت *f.* viceregency, being an administrator, substitute, agent, pleader, plenipotentiary. وکيل ھونا - دوست ھونا - اپنا کام دوسرے کے سپرد کرنا

وکر *m.* a bird's nest on a tree or on a rock. آشيانہ - گھونسلا پرند کا

وکز striking with the first (on the chin). گھونسا مارنا

وکس defect, detriment, diminished, deficient, losing (in trade), the place of the moon when eclipsed, the moon appearing in a star s place, especially in the morning, blood or part of the scull, falling in upon the dura-mater or membrane of the brain. زيان - نقصان - کمي - کم ھونا

وکف *wakf,* raining, flowing (as tears or water), falling in drops. مينھہ کي بوندوں کا گھر کي چھت سے ٹپکنا - پاني يا اور کسي چيز کا ٹپکنا

وکف *wukaf, m.* a crime, fault, stain, spot, corruption, weakness. عيب ناک ھونا - گنھگار ھونا - گناہ - عيب

وکل *wukal,* intrusting one's affairs to another, trusting (in God). اپنا کام کسي پر چھوڑ دينا

وکل *wakal, a.* impotent, silly, unequal to any business. مرد عاجز - جو اپنا کام دوسرے شخص کے بھروسہ پر چھوڑدے

وکلا *pl.* of وکيل. جمع ھے وکيل کي

وکن sitting (as a bird upon her eggs), batching eggs. مرغي کا انڈوں کو سينا

وکور (*pl.* of وکر), nests (of birds). - جمع وکر کي گھونسلے

وکوت *f.* a she camel full of milk. اونٹني بہت دودھہ والي

وکول *a.* impotent, silly, unequal to any business. مرد عاجز جو اپنا کام دوسرے پر چھوڑدے

وکيرہ an entertainment given on the finishing of a house. وہ ضيافت جو نئے مکان بنانے پر دي جاتي ھے

وکيع *a.* hard, firm, strong, hardy (horse), hard (heart), (*contra*) قلب وکيع, a tender heart, name of a famous wise man. سخت - محکم - نام ايک مرد دانشمند مشھور کا.

وکيف successive drops of rain falling from the roof of a house. مينھہ کي بوندونکا مکان کي چھت سے ٹپکنا

وکيل *m.* an ambassador, agent, deputy, viceregent, lieutenant, commissary, factor, administrator, representative, substitute. وہ شخص جسپر کوئي کام چھوڑا جائے

وگر (*conj.* for وا and گر), and if, but. اور اگر

وگرنہ and if not. اور اگر نہيں تو

ولا *wila, f.* friendship, kindred, continuation, following successively without intermission. محبت - دوستي - پے در پے کسي کام کا کرنا

ولا heritage of a released slave, friends. ميراث آزاد غلام کي دوستان و ياران

ولات (*pl.* of والي), friends, governors, presidents, judges, lords, nobles - جمع والي کي دوست لوگ - حاکم

ولادت *f.* nativity, a birthday, child-birth, generation, procreation. بچہ جننا

ولاس *m.* a wolf. گرگ - بھيڑيا

ولاف *f.* familiarity friendship, society. محبت کرنا - الفت کرنا

ولايت *f.* aid, assistance, subsidies, being friendly, bringing assistance, contiguous, near, following close, adhering or belonging to, an inhabited country, dominion, district, holiness, governing a province, city, etc., jurisdictions, government, receiving anything purchased or agreed for. - کسي کا ولي ھونا - حاکم ھونا - دوست ھونا - ياري - بادشاھي - بادشاہ کا ايک ملک - زمين جو آباد ھو - نصرت - دوستي - حکومت - اميري - بندہ کي نزديکي خدا سے

ولد *walad,* } (both *sing.* and *pl.*), a son offspring. فرزند

ولد *wuld,* }

ولد *wild,* a child. بچہ

ولدالزنا a bastard, the son of a whore, insects, moths or worms springing in the rainy weather. حرام کا بچہ - وہ کيڑے اور پروانے جو برسات ميں پيدا ھوتے ھيں

ولدان (*pl.* of وليد), sons, children, slaves of tender years. جمع وليد کي - لڑکے - غلام کمسن

ولع *wala',* desiring eagerly, longing, aspiratoin, intent upon. حرص - لالچ - فريفتگي

ولع *wul',* a falsehood. دروغ - جھوٹھہ

ولع *wal',* telling a lie, restraining, hindering, prohibiting, forcing. - جھوٹھہ بولنا باز رکھنا

ولكن (for وليكن), but, yet, however, for all that. اور ليكن - اور مگر

ولوج creeping in a hole, flying into a hole, entering into كسي چيز كا كسي چيز ميں داخل هونا - اندر گهسنا

ولوع *wulu'*, desire, avidity. حريص هونا - لالچي هونا

ولوع *walu'*, a desirous, avaricious, greedy. حريص - لالچي

ولوغ lapping (as a dog.) كتے كا پاني پينا

ولولا *m.* howling, lamenting, crying, a tumult, noise, confused murmur. واويلا كرنا - غل - شور - جوش و خروش - فرياد

وله *m.* sad, afflicted, sorrowful, impatient from love or grief, terror, grief, perturbation of mind, anger. عشق - غصه - سرگشتگي - غضب - شيفتگي

ولهان distracted, sad, afflicted, sorrowful, impatient from love or grief, terror, grief, perturbation of mind, unconscious. حيران هونا - بيهوش هونا - غمگين - بيخود

ولے is a *cont.* form of وليک and وليک of وليكن. مخفف وليف كا اور وليک مخفف وليكن كا

ولي *m.* an intimate friend, a favourite of God, or the king, a prince, lord, president, governor, judge, an assistant. دوست - متصرف - صاحب مدد گار - كسي كے كام كا كفيل - وه نيک بندة جو خدا كي درگاه ميں مقرب هو

وليد *m.* a son, a child, a servant, a slave of tender years, name of a king. كودک - لڑكا - غلام - كم سن - نام ايک بادشاه كا

وليدة *f.* a girl, a female slave of tender years. لڑكي - كم سن لونڈي

وليع *f.* a bud, unblown flowers of palm trees. غنچه - ناشگفته - منهه بند كلي

وليعهد *m* the present ruler, (*fig.*) the heir-apparent, the destined or acknowledged successor. حاكم وقت - اصطلاحاً وه شخص جس كو بادشاه اپني زندگي ميں اپني جگهه بيٹهنے كا حكم اسطور پر دے كه بعد ميرے يهه بادشاه هوگا

وليک } وليكن } *conj. prep. adv.* but, yet, however, for all that. اور ليكن - اور مگر

وليمة a marriage feast, a banquet. شادي كي ضيافت

ولي نعمت the lord of benificence, *i. e.*, the master of a feast, the landlord, a benefactor, lord or master. بغير اضافت كے - وه شخص جو كسي كو نهانے كو دے - پرورش كرنے والا

وصيدن *inf.* to cut into small pieces, to splice or join a broken rope without a knot, to be hollowed, to excavated or dug out, to rub, to blow into, to puff up. چهوٹے چهوٹے ٹكڑے كرنا - پهونكنا - خالي كرنا

ون a metaphor, simile, nut of the *chironjia sapida*. كلمه تشبيه كا هے بمعني مانند - نام ايک ميوه كا جسے چيرونجي كهتے هيں

وند cresses. تيره تيزک

وني *f.* weakness, languor, fatigue, labour. ماندگي - سستي - سست هونا

ونيم *m.* the dung or mark of a fly. مكهي كا گوه

وه *interj.* ah! alas! grief, sadness. كلمه تعجب اور تحسين اور تعريف اور افسوس كا

وهاب *m.* a giver, one who bestows, very liberal, generous, munificent. بهت بخشنے والا

وهاج *a.* burning, flaming, raging, very bright, shining. درخشان - چمكتا هوا - روشن - بڑا روشن

وهاد (*pl* of وهدة), valleys, low-grounds. جمع وهده كي هے - زمين پست اونچي

وهب giving, bestowing, presenting. بخشش كرنا

وهبي *a.* bestowed, given, presented. بخشا هوا - عطا كيا گيا

وهج *wahaj*, the heat of fire. آگ كي روشني اور سوزش

وهج *wahj*, burning or flaming (as fire). آگ كا شعله مارنا

وهدة (*pl.* of وهاد), a. valley, a hollow, declivity. زمين پست اور نشيب

وهق a noose thrown to catch men or animals, a long rope. كمند

وهل *a.* weak, timid, terrified, committing an error, making a slip, forgetting, blundering in anything, fear, terror, mistake. ڈرنا - غلط و سهو كرنا

وهله *m.* fear, timidity, time, one. ڈرنا - خوف - ڈر - مرتبه - دفعه - ايک بار

وهم *m.* the mind, sense, opinion, conjecture, suspicion, doubt, scruple, caution, fear, distrust, thinking, turning anything in one's mind, imagining, persuading one's self, conceiving a false idea, pretending to one thing, when wishing or purposing to do another. بغير قصد و ارادة كے كسي چيز كے طرف دل كا جانا - وسواس

وهمة *m.* the pangs of child-birth. جننے كا درد

وهن weak, unequal to any business weakening, enervating, infirmity, imbecility. سستي - سست هونا - سست كرنا - اعضا كا سست هونا

وے ve, as (ويرا for اورا), him, to him. وه - اُس جيسا كه ويرا كے معني اسكو

ویغ *int.* OH ! (an interjection of pity.) woe be to (you), (*contra*) bravo ! well done ! کلمۂ رحم و ترحم - اور مدح یعني تعریف - کیا خوب - اور تحسین اور افسوس - اور جهڑکي کا .

ویس *wais*, a particle of contempt. کلمۂ حقارت کا

ویس *wis*, *f.* name of a beautiful woman with whom Ramen had fallen in love. یاے مجهول سے نام عورت حسینۂ کا جسپر وامین عاشق تها

ویرا him, to him. اُس کے تئیں

ویل *int.* woe to (you) ! fie upon (you) ! an affliction, misfortune, punishment, torment, enmity, tumult, uproar, moaning, the gate of hell, also a valley, river, or well there. کلمۂ افسوس - اور بمعني عداوت هلاکت - شور - نغاں - مصیبت و غم میں فریاد اور بیقراري - نام دوزخ میں ایک دریا کوئے اور وادي کا

ویه *a.* particle of instigation and invitation, *int.* well ! bravo ! کلمۂ برانگیختۂ - کرنے اور بهڑکانے کا

— ه —

ه *he*, thirty-fifth letter of the Persian alphabet, and the twenty-seventh of the Arabic. At the end of Arabic it is the affixed pronoun, him, his, it. In almanacs it denotes Thursday and the sign Virgo, also the planet Venus, and the Moon when bright In reckoning by ابجد it counts five.

ها have a care ! be ready! whether ? is it so ? The plural of things inanimate as سنگ a stone سنگها stones. فارسي میں حرف جمع کا هے اور کبهي زائد آتا هے - حرف تنبیه کا بهي هے

هابط falling, descending - نیچے اُترنے والا نیچے آنے والا

هابیل *m.* Abel the son of Adam, slain by Cain. نام آدم کے دوسرے بیٹے کا جسے اوس کے بهائي نے قتل کیا

هات (*fem.* هاتیا dual هاتوا pl. masc. هاتین pl. fem. هاتین (give ! grant) let it be so ! اسم فعل بمعني امر هے - وے بخشش کر

هاتف crying, exclaiming, one who makes encomiums, a praiser, an angel shouting calling from the world of the spirits. آواز دینے والا - وہ فرشتۂ جو عالم الغیب سے آواز دے

هاجر *m.* one who moves from one place to another, an immigrant, exiling, name of an Arabian tribe. هجرت کرنے والا - نام ایک قبیلۂ کا عرب سے

هاجر *f.* Hagar, the mother of Ishmael. نام والدۂ اسمعیل کا

هاجرۂ *m.* the sultry mid day. دوپهر - دن کا وقت جو تهام گرمي اور حرارت کا هے

هاجس conceiving, calling to mind. دل میں خیال آنیوالا

هاجن *f.* a virgin, a girl married, too young. کنواري لڑکي

هاجي *m.* a satirical poet. هجو کرنیوالا

هادم *m.* demolishing (a house) a destroyer, ruining, annihilating. عمارت کا ڈهانے والا - اُجاڑنیوالا - مٹانیوالا

هادم اللذات *lit.* a destroyer of pleasures, (*fig.*) a title of Azrael, the angel of death. اصلي معنے لذتوں کا مٹانے والا - اصطلاحاً عزرائیل فرشتۂ جسے ملک الموت بهي کهتے هیں

هادي *m.* a director, leader, guide. هدایت کرنے والا - رهنما - نیک راہ دکهلانے والا

هاذا or هذا, this. یهہ

هار fading, weak with age or infirmity. افتادۂ اور منهدم هونے والا

هارب *a.* flying. بهاگنے والا

هاروت و ماروت *n.* the name of the two angles who having severely censured mankind before the throne of God, were sent down to earth in human shapes to judge of the temptations to which man was subject. They could not, with-stand them, they were seduced by women, and committed every species of iniquity, for which they were suspended by the feet in a well in Babylon, where they are to remain in great torment till the day of judgment. نام دو فرشتوں کا جو بحکم خدا بابل کے ایک چاہ میں آویزاں هیں اور تا روز قیامت آویزاں رهینگے

هاروتي *a.* magical ساحري

هارون *n.* Aaron, the elder brother of Moses, name of the fifth caliph of the house of Abbas, and twenty-sixth from Mohammed. He reigned from A. D. 786 till 808, a messenger ; a watchman. نام موسیٰ کے بڑے بهائي کا - نام خلیفۂ بغداد کا - اور بمعني قاصد - اور پاسبان کے

هاروتي ambassadorship, embassy, watching, vigilance. قاصد - پاسباني - چوکيداري

هاشم m. name of Muhammad's great grand-father. نام محمد کے پردادا کا

هاضم loose, relaxed, soft, gentle, digestive. هضم کرنيوالا - هضم هونيوالا

هاضوم digesting, medicine or any thing similar promoting digestion. دوا جو کهانا هضم کرے

هاطل shower following showers (especially large showers), also an incessant and small rain (clouds) continually dropping. ابر بهت برسنے والا

هاع m. timid, coward, pusillanimous. مرد بد دل

هال white cardamum, quiet, firmness, establishment, tranquillity, peace. - الايچي سفيد قرار - آرام

هالع m. an ostrich running swiftly, very impatient or anxious (especially from avarice). شتر مرغ تيز رفتار - وه شخص جو بڑا لالچي هو

هالک (pl. هولک), perishing, destroyed, killed, destructive put in imminent danger. جمع هوالک هے - نيست کرنيوالا - نيست هونيوالا

هالکة covetous spirit. نفس حريص

هالگاه a field for playing hockey or any other similar game. چوگان - کهيلنے کا ميدان اور مقام

هاله (pl. هالات), a halo or circle round the moon, (in Pers.) the colour, comfort, rest, peace. جمع حالات هے - کنڈل جو گرد چاند کے هوتا هے - اور فارسي ميں بمعني لون يعنے رنگ اور قرار اور آرام کے بهي آتا هے

هام (pl of هامه), owls, the heads of animals. جمع هامه کي - بمعني کهوپڑي - الو

هامر m. a cloud pouring down much rain. ابر بهت برسنيوالا

هامش m. edge, border, margin. کنارہ - حاشيه

هاموم the melted fat of a camel's hunch, a camel's hunch or hump. - پگهلي هوئي چربي کوهان اونٹ کي پيٹهه کا

هامون m. a plain, level ground, a desert. صحرا - ميدان

هامه namma, m. the head of any animal, skull, the forehead, a corpse, an owl, the chief of a people, family or tribe. کاسه سر - پيشاني - تن مرده - بوم

هامه m. a snake, scorpion, mungoose, etc. who make their holes underground. سانپ بچهو نيولا وغيره جو زمين کے اندر گهستے هيں

هان (a particle of admonition) make haste! know! have a care! let it not be! far from it! کلمه تنبيه کا - خبردار ره

هاون n. a vessel. in which substances are pounded with a pestle, a mortar. وه ظرف جسميں دوا وغيره ڈالکر کوٹيں - اوکهلي

هاون the mortar and pestle. اوکهلي اور دسته

هاويه m the seventh apartment of hell, into which the damned are precipitated. ساتويں طبقه دوزخ کا نام جو سب سے نيچے هے

هائب a. timid, coward, fearful. ڈرنيوالا

هائع m coward evil-hearted. مرد بد دل

هائل } a. terrible, horrible. - هولناک - شديد
هائله } ڈرانيوالا

هاے مشتق the compounded he (the butterfly form). کنايه هاے دوچشمي سے

هائم a. astonished, confused, wandering, straying, distracted furious from love or any other cause, very thirsty. عاشق هونيوالا - شيفته - سرگردان عشق ميں نهايت پياسا

هباء m. dust, especially the finer particles which fly about and are only conspicuous in the sun's rays, (met.) (a man) of mean understanding. کسي سوراخ سے آفتاب کي روشني ميں جو غبار و گرد اڑتي هوئي دکهائي ديتي هے - مجازاً بمعني حقير - ذليل

هبت (pl هبات), a gift. بخشنا - بخشش

هبص a. brisk, cheerful, active, alacrity, cheerfulness. خوش - شادمان

هبط sending, letting or throwing down, precipitating, lowering or beating down (a price), extenuating, emaciating, decrease, a fall, a misfortune, a loss. نيچے اتارنا - نقصان کرنا

هبل death, (a mother) deprived by death (of her children). بے فرزند هونا - ماں کا اپنے فرزند کو گم کرنا

هبل hubal, name of an ancient idol in the temple of Mecca. نام ايک بت کا جو ايام جاهليت ميں کعبه ميں رکها هوا تها

هبل huball, m. weak, old. کاهل - سست - بوڑها

هبوب hubub, (wind) blowing furiously. هوا کا چلنا

هبوب habub, blowing violently (as the wind) and raising the dust. خاک اڑانے والي

هبوط descent, declivity, decreasing, falling (in price), weakness (from sickness), loss, نيچے اُترنا - ڈھلوان زمين - دبلا هونا بيماري سے - نقصان هونا - كسي شے كي قيمت كا كم هو جانا

هبوه m. a lean camel. دبلا اونٹ

هبول f. a woman whose children don't live. وه عورت جس كا فرزند زنده نه رهتا هو

هبه m. a gift. بخشش - بخشنا

هتات exclaiming, calling to one. آواز

هتاك *hattak*, tearing (a veil or curtain), revealing, discovering. پرده در - وه شخص جو لوگوں كے بهيد كو ظاهر كردے

هتر a lie, an idle foolish speech, a misfortune, adversity, (*met.*) slander, detraction, anything whispered of an absent person. سخن بے فائده - سختي زمانه كي - مجازاً بمعني غيبت

هتف calling to one, exclaiming, cooing (as a dove). آواز - آواز كرنا

هتك tearing (a veil or curtain) so as to discover those who are concealed, violating, ravishing (a woman), dishonouring, disgracing, defaming, revealing, discovering. پرده داري - رسوائي - بهيد كسي كا ظاهر كرديتا

هجا m. execrating, cursing, satirizing, ridiculing, railing at, laughing to scorn, satire, any bitter speech, reproach, a wife forming a bad opinion of her husband, syllabling, spelling. هجو كرنا - كسي كي برائي بيان كرنا - برا كهنا - عورت كا اپنے شوهر كو برا كهنا - حرفوں كا اعراب سے ظاهر كرنا

هجر *hajr*, separation, disjunction, desertion of country or friends, speaking deliriously (as a sick man), abstaining from venery during Ramzan or Lent, the meridian or the more sultry time of the day which follows it, delirium. - جدائي كرنا - بيمار كا هذيان بكنا - دو پهر كا وقت اور بمعني هذيان

هجر *hijr*, *f.* separation. جدائي

هجر *hujr*; trifling, conversation, idle garrulity, a foolish or improper speech. فحش سخن بيهوده

هجران separation, disjunction, departing from, far separated from or not frequenting, one's friends, leaving one's country, cutting off. جدائي اختيار كرنا - كسي سے قطع تعلق كرنا

هجرت *f.* immigration, departing from one's country and friends, separation of lovers or friends. - كنبه سے جدا هونا - وطن كا چهوڑنا - جدائي

هجرس *f.* a fox. روباه - لومڑي

هجري the *hijri*, or the flight of Mahomed from Mecca to Medina, which in the reign of Khalif Omar, was ordered to be considered as the Mahomedan era. منسوب طرف هجرت محمد كے

هجع senseless, insane, ignorant, fool. مدهوش - بے خود - احمق

هجعت *f.* a slumber, a gentle sleep, a manner of sleeping. خواب نيند

هجف *n.* an old ostrich, a man. آدمي اور شتر مرغ جو بڑي ڈيل ڈول كا هو

هجل (*pl.* هجلات and هجول), a large plain, valley or wood between mountains. زمين نشيب جو پهاڑوں كے درميان ميں هو

هجمه *m.* a herd of camel from 40 to 100. اونٹوں كا گله جو چاليس اونٹ سے ايك سو تك هوں

هجو *f.* satire, a pasquinade. كسي كي مذمت كرنا - كسي كي برائي بيان كرنا

هجود *hujud*, sleeping at night, (*contra*) waking, watching, saying nightly prayers. رات كو سونا - رات كو جاگنا - رات كو نماز پڑهنا

هجوع sleep, slumber, rest. نيند - آرام

هجول *f.* a harlot, a prostitute. زن فاحشه

هجوم *hujum*. *m.* an assault, an attack, an effort, impetuosity, a crowd. - غلبه - اژدهام - انبوه - انبوه كرنا - غلبه كرنا

هجوم *hajum*, (wind) blowing down the houses وه هوا جو مكانوں كو گرا دے

هجير the severity of heat at midday, a large, capacious cistern or trough for watering cattle. ٹهيك دوپهر كي گرمي اور دهوپ كي شدت - بڑا حوض

هجير *hijir*, nature, disposition, habit. - عادت خصلت

هجان mean, worthless, any thing base or deformed, a horse got by an Arabian stallion from a foreign dam, a mean-blooded pack-horse, one whose father be free and the mother a slave. - فرومايه - كمينه - ناكس - وه گهوڑا جسكا باپ عربي هو اور ماں اور كسي ملك كي - وه شخص جسكا باپ آزاد هو اور ماں لونڈي - بري شے

هدا *huda*, direction into the right road or into the way of salvation. راستي - ره راست

هداة (pl. of هادي). guides, leaders, directors جمع هادي كي - هدايت كرنيوالے - راه راسه دكهلانيوالے

هدان a. foolish, slow, lazy, timid. احمق - بزدل

هدايا (pl. of هديه). gifts, presents. جمع هديه كي - تحفے

هدايا ناخده m. precious gifts. قيمتي تحفے

هدر shedding blood or permitting it to be shed unrevenged, nullifying one's right. كسي كے خون يا قتل كا مباح اور جائز هونا - كسي كے حق كا باطل هونا -

هدف any thing raised or placed high, a mountain, a hill of sand, a lofty building, an honourable man, (in Pers.) a but or mark for archers. - كوئي چيز بلند - بلند عمارت پهاڑ - تيله - پشته - مرد بزرگ - (فارسي سے خاصكر) تير كا نشانه

هدم *hadum*. ruin, destruction, demolition, levelling (a house) to ground. عمارت كا ڈها دينا - بربادی - خرابي

هدم *hidm*, m. a worn or patched garment, old cloth. جامه كهنه - پرانا كپڑا

هدنه quiet, tranquillity, peace. صلح

هده truth, just, true. حق - فائده

هدهد m. the lapwing. پوپک جو ايک پرند مشهورهے

هدي direction into the right path or into the way of salvation. راستي سے - راه راست دكهانا

هدي *hadi*, gift, given as an offering, a bride sent to her husband's house. - هديه - تحفه - وه دلهن جو شوهر كے گهر بهيجي جاے

هدير cooing (as a pigeon) braying (camel). كبوتر كي آواز - اونٹ كي آواز

هديل m. a male pigeon, cooing, murmuring (tu . . . or a pigeon). - كبوتر نر - كبوتر كي آواز - قمري كي آواز

هديه m. a present, especially one offered to superiors, an offering on the altar, curiosity, (*fig.*) the price of a Quran - تحفه سوغات اصطلاحاً قرآن كي قيمت كو بهي كهتے هيں

هذار *hazzar*, a. very loquacious, garrulous, talkative, a babbler. بڑا بيهوده گو

هذر *hazr*, loquacity, frivolous, garrulity. بيهوده بكنا - سخن بيهوده

هذر *hazar*, delirious, foolish in speech. بيهوده شخص

هذو a. delirious, raving in speech, from distemper or other cause.

هذيان a. raving in delirium of a fever, incoherent utterances. مرض كي بيهوشي ميں بيهوده باتيں بكنا - بيرانا

هذيل name of an Arabian tribe. نام ايک عرب كے قبيلة كا

هر *hirr*, m. a he-cat. گربه - بلي

هرا *hara*, gold and silver ornaments or trappings, horse furniture, big bells tied round the neck of the camels, etc. - گهوڑيكا زيور گهوڑيكي حمائل - بڑے گهونگرو جو اونٹ وغيره كے گلے ميں پهناتے هيں

هرا *hurra*, m. noise, tumult, uproar, complaint, fear, horrible voice. - شور فرياد - غل ڈر - خوف - ڈراوني آواز

هرا *hira*, cont form of هرات. مخفف هرات كا

هرات n. one of the capital cities in Khorasan نام شهر مشهور كا

هراس m. terror, fear, dread, confusion. خوف - ڈر

هراسان a. fearing, dreading, timid. ڈرپوک

هراسه m. any scare-crow placed in a garden to frighten away birds or beasts. وه ڈراوني صورت جو باغبان اور كسان بناكر باغ اور كهيت ميں كهڑي كرديتے هيں تاكه پرنده وغيره اسے ديكهكر ڈريں اور بهاگ جائيں

هراسيدن inf. to fear, to dread, to be cautious, to suspect. ڈرنا - وهم كرنا

هراش a camel's bridle. اونٹ كي مهار

هراش exciting the dogs to fight. برانگيخته كرنا - كتونكو لڑنے كے لئے

هرانچه m. whatever. جوكچهه

هرانكه pron who or whatsoever. جو شخص

هراولي the advanced guard of an army. وه تهوڑي فوج جو لشكر كے آگے هو

هرآئنه adv. necessarily, undoubtedly. بالضرور

هرب a. flying, running away, absconding, flight, great sorrow. بهاگنا - غمكي شدت

هرج copious, superabounding in any thing speaking a great deal and incoherently, tumultous, seditious, destroying one another, tumult, sedition, confusion, slaughter. فتنه - شور - آشوب - خرابي - فساد

هرجا adv. everywhere. هر كهيں - هر جگهه

هرچند conj. howsoever, as often as, although. جسقدر - جتنا - كچهه

هرج مرج m. tumult, confusion, anarchy, chaos, destruction, ruin. آشوب - فتنه - تباهي

هرد boiling meat to a jelly, tearing (a garment), slandering, detraction, taunting, upbraiding, dyeing of a yellow colour. گوشت كا نهايت گلاكر پكانا - كپڑيكا پهاڑنا - كسي كا عيب يا برائي كهنا - طعنه دينا - كسي چيز كو زرد رنگنا

ہردي *f.* turmeric. ہلدي

ہرزہ *a.* vain, futile, frivolous, absurd, trifles. بیہودہ

ہرزہ درائے *m.* a foolish prating fellow, an idle talker. بیہودہ گو

ہرزہ درائي *f.* prattling, babbling. بیہودہ گوئي

ہرزہ گو } ہرزہ لاے *m.* a foolish prating fellow, an idle talker. بیہودہ بکنے والا

ہرسو *ad*. on all sides, everywhere. ہر طرف

ہرقل Haraclius. لقب بادشاہ روم کا

ہرگاہ } ہرگاہ *adv.* whenever, at what ever time. جس وقت - جب کبھي

ہرم *harim*, *m.* a decrepit, old man. بہت بوڑھا شخص

ہرم *haram*, *m.* old age, becoming old. بوڑھاپا - بوڑھا ہونا

ہرماس *m.* a (ravenous) lion. شیر درندہ

ہرمان the intellect, understanding, sense. عقل - ہوش

ہرمز *hurmuz*, *n.* name of Nausherwan's son, the father of Khusru Parwez, the first day of every solar month, (*cont.* form of ہورمز), the planet Jupiter, the isle of Ormuz in in the Persian Gulf. نام خسرو پرویز کے باپ اور نوشیرواں کے بیٹے کا - ہر مہینہ شمسي کي پہلي تاریخ - اور مخفف ہرمز کا جو بمعني ستارہ مشتري کے ہے

ہرولہ trotting, going moderately, especially after galloping. ایک قسم کي چال جس کو پویہ کہتے ہیں

ہرہ *hirra*, *f.* a tib cat. بلي - گربہ مادہ

ہرہفت adorned, dressed, *esp.* the seven things which women employ in decking themselves, *i. e.*, garment, jewellery, myrtle, collyrium, betel-leaf, *missi*, (a powder for tinging the teeth), plaiting the hair.

ہري (for Aria or Herat). نام شہر ہرات کا

ہریر snarling (as a dog), the dog's snarls. کتے کي آواز

ہریرہ *n.* a kitten. گربہ - بلي

ہریسہ *f.* bruised, a kind of thick pottage made of bruised wheat boiled to a consistency, to which they add meat, butter, cinnamon and aromatic herbs. - کوفتہ شدہ ایک قسم کي آش جس کو کتے ہوئے گیہوں اور گوشت اور مصالح وغیرہ سے تیار کرتے ہیں

ہزار a thousand, a bird (nightingale) called the thousand voices, having an uncommon variety of melodious notes, the fourth game at draughts. دس سو کا عدد - بلبل ہزار داستان - نرد کي چوتھي بازي

ہزار آواز a nightingale. بلبل سے

ہزارپا } ہزارپایہ *m.* the scolopendra, a milliped, a palmer worm of a dangerous species (and according to some), a centipede. - اور کنکھجورا کہتے ہیں گھنسلائي جو مشہور کیڑا ھے - اور بعضے بمعني کنکھجورا کہتے ہیں

ہزار جریب *n.* name of a place in Iran inhabited by the Shiites. ایران میں ایک مقام کا نام جہاں شیعہ رہتے ہیں

ہزار چشمہ a cancer, a mortal disease, carbuncle. سرطان کي بیماري - ایک پھوڑا ہوتا ھے پیٹھ پر اس سے اکثر آدمي مرجاتا ھے

ہزار داستان a kind of nightingale so called from the immense variety of its notes. کنایہ بلبل سے

ہزار خانہ *m.* second stomach of the goats (as being in many divisions) معدہ بکریوں کا

ہزار میخ a mendicant's habit made of many patches. فقیر کي گدڑي

ہزاع *hiza'*, *m.* an old man, coward, timid, مرد ضعیف - بد دل

ہزال *husal*, leanness, weakness, extenuation through age. لاغري - دبلا پن

ہزال *hazzal*, *m.* a jester, a buffoon. مسخرہ

ہزاہز moving, seditious, tumults, intestine wars. فساد - فتنے - جنبشیں

ہزبر *m.* a lion. شیر درندہ

ہزت *hazzat*, *f.* alacrity, cheerfulness, exultation, comfort, luxury. عیش - طرب - خوشي

ہزج modulation, shaking, trilling, a species of verse. گانے کي آواز - خوش آیند - نام ایک بحر کا شعر بحروں سے

ہزل lean, emaciation with age, idle or foolish talk, jest, drollery, playfulness. لاغر ہونا - بیہودہ بات - مسخرگي

ہزمان (*cont.* form of ہرزمان), every time. مخفف ہرزمان کا

ہزہ moving, shaking. ہلانا

ہزہاز } ہزہز *a.* moving. ہلانا

ہزیم *f.* the sound of the tunder, incessant, heavy (rain.) رعد کي آواز

ہزیمت *f* routing, putting to flight, a defeat, dispersion. شکست

ہزینہ *m.* expenditure, disbursement, household expenses, treasure, always. خزینہ اور بمعني خرچ - اہل و عیال کا روٹي کپڑا وغیرہ اور بمعني ہمیشہ

هش *hash*, *a.* light, nimble, cheerful, brisk, easy, polite, humane, horse who does not perspire in going, driving the leaves off trees with a stick, especially as food for cattle. فرحان - شادان - خوش - اپني مويشي کے کهانے کے واسطے درخت سے پتے جهاڑنا - وہ گهوڑا جو چلنے ميں پسينہ نہ لاے

هش *hush*, *cont.* form of. هوش مخفف هوش کا

هشاش *a* glad, cheerful, brisk, jovial, polite. خندان رو - خوش

هشاش بشاش *a.* glad, cheerful, happy, gay, mirthful. شادان - فرحان - خوش و خرم هنستا هوا

هشاشت *a.* light, nimble, cheerful, brisk, easy, polite, humane, soft, cheerfulness, politeness, humanity. *n.* a she-camel or a she goat full of milk. شاد و خرش هونا - خوش طبع هونا - کشادہ هونا - نرم هونا - سبک هونا - بکري اور اونٹني وغيرہ کا پر جوش هونا

هشت *a.* and *n.* eight. عدد آٹهہ کا

هشتن *hishtan*, *inf.* to dismiss, to leave, to let fall, or hang loose, to abandon. چهوڑنا

هشت بهشت *m.* the eight paradises. 1. Khald, eternity, paradise. 2. Dar-us-salam, the mansion of salvation, or peace. 3. Dar-ul-qarar the permanent house. 4. Jannat-ul-Adan, (the garden of Eden), a settled or perpetual habitation. 5. Jannat-ul-Mawa, the garden of abode. 6. Jannat-ul-Naim, the garden of pleasure. 7. 'Aliyen, the starry firmament. 8. Firdaus, the garden of paradise. آٹهہ بهشت يعني (۱) خلد (۲) دارالسلام (۳) دارلقرار (۴) جنت عدن (۵) جنت الماوي (۶) جنت النعيم (۷) عليين (۸) فردوس

هشت و چهار چشم فلک the twelve signs of the zodiac. کنايہ آسمان کے بارہ برجوں سے

هشوش *f.* a sheep a bounding in milk. بکري بهت دودهہ والي

هشيش *a.* gentle, humane, affable, cheerful, glad, soft (bread, etc.). *n.* a she-camel or a sheep abounding in milk. - شادان - نرم خوش - اونٹني اور بکري وغيرہ جس کے بهت دودهہ هو

هصاص breaking the neck of another. توڑنيوالا

هضم *hazam*, breaking (anything), digesting, oppressing, injuring. کسي چيز کا توڑنا - کهانے کا پچانا - ظلم کرنا

هضم *hizm*, a plain, extensive and lying low, the bottom of a valley or channel. زمين پست

هضم injured, oppressed, afflicted, (a delicate woman) slander round the waist, wrapt close, not appearing from the buds (palm flowers), buds, unblown, flowers. ظلم کيا گيا - مظلوم - وہ عورت جو لطيف اندام هو اور جهکي کمر پتلي هو

هضيمت *f.* injury, oppression, iniquity, anger. ظلم - ستم - غصہ

هطل *hatl*, shower following shower (especially large drops), also an incessant and small rain, weeping.

هطل *hatil*, *m.* clouds constantly dropping. ابر بهت برسنے والا

هطل *huttal*, (*pl.* of هاطل), clouds constantly dropping. جمع هاطل کي - بهت برسنے والا ابر

هطلان weak showers of rain continuing day and night. باران ضعيف جو کئي دن تک برابر برسے

هفت *a.* and *n.* seven. سات (۷)

هفت *huft*, *m.* a draught of water, a gulp, a sip. ايک گهونٹ پاني

هفت اختر the seven planets. سات ستارے

هفتاد *a.* and *n.* seventy. ستر (۷۰)

هفتادم the seventieth. سترواں حصہ

هفت اندام the seven external parts of the human body, the head, breast, back, the two hands and two feet, seven internal parts, the brain, heart, liver, spleen, lung, gall-bladder and stomach or kidney. ظاهري بدن کے سات حصے يعني سر - سينہ - پيٹهہ - دونوں هاتهہ - دونوں پانوں - اور باطن ميں دماغ - دل - کليجہ - تلي - پهيپهڑا - پتہ - اور معدہ يا گردہ

هفت اورنگ the constellation of the two Bears. بنات النعش کے ستارے

هفت پير the seven readers of the Quran. مراد سات قاريوں سے

هفت جوش the seven metals mixed, the seven metals are, gold, silver, copper, pewter iron, lead and tin. - سات دهاتيں ملي هوئي يعني سونا - چاندي - تانبا - جستہ - لوها - سيسہ - اور رانگہ

هفدہ *a.* and *n.* seventeen. سترہ (۱۷)

هفدهم the seventeenth. سترهواں حصہ

هفت دوزخ *m.* the seven apartments of hell, (1) Jahannam, which the Mahomedans say will be the receptacle of those who acknowledged one God, that is, the wicked Mahomedans, who, after having there been punished according to their demerits

will at length be released. (2) Ladhwa or Nuta, they assign to the Jews (3) Hutama, to the Christians (4) Sair, to the Sabians. (5) Saqar, to the Magians. (6) Al Jahim, to the idolaters. (7) the lowest and worst of all, Hawiya to the hypocrites, or those who outwardly professed some religion, but in their hearts were of none. سات طبقة دوزخ كے يعني (۱) جہنم (۲) نطاي (۳) حطمة (۴) جحيم . (۵) سعير (۶) سقر (۷) هاوية

هفت سبع the whole Quran. مراد تمام قرآن سے

هفت كشور the seven climates, the seven regions, the world. سات اقليم

هفت دانة a kind of dish made of seven different kinds of fruits and herbs dressed with syrup, etc., which on the tenth day of Muharram, they distribute in Persia to neighbours and to the poor, in commemoration of the death of Hussain, son of Khalif 'Ali. ايک قسم كا كهانا جو سات قسم كے تركاريوں سے بنتا هے

هفتم the seventh. ساتواں حصة

هفت هشت (met.) harsh and contentious words. زيادة كلمات ناملائم سے اور گفتار خصومت انگيز سے

هفت هيكل the seven prayers read every day in a week for peace and rest. وة سات دعائيں جو هفتة كے سات دنوں ميں هر روز ايک دعا پڑھي جاتي هے امن و سلامتي كے لئے

هفوت f. falling; slipping, blundering, an error, blunder, fault, crime, offence, (met.) garrulity, foolish talk - لغزش و خطا كرنا مچلانا بيهودة گوئي

هفوان falling, blundering, slipping, erring. خطا كرنا

هكاع the cough, coughing. كهانسنا

هكذا in this manner. هوبهونہ - اسي طرح

هكهة }
هكهكهك } the hiccough, the sobbing. - فواق هچكي

هل hal, interrogation, whether or not? آيا . آيا ايسا هو

هل hil, the white cardamum, oil cake. سفيد الايچي - كهلي سرسوں تل وغيرة كي

هل hul, the embrace, the bossom. آغوش

هلا hala, take care! beware! كلمة تنبيه كا هے . آگاه هو

هلات languor, feebleness. آدمي كے كسي عضو كا سست هو جانا

هلاس a consumption, decay. سل كي بيماري

هلال m. the new moon, also the moon on the wane, especially the first and last two or three days the moon being called قمر the rest of the month, an Arabian tribe. (in Pers.) paring of a finger nail resembling a crescent. نيا چاند - چاند رات سے تيسري تاريخ تک هلال اور بعد اس كے قمر بولتے هيں - نام ايک قبيلة كا عرب ميں - فارسي ميں بمعني تراش ناخن كے بهي آيا هے اس لئے كة وة نئے چاند كي صورت پر هوتا هے

هلال هلال halal hilal, pieces, scraps, bits. لخت لخت - پارة پارة

هلاهل m. mortal poisson or venom, mortal, deadly, nightshade. زهر قاتل

هلب bristles of hogs or similar animals. سور كے بال

هلک hulk, destruction, ruin, perdition, perishing, dying. پستي - هلاكي

هلک halk, the hiccough. هچكي - فواق

هلكة pl. perishing, dying. هلاک هونے والے

هلم halumm, come on! approach! draw near! بيا . آ

هلوع extremely impatient or dastardly, great impatience, shameful, cowardice, avarice, hasty. - نهايت بے صبرا بڑا لالچي بڑا جلد باز

هلوک destruction, ruin. نيست هونا

هليدن inf. to dismiss, to abandon. چهوڑنا

هليون asparagus. مار چوبة - ايک قسم كي گهاس جس كا بيج دوا ميں پڑتا هے

هليرة m. a kind of oar used to propel a boat. ايک قسم كي چوڑي لكڑي جس سے چهوٹي كشتيوں كو كهيتے هيں

هم hamm, grief, care, solicitude, turning a thing anxiously in the mind, (disease) causing one to melt away or decay, nursing and sending to sleep (a child.) - اندوة غم - انديشة - قصد كرنا - چاهنا - بيماري كا بدن كو گهلا دينا - بچة كو دودهة ديكر سلا دينا

هم himm, m. decrepit old man, worn out by age. نهايت بوڑها اور ضعيف

هم ham, also, and, likewise, in the same manner, equally, to gether, both بمعني بهي - نيز

هما *huma*, a bird peculiar to the East, it is supposed to fly constantly in the air, and never to touch the ground, it is looked upon as a bird of happy omen, and that every head it overshades, will in time wear a crown. It commonly denotes, a bird of paradise, a phœnix, a large royal eagle, and a pelican, name of a queen of Persia, grandmother to Darab II, or Darius Codomannus, overthrown by Alexander. نام ایک پرند کا جو همیشه اُڑتا رهتا هے اور جو اُسکے سایه کے نیچے آوے وه بادشاهت پاوے - نام بهمن بادشاه کي بیٹي کا

همار *hamar*, } calculation, always. - انداز
همارہ *hammara*, } همیشه

هماز *hammaz*, slanderous, loquacious, reviling, defective, a defamer, winking. عیب کرنیوالا - آنکهه سے اشارہ کرنیوالا

همال *hamal*, alike, equal, resembling, coequal, contemporary, a companion, an equal, a peer, a friend, a confidant. - همتا مثل - نظیر - شریک

همام *m.* a great man, a chief, a hero, a magnanimous prince, a liberal, magnificent man. - همت - بزرگ - قوم کا سردار - مرد بزرگ - خوش تدبیر

هماںا as if, perhaps, undoubtedly, certainly. گویا - شاید - بیشک

همایون *a.* blessed, sacred, fortunate, august, royal, imperial. مبارک - برکتي

همباز *m.* a partner at play, an associate. شریک

همپا a fellow traveller. همراہ - ساتهي

هم پشت *m.* an assistant, a companion. مددگار

هم پنجگي *f.* equality. برابري

همت *himmat*, (*fem.* of هم), a decrepit old woman, grief, care, sorrow, mind, thought, attention, inclination, desire, resolution, design, (*met.*) resolution, a high idea, (sometimes) prayer. - بوڑهي عورت - رنج - فکر - غم - ارادہ - قصد - مجازاً بڑا قصد - دلکا بلند ارادہ - کبهي بمعنے دعا کے بهي آتا هے

همت خواستن to request one to pray for him. کسي سے دعا کے لئے منت کرنا

همترازو *a.* of equal weight, equal in power, fairly matched. - مقابل - هم زور - هم قوت - برابر -

همتگ step by step. قدم باقدم

هم جوار *m.* a neighbour. پردیسي - همسایه

همچنین *adv.* thus, in this way. اسیطرح

همچو *adv.* like, as, thus, even, as if. بمعنے همچنیں - اور حرف تشبیه کا

هم خانه a fellow-lodger, companion, partner, a spouse, husband and wife. وہ جو کسي کے ساتهه ایک گهر میں رهتا هو - مراد زوجه سے بهي

همخوابه *m.* and *f.* a bed-fellow, a wife. ساتهه سونے والا - ساتهه سونے والي

همخو of the same disposition, or habits. وہ شخص جسکي خصلت اور عادت اپنے برابر هو

همداستان a confidant, a secretary, a fellow-companion. هم صحبت - هم کلام

هم دامان a wife's sister's husband. - ساڑهو هم زلف

همدان name of a city and territory in Persia. نام شهر کا ایران سے

همدرس a class-fellow. هم سبق

همدست *m.* a partner equal, peer, of the same power, unanimous, associate. - شریک - متفق برابر - همقدرت

هم دگر *adv.* together, both, each. ایک دوسرے کے باهم

هم دل *a.* unanimous, of the same inclination, a true friend. کنایةً رفیق خالص سے

همدم *m.* breathing together, *i. e.*, an intimate companion, friend or spouse. - رفیق موافق ۔ جو هروقت ساتهه رهے

همده *m.* a trance, an apoplexy. بیماري سکته کي جس میں آدمي بالکل مردہ هو جاتا هے

هم دیوار *m.* a neighbour. پڑوسي

هم ذات co-existent, consubstantial. جو اپني ذات کا هو

همذان *cont.* form of همذان. - مغرب - همذان

هم راز a confidant, an intimate friend. جو اپنا بهید جانتا هو

همراہ a fellow-traveller. شریک سفر وغیرہ میں ساتهه چلنیوالا

همراهي *f.* companionship in travelling, a travelling companion, equality, help, assistance. ساتهي - هم سفر - برابري اور مدد کے معنوں میں بهي آتا هے

همرنگ of the same colour, of the same nature or disposition, a real friend. رنگ میں برابر - مراد دوست خالص سے

همرو a fellow-traveller. ساتهه چلنے والا

همرہ a travelling companion. سفر میں ساتهه چلنے والا

همزہ *a.* winking, giving a hint by the eyelids, erring, squeezing in the hand. آنکهه سے اشارہ کرنا - عیب کرنا - هاتهه نچوڑنا

همزاد of the same age, born together, being twins, contemporaries, partners, fellow-travellers, a play fellow. همسن - جو ساتهه پيدا هوا هو

همزبان m. a real friend. كنايه دوست خالص سے

هم زلف m. a wife's sister's husband. سالي كا شوهر - ساڑهو

همزه hamza, the character hamza or hamz alif (ء) الف متحرك

همزه hamaza, instigation (of Satan). شيطاني وسوسه

همس a gentle sound or slight motion, softness of voice, making a gentle sound. نرم آواز - آواز كي نرمي - آواز كا نرم هونا

همساز a. unanimous, m. a friend, a correspondent, one of the same family. - موافق دوست

همسايگي f. neighbourhood. پڑوس

همسايه m. a neighbour پڑوسي

هم سبق a class fellow, a fellow-student. ايك ساتهه مكتب ميں پڑهنے والا

هم سر of the same head, i. e., equal in height, or of the same authority in command, also of the same rank or profession, an associate, a spouse. - برابر - جورو زوجه

همسفره sitting at the same table, a convivial companion, a boarder. جو ايك دستر خوان پر ساتهه كهانا كهاوے

همسمدهي m. son or daughter's father-in law, relationship such as held between the parents of a husband and wife. مراد سمدهي سے

همسنگ of the same weight, equal. - برابر هموزن

همشوے f. wives of one husband, a rival (wife), contemporary wife (one wife is همشوے to another). ايك مرد كي دو جوروئيں آپس ميں همشوے هوئيں

همشير } of the same milk, a real sister
همشيره } سگي بهن

همعنان a companion, equal, associate, friend. همراه - برابر

هم عيار of equal weight. هموزن

هم قران m. a companion, a friend, a courtier همنشين - مصاحب

همقرين a companion, a friend. يار و مصاحب

هم كاسه m. a convivial or pot companion, a fellow commoner, a boarder, a friend. دوست

همگنان (pl. of همگين or همگي), all men, the whole. جمع همگين كي يا همگي - تمام آدمي

همگي all, the whole. تمامي - تمام

همم (pl. of همت), intentions. - جمع همت كي ارادے

هم مقيل f. a bed-fellow, a spouse, a wife. همخوابه - ايك جگهه ساتهه سونے والي

هم نفس a friend, a companion رفيق - همكلام

همواره adv. always, continually, constantly. هميشه

هموم (pl. of هم), cares, afflictions. - جمع هم كي رنج - غم - انديشے

همه a. all, the whole, every one. تمام

همه دان a. knowing everything, experienced, wise. سب كچهه جاننے والا

همهمه roaring as a lion, making a hoarse noise in throat (as the elephant, ox, or ass when in pain. شير كا ڈكارنا

هميان hamyan, } a long purse or scrip.
هميان himyan, } تهيلي روپيوں اور اشرفيوں كي

هميدون a. such, in this manner, in the same place, suchwise, now. اسي طرح - اب

هميع } sudden or untimely death. مرگ
هميغ } مفاجات - ناگهاني موت

هميم creeping, walking slowly. آهسته چلنا

هن hann, weeping, deploring, crying in a lamentable voice, Rima mulieris pudendum, vulva. نالہ كرنا - رونا - چلانا

هن hunn, f. they (the collection of women). گروه عورتوں كا

هنجار m. a straight road, a true method, rule, mode, travelling together. especially through narrow passes, roads or straits, emigrating, going on the side of a road. راه - رسته - مجازاً بمعني طرز - روش - قاعده

هند f. Hinda, a woman who had slain Hamza, India نام ايك عورت كا جس نے امير حمزه كو قتل كيا تها - نام ملك كا

هندب } endive, succory. كاسني
هندبا }

هندسه (corr. form of اندازه), Geometry, (sometimes it means) deceit, fraud. معرب اندازه كا نام ايك علم كا هے جس سے پيمائش شكلوں كي حاصل هوتي هے اور كبهي بمعني مكر و فريب كے بهي آتا هے

هندسي a geometrician. عالم هندسه كا عالم

هندو (in Pers.) a thief, robber, highwayman, a slave. فارسي محاوره ميں بمعني چور اور ڈاكو اور پاسبان اور غلام كے آتا هے

هندوانه m. a water melon. تربوز

هندوانه افگندن id. to be greatly frightened. كنايه هے كمال خوف و ڈر سے

هندوانه در كون كسے فلطانيدن id. filling one with great terror. كنايه هے كسي كو انتها سے زياده خوف زده كر دينے سے

هندوز f. a sorceress, an enchantress. جادو گرني ·

هندو چرخ (met.) the planet Saturn. كنايه ستاره زحل سے

هنر m. virtue, science, knowledge, ingenuity, art, industry, excellence. كاريگري - كام

هنگ m. a purpose, design, institution, power, misfortune, blow, calamity, the understanding. قصد - وقار - زور - قوت - هوشياري - چوٹ - صدمه

هنگار expedition, haste. شتابي - جلدي

هنگام m. time, hour, season, an assembly, crowd, throng, commotion. وقت - هنگامه - مجمع

هنگامه m. a convention, an assembly, a meeting of merchants, a play for any kind of play or entertainment, noise, tumult, commotion, confusion, crowd, throng, riot, disorder, time, hour, season. انبوه - مجمع لوگوں كا - وقت - هنگام - اژدهام

هنگامه گير a. gathering, collecting, a juggler, a tumbler. one who exhibits feats of activity and thus collects a lot of people, a man who under the pretence of selling charms and medicines collects a number of people, tumultous. هجوم كرنے والا - بازيگر - تماشه كرنے والا - وه شخص جو تعويذوں اور دواؤں كے بهانه سے لوگوں كو جمع كرے

هنگفت a. thick, dense, coarse, cloth of a plain, equal, or firm texture, a kind of female upper garment, a bed counterpane, quilted with cotton. غفص - مطبر - گنده - موٹا - دلدار

هنود (pl of هند) Indians, women bearing Indian names. جمع هند بمعني هندو لوگ - عورتيں جن كے نام هندو هوں

هنوز adv. yet. still, just now, at present, hitherto, to this very time, not yet. ابهي تك

هني (meat) light, easy of digestion, wholesome victuals, pleasure, anything agreeable, or which is easily obtained, one who digests well. هاضم - گوارنده - خوشگوار - بامزه - وه چيز جو بے مشقت حاصل هو

هنير a. good, beautiful, goodness, excellence, beauty. خوبصورت - خوبصورتي - نيك

هنين a. weeping, crying in a lamentable voice, deploring, lamenting, complaining, complaint, lamentation رونا - چلانا - فرياد كرنا - ناله - فرياد

هو m. fear, the name of God خوف - نام ذات خدا كا

هوا wish, desire, anxiety inclination, ambition, (a mother) deprived of her son آرزو - اشتياق - دلكي خواهش - بے فرزند هونا آنكهي ماںكا

هواء m. air, atmosphere, ether, the space between heaven and earth, the wind, a gentle gale. وه عنصر هوا كا جو آگ كے كره كے نيچے هے - وه فرق جو آسمان و زمين كے درميان ميں هے - وه هواے ساكن جو هر مكان ميں بهري هوئي هے

هوا پرست m. worshipping the air, vain, given to vanity (as to ambition, pleasure, etc.,) foolish, silly. عياش آدمي - بيهوده شخص - نالائق

هوا جس (pl. of هاجسه) sinful thoughts and fears. شيطاني خطرے اور وسوسے جو انسان كے دلميں گذرا كرتے هيں

هوا خواه m. a well-wisher, a friend. - خيرخواه دوست

هوا خوردن باده m. losing effect (the wine). كنايه هے شراب كي كيفيت زائل هوجانے سے

هوا دار a. airy, dispersed in air, given to the winds, a friend, a lover, a house well ventilated. دوست - عاشق - وه مكان جسميں تازه هوا آتي هو

هوادج (pl. of هودج) جمع هودج كي

هوا گرفتن id. to fly. اڑنا

هوالك (pl. of هالك), perishing. جمع هے هالك كي نيست هونے والے

هوالة frightful, terrible, hideous - هولناك ڈروني چيز

هوام hawamm, (pl. of هامه), reptiles, insects, serpents, the reptiles of the earth. جمع هامه كي - مثل سانپ - بچهو - نيولے - چيونٹے - كيڑے - مكوڑے وغيره كے جو زمين كے اندر گهسنے والے اور كاٹنے والے جانور هوں

هوان f. disgrace, dishonour, contempt. خواري - بے عزتي - ذلت

هوائي a friend, a lover, ambitious, anxious, distracted, perplexed, agitated, capricious, licentious, dedicated to pleasure, a sky-rocket. محب - عاشق - دوست - آرزو مند - بولهوس - پريشان - ايك قسم آتشبازي كي

هوائي شدن *id.* to fly, to disappear, to be lost. اڑنا - کم هونا

هوج *huj*, } great folly or levity,
هوج *hawaj*, } tallness, haste, precipitation. نادانى - شتابي

هوختن to draw, to pull, to bring out, to appear, to come. ظاهر - باهر نکلنا - کهينچنا - هونا - آنا

هود *hud*, *n.* the name of a prophet called the patriarch Heber, (also the *pl.* of هايد or هويد), penitents, the Jews. نام ايک پيغمبر کا - اور جمع هايد اور هويد کي بهي - بمعني توبه کرنے والے

هود *hawad*, repenting, returning to one's duty, to be a Jew, to do good. توبه کرنا - خدا کے طرف رجوع کرنا - يهودي هونا - نيک کام کرنا

هود *hawad*, (*pl.* of هوده), hunches of camels. جمع هوده کي - اونٹ کي پيٹهه کے کوبڑ

هودج *m.* a litter carried by a camel, in which the Arabian ladies travel, it is made of wood or cloth stretched upon a frame, and is either open or covered at top. اونٹ کا کجاوه يا عماري جسميں عورتيں سوار هوتي هيں

هوده *hauda*, *m.* a camel's hunch. اونٹ کي پيٹهه کا کوبڑ

هوده *huda*, *m.* truth, true, just, right - سچ حق - راست

هور the sun, luck, fortune, a comet. آفتاب اور بمعنے بخت و نصيب . نام ايک ستاره کا

هورمز *m.* the planet Jupiter. کناية ستارهٔ مشتري سے

هورخش *m.* the sun. آفتاب

هوس *hawas*, desire, lust, concupiscence, an inordinate appetite, ambition, curiosity. ديوانه هونا - آرزو - کسي چيز کا شوق - عشق خام - ناقص محبت

هوا و هوس تابع شدن to indulge in one's appetites, to give the genius full scope. خواهش پوري کرنا

هوش understanding, judgment, intellect, the mind, the soul, destruction, perdition, death, anything which causes death or ruin. دانائي - عقل - جان - هلاکت - موت

هوشمند *a.* prudent, sagacious, intelligent, wise, sage. هوش والا - عقلمند

هوشمندي *f.* understanding, prudence, wisdom. عقل مندي

هوشنگ *m.* name of the second king of Persia, of the Peshadadian dynasty. نام ملک فارس کے دوسرے بادشاه کا

هوشه idle, lazy, indolent, slow. سست - کم همت

هوشيدن *inf.* to understand. سمجهنا

هوف hot wind. گرم هوا

هول *m.* fright, terror, dread, terrifying, striking with horror. ڈرانا - خوف - ڈر

هولا *pronominal*, *a.* these. يهه لوگ

هولناک *a.* terrible, dreadful, horrible, frightful, dangerous. خوف کا بهرا هوا

هوله terrifying (once). ايک بار ڈرانا

هون *a.* light, smooth, easy, resting, quiescent, quiet, tranquillity, mildness, modesty, gentleness, tameness. - آرام - آهستگي وقار - نرمي - سبکي

هون *hun*, *a.* vile, mean, base, contemptible, contempt. خواري - بيعزتي - ذلت

هوو the rival (wife), a contemporary wife, (one is هوو to another). دو جوروئيں ايک مردکي آپس ميں هوو يا سوت هوئيں

هو هو as it was, exactly, unaltered, "in status quo." جوں کا توں - اُسي طرح جيسا تها ويساهي

هويت *huwaiyat*, *f* (divine) essence. ذات باري تعالى

هي Ho! hark ye! holla! have a care! softly! touch it not! alas! well done! کلمهٔ تنبيه جو واسطے آگاه کرنے کے آتا هے - کبهي بمعنے افسوس اور جهڑکي کے بهي آتا هے - اور کبهي مقام تحسين اور تعريف ميں

هيات the face, countenance, aspect, exterior form, the form, figure or aspect of the heavens! astronomy. بمعنے صورت شکل - اور نام ايک علم کا جس سے آسمانوں کي شکليں اور زمين کے کره کا حال معلوم هو

هياکل *pl* of هيکل. (see below). جمع هيکل کي

هيبت *f.* fear, timidity, a panic, respect, reverence, awfulness, gravity, sternness, severity, dignity, majesty, grandeur! authority. خوف - ڈر - خوف کرنا - بزرگ رکهنا

هيت come hither! approach! بمعنے پيدا سا

هيج raising (dust), provoking (to anger), perturbation, fury, agitation. - غبار پراگيختة هونا - جوش ميں آنا

هيچ nothing, never, at no rate, on no account, also, something. کچهه تهوڑا - معدوم

هيجا war, a battle, a combat. - جنگ لڑائي - کارزار

هيجان provoking (to anger), fury, agitation. برانگيختگي - جوش ميں آنا

هیچکاره *m.* one who does not succeed in his labours, unfortunate in every undertaking. نالائق - بے فائدہ - کسي کام کا نهیں

هیچکس nobody, worthless, somebody. - نالائق کوئي شخص

هیچگونه by any means. کسي طرح

هیچ مرد *m.* a decrepit old man. مرد ضعیف

هیربد *m.* a servant who lights the fires in the tombs of the Magi. خادم آتشکده

هیز *m.* a eunuch, hermaphrodite. - هیجڑا مخنث

هیزم a staff, a stick. dry wood for burning. سوکهي لکڑي جلانے کي

هیزم کش *m.* a carrier of wood or one who lays it for kindling a fire, wood-cutter or seller. لکڑهارا - لکڑي لاکر بیچنے والا

هیص throwing away, ejecting, violence, bruising the neck, also slenderness of neck, the dung of birds. - کسي چیز میں سختي کرنا - درشتي - سختي - گردن پر مارنا - پرند جانور کي بیٹ بمعنے گوہ

هیصم *m.* a lion. شیر درنده

هیضه *m.* a relapse into distress of mind or body, the cholera *morbus*, a flux and vomit. کهانے کي بد هضمي - ایک قسم کا مشهور مرض جس میں بهت دست آتے هیں

هیف excessive thirst, oppression, tyranny, violence, a hot wind. - پیاس کي سختي - ظلم ستم - گرم هوا

هیف slender round the waist, clung or contracted in the belly, a hot wind. کمر کي باریکي - گرم هوا

هیفان *m.* very thirsty. بهت پیاسا

هیفاء *f.* slender-waisted (woman). عورت پتلي کمر کي

هیکل a figure, image, face, form, the stature or shape of the body, a temple of idolaters, a Christian church, a long tall horse, an amulet or talisman inscribed with magic figures, hung round the body as a defence against fascination or misfortune, a palace, a stately edifice, a spring habitation, anything large in size, a colossus, a giant, a tall plant. - بڑا ڈیل ڈول - بڑے ڈیل ڈول کا گهوڑا - عظمت - شکوه - دبدبه - بلند مکان - اونچي عمارت بتخانه - صورت - شکل - حمائل - تعویز

هیل *f.* white cardamum. سفید الایچي

هیلاج the time of labour or birth, a horoscope, in astrology a figure or scheme of the heavens from which to cast nativities and foretell events. حساب نجومیوں کا جس سے مولود کي عمر وغیره دریافت کرتے هیں - جنم پتري - زائچه مولود

هیم *hem*, falling in love with a woman, excessive thirst, distracted with love, turning one's face towards anything. عشق میں سرگشته هونا - سرگشتگي - بهت پیاسا هونا - کسي چیز کي طرف منهه کرنا

هیم *him*, *m.* thirsty (men and camels). آدمي اور اونٹ بهت پیاسے

هیم *him*, dry wood for burning. سوکهي لکڑي جلانے کي

هیمان distracted with love, wandering about like a madman, from love of any other cause. حیراني - سرگشتگي

هیمه dry wood for burning. - کے جهاڑ سے سوکهي لکڑي جلانے کي

هیمیا *m.* magical art, sorcery, witchcraft. سیمیا - حروف سے عام طلسم

هین *hin*, have a care ! make haste ! thus, in this manner, one, only, just now, leave, let it go, run ! خبردار هو - جلدي کر - اس طور سے - ایک - ابهي - چهوڑ دے

هین *haiyan*, *a.* quiet, easy, gentle. - آسان سهل

هیولا / هیولی } *m.* matter, the first principle of every thing material. هیولا کے معنے مادہ - ماهیت هر چیز کي - هر شے کي اصلیت

هیولاني material. منسوب طرف هیولا کے جو بمعني ماده اصلي کے هے

هیون *m.* a horse, a camel (*esp.* one that carries the هودج). گهوڑا - اونٹ (خاص کر بار برداري کا)

هیهات *int.* of alas ! ah ! (also of wonder) strange ! wonderful ! افسوس - فارسي میں بمعني تعجب و تحیر کے مستعمل هے

— ي —

ي *ye*, The thirty-second and last letter of the Persian alphabet and the twenty-eighth and last letter of the Arabic alphabet. It is added often to Arabic and Persian nouns in a variety of different senses. In arithmetic it expresses 10, and in the almanacs it is the character for Jupiter, and the sign Aquarius. In Arabic, when annexed to a primitive noun, it forms a derivative, as انسان a man, انساني human, etc. It follows the first of two nouns, if ending in الف or و as میوها fruits, میوهاے شیرین sweet-fruits, |

یا or, either, O! حرف ندا کا هے - فارسي میں حرف عطف کا اور اقاوہ تردید کا ہوتا هے

یا اسفي (interjection of) alas! ah! strange! wonderful! also a particle of complaint. واے - افسوس - فریاد - آہ - کبهي بجاے تحیر اور تعجب کے بهي إستعمال هوتا هے

یا الله O God! اے خدا

یاب the preterite and participle of یافتن to find, find (thou). امر هے یافتن سے بمعني معلوم کر

یابس a. dry, naturally dry. - خشک - سوکها هوا خشکي کرنے والا

یا تخت یا تخته a throne or a winding sheet! victory or a glorious death. تخت یا کفن

یا ڈبه کردن to ask, to beg. مانگنا

یابیدن inf. to find. پانا

یابو m. a pony, Galloway nag. a horse employed in carrying a load. بوجهه گهوڑا لے چلنے والا - ٹٹو - چهوٹا گهوڑا

یاجوج و ماجوج Gog and Magog, Magog the son of Japhet. نام ایک قوم کا جس کے لوگ نهایت زبردست تهے - اولاد یافث بن نوح سے تهے

یادبود a memorial figure, image, monument, anything memorable, worthy of remembrance, or which recalls a person or thing to memory, a valuable present to a mistress or friend. یاد گار

یاداشت f. a memorandum. یاد - یاد رکهنے کي نشاني

یاد گرفتن } to remember, to recollect, to
یادداشتن } make mention, to keep in memory. یاد کرلینا

یاد گار anything given as a memorial, a valuable present to a mistress or friend, a monument, anything memorable, worthy of remembrance, or which recalls a person or thing to memory, (met.) the son. نشان - مجازاً فرزند

یاد جناب مولا the remembrance or invocation of God. خدا کو یاد کرنا

یادگاري f. remembrance. بمعني یاد گار

یار a friend, a lover, companion, comrade, an assistant, a defender, (contr. form of یارا), strength, force. دوست - مدد گار اور مخفف یارا کا جو بمعني طاقت هے

یارا O friend! boldness, strength force, the power of resistance. - زور - طاقت - قوت توانائي - حوصلہ

یاران pl. of یار. جمع یار کي

یارانه a. friendly. دوستانه - دوستي کے طور پر

یارائي f. remedy, help, cure. مدد - چارہ و علاج

یارب O Lord! O God! اے پروردگار

یارد the third person fut. of یارستن What's in one hand or power whatever is possible or can be performed. سکنا - طاقت رکهنا

یارستن inf. to inculcate good morals, to teach politeness, to educate well, to be modest or bashful, to be able. طاقت - سکنا رکهنا - دست دراز کرنا

یارفروشي praising a friend. دوست کي تعریف اور تحسین کرنا

یارق a. bright, white. روشن - سفید

یارگي f. strength, force, the power of resistance قدرت - توانائي

یارنامه m. a good deed کار نیک

یارہ m. a bracelet. کنگن جو زیور کي ایک قسم هے

یاري assistance, aid, favour, (met.) friendship, intimacy. مدد کرنا - مجازاً دوستي

یاریگر m. a helper, a friend. مدد گار

یازان a. attacking one who intends or endeavours to acquire any thing. حملہ کرنے والا - دست دراز کرنے والا

یازدہ در the eleven holes in a human body. کنایہ هے گیارہ سوراخوں سے جو انسان کے جسم میں هوتے هیں

یازدہ a. and n. eleven. (۱۱) گیارہ

یازدهم ord. of eleven, the eleventh. گیارهواں حصه

یازش intention, extension, oppression. - قصد اراده - بالیدگي - دست درازي

یازہ m. trembling, shaking, a tremor. - لرزہ کپکپي

یازیدن inf. to yawn, to stretch out the arms, enlarging, growing. - بڑهنا - دست درازي کرنا کسي کام کے ارادہ سے هاتهه بڑهانا

یاس despairing, despair, desperation, hoplessness, despondency, a desperate thing. نا امیدي

یاس (cont form of یاسمن), jasmine. مخفف یاسمن کا - چنبیلي کا پهول

یاسا m. lamentation, (met.) slaughter, plunder, pillage, retaliation. ماتم - مجازاً بمعني قتل - غارت - لوٹ - قصاص

یاسج m. an arrow having a head, (according to some), a spear, (sometimes) the sighs of the oppressed. تیر پیکان دار - اور بعضوں نے بمعني نیزہ لکها هے - اور کبهي مراد مظلوموں کي آہ سے

یسار the left side, gaming with cards, or dice, gambling, a gambler. بائیں طرف ۔ قمار باز ۔ جواری

یاسم / یاسمن / یاسمین / یاسمن { Jasmine, a fragrant herb, bearing white or yellow flowers چنبیلی کا پھول خوشبودار جو دو طرح کا ہوتا ھے زرد و سفید

یاسہ m. a royal mandate, an edict, a proclamation, a law, code of law, punishment, retaliation. آرزو ۔ حکم ۔ قانون ۔ سیاست ۔ قصاص

یاغ grease, oil, varnish. روغن

یاغی m. an enemy, disobedient, rebellious. دشمن ۔ نافرمان

یافتن inf. to find, to discover. پانا (جراحت یافتن) to be wounded (زخمی ہونا).

یافتن بازی to be deceived, to be defrauded. فریب کھانا

یافع m. tall, a young man or woman about twenty years of age. جوان بلند بالا

یافوخ m. the crown of the head. آدمی کا تالو

یافہ m. lost, non-existent, a foolish speech, absurd, obscene. گمشدہ ۔ معدوم ۔ بیہودہ باتیں ۔ پوچ ۔ واهیات

یافہ درای m. a babbler, one who talks foolishly. بیہودہ گو

یاقوت m. a ruby, also sapphire, a precious stone. ایک جواهر بیش قیمت کا نام

یاقوت احمر m. a red gem, a ruby. سرخ یاقوت

یاقوت کبود m. a blue gem, a sapphire. نیلا یاقوت

یاقوت خام (met.) lips of a mistress. کنایہ ھے معشوق کے ہونٹھ سے

یاقوت رمانی m. a gem resembling a pomegranate seed. وہ یاقوت جس کا رنگ انار کے دانے سے مشابہ ہو

یاقوت روان (met.) the red wine, the bloody tears. کنایہ سرخ شراب سے اور اشک خونی سے

یاقوت سربستہ (met.) shut lips. کنایہ لب خاموش سے

یاقوت ناسفتہ m. evening, twilight, the horizon. مراد شفق سے

یاقوت نوش m. a wine glass. شراب کا پیالہ

یاقہ m. a pocket گریبان جامہ کا

یال f. the neck, (met.) a horse's mane, a bird's comb or crest, stature, shape, posture, the arm, the hand, both the hands, corpulent, big, strong, a hero, an athlete. گردن ۔ مجازاً گھوڑے کی گردن کا بال

یال بستن id. to be proud, to boast, to give one's self airs, to act with affectation. غرور کرنا ۔ اترانا ۔ تکبر کرنا

یال کو پال pomp, dignity, splendour, show. شان ۔ شوکت

یالہ m. a bull's horn. بیل کا سینگ

یالیت may it happen! God send! would that! (note that لیت means a desire for an object impossible to obtain whereas لعل for an object possible to obtain) کاشکے ۔ لیت ایسی چیز کی آرزو کے لیئے ھے جسکا حاصل ہونا ناممکن ہو برخلاف لعل کے کہ وہ ایسی چیز کی آرزو کے لیئے جس کا حصول ممکن ہو

یام / یامہ { m. a post horse (great care was formerly taken to keep horses on the public roads for the king's messengers and travellers). وہ گھوڑا جو منزل پر واسطے ڈاک کے رہتے ہیں

یامن the right side. جانب راست

یانع m. a fruit which ripens on the tree. وہ میوہ جو درخت کی ڈالی پر پکتا ھے

یاور m. an assistant, a coadjutor. مددگار

یاوری f. assistance, victory, society, company. مددگاری

یاوگی f. foolishness, stupidity, loss, ruin. بیہودہ گوئی ۔ گم ہونا

یاوگیان pl. foolish, stupid, vain, depraved. بیہودہ لوگ ۔ گم راہ لوگ

یاوہ lost, ruined, vain, stupid, foolish, futile, absurd. گم ۔ ناپدید ۔ بیہودہ

یاوہ گو m. a babbler, one who talks foolishly. بیہودہ گو

یاوہ کردن to lose. گم کرنا

یاہو m. name of a kind of pigeon. ایک قسم کے کبوتر کا نام

یاے معکوس the inverted (یے). (یا) لمبی اور بڑی اس شکل کی (ے)

یباب a. deserted, ruined, laid waste, destroyed, corrupted, spoilt, putrid. خراب

یبروح / یبروح الصنم { the root of a kind of grass called *Mandragora*. ایک قسم کی گھاس کی جڑ ھے جو مشابہ صورت انسان سے ہوتی ھے اور نر و مادہ ہوتی ھے ۔ مردم گیا

یبس yubs / یبس yebas { a wet place becoming dry, withered, dry, producing nothing. خشک ہونا

یبوست f. dryness, aridity. خشکی

یتاق guard, vigilance, keeping, watching. پاسبانی ۔ چوکی ۔ پہرا

یتاقی m. a guard, a watchman. چوکیدار ۔ پاسبان

يتامى (*pl.* of يتيم), orphans. جمع هے يتيم كي - بے ماں باپ کے لڑکے

يتوع *m.* any tree producing poisonous milk as Asclepias gigantea, etc هر درخت جس ميں سے زهريلا دودهه نكلے مثل مدار اور زقوم وغيره كے

يتيم (*pl.* يتامى), an orphan, a child whose father is dead, singular, unique, rare, uncommon, incomparable. وه بچه جس كا باپ موگيا هو - بے نظير - بے مانند

يتيم الطرفين a child who has lost both his parents, (also) a slave, a thief, a robber, a knave. وه بچه جس کے ماں باپ دونوں نهوں اور بمعني غلام اور دزد - چور - اور عيار کے بهي آيا هے (قيمتي بے نظير موتي) a precious pearl.

يثرب *n.* name of the sacred city of Medina in Arabia. نام مدينه منوره كا

يحيى *n.* St. John the Baptist, name of a very liberal man. نام ايک پيغمبر كا - نام ايک بهت بڑے سخي كا

يحمور *m.* a two-horned forest animal resembling a deer, but swifter, wild ass. جنگلي گدها گور خر

يحموم *m.* black smoke, dark night, name of Na'man Bin Manzar's horse. - كالا دهواں اندهيري رات - نعمان بن منذر کے گهوڑے كا نام

يخ the snowflakes. برف جو پهاڑوں پر اور جنگلوں ميں جمع هو كر مثل سفيد پتهر کے هو جاتي هے

يخچه *m.* hail, a hail stone. ژالہ - اولا

يخ در بهشت a kind of Hulwa. ايک قسم كا حلوا

يخدان *m.* a box or almirah in which dainties of various sorts are kept. وه صندوق يا الماري جس ميں اقسام طعام و حلوے وغيره رکهيں

يخشي *a.* blessed, good, fortunate. - مبارک خوب نيک - بهتر

يخني boiled meat and spices, gravy, stew, sauce. پكا هوا گوشت

يد *m.* the hand, bounty, favour, wealth, goodness, strength, kindness, power, submission, surrender, benefit, service, assistance, aid, protection, disgrace. - هاتهه نعمت - دولت - نيكي - احسان - قدرت - قوت - توانائي - خواري - خوابي

يدبيضا the (miracle of the) radiant hand, (يد, the hand, بيضا, the sun), (*met.*) the miracle. هاتهه روشن و سفيد مراد موسى كي هتيلي سے

يدبيضا نمودن *id* to show a miracle, to do a wonder. كرامات ديكهانا

يدوضع كردن / يدتسليم كردن } to consign, to deliver into one's hands. ايک کے هاتهه ميں سپرد كرنا

يدين (dual) both hands دونوں هاتهه

يرش leave, permission, attention رخصت - توجه

يراق *m.* martial arms, military arms, accoutrements. فوج کے هتيار

يرع a reed of which they make pens, and also one of which they make flutes, a fire-fly, a coward. - وه نے جس كا قلم بنتا هے وه نے جس كو بجاتے هيں يعني بانسري - جگنو جو رات كو چمكتا هے - مرد بددل

يرغا *m.* an amble (pace of a horse). گهوڑا تيز رفتار

يرغو forbidden, prohibited, contention, dispute, litigation, quarrel, punishment. سياست

يرقان the yellow jaundice, the king's evil, paleness. آنكهه اور بدن كي زردي

يرليغ *m.* a diploma, letter patent or royal mandate شاهي فرمان

يره *m.* the earth. زمين

يزد *n.* a city in the most Eastern part of Faras or Persia proper famous for the manufacture of a cloth called. نام ايک شهر يزدي كا فارس سے

يزدان *m.* God, Omnipotence. نام خدا کے ناموں سے

يزد جرد *m.* name of a king, the grandson of Nausherwan the Just, name of several kings of Persia of the Sassanian race. نام ايک بادشاه كا جو نوشيرواں عادل كا پوتا تها

يزدي an inhabitant of Yezd. شهر يزد كا رهنے والا

يزغند *m.* name of a tree, a hunting dog, the cry of the lynx. ايک درخت كا نام - شكاري كتا

يزک *m.* the commander of the night guard or watch, the advanced guard of an army, (also an army.) محافظان لشكر وه تهوڑے سوار جو اپني فوج کے آگے آگے چليں تاكه دشمن كي فوج سے اپني فوج كو خبردار كرين - اور بمعنے مطلق فوج کے بهي

يزنه *m.* the sister's husband, brother in-law. بهن كا شوهر - بهنوئي

يزيد *m.* the name of three Caliphs of the house of Omiya, name of an arch heretic among the Muhammedans, wicked, cruel, cursed, execrable. - نام تين خلفاء كا - ظالم لعنتي

يسار plenty, opulence, affluence left, the left side. - طرف دولتمندي - توانگري - ثروت بائيں هاتهه - بائيں

يسارت *f.* prosperity ease, happiness, affluence, opulence. تونگري - دولتمندي

يساق momentous business, preparation for war, court, a tribunal, a minister. مهم - جنگ كي طياري - ديوان - دربار

يسال a body of troops, a rank, file or row. فوج كا پره

يساول *m.* a servant of parade carrying silver or gold staff, a state messenger, a horse man attendant on man of rank. - بر تزك زيب - چوبدار

يسر *yusr,* يسر *yusur,* } facility, lenity, softness, easy, soft, gentle, humane. آسان هونا - آساني

يسر *yesir*, easy. آسان - سهل

يسل a body of troops, a rank, file or row. فوج كا پره

يسير *a* small, little, easy. تهوڑا - آسان

يشب (*corr.* form of يشم), Jasper (especially a whitish kind found on Mount Imaus). معرب يشم كا - نام ايك قيمتي پتهر كا

يشك *m.* a canine tooth, the projecting tusk of a hog. اونٹ بهيڑيے كتے گهوڑے وغيره كا تيز دانت جس كو هندي ميں كچلي كهتے هيں

يشم *m.* a species of Jasper or agate. نام ايك پتهر قيمتي كا

يشمه *m.* raw white leather. سفيد كچا چمڑا

يعسوب *m.* the king of the bees, the prince or chief of a nation. - شهد كي مكهيوں كا سردار سردار قوم

يعسوب المومنين *m.* a title of 'Ali. علي كا لقب

يعقوبي كردن love-making, amorousness. عاشقي كرنا

يعمور *m.* a kid, a lamb. بكري اور بهيڑي كا بچه

يعني *p t.* intends, wishes, desires, resolves. قصد كرتا هے - چاهتا هے

يعوق *m.* an idol supposed to have been worshipped in the time of Noah. قوم نوح كے بت كا نام

يغما *m.* prey, plunder, booty, spoil, pillage, name of a city in Turkistan. - تاراج - غارت لوٹ ليا گيا

يغمائي plundered, pillaged, an inhabitant of Yaghma لوٹ ليا گيا - ملك يغما كا رهنے والا

يغوث *m.* an old Arabian idol نام ايك بت كا

يفع a hill, a rising mound. زمين بلند

يفن *m.* a very old man. بهت بوڑها مرد

يقطين a gourd, or any similar creeping plant. كدو كا درخت - هر درخت جسكي بيل چلتا هے

يقظ يقظان } *m.* waking, watchful, vigilant, provident, circumspect. - جاگتا هوا بيدار (ابو يقظان) the father of vigilance, *i e.*, the cock. مرغ

يقظه *m.* a night-watch, a sentry, vigils, lucubrations watching, being awake, a watch of the night. بيداري

يقين certainty, the true faith, truth infallibility, evidence, knowledge, science opinion, belief, death, fate. - بيشك - بے شبهه اور بمعنے موت كے بهي

يكتا *a.* one, sole, unique, singular, incomparable, a person unequalled in everything ايك بے مانند

يكايك *adv* suddenly, all at once, one by one, one opposed to another. اچانك - هر ايك

يك بغل every one, all, suddenly. - هر ايك تمام - اچانك

يك پشت ناخن a small quantity مقدار تهوڑا

يكتار somewhat, a little. تهوڑا - اندر كے

يك تن a single person, an individual. ايك شخص

يك جلو *a.* swift, amble, fast going. تيز رفتار

يكجهت *a.* of one accord, unanimous, a friend. موافق - متفق

يكچشمي seeing the good and bad with one eye. نك نيت و بد كو ايك نظر سے ديكهنا

يكدست *a.* alike, homogenous, ever, entire. يكسان

يكدله *a.* unanimity, concord, harmony, brave, heroic. متفق - بهادر

يكدل و يكجهت شدن to agree in all things, unite, content, conspire. سب باتوں ميں ايك ساتهه راضي هونا

يك دندانه *a.* alike, homogenous. يكسان

يكران *m.* a light bay, dun, chestnut or flea-bitten horse, (esp.) a horse with a white mane and tail, the rest of a reddish colour, a fine horse. اشقر گهوڑا يعنے جسكا رنگ سرخ هو اور ايال اور دم كے بال سفيد هوں و گهوڑا عمده اور خوب

يكران توسن *m.* a horse of a fine breed. گهوڑا جو اصيل اور عمده هو

يك رقيب God Almighty خدايه حق تعالى سے

يك رنگي *f.* friendship, love, affection. - اخلاص بے اتفاقي

يكرو *m.* an intimate friend, a true friend, unanimously, of one face, sincere. سچا دوست

يكرو كردن visit interview, meeting, giving up a thing altogether. ملاقات وغيره - نسي بات كو بالكل قطع كر دينا

يك زباني unanimity, concord, agreeing with one voice. يگانگي

يكسر under one head, subject to one chief, together, in one body, at one stroke, from head to foot. سراپا - سر سے پاؤں تك

یکسر wholly, entirely, all. تمام و کمال - سب

یکه‌تاز a. alone, solitary, lonely, sole, single. تنہا اکیلا

یکتا a. unparalleled, unequalled, perfect, well versed, master. بے مانند - کامل - استاد

یکقلم consistent (a writer), all, total, all at once. بالکل - تمام

یکمشت خاک (met.) the earth (in derision). کنایۃ زمین بطور حقارت سے

یک‌کلمه زدن to say something. کچھ کہنا

یک نعل a large quantity. کنایۃ بہت مقدار سے

یکے one, somebody, a certain person.

یکے بودن to be contented, to be of one mind. یکدل ہونا

یک‌ پا بودن to withdraw from fear, to be confounded, be distressed. کسی کے خوف سے پیچھے ھٹنا - حیران و [illegible]

یل a hero, a brave, athletic warrior, valiant, free. پہلوان - شجاع - بہادر - [illegible]

یلاق m. name of a Turk King. نام بادشاہ ترک کا

یلمه m. the skin of the back of a wild beast, of which they make shields, helmets, and other armour for the body, without iron, any defensive armour made of leather. ایک قسم کی زرہ جو بعضے حیوان کی کھال سے بناتے ھیں

یلدا the dark night, the longest night of winter. شب تاریک - نام ایک رات کا جو سب راتوں سے بڑی اور اندھیری ھوتی ھے

یلغار over-running an enemy's force, attack, assaulting, an incursion, expedition دھاوا کرنا دشمن کی فوج پر - دوڑ لے جانا

یلمق } a garment quilted with cotton,
یلمه } which opens at the side from the armpits to the lower extremity, a kind of four square cloak or mantle, a coat of mail made with rings of iron. بمعنی قبا

یلمه yulma, bran, oil cake, etc., on which the animals are fed. نہلی - بھوسی وغیرہ جانوروں کے کھلانے کی

یلوایه a swallow, a woodcock. ابابیل جو مشہور پرند ھے - جنگلی مرغ

یلوج m. a prophet, a divine messenger. بمعنی پیغمبر

یلوک m. an athletic man, a warrior, a hero, a champion. شجاع - بہادر - پہلوان

یله a. released, free, the one driven out, running, f. a harlot, a prostitute. رھا شدہ جو چھوڑ دیا گیا ھو - آزاد - بے قید - جو نکال دیا گیا ھو - دوڑتا ھوا - زن فاحشہ

یله کردن to release, to set free, to expel. آزاد کر دینا - رھا کرنا - نکال دینا

یم m. the sea, the river, the ocean. دریا - سمندر

یمام n. a turtle dove, a wood pigeon. جنگلی کبوتر

یمامه m. a wood-pigeon, f. name of an Arabian lady celebrated for her fine blue eyes and an acute sight, name of a place. جنگلی کبوتر - نام ایک عورت کا عرب میں جسکی آنکھیں نیلی تھیں اور بہت ایسی تیز نظر تھی کہ تین دن کی راہ سے آدمی وغیرہ کو پہچان لیتی تھی

یمانی a native or any thing belonging to Yemen which is on the right hand side of Ka'aba. منسوب طرف یمن کے جو نام ایک ملک مشہور کا ھے

یمن yumn, felicity, prosperity, happiness, blessedness. مبارک ھونا - مبارکی

یمن the right hand or side, approaching one on the right side, a country on the right hand, Arabia Felix. نام ایک مشہور ملک کا جو کعبہ کے داھنی طرف واقع ھے

یمه victuals (presented with the right hand). خوراک

یمین m. the right hand, side or part, an oath, strength, power, blessing, felicity, plenty, dignity, rank. داھنا ھاتھ - داھنی طرف - قسم - قوت - توانائی - منزلت - مرتبہ

ینابیع (pl. of ینبوع) large fountains of water. جمع ینبوع کی بڑے چشمے پانی کے

ینبوع m. a fountain, a jet d'eau. بڑا چشمہ پانی کا

ینجیدن inf. to divide into parts, to mince small, to dry the flesh, to beat, to bruise, knock, to reduce to powder, to be affiliated. حصے حصے کرنا - قیمہ کرنا - گوشت سکھلانا - کچلنا - مہین کرنا - آزردہ ھونا

ینگ law, rule, custom, name of an island. آئین - روش - اور نام ایک جزیرہ کا

ینگا f. a sister in-law, brother's wife, aunt, the mistress of family, (also a waiting maid, a woman who combs hair, a bride dresser, ago between. بھائی کی جورو - چچی - کدبانو اور بمعنی مشاطہ

ینوشه m. a sycophant, who listens to the conversation of others to inform against them. بھیدیا - سخن چین - لتوا

یواش m. a led horse. کوتل گھوڑا

یواقیت (pl of یاقوت) sapphires, agates. جمع یاقوت کی جو ایک قیمتی جوھر ھے

یوبب n. name of Shai'bs father. شعیب کے والد کا نام

یوح m. the sun. آفتاب

یورش attack, assault, expedition. دشمن پر حملہ کرنا - دھاوا کرنا - دوڑ لیجانا

یوز (*pl.* یوزان), a panther, a pard, a lynx, searching, seeking ایک درندہ مشہور جسے چیتا کہتے ہیں - اور بمعنے ڈھونڈھنا - تلاش کرنا

یوز a hundred (number). سو عدد

یوز باشي chief of a hundred men. سو آدمي کا سردار

یوزبان *m.* the keeper of the panthers چیتہ پالنے والا

یوزہ *m.* the trunk (of a tree). درخت کا تنہ

یوزیدن *inf.* to search, to seek, to find. ڈھونڈھنا - طلب کرنا - تلاش کرنا

یوزانیدن *inf.* to cause to leap, etc., transitive of یوزیدن کدوانا ·

یوس *a.* desponding, despairing, desperate. نا اُمید

یوسف *m.* Joseph, the patriarch نام ایک مشہور پیغمبر کا

یوسف ثاني *m.* a second Joseph, *i.e.*, extremely beautiful. دوسرا یوسف یعنے نہایت خوبصورت

یوغ *m.* a yoke for oxen. وہ لکڑي جو بیل کي گردن پر رکھتے ہیں - ھندي جوا

یوفي *m.* a babbler, talking foolishly. واو معروف سے بیہودہ گو

یوک *m.* a house built on a mountain. وہ گھر جو پہاڑ پر بنایا جاے

یول *m.* way, road, path. راہ - رستہ

یولچي *m.* a collector of duties on the road, a guard, a mendicant who sits on the road and begs for alms. راھدار - وہ فقیر جو رستہ پر بیٹھکر لوگوں سے سوال کرے

یوم (*pl.* ایام), a day, or twenty-four hours, (day in contradistinction to night being called, نہار). روز - دن

یوم الحساب *m.* the day of judgment. قیامت کا دن

یوم التناد *m.* the day of complaint, *i.e.*, the judgment day. دن فریاد کا یعنے روز قیامت

یوم النشور *m.* the day of judgment. کنایہ قیامت کے دن کا

یومیہ *m.* daily, every day, for one day, daily pay, provisions or any allowance per day. روزینہ هر روز کا معمول

یومئذ then, on that day. تب - اُس دن

یوں a felt or woolen saddle cloth, colour. نمدا - رنگ

یونان Jonas, Greece, the Greek nation from the son of Japhet. نام ایک ملک کا جو بنام یونان بن یافث بن نوح کے آباد ھوا تھا

یونانیان *m.* the Grecians. یوناني لوگ

یونس *m.* Jonas, who was swallowed up by a whale. نام اُس پیغمبر کا جسے ایک بڑي مچھلي نگل گئي تھي

یونغار a kind of small Turkish lute, with three strings. ایک قسم کا ترکي باجہ سہ تارہ

یوس desponding, despairing, desperate. نا اُمید

یویدہ *m.* ... intention, resolution. قصد - ارادہ - عزم

یهوت *m.* timid, coward, wise, intelligent, quick of apprehension. ... زیرک - عقلمند - تیز طبع

یهود (*pl.* of یهودي), the Jews. جمع یهودي کي

یهودا *m.* ... the eldest brother of Joseph by the first wife of Jacob. یوسف کے سب سے بڑے ... کي پہلي بیوي سے تھے

یهودي *m.* a Jew, a Hebrew, Judaical. ... ایک ...

یهودي شدن *id.* to play the Jew, to be avaricious, to deceive in trade ... تجارت ... دغا دینا

یهودي a kind of sea fish. ایک قسم کے سمندر کي مچھلي

یهیدن *inf.* to lose, to ruin, to corrupt, to destroy, to demolish, to erase ... ہلاک کرنا - مٹانا

یهیر hard, a hard stone ... which fills the hand, the ... called طاع as being hard, any thing ludicrous or trifling, the ... called سواب, a lie, contention litigation, dispute, colocynth or wild gourd, venom, poison, an animal resembling a rat, but larger, سخت - سخت پتھر - ایک قسم کا گوند - حقیر چیز - جھوٹھہ - دروغ - جھگڑا - لڑائي - اندرائن جو ایک نہایت تلخ پھل ہوتا ھے - زھر - نام ایک قسم کے جانور کا جو مشابہ موش ھوتا ھے

یلاق *m.* a summer-house, a cool and airy place for one to live in during summer. گرمي میں رھنے کا ھوا دار اور سرد مکان


یلان *sing. m.* a snake. مفرد ہے بمعني سانپ

ییل *m.* the year. سال

یین the time between the first dawn and sun rise, the name of a place in Arabia Felix, and of a district near Medina, also of a valley, a river, and a fountain. تڑکے - صبح سے سورج نکلنے تک کا وقت - یمن میں ایک مقام کا نام - مدینہ میں ایک جگہہ کا نام - نام ایک وادي کا - ایک دریا اور ایک چشمہ کا

THE END.

Printed by RAMZAN ALI SHAH at the National Press, Allahabad.


solutio
timid, rd, wise inter
apprehensio
the Jews.
the eldest brother
the Jew, to be
rupt, to
harm
any thing


COMPILED